

Sunan Kubra Bayhaqi 1

Arabic Text:

:أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا (١)
يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى قَالَا حَدَّثَنَا
أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا
الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ.

ح (وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ: الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ
خَبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ الرَّوْدُبَارِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِ السُّنَنِ
بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ دَاسَةَ بِالْبَصْرَةِ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ
سُلَيْمَانَ بْنُ الْأَشْعَثِ السَّجِسْتَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ
مَالِكٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ مِنْ آلِ ابْنِ
الْأَزْرَقِ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ
- أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ)): سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ -
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ
الْمَاءِ ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا ، أَفَنَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -)) : بُو الطَّهْرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَبِيتُهُ (-).
وَقَدْ تَابَعَ الْجَلَّاحُ أَبُو كَثِيرٍ صَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمٍ عَلَى رِوَايَتِهِ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: سمندر کے پانی کے ساتھ طہارت حاصل کرنے کا بیان

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے { وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا }

[الفرقان ۴۸] ” [اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل

” کیا۔ { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا] [النساء ۴۳]

پھر اگر پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو۔ “ابو عبداللہ

محمد بن ادريس شافعی) رح (فرماتے ہیں: قرآن کے ظاہر

سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر پانی پاک ہے خواہ وہ سمندر کا ہو یا

کوئی اور، اس کے متعلق نبی کریم ﷺ سے حدیث بیان کی گئی

ہے جو قرآن کے ظاہر کے موافق ہے اور اس کی سند کے سقم

کو میں نہیں جانتا۔

: پھر اس حدیث کو ذکر فرمایا

حدیث نمبر: 1

:ترجمہ

(۱) (سیدنا مغیرہ بن بردہ نے حضرت ابوہریرہؓ کو فرماتے

ہوئے سنا: ایک شخص نے رسول اکرم ﷺ سے پوچھا: اے اللہ

کے رسول! ہم سمندر میں سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ

تھوڑی مقدار میں پانی لے کر جاتے ہیں، اگر ہم اس پانی

کے ساتھ وضو کریں تو ہم پیاسے رہ جائیں، کیا ہم سمندر کے پانی کے ساتھ وضو کر لیں؟ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " :ہاں " اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on attaining purity with Sea Water

Allah says (interpretation of the meaning):

{ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا }

{And We sent down from the sky pure water}

[Surah Furqan 25:48]

{ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا }

{And (if you) find no water, then seek clean earth}

[Surah Nisa 4:43]

Abu Abdullah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i (may Allah be pleased with him) said: It is clear from the Quran that all water is pure, whether it is from the sea or somewhere else.

A hadith has been narrated from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) in this regard, which is in accordance with the Quran and I do not know the extent of its authenticity.

Hadith number: 1

Translation:

(1) Syedna Mughira bin Barda heard Hazrat Abu Hurayrah (may Allah have mercy on him) saying: A man asked the Holy Prophet (peace and blessings of Allah be upon him): O Messenger of Allah! We travel in the sea and take a small amount of water with us. If we perform ablution with this water, we will be thirsty. Should we perform ablution with the water of the sea? The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: "Yes, its water is pure and its dead is lawful."

[Sahih. Narrated by Nasai 59, 332 and Abu

Dawud 83 and Tirmidhi 69 and Ibn Majah 386
and Ahmad 2/237 and Darimi 755]

Sunan Kubra Bayhaqi 2

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمَّادَ الْعَدْلُ (٢)
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ شَرِيكِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ
حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ حَدَّثَنَا الْجَلَّاحُ أَبُو كَثِيرٍ أَنَّ
ابْنَ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ أَبِي بُرْدَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ
سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - يَوْمًا فَجَاءَهُ
صَيَّادٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَنْطَلِقُ فِي الْبَحْرِ نُرِيدُ الصَّيْدَ
، فَيَحْمِلُ مَعَهُ أَحَدُنَا الْإِدَاوَةَ وَهُوَ يَرْجُو أَنْ يَأْخُذَ الصَّيْدَ قَرِيبًا
فَرُبَّمَا وَجَدَهُ كَذَلِكَ وَرُبَّمَا لَمْ يَجِدِ الصَّيْدَ حَتَّى يَبْلُغَ مِنَ الْبَحْرِ
مَكَانًا لَمْ يَظُنَّ أَنْ يَبْلُغَهُ ، فَلَعَلَّهُ

يَحْتَلِمُ أَوْ يَتَوَضَّأُ ، فَإِنِ اغْتَسَلَ أَوْ تَوَضَّأَ بِهَذَا الْمَائِ فَلَعَلَّ أَحَدَنَا
يُهْلِكُهُ الْعَطَشُ ، فَهَلْ تَرَى فِي مَائِ الْبَحْرِ أَنْ نَغْتَسِلَ بِهِ أَوْ
:نَتَوَضَّأَ بِهِ إِذَا خِفْنَا ذَلِكَ- فَرَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ
((اغْتَسِلُوا مِنْهُ وَتَوَضَّئُوا بِهِ فَإِنَّهُ الطُّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَبِيتُهُ))
ت (وَقَدْ تَابَعَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ وَيَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ
سَعِيدًا عَلَى رِوَايَتِهِ إِلَّا أَنَّهُ اخْتَلَفَ فِيهِ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ :فَرَوَى
عَنْهُ عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مُدَلِّجٍ عَنِ النَّبِيِّ
- ﷺ -

وَرَوَى عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ :أَنَّ رَجُلًا مِنْ
بَنِي مُدَلِّجٍ-

وَرَوَى عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةَ الْكِنْدِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي
مُدَلِّجٍ-

وَرَوَى عَنْهُ عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مُدَلِّجٍ-
وَعَنْهُ عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ-

وَقِيلَ غَيْرُ هَذَا ، وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي اسْمِ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ فَقِيلَ كَمَا
قَالَ مَالِكٌ ، وَقِيلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْمَخْرُومِيِّ-

: وَقِيلَ سَلَمَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَهُوَ الَّذِي أَرَادَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ

فِي إِسْنَادِهِ مَنْ لَا أَعْرِفُهُ أَوْ الْمُغِيرَةَ أَوْ بِنَمَا إِلَّا أَنَّ الَّذِي
أَقَامَ إِسْنَادَهُ ثِقَةً أَوْدَعَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ الْمُوْطَأُ وَأَخْرَجَهُ أَبُو
دَاوُدَ فِي السُّنَنِ-

وَقَدْ رَوَى الْحَدِيثُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ
-النَّبِيِّ ﷺ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: سمندر کے پانی کے ساتھ طہارت حاصل کرنے کا بیان

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے { وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا }

[الفرقان ۴۸] ” [اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل

” کیا۔ { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا] [النساء ۴۳]

پھر اگر پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو۔ “ابو عبد اللہ

محمد بن ادريس شافعی) رح (فرماتے ہیں: قرآن کے ظاہر

سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر پانی پاک ہے خواہ وہ سمندر کا ہو یا

کوئی اور، اس کے متعلق نبی کریم ﷺ سے حدیث بیان کی گئی

ہے جو قرآن کے ظاہر کے موافق ہے اور اس کی سند کے سقم

کو میں نہیں جانتا۔

: پھر اس حدیث کو ذکر فرمایا

حدیث نمبر: 2

:ترجمہ

(۲) (سیدنا مغیرہ بن بردہ نے حضرت ابوہریرہؓ کو فرماتے

ہوئے سنا: ایک دن ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس تھے کہ ایک شکاری آیا اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہم سمندر میں شکار کی غرض سے سفر کرتے ہیں اور ہم میں سے کوئی پانی کا لوٹا بھی ساتھ لے لیتا ہے اور اسے امید ہوتی ہے کہ وہ قریب سے ہی شکار پکڑ لے گا، اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار شکار نہیں پاتا حتیٰ کہ وہ سمندر میں فلاں جگہ تک پہنچ جاتا ہے اور وہ اپنے گمان میں وہاں پہنچنے والا نہیں تھا۔ کبھی اسے احتلام ہو جائے یا وہ بے وضو ہو جائے، پھر اگر وہ اس پانی سے غسل کرے یا وضو کرے تو شاید ہم میں سے کسی کو پیاس ہلاک کر دے۔ آپ سمندر کے پانی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا ہم اس کے ساتھ غسل یا وضو کر لیں جب ہمیں یہ ڈر ہو؟ رسول معظم ﷺ نے فرمایا: اس کے پانی سے غسل اور وضو کرو، اس لیے کہ اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔

یہی حدیث حضرت علی بن ابی طالب، حضرت جابر بن عبد اللہ اور حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے روایت فرماتے ہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement of Purification with Sea Water

Allah says (interpretation of the meaning):

{ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا }

{And We sent down from the sky pure water}

[Surah Furqan 25:48]

{ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا }

{And (if you) find no water, then seek clean earth}

[Surah Nisa 4:43]

Abu Abdullah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i (may Allah be pleased with him) said: It is clear from the Quran that all water is pure, whether it is from the sea or somewhere else. A hadith has been narrated from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) in this regard, which is in accordance with the Quran and I do not know the extent of its authenticity.

Then he mentioned this hadeeth:

Hadith number: 2

Translation:

(2) Syeduna Mughira bin Barda heard Hazrat Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) saying: One day we were with the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) when a hunter came and said: O Messenger of Allah! We travel in the sea for hunting and one of us takes a vessel of water with him and he hopes that he will catch the prey nearby, this is often the case, but sometimes he does not find the prey. Eventually he reaches a certain place in the sea and he did not expect that he was going to reach here. Sometimes he experiences a wet dream or breaks his ablution, then if he performs ghusl or ablution with this water, we may all go thirsty. What is your ruling on seawater? Should we do ghusl or ablution with it when we are afraid of this? The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: Do ghusl and ablution with its water, because its water is pure and its dead is lawful.

The same hadith is narrated from Hazrat Ali ibn Abi Talib, Hazrat Jabir ibn Abdullah and Hazrat Abdullah ibn Amr (may Allah be pleased with them).

[Sahih li ghayrihi (authentic due to external evidence) . Narrated by Ahmad 2/378]

Sunan Kubra Bayhaqi 3

Arabic Text:

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَرَوَى عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ عَنْ (٣) سَعِيدِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِي بِنْدِ الْفِرَاسِيِّ عَنْ أَبِي بُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ ((مَنْ لَمْ يُطَهِّرْهُ الْبَحْرُ فَلَا طَهْرَهُ اللَّهُ)) -

أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ: عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَفِيرِ الْأَنْصَارِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُخْتَارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ ، فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلِ الْفِرَاسِيَّ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: سمندر کے پانی کے ساتھ طہارت حاصل کرنے کا بیان
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے { وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا }

[الفرقان ۴۸] ” [اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی نازل
کیا۔] { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا } [النساء ۴۳]

پھر اگر پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو۔ ” ابو عبد اللہ

محمد بن ادریس شافعی (فرماتے ہیں: قرآن کے ظاہر

سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر پانی پاک ہے خواہ وہ سمندر کا ہو یا

کوئی اور، اس کے متعلق نبی کریم ﷺ سے حدیث بیان کی گئی

ہے جو قرآن کے ظاہر کے موافق ہے اور اس کی سند کے سقم

کو میں نہیں جانتا۔

: پھر اس حدیث کو ذکر فرمایا

حدیث نمبر: 3

:ترجمہ

(الف) (امام شافعی) رح (فرماتے ہیں: عبدالعزیز بن عمر (۳)

نے سعید بن ثوبان اور ابوہند فراسی کے واسطے سے حضرت

ابوہریرہ^{رض} سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا ” جس

جس کو سمندر کا پانی پاک نہ کرے اس کو اللہ

" تعالیٰ پاک نہ کرے۔"

(ابراہیم بن مختار کہتے ہیں: عبدالعزیز بن عمر نے اس جیسی حدیث بیان کی ہے، لیکن فراسی کا نام ذکر نہیں کیا۔)

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement of Purification with Sea Water

Allah says (interpretation of the meaning):

{ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا }

{And We sent down from the sky pure water}

[Surah Furqan 25:48]

{ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا }

{And (if you) find no water, then seek clean earth}

[Surah Nisa 4:43]

Abu Abdullah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i (may Allah be pleased with him) said: It is clear from the Quran that all water is pure, whether it is from the sea or somewhere else.

A hadith has been narrated from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) in this regard, which is in accordance with the Quran and I do not know the extent of its authenticity.

Then he mentioned this hadeeth:

Hadith number: 3

Translation:

(3) (a) Imam Shafi'i (may Allah have mercy on him) says: Abdul Aziz bin Umar narrated from Hazrat Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) through Saeed bin Thawban and Abu Hind Fraasi that the Holy Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "The one who is not purified by sea water, may Allah not purify him."

(B) Ibrahim ibn Mukhtar says: Abdul Aziz ibn Umar has narrated a similar hadith, but did not mention the name of Fraasi.

Sunan Kubra Bayhaqi 4

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ : عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ بَشْرَانَ بِنِعْدَادٍ أَخْبَرَنَا (٤)
إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ
عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَائِلَةَ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
سُئِلَ عَنْ مَيْتَةِ الْبَحْرِ فَقَالَ : بُو الطُّهُورُ مَاؤُهُ الْحَلَالُ مَيْتَتُهُ .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب : پاکی کا بیان

باب : سمندر کے پانی کے ساتھ طہارت حاصل کرنے کا بیان
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے { : وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

[الفرقان ۴۸] ” [اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی } اَطِيْبًا [النساء ۴۳] نازل کیا۔ { “فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا” [النساء ۴۳] ” [پھر اگر پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو۔ ابو عبدالله محمد بن ادريس شافعي (فرماتے ہیں: قرآن کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر پانی پاک ہے خواہ وہ سمندر کا ہو یا کوئی اور، اس کے متعلق نبی کریم ﷺ سے حدیث بیان کی گئی ہے جو قرآن کے ظاہر کے موافق ہے اور اس کی سند کے سقم کو میں نہیں جانتا۔

: پھر اس حدیث کو ذکر فرمایا

حدیث نمبر: 4

:ترجمہ

۴ (عامر بن واثلہؓ فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیقؓ سے سمندر کے مردار کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement of Purification with Sea Water

Allah says (interpretation of the meaning):

{ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا }

{And We sent down from the sky pure water}

[Surah Furqan 25:48]

{ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا }

{And (if you) find no water, then seek clean earth}

[Surah Nisa 4:43]

Abu Abdullah Muhammad ibn Idris al-Shafi'i (may Allah be pleased with him) said: It is clear from the Quran that all water is pure, whether it is from the sea or somewhere else. A hadith has been narrated from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) in this regard, which is in accordance with the Quran and I do not know the extent of its authenticity. Then he mentioned this hadeeth:
Hadith number: 4

Translation:

(4) Amir ibn Wathila says that when Abu Bakr

Siddiq (may Allah be pleased with him) was asked about the dead of the sea, he said: Its water is pure and its dead is halal.
[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 5

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ رَحِمَهُ اللَّهُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمَّادَ (٥)
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ

أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ
 مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيِّ حَدَّثَهُ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي
 بُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى نَفْرٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - فَقَالُوا: إِنَّا نَصِيدُ فِي
 الْبَحْرِ وَمَعَنَا مِنَ الْمَائِ الْعَذْبِ ، فَرُبَّمَا تَخَوَّفْنَا الْعَطَشَ فَهَلْ يَصْلِحُ
 أَنْ نَتَوَضَّأَ مِنَ الْبَحْرِ الْمَالِحِ؟ فَقَالَ: ((نَعَمْ تَوَضَّأُوا مِنْهُ...))-
 وَذَكَرَ الْحَدِيثَ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: سمندر کے میٹھے اور کڑوے پانی سے طہارت حاصل
 کرنے کا بیان
 حدیث نمبر: 5

ترجمہ:

۵ (حضرت ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور عرض کیا: ہم سمندر میں شکار کرتے ہیں اور ہمارے پاس (تھوڑا سا) میٹھا پانی ہوتا ہے۔ ہمیں پیاس کا ڈر ہوتا ہے۔ کیا ہمارے لیے درست ہے کہ ہم سمندر کے نمکین پانی سے وضو کر لیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں! تم اس سے وضو کر لو۔۔۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The Statement on attaining purity
from the Fresh and Bitter Water of the Sea

Hadith number: 5

Translation:

(5) Hazrat Abu Hurayrah (may Allah have mercy on him) says that some people came to the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) and said: We hunt in the sea and we have (a little) fresh water. We are afraid of thirst. Is it right for us to perform ablution with the salty water of the sea? He said: Yes. You can perform ablution with it.

[Sahih li ghayrihi (Authentic due to external evidence). Narrated by Al-Hakim 1/239]

Sunan Kubra Bayhaqi 6

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ (٦)
بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ
عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرْظِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قِيلَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَوَضَّأَ مِنْ بَيْرٍ بُضَاعَةٌ، وَهِيَ بَيْرٌ يُلْقَى فِيهَا النَّتْنُ
وَالجِيفَةُ وَالْمَحِيضُ وَالْكَلابُ؟ فَقَالَ ((:الْمَائُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ
(شَيْئاً))

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ ، قَالَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ :ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ رَافِعٍ-

ق (قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى :وَالْحَدِيثُ عَلَى طَهُورِهِ إِذَا
لَمْ تُلْقَ فِي الْبَيْرِ نَجَاسَةٌ ، فَإِذَا أُلْقِيَ فِيهَا نَجَاسَةٌ فَمَعْنَى
الْحَدِيثِ فِيمَا بَلَغَ قُلَّتَيْنِ وَلَمْ يَتَغَيَّرْ ، وَدَلِيلُهُ يَرِدُ فِي
مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: کنویں کے پانی سے طہارت حاصل کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 6

ترجمہ:

(الف) حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ (۶) رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا: اے اللہ کے رسول! کیا ہم بضاعہ کنویں کے پانی سے وضو کر لیں اور اس میں گندگی، گلاسٹرا گوشت، حیض والے کپڑے اور مردار کتے پھینکے جاتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "پانی پاک ہے اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔"

(ب) (شیخ احمد) رح (فرماتے ہیں: حدیث میں اس کنویں سے طہارت حاصل کرنے پر دلیل ہے جس میں نجاست نہ پھینکی جائے۔ اگر اس میں نجاست پھینکی جائے تو حدیث کا معنی یہ ہوگا کہ جب پانی دو مٹکے ہو اور) اس کا ذائقہ، رنگ اور بو) تبدیل نہ ہوئی ہو۔ اس کا ذکر اصل جگہ پر آجائے گا۔ ان شاء اللہ

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement of Purification from Well Water

Hadith number: 6

Translation:

(6) (a) It is narrated from Hazrat Abu Saeed Al-Khudri (may Allah have mercy on him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) asked: O Messenger of Allah! Should we perform ablution with the water of a well in which dirt, rotten meat, menstrual clothes and dead dogs are thrown into? He said: "Water is pure and nothing defiles it."

(B) Shaykh Ahmad (may Allah be pleased with him) said: There is evidence in the hadeeth to attain purity from a well in which impurity should not be thrown. If impurity is thrown into it, then the meaning of the

hadeeth is that when the water is in two pots and (its taste, color and smell) has not changed. This will be mentioned in its appropriate place (later on). Inshallah [Sahih. Narrated by Nasai 327, 328 and Abu Dawud 66, 67 and Tirmidhi 66 and Ahmad 3/15, 16, 31, 86]

Sunan Kubra Bayhaqi 7

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْعَلَوِيُّ (٧)
رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِلَالِ
الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ
طَهْمَانَ عَنْ عَبْدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي مَعَ
النَّبِيِّ ﷺ - فِي مَائٍ مِنَ السَّمَاءِ وَإِنِّي لِأَذُكُ ظَهْرَهُ وَأَغْسِلُهُ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: بارش کے پانی سے طہارت حاصل کرنے کا بیان
حدیث نمبر: 7

ترجمہ:

(٧) حضرت سعد بن ابی وقاصؓ فرماتے ہیں: میں نے خود کو
نبی کریم ﷺ کے ساتھ بارش کے پانی میں دیکھا کہ میں آپ کی
کی کمر مل رہا تھا اور اسے دھو رہا تھا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on attaining purity from
Rain Water

Hadith number: 7

Translation:

(7) Hazrat Saad bin Abi Waqas (may Allah have mercy on him) says: I saw myself in the rain water with the Holy Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) I was rubbing his back and washing it.

[Daif (Weak). Narrated by Ibn Tahman in his Sheikha 7]

Sunan Kubra Bayhaqi 8

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ (٨)
الْحَسَنِ الْعَدْلُ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
: عَنْ مَجْرَأَةَ بْنِ زَائِرٍ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى قَالَ
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ ((: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَوَاتِ وَمِلْءُ
الْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالنَّجِ
وَالْبَرْدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ ، اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ وَنَقِّنِي مِنْهَا
)) (كَمَا يُنْقَى الثُّوبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَالْوَسَخِ
رَوَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ: مُسْلِمٌ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ مِنْ أَوْجِهٍ عَنْ
شُعْبَةَ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: برف اور اولوں کے پانی اور ٹھنڈے پانی سے طہارت

حاصل کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 8

ترجمہ:

(۸) مجزاة بن زاہر اسلمی کہتے ہیں کہ میں نے عبد اللہ بن ابی اوفیؓ کو فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اے اللہ! اللہ! تیرے لیے آسمانوں اور زمین کے بھراؤ کے برابر تعریف ہے اور اس کے بعد جو تو چاہے اس چیز کے بھراؤ کے برابر بھی۔ اے اللہ! تو مجھے برف، اولوں اور ٹھنڈے پانی کے ساتھ پاک کر دے۔ اے اللہ! تو مجھے گناہوں سے پاک صاف کر دے اور ان کو دھو ڈال جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on attaining purity with ice and hail and cold water

Hadith number: 8

Translation:

(8) Majzah bin Zahra Aslami says that I heard Abdullah bin Abi Aufa (may Allah have

mercy on him) saying that the Holy Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said:

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالتَّلْجِ وَالْبَرْدِ وَالْمَائِ الْبَارِدِ ، اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ وَنَقِّنِي مِنْهَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَالْوَسَخِ

{O Allah! our Lord, unto You be praise that would fill the heavens and the earth and fill that which will please You besides (them). O Allah! purify me with snow, (water of) hail and with cold water; O Allah. cleanse me from the sins and errors just as a white garment is cleansed from dirt}

[Sahih. Narrated by Muslim 476 and Nasai 402 and Tirmidhi 3547 and Ahmad 4/354, 381]

Sunan Kubra Bayhaqi 9

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ ابْنُ (٩)
الْأَعْرَابِيِّ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ
بِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -
ﷺ - يَتَعَوَّذُ يَقُولُ ((اللَّهُمَّ اغْسِلْ قَلْبِي بِمَاءِ التَّلْجِ وَالْبَرَدِ)) (وَذَكَرَ
الْحَدِيثَ -

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ جَمِيعًا فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي
مُعَاوِيَةَ - وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِي الْحَدِيثِ ((اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ
((التَّلْجِ وَالْبَرَدِ))

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب : پاکی کا بیان

باب : برف اور اولوں کے پانی اور ٹھنڈے پانی سے طہارت

حاصل کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 9

ترجمہ:

(الف) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ (۹) پناہ مانگتے ہوئے یوں کہا کرتے تھے: اے اللہ! میرے دل کو برف اور اولوں کے ساتھ دھو ڈال۔۔

(ب) بعض نے یہ الفاظ بیان کیے ہیں
اے اللہ! میرے گناہوں کو برف اور اولوں کے پانی کے ساتھ
دھو ڈال۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on attaining purity with
ice and hail and cold water

Hadith number: 9

Translation:

(9) (a) Hazrat Ayesha (may Allah be pleased with her) narrates that while seeking refuge, the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) used to say: O Allah!

Wash my heart with snow and hail ...

(B) Some have stated the following words:

O Allah! Wash away my sins with snow and hail.

[Sahih. Narrated by Al-Bukhari 6377 and Muslim 598]

Sunan Kubra Bayhaqi 10

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ (١٠)
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا الْعَلَاءِيُّ
بْنُ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ
-الْأَسْلَعِ بْنِ شَرِيكِ قَالَ: كُنْتُ أَرْحَلُ نَاقَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - الرَّاحِلَةَ ،
فَأَصَابَتْني جَنَابَةٌ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ، وَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - الرَّاحِلَةَ
فَكَرِهْتُ أَنْ أَرْحَلَ نَاقَتَهُ وَأَنَا جُنُبٌ ، وَخَشِيتُ أَنْ أَغْتَسِلَ
بِالْمَاءِ الْبَارِدِ فَأَمُوتَ. فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

قَالَ: ثُمَّ وَضَعْتُ أَحْجَارًا فَأَسْخَنْتُ فِيهَا مَاءً فَأَغْتَسَلْتُ ، ثُمَّ
لَحِقْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - فَقَالَ: ((يَا أَسْلَعُ مَا لِي أَرَى رَاحِلَتَكَ
تَضْطَرِبُ؟)) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَرْحَلْهَا. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ
قَالَ قُلْتُ: فَأَسْخَنْتُ مَاءً فَأَغْتَسَلْتُ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: گرم پانی سے طہارت حاصل کرنے کا بیان
حدیث نمبر: 10

ترجمہ:

(۱۰) (سیدنا اسلع بن شریکؓ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کی اونٹنی کو سفر کے لیے تیار کرتا تھا۔ ایک دفعہ ایک سرد رات میں مجھے احتلام ہو گیا اور رسول اللہ ﷺ نے سفر کا ارادہ کیا تھا۔ میں نے یہ ناپسند سمجھا کہ جنبی ہونے کی حالت میں آپ کی سواری تیار کروں۔ میں ڈر گیا کہ اگر میں نے ٹھنڈے پانی کے ساتھ وضو کیا تو مر جاؤں گا۔ میں نے میں پتھر رکھے ان پر پانی گرم کیا، پھر غسل کیا، پھر رسول اللہ ﷺ سے ملا تو آپ ﷺ نے فرمایا: اے اسلع! میں تیری سواری کو مضطرب دیکھ رہا ہوں؟ میں

نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں نے اس کو تیار نہیں کیا۔ پھر مکمل بات ذکر کی اور عرض کیا: پھر میں نے گرم پانی سے غسل کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on attaining purification with hot water

Hadith number: 10

Translation:

(10) Syeduna Asla bin Sharik says that I used to prepare the camel of the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) for the journey. Once I fell asleep and experienced a wet dream on a cold night and the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) intended to travel. I didn't think it was appropriate for me to prepare his ride while I was not pure. I was afraid I would die if I performed ablution with cold water. I

placed stones, heated water on them, then took a bath, then met the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) and he said: O Asla! Am I watching your ride disorganized? I said: O Messenger of Allah! I didn't prepare it. Then I mentioned the whole thing and said: Then I performed ghusl with hot water.

[Daif Jiddan (Very weak). Narrated by al-Tabarani in al-Kabeer 877]

Sunan Kubra Bayhaqi 11

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا الْفَقِيهُ أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَارِثِ (١١)
الْأَصْبَهَانِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا
الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ
عَنْ بِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ: أَنَّ
عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يُسَخِّنُ لَهُ مَائًا فِي
قُمْقُمَةٍ وَيَغْتَسِلُ بِهِ.
قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: بِذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
کتاب: پاکی کا بیان

باب: گرم پانی سے طہارت حاصل کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 11

ترجمہ:

(۱۱) حضرت عمرؓ کے آزاد کردہ غلام اسلم بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطابؓ تانبے کے برتن میں پانی گرم کر کے غسل کرتے تھے۔

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on attaining purification with hot water

Hadith number: 11

Translation:

(11) Hazrat Umar's freed slave Aslam narrates that Hazrat Umar bin Khattab (may Allah be pleased with him) used to perform ghusl by heating water in a copper pot.

Abu Al-Hassan said: This is a saheeh chain of transmission.

[Sahih li ghayrihi (Authentic due to external evidence). Narrated by Al-Daraqutni 1/37]

Sunan Kubra Bayhaqi 12

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ: مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا أَبُو (١٢)
الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا
الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنِي صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَكْرَهُ
الِإِغْتِسَالَ بِالْمَاءِ الْمُسَمَّسِ، وَقَالَ: إِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: دھوپ سے گرم ہونے والے پانی سے طہارت حاصل نہ
کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 12

ترجمہ:

(حضرت جابر^{رض} سے روایت ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب دھوپ سے گرم ہونے والے پانی سے غسل کرنے کو ناپسند کرتے تھے اور فرماتے تھے: یہ برص (کوڑھ) کی بیماری کا باعث ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The statement on not attaining purification from water heated by the sun

Hadith number: 12

Translation:

(12) It is narrated from Hazrat Jabir (may Allah be pleased with him) that Umar bin Khattab (may Allah be pleased with him) disliked bathing in water heated by the sun and said: It is the cause of leprosy.

[Daif Jiddan (Very weak). It was narrated by by al-Shafi'i in al-Umm and al-Musnad, also in al-Talkhis 1/22]

Sunan Kubra Bayhaqi 13

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا (١٣)
مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدِ الْعَبْدِيِّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي عِيَّاشٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ حَسَّانَ بْنِ
أَزْبَرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا تَغْتَسِلُوا بِالْمَائِ الْمَشْمَسِ
فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاكى كا بيان

باب: دھوپ سے گرم ہونے والے پانی سے طہارت حاصل نہ کرنے كا بيان

حدیث نمبر: 13

:ترجمہ

(۱۳) حضرت حسان ازہر کہتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطابؓ نے فرمایا: تم دھوپ سے گرم ہونے والے پانی کے ساتھ غسل نہ کرو، یہ برص (کوڑھ) کی بیماری کا سبب ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The statement on not attaining purification from water heated by the sun

Hadith Number 13

Translation:

(13) Hazrat Hassan Azhar says that Amir al-Mu'minin Hazrat Umar bin Khattab (may Allah

be pleased with him) said: Do not perform ghusl with water heated by the sun, it is the cause of leprosy.

[Daif (Weak). Narrated by Al-Daraqutni 1/39]

Sunan Kubra Bayhaqi 14

Arabic Text:

وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ اللَّهِ (١٤)
بْنُ يُوسُفَ بْنِ أَحْمَدَ الْأَصْبَهَانِيَّ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَشْرَانَ (ح)
الْعَدْلُ بَبْغَدَادَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ
بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ بَشَامِ بْنِ

عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَسَخَنْتُ مَاءً فِي الشَّمْسِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((لَا تَفْعَلِي يَا حُمَيْرَاءُ فَإِنَّهُ يُورِثُ)) (الْبَرَصَ)

وَبَذَا لَا يَصِحُّ. (ج) أَخْبَرَنَا الْفَقِيهُ أَبُو بَكْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارَقُطْنِيُّ: خَالِدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ مَثْرُوكٌ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصُّوفِيُّ قَالَ قَالَ أَبُو أَحْمَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ عَدِيِّ الْحَافِظُ: خَالِدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو الْوَلِيدِ الْمَخْزُومِيُّ يَضَعُ الْحَدِيثَ عَلَى ثِقَاتِ الْمُسْلِمِينَ. (ت) قَالَ: وَرَوَى بِذَا الْحَدِيثِ عَنْ إِسْحَامِ بْنِ عُرْوَةَ مَعَ خَالِدٍ: وَهَبُ بْنُ وَهَبٍ أَبُو الْبَخْتَرِيِّ وَهُوَ شَرٌّ مِنْهُ.

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَرَوَى بِإِسْنَادٍ آخَرَ مُنْكَرٍ عَنِ ابْنِ وَهَبٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَامِ وَلَا يَصِحُّ ، وَرَوَاهُ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَعْسَمُ عَنْ فُلَيْحِ بْنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ. (ج) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَعْسَمُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ ، وَلَمْ يَرَوْهُ عَنْ فُلَيْحِ بْنِ غَيْرِهِ وَلَا يَصِحُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاکی کا بیان

باب: دھوپ سے گرم ہونے والے پانی سے طہارت حاصل نہ

کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 14

ترجمہ:

(۱۴) حضرت عائشہ صدیقہ^{رض} فرماتی ہیں کہ میں نے دھوپ سے پانی گرم کیا تو نبی ﷺ نے فرمایا: اے حمیرا! ایسا نہ کر، یہ برص کی بیماری کا سبب ہے۔

شیخ احمد (رح) فرماتے ہیں: یہ روایت دوسری سند سے بھی نقل کی گئی ہے جو منکر ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The statement on not attaining purification from water heated by the sun

Hadith number: 14

Translation:

(14) Hazrat Ayesha Siddiqah (may Allah be pleased with her) said: I heated water from the sun, then the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: O

Humaira! Don't do this, it is a cause of leprosy.

Shaykh Ahmad (may Allah be pleased with him) said: This narration has been narrated from another chain of transmission which is munkar.

[FABRICATED (MAUDU)]

Sunan Kubra Bayhaqi 15

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ (١٥)
الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُثَنَّى أَخْبَرَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ
خَالِدِ الْحَدَّائِيِّ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((: الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ
إِلَى عَشْرِ سِنِينَ ، فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمْسَهُ جِلْدَكَ فَإِنَّ ذَلِكَ
((خَيْرٌ))

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ عَنْ مُسَدَّدٍ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: پانی کے علاوہ دوسری مائع چیزوں سے طہارت حاصل کرنے کی ممانعت

حدیث نمبر: 15

ترجمہ:

(۱۵) حضرت ابو ذرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: پاک مٹی مسلمان کے لیے وضو (کا ذریعہ) ہے، اگرچہ دس سال تک (پانی نہ ملے تو تیمم کرے) جب پانی مل جائے تو اسے اپنے جسم پر بہاؤ، یقیناً یہ بہتر ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Prohibition on attaining purification from Liquids Other than Water

Hadith number: 15

Translation:

(15) It is narrated from Hazrat Abu Dharr

(may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: Pure soil is a means of ablution for a Muslim, even if he does tayammum for ten years (due to unavailability of water). When you get water, pour it on your body, it is definitely better.

[Sahih. Narrated by Nasai 323 and Abu Dawud 332, 333 and Tirmidhi 124 and Mishkat al-Masabih 530 and Ahmad 5/150, 180]

Sunan Kubra Bayhaqi 16

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ (١٤)
يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ حَدَّثَنَا

رَوْحُ بْنُ عِبَادَةَ حَدَّثَنَا بِشَامٌ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّهَا قَالَتْ: تُوَفِّيَتْ إِحْدَى بَنَاتِ النَّبِيِّ ﷺ - فَاتَانَا ((فَقَالَ)) : اَغْسِلْنَهَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاغْسِلْنَهَا وَثْرًا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتَنَ ذَلِكَ ، وَاجْعَلْنَ فِي الْأَخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ... ((وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ .

مُخْرَجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ ، وَأَبِي الْحُسَيْنِ : مُسْلِمِ بْنِ الْحَجَّاجِ الْقُشَيْرِيِّ مِنْ حَدِيثِ بِشَامِ بْنِ حَسَّانَ وَغَيْرِهِ .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: پانی میں کوئی پاک چیز کم مقدار میں مل جائے تو اس سے طہارت جائز ہے
 حدیث نمبر: 16

ترجمہ:

(۱۶) (سیدہ ام عطیہ انصاریہ^{رض} سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی بیٹی فوت ہوئیں تو آپ ﷺ ہمارے پاس آئے اور فرمایا " : اس کو پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل دو اور اس کو طاق عدد میں غسل دو، یعنی تین مرتبہ، پانچ

مرتبہ یا اس سے زیادہ اگر اس کی ضرورت ہو اور آخر میں
" کافور لگاؤ یا (یوں کہا) (کا فور کا کچھ حصہ لگاؤ۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: If a pure substance is found in small quantities in water, then it is permissible to attain purity from it

Hadith number: 16

Translation:

(16) It is narrated from Umm Atiyah Ansariyah that when the daughter of the Holy Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) died, he came to us and said: "Wash her with water and berry leaves and wash her in odd numbers, i.e Three times, five times or more if needed and finally apply camphor or (he said) apply a portion of the camphor. "

[Sahih. Narrated by Bukhari 167, 1253-1258,

1260-1263 and Muslim 939 and Nasai 1882 and Abu Dawud 3142 and Tirmidhi 990 and Ibn Majah 1457 and Malik 16/2 and Ahmad 6/407, 408]

Sunan Kubra Bayhaqi 17

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ : عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ (١٧)
بِشْرَانَ الْعَدْلُ بَبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ
الْبُخْتَرِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْعَوَّامِ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَابِدٍ عَنْ أُمِّ هَانِيئِ
قَالَتْ : اغْتَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - وَمَيْمُونَةٌ مِنْ إِنَائِي وَاحِدٍ قَصْعَةٍ
فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: پانی میں کوئی پاک چیز کم مقدار میں مل جائے تو اس

سے طہارت جائز ہے

حدیث نمبر: 17

ترجمہ:

(۱۷) حضرت ام ہانیؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ اور حضرت میمونہؓ نے ایک ہی برتن سے غسل کیا، اس میں آٹے کے نشانات تھے۔

ترجمہ:

(۱۷) حضرت ام ہانیؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ اور حضرت میمونہؓ نے ایک ہی برتن سے غسل کیا، اس میں آٹے کے نشانات تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: If a pure substance is found in small quantities in water, then it is permissible to attain purity from it

Hadith number: 17

Translation:

(17) It is narrated from Hazrat Umm Hani (may Allah be pleased with her) that the Holy Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) and Hazrat Maimuna (may Allah be pleased with her) performed Ghusl from the same vessel which had traces of flour in it. [Sahih. Narrated by Nasai 241 and Ibn Majah 378 and Ahmad 6/342]

Sunan Kubra Bayhaqi 18

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ (١٨)
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكِ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ
سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجَلَانَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي
مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلٍ عَنْ أُمِّ هَانِيَةَ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ فَذَكَرَتْ قِصَّةَ الْفَتْحِ
:قَالَتْ: فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - وَعَلَى وَجْهِهِ رِيحُ الْغُبَارِ فَقَالَ
يَا فَاطِمَةُ اسْكُبِي لِي غُسْلًا . فَسَكَبَتْ لَهُ فِي جَفْنَةٍ فِيهَا اثْرُ
الْعَجِينِ، وَسَتَرَتْ عَلَيْهِ فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ .
وَقَدْ قِيلَ عَنْ مُجَابِدٍ عَنْ أَبِي فَاخِتَةَ عَنْ أُمِّ هَانِيَةَ وَالَّذِي رُوِيَ عَنْهُ
مَعَ إِسْرَائِيلَ أَصَحُّ .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: پانی میں کوئی پاک چیز کم مقدار میں مل جائے تو اس
سے طہارت جائز ہے
حدیث نمبر: 18

ترجمہ:

(١٨) (حضرت ام ہانی بنت ابو طالبؓ نے کسی) جنگ کی)

فتح کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا: رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور آپ ﷺ کے چہرے پر گرد پڑی ہوئی تھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اے فاطمہ! میرے نہانے کے لیے پانی رکھو، انہوں نے ایک بڑے برتن میں جس میں آٹے کے نشانات تھے پانی رکھا اور آپ ﷺ کے لیے پردہ کیا۔ آپ ﷺ نے غسل کیا اور اٹھ رکعت نماز پڑھی۔

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: If a pure substance is found in small quantities in water, then it is permissible to attain purity from it

Hadith number: 18

Translation:

(18) Hazrat Umm Hani bint Abu Talib (may Allah be pleased with her), while narrating the event of a (battle) victory, said: The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) came and dust was lying on his face. He said: O Fatima! Put water for my bath. She put water in a large pot with

traces of flour and then placed a screen for him. He performed ghusl and prayed eight rak'ats.

[Sahih li ghayrihi (Authentic due to external evidence). Narrated by Al-Hamidi in his Musnad 331]

Sunan Kubra Bayhaqi 19

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ (١٩)
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا خَارِجَةُ
عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ حَدَّثَنِي مُجَابِدٌ عَنْ أَبِي فَاخِتَةَ مَوْلَى أُمَّ

هَانِيٌّ قَالَ قَالَتْ أُمُّ هَانِيٍّ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - أَيَّامَ الْفَتْحِ
ضُحًى ، فَأَمَرَ بِمَاءٍ فَسُكِبَ لَهُ فِي قَصْعَةٍ كَانِي أَرَى أَثَرَ
الْعَجِينِ فِيهَا ، وَأَمَرَ بِثَوْبٍ فَسَتَرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَاغْتَسَلَ ، وَصَلَّى
صَلَاةَ الضُّحَى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: پانی میں کوئی پاک چیز کم مقدار میں مل جائے تو اس
سے طہارت جائز ہے
حدیث نمبر: 19

ترجمہ:

(۱۹) حضرت ام ہانیؓ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے
پاس فتح مکہ کے دن چاشت کے وقت آئی۔ آپ ﷺ نے پانی
لانے کا حکم دیا، میں نے اس برتن میں آٹے کے نشانات
دیکھے جس میں آپ ﷺ کے لیے پانی رکھا گیا۔ پھر آپ ﷺ نے
کیڑا لانے کا حکم دیا، اس (کیڑے کے ساتھ میرے اور اپنے
درمیان پردہ لٹکایا، پھر غسل کیا اور چاشت کی آٹھ رکعتیں ادا
کیں۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: If a pure substance is found in small quantities in water, then it is permissible to attain purity from it

Hadith number: 19

Translation:

(19) Hazrat Umm Hani says that I came to the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) on the day of the conquest of Makkah at the time of Duha. He ordered water to be brought. I saw traces of flour in the pot in which water was kept for him. Then he ordered to bring a cloth, hung a curtain between me and himself with it, then performed ghusl and performed eight rak'ats of Duha.

[Daif (Weak)]

[Isnad is Munkar Jiddan]

Sunan Kubra Bayhaqi 20

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ: أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو (٢٠)
إِسْحَاقَ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشْرِ بْنِ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ
- عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ عَنْ أُمِّ هَانِيَةَ قَالَتْ: نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -
يَوْمَ الْفَتْحِ بِأَعْلَى مَكَّةَ فَأَتَيْتُهُ ، فَجَاءَهُ أَبُو ذَرٍّ بِجَفْنَةٍ فِيهَا مَاءٌ
قَالَتْ إِنِّي لَأَرَى فِيهَا أَثَرَ الْعَجِينِ قَالَتْ فَسَتَرَهُ أَبُو ذَرٍّ فَأَغْتَسَلَ
ثُمَّ سَتَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - أبا ذَرٍّ فَأَغْتَسَلَ ، ثُمَّ صَلَّى النَّبِيُّ -
ثُمَّ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ وَذَلِكَ فِي الضُّحَى - ﷺ

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: پانی میں کوئی پاک چیز کم مقدار میں مل جائے تو اس

سے طہارت جائز ہے

حدیث نمبر: 20

ترجمہ:

(۲۰) حضرت ام ہانی^{رض} سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فتح مکہ کے دن بلند جگہ تشریف فرما ہوئے۔ میں آپ ﷺ کے پاس آئی تو ابو ذر^{رض} ایک برتن لائے جس میں پانی تھا۔ میں نے اس میں اٹے کا نشان دیکھا، پھر ابو ذر^{رض} نے آپ ﷺ کے لیے پردہ کیا اور آپ ﷺ نے غسل کیا، پھر رسول اللہ ﷺ نے ابو ذر^{رض} کے لیے پردہ کیا تو ابو ذر^{رض} نے غسل کیا، پھر آپ ﷺ نے اٹھ رکعات نماز پڑھی، یہ چاشت کا وقت تھا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: If a pure substance is found in small quantities in water, then it is permissible to attain purity from it

Hadith number: 20

Translation:

(20) It is narrated from Hazrat Umm Hani (may Allah be pleased with her) that on the day of the conquest of Makkah, the Holy Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) visited a high place. When I came to him, Abu Dharr (may Allah be pleased with him) brought a vessel containing water. I saw traces of flour in it, then Abu Dharr (may Allah be pleased with him) placed a screen for him (the Prophet) and he (peace and blessings of Allah be upon him) performed ghusl, then the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) placed a screen for Abu Dharr, then Abu Dharr (may Allah be pleased with him) performed ghusl, then the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) prayed eight rak'ats, it was time for Duha. [Daif (Weak). Narrated by Ibn Khuzaymah 1457]

Sunan Kubra Bayhaqi 21

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا (٢١)
عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ
بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ
الْفَزَارِيُّ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ عَنْ أُمِّ هَانِيٍّ: أَنَّهَا
كَرِهَتْ أَنْ يُتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ الَّذِي يُبَلُّ فِيهِ الْخُبْزُ.
وَهَذَا إِنْ صَحَّ فَإِنَّمَا أَرَادَتْ إِذَا غَلَبَ عَلَيْهِ حَتَّى أُضِيفَ إِلَيْهِ. (ق)

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: پانی میں کوئی پاک چیز کم مقدار میں مل جائے تو اس سے طہارت جائز ہے

حدیث نمبر: 21

:ترجمہ

(۲۱) حضرت ام ہانیؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے اس پانی کے ساتھ وضو کرنا ناپسند کیا جس میں روٹیاں تیر رہی ہوں۔ یہ روایت تب صحیح ہے جب روٹیاں پانی پر غالب ہوں اور مکمل نسبت ہی ان کی طرف کردی جائے یعنی وہ پانی نہ رہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: If a pure substance is found in small quantities in water, then it is permissible to attain purity from it

Hadith number: 21

Translation:

(21) It is narrated from Hazrat Umm Hani (may Allah be pleased with her) that she disliked performing ablution with water in which pieces of bread were floating.

This tradition is only correct when the bread dominates the water and the full proportion is given to them, that is, when the liquid does not remain water any more.

[Daif (Weak). Narrated by Al-Daraqutni 1/39]

Sunan Kubra Bayhaqi 22

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقْرِيُّ حَدَّثَنَا (۲۲)
 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَدَّادِيُّ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ
 عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ فَذَكَرَ قِصَّتَهُ ثُمَّ قَالَ عَنْ
 النَّبِيِّ - ﷺ - ((:الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ
 حِجَجٍ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَمَسْ بَشْرَهُ الْمَاءِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ
))-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: نبیذ سے طہارت حاصل کرنے کی ممانعت

حدیث نمبر: 22

:ترجمہ

(۲۲) حضرت عمرو بن بجدان فرماتے ہیں کہ میں نے ابو ذر سے سنا، انہوں نے اپنا واقعہ ذکر فرمایا اور حدیث بیان کی کہ کہ پاک مٹی مسلمان کا پانی ہے اگرچہ دس سال تک (اسے پانی نہ ملے) جب اسے پانی مل جائے تو اپنے جسم پر پانی بہائے بیشک یہ اس کے لیے بہتر ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: If a pure substance is found in small quantities in water, then it is permissible to attain purity from it

Hadith number: 22

Translation:

(22) Hazrat Amr bin Bajdan says that I heard from Abu Dharr (may Allah be pleased with him), he narrated his story and narrated the hadith that pure soil is water for a muslim (if he does not find water), even if for ten years (he does not get water). When he finds water, he should pour water on his body, indeed it is better for him.

[Sahih. Narrated by Nasai 323 and Abu Dawud 332, 333 and Tirmidhi 124 and Mishkat al-Masabih 530 and Ahmad 5/150, 180]

Sunan Kubra Bayhaqi 23

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَائِرٍ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ (٢٣)
الرَّحِيمِ بْنُ مُنِيبٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ
الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَ
((كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ)) -
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ
عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى كِلَابُهَا عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاكى كا بيان

باب: نبىذ سے طہارت حاصل کرنے کی ممانعت

حدیث نمبر: 23

ترجمہ:

(۲۳) حضرت عائشہ رض سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: ہر

وہ شراب جس میں نشہ ہو حرام ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Prohibition of attaining purity from Nabidh

Hadith number: 23

Translation:

(23) It is narrated from Hazrat Ayesha (may Allah be pleased with her) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: Any drink containing intoxicants is

haraam.

[Sahih. Narrated by Bukhari 242, 5585 and Muslim 2001 and Nasai 5597 and Abu Dawud 3682 and Tirmidhi 1863 and Ibn Majah 3386 and Malik 42/9 and Ahmad 6/38, 97, 190, 226]

Sunan Kubra Bayhaqi 24

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ: الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو (٢٤)
بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنِ ابْنِ

:جُرَيْجٍ عَنْ عَطَائٍ :أَنَّ كَرَهُ الْوُضُوءَ بِاللَّبَنِ وَبِالنَّبِيدِ ، وَقَالَ
إِنَّ النَّيِّمَ أَجَبُ إِلَى مِنْهُ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاکی کا بیان

باب: نبیذ سے طہارت حاصل کرنے کی ممانعت

حدیث نمبر: 24

:ترجمہ

(۲۴) (ابن جریج نے حضرت عطار) رح (سے نقل کیا ہے کہ
انہوں نے دودھ اور نبیذ کے ساتھ وضو کرنا ناپسند کیا اور
فرمایا: تیمم کرنا مجھے اس سے زیادہ پسند ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Prohibition of attaining purity from
Nabidh

Hadith number: 24

Translation:

(24) Ibn Jarir has narrated from Hazrat Ata (may Allah have mercy on him) that he disliked performing ablution with milk and wine and said: I would prefer to perform tayammum rather than (doing) this.

[Sahih. Narrated by Abu Dawud 86]

Sunan Kubra Bayhaqi 25

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا (٢٥)
:مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا أَبُو خَلْدَةَ قَالَ

، سَأَلْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ
وَعِنْدَهُ نَبِيذٌ أَيَغْتَسِلُ بِهِ؟ قَالَ: لَا-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: نبیذ سے طہارت حاصل کرنے کی ممانعت

حدیث نمبر: 25

ترجمہ:

(۲۵) حضرت ابو خالدہ (رحمہ اللہ) کہتے ہیں کہ میں نے ابو العالیہ سے اس جنبی شخص کے متعلق پوچھا جس کے پاس پانی نہ ہو بلکہ نبیذ ہو، کیا وہ اس سے غسل کر سکتا ہے۔ انہوں نے فرمایا: نہیں!

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Prohibition of Purification from Nabidh

Hadith number: 25

Translation:

(25) Hazrat Abu Khalda (may Allah have mercy on him) says that I asked Abu Al-Aliyah about a junub person who has no water but has Nabidh, can he do ghusl with this. He said: No!

[Sahih. Narrated by Abu Dawud 87]

Sunan Kubra Bayhaqi 26

Arabic Text:

وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى (٢٦)
 بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ : إِسْمَاعِيلُ
 بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ الرَّمَادِيِّ أَخْبَرَنَا
 عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي فَرَاةَ الْعَبْسِيِّ حَدَّثَنَا
 : أَبُو زَيْدٍ مَوْلَى عَمْرٍو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ
 لَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْجِنِّ تَخْلَفُ مِنْهُمْ يَغْنَى مِنَ الْجِنِّ رَجُلَانِ قَالَ
 الرَّمَادِيُّ أَحْسِبُ عَبْدَ الرَّزَّاقِ قَالَ فَقَالَا : نَشَهُدُ الصَّلَاةَ مَعَكَ
 يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَالَ لِي النَّبِيُّ - ﷺ - ((هَلْ
 مَعَكَ وَضُوءٌ؟)) (. قُلْتُ : لَا ، مَعِيَ إِدَاوَةٌ فِيهَا نَبِيذٌ . فَقَالَ النَّبِيُّ -
 ﷺ -)) : تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَائٌ طَهُورٌ)) (. فَتَوَضَّأَ .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب : پاکی کا بیان

باب : نبیذ سے طہارت حاصل کرنے کی ممانعت

حدیث نمبر : 26

:ترجمہ

(٢٦) حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ لیلۃ الجن

میں دو جن پیچھے رہ گئے، رمادی کہتے ہیں: میرا

گمان ہے کہ عبد الرزاق نے بیان کیا کہ ان دونوں جنوں نے کہا: ہم آپ ﷺ کے ساتھ نماز میں حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ جب نماز کا وقت ہوا تو نبی ﷺ نے مجھ سے کہا "کیا تیرے پاس وضو کے لیے پانی ہے؟" میں نے کہا: نہیں میرے پاس لوٹے میں نبیذ ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا: کھجور پاک ہے اور پانی بھی پاک ہے، چنانچہ آپ ﷺ نے (اس نبیذ سے) وضو کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Prohibition of attaining purity from Nabidh

Hadith number: 26

Translation:

(26) It is narrated from Hazrat Abdullah bin Masud (may Allah be pleased with him) that two jinn were left behind on Laylat al-Jinn.

Ramadi says: I think that Abdul Razzaq narrated that these two jinn said: We want to attend the prayer with the Prophet (peace and

blessings of Allah be upon him). When it was time for prayer, the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said to me: "Do you have water for ablution?"

I said: No, I have nabidh in the vessel. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: Dates are pure and water is pure, so he performed ablution (with nabidh). [Daif (Weak). Narrated by Abu Dawud 84 and Tirmidhi 88 and Ibn Majah 384 and Ahmad 1/402]

Sunan Kubra Bayhaqi 27

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : جَنَاحُ بْنُ نَذِيرِ بْنِ جَنَاحِ الْمُحَارِبِيِّ (٢٧)
 بِالْكُوفَةِ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دُحَيْمٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ
 بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو غَسَّانَ أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ ابْنِ
 الرَّبِيعِ أَخْبَرَنَا أَبُو فَرَاةَ الْعَبْسِيُّ عَنْ أَبِي زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
 بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فَقَالَ : ((إِنِّي قَدْ أَمَرْتُ
 أَنْ أَقْرَأَ عَلَى إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ ، لِيَقُمْ مَعِيَ رَجُلٌ مِنْكُمْ ، وَلَا يَقُمْ
 مَعِيَ رَجُلٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبَرٍ)) . قَالَ
 فَقُمْتُ مَعَهُ وَمَعِيَ إِدَاوَةٌ مِنْ مَائِ كَذَا قَالَ حَتَّى إِذَا بَرَزْنَا
 حَظًّا حَوْلِي خُطَّةً ثُمَّ قَالَ : ((لَا تَخْرُجَنَّ مِنْهَا فَإِنَّكَ إِنْ خَرَجْتَ مِنْهَا
 لَمْ تَرِنِي وَلَمْ أَرِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)) . قَالَ : ثُمَّ انْطَلَقَ حَتَّى
 تَوَارَى عَنِّي قَالَ فَتَبَّتْ قَائِمًا حَتَّى إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ أَقْبَلَ قَالَ : ((مَا
 لِي أَرَاكَ قَائِمًا ؟)) . قَالَ قُلْتُ : مَا قَعَدْتُ خَشِيَةً أَنْ أَخْرُجَ مِنْهَا .
 قَالَ : ((أَمَا إِنَّكَ لَوْ خَرَجْتَ مِنْهَا لَمْ تَرِنِي وَلَمْ أَرِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
 بَلْ مَعَكَ مِنْ وَضُوءِي ؟)) . قَالَ : ((فَمَاذَا فِي الْإِدَاوَةِ ؟)) .
 قُلْتُ : نَبِيذٌ . قَالَ : ((تَمْرَةٌ حُلُوءَةٌ وَمَائٌ طَيِّبٌ)) . ثُمَّ تَوَضَّأَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
 فَلَمَّا أَنْ قَضَى الصَّلَاةَ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ مِنَ الْجِنِّ فَسَأَلَاهُ الْمَتَاعَ ،
 فَقَالَ : ((أَوْلَمْ أَمُرْ لَكُمْ وَلِقَوْمِكُمْ مَا يُصْلِحُكُمْ ؟)) . قَالَ : بَلَى
 وَلَكِنَّا أَحْبَبْنَا أَنْ يَحْضُرَ بَعْضُنَا مَعَكَ الصَّلَاةَ . قَالَ : ((بِمَنْ
 أَنْتُمَا ؟)) . قَالَ : ((مِنْ أَهْلِ نَصِيبِينَ)) . فَقَالَ : ((قَدْ أَفْلَحَ بَدَانٌ وَأَفْلَحَ
 قَوْمُهُمَا)) . (وَأَمَرَ لَهُمَا بِالْعِظَامِ وَالرَّجِيعِ طَعَامًا وَعَلْفًا ، وَنَهَانَا
 أَنْ نَسْتَنْجِيَ

بِعَظْمٍ أَوْ رَوْتٍ-

(ج) (وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَالِينِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ بْنَ حَمَادٍ يَقُولُ قَالَ مُحَمَّدُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : أَبُو زَيْدٍ الَّذِي رَوَى حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ)) : تَمْرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُورٌ ((. - رَجُلٌ مَجْهُولٌ لَا يُعْرَفُ بِصُحْبَةِ عَبْدِ اللَّهِ (ت) (وَرَوَى عَلْقَمَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ : لِمَ أَكُنْ لَيْلَةَ الْجِنِّ مَعَ

رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - .-

وَرَوَى شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ أَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - لَيْلَةَ الْجِنِّ؟ قَالَ : لَا.

(ج) (وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ قَالَ قَالَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ : هَذَا يَدُ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْحَدِيثِ مَدَارُهُ عَلَى أَبِي فَرَازَةَ عَنْ أَبِي زُحْرَيْثٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَأَبُو فَرَازَةَ مَشْهُورٌ وَاسْمُهُ رَاشِدُ بْنُ كَيْسَانَ ، وَأَبُو زَيْدٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ مَجْهُولٌ ، وَلَا يَصِحُّ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - وَهُوَ خِلَافُ الْقُرْآنِ-

قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ (ت) عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَعَنْ أَبِي سَلَامٍ عَنْ فُلَانِ بْنِ غِيْلَانَ النَّقْفِيِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَعَنْ ابْنِ لَهَيْعَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ حَنْشٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى بْنُ حَبَّانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ بِإِسْنَادٍ لَهُ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَرَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعِجْلِيُّ

بِإِسْنَادٍ لَهُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَلَا يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ۔
 (ج) أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ
 الدَّارِقُطْنِيُّ الْحَافِظُ فِي تَضْعِيفِ بَدِئِ الْأَسَانِيدِ : عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ
 ، ضَعِيفٌ ، وَلَيْسَ بِذَا الْحَدِيثِ مِنْ مُصَنَّفَاتِ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ
 وَالرَّجُلُ النَّفِيُّ الَّذِي رَوَاهُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ مَجْهُولٌ ، قِيلَ اسْمُهُ
 عَمْرُو وَقِيلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو وَابْنُ غَيْلَانَ وَابْنُ لَهْبَعَةَ ضَعِيفٌ
 الْحَدِيثِ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ ، وَالْحَسَنُ بْنُ قُتَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ
 عَيْسَى ضَعِيفَانِ ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَجَلِيُّ بِذَا يَضَعُ
 الْحَدِيثَ عَلَى الثَّقَاتِ۔
 قَالَ الشَّيْخُ : وَقَدْ أَنْكَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ شُهُودَهُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ - لَيْلَةَ
 الْجَنِّ فِي رِوَايَةِ عُلُقَمَةَ عَنْهُ ، وَأَنْكَرَهُ ابْنُهُ وَأَنْكَرَهُ إِبْرَاهِيمُ
 النَّخَعِيُّ۔

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: نبیذ سے طہارت حاصل کرنے کی ممانعت
 حدیث نمبر: 27

ترجمہ:

(۲۷) (الف) حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ

ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے تو آپ ﷺ نے فرمایا: مجھے تمہارے بھائی جنوں پر قرآن پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، تم میں سے ایک میرے ساتھ چلے اور ایسا نہ ہو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو۔ میں آپ کے ساتھ چلا اور میرے پاس پانی کا برتن (لوٹا) تھا۔ جب ہم پہنچے تو آپ ﷺ نے میرے اردگرد ایک لکیر کھینچتے ہوئے کہا: اس دائرے سے باہر نہ نکلنا، اگر تو اس دائرے سے نکل گیا تو قیامت تک ہم ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں گے۔ ابن مسعودؓ کہتے ہیں: پھر آپ چلے حتیٰ کہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے اور میں فجر طلوع ہونے تک وہیں کھڑا رہا۔ پھر آپ ﷺ آئے اور فرمایا: میں تجھے کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوں (یعنی تم بیٹھے کیوں نہیں؟) میں نے عرض کیا کہ میں ڈر گیا کہیں اس دائرے سے نہ نکل جاؤں، اس لیے نہیں بیٹھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر تو دائرے سے نکل جاتا تو ہم ایک دوسرے کو قیامت تک نہ دیکھ سکتے۔ پھر فرمایا: کیا تیرے پاس پانی ہے؟ میں نے کہا: نہیں۔ آپ ﷺ نے پوچھا: برتن (لوٹے) (میں کیا ہے؟ میں نے کہا: نبیذ۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میٹھی کھجور اور پاکیزہ پانی، پھر آپ ﷺ نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ جب نماز پڑھ لی تو جنوں میں سے دو شخص آئے اور کسی چیز کا سوال کیا، آپ ﷺ نے فرمایا: کیا میں نے تم کو اور تمہاری قوم کو اس چیز کا حکم نہیں دیا جو تمہارے لیے بہتر ہے؟ ایک نے کہا: کیوں

نہیں لیکن ہماری خواہش ہے کہ ہم آپ ﷺ کے ساتھ نماز میں شریک ہوں۔ آپ ﷺ نے پوچھا: کس قبیلے سے ہو؟ انہوں نے کہا "نصیبین" میں سے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ دونوں اور ان کی قوم کامیاب ہوگئی، پھر آپ ﷺ نے ان کے لیے ہڈیاں اور گوبر کا کھانا حلال قرار دیا اور ہمیں ہڈیوں اور گوبر سے استنجا کرنے سے منع کر دیا۔

(ب) (امام محمد بن اسماعیل بخاری) رح (کہتے ہیں: حدیث ابن مسعود جس میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: پاک کھجور اور پاکیزہ پانی "اس میں ابو زید راوی مجہول ہے۔ اس کی حضرت عبداللہ بن مسعود رض سے ملاقات ثابت نہیں۔

(ج) (علقمہ نے سیدنا عبداللہ بن مسعود رض سے روایت کیا ہے میں اس واقعہ میں آپ ﷺ کے ساتھ نہیں تھا۔

(د) (عمرو بن مرہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبیدہ سے پوچھا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رض رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے؟ انہوں نے فرمایا: نہیں۔

(ر) (ابو احمد بن عدی کہتے ہیں: اس حدیث کا مدار اس سند پر ہے: عن ابی فزارة عن ابی زید مولی عمرو بن حریث عن ابن مسعود۔ ابو فزارة مشہور راوی ہے، اس کا نام راشد بن کیسان ہے، ابو زید مولی عمرو بن حریث مجہول راوی ہے۔ یہ حدیث نبی ﷺ سے ثابت نہیں کیونکہ یہ قرآن کے صریح خلاف ہے۔

شیخ احمد کہتے ہیں کہ یہ حدیث حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِي بْنِ زَيْدِ بْنِ جَدْعَانَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي سَلَامٍ عَنْ فُلَانِ بْنِ غِيْلَانَ الثَّقَفِيِّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَنْ ابْنِ لَهِيْعَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ حِجَابٍ عَنْ حَنْشٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ يَعْنِي يَه كُنِيَ طَرَقَ سَعَى رَوَايَتِ كُنِيَ هَى . لِيَكُنْ اِنْ مِيں سَعَى كُوئِي رَوَايَتِ صَحِيحْ نَهِيں .

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Prohibition of attaining purity from Nabidh

Hadith number: 27

Translation:

(27) (a) It is narrated from Hazrat Abdullah bin Masud (may Allah be pleased with him) that when we came to the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him), he said: I have been commanded to recite the Quran to your brothers among the jinn, one of you should come with me and he

shall not have even the weight of a mustard seed of arrogance in him. I went with him and I had a pot of water. When we arrived, the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said, while drawing a line around me: Do not go out of this circle, if you do so, then we will not be able to see each other till the Day of Resurrection. Ibn Mas'ud (may Allah be pleased with him) said: Then he left until he disappeared from my sight and I stood there till dawn. Then he came and said: I see you standing (i.e why are you not sitting)? I said that I was afraid that I would leave the circle, so I did not sit down. He said: If you went out of the circle, we would not be able to see each other until the Day of Resurrection. Then he said: Do you have water? I said no. He asked: What is in the vessel? I said: Nabidh. He said: Sweet dates and pure water. Then he performed ablution and offered prayers. When he was done praying, two of the jinn came and asked

about something. He said: Did I not enjoin on you and your people what is best for you? One of them said: Why not, but we wish that we join you in prayer. He asked: What tribe are you from? "Nasibin," they said. He said: Both of them and their people will succeed. Then he made it lawful for them to eat bones and dung and forbade us to perform istanja with bones and dung.

B) Imam Muhammad ibn Isma'il Bukhari (may Allah be pleased with him) said: The hadith of Ibn Masud (may Allah be pleased with him) in which the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: Pure dates and water. The narrator Abu Zaid is unknown. His meeting with Hazrat Abdullah bin Masud (may Allah be pleased with him) is not proven.

(C) Alqamah narrated from Abdullah bin Masud (may Allah be pleased with him) that he was not with the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) in this

incident.

(D) Amr ibn Marah says that I asked Abu Ubaidah that was Abdullah ibn Masud with the Messenger of Allah? He said: No.

(E) Abu Ahmad ibn Udai says: This hadith is based on this chain of transmission: Abu Faraza is a famous narrator, his name is Rashid bin Kaysan, Abu Zaid Molly Amr bin Harith is an unknown narrator. This hadith is not proven by the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) because it is clearly against the Qur'an.

Shaykh Ahmad says: This narration has been narrated through many ways. But none of these traditions are sahih.

[Daif (Weak). Narrated by Al-Tabarani in Mujam Kabeer 9962]

Sunan Kubra Bayhaqi 28

Arabic Text:

أَمَّا حَدِيثُ عَلْقَمَةَ فَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (٢٨)
الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ إِمْلَائِيَّ أَخْبَرَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْعَبْدِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو الْحَرَشِيُّ
قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدِ
يَعْنِي الْحَدَّائِيَّ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَمْ أَكُنْ لَيْلَةَ الْجِنِّ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ - وَوَدِدْتُ أَنِّي
كُنْتُ مَعَهُ -

رَوَاهُ مُسْلِمٌ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ عَنِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: نبیذ سے طہارت حاصل کرنے کی ممانعت

حدیث نمبر: 28

:ترجمہ

(۲۸) (عبداللہ بن مسعود رض فرماتے ہیں کہ میں "لیلة الجن" میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھا، لیکن مجھے یہ پسند ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوتا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Prohibition of attaining purity from Nabidh

Hadith number: 28

Translation:

(28) Abdullah ibn Masud (may Allah be pleased with him) says that I was not with the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) in Laylat al-Jinn, but I would have liked to be with him.

[Sahih. Narrated by Muslim 450]

Sunan Kubra Bayhaqi 29

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ (٢٩)

يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ وَمُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي
طَالِبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى
بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ بَلْ كَانِ
ابْنُ مَسْعُودٍ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - لَيْلَةَ الْجِنِّ؟ قَالَ عَلْقَمَةُ: أَنَا
- سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقُلْتُ: بَلْ شَهِدَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -
لَيْلَةَ الْجِنِّ؟ قَالَ: لَا وَلَكِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - ذَاتَ لَيْلَةٍ
فَفَقَدْنَاهُ ، فَالْتَمَسْنَاهُ فِي الْأَوْدِيَةِ وَالشَّعَابِ فَقُنَّا اسْتُطِيرَ أَوْ اغْتِيلَ
فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذْ بُوِجَاءٌ مِنْ قِبَلِ ،
حِرَائٍ فَقُنَّا: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَدْنَاكَ فَطَلَبْنَاكَ فَلَمْ نَجِدْكَ ، فَبِتْنَا
، بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ - قَالَ ((أَتَانِي دَاعِي الْجِنِّ فَذَهَبْتُ مَعَهُ
فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ)) (قَالَ فَانْطَلَقَ بِنَا فَأَرَانَا آثَارَهُمْ وَأَثَارَ
نِيرَانِهِمْ ، وَسَأَلُوهُ الزَّادَ فَقَالَ)) : كُلُّ عَظْمٍ ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَقَعُ
فِي أَيْدِيكُمْ أَوْ فَرَ مَا يَكُونُ لَحْمًا ، وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفَ لِذَوَائِكُمْ)) (ثُمَّ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -)) : لَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ)) -
رَوَاهُ مُسْلِمٌ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
کتاب: پاکی کا بیان

باب: نبیذ سے طہارت حاصل کرنے کی ممانعت

حدیث نمبر: 29

ترجمہ:

(۲۹) (عامر سے روایت ہے کہ میں سیدنا علقمہ سے پوچھا: کیا ابن مسعود رضی اللہ عنہ لیلۃ الجن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے؟ انہوں نے فرمایا: میں نے یہی سوال سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی "لیلۃ الجن" میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا؟ انہوں نے کہا: نہیں، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ ہم ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم نے آپ کو گم پایا، پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وادیوں اور گھاٹیوں میں تلاش کیا۔ نے سوچا: شاید آپ کو کوئی چیز اڑا لے گئی ہے۔ ہم نے وہ رات بہت مشکل میں گزاری۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حرا کی طرف سے آئے۔ ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم نے آپ کو گم پایا تو آپ کو بہت تلاش کیا۔ لیکن آپ کو نہ ڈھونڈ سکے۔ ہم تمام لوگوں نے رات بہت مشکل میں گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے پاس جنوں میں سے ایک شخص آیا تو میں اس کے ساتھ چلا گیا اور ان پر قرآن کی تلاوت کی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں اور ان کے کچھ آثار اور آگ کے نشانات دکھائیں۔ انہوں نے کچھ اور سوال بھی کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: "ہر ہڈی جس پر اللہ کا

نام لیا جائے جو تمہارے ہاتھوں میں ہوتی ہے وہ ان کے لیے
گوشت سے بھر پور ہوتی ہے اور ہر مینگنی جو تمہارے
جانوروں کے چارے سے بنتی ہے وہ ان کے لیے خوراک
سے بھر پور ہوتی ہے۔ "پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ان
دونوں (ہڈی اور مینگنی) کے ساتھ استنجا نہ کرو کیونکہ یہ
دونوں تمہارے (جن) بھائیوں کا کھانا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Prohibition of attaining purity from
Nabidh

Hadith number: 29

Translation:

(29) I asked Alqama if Ibn Masud (may Allah be pleased with him) was present with the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) on the night of the Jinn (the night when the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) met them). He (Ibn Masud) said: No, but we were in the

company of the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) one night and we missed him. We searched for him in the valleys and the hills and said. He has either been taken away (by jinn) or has been secretly killed. He (the narrator) said. We spent the worst night which people could ever spend. When it was dawn we saw him coming from the side of Hiri'. He (the narrator) reported. We said: Messenger of Allah, we missed you and searched for you, but we could not find you and we spent the worst night which people could ever spend. He (the Prophet) said: There came to me an inviter on behalf of the Jinn and I went along with him and recited to them the Qur'an. He (the narrator) said: He then went along with us and showed us their traces and traces of their embers. They (the Jinn) asked him (the Prophet) about their provision and he said: Every bone on which the name of Allah is recited is your provision. The time it will fall in

your hand it would be covered with flesh, and the dung of (the camels) is fodder for your animals. The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: Don't perform istinja with these (things) for these are the food of your brothers (Jinn).

[Sahih. Narrated by Muslim 450 and Abu Dawud 85 and Tirmidhi 3258]

Sunan Kubra Bayhaqi 30

Arabic Text:

وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَأَخْبَرَنَا هُ (٣٠)
أَبُو الْحُسَيْنِ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ
سُفْيَانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ
-قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَكَانَ اللَّهُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ -
لَيْلَةَ الْجَنِّ؟ قَالَ: لَا. وَسَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: لَيْتَ صَاحِبِنَا كَانَ
ذَاكَ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: نبیذ سے طہارت حاصل کرنے کی ممانعت

حدیث نمبر: 30

ترجمہ:

(۳۰) عمرو بن مرہ سے روایت ہے کہ میں نے ابو عبیدہ بن عبد اللہ سے پوچھا: کیا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ لیلۃ الجن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے؟ انہوں نے کہا: نہیں۔ پھر نے میں ابراہیم سے سوال کیا تو انہوں نے کہا: کاش ہمارا کوئی ساتھی آپ کے ساتھ ہوتا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Prohibition of attaining purity from Nabidh

Hadith number: 30

Translation:

(30) It is narrated from Amr ibn Marah that I asked Abu Ubaidah ibn Abdullah: Was Abdullah ibn Masud (may Allah be pleased with him) with the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) in Laylat

al-Jinn? He said: No. When I asked Ibrahim about the journey, he said: I wish we had one of our companions accompany him.

[Daif (Weak). Narrated by Ibn Abi Shaybah 33946]

Sunan Kubra Bayhaqi 31

Arabic Text:

وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ (٣١)
بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ بَحْرِ
أَخْبَرَنَا الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِحٍ حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ((: النَّبِيُّ وَضُوءٌ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ)) (-).

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: نبیذ سے طہارت حاصل کرنے کی ممانعت

حدیث نمبر: 31

ترجمہ:

(۳۱) (سیدنا عبداللہ بن عباس ^{رض} سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: نبیذ وضو) کا پانی (ہے اس شخص کے لیے جس کو پانی نہ ملے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Prohibition of attaining purity from Nabidh

Hadith number: 31

Translation:

(31) It is narrated on the authority of Abdullah bin Abbas (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and

blessings of Allah be upon him) said: Nabidh is ablution for the one who cannot find water. [Munkar (Odd). Narrated by Al-Darulqutni 1/75]

Sunan Kubra Bayhaqi 32

Arabic Text:

قَالَ وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ تَمَّامٍ حَدَّثَنَا الْمُسَيَّبُ (٣٢)
بْنُ وَاضِحٍ حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ مَوْقُوفًا.
فَهَذَا حَدِيثٌ مُخْتَلَفٌ فِيهِ عَلَى الْمُسَيَّبِ بْنِ وَاضِحٍ ، وَهُوَ وَابِعٌ فِيهِ
فِي مَوَاضِعَيْنِ فِي ذِكْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَفِي ذِكْرِ النَّبِيِّ ﷺ -.

(ت) (وَالْمَحْفُوظُ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ عِكْرِمَةَ غَيْرَ مَرْفُوعٍ كَذَا رَوَاهُ بِقُلِّ بْنِ الزِّيَادِ وَالْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ شَيْبَانُ النَّحْوِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ -) ج (وَكَانَ الْمُسَيَّبُ رَحِمَنَا اللَّهُ تَعَالَى وَإِيَّاهُ كَثِيرُ الْوَهْمِ -) ت (وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرَّرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ بْنِ مُحَرَّرٍ مَثْرُوكٌ - ِ عَبَّاسٍ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ -) ج (وَعَبْدُ اللَّهِ ت) (وَرَوَى بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا -) ج (وَأَبَانَ مَثْرُوكٌ -) قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارِقُطْنِيُّ فِيمَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ الْحَارِثِ عَنْهُ الْمَحْفُوظُ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ عِكْرِمَةَ غَيْرَ مَرْفُوعٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ - وَلَا إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ -

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَقَدْ رَوَى الْحَجَّاجُ بْنُ (ت) أَرْطَاةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْوَضُوءِ مِنَ النَّبِيذِ -

، وَرَوَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْكُوفِيُّ وَاسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْسِرَةَ ، وَيُقَالُ لَهُ أَبُو لَيْلَى الْخُرَّاسَانِيُّ عَنْ مَزِيدَةَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عَلِيٍّ : لَا بَأْسَ بِالْوَضُوءِ بِالنَّبِيذِ -

، (ج) (وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْسِرَةَ مَثْرُوكٌ ، وَالْحَارِثُ الْأَعْوَرُ ضَعِيفٌ ، وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ قَدْ ذَكَرْتُ أَقَاوِيلَ الْحُقَاطِ فِيهِمْ فِي الْخِلَافِيَّاتِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: نبیذ سے طہارت حاصل کرنے کی ممانعت

حدیث نمبر: 32

ترجمہ:

(الف) بشر نے ہم کو اس اسناد کی طرح موقوف بیان (۳۲)

کیا ہے۔

(ب) (شیخ) رح (فرماتے ہیں کہ حارث نے حضرت علیؑ سے نقل کیا ہے کہ آپؑ نبیذ سے وضو کرنے میں کوئی حرج

نہیں سمجھتے تھے۔

(ج) (حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ نبیذ کے ساتھ وضو

کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Prohibition of attaining purity from

Nabidh

Hadith number: 32

Translation:

(32) (a) Bashar has narrated to us in a mawquf hadith with this sanad (chain of transmission).

(B) Shaykh (may Allah have mercy on him) says that Harith has narrated from Hazrat Ali (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon be him) did not consider it a problem to perform ablution with nabidh.

(C) It is narrated from Hazrat Ali (may Allah be pleased with him) that there is no harm in performing ablution with nabidh.

[Munkar (Odd). Narrated by Ibn Adi 170/7]

Sunan Kubra Bayhaqi 33

Arabic Text:

ثُمَّ إِنَّ صِفَةَ أَنْبِيئِهِمْ مَذْكُورَةٌ فِيمَا أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ (۳۳)
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَشْرَانَ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ
الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ
حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ أُمِّهِ عَنِ
عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ - فِي
سِقَايِ يُوكَى أَعْلَاهُ لَهُ ثَلَاثَةٌ عَزَالِي يُعَلَّقُ ، نَنْبِذُهُ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ
عِشَاءً ، وَنَنْبِذُهُ عِشَاءً فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً .
رَوَاهُ مُسْلِمٌ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ
عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيِّ بِمَعْنَاهُ .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: نبیذ سے طہارت حاصل کرنے کی ممانعت

حدیث نمبر: 33

ترجمہ:

(۳۳) سیدہ عائشہ صدیقہ^{رض} سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ کے لیے مشکیزے میں نبیذ بناتی تھیں جس کا منہ اوپر سے باندھ دیا جاتا تھا، آپ کے لیے تین مشکیزے لٹکائے جاتے تھے۔ ہم آپ ﷺ کے لیے صبح کے وقت نبیذ بناتی تو آپ ﷺ شام کو پیتے اور جب ہم شام کو نبیذ بناتیں تو آپ ﷺ صبح کو پیتے۔ (عبد الوہاب ثقفی سے اسی جیسی روایت بیان کی گئی ہے۔)

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Prohibition of attaining purity from Nabidh

Hadith number: 33

Translation:

(33) It is narrated from Ayesha (may Allah be pleased with her) that we prepared Nabidh

for Allah's Messenger (peace and blessings of Allah be upon him) in a waterskin, the upper part of which was tied, three waterskins were hung for the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him). When we prepared the Nabidh in the morning fro him, he drank it in the evening and when we prepared the Nabidh in the night, he would drink it in the morning.

[Sahih. Narrated by Muslim 2005]

Sunan Kubra Bayhaqi 34

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا (۳۴)
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ يَعْنِي الْحَنْظَلِيَّ
أَخْبَرَنَا النَّضْرُ حَدَّثَنَا أَبُو خَلْدَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: نَرَى نَبِيذَكُمْ
بِذَا الْخَبِيثِ إِنَّمَا كَانَ مَائٌ تُلْقَى فِيهِ تَمْرَاتٌ فَيَصِيرُ حُلْوًا.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: نبیذ سے طہارت حاصل کرنے کی ممانعت

حدیث نمبر: 34

ترجمہ:

(۳۴) حضرت ابو العالیہ سے روایت ہے کہ ہم تمہارے نبیذ کو
اچھا نہ سمجھتے تھے، لیکن وہ تو صرف پانی ہے جس میں
کھجوریں ڈالی جاتی ہیں اور وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Prohibition of attaining purity from

Nabidh

Hadith number: 34

Translation:

(34) It is narrated from Hazrat Abu Al-Alia that we did not consider your nabidh good, but it is only water in which dates are added and it becomes sweet.

[Sahih]

Sunan Kubra bayhaqi 35

Arabic Text:

:أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكْرِيَّا (٣٥)
يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو

الْعَبَّاسُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ
أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ -
وَحَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ قَالَ قُرِيَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَكَ
يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَعَمْرُو بْنُ
الْحَارِثِ عَنْ بِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءِ
بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهَا قَالَتْ: سِئِلَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ - عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ فَقَالَ: ((لِتَحْتَهُ ثُمَّ
لِتَقْرُصَهُ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ لِتَنْضَحَهُ ثُمَّ لِتُصَلِّ فِيهِ)) -
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي طَائِرٍ عَنِ
ابْنِ وَهْبٍ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مَالِكٍ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: مائع چیزوں کے علاوہ کر صرف پانی سے نجاست دور
کرنے کا بیان
حدیث نمبر: 35

:ترجمہ

(۳۵) سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیقؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے اس کپڑے کے بارے میں سوال کیا گیا جس (کو حیض کا خون لگ جائے تو آپ ﷺ نے فرمایا " :عورت اس کو کھرچ دے، پھر پانی کے ساتھ ملے، پھر اس کو جھاڑ کر اس میں نماز پر پڑھ لے۔"

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on removing impurities from water except liquids

Hadith number: 35

Translation:

(35) It is narrated on the authority of Asma bint Abi Bakr Siddiq (may Allah be pleased with her) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) was asked about a garment onto which menstrual blood falls and he said: If (menstrual) blood is found then she should scrape it, then wash it with water, and pray in it.

[Sahih. Narrated by Bukhari 227 and Muslim 291 and Nasai 294, 350 and Abu Dawud 361 and Tirmidhi 138 and Ibn Majah 629 and Ahmad 6/345, 346, 353 and Darimi 799]

Sunan Kubra Bayhaqi 36

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدٌ (٣٦)
بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ عَنْ بِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ -
عَنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ ((: حُتِّيهِ ثُمَّ اقْرُصِيهِ
بِالْمَاءِ ثُمَّ رُسِّيهِ فَصَلِّي فِيهِ)) -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مائع چیزوں کے علاوہ کر صرف پانی سے نجاست دور کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 36

ترجمہ:

(۳۶) (سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے نبی ﷺ سے اس کیڑے کے بارے میں سوال کیا جس کو حیض کا خون لگ جائے تو آپ ﷺ نے فرمایا۔ "اس کو کھرچ ڈال، پھر اس کو پانی کے ساتھ مل، پھر اس کو جھاڑ کر اس میں نماز پڑھ لے۔"

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on removing impurities from water except liquids

Hadith number: 36

Translation:

(36) It is narrated from Syeda Asma (may

Allah be pleased with her) that I asked the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) about the cloth on which menstrual blood falls so he (peace and blessings of Allah be upon him) said: "Remove it by scraping it, then wash it with water, then wring it and pray in it."

[Sahih. Narrated by Bukhari 227 and Muslim 291 and Nasai 294, 350 and Abu Dawud 361 and Tirmidhi 138 and Ibn Majah 629 and Ahmad 6/345, 346, 353 and Darimi 799]

Sunan Kubra Bayhaqi 37

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ: يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْإِسْفَرَائِينِيُّ (٣٧)
أَخْبَرَنَا أَبُو بَحْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا
الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا بِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ
فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - عَنْ دَمِ الْحَيْضِ
ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ ثُمَّ يُصِيبُ التَّوْبَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - ((: حُتِّيهِ
رُشِّيهِ وَصَلِّي فِيهِ)) -).

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: مائع چیزوں کے علاوہ کر صرف پانی سے نجاست دور
کرنے کا بیان
حدیث نمبر: 37

ترجمہ:

(٣٧) (سیدہ اسماء بنت ابی بکر صدیقؓ سے روایت ہے کہ ایک
عورت نے رسول اللہ ﷺ سے حیض کے خون کے

"متعلق پوچھا جو کیڑے کو لگ جاتا ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا اس کو کھرچ ڈال، پھر پانی کے ساتھ مل کر دھو دے، پھر اس کو جھاڑ کر اس میں نماز پڑھ لے۔"

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on removing impurities from water except liquids

Hadith number: 37

Translation:

(37) It is narrated on the authority of Asma bint Abi Bakr Siddiq (may Allah be pleased with her) that a woman asked the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) about the menstrual blood that falls on clothes, and he said: "Remove it by scraping it, then wash it with water, then wring it and pray in it."

[Sahih. Narrated by Bukhari 227 and Muslim 291 and Nasai 294, 350 and Abu Dawud 361

and Tirmidhi 138 and Ibn Majah 629 and Ahmad 6/345, 346, 353 and Darimi 799]

Sunan Kubra Bayhaqi 38

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٣٨)
بْنِ حَمْدَانَ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرَوْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ حَدَّثَنَا مُوسَى
بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ
يَنَّاقٍ عَنْ مُجَابِدٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: مَا كَانَ لِإِحْدَانَا
إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيهِ ، فَإِنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمِ بَلَّتْهُ بِرِيقِهَا
ثُمَّ قَصَعَتْهُ بِظُفْرِهَا.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ
ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَابِدٍ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مائع چیزوں کے علاوہ کر صرف پانی سے نجاست دور

کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 38

:ترجمہ

(۳۸) (سیدہ عائشہ ^{رض} سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا: ہم میں سے عورتوں کے پاس ایک ہی کپڑا ہوتا اور وہ اس میں حیض حیض والی ہوجاتیں۔ اگر اس کپڑے کو خون لگ جاتا تو وہ خشک ہوجاتا، پھر وہ) عورت (اس کو اپنے ناخن سے کھرچ دیتی۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on removing impurities

from water except liquids

Hadith number: 38

Translation:

(38) It is narrated from Ayesha (may Allah be pleased with her) that she said: Women among us would have only one garment and they would menstruate in it. If the cloth was stained with blood, it would dry out, then she would scratch it with her fingernails.

[Sahih. Narrated by Bukhari 312 and Abu Dawud 358 and Darimi 1055]

Sunan Kubra Bayhaqi 39

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذَبَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ (٣٩)
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ
عَنْ عَطَائٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَدْ كَانَ يَكُونُ
لِإِخْدَانَا الدَّرْعُ تَحِيضُ فِيهِ وَفِيهِ تُصِيبُهَا الْجَنَابَةُ ثُمَّ تَرَى فِيهِ قَطْرَةً
مِنْ دَمٍ فَتَقْصَعُهُ بِرِيقِهَا. (ق) (وَهَذَا فِي الدَّمِ الْيَسِيرِ الَّذِي يَكُونُ
مَغْفُورًا عَنْهُ فَأَمَّا الْكَثِيرُ مِنْهُ فَصَحِيحٌ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَغْسِلُهُ
وَذَلِكَ يَرُدُّ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مائع چیزوں کے علاوہ کر صرف پانی سے نجاست دور
کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 39

ترجمہ:

(٣٩) (سیدہ عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ ہم میں سے ایک
عورت کے پاس لمبی قیمص ہوتی تھی جس میں اس

کو حیض کا خون آجاتا یا وہ ناپاک ہوجاتی، پھر وہ اس میں خون کا قطرہ دیکھتی تو اس کو خشک ہونے پر سے کھرچ دیتی۔

(ب) اگر خون کم ہو تو وہ معاف ہے اور اگر زیادہ ہو تو صحیح یہ ہے کہ اس کو دھویا جائے۔ اس کے دلائل اپنے محل پر آئیں گے، ان شاء اللہ۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on removing impurities from water except liquids

Hadith number: 39

Translation:

(39) It is narrated from Ayesha Siddiqah (may Allah be pleased with her) that one of us used to have a long shirt in which she would menstruate or she would become junub. Then when she would see a drop of blood on it, she would scratch it when it became dry.

(B) If the blood is less, then it is forgiven and if it is more then it is correct to wash it.
[Sahih. Narrated by Abu Dawud 364]

Sunan Kubra Bayhaqi 40

Arabic Text:

ثُمَّ قَدْ رُوِيَ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ مَا أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ (٤٠)
اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ
بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
حَمَّادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: إِذَا حَكَ أَحَدُكُمْ
جِلْدَهُ فَلَا يَمْسَحُهُ بِرِيْقِهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِطَائِرٍ.
قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: اْمْسَحُهُ بِمَائٍ.
وَإِنَّمَا أَرَادَ سَلْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّ الرِّيْقَ (ق)

لَا يُطَهَّرُ الدَّمَ الْخَارِجَ مِنْهُ بِالْحَكِّ -
وَأَمَّا حَدِيثُ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - قَالَ لَهُ ((يَا (ت)
عَمَّارُ مَا نُخَامَتُكَ وَلَا دُمُوعُ عَيْنَيْكَ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْمَائِ الَّذِي فِي
رَكْوَتِكَ إِنَّمَا تَغْسِلُ ثَوْبَكَ مِنَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَالْمَنِيِّ وَالِدَّمِ
(وَالْقَيِّْ -

فَهَذَا بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ ، وَإِنَّمَا رَوَاهُ ثَابِتُ بْنُ حَمَّادٍ عَنْ
عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَمَّارٍ -
(ج (وَعَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ غَيْرُ مُحْتَجِّ بِهِ ، وَثَابِتُ بْنُ حَمَّادٍ مُتَّبِعٌ
بِالْوَضْعِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مائع چیزوں کے علاوہ کر صرف پانی سے نجاست دور

کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 40

ترجمہ:

(۴۰) حضرت سلیمان^{رض} سے روایت ہے کہ جب تم میں سے
کوئی اپنی جلد کو کھرچے تو خشک منی کونہ چھوئے، کیونکہ
کیونکہ وہ ناپاک ہے۔

(ب) (راوی کہتا ہے کہ میں نے یہ بات ابراہیم سے بیان کی تو انہوں نے فرمایا: اسے پانی کے ساتھ دھو ڈال۔ حضرت سلیمانؑ کی مراد یہ ہے کہ کھرچنا اس خون کی جگہ (کو پاک نہیں کرتا۔ واللہ اعلم۔

(ج) (رہی عمار بن یاسرؓ کی حدیث کہ نبی ﷺ نے ان سے فرمایا " :اے عمار! تیری بلغم اور آنسو اس پانی کی طرح ہیں جو تیرے ڈول میں ہو۔ تو اپنے کپڑے کو صرف بول و براز، منی، خون اور قے سے دھوئے گا۔

یہ حدیث موضوع ہے، اس کی اصل کوئی نہیں۔ اس کی سند کچھ اس طرح ہے: ثابت بن حماد 'عن علی بن زید عن ابن المسیب عن عمار۔

علی بن زید قابل حجت نہیں اور ثابت بن حماد حدیث گھڑنے میں تہمت زدہ ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on removing impurities from water except liquids

Translation:

(40) It is narrated from Hazrat Sulaiman that

when one of you scratches his skin, he should not touch the dry semen, because it is impure.

B) The narrator says that when I told this to Ibrahim, he said: Wash it with water. Hazrat Sulaiman meant that scratching does not purify the place of blood. Allah knows best

C) The hadith of Ammar ibn Yasir (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said to him: “O Ammar! Your mucus and tears are like the water in your bucket. You will only wash your clothes for saliva, semen, blood and vomit.

This hadith is a fabricated, it has no origin. The isnad (chain of transmission) for this hadith is as follows: Thabit ibn Hammad on the authority of Ali ibn Zayd on the authority of Ibn al-Musayyib on the authority of Ammar

Ali ibn Zayd is not reliable and Thabit ibn

Hammad is accused of fabricating hadith.
[Hasan (Fair). Narrated by al-Khatib in the
History of Baghdad 168/9]

Sunan Kubra Bayhaqi 41

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ (٤١)
أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يُحَدِّثُ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ: قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -)) : أَنْ لَا
تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيِّتَةِ بِأَبَابٍ وَلَا عَصَبٍ -))

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان

باب: مردار کے چمڑے کا حکم

حدیث نمبر: 41

ترجمہ:

(۴۱) حضرت عبداللہ بن عکیم^{رض} سے روایت ہے کہ ہم پر رسول اللہ ﷺ کا خط پڑھا گیا، اس میں تھا کہ تم مردار کے چمڑے سے نفع حاصل نہ کرو اور نہ ہی اس کے پٹھوں سے فائدہ اٹھاؤ۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Ruling on the skin of dead animals

Hadith number: 41

Translation:

(41) It is narrated from Hazrat Abdullah bin Ukaim (may Allah be pleased with him) that the letter of the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) was read to us, in which it was said that you should not benefit from the skin of the dead nor benefit

from the sinew of dead animals.

[Sahih. Narrated by Nasai 2455, 2456 and Abu Dawud 4127 and Tirmidhi 1729 and Ibn Majah 3613 and Ahmad 4/210, 311]

Sunan Kubra Bayhaqi 42

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوَدُبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ (٤٢)
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ: قُرِئَ عَلَيْنَا
كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - بِأَرْضِ جُهَيْنَةَ وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌّ - : أَنَّ لَأَ
تَسْتَمْتَعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِأَبَابٍ وَلَا عَصَبٍ -).

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مردار کے چمڑے کا حکم

حدیث نمبر: 42

:ترجمہ

(۴۲) حضرت عبداللہ بن عکیمؓ سے روایت ہے کہ ہم پر جہینہ نامی جگہ میں رسول اللہ ﷺ کا خط پڑھا گیا اور میں اس وقت نوجوان تھا، اس میں لکھا تھا کہ تم مردہ جانور کے چمڑے سے فائدہ نہ اٹھاؤ اور نہ ہی اس کے پٹھوں سے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Ruling on the skin of dead animals

Hadith number: 42

Translation:

(42) It is narrated from Hazrat Abdullah bin Ukaim that the letter of the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) was read out to us in the territory of Juhainah when I was a young boy, in the letter it said: Do not make use of the skin or sinew of dead animals.

[Sahih. Narrated by Nasai 2455, 2456 and Abu Dawud 4127 and Tirmidhi 1729 and Ibn Majah 3613 and Ahmad 4/210, 311]

Sunan Kubra Bayhaqi 43

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذِبَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ (٤٣)
 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا
 النَّقَّافِيُّ عَنْ خَالِدٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ: أَنَّهُ انْطَلَقَ هُوَ وَأَنَاسُ مَعَهُ
 إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ رَجُلٌ مِنْ جُهَيْنَةَ قَالَ الْحَكَمُ فَدَخَلُوا وَقَعَدْتُ
 عَلَى الْبَابِ فَخَرَجُوا إِلَيَّ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عُكَيْمٍ
 :أَخْبَرَهُمْ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - كَتَبَ إِلَى جُهَيْنَةَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ
 ((الَّا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِأَبَابٍ وَلَا عَصَبٍ))-

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَقَدْ قِيلَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ وَجْهِ
 آخَرَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِأَرْبَعِينَ يَوْمًا وَقِيلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ
 قَالَ حَدَّثَنَا مَشِيخَةٌ لَنَا مِنْ جُهَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - كَتَبَ إِلَيْهِمْ
 وَذَلِكَ يَرُدُّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مردار کے چمڑے کا حکم

حدیث نمبر: 43

ترجمہ:

(الف) حضرت عبداللہ بن عکیمؓ کے پاس کچھ (٤٣)

لوگ آئے تو انہوں نے بتلا یا کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنی وفات سے ایک مہینہ پہلے جہینہ قبیلہ والوں کو لکھا کہ تم مردار کے چمڑے سے نفع حاصل نہ کرو اور نہ ہی اس کے پٹھوں سے فائدہ اٹھاؤ۔

(ب (امام بیہقی) رح (فرماتے ہیں: یہ حدیث دوسری سند سے بھی وارد ہے جس کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ نے وفات سے چالیس دن پہلے یہ خط لکھا۔ حضرت عبداللہ بن عکیمؓ سے روایت ہے کہ ہمارے قبیلے جہینہ کے مشائخ نے ہمیں بتایا کہ نبی ﷺ نے انہیں خط لکھا۔ ان شاء اللہ اس کا ذکر آگے آئے گا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Ruling on the skin of dead animals

Hadith number: 43

Translation:

(43) (a) Some people came to Hazrat Abdullah bin Ukaim (may Allah be pleased with him) and he told them that the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him)

wrote to the people of Juhainah a month before his death that you should not benefit from the skin of the dead nor benefit from its sinew.

(B) Imam Bayhaqi (may Allah have mercy on him) says: This hadith is also narrated from another chain of transmission, the words of which are that he wrote this letter forty days before his death. It is narrated from Hazrat Abdullah bin Ukaim (may Allah be pleased with him) that the elders of our tribe of Juhaynah told us that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) wrote a letter to them. Inshallah, it will be mentioned later.

[Sahih. Narrated by Nasai 2455, 2456 and Abu Dawud 4127 and Tirmidhi 1729 and Ibn Majah 3613 and Ahmad 4/210, 311]

Sunan Kubra Bayhaqi 44

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ (٤٤)
السُّكْرِيُّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ
مُحَمَّدِ بْنِ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ غَسَّانَ قَالَ قَالَ

أَبُو زَكَرِيَّا يَعْنِي يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ: جَاءَنَا
 كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: ((أَلَّا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِأَبَابٍ وَلَا
 عَصَبٍ)) (فِي حَدِيثِ ثِقَاتِ النَّاسِ حَدَّثَنَا أَصْحَابُنَا: أَنَّ النَّبِيَّ -
 ﷺ - كَتَبَ)): ((أَلَّا تَنْتَفِعُوا))
 قَالَ الشَّيْخُ يَعْنِي بِهِ أَبُو زَكَرِيَّا رَحِمَهُ اللَّهُ: تَغْلِيلَ الْحَدِيثِ (ق)
 بِذَلِكَ وَهُوَ مَحْمُولٌ عِنْدَنَا عَلَى مَا قَبْلَ الدَّبْعِ بِدَلِيلِ مَا هُوَ أَصَحُّ
 مِنْهُ فِي الْأَبْوَابِ الَّتِي تَلِيهِ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مردار کے چمڑے کا حکم

حدیث نمبر: 44

ترجمہ:

(۴۴) (یحییٰ بن معین نے فرمایا کہ حدیث عبد اللہ بن عکیمؓ کہ
 ہمارے پاس رسول اللہ ﷺ خط آیا) جس میں لکھا تھا (کہ تم
 مردار کے چمڑے سے نفع حاصل نہ کرو اور نہ ہی اس کے
 پٹھوں سے فائدہ اٹھاؤ، ایک اور قوی سند کے ساتھ ہمارے
 اصحاب نے ہم کو بیان کی ہے کہ نبی ﷺ نے لکھا " تم نفع نہ
 " اٹھاؤ۔

شیخ ابو زکریا (رح) اسی حدیث کی علت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ چمڑا رنگنے سے پہلے پر محمول ہے۔ اس کی دلیل اگلے ابواب میں صحیح (اسناد سے) وارد احادیث ہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Ruling on the skin of dead animals

Hadith number: 44

Translation:

(44) Yahya ibn Mu'in said: The hadith of Abdullah ibn Ukaim (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (may peace be upon him) came to us (in which it was written) that you should not benefit from the skin of the dead nor benefit from its sinew. Our companions have narrated to us with a strong isnad (chain of transmission) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) wrote: "Do not profit."

[Sahih. Narrated by Nasai 2455, 2456 and Abu Dawud 4127 and Tirmidhi 1729 and Ibn Majah 3613 and Ahmad 4/210, 311]

Sunan Kubra Bayhaqi 45

Arabic Text:

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ بْنِ أَحْمَدَ الْأَصْبَهَانِيُّ (٢٥)
إِمْلَائِي حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ زِيَادِ الْبَصْرِيُّ بِمَكَّةَ
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ
الزُّبَيْرِيِّ عَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ - مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ لِمَوْلَاةٍ مَيْمُونَةَ فَقَالَ : ((
:أَخَذُوا إِبَاهَا فَدَبَّغُوهُ فَانْتَفَعُوا بِهِ؟)) (قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ. قَالَ
:)) إِنَّمَا حَرَّمَ أَكْلِهَا ((-))

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مردار کے چمڑے کو رنگ لگا کر پاک کرنا

حدیث نمبر: 45

ترجمہ:

۴۵ (حضرت عبداللہ بن عباس^{رض} سے روایت ہے کہ نبی ﷺ حضرت میمونہ^{رض} کے غلام کی مردار بکری کے پاس سے گزرے تو آپ ﷺ نے فرمایا " تم نے اس کا چمڑا کیوں نہیں اتارا تم اس کو رنگتے اور نفع حاصل کرتے " صحابہ کرام^{رض} نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! یہ تو مردار ہے۔ آپ ﷺ نے " فرمایا " :صرف اس کا (گوشت (کھانا حرام ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Purifying the skin of dead animals
by tanning

Hadith number: 45

Translation:

(45) It is narrated from Hazrat Abdullah bin Abbas (may Allah be pleased with him) that when the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) passed by the dead goat of the slave of Hazrat Maimuna (may Allah be pleased with her), he said: "Why did you not skin it? You could have dyed it and made a profit. The Companions said: O Messenger of Allah! It is dead. He said: "It is haraam to eat only its (meat)."

[Sahih. Narrated by Bukhari 1492 and Muslim 363, 365 and Nasai 4240 and Abu Dawud 4120 and Tirmidhi 1727 and Ibn Majah 3610 and Ahmad 1/261, 327, 329, 365 and Darimi 2031]

Sunan Kubra Bayhaqi 46

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ بَشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا (٤٦)
إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
:فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ وَقَالَ
((أَلَا نَزَعْتُمْ إِبَابَهَا فَدَبَّغْتُمُوهُ وَانْتَفَعْتُمْ بِهِ))-

رَوَاهُ مُسْلِمٌ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَابْنِ بَكْرِ
بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرِهَا عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ-

(ج) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي بَكْرِ
الْحَمِيدِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ كَانَ سُفْيَانُ رُبَّمَا قَالَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ مَيْمُونَةَ ، فَإِذَا وَقَفَ عَلَيْهِ قَالَ هُوَ عَنْ مَيْمُونَةَ وَقِيلَ
لَهُ فَإِنَّ مَعْمَرًا لَا يَقُولُ فِيهِ فَدَبَّغُوهُ وَيَقُولُ كَانَ الزُّهْرِيُّ يُنْكِرُ
الدِّبَاغَ فَقَالَ سُفْيَانُ لَكِنِّي أَنَا أَحْفَظُ فِيهِ-

وَفِي الْحَدِيثِ الْآخِرِ حَدِيثِ عَمْرٍو عَنْ عَطَائٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ-

قَالَ الشَّيْخُ: رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ (ت)
وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ وَصَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ وَغَيْرُهُمْ فَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ

فَدَبَّغُوهُ وَقَدْ حَفِظَهُ سَفِيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، وَالزِّيَادَةُ مِنْ مِثْلِهِ مَقْبُولَةٌ إِذَا
كَانَتْ لَهَا شَوَابِدُ۔
وَقَدْ تَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ وَالزُّبَيْدِيُّ
فِيمَا رُوِيَ عَنْهُمْ۔ وَهُوَ فِي حَدِيثِهِ أَيْضًا عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ
:عَطَائِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ كَمَا

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مردار کے چمڑے کو رنگ لگا کر پاک کرنا

حدیث نمبر: 46

:ترجمہ

(۴۶) حضرت میمونہ ^{رض} سے منقول روایت میں یہ الفاظ ہیں: **الْأَنْزَعْتُمْ إِبَابَهَا فَدَبَّغْتُمُوهُ وَانْتَفَعْتُمْ بِهِ** (تم نے اس کا چمڑا کیوں نہیں اتارا، پھر اس کو رنگ لیتے اور نفع حاصل کرتے۔
سُفِيَانُ) (نہ ابن عباس ^{رض} سے روایت کرتے ہوئے میمونہ کا ذکر نہیں کیا اور بعض جگہ وہ میمونہ کا ذکر کرتے ہیں۔
ان سے کہا گیا کہ معمر "فدبغوه" کا لفظ ذکر نہیں کرتے

تھے اور کہتے تھے کہ امام زہری دباغت کا انکار کرتے تھے
تو سفیان (رح (نے کہا: مجھے) یہ حدیث (ان سے زیادہ یاد
ہے۔

امام بیہقی (رح (کہتے ہیں کہ زہری سے ایک کثیر جماعت
نے روایت کیا ہے، لیکن انہوں نے دباغت کا ذکر نہیں کیا
بلکہ سفیان بن عیینہ نے (دباغت کا (ذکر کیا ہے اور جب
شواہد موجود ہوں تو ثقہ کی زیادتی مقبول ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Purifying the skin of dead animals
by tanning

Hadith number: 46

Translation:

(46) In the narration narrated from Hazrat
Maimuna (may Allah be pleased with her), the
following words are there:

(أَلَا نَزَعْتُمْ إِبَابَهَا فَدَبَعْتُمُوهُ وَانْتَفَعْتُمْ بِهِ)

Why did you not take off its skin, then dye it
and gain profit from it?

Sufyan (may Allah have mercy on him) did not mention Maimuna (may Allah be pleased with her) when narrating from Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) and in some places he does mention Maimuna (may Allah be pleased with her). He was told that Mu'amar did not mention the word "fadbaghuh" and used to say that Imam Zuhri (may Allah have mercy on him) used to deny (the wording of) tanning so Sufyan (may Allah have mercy on him) said that he remembers the hadith better.

Imam Bayhaqi (may Allah have mercy on him) says that a large group has narrated from Zuhri (may Allah have mercy on him), but he did not mention tanning, but Sufyan ibn Uyaynah (did mention tanning) and when there is evidence, the more trustworthy is accepted.

[Sahih. Narrated by Al-Daraqutni 1/44]

Sunan Kubra Bayhaqi 47

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ (٤٧)
أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا
عَمْرُو عَنْ عَطَائٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - مَرَّ بِشَاةٍ
لَمِيمُونَ مَيْتَةٌ فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - ((لَوْ أَخَذُوا إِبَاهَا فَدَبَعُوهُ
فَانْتَفَعُوا بِهِ)) (رَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ

عَنْ ابْنِ أَبِي عُمَرَ وَغَيْرِهِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ -
(وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَطَايٍ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ
أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَايٍ ، وَلَمْ يَذْكُرُوا لَفْظَ الدِّبَاغِ فِي الْحَدِيثِ
:وَقَدْ حَفِظَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ- وَتَابَعَهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَطَايٍ كَمَا

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: مردار کے چمڑے کو رنگ لگا کر پاک کرنا
حدیث نمبر: 47

:ترجمہ

(۴۷) حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ سیدہ
میمونہؓ کی مردہ بکری کے پاس سے گزرے تو فرمایا " تم
اس کا چمڑا اتار لیتے، پھر اس کو رنگتے اور اس سے نفع
" حاصل کرتے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Purifying the skin of dead animals
by tanning

Hadith number: 47

Translation:

(47) It is narrated from Hazrat Abdullah bin Abbas (may Allah be pleased with him) that when the Prophet passed by the dead goat of Syeda Maimuna (may Allah be pleased with her), he said: "You should have taken off its skin, then dyed it and benefited from it."

[Sahih. Narrated by Bukhari 1492 and Muslim 363, 365 and Nasai 4240 and Abu Dawud 4120 and Tirmidhi 1727 and Ibn Majah 3610 and Ahmad 1/261, 327, 329, 365 and Darimi 2031]

Sunan Kubra Bayhaqi 48

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّيَّ وَأَبُو عَبْدِ (٤٨)
الرَّحْمَنِ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ السُّلَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ
أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ اللَّيْثِيِّ عَنْ عَطَائِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِأَبْلِ شَاةٍ مَاتَتْ)) : أَلَا نَزَعْتُمْ
جُلْدًا فَدَبَعْتُمُوهُ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ))-.
ب (وَبَكَذَا رَوَاهُ اللَّيْثِيُّ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ
عَطَائٍ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ
عَطَائٍ ، وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مُطْلَقًا دُونَ ذِكْرِ
الدَّبَاغِ فِيهِ. وَحَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعَلَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ شَائِدٌ
لِصِحَّةِ حِفْظِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَمَنْ تَابَعَهُ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مردار کے چمڑے کو رنگ لگا کر پاک کرنا

حدیث نمبر: 48

ترجمہ:

(۴۸) حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان لوگوں سے کہا جن کی بکری مر گئی تھی " تم نے اس کا چمڑا کیوں نہ اتارا اور تم اس کو رنگتے، پھر اس سے " فائدہ اٹھاتے۔

(ب) (سعید بن جبیر) رح (نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت کیا ہے، اس میں دباغت کا ذکر نہیں ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Purifying the skin of dead animals by tanning

Hadith number: 48

Translation:

(48) It is narrated from Hazrat Abdullah bin Abbas (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said to the people whose goat had died: "Why didn't you take off its skin and dye it, then take advantage of it?"

(B) Saeed bin Jubair (may Allah have mercy on him) has narrated from Hazrat Abdullah bin Abbas (may Allah be pleased with him), it does not mention tanning.

[Sahih. Narrated by Bukhari 1492 and Muslim 363, 365 and Nasai 4240 and Abu Dawud 4120 and Tirmidhi 1727 and Ibn Majah 3610 and Ahmad 1/261, 327, 329, 365 and Darimi 2031]

Sunan Kubra Bayhaqi 49

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ: الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّوْذِبَارِيُّ وَأَبُو (٤٩)
الْحُسَيْنِ: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَشْرَانَ قَالَ حَدَّثَنَا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ وَعْلَةَ يَرْوِيهِ عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((: أَيُّمَا إِبَابٍ دُبِعَ فَقَدْ طَهَّرَ)) (-).
رَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ
وَغَيْرِهِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ.

(: ت) (وَقَدْ اتَّفَقَ الْكُلُّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى ذِكْرِ الدِّبَاغِ فِيهِ
فَرَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَسُفْيَانُ بْنُ سَعِيدِ الثَّوْرِيُّ وَسُلَيْمَانُ بْنُ
بِلَالٍ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَّاورِدِيُّ وَفُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَبِشَامُ
بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِمَعْنَاهُ.
وَرَوَاهُ أَبُو الْخَيْرِ الْيَزْنِيُّ عَنْ ابْنِ وَعْلَةَ بِمَعْنَاهُ.
: وَرَوَاهُ أَخُو سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ كَمَا

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مردار کے چمڑے کو رنگ لگا کر پاک کرنا

حدیث نمبر: 49

ترجمہ:

(۴۹) حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " جو چمڑا رنگ دیا جائے وہ پاک ہو جاتا ہے۔"
(ب) سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ تمام رواۃ اس حدیث میں دباغت کے ذکر پر متفق ہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Purifying the skin of dead animals
by tanning

Hadith Number 49

Translation:

(49) It is narrated from Hazrat Abdullah bin

Abbas (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "Any skin that is tanned has been purified."

(B) Sufyan ibn Unaynah (may Allah have mercy on him) says that all the narrators agree on the mention of tanning in this hadith. [Sahih. Narrated by Muslim 366 and Nasai 4246 and Abu Dawud 4123 and and Tirmidhi 1728 and Ibn Majah 3609 and Ahmad 1/219, 237, 270, 279, 280, 343 and Darimi 2028]

Sunan Kubra Bayhaqi 50

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ : عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ عَلِيٍّ بْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ (٥٠)
الْمُؤَدِّبُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ رَوْحِ الْمَدَائِنِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ
عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَخِيهِ عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - فِي جِلْدِ الْمَيْتَةِ قَالَ : إِنَّ دِبَاغَهُ قَدْ ذَهَبَ
بِخَبْتِهِ أَوْ رَجَسِهِ أَوْ نَجَسِهِ - وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ -
وَسَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ عَلِيٍّ الْأَصْبَهَانِيَّ عَنْ أَخِي سَالِمٍ هَذَا فَقَالَ : اسْمُهُ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب : پاکی کا بیان
باب : مردار کے چمڑے کو رنگ لگا کر پاک کرنا
حدیث نمبر : 50

ترجمہ:

(٥٠) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مردار کے
چمڑے کے بارے میں روایت کرتے ہیں۔ آپ ﷺ نے

فرمایا " :بیشک اس کا رنگنا اس کی پلیدگی اور نجاست کو دور کر دیتا ہے۔ " اس کی اسناد صحیح ہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Purifying the skin of dead animals by tanning

Hadith number: 50

Translation:

(50) Hazrat Abdullah bin Abbas (may Allah be pleased with him) narrates from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) about the skin of dead animals. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "Indeed, tanning it removes its uncleanness and impurity."

[Daif (Weak). Narrated by Ahmad 1/237]

Sunan Kubra Bayhaqi 51

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدٌ (٥١)
بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَخْبَرَنَا
ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ. أَخْرَجَهُ
أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ.
(ت) (وَرَوَى عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ وَعَطَايَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ
فِي بَدَا الْمَعْنَى.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مردار کے چمڑے کو رنگ لگا کر پاک کرنا

حدیث نمبر: 51

ترجمہ:

(51) (سیدہ عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مردار کے چمڑے سے فائدہ اٹھانے کا حکم دیا جب کہ اس کو رنگ دیا جائے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Purifying the skin of dead animals
by tanning

Hadith number: 51

Translation:

(51) It is narrated from Ayesha (may Allah be pleased with her) that the Prophet (peace and blessings of Allamah be upon him) commanded to use the skin of the dead animal when it is dyed.

[Daif (Weak). Narrated by Malik 25/18]

Sunan Kubra Bayhaqi 52

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذُبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ (٥٢)
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ
عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَوْنِ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ: أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ -جَاءَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ إِلَى بَيْتِ، فَإِذَا قَرِيبَةً مُعَلَّقَةً
فَسَأَلَ الْمَاءَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ. فَقَالَ: ((دَبَاغُهَا
طَهُورٌ بَأْسًا)) -.

(ت) (وَبِهَذَا رَوَاهُ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ وَبِشَّامُ الدَّسْتَوَائِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ
أَبِي عَرُوبَةَ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ عَنْ قَتَادَةَ

مَوْصُولًا-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مردار کے چمڑے کو رنگ لگا کر پاک کرنا

حدیث نمبر: 52

ترجمہ:

(۵۲) سلمہ بن محبق^{رض} سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ غزوہ تبوک سے گھر کی طرف آئے تو وہاں ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا۔ آپ ﷺ نے پانی مانگا تو صحابہ کرام^{رض} نے کہا: وہ مردار (چمڑے کا بنا ہوا) ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا: "اس کا رنگنا اس کا پاک کرنا ہے۔"

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Purifying the skin of dead animals by tanning

Hadith number: 52

Translation:

(52) It is narrated from Salma ibn Muhibaq that when the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) came home from Tabuk, he saw a waterskin hanging. Seeing this he asked for water, upon which the Companions said: It is a (made of the skin of a) dead animal. He said: "Its tanning is its purification."

[Sahih. Narrated by Nasai 4248 and Abu Dawud 4125 and Ahmad 3/476]

Sunan Kubra Bayhaqi 53

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي (٥٣)
 أَبُو عَمْرٍو بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا
 إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
 أَيُّوبَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ
 وَعَلَةَ السَّبَائِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: إِنَّا نَكُونُ
 بِالْمَغْرِبِ فَتَأْتِينَا الْمَجُوسُ بِالْأَسْقِيَةِ فِيهَا الْمَاءُ وَالْوَدَكُ فَقَالَ
 اشْرَبْ فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ تَرَاهُ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -
 ﷺ - يَقُولُ ((: دِبَاغُهَا طَهُورٌ بَأ)) -
 رَوَاهُ مُسْلِمٌ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ
 وَغَيْرِهِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: کسی چیز کے اندرونی حصے کو رنگنا گویا اس کے باہر
 کے حصے کو رنگنا ہے اور تمام مائع چیزوں میں اس سے
 نفع اٹھانا جائز ہے
 حدیث نمبر: 53

:ترجمہ

(٥٣) (ابن وعلہ سبائی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ

بن عباسؓ سے پوچھا کہ ہم مغرب میں ہوتے ہیں تو ہمارے پاس مجوسی مشکیزے لاتے ہیں جس میں پانی اور چربی ہوتی ہے؟ انہوں نے فرمایا: پی لیا کرو۔ میں نے کہا: کیا یہ تمہاری رائے ہے؟ ابن عباسؓ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ "اس کو رنگنا ہی اس کا پاک کرنا ہے۔"

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Dyeing the inner part of an object is like dyeing the outer part of it, and it is permissible to benefit from all liquids in it

Hadith Number 53

Translation:

(53) Ibn Wala Sabai says that I asked Abdullah bin Abbas (may Allah be pleased with him): We are the inhabitants of the western regions. The Magians come to us with waterskins full of water and fat. He said: Drink from it. I said to him: Is this your own

opinion? Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) said: I heard the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) say: "Its tanning is its purification."
[Sahih. Narrated by Muslim 366]

Sunan Kubra Bayhaqi 54

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَلِيمٍ (٥٤)
الْمَرْوَزِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُؤَجِّهِ أَخْبَرَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ عَنْ سَوْدَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَتْ مَاتَتْ شَاةً لَنَا فَدَبَّغْنَا
مَسْكَهَا فَمَا زِلْنَا نَنْتَبِذُ فِيهِ حَتَّى صَارَ شَنًّا.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُقَاتِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

الْمُبَارَكِ-

(ب) وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَالْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ

إِسْمَاعِيلَ-

وَكَذَا رَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ فَقَالَ مَيْمُونَةَ بَدَلْ

سَوْدَةَ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: کسی چیز کے اندرونی حصے کو رنگنا گویا اس کے باہر

کے حصے کو رنگنا ہے اور تمام مائع چیزوں میں اس سے

نفع اٹھانا جائز ہے

حدیث نمبر: 54

:ترجمہ

(۵۴) ام المومنین سیدہ سودہ^{رض} سے روایت ہے کہ ہماری ایک

بکری مرگئی، ہم نے اسی کا چمڑا رنگ لیا اور ہم برابر اس

میں نیبذ بناتے رہے حتیٰ کہ وہ مشکیزہ بن گیا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Dyeing the inner part of an object is like dyeing the outer part of it, and it is permissible to benefit from all liquids in it

Hadith number: 54

Translation:

(54) It is narrated from Umm Al-Muminin Syeda Sauda (may Allah be pleased with her) that one of our goats died, we tanned its skin and we continued to make Nabidh in it till it was worn out and became a water skin.

[Sahih. Narrated by Bukhari 6686 and Nasai 4245 and Ahmad 6/429]

Sunan Kubra Bayhaqi 55

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَائِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو طَائِرٍ (۵۵)
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُحَمَّدَابَادِيُّ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَيْمُونَةَ -
وَرَوَاهُ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عِكْرَمَةَ كَمَا -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: کسی چیز کے اندرونی حصے کو رنگنا گویا اس کے باہر
کے حصے کو رنگنا ہے اور تمام مائع چیزوں میں اس سے
نفع اٹھانا جائز ہے
حدیث نمبر: 55

ترجمہ:

(۵۵) عبید اللہ نے سیدہ میمونہ سے اپنی سند کے ساتھ ذکر کیا
ہے اور سماک بن حرب نے عکرمہ^{رض} سے نقل کیا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Dyeing the inner part of an object is like dyeing the outer part of it, and it is permissible to benefit from all liquids in it

Hadith number: 55

Translation:

(55) Ubaidullah has narrated from Syeda Maimuna (may Allah be pleased with her) with his chain of transmission and Samak ibn Harb has narrated from Ikrimah.

[Sahih. His men are trustworthy]

Sunan Kubra Bayhaqi 56

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ (٥٦)
عَبِيدِ الصَّفَّارِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ
عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مَاتَتْ شَاةٌ لِسَوْدَةَ
: بِنْتِ زَمْعَةَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاتَتْ فُلَانَةٌ تَعْنِي الشَّاةَ . قَالَ
فَلَوْلَا أَخَذْتُمْ مَسْكَهَا . قَالَتْ : نَأْخُذُ مَسْكَ شَاةٍ قَدْ مَاتَتْ . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ : إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { قُلْ لَا أَجِدُ فِيهَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا
عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ
خِنْزِيرٍ } [الأنعام : ١٤٥] ((وَإِنَّكُمْ لَا تَطْعَمُونَهُ إِنَّمَا تَدْبِغُونَهُ
فَتَنْتَفِعُونَ بِهِ)) (فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهَا فَسَلَخْتُ مَسْكَهَا فَدَبَّغْتُهَا فَاتَّخَذْتُ
مِنْهُ قِرْبَةً حَتَّى تَخْرُقَتْ عِنْدِي .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب : پاکی کا بیان

باب : کسی چیز کے اندرونی حصے کو رنگنا گویا اس کے

باہر کے حصے کو رنگنا ہے اور تمام مائع چیزوں میں اس سے نفع اٹھانا جائز ہے

حدیث نمبر: 56

ترجمہ:

(۵۶) حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ ام المومنین سیدہ سودہ بنت زمعہؓ کی ایک بکری مر گئی، انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! فلاں کی بکری مراد تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے ان سے کہا " تم نے اس کا چمڑا کیوں نہ اتارا؟ " آپ نے عرض کیا: اس بکری کا چمڑا جو مر گئی؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے فرمایا { قُلْ لَا أَجِدُ فِيهَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ [الأَنْعَام: ۱۴۵] ترجمہ: کہہ دیجیے میں اس وحی سے جو میری طرف کی گئی ہے کسی کھانے والے پر کوئی چیز حرام نہیں پاتا جسے وہ کھائے سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو۔ تم اس کو کھاتے نہیں تم اس کو رنگتے ہو اور اس سے فائدہ حاصل کرتے ہو۔ انہوں نے اس (بکری) کی طرف کسی کو بھیجا، اس نے اس کا چمڑا اتارا اور اسے رنگ کر مشکیزہ بنایا حتیٰ کہ وہ ان کے پاس ہی ختم ہو گیا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Dyeing the inner part of an object is like dyeing the outer part of it, and it is permissible to benefit from all liquids in it

Hadith number: 56

Translation:

(56) It is narrated from Hazrat Abdullah bin Abbas (may Allah be pleased with him) that a goat of Umm Al-Mumineen Syeda Sauda bint Zamaa (may Allah be pleased with her) died. She said: O Messenger of Allah! So-and-so's goat has died. The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said to him: "Why did you not take off its skin?" She asked: The skin of the goat that died? The Prophet of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: Allah said:

قُلْ لَا أَجِدُ فِيهَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ {
يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ }

{Say, "I do not find within that which was revealed to me [anything] forbidden to one who would eat it unless it be a dead animal or blood spilled out or the flesh of swine"}

[Surah Anaam 6:145]

You don't eat it, you dye it and you benefit from it."

He sent someone for it (the goat), and he took off its skin, and dyed it, and made it a water skin, until it finished with them.

[Daif (Weak). Narrated by Ibn Hibban]

Sunan Kubra Bayhaqi 57

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (٥٧)
الْقَاضِي حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ وَالْعَبَّاسُ النَّزَّيْسِيُّ أَنَّ أَبَا
عَوَانَةَ حَدَّثَهُمْ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: کسی چیز کے اندرونی حصے کو رنگنا گویا اس کے باہر
کے حصے کو رنگنا ہے اور تمام مائع چیزوں میں اس سے
نفع اٹھانا جائز ہے

حدیث نمبر: 57

:ترجمہ

(٥٧) (ابو عوانہ نے اس کو اور دوسری ہم معنی روایت کو

اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Dyeing the inner part of an object is like dyeing the outer part of it, and it is permissible to benefit from all liquids in it

Hadith number: 57

Translation:

(57) Abu Awanah has narrated this and other synonymous narrations with his own chain of transmission.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 58

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَابِرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمُودِ بْنِ رَحِمَهُ اللَّهُ (٥٨)
تَعَالَى أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا
الشَّيْبَانِيُّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى
:- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمِ الْجُهَنِيِّ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -
((أَنْ لَا تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِبَابٍ وَلَا عَصَبٍ)) -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: کتے اور خنزیر کی کھال سے فائدہ اٹھانے کی ممانعت
اور وہ دونوں زندہ بھی نجس ہیں
حدیث نمبر: 58

:ترجمہ

۵۸ (عبداللہ بن عکیمؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہماری طرف) خط (لکھا یہ کہ "تم مردار کی کھال سے فائدہ نہ اٹھاؤ اور نہ ہی اس کے پٹھوں سے۔"

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Prohibition of taking advantage of dog and pig skins and both of them are impure while alive

Hadith number: 58

Translation:

(58) It is narrated from Abdullah bin Ukaim that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) wrote to us (a letter) saying: "Do not benefit from the skin of the dead, nor from its sinew."

[Sahih. Narrated by Nasai 2455, 2456 and Abu Dawud 4127 and Tirmidhi 1729 and Ibn Majah 3613 and Ahmad 4/210, 311]

Sunan Kubra Bayhaqi 59

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ (٥٩)
يَعْقُوبَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ
بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي
الْمَلِيحِ الْهَدَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ -
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ وَأَبُو الْمَلِيحِ هُوَ عَامِرُ بْنُ أُسَامَةَ بْنِ
عُمَيْرٍ وَقِيلَ زَيْدُ بْنُ أُسَامَةَ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: کتے اور خنزیر کی کھال سے فائدہ اٹھانے کی ممانعت

اور وہ دونوں زندہ بھی نجس ہیں

حدیث نمبر: 59

ترجمہ:

(59) ابو ملیح ہذلی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے درندوں کی کھال استعمال کرنے سے منع کیا ہے۔ ابو ملیح کا نام عامر بن اسامہ بن عمیر ہے، ایک قول یہ ہے کہ کہ ان کا نام زید بن اسامہ ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Prohibition of benefiting from the skin of dogs and pigs and both of them are impure even when alive

Hadith number: 59

Translation:

(59) Abu Malih Hudhali narrates from his father that the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) forbade (the usage of) the skins of beasts of prey.

Abu Malih's name is Amir bin Usama bin Umayr. One opinion is that his name is Zaid bin Usama.

[Sahih. Narrated by Nasai 4258 and Abu Dawud 4132 and Tirmidhi 1771 and Ahmad 5/74, 75]

Sunan Kubra Bayhaqi 60

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمُرْزُغِيِّ (٦٠)
أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُرْزُغِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْحَضْرَمِيِّ حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا
عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَأَبِي رَزِينٍ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا وَلَغَ
الْكَلْبُ فِي إِنَائِ أَحَدِكُمْ فَلْيُهْرِقْهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ)) (-).

رَوَاهُ مُسْلِمٌ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُجْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
مُسْهِرٍ وَ قَالَ فِيهِ ((:فَلْيُرْقَهُ))

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: کتے اور خنزیر کی کھال سے فائدہ اٹھانے کی ممانعت

اور وہ دونوں زندہ بھی نجس ہیں

حدیث نمبر: 60

:ترجمہ

(60) (سیدنا ابوہریرہ ^{رض} سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " :جب کتا تمہارے برتن میں منہ ڈال دے تو وہ اس کو " انڈیل دے، پھر اس کو سات مرتبہ دھوئے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Prohibition of benefiting from the skin of dogs and pigs and both of them are impure even when alive

Hadith number: 60

Translation:

(60) It is narrated from Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "If a dog licks the vessel of any one of you, let him throw (the contents) away and wash it seven times."

[Sahih. Narrated by Muslim 279 and Nasai 66, 336 and Ibn Majah 363 and Ahmad 2/424, 480]

Sunan Kubra Bayhaqi 61

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا: يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ (٦١)
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ
أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ
عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ-

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ
بْنُ عُبَيْدِ الصَّفَّارِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ
حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ فَرْقَدٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَالِكِ بْنِ
حُذَافَةَ حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّهِ الْعَالِيَةِ بِنْتِ سُبَيْعٍ أَنَّ مَيْمُونَةَ زَوْجَ
النَّبِيِّ - ﷺ - حَدَّثَتْهَا: أَنَّ مَرَّ بِرَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ
يَجْرُونَ شَاةً لَهُمْ مِثْلَ الْحِمَارِ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - ((يَطْهَرُهَا
أَخَذْتُمْ إِبَاهِهَا؟)) (فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - ((يَطْهَرُهَا
الْمَاءُ وَالْقَرَضُ)) -
بَكَا لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ أُمِّ الْعَالِيَةِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: کیکر وغیرہ کی چھال سے چمڑا رنگنے کا بیان

حدیث نمبر: 61

ترجمہ:

ام المؤمنین سیدہ میمونہؓ بیان کرتی ہیں کہ نبی ﷺ قریش (61) کے کچھ آدمیوں کے پاس سے گزرے، وہ گدھے کی طرح بکری کو گھسیٹ کر لے جا رہے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " :اگر تم نے اس کا چمڑا اتار لیا ہوتا " انہوں نے کہا :یہ تو مردار ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " :اس کو پانی اور " کیکر کی چھال پاک کر دیتی ہے۔"

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Description of dyeing leather with qaraz etc.

Hadith number: 61

Translation:

(61) Umm Al-Muminin Maimuna (may Allah be pleased with her) narrates that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) passed by some men of the

Quraish who were dragging a goat like a donkey is dragged. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: If you had skinned it, they said: It is dead. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "Purify it with water and qaraz."

[Sahih. Narrated by Nasai 4253 and Abu Dawud 4126 and Ahmad 6/333, 334]

Footnote: Qaraz is known as Arabic gum tree or *Acacia nilotica*.

Sunan Kubra Bayhaqi 62

Arabic Text:

وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذِبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ (٦٣)
دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ
أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
:بْنِ مَالِكِ بْنِ حُذَافَةَ حَدَّثَ عَنْ أُمِّهِ الْعَالِيَةِ بِنْتِ سَبِيْعٍ أَنَّهَا قَالَتْ
كَانَ لِي غَنَمٌ بِأَحَدٍ فَوَقَعَ فِيهَا الْمَوْتُ ، فَدَخَلْتُ عَلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ
النَّبِيِّ ﷺ - فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا ، فَقَالَتْ لِي مَيْمُونَةُ : لَوْ أَخَذْتَ جُلُودَهَا
فَأَنْتَفَعْتَ بِهَا؟ فَقُلْتُ : أَوْيَحِلُّ ذَلِكَ؟ قَالَتْ : نَعَمْ مَرَّةً عَلَى
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - رَجَالَ ثُمَّ ذَكَرَ مَا بَعْدَهُ بِمِثْلِهِ -

Urdu Translation:

ترجمہ:

(٦٣) (سیدہ عالیہ بنت سبیع^{رض} سے روایت ہے کہ احد کی پہاڑیوں میں میرا بکریوں کا ریورٹ تھا، ان میں سے ایک بکری مر گئی تو میں ام المؤمنین سیدہ میمونہ^{رض} کے پاس آئی اور یہ قصہ ان سے ذکر کیا تو ام المؤمنین نے مجھ سے کہا: تو اس کا چمڑا اتار کر اس سے فائدہ حاصل کر لیتی۔ میں نے کہا: یہ جائز ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں! رسول اللہ ﷺ کچھ آدمیوں کے پاس سے گزرے۔۔۔ پھر

سارا واقعہ ذکر کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Description of dyeing leather with qaraz etc.

Hadith number: 62

Translation:

(62) It is narrated from Syeda Alia bint Sabeel (may Allah be pleased with her) that I had a herd of goats in the hills of Uhud. When one of the goats died, I came to Umm Al-Mu'minin Syeda Maimuna (may Allah be pleased with her) and narrated this story to her so Umm Al-Muminin said to me: You should have taken off its skin and benefited from it. I said: Is this permissible? She said: Yes! The Messenger of Allah passed by some men ... Then she mentioned the whole incident which occurred in the previous hadith.

[Hasan Li Ghayrihi (Fair due to external evidence)]

Sunan Kubra Bayhaqi 63

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا الْفَقِيهُ أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَارِثِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو (٦٤)
الْحَسَنُ: عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِيٍّ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ يُونُسَ وَعُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ ، فَقَالَ: ((بَلَاءٌ
انْتَفَعْتُمْ بِأَبَائِبِهَا؟)) (فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ. فَقَالَ:)) ((إِنَّمَا
حَرْمٌ أَكَلَهَا)) (زَادَ عُقَيْلٌ)) ((: أَوْلَيْسَ فِي الْمَائِ وَالْقَرِظِ مَا
يُطَهَّرُ بِهَا؟))

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: کیکر وغیرہ کی چھال سے چمڑا رنگنے کا بیان

حدیث نمبر: 63

:ترجمہ

(۶۴) (سیدنا عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ ایک مردہ بکری کے پاس سے گزرے تو آپ ﷺ نے فرمایا " تم نے اس کے چمڑے سے نفع کیوں نہ حاصل کر لیا؟ " انہوں نے کہا: وہ تو مردار ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا " اس کا صرف کھانا حرام ہے۔ " عقیل نے یہ الفاظ زائد نقل کیے ہیں کہ کیا پانی کیکر کی چھال نہیں ہے جو اس کو پاک کر دیتی۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Description of dyeing leather with

qaraz etc.

Hadith number: 63

Translation:

(63) It is narrated from Abdullah bin Abbas (may Allah be pleased with him) that when the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) passed by a dead goat, he said: "Why did you not benefit from its skin?" They said: "It is dead." The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "It is only haraam to eat of it." Aqeel has added the words, "Isn't there water and qaraz that would purify it?"

[Hasan (Fair). Narrated by Al-Daraqutni 1/41]

Sunan Kubra Bayhaqi 64

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَاعِدٍ (٦٥)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ بِهَذَا
:-الإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ زَادَ عُقَيْلٌ فِي حَدِيثِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -
(الْأَيْسَ فِي الْمَائِ وَالْقَرْظِ مَا يُطَهِّرُهَا أَوْ الدِّبَاغِ؟)

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: کیکر وغیرہ کی چھال سے چمڑا رنگنے کا بیان

حدیث نمبر: 64

ترجمہ:

(٦٥) عمرو بن ربیع نے اسی سند کے ساتھ اس کے مثل
روایت نقل کی ہے۔ عقیل نے یہ الفاظ زائد بیان کیے ہیں کہ
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " :کیا پانی اور کیکر کی چھال نہیں ہے
" جو اس کو پاک کر دیتی یا رنگ دیتی۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Description of dyeing leather with qaraz etc.

Hadith number: 64

Translation:

(64) Amr ibn Rabi has narrated a similar narration with the same chain of transmission. Aqeel added that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "Isn't there water and qaraz that would cleanses or dye it?"

[Hasan (Fair). Narrated by Al-Daraqutni1/41]

Sunan Kubra Bayhaqi 65

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْخَلِيلِ الصُّوفِيِّ (٦٦)
أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيِّ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ
مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغَلِّسِ وَأَنَا سَأَلْتُهُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ بْنِ حَامِدِ
الْبَلْخِيُّ حَدَّثَنَا مَعْرُوفُ بْنُ حَسَّانَ الْخُرَّاسَانِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ
ذَرٍّ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -
((ﷺ)): اسْتَمْتِعُوا بِجُلُودِ الْمَيِّتَةِ إِذَا بِي دُبِغَتْ ثُرَابًا أَوْ رَمَادًا أَوْ مِلْحًا
أَوْ مَا كَانَ بَعْدَ أَنْ يَزِيدَ صَلَاحَهُ أَوْ يُزِيلَ الشَّكُّ عَنْهُ ((-)).
قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: بِذَا مُنْكَرٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ-ج (وَمَعْرُوفُ بْنُ حَسَّانَ
السَّمَرْقَنْدِيُّ يُكْنَى أَبَا مُعَاذٍ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: کیکر وغیرہ کی چھال سے چمڑا رنگنے کا بیان
حدیث نمبر: 65

ترجمہ:

(۶۶) ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "مردار کی کھال سے فائدہ اٹھاؤ، جب اس کو مٹی، ریت یا نمک سے دباغت دی جائے یا ایسی چیز سے جو اس کو درست کر دے یا جب اس سے شک زائل ہو جائے۔ (ابو احمد کہتے ہیں کہ اس سند کے ساتھ یہ روایت منکر ہے۔

(ج) معروف بن حسان سمرقندی جس کی کنیت ابو معاذ ہے منکر الحدیث ہے۔

English Translation:

Book: The Statement of Purity

Chapter: Description of dyeing leather with qaraz etc.

Hadith number: 65

Translation:

(65) It is narrated on the authority of Umm Al-Mu'minin Ayesha (may Allah be pleased with her) that the Messenger of Allah (peace and

blessings of Allah be upon him) said: "Take advantage of the dead skin (of animals) when it is tanned with mud, sand or salt, or with something that corrects it, or with something that removes its doubt."

(B) Abu Ahmad says that this tradition is denied with this chain of transmission.

(C) Maruf bin Hassan Samarkandi whose surname is Abu Mu'adh is a munkar hadith. [Munkar (Odd). Narrated by Al-Daraqutni 1/49]

Sunan Kubra Bayhaqi 66

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا (٦٧)
 أَبُو زَكْرِيَّا: يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ
 الْحُسَيْنِ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ
 زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ وَعْلَةَ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
 عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ - يَقُولُ ((إِذَا دُبِغَ الْإِبَابُ فَقَدْ طَهِّرَ))
 أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ بِهَذَا اللَّفْظِ عَنْ يَحْيَى بْنِ
 يَحْيَى - (ت) وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَبِشَّامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ
 زَيْدِ)) إِذَا دُبِغَ الْإِبَابُ (-).

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: حلال جانور کی کھال کے پاک ہونے کے لیے دباغت
 شرط ہے اگرچہ اسے ذبح کیا گیا ہو

حدیث نمبر: 66

ترجمہ:

(٦٧) حضرت عبداللہ بن عباس^{رض} سے روایت ہے کہ میں نے
 نبی ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا " :جب چمڑے کو رنگ دیا جائے
 تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔

(ب) اسی طرح مالک بن انس اور ہشام بن سعد نے حضرت زیدؓ سے روایت کیا ہے کہ جب چمڑا رنگ دیا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Tanning is a condition for the skin of a halal animal to be clean, even if it has been slaughtered

Hadith number: 66

Translation:

(66) It is narrated from Hazrat Abdullah bin Abbas (may Allah be pleased with him) that I heard the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) saying: "When the skin is tanned, it becomes pure.

(B) Similarly, Malik ibn Anas and Hisham ibn Sa'd (may Allah have mercy on them) have narrated from Hazrat Zayd (may Allah be

pleased with him) that when leather is dyed, it becomes pure.

[Sahih. Narrated by Muslim 366 and Nasai 4246 and Abu Dawud 4123 and and Tirmidhi 1728 and Ibn Majah 3609 and Ahmad 1/219, 237, 270, 279, 280, 343 and Darimi 2028]

Sunan Kubra Bayhaqi 67

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ (٦٨)
:اللَّهُ الْحَرَبِيُّ مِنْ أَهْلِ الْحَرَبِيَّةِ بَبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا
عَلِيُّ بْنُ

عِيَّاشٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَائِ بْنِ
يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَ ((:طَهُورُ كُلِّ إِبَابٍ
(دِبَاغُهُ)
رُؤَاتُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى
كتاب: پاکی کا بیان
باب: حلال جانور کی کھال کے پاک ہونے کے لیے دباغت
شرط ہے اگرچہ اسے ذبح کیا گیا ہو
حدیث نمبر: 67

ترجمہ:

(۶۸) ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہؓ سے روایت کہ آپ ﷺ نے
فرمایا " ہر چمڑے کا پاک ہونا اس کو رنگنا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Tanning is a condition for the skin of
a halal animal to be clean, even if it has

been slaughtered

Hadith number: 67

Translation:

(67) It is narrated on the authority of Umm Al-Mu'minin Ayesha (may Allah be pleased with her) that the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said: "To tan the skin is to purify it."

[Sahih. Narrated by Muslim 366 and Nasai 4246 and Abu Dawud 4123 and and Tirmidhi 1728 and Ibn Majah 3609 and Ahmad 1/219, 237, 270, 279, 280, 343 and Darimi 2028]

Sunan Kubra Bayhaqi 68

Arabic Text:

وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو (٦٩)
الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ
الصَّغَانِيُّ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ
جَوْنِ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - أَتَى عَلَى
بَيْتِ قُدَّامٍ قَرِيبَةً مُعَلَّقَةً فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ - الشَّرَابَ ، فَقَالُوا : إِنَّهَا
مَيْتَةٌ فَقَالَ)) : ذَكَاتُهَا دِبَاغُهَا ((-
فَهَكَذَا رَوَاهُ عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ -
ت (وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ حَدِيثِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى
قَالَ : دِبَاغُهَا طَهُورُهَا -
وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ - وَرَوَاهُ بِشَّامُ الدَّسْتَوَائِيُّ كَمَا -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب : پاکی کا بیان

باب : حلال جانور کی کھال کے پاک ہونے کے لیے دباغت
شرط ہے اگرچہ اسے ذبح کیا گیا ہو

حدیث نمبر : 68

ترجمہ:

(68) (سیدہ سلمہ بنت محبق سے روایت ہے کہ نبی ﷺ گھر آئے تو آپ ﷺ کے سامنے مشکیزہ لٹک رہا تھا، نبی ﷺ نے پانی طلب کیا تو انہوں نے کہا: وہ تو مردار کے چمڑے کا بنا ہوا ہے، آپ ﷺ نے فرمایا " :اس کا پاک کرنا اس کی دباغت ہے۔ ہمام بن یحییٰ نے کہا کہ اس کی دباغت ہی اس کو پاک کرنا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Tanning is a condition for the skin of a halal animal to be clean, even if it has been slaughtered

Hadith number: 68

Translation:

(68) It is narrated from Salma bint Muhibbaq that when the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) came home, a water

skin was hanging in front of him. When the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) asked for water, they said: It is made of the skin of the dead.

He said: "Tanning it is its purification."

Hammam ibn Yahya said that its tanning is to purify it.

[Sahih. Narrated by Nasai 4248 and Abu Dawud 4125 and Ahmad 3/476]

Sunan Kubra Bayhaqi 69

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورِكَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ (٧٠)
اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا

بِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ جَوْنِ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ
 الْمُحَبِّقِ الْهَذَلِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - قَالَ ((دِبَاغُ الْأَدِيمِ ذَكَاتُهُ))
 ق (وَفِي قِصَّةِ الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ فِي جِلْدٍ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ وَفِي
 طَهَارَتِهِ - طُرُقِهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالذِّكَاةِ
 ت (وَفِي رِوَايَةِ مُعَاذِ بْنِ بِشَامٍ عَنِ أَبِيهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : أَنَّهُ
 دَعَا بِمَائٍ مِنْ عِنْدِ امْرَأَةٍ فَقَالَتْ : مَا عِنْدِي إِلَّا فِي قَرْبَةٍ لِي
 مَيْتَةٌ فَقَالَ)) : أَلَيْسَ قَدْ دَبَغْتَهَا ((قَالَتْ : بَلَى ؟ قَالَ)) : فَإِنَّ ذَكَاتَهَا
 - دِبَاغُهَا ((-))

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: حلال جانور کی کھال کے پاک ہونے کے لیے دباغت
 شرط ہے اگرچہ اسے ذبح کیا گیا ہو
 حدیث نمبر: 69

ترجمہ:

(۷۰) (الف) سلمہ بن محبق ہذلی^{رض} سے روایت ہے کہ نبی ﷺ
 " فرمایا " : چمڑے کو رنگ دینا اس کا پاک کرنا ہے۔
 اس حدیث میں حلال جانوروں کی کھال کے پاک ہونے کا
 ذکر ہے۔ اس کے طرق اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ "ذکاۃ

سے مراد طہارت ہے۔ "

(ب) (معاذ بن ہشام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ایک عورت سے پانی مانگا تو اس نے کہا: میرے پاس مردار کے چمڑے کا بنا ہوا مشکیزہ ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تو نے اسے رنگا نہیں تھا۔ اس عورت نے کہا: کیوں نہیں! " آپ ﷺ نے فرمایا " اس کا پاک کرنا اس کا رنگنا ہی ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Tanning is a condition for the skin of a halal animal to be clean, even if it has been slaughtered

Hadith number: 69

Translation:

(69) (a) It is narrated from Salma bin Muhibbaq Hudhali that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "To tan the skin is to purify it."

This hadith mentions the purity of the skin of

halal animals.

(B) Mu'adh ibn Hisham narrates from his father that when the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) asked a woman for water, she said: I have a waterskin made from the leather of a dead animal. He said: Did you not tan it? The woman said: Why not! He said: To purify it is to tan it. [Daif (Weak). Narrated by Al-Daraqutni 1/45]

Sunan Kubra Bayhaqi 70

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ (٧١)
يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا
شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ الرَّشَكِيِّ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ - عَنْ جُلُودِ السَّبَاعِ أَنْ تُفْرَشَ - كَذَا أَخْبَرَنَا هُ.
(ت) (وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ مُرْسَلًا
دُونَ ذِكْرِ أَبِيهِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: حلال جانور کی کھال کے پاک ہونے کے لیے دباغت
شرط ہے اگرچہ اسے ذبح کیا گیا ہو
حدیث نمبر: 70

:ترجمہ

(۷۱) (ابوملیح اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے درندوں کے چمڑوں کو بستر بنانے سے منع کیا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Tanning is a condition for the skin of a halal animal to be clean, even if it has been slaughtered

Hadith number: 70

Translation:

(70) Abu Malih narrates from his father that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) forbade (the usage of) the skins of beasts of prey.

[Sahih. Narrated by Nasai 4258 and Abu Dawud 4132 and Tirmidhi 1771 and Ahmad 5/74, 75]

Sunan Kubra Bayhaqi 71

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذُبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ دَاسَةَ (٧٢)
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ الْحِمَاصِيِّ
حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ عَنْ بَجِيرٍ عَنْ خَالِدٍ قَالَ: وَفَدَّ الْمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِيكَرِبَ
إِلَى مُعَاوِيَةَ فَقَالَ: وَأَنْشُدُكَ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - نَهَى
عَنْ لُبْسِ جُلُودِ السَّبَاعِ وَالرُّكُوبِ عَلَيْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: حلال جانور کی کھال کے پاک ہونے کے لیے دباغت
شرط ہے اگرچہ اسے ذبح کیا گیا ہو

حدیث نمبر: 71

ترجمہ:

(حضرت خالد سے روایت ہے کہ مقدم بن معدی کرب حضرت معاویہؓ کے پاس آئے اور عرض کیا: میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے درندوں کا چمڑا پہننے اور ان پر سواری کرنے سے منع کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا: جی ہاں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Explanation of purity

Chapter: Tanning is a condition for the skin of a halal animal to be pure even if it has been slaughtered

Hadith Number 71

Translation:

(71) It is narrated from Hazrat Khalid (may Allah be pleased with him) that Miqdaam bin Ma'adi Karib came to Mu'awiyah (may Allah be pleased with him) and said: I adjure you by

Allah, do you know that the Messenger of Allah (may peace be upon him) forbade wearing the skin of beasts and riding on them? He said: Yes.

[Sahih. Narrated by Nasai 4260 and Abu Dawud 4131 and Ahmad 4/132]

Sunan Kubra Bayhaqi 72

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذُبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ (٧٣)
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَأَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ
الرَّقِيُّ وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْحِمَاصِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ
مُعَاوِيَةَ أَخْبَرَنَا بِلَالُ بْنُ مَيْمُونِ الْجُهَنِيُّ عَنْ عَطَائِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ
قَالَ بِلَالٌ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَقَالَ أَيُّوبُ وَعَمْرُو أَرَاهُ عَنْ
أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - مَرَّ بِغُلَامٍ يَسْلُخُ شَاةً ، فَقَالَ
لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - : تَنَحَّ حَتَّى أُرِيكَ - فَأَدْخَلَ يَدَهُ بَيْنَ الْجُدِّ
وَاللَّحْمِ ، فَدَحَسَ بِهَا حَتَّى تَوَارَتْ إِلَى الْإِبْطِ ، ثُمَّ مَضَى
فَصَلَّى بِالنَّاسِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .
قَالَ أَبُو دَاوُدَ : زَادَ عَمْرُو فِي حَدِيثِهِ يَعْنِي لَمْ يَمَسَّ مَائًا ، وَقَالَ عَنْ
بِلَالِ بْنِ مَيْمُونِ الرَّمْلِيِّ -
قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ (ت)
بِلَالٍ عَنْ عَطَائِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - مُرْسَلًا لَمْ يَذْكَرْ أَبَا سَعِيدٍ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: حلال جانوروں کی کھال ذبح کرنے سے پاک ہوجاتی ہے
حدیث نمبر: 72

ترجمہ:

(۷۳) حضرت ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ ایک بچے کے پاس سے گزرے جو بکری کو کھینچ کر لے جا رہا تھا۔ آپ ﷺ نے اس سے فرمایا "ٹھہر جا میں تمہیں (کچھ) دکھاتا ہوں" پھر آپ ﷺ نے اپنا ہاتھ کھال اور گوشت کے درمیان داخل کیا، آپ ﷺ نے ہاتھ اتنا گھسایا کہ وہ پیٹ میں چھپ گیا، پھر آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی لیکن وضو نہیں کیا۔

(ب) (امام ابوداؤد) رح (کہتے ہیں کہ عمرو نے اپنی حدیث میں یہ اضافہ کیا ہے کہ پانی کو نہیں چھوا۔
(ج) حضرت عطاء بھی نبی ﷺ سے یہ روایت مرسل بیان کرتے ہیں، سیدنا ابو سعیدؓ کا واسطہ ذکر نہیں کرتے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The skin of halal animals is cleansed by slaughter

adith number: 72

Translation:

(72) It is narrated from Hazrat Abu Saeed Al-Khudri (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) passed by a child who was pulling a goat. He said to him, "Wait, I will show you something." Then he put his hand between the skin and the flesh. He inserted his hand in so deep that it hid in its stomach. Then he led the people in prayer but did not perform ablution.

(B) Imam Abu Dawud (may Allah have mercy on him) says that Amr has added in his hadith that he did not even touch water.

(C) Hazrat Ata (may Allah have mercy on him) also narrates this narration from the

Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) and does not mention Abu Saeed Khudri (may Allah be pleased with him).
[Sahih. Narrated by Abu Dawud 185 and Ibn Majah 3179]

Sunan Kubra Bayhaqi 73

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَبْدَوِيُّ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو (٧٤)
أَحْمَدَ: مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو
الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا
أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي الْجَهْمِ أَخْبَرَنَا الْمِنْهَالُ بْنُ بَحْرِ حَدَّثَنَا بَزِيعُ أَبُو
الْحَوَارِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنَّا نَنْقُلُ الْمَاءَ فِي جُلُودِ الْإِبِلِ
عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - وَلَا يُنْكَرُ عَلَيْنَا وَبِذَا الْإِسْنَادُ غَيْرُ قَوِيٍّ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: حلال جانوروں کی کھال ذبح کرنے سے پاک ہوجاتی ہے

حدیث نمبر: 73

:ترجمہ

(۷۴) حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں اونٹوں کے چمڑوں کے ذریعے پانی منتقل کرتے تھے اور ہم پر کسی نے انکار نہیں کیا۔ اس کی سند قوی نہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The skin of halal animals is cleansed by slaughter

Hadith Number 73

Translation:

(73) It is narrated from Hazrat Anas bin Malik (may Allah be pleased with him) that in the time of the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) we used to transfer water through camel skins and no one stopped us.

Its chain of transmission is not strong.

[Daif (Weak). Narrated by al-Tabarani in Mujam Awsat 6055]

Sunan Kubra Bayhaqi 74

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ (٧٥)
اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا
يَزِيدُ بْنُ طَهْمَانَ الرَّقَاشِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ قَالَ
مُعَاوِيَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ ((: لَا تَرْكَبُوا الْخَزَّ وَلَا
(النِّمَارَ))

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَكَانَ مُعَاوِيَةُ إِذَا حَدَّثَ مِثْلَ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - لَمْ
يُنْهَمْ.

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ.

(ق (وَهُوَ فِي الْخَزِّ مَحْمُولٌ عَلَى التَّنْزِيهِ وَدَلِيلُهُ يَرُدُّ فِي كِتَابِ
الصَّلَاةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى).

وَرَوَى أَبُو الشَّيْخِ الْهَنْائِيُّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بَكْدَا فِي جُلُودِ (ت)
النُّمُورِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: مردار کے بالوں سے فائدہ اٹھانے کا بیان
حدیث نمبر: 74

:ترجمہ

(۷۵) حضرت معاویہ رض سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا " تم ریشم اور چیتوں کی کھالوں پر " سوار نہ ہو۔

(ب) ریشم کو نہی تنزیہی پر محمول کیا جائے گا اس کی
دلیل "کتاب الصلوٰۃ" میں آئے گی۔ ان شاء اللہ
(ج) ابو شیخ نہائی نے حضرت معاویہ رض سے روایت کیا ہے کہ
اسی طرح چیتوں کی کھالوں میں بھی۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The Ruling on Benefitting from the Hair of Dead Animals

Hadith number: 74

Translation:

(74) It is narrated from Mu'awiyah (may Allah be pleased with him) that I heard the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) saying: "Do not ride on silk and leopard skins."

(B) Sitting on silk will not be degraded to makruh, the evidence for this will be given in 'The Book of Salat'. Inshallah

(C) Abu Sheikh Nahai has narrated from Hazrat Mu'awiyah that the same is true of leopard skins.

[Sahih. Narrated by Nasai 4259 and Abu Dawud 4131 and Ahmad 4/132, 7/93]

Sunan Kubra Bayhaqi 75

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ الْخَلِيلِ الْمَالِينِيُّ أَخْبَرَنَا (٧٦)
أَبُو أَحْمَدَ بْنِ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ النَّابُلْسِيُّ بِالرَّمْلَةِ
قَالَ حَدَّثَ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الْبَغْدَادِيِّ وَأَنَا حَاضِرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ
عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((: اذْفِنُوا الْأَظْفَارَ وَالشَّعْرَ
وَالدَّمَ فَإِنَّهَا مَيْتَةٌ)) (-).
ج (قَالَ أَبُو أَحْمَدَ بْنِ عَدِيٍّ الْحَافِظُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَ
أَحَدُ عَلَيْهِ. عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَافِعٍ بِأَحَادِيثٍ لَمْ يُتَابِعْهُ
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ قَدْ رُوِيَ فِي دَفْنِ
الظُّفْرِ وَالشَّعْرِ أَحَادِيثٌ أَسَانِيدُهَا ضِعَافٌ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
کتاب: پاکی کا بیان

باب: مردار کے بالوں سے فائدہ اٹھانے کا بیان

حدیث نمبر: 75

ترجمہ:

(۷۶) حضرت عبداللہ بن عمر^{رض} سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " ناخنوں، بالوں اور خون کو دفن کر دو، کیونکہ یہ مردار ہیں۔"

(ب) (امام بیہقی) رح (فرماتے ہیں کہ ناخن اور بال دفن کرنے والی احادیث کی اسناد ضعیف ہیں۔)

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The Ruling on Benefitting from the Hair of Dead Animals

Hadith number: 75

Translation:

(75) It is narrated from Hazrat Abdullah bin Umar (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "Bury your nails, hair and

blood, because they are dead."

(B) Imam Bayhaqi (may Allah have mercy on him) says that ahadith that mention burying nails and hair all have isnad (chain of transmissions).

[Munkar (Odd). Narrated by Ibn Adiy in Al-Kamil 4/201]

Sunan Kubra Bayhaqi 76

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْدُبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ (٧٧)
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ
الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ
عَنْ عَطَائِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي وَاقِدٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ

اللّٰهُ - ﷺ -)) : مَا قُطِعَ مِنَ الْبَيْمَةِ وَبِى حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ))
(ق) وَقَدْ يُحْتَجُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي الشَّعْرِ وَالظُّفْرِ وَإِنَّمَا وَرَدَ عَلَى
سَبَبٍ
وَبُوَ فِيْمَا.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى
كتاب: پاکی کا بیان
باب: مردار کے بالوں سے فائدہ اٹھانے کا بیان
حدیث نمبر: 76

ترجمہ:

(۷۷) حضرت ابو واقدؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے
مجھ سے کہا " :زندہ جانور سے جو (حصہ) کاٹ لیا جائے وہ
" مردار ہے۔"
(ب) اس حدیث سے بالوں اور ناخنوں کے بارے میں حجت لی
جاتی ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The Ruling on Benefitting from the Hair of Dead Animals

Hadith number: 76

Translation:

(76) It is narrated from Hazrat Abu Waqid that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said to me: "Any (part) that is cut from a living animal is carrion."

(B) From this hadith an argument is taken about the hair and nails.

[Sahih. Narrated by Abu Dawud 2858 and Tirkidhi 1480 and Ibn Majah 3216 and Ahmad 5/218 and Darimi 2061]

Sunan Kubra Bayhaqi 77

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو (٧٨)
الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا هَاشِمُ
بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ زَيْدِ
بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَايِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ قَالَ: قَدِمَ
النَّبِيُّ ﷺ - الْمَدِينَةَ وَالنَّاسُ يَجُبُّونَ أَسْنَامَ الْإِبِلِ وَيَقْطَعُونَ أَلْيَاتِ
الْغَنَمِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ - ((مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَبِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيْتَةٌ
))-

:وَقَدْ اِحْتَجَّ بَعْضُ أَصْحَابِنَا بِمَا

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مردار کے بالوں سے فائدہ اٹھانے کا بیان

حدیث نمبر: 77

:ترجمہ

(۷۸) (ابو واقد لیثیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب مدینہ تشریف لائے تو لوگ اونٹوں کی کوہان کو پسند کرتے تھے اور دنبوں کی چکی بھی تو نبی ﷺ نے فرمایا: زندہ جانور کا جو حصہ زندہ ہونے کی حالت میں کاٹ لیا جائے وہ مراد ہے۔) اس کا کھانا حرام ہے۔
(ب) (ہمارے بعض اصحاب نے اس سے حجت لی ہے۔)

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The Ruling on Benefitting from the Hair of Dead Animals

Hadith number: 77

Translation:

(77) It is narrated from Abu Waqid Laithi that when the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) came to Madinah, the people liked (cutting) the hump of camels and the buttocks of the sheep so the Prophet (peace and blessings of Allah be

upon him) said: "The part of a living animal that is cut off while it is alive is dead (its eating is haraam)."

(B) Some of our companions have taken an argument from this hadith.

[Sahih. Narrated by Tirmidhi 1480]

Sunan Kubra Bayhaqi 78

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ (٧٩)
يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَبُو

عَاصِمٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرٍو بْنُ حَمْدَانَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ
 بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ
 ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ أَخْبَرَنِي
 عَطَاءٌ مُنْذُ حِينٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ مَيْمُونَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ
 دَاجِنَةَ كَانَتْ لِبَعْضِ نِسَائِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - فَمَاتَتْ ، فَقَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ ﷺ - ((: أَلَا أَخَذْتُمْ إِبَابَهَا فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا؟)) (-)
 رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيِّ - (قَالَ
 فَخَصَّ الْإِبَابَ بِالِاسْتِمْتَاعِ بِهَا -
 وَمَنْ قَالَ بِالْقَوْلِ الْآخِرِ اِحْتَجَّ بِمَا

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: مردار کے بالوں سے فائدہ اٹھانے کا بیان
 حدیث نمبر: 78

ترجمہ:

(۷۹) (عبداللہ بن عباس^{رض} سے روایت ہے کہ ام المؤمنین سیدہ
 میمونہ^{رض} نے ان کو خبر دی کہ امہات المؤمنین میں سے کسی
 کے پاس پالتو جانور تھا جو مر گیا تو رسول اللہ

ﷺ نے فرمایا " تم نے اس کا چمڑا کیوں نہ اتار لیا، پھر تم اس سے فائدہ حاصل کرتیں
(ب) عثمان نوفلی کہتے ہیں کہ انہوں نے چمڑے کو فائدہ حاصل کرنے کے ساتھ خاص کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The Ruling on Benefitting from the Hair of Dead Animals

Hadith number: 78

Translation:

(78) It is narrated on the authority of Abdullah bin Abbas (may Allah be pleased with him) that Umm Al-Mu'minin Syeda Maimuna (may Allah be pleased with her) informed him that one of the mothers of Al-Mu'minin had a pet which died and the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: "Why didn't you take off its skin, then you would benefit from it?"

Sunan Kubra Bayhaqi 79

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكْرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ (٨٠)
قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ
عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - وَجَدَ شَاةَ مَيْتَةٍ أُعْطِيَتْهَا مَوْلَاهُ
لِمَيْمُونَةَ مِنَ الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - ((يَا لِمَيْمُونَةَ
بِجُلْدِيهَا؟)) (فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ) ((إِنَّمَا حَرَّمَ أَكْلَهَا)) (-)
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ بْنِ عَفِيرٍ

وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي طَائِرٍ كِلَابِيًّا عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ،

(قَالَوا: فَخَصَّ الْأَكْلَ بِالتَّحْرِيمِ-

وَقَدْ رَوَى أَبُو بَكْرِ الْهَذَلِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ زِيَادَةً لَمْ يُتَابِعْهُ عَلَيْهَا ثِقَةٌ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مردار کے بالوں سے فائدہ اٹھانے کا بیان

حدیث نمبر: 79

ترجمہ:

(۸۰) حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک مردہ بکری دیکھی جو سیدہ میمونہؓ نے آزاد کردہ

غلام کو صدقہ سے دی گئی تھی، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " تم

نے اس کے چمڑے سے فائدہ کیوں نہ اٹھایا؟ " انہوں نے

عرض کیا: وہ مردار ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا " اس کا صرف

" (گوشت) کھانا حرام ہے۔

(ب) (فقہا کہتے ہیں کہ آپ نے صرف کھانا حرام قرار دیا ہے۔

ابوبکر ہذلی نے زہری سے اس روایت میں کچھ الفاظ زائد بیان

بیان کیے ہیں جن کی کسی ثقہ نے متابعت نہیں کی۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The Ruling on Benefitting from the Hair of Dead Animals

Hadith Number 79

Translation:

(79) It is narrated from Hazrat Abdullah bin Abbas (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) saw a dead goat, which had been given in charity to the freed slave-girl of Maimuna (may Allah be pleased with her). The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: Why don't you make use of its skin? They (the Companions around the Prophet) said: It is dead. Upon this he said: It is the eating (of the dead animal) which is prohibited.

(B) The jurists say that the Prophet (peace

and blessings of Allah be upon him) declared only eating it to be haraam. Abu Bakr Hudhali has added some words from Zuhri in this narration which no trustworthy person has narrated.

[Sahih. Narrated by Bukhari 1492 and Muslim 363, 365 and Nasai 4240 and Abu Dawud 4120 and Tirmidhi 1727 and Ibn Majah 3610 and Ahmad 1/261, 327, 329, 365 and Darimi 2031]

Sunan Kubra Bayhaqi 80

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ الْفَقِيهَ أَخْبَرَنَا (٨١)
عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ
مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْهَذَلِيُّ عَنِ
الرُّبَيْرِيِّ عَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا
حَرَّمَ مِنَ الْمَيْتَةِ مَا يُؤْكَلُ مِنْهَا وَهُوَ اللَّحْمُ ، فَأَمَّا الْجِدُّ وَالسِّنُّ
وَالْعَظْمُ وَالشَّعْرُ وَالصُّوفُ فَهُوَ حَلَالٌ-

(ج قَالَ عَلِيُّ: أَبُو بَكْرٍ الْهَذَلِيُّ ضَعِيفٌ-
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ
حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: بِذَا الْحَدِيثِ لَيْسَ
يَرْوِيهِ إِلَّا أَبُو بَكْرٍ الْهَذَلِيُّ عَنِ الرُّبَيْرِيِّ عَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كُرِهَ مِنَ الْمَيْتَةِ لَحْمُهَا ، فَأَمَّا السِّنُّ وَالشَّعْرُ
وَالْقَدُّ فَلَا بَأْسَ بِهِ-
قَالَ يَحْيَى: أَبُو بَكْرٍ الْهَذَلِيُّ لَيْسَ بِشَيْءٍ-
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان

باب: مردار کے بالوں سے فائدہ اٹھانے کا بیان

حدیث نمبر: 80

ترجمہ:

(۸۱) حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ مردار کا گوشت کھانا حرام ہے، لیکن اس کی کھال، کوہان، ہڈی، بال اور اون حلال ہے۔

(ب) علی بن مدینی کہتے ہیں: ابوبکر ہذلی ضعیف راوی ہے۔
(ج) سیدنا عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ مردار کا گوشت حرام ہے، لیکن اس کی کوہان، بال اور کھال میں کوئی حرج نہیں۔

(د) یحییٰ بن معین کہتے ہیں: ابوبکر ہذلی قابل حجت نہیں ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The Ruling on Benefitting from the Hair of Dead Animals

Hadith number: 80

Translation:

(80) It is narrated from Hazrat Abdullah bin Abbas (may Allah be pleased with him) that it is haraam to eat the flesh of dead animals, but (using) its skin, hump, bones, hair and wool are halal.

(B) Ali ibn Madini says: Abu Bakr Hudhali is a weak narrator.

(C) It is narrated from Abdullah bin Abbas (may Allah be pleased with him) that the flesh of a dead animal is haraam, but there is nothing wrong with (using) its hump, hair and skin.

(D) Yahya ibn Mu'in says: Abu Bakr Hudhali is not reliable.

[Daif (Weak). Narrated by Al-Daraqutni 1/46]

Sunan Kubra Bayhaqi 81

Arabic Text:

وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ: إِنَّمَا (٨٢)
حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَيْتَةِ لَحْمَهَا ، فَأَمَّا الْجِلْدُ وَالشَّعْرُ
وَالصُّوفُ فَلَا بَأْسَ بِهِ -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُسْرِيُّ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ
الْجَبَّارِ بْنِ مُسْلِمٍ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ -

قَالَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: عَبْدُ الْجَبَّارِ ضَعِيفٌ. (ج)

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مردار کے بالوں سے فائدہ اٹھانے کا بیان

حدیث نمبر: 81

:ترجمہ

(۸۲) امام زہری سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مردار کا

گوشت حرام قرار دیا ہے، لیکن اس کی کھال، بال اور اون

کے استعمال (میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔

شیخ علی بن عمر کہتے ہیں کہ عبدالجبار راوی ضعیف ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The Ruling on Benefitting from the
Hair of Dead Animals

Hadith number: 81

Translation:

(81) It is narrated from Imam Zuhri (may Allah have mercy on him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) declared the meat of the dead animal to be haraam, but did not consider any harm in using its skin, hair and wool.

Sheikh Ali bin Umar says that Abdul Jabbar narrator is weak.

[Daif Jiddan (Very Weak). Narrated by Al-Daraqutni 1/47]

Sunan Kubra Bayhaqi 82

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَارِثِيُّ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ (٨٣)
عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو طَلْحَةَ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ حَدَّثَنَا
سَعْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بَيْرُوتَ حَدَّثَنَا أَبُو أَيُّوبَ: سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ السَّفَرِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى
بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ أُمَّ
سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ - تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - يَقُولُ ((: لَا
بَأْسَ بِمَسْكَ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَ ، وَلَا بَأْسَ بِصُوفِهَا وَشَعْرِهَا وَقُرُونِهَا
((إِذَا غُسِلَ بِالْمَاءِ
(ج) قَالَ عَلِيُّ: يُونُسُ بْنُ السَّفَرِ مَثْرُوكٌ وَلَمْ يَأْتِ بِهِ غَيْرُهُ.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا
:أَبُو عَلِيٍّ الْقَبَّانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ قَالَ
يُونُسُ بْنُ السَّفَرِ أَبُو الْفَيْضِ كَاتِبُ الْأَوْزَاعِيِّ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاكى كا بيان

باب: مردار كے بالوں سے فائده اٹھانے كا بيان

حديث نمبر: 82

:ترجمہ

(۸۳) ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ میں نے ام المؤمنین ام سلمہؓ سے سنا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: مردار کی کھال رنگنے کے بعد استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اس کی اون، بال اور سینگ بھی جب انہیں دھو لیا جائے۔

علی کہتے ہیں کہ علی بن یوسف متروک ہے، اس کے علاوہ اس حدیث کو کوئی بیان نہیں کرتا۔

ب (امام محمد بن اسماعیل بخاری) رح (کہتے ہیں کہ ابوفیض یوسف بن سفر جو اوزاعی کا کاتب ہے منکر الحدیث ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The Ruling on Benefitting from the Hair of Dead Animals

Hadith number: 82

Translation:

(82) It is narrated from Abu Salamah bin Abdul Rahman that I heard from Umm Al-Mumineen Umm Salamah (may Allah be pleased with her) that I heard the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) saying: There is no harm in using the skin of a dead animal after dyeing it. The same goes for wool, hair and horns when they are washed.

Ali says that Ali ibn Yusuf is matruk, no one else narrates this hadith except him.

(B) Imam Muhammad ibn Ismail Bukhari (may Allah be pleased with him) says that Abu Faiz Yusuf ibn Safar, who is the scribe of Awzai, is munkar hadith.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 83

Arabic Text:

قَالَ الشَّيْخُ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسِ الْبَصْرِيِّ سَمِعَ (٨٤)
ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ إِنَّمَا حَرَّمَ مِنَ الْمَيْتَةِ لَحْمُهَا وَدَمُهَا. أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ
مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ قَالَ قَالَ إِسْرَائِيلُ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي
حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ مِثْلَهُ -
وَمَنْ قَالَ بِطَهَارَةِ الشَّعْرِ الَّذِي عَلَى جِلْدِ الْمَيِّتَةِ إِذَا دُبِغَ الْجِلْدُ اِحْتَجَّ
بِمَا:

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: مردار کے بالوں سے فائدہ اٹھانے کا بیان
حدیث نمبر: 83

:ترجمہ

(۸۴) (عبداللہ بن قیس بصری نے حضرت عبداللہ بن مسعود کو
فرماتے ہوئے سنا کہ مردار کا گوشت اور اس کا خون حرام

ہے۔
ب) (جنہوں نے بالوں کو پاک قرار دیا ہے جو مردار کی کھال
کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جب کھال کو دباغت دی جائے تو وہ پاک
ہوجاتے ہیں۔ یہ حدیث ان کی دلیل ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The Ruling on Benefitting from the Hair of Dead Animals

Hadith Number 83

Translation:

(83) Abdullah bin Qais Basri heard Hazrat Abdullah bin Masud (may Allah be pleased with him) saying that the flesh of the dead and its blood is haraam.

(B) Those who have declared the hair (which is with the skin of the dead) clean, and claim that when the skin is tanned, it becomes clean. This hadith is their proof.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 84

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ (٨٥)
أَيُّوبَ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ
طَارِقٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ أَبَا
الْخَيْرِ حَدَّثَهُ قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى ابْنِ وَعَلَةَ السَّبَّائِيَّ فَرَوًا
فَمَسِسْتُهُ فَقَالَ: مَا لَكَ تَمَسُّهُ؟ قَدْ سَأَلْتُ عَنْهُ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ
عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: إِنَّا نَكُونُ بِالْمَغْرِبِ وَمَعَنَا الْبَرْبَرُ وَالْمَجُوسُ
نُوتِي بِالْكَبْشِ فَيَذْبَحُونَهُ وَنَحْنُ لَا نَأْكُلُ ذَبَائِحَهُمْ، وَنُوتِي بِالسَّقَائِ
:فِيهِ الْوَدَكُ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - قَالَ
(دِبَاغُهُ طَهُورُهُ))
رَوَاهُ مُسْلِمٌ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ وَغَيْرِهِ
- عَنْ عَمْرُو بْنِ الرَّبِيعِ

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
کتاب: پاکی کا بیان

باب: مردار کے بالوں سے فائدہ اٹھانے کا بیان

حدیث نمبر: 84

ترجمہ:

(۸۵) (ابو الخیر کہتے ہیں کہ میں نے علی بن وعلہ سبائی پر بالوں کا بنا ہوا لباس دیکھا تو میں نے اس کیڑے کو چھوا، انہوں نے پوچھا: تم اس کو چھو کر کیوں دیکھ رہے ہوں؟ میں نے عبداللہ بن عباسؓ سے سوال کیا کہ ہم مغرب میں برابر اور مجوس قوم کے ساتھ رہتے ہیں اور ہمارے پاس مینڈھے لائے جاتے ہیں وہ ذبح کرتے تھے ہم ان کا ذبیحہ نہیں کھاتے تھے۔ ہمارے پاس مشکیزے لائے جاتے ہیں جن میں چربی ہوتی ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے کہا: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " اس کا رنگنا اس کا پاک کرنا ہے۔"

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The Ruling on Benefitting from the Hair of Dead Animals

Hadith number: 84

Translation:

(84) Abu al-Khair says that when I saw a garment made of hair on Ali ibn Wala Sabai, I touched it. He asked: Why are you touching it and looking at it? I asked Abdullah ibn Abbas (may Allah be pleased with him) that we live in the west with the Berber and Magian people and rams are brought to us. They used to slaughter them and we did not eat their slaughter and they come to us with water skins full of fat. Hazrat Abdullah bin Abbas (may Allah be pleased with him) said: The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: "Its tanning is to purify it."

[Sahih. Narrated by Muslim 366]

Sunan Kubra Bayhaqi 85

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ (٨٦)
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَيْهَقِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي بَحْرٍ
وَكَانَ يَنْزِلُ بِالْكُوفَةِ وَكَانَ أَصْلُهُ بَصْرِيًّا - يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ -
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَالَ فِي الْفِرَائِ: ذَكَاتُهُ دِبَاغُهُ. هَكَذَا
رَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: مردار کے بالوں سے فائدہ اٹھانے کا بیان
حدیث نمبر: 85

ترجمہ:

" (٨٦) (سیدنا عمر بن خطابؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے

فرائی (چمڑے کے متعلق ارشاد فرمایا : اس کا پاک ہونا
رنگنے سے ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The Ruling on Benefitting from Dead
Hair

Hadith number: 85

Translation:

(85) It is narrated from Umar ibn Khattab (may Allah be pleased with him) that he said about "fry" (leather): Its purity is due to its tanning.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 86

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ (٨٧)
جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ
أَبِي لَيْلَى عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
أَبِي لَيْلَى فَأَتَاهُ رَجُلٌ دُو ضَفِيرَتَيْنِ فَقَالَ: يَا أَبَا عَيْسَى حَدِّثْنِي مَا
سَمِعْتَ مِنْ أَبِيكَ فِي الْفِرَائِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي: أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ
النَّبِيِّ ﷺ - فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَلِي فِي الْفِرَائِ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - ((: فَأَيْنَ الدِّبَاغُ؟)) (قَالَ ثَابِتٌ: فَلَمَّا وَلَّى قُلْتُ
مَنْ بَدَأَ؟ قَالَ: سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ -
وَرَوَاهُ بَعْضُ النَّاسِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى بِإِسْنَادِهِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ
أَنْسِ وَهُوَ غَلَطٌ

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مردار کے بالوں سے فائدہ اٹھانے کا بیان

حدیث نمبر: 86

ترجمہ:

(۸۷) حضرت ثابت بنانی سے روایت ہے کہ میں عبد الرحمن بن لیلیٰ کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو دو مینڈھوں والا ایک شخص آیا اور اس نے کہا: اے ابو عیسیٰ! اس کے بارے میں بیان کریں جو آپ نے فراء (چمڑے) کے بارے میں اپنے والد سے سنا، انہوں نے فرمایا: مجھے میرے باپ نے بیان کیا کہ وہ نبی ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص آیا اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں فراء (چمڑے) پر نماز پڑھ لوں؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: "دباغت کس لیے ہے؟" ثابتؓ کہتے ہیں: جب وہ چلا گیا تو میں نے پوچھا: یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا: سوید بن غفلہ۔

(ب) بعض لوگوں نے عبید اللہ بن موسیٰ عن ثابت عن انس کی سند سے روایت کیا ہے، لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The Ruling on Benefitting from the Hair of Dead Animals

Hadith number: 86

Translation:

(86) It is narrated from Hazrat Thabit Banani that I was sitting with Abdul Rahman bin Laila when a man with two rams came and said: O Abu Isa! Explain what you heard from your father about the fur (leather). He said: My father told me that he was sitting with the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) when a man came and said: O Allaah's Messenger! Can I pray on fur (leather)? The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: What else is tanning for? Thabit said: When he left, I asked, "Who was this?" He (peace and blessings of Allah be upon him) said: Suwaid bin Ghafila.

(B) Some people have narrated it from the chain of transmission of Ubaidullah ibn Musa on the authority of Thabit on the authority of Anas (may Allah be pleased with him), but this narration is not authentic.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 87

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ حَيَّانَ (٨٨)
يُعْرِفُ بِأَبِي الشَّيْخِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ النَّقْفِيُّ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
مُوسَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي الصَّلَاةِ فِي الْفِرَائِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -
(فَأَيْنَ الدِّبَاغُ؟)

الإِسْنَادُ الْأَوَّلُ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ مَحْفُوظًا.
(ج (وَابْنُ أَبِي لَيْلَى هَذَا كَثِيرُ الْوَهْمِ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: مردار کے بالوں سے فائدہ اٹھانے کا بیان
حدیث نمبر: 87

ترجمہ:

۸۸ (حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ایک شخص نے کہا: اے اللہ کے رسول! فراء نامی چمڑے پر نماز پڑھنے کے متعلق آپ ﷺ کا کیا خیال ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "دباغت کس لیے ہے؟ (یعنی رنگنے کے بعد اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں)"
(ب (پہلی سند کا محفوظ ہونا زیادہ صحیح ہے۔ ابن ابی لیلیٰ کثیر الوہم ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The Ruling on Benefitting from Dead Hair

Hadith number: 87

Translation:

(87) It is narrated from Hazrat Anas bin Malik (may Allah be pleased with him) that I was sitting next to the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him). A man

said: O Messenger of Allah! What do you think about praying on a leather called fura? The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said: "What else is tanning for? (That is, after tanning, one can offer prayers on it)."

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 88

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ (٨٩)
يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنِ

عَائِشَةَ: أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الْفِرَائِ فَقَالَتْ: لَعَلَّ دِبَاغَهَا يَكُونُ ذَكَاتَهَا.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاکی کا بیان

باب: مردار کے بالوں سے فائدہ اٹھانے کا بیان

حدیث نمبر: 88

:ترجمہ

(۸۹) ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہؓ سے فراء چمڑے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: امید ہے کہ اس کو رنگنا رنگنا اس کو پاک کر دے گا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The Ruling on Benefitting from the Hair of Dead Animals

Hadith number: 88

Translation:

(88) Umm Al-Mu'minin Syeda Ayesha (may Allah be pleased with her) was asked about fur leather and she said: I hope that tanning it will purify it.

Sunan Kubra Bayhaqi 89

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمِّ الْفَقِيهِ (٩٠)
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
بْنُ أَيُّوبَ أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا بِشَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: سَأَلَ دَاوُدُ
السَّرَّاجُ الْحَسَنَ عَنِ جُلُودِ النُّمُورِ وَالسَّمُورِ تَدْبَعُ

بِالْمِلْحِ قَالَ: دَبَاغُهَا طَهُورٌ بَا-

(ت) قَالَ الشَّيْخُ وَقَدْ رَوَى عَمْرُو بْنُ عَبِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ فِي صُوفِ

الْمَيْتَةِ: اغْسِلْهُ-

وَرُوِيَ عَنْ عَطَائٍ أَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ-

وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ وَالْحَكَمِ وَحَمَّادٍ أَنَّهُمْ كَرِهُوا اسْتِعْمَالَ

شَعْرِ الْخِنْزِيرِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مردار کے بالوں سے فائدہ اٹھانے کا بیان

حدیث نمبر: 89

:ترجمہ

(۹۰) حضرت داؤد سراج نے حسن (رح سے چیتوں اور

بندروں کی کھال کے متعلق پوچھا کہ اگر انہیں نمک سے

دباغت دی جائے تو انہوں نے فرمایا: ان کو دباغت دینا ان کو

پاک کرنا ہے۔

(ب) شیخ فرماتے ہیں: حضرت حسن سے مردار کی اون

کے متعلق منقول ہے کہ اس کو دھو لیا جائے۔

(ج) حضرت عطاء اس کو ناپسند کرتے تھے۔

(د) (ابن سیرین، حکم اور حماد سے منقول ہے کہ وہ خنزیر کے بالوں کے استعمال کو حرام سمجھتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The Ruling on Benefitting from the Hair of Dead Animals

Hadith number: 89

Translation:

(89) Hazrat Dawud Siraj asked Hasan (may Allah have mercy on him) about the skins of leopards and monkeys, if they are tanned with salt, he replied: To tan them is to purify them.

(B) The Sheikh says: It is narrated from Hazrat Hasan about the wool of the dead that it should be washed.

(C) Hazrat Ata has disliked it.

(D) It is narrated that Ibn Sirin, Hukam and Hammad (may Allah have mercy on them) considered the use of pig's hair as haraam.
[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 90

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ بْنِ أَحْمَدَ (٩١)
الْأَصْبَهَانِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ
مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ بِشَامِ يَعْنِي ابْنَ
حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : لَمَّا
رَمَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - الْجَمْرَةَ وَنَحَرَ بِدْيِهِ نَاولَ الْحَلَّاقَ شِقَّةً
، الْأَيْمَنَ فَحَلَقَهُ ، فَنَاولَهُ أَبَا طَلْحَةَ ، ثُمَّ نَاولَهُ الْأَيْسَرَ فَحَلَقَهُ
وَأَمَرَهُ أَنْ يَقْسِمَ بَيْنَ النَّاسِ -
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ عَنْ ابْنِ أَبِي عُمَرَ عَنْ
: سُفْيَانَ وَقَالَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ : ثُمَّ دَعَا أَبَا طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ فَقَالَ
: اقسِمْ بَيْنَ النَّاسِ -
وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ بَعْضَ مَعْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ
سِيرِينَ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: نبی اکرم ﷺ کے بال مبارک کا بیان

حدیث نمبر: 90

ترجمہ:

۹۱ (حضرت انس بن مالک رضی سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے جمرہ میں رمی کی اور اپنی قربانی کا جانور ذبح کیا۔ پھر اپنے اپنے سر کی دائیں جانب حجام کے سامنے کی، حجام نے اس کو مونڈ دیا۔ پھر وہ ابو طلحہ رضی کو دے دیے۔ پھر بائیں جانب اس کے سامنے کی تو اس نے اسے بھی مونڈ دیا، آپ ﷺ نے ابو طلحہ کو حکم دیا کہ انہیں لوگوں میں تقسیم کر دے۔) (صحیح مسلم والی حدیث کے آخر میں یہ الفاظ ہیں: پھر آپ ﷺ نے ابو طلحہ انصاری رضی کو بلایا اور فرمایا: اسے لوگوں میں تقسیم کر دے۔)

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on the blessed hair of the Holy Prophet (peace and blessings of Allah be upon him)

Hadith number: 90

Translation:

(90) It is narrated from Hazrat Anas bin Malik (may Allah be pleased with him) that when Allah's Messenger (peace and blessings of Allah be upon him) had thrown pebbles at the Jamra and had sacrificed the animal, he turned (the right side) of his head towards the barber, and he shaved it and gave the hair to Abu Talha. He then turned his left side towards the barber and he again shaved it. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) then ordered Abu Talha to distribute it amongst the people.

(B) At the end of the hadith of Sahih Muslim are these words: Then he called Abu Talha Ansari and said: Distribute it among the people.

[Sahih. Narrated by Muslim 1305 and Abu Dawud 1981 and Tirmidhi 912 and Ahmad

12093, 3/111, 208, 214, 256 and Nasai in Sunan Kubra 4116]

Sunan Kubra Bayhaqi 91

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْقَطَّانُ أَخْبَرَنَا (٩٢)
أَبُو الْأَزْبَرِ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى أَنَّ
أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَاهُ شَهِدَ
الْمَنْحَرَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ - هُوَ وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ فَقَسَمَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ - بَيْنَ أَصْحَابِهِ ضَحَايَا ، فَلَمْ يُصِبْهُ وَلَا

لِصَاحِبِهِ قَالَ فَحَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ ، فَأَعْطَاهُ
فَقَسَمَ مِنْهُ عَلَى رِجَالٍ ، وَقَلَّمَ أَظْفَارَهُ فَأَعْطَى صَاحِبَهُ فَإِنَّهُ عِنْدَنَا
لَمَخْضُوبٌ بِالْحِنَائِ وَالْكَتْمِ-
(ت (تَابَعَهُ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبَانَ- ق) (وَالْخِضَابُ مِنْ
عِنْدِهِمْ لِكَيْ لَا يَتَغَيَّرَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: نبی اکرم ﷺ کے بال مبارک کا بیان
حدیث نمبر: 91

ترجمہ:

(۹۲) حضرت محمد بن عبداللہ بن زید بیان کرتے ہیں کہ میرے
والد قربان گاہ میں نبی ﷺ کے ساتھ تھے، وہاں ایک انصاری
بھی تھا۔ میرے والد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے
ساتھیوں میں قربانی کے جانور تقسیم کیے تو مجھے اور
انصاری کو (قربانی) نہ ملی۔ رسول اللہ ﷺ نے ایک کپڑے پر
اپنا سر منڈوایا تو مجھے وہ بال دے دیے، میں نے آدمیوں میں
تقسیم کر دیے پھر آپ ﷺ نے اپنے ناخن اتارے اور اپنے
ساتھی کو دے دیے، وہ ہمارے پاس

بھی ہیں اور وہ مہندی وغیرہ کے ساتھ رنگے ہوئے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on the blessed hair of the Holy Prophet (peace and blessings of Allah be upon him)

Hadith number: 91

Translation:

(91) Hazrat Muhammad bin Abdullah bin Zayd narrates that my father was with the Prophet in the altar, there was also an Ansari there. My father says that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) distributed sacrificial animals among his companions, but the Ansari and I did not receive (the sacrificial animal). The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) shaved his hair on a piece of cloth and gave it to me. I divided it among the people. Then he

clipped his nails and gave them to his companion. They are with us and they were dyed with henna.

[Sahih. Narrated by Ahmad 4/42]

Sunan Kubra Bayhaqi 92

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورِكَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى (٩٣)
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الْأَصْبَهَانِيِّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ
حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْحَكَمِ وَأَبِي بَشِيرٍ عَنْ
مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -
عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَكُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ -
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ عَنْ
أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاكى كا بيان

باب: ہاتھی اور دیگر حرام جانوروں کی ہڈیوں میں تیل رکھنے کی ممانعت

حدیث نمبر: 92

:ترجمہ

(۹۳) حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہر کچلیوں والے درندے اور ہر پنجوں والے پرندے سے منع فرمایا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Prohibition of keeping oil in the bones of elephants and other forbidden animals

Hadith number: 92

Translation:

(92) It is narrated from Hazrat Abdullah bin Abbas (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) forbade every fanged beast of prey and every bird with claws.

[Sahih. Narrated by Muslim 1934 and Nasai 4353 and Abu Dawud 3803, 3805 and Ibn Majah 3234 and Ahmad 1/244, 289, 302, 327, 332, 339, 373 and Darimi 2025]

Sunan Kubra Bayhaqi 93

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ (٩٤)
حَدَّثَنَا أَبُو شَنْجِيٍّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ
بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ
(ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ وَأَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ
سُفْيَانَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا صَدَقَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ
حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَخِيمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُكَيْمٍ حَدَّثَنَا
مَشِيخَةُ لَنَا مِنْ جُهَيْنَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - كَتَبَ إِلَيْهِمْ)) : أَلَّا تَسْتَمْتَعُوا
مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ)) (-).

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: ہاتھی اور دیگر حرام جانوروں کی ہڈیوں میں تیل رکھنے
کی ممانعت

حدیث نمبر: 93

:ترجمہ

(۹۴) حضرت عبداللہ بن عکیم^{رض} سے روایت ہے کہ ہمیں جہینہ
قبیلے کے مشائخ نے بیان کیا کہ نبی ﷺ نے انہیں

خط لکھا کہ مردار کی کسی چیز سے فائدہ نہ اٹھاؤ۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Prohibition of keeping oil in the bones of elephants and other forbidden animals

Hadith Number: 93

Translation:

(93) It is narrated from Hazrat Abdullah bin Ukaim that the leaders of the tribe of Juhainah told us that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) wrote a letter to them saying that they should not benefit from anything of the dead.

[Sahih. Narrated by Nasai 2455, 2456 and Abu Dawud 4127 and Tirmidhi 1729 and Ibn Majah 3613 and Ahmad 4/210, 311]

Sunan Kubra Bayhaqi 94

Arabic Text:

:أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ (٩٥)
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ
قَالَ وَرَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَكْرَهُ أَنْ
يَدَّيْنِ فِي مَدِينِ مِنْ عِظَامِ الْفِيلِ لِأَنَّ مَيْتَهُ بِكَذَا ذَكَرَهُ فِي الْجَدِيدِ.
:وَرَوَاهُ فِي الْقَدِيمِ كَمَا

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان
باب: ہاتھی اور دیگر حرام جانوروں کی ہڈیوں میں تیل رکھنے
کی ممانعت
حدیث نمبر: 94

ترجمہ:

(۹۵) حضرت عبداللہ بن دینار سے روایت ہے کہ میں نے سیدنا ابن عمرؓ کے متعلق سنا کہ وہ ہاتھی کی ہڈیوں میں تیل وغیرہ رکھنا حرام سمجھتے تھے، کیونکہ وہ مردار ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Prohibition of keeping oil in the bones of elephants and other forbidden animals

Hadith number: 94

Translation:

(94) It is narrated from Hazrat Abdullah bin Dinar that I heard about Ibn Umar (may Allah be pleased with him) that he considered it haraam to put oil etc. in the bones of an elephant, because it is dead.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 95

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا (٩٤)
مُؤَمَّلُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّعْفَرَانِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُدْبَنَ فِي عَظْمِ فِيلٍ وَفِي مَوْضِعِ
آخَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ عِظَامَ الْفِيلِ.
(ت) قَالَ الشَّيْخُ وَيُذَكَّرُ عَنْ عَطَائٍ أَنَّهُ كَرِهَ الْإِنْتِفَاعَ بِعِظَامِ
الْفَيْلَةِ وَأَنْبِيَاهَا.
وَعَنْ طَاوُسٍ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهِمَا كَرِهَا الْعَاجَ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: ہاتھی اور دیگر حرام جانوروں کی ہڈیوں میں تیل رکھنے کی ممانعت

حدیث نمبر: 95

ترجمہ:

(الف) حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ وہ (۹۶) ہاتھی کے ہڈی سے بنی ہوئی چیز میں تیل رکھنا حرام سمجھتے تھے۔ دوسری جگہ یہ الفاظ ہیں: وہ ہاتھی کی ہڈیوں کو استعمال کرنا (حرام سمجھتے تھے۔

(ب) (امام بیہقی) رح (فرماتے ہیں: عطاء تابعی) رح (سے) منقول ہے کہ وہ ہاتھی کی ہڈیوں اور دانتوں سے فائدہ اٹھانا مکروہ سمجھتے تھے۔

(ج) (حضرت طاؤس اور عمر بن عبد العزیز) رح (سے) منقول ہے کہ وہ دونوں ہاتھی کے دانت کے استعمال کرنا مکروہ سمجھتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Prohibition of keeping oil in the bones of elephants and other forbidden

animals

Hadith number: 95

Translation:

(95) (a) It is narrated from Hazrat Abdullah bin Umar (may Allah be pleased with him) that he considered it haraam to put oil in something made of elephant bone. The words used elsewhere are: He considered it haraam to use elephant bones.

(B) Imam Bayhaqi (may Allah have mercy on him) says: It is narrated from Ata (may Allah have mercy on him) that he considered it makrooh to benefit from elephant bones and teeth.

(C) It is narrated from Hazrat Tawus and Umar bin Abdul Aziz (may Allah have mercy on them) that they both considered the use of elephant teeth to be makrooh.

[Hadith is False]

Sunan Kubra Bayhaqi 96

Arabic Text:

وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذُبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو (٩٧)
بَكْرٍ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ الْخَلِيلِ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ (ح)
بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ حُمَيْدِ الشَّامِيِّ عَنْ
سُلَيْمَانَ الْمَنْبَهِيِّ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ : كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إِذَا سَافَرَ كَانَ آخِرُ عَهْدِهِ بِإِنْسَانٍ مِنْ أَهْلِ فَاطِمَةَ
فَقَدِمَ مِنْ غَزَاةٍ لَهُ وَقَدْ ، وَأَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِذَا قَدِمَ فَاطِمَةَ
مِسْحًا أَوْ سِتْرًا عَلَى

، بابِهَا ، وَحَلَّتِ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ قُلُوبَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ ، فَقَدِمَ فَلَمْ يَدْخُلْ
 فَظَنَّتْ أَنَّهَا مَنَعَهُ أَنْ يَدْخُلَ مَا رَأَى فَهَتَكَتِ السِّتْرَ وَفَكَتِ الْقُلُوبَيْنِ
 عَنِ الصَّبِيِّينِ ، وَقَطَعَتْهُ بَيْنَهُمَا ، فَأَنْطَلَقَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - وَبِهَا
 يَبْكِيَانِ ، فَأَخَذَهُ مِنْهُمَا وَقَالَ)) يَا ثَوْبَانَ ادْهَبْ بِهَذَا إِلَى آلِ
 فُلَانٍ أَهْلُ بَيْتِ الْمَدِينَةِ إِنَّهُ لَيَأْكُلُ مِنْ بَيْتِي أَكْرَهُ أَنْ يَأْكُلُوا طَيِّبَاتِهِمْ
 فِي حَيَاتِهِمْ الدُّنْيَا ، يَا ثَوْبَانَ اشْتَرِ لِفَاطِمَةَ قِلَادَةً مِنْ عَصَبِ
 وَسِوَارِينَ مِنْ عَاجِ)) -

(ج) قَالَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ : حُمَيْدُ الشَّامِيِّ بَدَأَ إِنَّهَا أَنْكَرَ
 عَلَيْهِ بَدَأَ الْحَدِيثُ ، وَهُوَ حَدِيثُهُ لَمْ أَعْلَمْ لَهُ غَيْرَهُ. أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدِ
 الْمَالِينِيُّ -

أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عِصْمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو
 طَالِبِ أَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَنْ حُمَيْدِ الشَّامِيِّ
 بَدَأَ قَالَ : لَا أَعْرِفُهُ -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَأَبُو
 بَكْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَشْنَانِيُّ قَالُوا أَخْبَرَنَا أَبُو
 الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ دُوسٍ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ سَعِيدِ
 الدَّارِمِيَّ يَقُولُ قُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ : فَحُمَيْدُ الشَّامِيِّ كَيْفَ
 حَدِيثُهُ الَّذِي يَرَوِي حَدِيثَ ثَوْبَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْمَنْبَهِيِّ؟ فَقَالَ : مَا
 أَعْرِفُهُمَا -
 وَرَوَى فِيهِ حَدِيثٌ آخَرٌ مُنْكَرٌ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: ہاتھی اور دیگر حرام جانوروں کی ہڈیوں میں تیل رکھنے کی ممانعت

حدیث نمبر: 96

ترجمہ:

(۹۷) حضرت ثوبان رض مولیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے تو اپنے اہل میں سے سب سے آخر میں فاطمہ رض سے ملتے اور جب واپس تشریف لاتے تو سیدہ فاطمہ رض کے گھر سب پہلے تشریف لاتے۔ ایک غزوہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو دروازے پر ایک چمڑا یا پردہ لٹک رہا تھا حضرت فاطمہ رض نے حسن و حسین رض کو چاندی کے دو کنگن پہنائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اندر داخل نہیں ہوئے، سیدہ فاطمہ رض نے گمان کیا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے اس نے داخل ہونے سے روک دیا۔ سیدہ فاطمہ رض نے پردہ ہٹا دیا اور بچوں سے کنگن اتار دیے اور ان دونوں کو الگ الگ کر دیا، دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور دونوں رو رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کو پکڑا اور فرمایا "اے ثوبان! اس کو فلاں کی طرف لے جاؤ۔" "مدینہ میں فلاں گھر کی طرف کیونکہ یہ میرے اہل بیت ہیں

میں ناپسند کرتا ہوں کہ وہ دنیا کی زندگی میں کھائیں پئیں۔ اے
ثوبان! فاطمہؓ کے لیے پٹھوں سے بنا ہوا ہار اور ہاتھی کے
دانتوں سے بنے ہوئے دو کنگن خرید کر لے آؤ۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Prohibition of keeping oil in the
bones of elephants and other forbidden
animals

Hadith number: 96

Translation:

(96) Narrated Thawban (may Allah be pleased with him) that when the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) went on a journey, the last member of his family he saw was Fatimah (may Allah be pleased with her), and the first he visited on his return was Fatimah (may Allah be pleased with her). Once when he returned from an expedition she had hung up a hair-

cloth, or a curtain, at her door, and adorned al-Hasan and al-Husayn with silver bracelets. So when he arrived, he did not enter. Thinking that he had been prevented from entering by what he had seen, she tore down the curtain, unfastened the bracelets from the boys and cut them off.

They went weeping to the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him), and when he took one of them and said: O Thawban! Take him to so and so's family. In Medina, these are my family, and I did not like them to enjoy their good things in the present life. O Thawban! Buy a necklace made of muscle and two bracelets made of elephant teeth for Fatima (may Allah be pleased with her).

[Daif (Weak). Narrated by Abu Dawud 4213 and Ahmad 5/275, 279]

Sunan Kubra Bayhaqi 97

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ (٩٨)
الطَّرَائِفِ.

ح (وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْخَيْرِ : جَامِعُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُحَمَّدَابَادِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو طَابِرٍ الْمُحَمَّدَابَادِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ
الدَّارِمِيِّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ الْجُرْجِسِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ
عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ - إِذَا
أَخَذَ مَضْجَعَهُ مِنَ اللَّيْلِ وَضَعَ طَهُورَهُ وَسِوَاكَهُ وَمِشْطَهُ ، فَإِذَا
بَيَّهَ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ اللَّيْلِ اسْتَاكَ وَتَوَضَّأَ وَامْتَشَطَ قَالَ : وَرَأَيْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - يَمْتَشِطُ بِمِشْطٍ مِنْ عَاجٍ -

قَالَ عُمَانُ: بِذَا مُنْكَرٍ-

(ج) قَالَ الشَّيْخُ: رَوَايَةٌ بَقِيَّةٌ عَنْ شُيُوخِ الْمَجْهُولِينَ ضَعِيفَةٌ-
(غ) وَقَدْ قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: الْعَاجُ الذَّبْلُ
وَيُقَالُ هُوَ عَظْمٌ ظَهَرَ السُّلْحَفَةُ الْبَحْرِيَّةُ، وَأَمَّا الْعَاجُ الَّذِي
تَعْرِفُهُ الْعَامَّةُ فَهُوَ عَظْمٌ أَنْيَابِ الْفِيلَةِ وَهُوَ مَيْتَةٌ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: ہاتھی اور دیگر حرام جانوروں کی ہڈیوں میں تیل رکھنے
کی ممانعت

حدیث نمبر: 97

ترجمہ:

(۹۸) حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ جب رات کو
سونے کے لیے بستر پر تشریف لاتے تو اپنا پانی والا برتن،
مسواک اور کنگھی بھی رکھتے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کو رات
میں بیدار کرتے تو آپ مسواک کرتے، وضو کرتے اور کنگھی
کرتے۔ حضرت انسؓ فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ

ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ ہاتھی دانت سے بنی ہوئی کنگھی کرتے تھے۔

(ب) عثمان کہتے ہیں: یہ روایت منکر ہے۔
(ج) (اصمعی کہتے ہیں کہ عاج ذبل کو کہتے ہیں اور بعض نے کہا: بڑے بحری کچھوے کی ہڈی کو کہتے ہیں اور عاج ہاتھی کی کچلیوں کی بڑی ہڈی کو کہتے ہیں اور وہ مردار ہے، اس کی کسی چیز کا استعمال درست نہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Prohibition of keeping oil in the bones of elephants and other forbidden animals

Hadith number: 97

Translation:

(97) It is narrated from Hazrat Anas (may Allah be pleased with him) that when the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) went to bed at night, he would keep his water vessel, toothbrush and comb.

When Allah used to wake him up at night, he would use the miswak, perform ablution and comb his hair. Hazrat Anas (may Allah be pleased with him) says: I saw the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) that he used a comb made of elephant teeth.

(B) Uthman says: This tradition is munkar.

(C) Asma'i says that ivory is called Zabal and some have said that: Ivory is the bone of a tortoise or ivory is called the big bone of an elephant's tusks and it is dead. It is not correct to use anything of it.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 98

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي آخِرِينَ (٩٩)
قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ
سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ.
ح (وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ قَالَا
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ زَيْدِ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي
بَكْرِ الصِّدِّيقِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ -
قَالَ)) :الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجْرَجُ فِي بَطْنِهِ نَارَ
((جَهَنَّمَ))

، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ ،
 وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى كِلَابُمَا عَنْ مَالِكٍ -
 وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَالْوَلِيدِ بْنِ شُجَاعٍ عَنْ
 عَلِيِّ بْنِ مُسَهْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعِ زَادٍ)) : إِنَّ الَّذِي
 يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ((-
 ، وَذَكَرُ الْأَكْلِ وَالذَّهَبِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ فِي غَيْرِ رِوَايَةٍ عَلِيِّ بْنِ مُسَهْرٍ
 وَقَدْ رَوَاهُ غَيْرُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَالْوَلِيدِ بْنِ
 -شُجَاعٍ دُونَ ذِكْرِهِمَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے کی
 ممانعت

حدیث نمبر: 98

ترجمہ:

(۹۹) (ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ^{رض} سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے
 فرمایا " : وہ شخص جو سونے کی برتن میں پیتا ہے تو وہ اپنے
 " پیٹ میں جنم کی آگ انڈیلتا ہے۔"

(ب (حضرت نافع) رح (سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے

فرمایا " بیشک وہ شخص جو سونے چاندی کے برتنوں میں کھاتا اور پیتا ہے۔"

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Prohibition of eating and drinking in gold and silver vessels

Hadith number: 98

Translation:

(98) It is narrated on the authority of Umm Al-Mu'minin (may Allah be pleased with her) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "He who drinks in silver utensils is only filling his abdomen with Hell Fire."

(B) It is narrated from Hazrat Nafi (may Allah have mercy on him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "Surely the one who eats and drinks in gold and silver vessels."

[Sahih. Narrated by Bukhari 5634 and Muslim 2065 and Ibn Majah 3413, 3415 and Malik 49/11 and Ahmad 6/98, 301, 302, 304, 306 and Darimi 2175]

Sunan Kubra Bayhaqi 99

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّوْذُبَارِيُّ أَخْبَرَنَا (١٠٠)
أَبُو بَكْرٍ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ
الْقَلَانِسِيُّ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَّاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الْأَشْعَثُ بْنُ
سُلَيْمٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ سُؤَيْدٍ بْنَ مِقْرَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ
بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -

عَنْ سَبْعِ نَهَانَا عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ - أَوْ قَالَ حَلَقَةِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْحَرِيرِ
وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالذِّيْبَاجِ ، وَالْمِثْرَةَ الْحَمْرَايَ وَالْقَسِيَّ ، وَآنِيَةَ
الْفِضَّةِ-

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ آدَمَ ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهِ
آخَرَ عَنْ شُعْبَةَ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے کی
ممانعت

حدیث نمبر: 99

:ترجمہ

(۱۰۰) حضرت براء بن عازبؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
ﷺ نے ہمیں سات چیزوں سے منع کیا ہے: ہمیں سونے کی
انگوٹھی، سونے کے کنگن، ہر قسم کے موٹے اور باریک
ریشم، خالص سرخ کپڑے، ٹسر کے بنے ہوئے کپڑے اور
چاندی کے برتن (کے استعمال سے منع کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Prohibition of eating and drinking in gold and silver vessels

Hadith number: 99

Translation:

(99) It is narrated from Hazrat Bara ibn Azib (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) forbade us from seven things: gold rings, gold bracelets, all kinds of thick and thin silk, pure red clothes, tussar cloth and forbade the using of silver vessels.

[Sahih. Narrated by Bukhari 5175, 5635, 5650, 5838, 5849, 5863, 6222 and Muslim 2066 and Nasai 1941, 5311 and Tirmidhi 2809 and Ibn Majah 2115 and Ahmad 4/284, 287, 299]

Sunan Kubra Bayhaqi 100

Arabic Text:

وَرَوَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ أَشْعَثَ وَزَادَ فِيهِ: وَنَهَانَا (١٠١)
عَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ ، فَإِنَّهُ مَنْ يَشْرَبُ فِيهَا فِي الدُّنْيَا لَا يَشْرَبُ
فِيهَا فِي الْآخِرَةِ .
:أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا
جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ فَذَكَرَهُ .
أَخْرَجَاهُ جَمِيعًا مِنْ أَوْجِهِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے کی
ممانعت
حدیث نمبر: 100

ترجمہ:

(۱۰۱) حضرت اشعث سے جو روایت ہے اس میں یہ الفاظ زیادہ ہیں اور ہمیں چاندی کے برتن میں پینے سے منع کیا، جو جو دنیا میں اس برتن میں پیتا ہے تو وہ آخرت میں اس (برتن) میں نہیں پیے گا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Prohibition of eating and drinking in gold and silver vessels

Hadith number: 100

Translation:

(100) These words are excess in the narration from Hazrat Ash'ath "and forbade us to drink in silver vessels. He who drinks in this vessel in this world will not drink in this (vessel) in the Hereafter."

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 101

Arabic Text:

حَدَّثَنَا السَّيِّدُ أَبُو الْحَسَنِ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ (١٠٢) الْعَلَوِيُّ إِمْلَائِي أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ حَمْدَوَيْهِ بْنِ سَهْلِ الْمَرْزِيُّ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَبُو فَرَوَةَ الْجُهَنِيُّ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَكِيمٍ يُحَدِّثُ عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ: أَنَّهُ اسْتَسْقَى بِالْمَدَائِنِ فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ بِنَائِي مِنْ فِضَّةٍ فَحَذَفَهُ - قَالَ: وَكَانَ حُدَيْفَةُ رَجُلًا فِيهِ حِدَّةٌ - فَقَالَ: إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكُمْ مِنْ هَذَا، إِنِّي كُنْتُ قَدْ تَقَدَّمْتُ إِلَيْهِ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَامَ فِينَا فَفَنَاهَا أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَأَنْ نَلْبَسَ الْحَرِيرَ وَالذَّبْيَاجَ وَقَالَ:)) :هُوَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَهُوَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ ((- أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ وَغَيْرِهِ عَنِ سُفْيَانَ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے کی

ممانعت

حدیث نمبر: 101

ترجمہ:

(۱۰۲) حضرت حذیفہ بن یمانؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے مدائن میں کھیتی باڑی کی تو ان کے پاس ایک کسان چاندی کا برتن لے کر آیا۔ انہوں نے ایک طرف پھینک دیا۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت حذیفہ سخت طبیعت کے مالک تھے۔ آپ نے فرمایا: میں تم سے اس کے استعمال (سے معذرت خواہ ہوں، میں اس کی طرف گیا اور رسول اللہ ﷺ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور ہمیں سونے چاندی کے برتنوں میں پینے سے منع کیا اور ہمیں ریشم پہننے سے خواہ موٹا ہو یا باریک منع کیا اور فرمایا: وہ ان (کافروں) کے لیے دنیا میں ہے اور تمہارے لیے آخرت میں ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Prohibition of eating and drinking in gold and silver vessels

Hadith number: 101

Translation:

(101) It is narrated from Hazrat Hudhaifah bin Yaman (may Allah be pleased with him) while we were with Hudhaifa in Mada'in he asked for water. A farmer brought a drink for him in a silver vessel. He (Hudhaifa) threw it away. The narrator says that Hazrat Huzafa was a man of strong nature. He said: I apologize to you for this. I went to him and the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) stood among us and forbade us to drink from the vessels of gold and silver and from wearing silk regardless of whether it was thick or thin and said: It is for them (the disbelievers) in this world and for you in the Hereafter.

[Sahih. Narrated by Bukhari 5426, 5831 and Muslim 2067 and Nasai 5303 and Abu Dawud 3723 and Tirmidhi 1878 and Ibn Majah 3414 and Ahmad 5/385, 390, 396, 398, 400, 408]

Sunan Kubra Bayhaqi 102

Arabic Text:

:أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ الْحَافِظِ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ (١٠٣)
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الشَّافِعِيِّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ
الْحَسَنِ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَيْفٌ قَالَ سَمِعْتُ مُجَابِدًا يَقُولُ
حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى: أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ حُدَيْفَةَ
فَاسْتَسْقَى فَسَقَاهُ مَجُوسِيٌّ بِقَدَحِ فِضَّةٍ ، فَلَمَّا وَضَعَ الْقَدَحَ فِي يَدِهِ
رَمَاهُ بِهِ ، ثُمَّ قَالَ : لَوْلَا أَنِّي نَهَيْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ - يَقُولُ
أَبُو نُعَيْمٍ : كَأَنَّهُ يَقُولُ لَمْ أَصْنَعْ هَذَا - وَلَكِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -
ﷺ يَقُولُ ((: لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيْبَاجَ ، وَلَا تَشْرَبُوا فِي
أَنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي
الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ)) -

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ
نُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَيْفِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: سونے اور چاندی کی پلیٹوں میں کھانے کی ممانعت

حدیث نمبر: 102

ترجمہ:

(۱۰۳) (سیدنا عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ سے روایت ہے کہ وہ حضرت حذیفہؓ کے پاس تھے، انہوں نے پانی مانگا تو مجوسی نے انہیں چاندی کے پیالے میں پانی پلانا چاہا، جب اس نے پیالہ آپؐ کے ہاتھ پر رکھا تو انہوں نے پیالہ پھینک دیا، پھر فرمایا: اگر میں نے ایک مرتبہ یا دو مرتبہ اس کو منع نہ کیا ہوتا، ابو نعیم کہتے ہیں گویا کہ وہ کہ رہے تھے: تو میں اس طرح نہ کرتا، لیکن میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم سلک اور باریک ریشم نہ پہنو اور نہ تم سونے چاندی کے برتنوں میں پیو اور نہ تم سونے چاندی کی پلیٹوں میں کھاؤ۔ یہ برتن ان (کافروں) کے لیے دنیا میں ہے اور تمہارے لیے آخرت میں ہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Prohibition of eating in gold and silver plates

Hadith number: 102

Translation:

(102) It is narrated from Abdur-Rahman bin Abi Laila that we were sitting in the company of Hudhaifa (may Allah be pleased with him) who asked for water and a Magian brought him water. But when he placed the cup in his hand, he threw it and said, "Had I not forbidden him to do so once or twice?" Abu Nuaym said that he wanted to say, "I would not have done so," adding, "but I heard the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) saying, "Do not wear silk or Dibaja, and do not drink in silver or golden vessels, and do not eat in plates of such metals, for

such things are for the unbelievers in this worldly life and for us in the Hereafter."

[Sahih. Narrated by Bukhari 5426, 5831 and Muslim 2067 and Nasai 5303 and Abu Dawud 3723 and Tirmidhi 1878 and Ibn Majah 3414 and Ahmad 5/385, 390, 396, 398, 400, 408]

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الْأَدِيبِ (١٠٤)
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ الْإِسْمَاعِيلِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو
خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي
نَجِيحٍ يُحَدِّثُ عَنْ مُجَابِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: اسْتَسْقَى حُدَيْفَةَ فَأَتَاهُ
دِهْقَانٌ بِإِنَائٍ فِضَّةٍ ، فَأَخَذَهُ فَرَمَاهُ بِهِ وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - نَهَانَا
أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا ، وَعَنْ لُبْسِ
الْحَرِيرِ وَالذَّبْيَاجِ ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ: ((بُو لِهْمٌ فِي الدُّنْيَا
وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ)) -
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ عَنْ وَهْبِ بْنِ
جَرِيرِ بْنِ حَارِمٍ -
(ت) (وَرَوَاهُ مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنْ مُجَابِدٍ نَحْوَ رِوَايَةِ سَيْفِ
وَإِبْنِ أَبِي نَجِيحٍ فِي النَّهْيِ عَنِ الْأَكْلِ فِيهَا -
وَرُويَ فِي ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْ
أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -)

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: سونے اور چاندی کی پلیٹوں میں کھانے کی ممانعت

حدیث نمبر: 103

ترجمہ:

(۱۰۴) حضرت ابن ابی لیلیٰ سے روایت ہے کہ حضرت حذیفہؓ نے پانی مانگا تو ایک کسان چاندی کے برتن میں (پانی) لایا، انہوں نے وہ برتن پکڑ کر پھینک دیا اور فرمایا: بیشک رسول اللہ ﷺ نے ہمیں سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے، پینے سے منع کیا اور موٹے اور باریک ریشم کے کپڑے (پہننے اور ان پر بیٹھنے سے منع کیا اور کہا: وہ ان (کافروں کے لیے دنیا میں ہیں اور ہمارے لیے آخرت میں۔) ب (ابن ابی نجیح کی روایت میں ہے کہ ان (برتنوں میں کھانا منع ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Prohibition of eating in gold and silver plates

Hadith number: 103

Translation:

(103) It is narrated from Ibn Abi Laila that when Hazrat Hudhaifah (may Allah be pleased with him) asked for water, a farmer brought (water) in a silver vessel. He grabbed the vessel and threw it away and said: Verily, the Messenger of Allah (may peace be upon him) forbade us to eat and drink in vessels of gold and silver, and forbade us to wear coats of fine silk and to sit on them, and said: They are for them (the disbelievers) in this world and for us in the Hereafter.

(B) According to the narration of Ibn Abi Najih, it is forbidden to eat in these (pots).
[Sahih. Narrated by Bukhari 5426, 5831 and Muslim 2067 and Nasai 5303 and Abu Dawud 3723 and Tirmidhi 1878 and Ibn Majah 3414 and Ahmad 5/385, 390, 396, 398, 400, 408]

Sunan Kubra Bayhaqi 104

Arabic Text:

أَمَّا حَدِيثُ عَلِيٍّ :فَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ :أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١٠٥)
الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ :عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا يَحْيَى
بْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ حَاتِمِ الْأَنْصَارِيُّ بِالْبَصْرَةِ حَدَّثَنَا أَبُو
بَكْرٍ الْحَنْفِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ
انْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبِي إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ
لَنَا :إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ أُنْيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ أَنْ
يُشْرَبَ فِيهَا ، وَأَنْ يُؤْكَلَ فِيهَا ، وَنَهَى عَنِ الْقَسِيِّ وَالْمِثْرَةِ ، وَعَنْ
ثِيَابِ الْحَرِيرِ وَخَاتِمِ الذَّهَبِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب :پاکی کا بیان
باب :سونے اور چاندی کی پلیٹوں میں کھانے کی ممانعت

حدیث نمبر: 104

ترجمہ:

(۱۰۵) حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ میں اور میرے والد سیدنا علیؓ بن ابی طالب کے پاس گئے تو انہوں نے ہم سے کہا: بیشک رسول اللہ ﷺ نے سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے منع کیا اور ٹسر کے بنے ہوئے کپڑے خالص سرخ رنگ، ریشم کے کپڑے اور سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Prohibition of eating in gold and silver plates

Hadith number: 104

Translation:

(104) It is narrated from Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that my father and I went to Ali ibn Abi Talib (may Allah be pleased with him) and he said to us: Verily,

the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) forbade us to eat and drink in gold and silver vessels and prohibited clothes made from tussar and wearing pure red, clothes made from silk and gold rings. [Sahih li ghayrihi (Authentic due to external evidence). Narrated by Al-Daraqutni 1/41]

Sunan Kubra Bayhaqi 105

Arabic Text:

وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (١٠٦)
فَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ إِمْلَاءً أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ
عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا قَطْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ

أَنَّسِ بْنِ سَيْرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -
عَنِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِي أُنْيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: سونے اور چاندی کی پلیٹوں میں کھانے کی ممانعت

حدیث نمبر: 105

ترجمہ:

(۱۰۶) حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے منع کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Prohibition of eating in gold and silver plates

Hadith number: 105

Translation:

(105) It is narrated from Hazrat Anas bin Malik (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) forbade eating and drinking in gold and silver vessels.

[Sahih. Narrated by Nasai in Sunan Kubra 6632]

Sunan Kubra Bayhaqi 106

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ أَنْ خَبَرَنَا (١٠٧)
أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّفَّارِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو الْقَطِرَانِيُّ حَدَّثَنَا

عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ
عُبَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عِنْدَ
نَفَرٍ مِنَ الْمَجُوسِ قَالَ فَجِئْتُ بِفَالُوذَجِ عَلَى إِنَائٍ مِنْ فِضَّةٍ قَالَ
فَلَمْ يَأْكُلْهُ ، فَقِيلَ لَهُ حَوْلَهُ قَالَ: فَحَوْلَهُ عَلَى إِنَائٍ مِنْ خَلْنَجٍ
وَجِئْتُ بِهِ فَأَكَلَهُ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: سونے اور چاندی کی پلیٹوں میں کھانے کی ممانعت

حدیث نمبر: 106

:ترجمہ

(۱۰۷) حضرت انس بن سیرین کہتے ہیں کہ میں سیدنا انس بن
مالکؓ ساتھ مجوسیوں کی ایک جماعت کے پاس تھا۔ آپ کے
پاس چاندی کا ایک فانوس لایا گیا۔ حضرت انس بن مالکؓ نے
اس میں سے کچھ نہ کھایا تو مجوس سے کہا گیا: کسی اور
برتن میں لے آؤ۔ چنانچہ اس نے خَلْنَج کے برتن سے تبدیل کیا
اور اس میں لے کر آیا تو انس بن مالکؓ نے اس (برتن سے)
کھایا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Prohibition of eating in gold and silver plates

Hadith number: 106

Translation:

(106) Hazrat Anas bin Sirin says that I was with a group of Magians with Anas bin Malik. A silver lantern was brought to him. When Anas ibn Malik (may Allah be pleased with him) did not eat any of it, the Magian was told to bring it in another vessel. So he changed it and brought it in a vessel made of heather. Anas ibn Malik ate from it.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 107

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوَدْبَارِيُّ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ (١٠٨)
أَيُّوبَ الطُّوسِيَّ وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ
بْنِ إِسْحَاقَ الْبَزَّازُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ
الْفَاكِهِيَّ بِمَكَّةَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسْرَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى
بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَارِيُّ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ((مَنْ شَرِبَ فِي
نَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا يُجْرَجُ فِي إِنَائِي ذَبَبٍ أَوْ فِضَّةٍ أَوْ إِنَائِي فِيهِ شَيْءٌ م
فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ)) (-).
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي فَوَائِدِهِ عَنِ الطُّوسِيِّ وَالْفَاكِهِيَّ
مَعًا فَرَادَ فِي الْإِسْنَادِ بَعْدَ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَأَظْنُهُ
وَبِمَا فَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ إِسْحَاقَ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ
بِحِطِّ أَبِي الْحَسَنِ الدَّارِقُطْنِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَمَا تَقَدَّمَ.
وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارِقُطْنِيُّ فِي كِتَابِهِ وَكَذَلِكَ
أَخْرَجَهُ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ عَنْ أَبِي

يَحْيَىٰ بِنِ أَبِي مَسْرَةَ فِي كِتَابِهِ دُونَ ذِكْرِ جَدِّهِ وَالْمَشْهُورُ عَنِ ابْنِ
عُمَرَ فِي الْمُضَبَّبِ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: چاندی سے پالش کیے ہوئے برتن میں کھانے کی ممانعت

حدیث نمبر: 107

:ترجمہ

(۱۰۸) حضرت عبداللہ بن عمر^{رض} سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: جس کسی نے سونے، چاندی یا کسی ایسے برتن میں پیا جس میں دونوں کی ملاوٹ ہو تو وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔

(ب (امام دارقطنی) رح) نے اپنی کتاب میں اپنی سند سے جو روایت بیان کی ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر^{رض} پر موقوف ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Prohibition of eating in silver-polished vessels

Hadith number: 107

Translation:

(107) It is narrated from Hazrat Abdullah bin Umar that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: Whoever drinks from gold, silver or any vessel in which the two are mixed, fills his stomach with the fire of Hell.

(B) The narration narrated by Imam Daraqutni (may Allah have mercy on him) in his book which is from his chain of narration is narrated by Hazrat Abdullah bin Umar (may Allah be pleased with him).

[Sahih. Narrated by Bukhari 5634 and Muslim 2065 and Ibn Majah 3413, 3415 and Malik 49/11 and Ahmad 6/98, 301, 302, 304, 306 and Darimi 2175]

Sunan Kubra Bayhaqi 108

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ (١٠٩)
بِشْرَانَ بِنِعْدَادَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ
بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ لَا يَشْرَبُ فِي قَدَحٍ فِيهِ
حَلْقَةٌ فِضَّةٍ وَلَا ضَبَّةٌ فِضَّةٍ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
کتاب: پاکی کا بیان

باب :چاندی سے پالش کیے ہوئے برتن میں کھانے کی ممانعت
حدیث نمبر :108

:ترجمہ

(۱۰۹) حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے منقول ہے کہ وہ برتن جس میں چاندی کا کڑا ہوتا یا چاندی کا دستہ ہوتا تو اس میں پیتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Prohibition of eating in silver-polished vessels

Hadith number: 108

Translation:

(108) It is narrated from Hazrat Abdullah bin Umar (may Allah be pleased with him) that he would not drink from a vessel which had a silver bracelet or a silver band.

[Hasan (Fair)]

Sunan Kubra Bayhaqi 109

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ (١١٠)
مُحَمَّدِ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبِ الْكَيْسَانِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ
بْنُ مَعْبَدٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ
عُمَرَ : أَنَّهُ أُتِيَ بِقَدَحٍ مُمْضَضٍ لِيَشْرَبَ مِنْهُ فَأَبَى أَنْ يَشْرَبَ
فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ عُمَرَ مُنْذُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - نَهَى عَنِ
الشُّرْبِ فِي أَنْيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ لَمْ يَشْرَبْ فِي الْقَدَحِ
الْمُمْضَضِ - وَرَوَى فِي ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ وَأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: چاندی سے پالش کیے ہوئے برتن میں کھانے کی ممانعت

حدیث نمبر: 109

ترجمہ:

(۱۱۰) حضرت عبداللہ بن عمر^{رض} سے روایت ہے کہ ان کے سے پاس چاندی کے ساتھ پالش کیا ہوا پیالا لایا گیا تاکہ وہ اس پییں، لیکن انہوں نے اس میں پینے سے انکار کر دیا، میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا: ابن عمر^{رض} نے جب سے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ آپ ﷺ نے سونے اور چاندی کے برتن میں پینے سے منع کیا ہے تب سے چاندی لگے ہوئے برتن میں نہیں کھایا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Prohibition of eating in silver-polished vessels

Hadith number: 109

Translation:

(109) It is narrated from Hazrat Abdullah bin Umar (may Allah be pleased with him) that he was brought a cup polished with silver so that he could drink from it, but he refused to drink from it. When I asked him, he said: Ever since Ibn Umar (may Allah be pleased with him) heard from the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) that he forbade drinking from gold and silver vessels, he has not eaten from silver vessels.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 110

Arabic Text:

أَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ (۱۱۱)
اللَّهُ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى
بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَايٍ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ
ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عَمْرَةَ أَنَّهَا قَالَتْ كُنَّا مَعَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
فَمَا زَلْنَا بِهَا حَتَّى رَحَّصَتْ لَنَا فِي الْحُلِيِّ وَلَمْ تَرَخِّصْ لَنَا فِي
الْإِنَائِ الْمَفْضُضِ.
قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَعِيدٌ هُوَ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ: حَمَلْنَا عَلَى الْحَلَقَةِ
وَنَحْوَهَا.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: چاندی سے پالش کیے ہوئے برتن میں کھانے کی ممانعت
حدیث نمبر: 110

:ترجمہ

(۱۱۱) (سیدہ عمرہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہم ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تھیں، ہم ہمیشہ آپ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رہیں حتیٰ کہ آپ رضی اللہ عنہا نے زیورات میں رخصت دے دی اور چاندی سے پالش کیے برتن میں رخصت نہ دی۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Prohibition of eating in silver-polished vessels

Hadith number: 110

Translation:

(110) It is narrated from Syeda Umrah that we were with Umm Al-Mu'minin Syeda Ayesha (may Allah be pleased with her). We were always with her, she permitted us (to wear) jewelry and did not permit us silver-polished vessels.

[Hasan Li Ghayrihi (Fair due to external evidence). Narrated by Ibn Abi Shaybah

Sunan Kubra Bayhaqi 111

Arabic Text:

وَأَمَّا حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (١١٢)
الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ يَعْنِي ابْنَ
مُحَمَّدِ الدُّورِيِّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ
عِمْرَانَ عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ أَنَسًا كَرِهَ الشُّرْبَ فِي الْمُفَضِّضِ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: چاندی سے پالش کیے ہوئے برتن میں کھانے کی ممانعت

حدیث نمبر: 111

ترجمہ:

(۱۱۲) حضرت قتادہ (رح) سے روایت ہے کہ حضرت انس نے چاندی سے پالش کیے ہوئے برتن میں پینے کو ناپسند کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Prohibition of eating in silver-polished vessels

Hadith number: 111

Translation:

(111) It is narrated from Hazrat Qatadah (may Allah have mercy on him) that Hazrat Anas (may Allah be pleased with him) disliked drinking in a vessel polished with

silver.

[Hasan (Fair)]

Sunan Kubra Bayhaqi 112

Arabic Text:

وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (١١٣)
الْأَدِيبُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ
وَالْهَيْثَمُ بْنُ خَلْفٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْحَسَنِ يَعْني
ابْنَ شَقِيقٍ حَدَّثَنَا أَبِي أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْرَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ
الْأَحْوَلِ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ قَدْحَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
انْصَدَعَ فَجَعَلَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةٍ. قَالَ

عَاصِمٌ وَرَأَيْتُ الْقَدْحَ وَشَرِبْتُ فِيهِ قَالَ أَبِي وَرَأَيْتُ الْقَدْحَ وَشَرِبْتُ فِيهِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: چاندی سے پالش کیے ہوئے برتن میں کھانے کی ممانعت

حدیث نمبر: 112

ترجمہ:

(۱۱۳) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ کا پیالہ ٹوٹ گیا تو آپ ﷺ نے ٹوٹی ہوئی جگہ پر چاندی کی تار لگا کر جوڑ دیا۔ عاصم کہتے ہیں: میں نے وہ پیالہ دیکھا اور اس میں پیا بھی، میرے والد کہتے ہیں: میں نے وہ پیالہ دیکھا اور اس میں پیا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Prohibition of eating in silver-

polished vessels

Hadith number: 112

Translation:

(112) It is narrated from Hazrat Anas (may Allah be pleased with him) that when the cup of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) was broken, he put a silver wire on the broken place and put it together. Asim says: I saw that cup and drank in it, my father says: I saw that cup and drank in it.

[Sahih. Narrated by Bukhari 3109]

Sunan Kubra Bayhaqi 113

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي عَلِيُّ (١١٤)
بْنُ الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ جَبَلَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْرَةَ فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ إِلَّا
أَنَّه قَالَ: انْكَسَرَ بَدَلٌ: انْصَدَعَ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ
هَكَذَا وَهُوَ يُؤَيِّمُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ ﷺ - اتَّخَذَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً
مِنْ فِضَّةٍ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: چاندی سے پالش کیے ہوئے برتن میں کھانے کی ممانعت
حدیث نمبر: 113

ترجمہ:

(١١٤) (ابو حمزہ نے اسی مذکورہ حدیث کی مانند ذکر کیا

ہے لیکن اِنْصَدَعَ کی جگہ اِنْكَسَرَ کے لفظ ذکر کیے ہیں۔ امام بخاری (رح) نے اپنی صحیح میں اسی طرح حدیث بیان کی ہے اور ان کو شبہ ہے کہ نبی ﷺ نے ٹوٹی ہوئی جگہ کو چاندی کی تار سے جوڑا یا نہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Prohibition of eating in silver-polished vessels

Hadith number: 113

Translation:

(113) Abu Hamzah has mentioned the same hadith as mentioned, but has mentioned the word اِنْكَسَرَ instead of اِنْصَدَعَ. Imam Bukhari (may Allah have mercy on him) has narrated the same hadith in his Sahih and he doubts whether the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) connected the broken place with a silver wire or not.

Sunan Kubra Bayhaqi 114

Arabic Text:

وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ (١١٥)
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمَّادٍ الْعَدْلُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ
وَعُثْمَانُ بْنُ عَلِيٍّ الرَّعْرَائِيُّ قَالَا أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ
الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقِ الْمَرْوَزِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ أَخْبَرَنَا أَبُو
حَمْزَةَ وَهُوَ السُّكَّرِيُّ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ
سِيرِينَ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ قَدْحَ النَّبِيِّ ﷺ - انْصَدَعَ فَجَعَلَتْ مَكَانَ
الشَّعْبِ سِلْسِلَةً يَعْنِي أَنَّ أَنَسًا جَعَلَ مَكَانَ الشَّعْبِ سِلْسِلَةً.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: بِكَذَا فِي الْحَدِيثِ لَا أَدْرِي مَنْ قَالَهُ
مُوسَى بْنُ هَارُونَ أَمْ مَنْ فَوْقَهُ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: چاندی سے پالش کیے ہوئے برتن میں کھانے کی ممانعت

حدیث نمبر: 114

ترجمہ:

(۱۱۵) حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ کا پیالہ ٹوٹ گیا تو میں نے ٹوٹی ہوئی جگہ پر تار لگا دی، یعنی انسؓ نے ٹوٹی ہوئی جگہ پر تار لگا دی۔

(ب) (شیخ) رح (فرماتے ہیں کہ حدیث میں اسی طرح ہے۔ میں نہیں جانتا کہ یہ بات موسیٰ بن ہارون نے کی ہے یا ان سے اوپر کسی اور راوی نے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Prohibition of eating in silver-polished vessels

Hadith number: 114

Translation:

(114) It is narrated from Hazrat Anas (may Allah be pleased with him) that when the cup of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) was broken, I put a wire on the broken place, that is, Anas (may Allah be pleased with him) put a wire on the broken place.

(B) Shaykh (may Allah have mercy on him) says that it is like this in the Hadith. I do not know whether this was said by Musa ibn Harun or any other narrator above him.
[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 115

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١١٦)
 النَّسَوِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ شَاكِرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا
 الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ
 عَاصِمِ الْأَحْوَلِ قَالَ: رَأَيْتُ قَدَحَ النَّبِيِّ ﷺ - عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -
 وَكَانَ قَدْ انْصَدَعَ فَسَلَسَلَهُ بِفِضَّةٍ قَالَ وَهُوَ قَدَحٌ جَيِّدٌ عَرِيضٌ مِنْ
 نُضَارٍ - قَالَ أَنَسٌ: لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - فِي هَذَا الْقَدَحِ أَكْثَرَ مِنْ
 كَذَا وَكَذَا -

قَالَ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: أَنَّهُ كَانَ فِيهِ حَلْقَةٌ مِنْ حَدِيدٍ فَأَرَادَ أَنَسٌ
 أَنْ يَجْعَلَ مَكَانَهَا حَلْقَةً مِنْ ذَبَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو طَلْحَةَ: لَا
 تُغَيِّرَنَّ شَيْئًا صَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - فَتَرَكَهُ -
 أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ هَكَذَا -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: چاندی سے پالش کیے ہوئے برتن میں کھانے کی ممانعت
 حدیث نمبر: 115

ترجمہ:

(١١٦) (عاصم احوول کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا انس بن

مالکؓ کے پاس نبی ﷺ کا پیالہ دیکھا وہ ٹوٹا ہوا تھا، انہوں نے اس کو چاندی کی تار کے ساتھ جوڑ دیا۔ عاصم کہتے ہیں: وہ پیالہ بہت عمدہ تھا اور خالص جھاؤ کا بنا ہوا تھا، سیدنا انس فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کو اس پیالے میں اکثر دفعہ پانی پلایا۔

ب (حضرت انس بن سیرین کہتے ہیں: اس پیالہ پر لوہے کا کڑا تھا، حضرت انسؓ نے ارادہ کیا کہ اس کی جگہ سونے یا چاندی کا حلقہ لگا دیں تو ابو طلحہؓ نے ان سے کہا: جو کام رسول اللہ ﷺ نے کیا ہے اس کو تبدیل نہ کر اس کو رہنے دے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Prohibition of eating in silver-polished vessels

Hadith number: 115

Translation:

(115) Asim Ahul says that I saw the cup of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) near Anas ibn Malik (may Allah be

pleased with him). It was broken. So he fixed it with a silver wire. Asim says: That cup was very good and was made of pure tamarix (a genus of plants). Syeduna Anas (may Allah be pleased with him) says: I gave water to the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) in this bowl many times.

(B) Hazrat Anas bin Sirin says: There was an iron ring on this cup. Hazrat Anas intended to put a gold or silver ring in its place, so Abu Talhah said to him: What the Messenger of Allah did, don't change it, let it be.

[Sahih. Narrated by Bukhari 3109]

Sunan Kubra Bayhaqi 116

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا (١١٧)
أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ
الصَّغَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرِ السَّهْمِيُّ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ
عَنْ أَنَسٍ قَالَ: حَضَرْتُ الصَّلَاةَ فَقَامَ مَنْ كَانَ قَرِيبَ الدَّارِ إِلَى
أَهْلِهِ يَتَوَضَّأُ، وَبَقِيَ قَوْمٌ فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ -بِمِخْضَبٍ مِنْ حِجَارَةٍ
فِيهِ مَاءٌ، فَصَغَرَ الْمِخْضَبُ أَنْ يَبْسُطَ فِيهِ كَفَّهُ، فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ
كُلُّهُمْ قُلْنَا: كُمْ كَانُوا؟ قَالَ: ثَمَانِينَ وَزِيَادَةً.
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُنِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
بَكْرِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: پتھر، شیشہ، پیتل، تانبا اور لکڑی وغیرہ سے بنے ہوئے برتنوں کے ذریعے طہارت حاصل کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 116

ترجمہ:

۱۱۷ (حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا تو آپ کے اہل میں سے جو گھر کے قریب تھا وہ وضو کے لیے کھڑ ہوا اور باقی لوگ بھی۔ نبی ﷺ کے پاس پتھر کا بنا ہوا برتن جو کپڑوں کو رنگنے کے لیے تھا اس میں پانی تھا وہ لایا گیا تو وہ برتن والا پانی (کم پڑ گیا، آپ ﷺ نے اس میں اپنی ہتھیلی پھیلائی تو تمام لوگوں نے وضو کیا۔ ہم نے پوچھا: ان کی تعداد کتنی تھی؟ انہوں نے کہا: اسی سے زیادہ۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on attaining purity through Pots made of Stone, Glass, Brass, Copper and Wood etc.

Hadith number: 116

Translation:

(116) It is narrated from Hazrat Anas (may Allah be pleased with him) that when it was time for prayers, his family members who were near their houses stood up for ablution while the others remained. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) had a stone vessel for dyeing clothes which had water in it. When it was brought, the water in the vessel was not enough for all of us. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) spread his palm in it (the vessel) and all the people were able perform ablution. We asked: How many (people) were there? He said: More than eighty.

[Sahih. Narrated by Bukhari 195, 3575]

Sunan Kubra Bayhaqi 117

Arabic Text:

:أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ: أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ (١١٨)
إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ
خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الضَّبِّيِّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ
ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - دَعَا بِوَضُوءٍ فَجِيءَ
، بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ - أَحْسِبُهُ قَالَ قَدَحِ زُجَاجٍ - فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِيهِ
، فَجَعَلَ الْقَوْمُ يَتَوَضَّئُونَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ

فَحَزَرْتُهُمْ مَا بَيْنَ السَّبْعَيْنِ إِلَى الثَّمَانِينَ ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْمَائِ
كَأَنَّهُ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِي -
قَالَ ابْنُ خُرَيْمَةَ : رَوَى هَذَا الْخَبَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ فَقَالُوا
رَحْرَاحَ مَكَانَ زُجَاجٍ -
:قَالَ الشَّيْخُ : بُوَ كَمَا قَالَ

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب : پاکی کا بیان
باب : پتھر، شیشہ، پیتل، تانبا اور لکڑی وغیرہ سے بنے ہوئے
برتنوں کے ذریعے طہارت حاصل کرنے کا بیان
حدیث نمبر : 117

:ترجمہ

(۱۱۸) حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے پانی
منگوا یا تو (آپ کے پاس) پیالہ لایا گیا جس میں پانی تھا، راوی
کہتا ہے : میرا گمان ہے کہ ٹوٹا ہوا پیالہ تھا، آپ نے اپنی
انگلیاں اس میں رکھیں، لوگ یکے بعد دیگرے وضو کرنے
لگے۔ میں نے ان کا اندازہ ستر (۷۰) (سے اسی) ۸۰ (کے
درمیان لگایا۔ پھر میں نے پانی کی طرف دیکھنا شروع کیا کہ
وہ آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پھوٹ رہا ہے۔

(ب (امام ابن خزيمه کہتے ہيں کہ حماد بن زيد سے کئی
راويوں نے بيان کیا ہے جس ميں زجاج کی جگہ رَحْرَاح کے
الفاظ ہيں۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on attaining Purity
through Pots made of Stone, Glass, Brass,
Copper and Wood etc.

Hadith number: 117

Translation:

(117) It is narrated from Anas (may Allah be pleased with him) that when the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) asked for water, a cup was brought (to him) containing water. The narrator said: I think it was a broken cup. The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) placed his fingers in it. People started performing ablution one after another from it.

I estimated them to be between seventy (70) and eighty (80). Then I started looking at the water that was gushing from his fingers.

(B) Imam Ibn Khuzaymah says that many narrators have narrated from Hammad bin Zayd in which the words rahrah are used instead of zajaj.

[Sahih. Narrated by Bukhari 195, 3575]

Sunan Kubra Bayhaqi 118

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ (١١٩)
أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ
اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ بْنُ هَانِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْعَلَاءِ
حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ
بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمُقْرِيُّ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ
أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ
زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - دَعَا بِأَنَائِيٍّ مِنْ مَائِ
فَأَتَى بِقَدَحٍ رَحْرَاحٍ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ مَائِ ، فَوَضَعَ أَصَابِعَهُ فِيهِ -
قَالَ أَنَسٌ - فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْمَائِ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ قَالَ
أَنَسٌ فَحَزَرْتُ مَنْ تَوَضَّأَ مِنْهُ مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ إِلَى الثَّمَانِينَ - أَخْرَجَهُ
الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُسَدَّدٍ ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ
الزَّهْرَانِيِّ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: پتھر، شیشہ، پیتل، تانبا اور لکڑی وغیرہ سے بنے ہوئے برتنوں کے ذریعے طہارت حاصل کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 118

ترجمہ:

(۱۱۹) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک برتن منگوا دیا، ٹوٹا ہوا پیالہ لایا گیا، اس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں اس میں رکھیں، میں پانی کی طرف دیکھنا شروع ہوا جو آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پھوٹ رہا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس (برتن سے) وضو کرنے والے ستر (۷۰) سے اسی (۸۰) کے درمیان افراد (تھے)۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on attaining purity

through Pots made of Stone, Glass, Brass, Copper and Wood etc.

Hadith number: 118

Translation:

(118) It is narrated from Hazrat Anas (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) called for a vessel of water, a broken cup was brought, there was some water in it. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) placed his fingers in it, I started looking at the water that was gushing between his fingers. I guessed that there were between seventy (70) or eighty (80) people who performed ablution from this (vessel).
[Sahih. Narrated by Bukhari 195, 3575]

Sunan Kubra Bayhaqi 119

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ (١٢٠)
مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ -
(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَأَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
يُونُسَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَاهَانَ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: جَاءَ نَا النَّبِيَّ -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخْرَجْنَا لَهُ مَاءً فِي تَوْرٍ مِنْ صُفْرِ فَتَوَضَّأَ بِهِ ، فَغَسَلَ
وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا
وَأَدْبَرَ ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ -
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
يُونُسَ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: پتھر، شیشہ، پیتل، تانبا اور لکڑی وغیرہ سے بنے ہوئے برتنوں کے ذریعے طہارت حاصل کرنے کا بیان
حدیث نمبر: 119

ترجمہ:

(۱۲۰) (سیدنا عبداللہ بن زیدؓ فرماتے ہیں: ہمارے پاس نبی کریم ﷺ آئے، ہم نے آپ ﷺ کے لیے پیتل کے برتن میں پانی نکالا، آپ ﷺ نے اس سے وضو کیا، اپنے چہرے کو تین مرتبہ دھویا، اور اپنے بازوؤں کو دو مرتبہ اور اپنے سر کا مسح کیا، اپنے ہاتھوں کو آگے سے پیچھے لے گئے اور پیچھے سے آگے لے آئے اور اپنے پاؤں دھوئے۔)

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on attaining purity

through Pots made of Stone, Glass, Brass,

Copper and Wood etc.

Hadith number: 119

Translation:

(119) Abdullah bin Zayd (may Allah be pleased with him) said: Allah's Messenger (peace and blessings of Allah be upon him) came to us and we brought water for him in a brass pot. He performed ablution: He washed his face thrice, and his forearms to the elbows twice, then passed his wet hands lightly over the head from front to rear and brought them to the front again and washed his feet (up to the ankles).

[Sahih. Narrated by Bukhari 197 and Muslim 235 and Nasai 97 and Abu Dawud 100 and Tirmidhi 32 and Ibn Majah 471 and Ahmad 4/38, 39]

Sunan Kubra Bayhaqi 120

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ (١٢١)
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيِّ قَالَ قَرَأْنَاهُ عَلَى أَبِي الْيَمَانِ عَنْ
شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عُثْبَةَ-

أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا ثَقَلَ النَّبِيُّ ﷺ - وَاشْتَدَّ بِهِ
، وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ فِي أَنْ يُمَرِّضَ فِي بَيْتِي فَأَذِنَ لَهُ
فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ - بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخَطَّ رِجْلَاهُ فِي الْأَرْضِ بَيْنَ
عَبَّاسٍ وَرَجُلٍ آخَرَ - قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَأَخْبَرْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ
فَقَالَ: أَتَدْرِي مَنْ الرَّجُلُ الْآخَرُ؟ قُلْتُ: لَا - قَالَ: هُوَ عَلِيٌّ -
وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - قَالَ بَعْدَ مَا دَخَلَ بَيْتَهُ وَاشْتَدَّ
وَجَعُهُ: أَبْرِيْفُوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قَرَبٍ لَمْ تُحَلَّلْ أَوْكِئْتُهُنَّ ، لَعَلِّي
أَعْبُدُ إِلَى النَّاسِ فَأَجْلِسَ فِي مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ -
، ثُمَّ طَفِقْنَا نَصُبُّ عَلَيْهِ تِلْكَ حَتَّى طَفِقَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ
ثُمَّ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ -

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ - وَيُقَالُ أَنَّ

ذَلِكَ الْمَخْضَبَ كَانَ مِنْ نُحَاسٍ وَذَلِكَ فِيمَا

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: پتھر، شیشہ، پیتل، تانبا اور لکڑی وغیرہ سے بنے ہوئے برتنوں کے ذریعے طہارت حاصل کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 120

ترجمہ:

(۱۲۱) (ام المؤمنین سیدہ عائشہ^{رض} فرماتی ہیں: جب نبی کریم ﷺ بھاری ہو گئے اور آپ کی تکلیف زیادہ ہو گئی تو آپ ﷺ نے اپنی بیویوں سے اجازت لی کہ میرے گھر میں میری تیمار داری کی جائے، انہوں نے آپ کو اجازت دے دی۔ نبی کریم ﷺ دو آدمیوں کے سہارے نکلے اور آپ ﷺ کے پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ وہ) دو آدمی (عباس^{رض} اور ایک دوسرے صحابی تھے۔ عبید اللہ کہتے ہیں: میں نے اس بات کی خبر عبداللہ بن عباس^{رض} کو دی تو انہوں نے فرمایا: کیا تو جانتا ہے دوسرا آدمی کون تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ فرماتے ہیں: وہ علی^{رض} تھے۔ عائشہ^{رض} بتایا کرتی تھیں کہ نبی کریم ﷺ نے اپنے گھر میں داخل ہونے کے بعد

فرمایا اور آپ کی تکلیف بڑھ گئی تھی " :مجھ پر سات مشکیں پانی بہاؤ جو بھری ہوئی ہوں "شاید میں لوگوں کی طرف جاؤں۔ پھر آپ ﷺ کو سیدہ حفصہؓ کے کپڑے دھونے والے برتن میں بٹھایا گیا۔

پھر ہم آپ ﷺ پر پانی ڈالنا شروع ہوئیں حتیٰ کہ آپ ﷺ ہماری طرف اشارہ کرنا شروع ہوئے کہ کافی ہے، پھر آپ ﷺ لوگوں کی طرف نکلے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement of Purification through Pots made of Stone, Glass, Brass, Copper and Wood etc.

Hadith number: 120

Translation:

(120) Umm Al-Mu'minin Syeda Ayesha (may Allah be pleased with her) said: When the ailment of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) became aggravated and his disease became severe, he asked his

wives to permit him to be nursed (treated) in my house. So they gave him the permission. Then the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) came (to my house) with the support of two men, and his legs were dragging on the ground, between Abbas, and another man." 'Ubaidullah (the sub narrator) said, "I informed Abdullah bin Abbas (may Allah be pleased with him) of what Ayesha (may Allah be pleased with her) said. Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) said: 'Do you know who was the other man?' I replied in the negative. Ibn Abbas said, 'He was Ali (bin Abi Talib)." Ayesha (may Allah be pleased with her) further said, "When the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) came to my house and his sickness became aggravated he ordered us to pour seven waterskins full of water on him, so that he might give some advice to the people. So he was seated in a Mikhdab (brass tub) belonging to Hafsa (may Allah be

pleased with her), the wife of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him). Then, all of us started pouring water on him from the water skins till he beckoned to us to stop and that we have done (what he wanted us to do). After that he went out to the people." [Sahih. Narrated by Bukhari 198, 665, 4442, 5714]

Sunan Kubra Bayhaqi 121

Arabic Text:

:أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ أَبُو بَكْرٍ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ (١٢٢)
إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى سَمِعْتُ
عَبْدَ الرَّزَّاقِ وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ
الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ أَوْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -
ﷺ- فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: ((صَبُّوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قَرَبٍ لَمْ
تُحَلَّلْ أَوْ كَيْتُهُنَّ ، لَعَلِّي أَسْتَرِيحُ فَأَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ)) (قَالَتْ عَائِشَةُ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا :فَأَجْلَسْنَا فِي مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ مِنْ نُحَاسٍ
وَسَكَبْنَا عَلَيْهِ الْمَاءَ حَتَّى طَفِقَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ ، ثُمَّ خَرَجَ -
قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى مَرَّةً حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ
عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ :مِنْ
نُحَاسٍ وَلَمْ يَقُلْ :ثُمَّ خَرَجَ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: پتھر، شیشہ، پیتل، تانبا اور لکڑی وغیرہ سے بنے ہوئے برتنوں کے ذریعے طہارت حاصل کرنے کا بیان
حدیث نمبر: 121

ترجمہ:

(۱۲۲) (ام المؤمنین سیدہ عائشہ^{رض} فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے مرض وفات میں فرمایا "مجھ پر سات مشکیں پانی کی ڈالو جو بھری ہوئی ہوں شاید مجھے راحت مل جائے، پھر میں لوگوں کی طرف جا سکوں۔ سیدہ عائشہ^{رض} فرماتی ہیں: ہم نے آپ ﷺ کو سیدہ حفصہ^{رض} کے کپڑے دھونے والے پیتل کے برتن میں بٹھایا۔ پھر ہم نے آپ ﷺ پر پانی ڈالا حتیٰ کہ آپ ﷺ نے ہماری طرف اشارہ کیا کہ کافی ہے۔" پھر آپ ﷺ لوگوں کی طرف (تشریف لے گئے۔
(ب) عروہ نے حضرت عائشہ^{رض} سے پچھلی حدیث کی طرح بیان کیا ہے، لیکن اس میں "من نُحَاسٍ" کے الفاظ نہیں ہیں۔ اسی طرح ثُمَّ خَرَجَ کے الفاظ بھی نہیں ہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement of Purification through Pots made of Stone, Glass, Brass, Copper and Wood etc.

Hadith number: 121

Translation:

(121) Umm Al-Mu'minin Syeda Ayesha (may Allah be pleased with her) says that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said in his disease: Pour on me seven glasses of water that are full. Maybe I will be relieved, then I may be able to go to the people. She said: We seated him in a brass vessel belonging to Hafsa (may Allah be pleased with her). Then we poured water on him until he signalled to us that it was enough. Then he went (towards the people).

(B) Arwa has narrated it from Ayesha (may Allah be pleased with her) like the previous hadith, but it does not contain the words "min nuhas". Similarly, there are no words for ^{مِنْ} خَرَجَ.

[Sahih. Narrated by Ahmad 6/151]

Sunan Kubra Bayhaqi 122

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ (١٢٣)
الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيِّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ -
وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا الْقَطِيعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ (ح)
اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ نَحَوَهُ: لَعَلِّي أَسْتَرِيحُ. كَذَا أَخْبَرَنَا فِي الْمُسْتَدْرِكِ
إِجَازَةً.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاكى كا بيان

باب: پتھر، شيشہ، پیتل، تانبا اور لکڑی وغیرہ سے بنے ہوئے برتنوں کے ذریعے طہارت حاصل کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 122

:ترجمہ

(۱۲۳) عائشہؓ اس پچھلی روایت کی طرح ہی بیان کرتی ہیں " لیکن اس میں یہ الفاظ زائد ہیں (شاید کہ میں راحت پاؤں۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement of Purification through Pots made of Stone, Glass, Brass, Copper and Wood etc.

Hadith number: 122

Translation:

(122) Ayesha narrates in the same way as in the previous narration (but these words are extra in it) "maybe I will be relieved."

[Sahih. Narrated by Hakim in Mustadarak Hakim 1/123]

Sunan Kubra Bayhaqi 123

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَائِرٍ الْفَقِيهُ وَأَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ يُوسُفَ قَالَ (١٢٤)
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ-

ح (وَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ أَحْمَدَ الْفَقِيهَ
بِالطَّابَرَانِ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّوَّافُ حَدَّثَنَا عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا حَوْثَرَةُ بْنُ أَشْرَسَ أَبُو عَامِرٍ الْعَدَوِيُّ
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ بِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ - فِي تَوْرِ مِنْ شَبَهٍ
يُبَادِرُنِي مُبَادِرَةً-

جَوَدَهُ حَوْثَرَةُ بْنُ أَشْرَسَ وَقَصَّرَ بِهِ بَعْضُهُمْ عَنْ حَمَّادٍ فَقَالَ
عَنْ رَجُلٍ وَلَمْ يُسَمَّ شُعْبَةَ وَأَرْسَلَهُ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَذْكَرْ فِي إِسْنَادِهِ
عُرْوَةَ وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: پتھر، شیشہ، پیتل، تانبا اور لکڑی وغیرہ سے بنے ہوئے
برتنوں کے ذریعے طہارت حاصل کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 123

:ترجمہ

(۱۲۴) (سیدہ عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ ﷺ ایک
ہی پیتل کے برتن سے غسل کرتے تھے، آپ ﷺ مجھ

سے پانی لینے میں جلدی کرتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement of Purification through Pots made of Stone, Glass, Brass, Copper and Wood etc.

Hadith number: 123

Translation:

(123) Ayesha (may Allah be pleased with her) says that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) and I used to perform ghusl in the same brass vessel. He used to rush ahead when getting water.

[Sahih. Narrated by Abu Dawud 98, 99]

Sunan Kubra Bayhaqi 124

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ (١٢٥)
الرُّوْذُبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ: مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ
الْفَقِيهِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا
أَبُو غَسَّانَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: ذُكِرَ
لِرَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - امْرَأَةٌ مِنَ الْعَرَبِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
قَالَ سَهْلٌ: فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَوْمَئِذٍ حَتَّى جَلَسَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي
سَاعِدَةَ وَأَصْحَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: اسْقِنَا يَا سَهْلُ. قَالَ: فَأَخْرَجْتُ لَهُمْ
بِذَا الْقَدَحِ فَسَقَيْتُهُمْ فِيهِ.
قَالَ أَبُو حَازِمٍ: فَأَخْرَجَ إِلَيْنَا سَهْلٌ ذَلِكَ الْقَدَحَ فَشَرِبْنَا فِيهِ. قَالَ: ثُمَّ
اسْتَوْبَهْهُ إِيَّاهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَوَيْبَهُ لَهُ.
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، وَرَوَاهُ
مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ إِسْحَاقَ وَغَيْرِهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ.
وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي قَدَحِ النَّبِيِّ - ﷺ - وَفِيهِ مَا (ت)
دَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْ خَشَبٍ وَيُذَكَّرُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي
إِسْمَاعِيلَ: أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَرَأَى فِي

بَيْتِهِ قَدَحًا مِنْ خَشَبٍ فَقَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ - يَشْرَبُ فِيهِ وَيَتَوَضَّأُ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: پتھر، شیشہ، پیتل، تانبا اور لکڑی وغیرہ سے بنے ہوئے برتنوں کے ذریعے طہارت حاصل کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 124

ترجمہ:

(الف) (سیدنا سہل بن سعد^{رض} فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ (۱۲۵)

کے پاس عرب کی ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر لمبی

حدیث بیان کی، اس میں ہے کہ اس دن رسول اللہ ﷺ اور

صحابہ کرام^{رض} آئے اور بنی ساعدہ کے سائبان میں بیٹھ گئے،

پھر آپ ﷺ فرمایا " : اے سہل! ہم کو پانی پلاؤ، سہل کہتے ہیں :

ہم نے آپ کے لیے یہ پیالہ نکالا اور آپ کو اس میں پانی پلایا۔

(ب) (ابو حازم کہتے ہیں: سہل نے ہماری طرف یہ پیالہ

نکالا، ہم نے اس میں پانی پیا۔ پھر عمر بن عبد العزیز نے ان

سے یہ پیالہ مانگا تو انہوں نے دے دیا۔

(ج (محمد بن ابی اسماعیل) رح (سے روایت ہے کہ میں انس بن مالکؓ کے پاس گیا، انہوں نے میرے گھر میں لکڑی کا پیالہ دیکھا تو فرمایا: نبی کریم ﷺ اس میں پیتے اور وضو کرتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement of Purification through Pots made of Stone, Glass, Brass, Copper and Wood etc.

Hadith number: 124

Translation:

(124) (a) Syeduna Sahl ibn Sad (may Allah be pleased with him) says that an Arab woman was mentioned to the Holy Prophet (peace and blessings of Allah be upon him). Then he narrated a long hadith, in which it says that Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) and his Companions came that day and sat in the shade of Bani

Sa'ida. Then the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "O Sahl! Give us water to drink. So I took out this drinking bowl and gave them water in it.

(B) Abu Hazem says: Sahl brought this cup towards us, we drank water in it. Later on Umar bin Abdul Aziz (may Allah be pleased with him) requested Sahl to give it to him as a present, and he gave it to him as a present.

(C) It is narrated from Muhammad ibn Abi Ismail (may Allah have mercy on him) that I went to Anas ibn Malik (may Allah be pleased with him) and he saw a wooden cup in my house and said: The Holy Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) used to drink and perform ablution in it.

[Sahih. Narrated by Bukhari 5637 and Muslim 2007]

Sunan Kubra Bayhaqi 125

Arabic Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مشرکوں کے برتنوں میں طہارت حاصل کرنا جائز ہے
جب نجاست کا علم نہ ہو

حدیث نمبر: 125

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ (١٢٦)
بِشْرَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ
الصَّفَّارِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا
مَعْمَرٌ عَنْ عَوْفٍ عَنْ أَبِي رَجَائٍ الْعُطَارِدِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ
حُصَيْنٍ قَالَ: سَرَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - فِي سَفَرٍ هُوَ وَأَصْحَابُهُ

فَأَصَابَهُمْ عَطَشٌ شَدِيدٌ ، فَأَقْبَلَ رَجُلَانِ مِنَ أَصْحَابِهِ -أَحْسِبُهُ عَلِيًّا
وَالزُّبَيْرَ أَوْ غَيْرَهُمَا -قَالَ)) : إِنَّكُمْ سَتَجِدَانِ بِمَكَانٍ كَذَا وَكَذَا
امْرَأَةً مَعَهَا بَعِيرٌ عَلَيْهِ مَزَادَتَانِ ، فَاتِيَانِي بِهَا)) . قَالَ فَاتِيَا
:الْمَرْأَةَ فَوَجَدَابَا قَدْ رَكِبَتْ بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ عَلَى الْبَعِيرِ فَقَالَا لَهَا
أَجِيبِي رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- . قَالَتْ : وَمَنْ رَسُولُ اللَّهِ؟ بَذَا الصَّابِي؟
قَالَا :بُوَ الَّذِي تَعْنِينَ ، وَهُوَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- .حَقًّا فَجَانَا بِهَا فَأَمَرَ
رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- .فَجَعَلَ فِي إِنَائٍ مِنْ مَزَادَتَيْهَا ، ثُمَّ قَالَ فِيهِ
مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ، ثُمَّ أَعَادَ الْمَائِ فِي الْمَزَادَتَيْنِ ، ثُمَّ أَمَرَ
بِعَزْلَائِ الْمَزَادَتَيْنِ ففُتِحَتْ ، ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ فَمَلُّوا أَنْبِيَتَهُمْ
وَأَسْقَيْتَهُمْ ، فَلَمْ يَدْعُوا يَوْمَئِذٍ إِنَائًا وَلَا سِقَائًا إِلَّا مَلُّوهُ .قَالَ
عِمْرَانُ - فَكَانَ يُخَيَّلُ إِلَى أَنَّهَا لَمْ تَزِدْ إِلَّا امْتِلَائًا .-قَالَ- فَأَمَرَ
النَّبِيَّ -ﷺ- بِثَوْبَيْهَا فَبُسِطَ ، ثُمَّ أَمَرَ أَصْحَابَهُ فَجَاءُوا مِنْ زَادِيمٍ حَتَّى
مَلُّوا لَهَا ثَوْبَيْهَا ، ثُمَّ قَالَ لَهَا)) : اذْهَبِي فَإِنَّا لَمْ نَأْخُذْ مِنْ مَائِكَ
:شَيْئًا ، وَلَكِنَّ اللَّهَ سَقَانَا)) .(قَالَ :فَجَاءَتْ أَهْلَهَا فَأَخْبَرَتْهُمْ فَقَالَتْ
جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ أَسْحَرِ النَّاسِ أَوْ إِنَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ حَقًّا .قَالَ :فَجَاءَ
أَهْلُ ذَلِكَ الْحَوَائِ حَتَّى أَسْلَمُوا كُلُّهُمْ .مَخْرَجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ
مِنْ حَدِيثِ عَوْفِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ وَفِيهِ :فَكَانَ آخِرُ ذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ -
ﷺ- .أَعْطَى الَّذِي أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ إِنَائًا مِنْ مَائٍ فَقَالَ)) : اذْهَبِي
فَأَفْرِغِي عَلَيَّ ((وَبِي قَائِمَةٌ تَنْظُرُ مَا يُفْعَلُ بِمَائِهَا

Urdu Translation:

ترجمہ:

(الف) حضرت عمران بن حصینؓ کہتے ہیں کہ رسول (۱۲۶) اللہ ﷺ اور آپ کے صحابہ ایک سفر میں گئے، انہیں سخت پیاس لگ گئی۔ آپ ﷺ کے دو صحابی آئے۔ میرا گمان ہے کہ وہ علیؓ اور زبیرؓ تھے یا شاید ان کے علاوہ کوئی اور۔ آپ نے فرمایا: تم دونوں فلاں جگہ پر ایک عورت کو پاؤ گے اس کے پاس اونٹ ہوگا، اس پر دو مٹکے ہوں گے۔ تم دونوں اس کو میرے پاس لاؤ۔ وہ دونوں عورت کے پاس آئے۔ انہوں نے اس کو دیکھا وہ عورت اونٹ پر دو مٹکوں کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے اس سے کہا: آپ کو رسول اللہ ﷺ بلا رہے ہیں، وہ کہنے لگی: کون رسول اللہ ﷺ؟ یہی بے دین (معاذ اللہ) انہوں نے کہا: وہی ہیں جو تم مراد لے رہی ہو لیکن رسول اللہ ﷺ برحق ہیں، وہ دونوں اس کو لے کر آئے۔ رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ مٹکوں سے پانی نکالو اور اس پر کچھ پڑھا۔ پھر پانی کو اس کے مٹکوں میں واپس لوٹا دیا۔ پھر آپ ﷺ نے دو مشکیزوں کا حکم دیا، ان کو کھولا گیا۔ پھر آپ ﷺ نے لوگوں کو حکم دیا، انہوں نے اپنے برتنوں اور مشکیزوں کو بھر لیا اور لوگوں نے اس دن کوئی برتن اور

مشکیزہ خالی نہیں چھوڑا،۔ عمران کہتے ہیں: مجھے خیال تھا کہ زیادہ بھر گیا ہے۔ عمران کہتے ہیں کہ نبی ﷺ نے کپڑے کو پھیلانے کا حکم دیا، پھر آپ ﷺ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ اپنا زاد راہ لے کر آئیں۔ انہوں نے زاد راہ سے کپڑے کو بھر دیا۔ پھر آپ ﷺ نے اس عورت سے فرمایا " :جاؤ، ہم نے آپ کے پانی میں سے کچھ نہیں لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو " پلا دیا ہے۔"

عمران کہتے ہیں: وہ عورت اپنے اہل و عیال کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میں سب سے بڑے جادو گر کے پاس سے آئی ہوں یا پھر وہ یقیناً اللہ کے برحق رسول ہیں۔ عمران کہتے ہیں: پھر حواء بستی والے آئے اور سب مسلمان ہو گئے۔ (ب) (بیشک نبی کریم ﷺ کو ناپاک آدمی نے برتن میں پانی دیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس کو اپنے اوپر ڈال لے اور وہ عورت کھڑی دیکھ رہی تھی جو اس کے پانی کے ساتھ کیا جا رہا تھا۔"

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: It is permissible to attain purity in

the vessels of the polytheists when one does not know of impurity

Hadith number: 125

Translation:

(125) (a) Hazrat Imran bin Hussain (may Allah be pleased with him) says that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) and his companions went on a journey and they became very thirsty. Two of his companions came. I think they were Ali and Zubair (may Allah be pleased with them) or maybe someone else. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: You two will find a woman in such and such a place. She will have a camel and two pots on it. You two bring it to me. They both came to the woman. They saw her sitting on a camel between two pots. They said to her: You are being called by the Messenger of Allah. She said: Who is the Messenger of Allah? That is ungodly! They

said: He is what you are referring to, but the Messenger of Allah is true. They both brought her. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) commanded to draw water from the pots and read something on them. Then he returned the water to the pots. Then he ordered two water-skins, which were opened. Then the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) ordered the people to fill their pots and jars and the people did not leave any utensils or jars empty that day. Imran says: I thought it was full. Imran says that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) ordered the clothes to be spread, then he ordered the Sahaabah to bring their provisions. They filled their clothes with provisions. Then he said to the woman: "Go, we have not taken any of your water, but Allah has given us water."

Imran says: The woman came to her family and said: I have either come from the

greatest magician or he is indeed the true Messenger of Allah. Imran says: Then the people of Hawa Basti came and all of them became Muslims.

(B) Indeed, the Holy Prophet was given water in a vessel by an impure man. He said: Pour it on top of you and the woman was standing and watching what was being done with her water."

[Sahih. A similiar report was narrated by Bukhari 344, 3571 and Muslim 682]

Sunan Kubra Bayhaqi 126

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ (١٢٧)
الْقَطِيعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ عَوْفٍ فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ بِزِيَادَتِهِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مشرکوں کے برتنوں میں طہارت حاصل کرنا جائز ہے

جب نجاست کا علم نہ ہو

حدیث نمبر: 126

ترجمہ:

(127) (سیدنا عوفؓ پچھلی روایت کے ہم معنی کچھ الفاظ کی

زیادتی کے ساتھ یہ روایت بیان کرتے ہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: It is permissible to attain purity in the vessels of the polytheists when one does

not know of impurity

Hadith number: 126

(126) Syeduna A'waf narrates this narration with the addition of some synonyms of the previous narration.

[Sahih. Narrated by Hakim in Mustadarak Hakim 3/213]

Sunan Kubra Bayhaqi 127

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عُبَيْدٍ (١٢٨) الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى أَخْبَرَنَا بُرْدُ أَبُو الْعَلَاءِ وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذِبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى وَإِسْمَاعِيلُ عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانَ عَنْ عَطَائٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - فَنُصِيبُ مِنْ أَنْبِيَةِ الْمُشْرِكِينَ وَأَسْقِيَتِهِمْ ، فَسْتَمْتَعُ بِهَا فَلَا يَعْيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ - وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدَانَ: فَلَا يُعَابُ عَلَيْنَا

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: مشرکوں کے برتنوں میں طہارت حاصل کرنا جائز ہے
جب نجاست کا علم نہ ہو
حدیث نمبر: 127

ترجمہ:

(١٢٨) (الف) حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مل کر جہاد کرتے تھے، ہم کو مشرکوں کے

برتن اور ان کے مشکیزے مل جاتے تو ہم اس سے فائدہ اٹھاتے، یہ ان کے لیے کوئی عیب والی بات نہیں ہوتی تھی۔
(ب اور ابن عبدان کی روایت میں ہے کہ ہم پر کوئی عیب نہیں لگایا جاتا تھا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: It is permissible to attain purity in the vessels of the polytheists when one does not know of impurity

Hadith number: 127

Translation:

(127) (a) It is narrated from Hazrat Jabir (may Allah be pleased with him) that we used to wage jihad together with the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him). If we had the utensils of the polytheists and their jars, we would benefit from it. This would not be blameworthy for them.

(B) And in the narration of Ibn Abdan that we were not blamed (for using them).

[Sahih. Narrated by Abu Dawud 3838 and Ahmad 3/327, 343, 379, 389]

Sunan Kubra Bayhaqi 128

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْفَضْلِ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو (١٢٩)
الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا
الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ

عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَوَضَّأَ مِنْ مَائِ نَصْرَانِيَّةٍ فِي جَرَّةٍ
نَصْرَانِيَّةٍ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مشرکوں کے برتنوں میں طہارت حاصل کرنا جائز ہے

جب نجاست کا علم نہ ہو

حدیث نمبر: 128

:ترجمہ

(۱۲۹) (زید بن اسلم اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ سیدنا
عمرؓ نے نصرانی کے مٹکے میں موجود پانی سے وضو کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: It is permissible to attain purity from
the vessels of the polytheists when one does
not know of impurity

Hadith number: 128

Translation:

(128) Zayd ibn Aslam narrates from his father that Umar performed ablution with the water in a Christian's pot.

[Sahih. Narrated by the author in his Sunan al-Sagheer 221]

Sunan Kubra Bayhaqi 129

Arabic Translation:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ (١٣٠)
مُحَمَّدِ الصَّفَّارِ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ
حَدَّثُونَا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَلَمْ أَسْمَعْهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا كُنَّا بِالشَّامِ
أَتَيْتُ عُمَرَ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ ، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ جِئْتَ بِهِذَا؟ فَمَا
رَأَيْتُ مَاءً عَدًّا وَلَا مَاءً سَمَاءً أَطْيَبَ مِنْهُ قَالَ قُلْتُ: مِنْ بَيْتِ بَدِئِ
الْعَجُوزِ النَّصْرَانِيَّةِ فَلَمَّا تَوَضَّأَ أَتَانَا فَقَالَ: أَيُّهَا الْعَجُوزُ
أَسْلِمِي تَسْلِمِي ، بَعَثَ اللَّهُ بِالْحَقِّ مُحَمَّدًا ﷺ - قَالَ: فَكَشَفْتُ
رَأْسَهَا فَإِذَا مِثْلُ الثَّغَامَةِ قَالَتْ: وَأَنَا أَمُوتُ الْآنَ؟ قَالَ فَقَالَ عُمَرُ: اللَّهُمَّ
اشْهَدْ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مشرکوں کے برتنوں میں طہارت حاصل کرنا جائز ہے
جب نجاست کا علم نہ ہو

حدیث نمبر: 129

ترجمہ:

(١٣٠) (زید بن اسلم کے والد کہتے ہیں کہ جب ہم شام میں

تھے تو میں سیدنا عمرؓ کے پاس پانی لے کر آیا، آپ نے اس سے وضو کیا۔ سیدنا عمرؓ نے پوچھا: تو اس کو کہاں سے لایا ہے؟ میں نے اس پانی اور آسمان کے پانی کے علاوہ کوئی اچھا پانی نہیں دیکھا۔ زید بن اسلم کے باپ کہتے ہیں: میں نے کہا: اس نصرانی بڑھیا عورت کے گھر سے (لایا ہوں)۔ جب آپ نے وضو کیا تو اس عورت کے پاس آئے۔ سیدنا عمرؓ نے کہا: اے بڑھیا عورت! مسلمان ہو جا تو محفوظ ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے۔ راوی کہتے ہیں: اس نے اپنا سر ننگا کیا تو اس کا سر ثغامہ پھول کی طرح سفید ہو چکا تھا، اس عورت نے کہا: اب میں مر جاؤں؟ راوی کہتے ہیں: سیدنا عمرؓ نے کہا: اے اللہ! تو گواہ ہو جا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: It is permissible to attain purity in the vessels of the polytheists when one does not know of impurity

Hadith number: 129

Translation:

(129) Zayd ibn Aslam's father says that when we were in Syria, I brought water to Umar (may Allah be pleased with him) and he performed ablution with it. Umar asked: Where did you get it from? I have not seen any good water except this water and the water of the skies. Zayd ibn Aslam's father says: I said: I have brought it from the house of this Christian old woman. When he performed ablution, he came to this woman. Umar said: O good woman! If you become a Muslim, you will be safe. Allah Almighty has sent the Holy Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) with the truth. The narrator says: When she uncovered her head, her head had turned white like a flower. The woman said: Should I die now? The narrator says: Umar said: O Allah! Be a witness.

[Daif (Weak). Narrated by Author in Al-Maarif 41]

Sunan Kubra Bayhaqi 130

Arabic Translation:

وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (١٣١)
الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَغْدَادِيُّ
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُؤَيْدٍ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ
عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - يَتَّقِي أَنْ
عَبَدَ اللَّهُ: تَفَرَّدَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ يَشْرَبُ فِي الْإِنَائِ لِلنَّصَارَى - فَقَدْ قَالَ أَبُو
إِبْرَاهِيمَ بْنُ يَزِيدَ الْخُزَيْمِيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ -
(ج) قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَإِبْرَاهِيمُ الْخُزَيْمِيُّ لَا يُحْتَجُّ بِهِ - (ق) ثُمَّ
هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّنْزِيهِ بِمَا مَضَى -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مشرکوں کے برتنوں میں طہارت حاصل کرنا جائز ہے
جب نجاست کا علم نہ ہو

حدیث نمبر: 130

ترجمہ:

(۱۳۱) ام المؤمنین سیدہ عائشہ رض سے روایت ہے کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نصاریٰ کے برتنوں میں پینے سے پرہیز کرتے تھے۔

(ب) ابو عبد اللہ کہتے ہیں کہ ابراہیم بن یزید خوزی ابن

ابی ملیکہ سے بیان کرنے میں متفرد ہے۔

(ج) (شیخ) رح (کہتے ہیں کہ ابراہیم کی حدیث قابل حجت

نہیں۔

(د) پھر یہ روایت جو ابھی گزری ہے نہی تنزیہی پر محمول

ہوگی۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: It is permissible to attain purity from the vessels of the polytheists when one does not know impurity

Hadith number: 130

Translation:

(130) It is narrated from Umm Al-Mu'minin Ayesha (may Allah be pleased with her) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) used to abstain from drinking from the vessels of the Christians.

(B) Abu Abdullah says that Ibrahim ibn Yazid is unique in narrating from Khozi Ibn Abi Malika.

(C) Shaykh (may Allah be pleased with him) says that the hadith of Ibrahim is not reasonable.

(D) Then this tradition which has just passed will not be accepted.

[Daif Jiddan (Very Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 131

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ الْحَافِظُ (١٣٢)
أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : الْقَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السِّيَّارِيُّ بِمَرْوٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ
الْعَزِيزِ بْنُ حَاتِمٍ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ
اللَّهِ أَخْبَرَنَا حَيَوَةُ بْنُ شَرِيحٍ قَالَ سَمِعْتُ رَبِيعَةَ بْنَ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيَّ
يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ : عَائِدُ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ
الْحُسَيْنِيَّ يَقُولُ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا
بِأَرْضِ أَهْلِ كِتَابٍ نَأْكُلُ فِي أَنْبَتِهِمْ ، وَأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي
وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعَلَّمِ وَبِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ ، فَأَخْبَرَنِي مَا ،
الَّذِي يَحِلُّ لَنَا مِنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ)) : أَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَنَّكَ بِأَرْضِ
قَوْمِ أَهْلِ كِتَابٍ تَأْكُلُونَ فِي أَنْبَتِهِمْ ، فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ أَنْبَتِهِمْ فَلَا
تَأْكُلُوا فِيهَا ، وَإِنْ لَمْ

تَجِدُوا فَاغْسِلُوا بِهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا ، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَنَّكَ بِأَرْضِ
صَيْدٍ فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَادْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ثُمَّ كُلْهُ ، وَمَا
صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلَّمِ فَادْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ثُمَّ كُلْ ، وَمَا صِدْتَ
بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ فَادْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ))-(
مُخْرَجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ-
ق (وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسْنِيِّ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْغَسْلِ
وَقَعَ عِنْدَ الْعِلْمِ بِنَجَاسَةِ آيَاتِهِمْ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: اہل کتاب کے ناپاک برتنوں کو دھو کر طہارت حاصل
کرنا
حدیث نمبر: 131

:ترجمہ

(۱۳۲) حضرت ابو ثعلبہ خسنیؓ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ
کے پاس آیا، میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہم اہل
کتاب کے علاقے میں ہوتے ہیں، ہم ان کے برتنوں میں کھا
لیں؟ اور جب شکار والے علاقے میں ہوتے ہیں میں اپنی کمان
سے شکار کرتا ہوں اور اپنے سکھلائے ہوئے کتے

کو چھوڑتا ہوں اور میرے کتے کے ساتھ بغیر سکھلایا ہوا کتا بھی شامل ہوجاتا ہے، تو کیا اس میں سے ہمارے لیے کیا حلال ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا " جو تو نے اہل کتاب کے علاقے کا ذکر کیا ہے۔ ان کے جن برتنوں میں کھاتے ہو اگر تم ان کے علاوہ برتن کو پاؤ۔ پھر تم ان کے برتنوں میں نہ کھاؤ اور اگر تم اس کے علاوہ نہ پاؤ پھر اس کو دھو لو اور اس میں کھالو اور جو تو نے شکار والے علاقے اور کمان کے ساتھ شکار کا ذکر کیا ہے تو اس پر اللہ کا نام لے پھر اس کو کھالے اور جو تو سکھلائے ہوئے کتے کے ساتھ شکار کرے اس پر اللہ کا نام لے پھر اس کو کھالے اور جو تو بغیر سکھلائے ہوئے کتے کے ساتھ شکار کرے تو اس کے ذبح کرنے کے وقت (پالے تو اس کو) ذبح کر کے (کھالے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Purification by washing the unclean utensils of the People of the Book

Hadith number: 131

Translation:

(131) Hazrat Abu Thalaba Khushni narrates

that I came to Allah's Messenger (peace and blessings of Allah be upon him) and said: O Allah's Messenger, we are in the land of the People of the Book, (so) can we eat in their utensils, and (live) in a hunting region where I hunt with, the help of my bow, and hunt with my trained dog, or with my dog which is not trained. So inform me what is lawful (Halal) for us out of that. He (the Holy Prophet (peace and blessings of Allah be upon him)) said: Regarding what you have mentioned of the fact that you live in the land belonging to the People of the Book, so you can eat in their utensils, but if you can get utensils other than theirs, then don't eat in them; but if you do not find any, then wash them and eat in them. And regarding what you have mentioned about (your living) in a hunting region, what you hunt, recite the name of Allah (while shooting an arrow) and then eat; and what you catch with the help of your trained dog, recite the name of Allah (while letting go of)

the dog and then eat it, and what you get with the help of your untrained dog, (if you find it alive) and slaughter it (according to the law), eat it.

[Sahih. Narrated by Bukhari 5478, 5488, 5496 and Muslim 1930 and Nasai 4271 and Abu Dawud 2855, 3839 and and Timridhi 1560 and Ibn Majah 3207 and Ahmad 4/193-195 and Darimi 2541]

Sunan Kubra Bayhaqi 132

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الرَّوْذِبَارِيُّ (١٣٣)
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَاصِمٍ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِيِّ بْنِ زَبْرِ
:عَنْ أَبِي عُبَيْدِ اللَّهِ :مُسْلِمُ بْنُ مَشْكَمٍ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَنِيِّ
أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- إِنَّا نُجَاوِرُ أَهْلَ الْكِتَابِ وَهُمْ يَطْبُخُونَ فِي
:-قُدُورِهِمْ الْخَنْزِيرِ ، وَيَشْرَبُونَ فِي آبِيَّتِهِمُ الْخَمْرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-
إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَكُلُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا ، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا))
فَارْحَضُوا بِالْمَاءِ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا)) -
هَكَذَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: اہل کتاب کے ناپاک برتنوں کو دھو کر طہارت حاصل

کرنا

حدیث نمبر: 132

ترجمہ:

(۱۳۳) حضرت ابو ثعلبہ خشنی^{رض} سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا کہ ہم اہل کتاب کے ہمسائے ہیں اور وہ اپنی ہانڈیوں میں خنزیر پکاتے ہیں اور اپنے برتنوں میں شراب پیتے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " :اگر تم ان (برتنوں) (برتنوں) کے علاوہ برتن پاؤ تو ان میں کھاؤ اور پیو اور اگر تم ان کے علاوہ نہ پاؤ تو ان کو پانی سے دھو لو پھر ان میں کھاؤ اور پیو۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Attaining purity by washing the
unclean utensils of the People of the Book

Hadith number: 132

(132) Hazrat Abu Thalaba Khushni Narrates that I came to Allah's Messenger (peace and blessings of Allah be upon him) and asked:

We live in the neighbourhood of the People of the Book and they cook in their pots (the flesh of) swine and drink wine in their vessels. The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: If you find any other pots, then eat in them and drink. But if you do not find any others, then wash them with water and eat and drink (In them).

[Sahih. Narrated by Bukhari 5478, 5488, 5496 and Muslim 1930 and Nasai 4271 and Abu Dawud 2855, 3839 and and Timridhi 1560 and Ibn Majah 3207 and Ahmad 4/193-195 and Darimi 2541]

Sunan Kubra Bayhaqi 133

Arabic Text:

وَلِمُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ فِيهِ إِسْنَادٌ آخَرُ: أَخْبَرَنَاهُ الْعَنْبَرِيُّ بْنُ (١٣٤)
الطَّبَّيْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَنْبَرِيُّ أَخْبَرَنَا جَدِّي يَحْيَى بْنُ
مَنْصُورِ الْقَاضِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ
بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ وَلَقَبُهُ دُحَيْمٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ بَانِيٍّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ
أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَنِيِّ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: اہل کتاب کے ناپاک برتنوں کو دھو کر طہارت حاصل
کرنا

حدیث نمبر: 133

:ترجمہ

(۱۳۴) حضرت ابو ثعلبہ خشنیؓ اسی مذکورہ روایت کے ہم
معنی روایت بیان کرتے ہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Attaining purity by washing the
unclean utensils of the People of the Book

Hadith number: 133

Translation:

(133) Hazrat Abu Tha'labah Khashni narrates
the same narration which is synonymous with
the above mentioned narration.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 134

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ (١٣٥)
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ
عَنْ خَالِدِ الْحَدَّائِيِّ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ أَبِي
ثَعْلَبَةَ الْخُسَنِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: إِنَّا نَغْزُو وَنَسِيرُ
فِي أَرْضِ الْمُشْرِكِينَ، فَنَحْتَاجُ إِلَى آنِيَةٍ مِنْ آنِيَتِهِمْ فَتَطْبُخُ
فِيهَا فَقَالَ: ((: اغْسِلُوبَا بِالْمَاءِ ثُمَّ اطْبُخُوا فِيهَا وَانْتَفِعُوا بِهَا)) (-)
ت (وَبَكَذَا رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ مَوْصُولًا
وَقَدْ أَرْسَلَهُ جَمَاعَةٌ عَنْ أَيُّوبَ وَخَالِدٍ فَلَمْ يَذْكُرُوا أَبَا أَسْمَاءَ فِي
إِسْنَادِهِ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان

باب :اہل کتاب کے ناپاک برتنوں کو دھو کر طہارت حاصل کرنا

حدیث نمبر : 134

:ترجمہ

(۱۳۵) حضرت ابو ثعلبہ خشنیؓ کہتے ہیں :میں نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا کہ ہم جہاد کرتے ہیں اور مشرکوں کی زمین میں چلتے ہیں، ہم کو ان کے برتنوں کی ضرورت ہوتی ہے، ہم ان میں پکاتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا " :ان کو پانی کے ساتھ دھو لو پھر ان میں پکاو اور ان سے فائدہ اٹھاؤ۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Attaining Purity by washing the unclean utensils of the People of the Book

Hadith number: 134

Translation:

(134) Hazrat Abu Thalaba Khushni (may

Allah be pleased with him) says: I asked the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) that we do jihad and walk in the land of polytheists, we need their vessels, can we cook in them? He said: "Wash them with water, then cook in them and benefit from them."

[Sahih. Narrated by Bukhari 5478, 5488, 5496 and Muslim 1930 and Nasai 4271 and Abu Dawud 2855, 3839 and and Timridhi 1464, 1560 and Ibn Majah 3207 and Ahmad 4/193-195 and Darimi 2541]

Sunan Kubra Bayhaqi 135

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُرَكِّي وَأَبُو مُحَمَّدٍ (١٣٦)
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيَّ فِي آخِرِينَ قَالُوا أَخْبَرَنَا أَبُو
الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا
الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ أَبِي
عَتِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - قَالَ: ((السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ
لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ)) (-).
وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنُ أَبِي عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهَا.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان
باب: مسواک کی فضیلت
حدیث نمبر: 135

ترجمہ:

(۱۳۶) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " :مسواک منہ کی صفائی کا ذریعہ اور رب کی رضا مندی کا سبب ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The Virtue of Miswak

Hadith number: 135

Translation:

(135) It is narrated from Hazrat Ayesha (may Allah be pleased with her) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: Miswak is a means of purification for the mouth and is pleasing to the Lord.

[Sahih. Narrated by Nasai 5 and Ahmad 6/47, 62, 124, 238 and Darimi 711]

Sunan Kubra Bayhaqi 136

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ : سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشُّعَيْبِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو (١٣٧)
مُحَمَّدٍ : الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحِ السَّبَّيْعِيِّ الْحَافِظُ بِبَغْدَادَ
إِمْلَائِيٍّ مِنْ حَفْظِهِ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ الْحَافِظُ
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْغَضَائِرِيُّ بِحَلَبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مِسْعَرٍ
فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ سَمِعَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ - تَقُولُ -
قَالَ الشَّيْخُ : ابْنُ أَبِي عَتِيقٍ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَمُحَمَّدٌ يُكْنَى

أَبَا عَتِيقٍ-

وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ كَذَلِكَ وَبَيَّنَّ
فِيهِ سَمَاعَ أَبِيهِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مسواک کی فضیلت

حدیث نمبر: 136

:ترجمہ

(۱۳۷) مسعر نے مذکورہ روایت کی طرح ہی ذکر کیا ہے مگر

یہ الفاظ زائد ہیں کہ انہوں نے نبی ﷺ کی زوجہ محترمہ سیدہ

عائشہ^{رض} سے سنا وہ فرماتی ہیں۔

(ب (شیخ) رح (کہتے ہیں کہ ابن ابی عتیق عبداللہ بن محمد بن

عبدالرحمن بن ابوبکر صدیق^{رض} ہیں اور ابو عتیق محمد کی کنیت

ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The Virtue of Miswak

Hadith number: 136

Translation:

(136) Mas'ar has mentioned it in the same way as the above narration, but these words are extra that he heard from the wife of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him), Syeda Ayesha (may Allah be pleased with her).

(B) Shaykh (may Allah be pleased with him) says that Ibn Abi Atiq is Abdullah bin Muhammad bin Abdul Rahman bin Abu Bakr Siddiq and is the surname of Abu Atiq Muhammad.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 137

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقْرِيُّ (١٣٨)
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ
الْقَاضِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَتِيقٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ - قَالَ ((: السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ
لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ)) -

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَتِيقٍ نَسَبَهُ يَزِيدُ إِلَى
جَدِّهِ وَقِيلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَكَأَنَّهُ سَمِعَهُ

مِنْهُمَا جَمِيعًا۔

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: مسواک کی فضیلت
حدیث نمبر: 137

:ترجمہ

(۱۳۸) (عبد الرحمن بن ابی عتیق کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے سیدہ عائشہ رض سے سنا کہ نبی ﷺ نے فرمایا " :مسواک منہ کی صفائی کا سبب اور رب کی رضا مندی کا ذریعہ ہے۔"

عبدالرحمن ابن عبداللہ بن ابی عتیق ہیں۔ یزید نے ان کی نسبت دادا کی طرف کی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ عبدالرحمن نے قاسم بن محمد سے بیان کیا ہے گویا اس نے دونوں سے سنا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The Virtue of Miswak

Hadith number: 137

Translation:

(137) 'Abd al-Rahman ibn Abi' Atiq says that I heard from my father, he heard from Ayesha (may Allah be pleased with her) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "Miswak is a means of purification for the mouth and is pleasing to the Lord."

[Sahih. Narrated by Nasai 5 and Ahmad 6/47, 62, 124, 238 and Darimi 711]

Sunan Kubra Bayhaqi 138

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ (۱۳۹)
يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ
عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - ﷺ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ -
قَالَ ((: السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ
لِلرَّبِّ)) -).

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: مسواک کی فضیلت
حدیث نمبر: 138

ترجمہ:

(۱۳۹) (ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا " : مسواک منہ کی صفائی کا سبب اور رب کی

"رضا مندی کا ذریعہ ہے۔"

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The Virtue of Miswak

Hadith number: 138

Translation:

(138) It is narrated from Umm Al-Mu'minin Ayesha (may Allah be pleased with her) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "Miswak is a means of purification for the mouth and is pleasing to the Lord."

[Sahih. Narrated by Nasai 5 and Ahmad 6/47, 62, 124, 238 and Darimi 711]

Sunan Kubra Bayhaqi 139

Arabic Translation:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو (١٤٠)
إِسْحَاقَ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ
بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ بْنِ عَبْدِ الْهَاشِمِيِّ حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ
:- عُبَيْدِ بْنِ عَمِيرٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -
((السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ))-.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: مسواک کی فضیلت
حدیث نمبر: 139

ترجمہ:

(١٤٠) (ام المومنین سیدہ عائشہ^{رض} سے روایت ہے کہ رسول اللہ
نے فرمایا " مسواک منہ کی صفائی کا سبب اور ﷺ

" رب کی رضا مندی کا ذریعہ ہے۔"

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The Virtue of Miswak

Hadith number: 139

Translation:

(139) It is narrated from Umm Al-Mu'minin Ayesha (may Allah be pleased with her) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "Miswak is a means of purification for the mouth and is pleasing to the Lord."

[Sahih. Narrated by Nasai 5 and Ahmad 6/47, 62, 124, 238 and Darimi 711]

Sunan Kubra Bayhaqi 140

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو مُحَمَّدٍ :عَبْدُ (١٤١)
الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَامِدٍ الْمُقْرِيُّ قَالَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ :مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شَرِيحِ بْنِ هَانِيٍّ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ :بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ -يَبْدَأُ إِذَا دَخَلَ
بَيْتَهُ؟ قَالَتْ بِالسَّوَاكِ-
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب :پاکی کا بیان
باب :مسواک کی فضیلت
حدیث نمبر :140

ترجمہ:

(۱۴۱) (مقدام بن شریع بن ہانی اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ^{رض} سے پوچھا: جب نبی ﷺ اپنے گھر میں داخل ہوتے تو کس چیز کے ساتھ ابتدا کرتے تھے؟ سیدہ عائشہ^{رض} کہتی ہیں: مسواک کے ساتھ۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The Virtue of Miswak

Hadith number: 140

Translation:

(140) Muqaddam ibn Shari'ah ibn Hani narrates from his father that I asked Ayesha (may Allah be pleased with her): When the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) entered his house, what did he do first? Ayesha (may Allah be pleased with her): Use a miswak.

[Sahih. Narrated by Muslim 253 and Nasai 8 and Abu Dawud 51 and Ibn Majah 290 and Ahmad 6/41, 110, 182, 188, 192, 237, 254]

Sunan Kubra Bayhaqi 141

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ (١٤٢)
بْنُ عَبْدِ الصَّفَّارِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي حَدَّثَنَا عَارِمٌ
حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ غِيلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي
مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - فَوَجَدْتُهُ يَسْتَاكُ بِسِوَاكِ
بِيَدِهِ وَهُوَ يَقُولُ: عَاغَا - وَالسِّوَاكُ فِي

فِيهِ كَأَنَّهُ يَتَهَوَّعُ -
 قَالَ إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا بِهِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ
 فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ - وَهُوَ
 يَسْتَاكُ وَطَرَفُ السَّوَاكِ عَلَى لِسَانِهِ -
 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَارِمِ أَبِي النُّعْمَانِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ
 فِي الْحَدِيثِ: أَعْ أَعْ -
 وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَبِيبِ الْحَارِثِيِّ عَنْ
 حَمَادٍ قَرِيبًا مِنْ لَفْظِ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِيِّ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: مسواک کی فضیلت
 حدیث نمبر: 141

ترجمہ:

(۱۴۲) (الف) (ابن ابی موسیٰ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ
 میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا تو میں نے آپ کو اپنے ہاتھ کے
 ساتھ مسواک کرتے ہوئے پایا اور آپ ﷺ کے منہ مبارک سے
 عَا عَا کی آواز آرہی تھی۔

(عَا عَا) (مسواک کرتے وقت جو آواز نکلتی ہے اور

مسواک آپ ﷺ کے منہ میں تھی گویا کہ آپ ﷺ آواز نکال رہے ہیں۔

(ب) (ابو موسیٰ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نبی ﷺ کے پاس آیا تو آپ ﷺ مسواک کر رہے تھے اور مسواک کا ایک کنارہ آپ کی زبان پر تھا۔
(ج) (صحیح بخاری ایک حدیث میں اُغْ اُغْ کے الفاظ ہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The Virtue of Miswak

Hadith number: 141

Translation:

(141) (a) Ibn Abi Musa narrates my father said, "I came to the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) and saw him carrying a Miswak in his hand and cleansing his teeth, saying, 'Ah' Ah'," as if he was retching while the miswak was in his mouth."

'Ah' 'Ah' is the sound that comes out while

using the miswak and the miswak was in his mouth this is why he was making this sound.

(B) Abu Musa says that when I came to the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him), he was brushing his teeth and one side of the miswak was on his tongue.

[Hadith in part (B). Sahih. Narrated by Abu Dawud 49]

(C) In a hadith in Sahih Bukhari, the words used are Ua Ua.

[Sahih. Narrated by Bukhari 244]

Sunan Kubra Bayhaqi 142

Arabic Translation:

:أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (١٤٣)
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبِرْتِيُّ الْقَاضِي
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ يَعْنِي ابْنَ
الْحَبَابِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أَكْثَرُتُمْ عَلَيْكُمْ
((فِي السِّوَاكِ
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: مسواک کی فضیلت
حدیث نمبر: 142

:ترجمہ

(١٤٣) حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں تم میں سب سے زیادہ مسواک کرنے والا ہوں۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The Virtue of Miswak

Hadith number: 142

Translation:

(142) It is narrated from Hazrat Anas (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: I use the most miswak amongst you people.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 143

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍِ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ (۱۴۴)
اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ التَّمِيمِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ السِّوَاكِ
فَقَالَ : مَا زَالَ النَّبِيُّ ﷺ - يَأْمُرُنَا بِهِ حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَنْزَلَ عَلَيْهِ
فِيهِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب : پاکی کا بیان
باب : مسواک کی فضیلت
حدیث نمبر : 143

ترجمہ:

(۱۴۴) تمیمی سے روایت ہے کہ میں نے ابن عباس^{رض} سے
مسواک کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا : نبی

کریم ﷺ ہمیشہ اس کا حکم دیا کرتے تھے حتیٰ کہ ہم ڈر گئے
کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The Virtue of Miswak

Hadith number: 143

Translation:

(143) It is narrated from Tamimi that when I asked Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) about the miswak, he said: The Holy Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) always commanded it, so much so that we were afraid that it might become obligatory.

[Sahih. Narrated by al-Tayalisi 2739]

Sunan Kubra Bayhaqi 144

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو فِي (١٤٥)
آخِرِينَ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا
الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي
الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي بُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ((لَوْلَا
أَنَّ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرَتِهِمْ بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ وَالسُّوَاقِ عِنْدَ
كُلِّ صَلَاةٍ)) -

زَادَ أَبُو سَعِيدٍ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ
السُّوَاقَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَأَنَّهُ اخْتِيَارٌ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ وَاجِبًا أَمَرَهُمْ
بِهِ شَقَّ عَلَيْهِمْ أَوْ لَمْ يَشُقَّ -
رَوَاهُ مُسْلِمٌ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ وَغَيْرِهِ
عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
کتاب: پاکی کا بیان

باب :مسواک سنت ہے واجب نہیں

حدیث نمبر :144

:ترجمہ

(۱۴۵) (سیدنا ابوہریرہ ^{رض} سے روایت ہے کہ رسول اللہ ^{صلی اللہ علیہ وسلم} نے فرمایا " :اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو میں انہیں عشاء کی نماز موخر کرنے اور ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دے دیتا۔

(ب) (امام شافعی ^{رض} کہتے ہیں :اس حدیث میں دلیل ہے کہ مسواک واجب نہیں بلکہ اختیاری ہے ، اگر واجب ہوتا تو آپ صحابہ کرام کو (مسواک کرنے (حکم دیتے خواہ ان پر مشقت ہی ہوتی۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Miswak is Sunnah and not obligatory

Hadith number: 144

Translation:

(144) It is narrated on the authority of Abu

Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: If I had not found it hard for my followers, I would have commanded them to delay 'Isha' and to use the Miswaj for every prayer."

(B) Imam Shafi'i (may Allah be pleased with him): There is evidence in this hadith that miswak is not obligatory but optional.

[Sahih. Narrated by Bukhari 887, 7240 and Muslim 252 and Nasai 7, 535 and Abu Dawud 47 and Tirmidhi 23 and Ibn Majah 287 and Ahmad 4/116]

Sunan Kubra Bayhaqi 145

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْعَلَوِيُّ (١٤٦)
أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفَقِيهِ
حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أَسَامَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ
قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ((لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَيَّ
أُمَّتِي لِأَمْرَتِهِمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوئٍ)) ((بَكَذَا أَخْبَرَنَا فِي
الْفَوَائِدِ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مسواک سنت ہے واجب نہیں

حدیث نمبر: 145

:ترجمہ

(۱۴۶) (سیدنا ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " :اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو میں انہیں ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دے دیتا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Miswak is Sunnah and not obligatory

Hadith number: 145

Translation:

(145) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said:"If I did not consider it a hardship for my ummah, I would have ordered them to do miswak with every ablution.

[Sahih. Narrated by Malik 2/114]

Sunan Kubra Bayhaqi 146

Arabic Translation:

وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو زَكْرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ (١٤٧)
سَلْمَانَ الْفَقِيهَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ
حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فَذَكَرَهُ مَرْفُوعًا.
وَبِذَا الْحَدِيثُ مَعْرُوفٌ بِرَوْحِ بْنِ عُبَادَةَ وَبِشْرِ بْنِ عُمَرَ (ت)
الزَّهْرَانِيِّ عَنِ مَالِكِ مَرْفُوعًا وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ
حَرَمَلَةَ مَرْفُوعًا وَهُوَ فِي الْمُوطَأِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مَوْقُوفٌ دُونَ
ذِكْرِ الْوُضُوءِ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مسواک سنت ہے واجب نہیں

حدیث نمبر: 146

ترجمہ:

(۱۴۷) امام مالک بن انسؒ نے اس روایت کو مرفوع بیان کیا

ہے۔
(ب) امام شافعیؒ نے حرمہ والی روایت کو مرفوع ذکر کیا ہے
اور امام مالک (رح) نے مؤطا میں سند کے ساتھ موقوفاً بیان
کیا ہے اور اس میں وضو کا ذکر نہیں ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Miswak is Sunnah and not
obligatory

Hadith number: 146

Translation:

(146) Imam Malik ibn Anas (may Allah be pleased with him) has narrated this narration in detail.

(B) Imam Shafi'i (may Allah be pleased with him) narrated the narration of Harmala in detail and Imam Malik (may Allah be pleased with him) has narrated it in Muwattah with a chain of transmission and it does not mention ablution.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 147

Arabic Translation:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمَّادٍ الْعَدْلُ (١٤٨)
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي حَدَّثَنَا عَارِمُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى

بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ قَالاً
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
:- أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -
لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ السِّوَاكَ مَعَ))
الْوُضُوءِ وَالْأَخْرَجْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ((-).

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مسواک سنت ہے واجب نہیں

حدیث نمبر: 147

ترجمہ:

(۱۴۸) (سیدنا ابو ہریرہ ^{رض} سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " :اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو ہر وضو کے ساتھ ان پر مسواک کو فرض کر دیتا اور عشا کی نماز کو " نصف رات تک مؤخر کر دیتا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Miswak is Sunnah and not obligatory

Hadith number: 147

Translation:

(147) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: "If I did not consider it difficult for my ummah, I would have imposed miswak on them with every ablution and would have postponed the Isha prayer till midnight."

[Sahih. Narrated by Hakim 1/442]

Sunan Kubra Bayhaqi 148

Arabic Translation:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَائِرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدٍ بْنُ بِلَالٍ (١٤٩)
الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَ ((لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَظُنُّهُ قَالَ
لَأَمَرْتُهُمْ بِالسُّوَائِ مَعَ الْوُضُوءِ وَلَا خَرْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى
ثَلَاثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ)) (وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: مسواک سنت ہے واجب نہیں
حدیث نمبر: 148

ترجمہ:

" (١٤٩) (سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا
اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا "میرا گمان ہے

کہ آپ ﷺ نے فرمایا " :تو میں ہر وضو کے ساتھ ان کو مسواک کا اور عشا کی نماز کو ایک تہائی رات تک یا آدھی رات تک مؤخر کرنے کا حکم دیتا۔"

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Miswak is Sunnah and not obligatory

Hadith number: 148

Translation:

(148) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "If I did not consider hardship on my ummah." I think that he said: So with every ablution, I would order them to use the Miswak and postpone the Isha prayers till one-third of the night or till midnight. "

[Sahih. Narrated by Ahmad 2/250]

Sunan Kubra Bayhaqi 149

Arabic Translation:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى (١٥٠)
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي
سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَطَائِ مَوْلَى أُمِّ صُبَيْةَ عَنْ أَبِي بُرَيْرَةَ قَالَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ((لَوْلَا أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَشُقَّ عَلَى
أُمَّتِي)) (نَحْوَهُ.
قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ
حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ نَحْوَهُ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: مسواک سنت ہے واجب نہیں
حدیث نمبر: 149

ترجمہ:

(١٥٠) (سیدنا ابوہریرہ ^{رض} فرماتے ہیں کہ میں نے نبی ﷺ کو
فرماتے ہوئے سنا " :اگر میں پسند نہ کرتا کہ میری امت پر
" مشقت ہو۔۔۔ باقی حدیث پچھلی حدیث کی طرح بیان کی۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Miswak is Sunnah and not obligatory

Hadith number: 149

Translation:

(149) Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) said: I heard the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) say: "If I did not like the hardship on my ummah ... the rest of the hadith is narrated like the previous hadith."

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 150

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ (١٥١)
سَخْتُوِيهِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي اللَّيْثِ
حَدَّثَنَا الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الصَّيْقَلِيِّ عَنِ ابْنِ
تَمَّامٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((مَا لِي أَرَاكُمْ
تَأْتُونِي قُلْحًا؟ لَوْلَا أَنَّ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ السِّوَاكَ
كَمَا فَرَضَ عَلَيْهِمُ الْوُضُوءَ)) ((كَذَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: مسواک سنت ہے واجب نہیں
حدیث نمبر: 150

ترجمہ:

(١٥١) (سیدنا ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا " :میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم میرے پاس اس حال میں آتے ہو کہ تمہارے دانتوں پر میل ہوتی ہے۔ "اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو میں مسواک کو ان پر اس طرح فرض قرار دیتا جس طرح ان پر وضو فرض ہے۔"

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Miswak is Sunnah and not obligatory

Hadith number: 150

Translation:

(150) It is narrated on the authority of Ibn Abbas (may Allah have mercy on him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: I see you coming to me in a state where there is dirt on your teeth. "If I did not consider hardship on my ummah, I would have made miswak obligatory on them as ablution is obligatory

on them.

[Daif (Weak). Narrated by Ahmad 1/214]

Sunan Kubra Bayhaqi 151

Arabic Translation:

وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ أَخْبَرَنَا (١٥٢)
إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسِ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ
مَحْبُوبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي
عَلِيٍّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ تَمَّامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ

النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ)) : تَدْخُلُونَ عَلَيَّ قُلْحًا اسْتَاكُوا ((-
 ت (قَالَ الْبُخَارِيُّ وَقَالَ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ عَنْ
 جَعْفَرِ بْنِ تَمَّامٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - نَحْوَهُ. وَقَالَ
 الثَّوْرِيُّ يَعْنِي كَنَحْوِ مَا رَوَيْنَا.
 وَرَوَاهُ أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الطَّالِقَانِيِّ عَنْ
 جَرِيرٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - وَعَنْ سُرَيْجِ بْنِ يُونُسَ عَنْ
 عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ
 - الْمُطَّلِبِ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -
 وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ وَهُوَ حَدِيثٌ مُخْتَلَفٌ فِي إِسْنَادِهِ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: مسواک سنت ہے واجب نہیں
 حدیث نمبر: 151

ترجمہ:

(۱۵۲) (سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں: تم
 میرے پاس میل والے دانتوں کے ساتھ آتے ہو مسواک کیا کرو۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Miswak is Sunnah and not obligatory

Hadith number: 151

Translation:

(151) Ibn Abbas narrates from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him): You come to me with dirty teeth, you should use the miswak.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 152

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ (١٥٣)
مُحَمَّدَ الصَّيْدَلَانِيَّ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ
بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا يَعْنِي ابْنَ أَبِي زَائِدَةَ
عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقٍ يَعْنِي ابْنَ حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((:عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ :قَصُّ
، الشَّارِبِ وَإِعْفَاءِ اللَّحْيَةِ ، وَالسِّوَاكِ وَالِاسْتِنْشَاقِ بِالْمَاءِ
وَقَصُّ الْأَظْفَارِ ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ
وَإِنْتِقَاصُ الْمَاءِ)) (قَالَ مُصْعَبٌ : وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
الْمَضْمَضَةَ .

رَوَاهُ مُسْلِمٌ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي
شَيْبَةَ وَغَيْرِهِ .

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مسواک سنت ہے واجب نہیں

حدیث نمبر: 152

ترجمہ:

(۱۵۳) (سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " :دس چیزیں فطرت میں سے ہیں :مونچھیں کاٹنا، داڑھی پڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈال کر جھاڑنا، ناخن کاٹنا، پوروں کو دھونا، بغلوں کے بال اکھیڑنا، زیر ناف بال مونڈھنا اور پانی بہانا۔ مصعب کہتے ہیں کہ میں دسویں چیز بھول گیا) ممکن ہے کہ (وہ کلی کرنا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Miswak is Sunnah and not obligatory

Hadith number: 152

Translation:

(152) It is narrated on the authority of Ayesha (may Allah have mercy on her) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: Ten are the acts

according to fitra: clipping the moustache, letting the beard grow, using the miswak, snuffing water in the nose, cutting the nails, washing the finger joints, plucking the hair under the armpits, shaving the pubes and cleaning one's private parts with water. The narrator said: I have forgotten the tenth, but it may have been rinsing the mouth.

[Sahih. Narrated by Muslim 261 and Nasai 5043 and Abu Dawud 53 and Tirmidhi 2757 and Ibn Majah 293 and Ahmad 1376, 25114]

Sunan Kubra Bayhaqi 153

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو (١٥٤)
الْحَسَنُ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ وَاسِعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ -
(ح) (وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ: الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ
الْعَدْلُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَبَّانِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ
سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي
بُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - قَالَ)) : لَوْلَا أَنَّ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرَتِهِمْ
بِتَأْخِيرِ الْعِشَاءِ وَالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ((بِذَا لَفْظُ حَدِيثِ
ابْنِ عُيَيْنَةَ -

وَفِي حَدِيثِ مَالِكٍ : أَوْ عَلَى النَّاسِ لِأَمْرَتِهِمْ بِالسَّوَاكِ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ -
وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مَالِكٍ
وَقَالَ ((لِأَمْرَتِهِمْ بِالسَّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ)) (وَأَكْثَرُ النَّاسِ لَمْ يَذْكُرُوا
ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ -

(ت) (وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِمِثْلِ رِوَايَةِ سُفْيَانَ بْنِ
عُيَيْنَةَ عَنْهُ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي
بُرَيْرَةَ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: نماز کے لیے کھڑا ہوتے وقت مسواک کرنے کی تاکید

حدیث نمبر: 153

ترجمہ:

(۱۵۴) (الف) (سیدنا ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا " :اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو میں ان کو عشا کی نماز مؤخر کرنے اور ہر نماز کے لیے مسواک کا حکم دیتا۔"

(ج) (مالک سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: میں ان کو ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Emphasis on brushing one's teeth when standing for prayers

Hadith number: 153

Translation:

(153) (a) It is narrated from Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "If I did not consider it a hardship for my ummah, I would have ordered them to postpone the Isha prayer and to order them to use miswak for each prayer."

(B) It is narrated from Malik (may Allah have mercy on him) that he said: I would order them to make miswak with every prayer.

[Sahih. Narrated by Hakim 1/442]

Sunan Kubra Bayhaqi 154

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقْرِيُّ (١٥٥)
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَ
((لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرَتِهِمْ بِالسَّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ)) -
وَقِيلَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان
باب: نماز کے لیے کھڑا ہوتے وقت مسواک کرنے کی تاکید
حدیث نمبر: 154

:ترجمہ

(: ۱۵۵) سیدنا ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا
اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو میں ان کو ہر نماز
کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Emphasis on brushing one's teeth
when standing for prayers

Hadith number: 154

Translation:

(154) It is narrated from Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that he said: If I did not consider it a hardship on my ummah, I would have ordered them to make use miswak for every prayer.

[Sahih. Narrated by Bukhari 887, 7240 and Muslim 252 and Nasai 7 and Abu Dawud 46 and Tirmidhi 22 and Ibn Majah 287 and Malik 2/113 and Darimi 710, 1525]

Sunan Kubra Bayhaqi 155

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوَدْبَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ (١٥٦)
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ
يُونُسَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ
قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ((لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَيَّ أُمَّتِي
لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ))-

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَرَأَيْتُ زَيْدًا يَجْلِسُ فِي الْمَسْجِدِ وَإِنَّ السِّوَاكَ مِنْ أَدْنِهِ
مَوْضِعَ الْقَلَمِ مِنْ أَدْنِ الْكَاتِبِ ، فَكُلَّمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ اسْتَاكَ-

وَبَلَّغَنِي عَنِ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: حَدِيثُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَصَحُّ.

قَالَ أَبُو عَيْسَى التِّرْمِذِيُّ: كِلَاهُمَا عِنْدِي صَحِيحٌ.

قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ وَقَعَ آخِرُ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ بِإِسْنَادٍ لَهُ آخَرَ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: نماز کے لیے کھڑا ہوتے وقت مسواک کرنے کی تاکید

حدیث نمبر: 155

ترجمہ:

(الف) زید بن خالد جہنی کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ (ﷺ) کو فرماتے ہوئے سنا: "اگر میں امت پر مشقت نہ سمجھتا تو ان کو ہر نماز کے لیے مسواک کا حکم دیتا۔"

(ب) ابو سلمہ کہتے ہیں: میں نے زیدؓ کو دیکھا وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور مسواک ان کے کان پر ایسے تھی، جیسے کاتب اپنے کان پر قلم کو رکھتا ہے، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو مسواک کرتے۔

شیخ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا آخری حصہ محمد بن اسحاق بن یسار سے دوسری سند سے منقول ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Emphasis on brushing one's teeth when standing for prayers

Hadith number: 155

Translation:

(155) (a) Zayd ibn Khalid al-Jahni (may Allah be pleased with him): I heard the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) say: "If I did not consider it a hardship on the ummah, I would have ordered them to use miswak for every prayer."

(B) Abu Salma says: I saw Zayd (may Allah have mercy on him) sitting in the mosque and the miswak was on his ear as a scribe holds a pen over his ear.

Shaykh says that the last part of this hadith

is narrated from Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar from another chain of transmission.

Sunan Kubra Bayhaqi 156

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَبُو (١٥٧)
الْقَاسِمِ : سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبْرَانِيُّ حَدَّثَنَا الْحَضْرَمِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ
بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كَانَ السَّوَاكُ مِنْ أَدْنِ
النَّبِيِّ ﷺ - مَوْضِعَ الْقَلَمِ مِنْ أَدْنِ الْكَاتِبِ -
قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ لَمْ يَرَوْهُ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا يَحْيَى -
، قَالَ الشَّيْخُ : وَيَحْيَى بْنُ يَمَانَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ عِنْدَهُمْ (ج)

وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ غَلَطًا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَوَّلِ إِلَى
بَدَأَ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: نماز کے لیے کھڑا ہوتے وقت مسواک کرنے کی تاکید

حدیث نمبر: 156

ترجمہ:

(۱۵۷) (سیدنا جابر بن عبداللہؓ سے روایت ہے کہ مسواک نبی

ﷺ کے کان پر ایسے ہوتی تھی جیسے کاتب کے کان پر قلم

ہوتا ہے۔

ب (شیخ کہتے ہیں کہ یحییٰ بن یمان محدثین کے نزدیک قولی

نہیں۔ یہ بھی اشتباہ ہے کہ محمد بن اسحاق جو اس سے پہلی

روایت میں ہے صحیح نہ ہو۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Emphasis on brushing one's teeth

when standing for prayers

Hadith number: 156

Translation:

(156) It is narrated from Syeduna Jabir bin Abdullah (may Allah be pleased with him) that the miswak used to be on the ear of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) like a pen is on the ear of a scribe.

(B) The Shaykh (may Allah be pleased with him) says that Yahya ibn Yaman is not a narrator according to the muhaditheen. It is also a mistake that Muhammad ibn Ishaq which is in the earlier narration is not sahih. [Daif, Munkar (Weak, Odd). Narrated by Hafiz Ibn Hajar in Talkhees 1/71]

Sunan Kubra Bayhaqi 157

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ (١٥٨)
بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ
سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقُرَشِيُّ الدِّمَشْقِيُّ
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى اللَّخْمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوَدْبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ (ح)

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ تَوَضُّؤَ ابْنِ عُمَرَ لِكُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا وَغَيْرِ طَاهِرٍ عَمَّ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنِيهِ أَسْمَاءُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حَنْظَلَةَ بْنَ أَبِي عَامِرٍ حَدَّثَهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - أَمَرَ بِالْوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ طَاهِرًا وَغَيْرِ طَاهِرٍ ، فَلَمَّا شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ أَمَرَ بِالسَّوَاكِ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى أَنَّ بِهِ قُوَّةً ، فَكَانَ لَا يَدْعُ الْوُضُوءَ لِكُلِّ صَلَاةٍ.

لَفْظُ حَدِيثِ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدِ الْوَيْبِيِّ-

وَقَالَ سَعِيدٌ فِي حَدِيثِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ: فَلَمَّا شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ-

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ رَوَاهُ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: نماز کے لیے کھڑا ہوتے وقت مسواک کرنے کی تاکید

حدیث نمبر: 157

:ترجمہ

(۱۵۸) سیدنا عبداللہ بن عمرؓ کے صاحبزادے عبداللہؓ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا: کیا آپ نے ابن عمرؓ کو دیکھا ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے چاہے وضو ہوتا یا نہ اور آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: مجھ کو اسماء بنت زید بن خطابؓ نے بیان کیا کہ عبداللہ بن حنظلہ بن ابی عامر اسماءؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو ہر نماز کے لیے وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، چاہے آپ کا وضو ہو یا نہ۔ جب آپ ﷺ پر یہ مشکل ہو گیا تو آپ کو ہر نماز کے لیے مسواک کا حکم دے دیا گیا۔ ابن عمرؓ یہ خیال کرتے تھے کہ مجھ میں چونکہ طاقت ہے اس لیے ہر نماز کے لیے وضو کو نہیں چھوڑتے تھے۔

(ب) سعید کہتے ہیں کہ عبید اللہ بن عبداللہ والی روایت میں یہ "الفاظ ہیں": جب یہ ان پر مشکل ہو گیا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Emphasis on brushing one's teeth when standing for prayers

Hadith number: 157

Translation:

(157) (A) It is narrated from Abdullah bin Abdullah bin Umar, son of Abdullah bin Umar (may Allah be pleased with him):

Muhammad ibn Yahya ibn Habban asked Abdullah bin Abdullah bin Umar about the reason for Ibn Umar's performing ablution for every prayer, whether he was with or without ablution.

He replied: Asma', daughter of Zayd ibn al-Khattab, reported to me that Abdullah ibn Hanzalah ibn AbuAmir narrated to her that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) was earlier commanded to perform ablution for every prayer whether or not he was with ablution.

When it became a burden for him, he was ordered to use miswak for every prayer. As Ibn Umar thought that he had the strength (to perform the ablution for every prayer), he did

not give up performing ablution for every prayer.

[Hasan (Fair). Narrated by Abu Dawud 48 and Ahmad 5/225 and Darimi 684]

Sunan Kubra Bayhaqi 158

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو (١٥٩)
بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ
حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي-

ح (قَالَ وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكْرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ ذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ :- الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -

تَفْضُلُ الصَّلَاةِ الَّتِي يُسْتَاكُ لَهَا عَلَى الصَّلَاةِ الَّتِي لَا يُسْتَاكُ)) لَهَا سَبْعِينَ ضِعْفًا)) (وَبَذَا الْحَدِيثُ أَحَدُ مَا يُخَافُ أَنْ يَكُونَ مِنْ تَدْلِيسَاتِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ وَأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ - ت (وَقَدْ رَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى الصَّدْفِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَوَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَرُوِيَ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَمِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ - وَكِلَابِمَا ضَعِيفٌ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: نماز کے لیے کھڑا ہوتے وقت مسواک کرنے کی تاکید

حدیث نمبر: 158

ترجمہ:

(۱۵۹) ام المومنین سیدہ عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " : وہ نماز اس نماز پر ستر درجے

فضیلت رکھتی ہے جس نماز کے لیے مسواک کی جائے اس نماز پر جس کے لیے مسواک نہ کی جائے۔ (یہ حدیث ان احادیث میں سے ایک ہے جن کے متعلق خدشہ ہے کہ وہ محمد بن اسحاق بن یسار کی تدلیسات میں سے ہیں اور ان کا (امام زہری سے سماع ثابت نہیں ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Emphasis on brushing one's teeth when standing for prayers

Hadith number: 158

Translation:

(158) It is narrated on the authority of Umm Al-Mumineen Ayesha (may Allah be pleased with her) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "The prayer for which the miswak is performed is seventy degrees superior to the prayer for which the miswak is not performed."

This is one of the hadiths which is feared to

be one of the teachings of Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar and has not been narrated from Imam Zuhri (may Allah be pleased with him).

[Daif (Weak). Narrated by Ahmad 6/272]

Sunan Kubra Bayhaqi 159

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بَشْرَانَ إِجَازَةً قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو (١٦٠)
جَعْفَرِ الرَّزَّازُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْخَلِيلِ حَدَّثَنَا الْوَاقِدِيُّ حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَحْيَى الْأَسْلَمِيُّ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ
عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ((: الرَّكْعَتَانِ بَعْدَ السَّوَاكِ أَحَبُّ

إِلَىٰ مِنْ سَبْعِينَ رَكْعَةً قَبْلَ السَّوَاكِ))-

(ج) (الْوَاقِدِيُّ لَا يُحْتَجُّ بِهِ-

وَرُويَ عَنْ عَائِشَةَ مِنْ غَيْرِ هَذَا الطَّرِيقِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: نماز کے لیے کھڑا ہوتے وقت مسواک کرنے کی تاکید

حدیث نمبر: 159

ترجمہ:

(۱۶۰) (ام المؤمنین سیدہ عائشہؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے

فرمایا " :مسواک کے بعد دو رکعتیں پڑھنا مجھ کو ستر رکعت

پڑھنے سے زیادہ محبوب ہیں جو مسواک کرنے سے پہلے

پڑھی جائیں۔

(ب) (واقدی قابل حجت نہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Emphasis on brushing one's teeth

when standing for prayers

Hadith number: 159

Translation:

(159) It is narrated from Umm Al-Mu'minin Ayesha (may Allah be pleased with her) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "Praying two rak'ats after using the miswak is more dear to me than praying seventy rak'ats which are recited before doing miswak.

(B) Waqdi is not reliable.

[MAUDU (FABRICATED)]

Sunan Kubra Bayhaqi 160

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيُّ أَخْبَرَنَا (١٦١)
أَبُو الْفَضْلِ: الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُوَيْبَارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ
السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ قِيرَاطٍ حَدَّثَنَا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عُرْوَةَ
:-بْنِ رُوَيْمٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -
(صَلَاةٌ بِسِوَاكِ خَيْرٌ مِنْ سَبْعِينَ صَلَاةً بِغَيْرِ سِوَاكِ) (-)
وَبَذَا إِسْنَادٍ غَيْرِ قَوِيٍّ (-) (وَرُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ
مَرْفُوعًا مُرْسَلًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: نماز کے لیے کھڑا ہوتے وقت مسواک کرنے کی تاکید
حدیث نمبر: 160

:ترجمہ

(١٦١) (ام المؤمنین سیدہ عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " :مسواک کے ساتھ نماز پڑھنا بغیر

" مسواک کے نماز پڑھنے سے ستر گنا زیادہ ہے۔ "

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Emphasis on brushing one's teeth
when standing for prayers

Hadith number: 160

Translation:

(160) It is narrated from Umm Al-Mu'minin Ayesha (may Allah be pleased with her) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "Praying with a miswak is seventy times more (superior) than praying without a miswak."

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 161

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْعَلَوِيُّ وَأَبُو عَلِيٍّ: الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١٦٢)
الرُّوَدْبَارِيُّ قَالَا أَخْبَرَنَا أَبُو طَابِرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُحَمَّدَابَادِيُّ
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيِّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ الْوَاسِطِيِّ
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ
عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ: (أَمَرْنَا بِالسَّوَاكِ وَقَالَ) ((: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي أَتَاهُ الْمَلِكُ
فَقَامَ خَلْفَهُ يَسْتَمِعُ الْقُرْآنَ وَيَدْنُو ، فَلَا يَزَالُ يَسْتَمِعُ وَيَدْنُو
حَتَّى يَضَعَ فَاهُ عَلَى فِيهِ ، فَلَا يَقْرَأُ آيَةً إِلَّا كَانَتْ فِي جَوْفِ
الْمَلِكِ))-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: نماز کے لیے کھڑا ہوتے وقت مسواک کرنے کی تاکید
حدیث نمبر: 161

ترجمہ:

(۱۶۲) (سیدنا علیؓ سے روایت ہے کہ ہم کو نماز کا حکم دیا گیا اور فرمایا: جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پاس فرشتہ آتا ہے جو اس کے پیچھے کھڑا ہوجاتا ہے وہ قرآن سنتا ہے اور قریب ہوجاتا ہے، وہ سنتا رہتا ہے اور قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک اپنا منہ اس کے منہ پر رکھ لیتا ہے، پھر وہ جو بھی آیت پڑھتا ہے وہ فرشتے کے پیٹ میں چلی جاتی ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Emphasis on brushing one's teeth when standing for prayers

Hadith number: 161

Translation:

(161) It is narrated from Ali (may Allah be pleased with him) that we were commanded to pray and he said: When the servant stands

up for prayer, an angel comes to him who stands behind him, he hears the Quran and draws near. He keeps listening and keeps getting closer until he puts his mouth on his mouth, then whatever verse he recites goes into the belly of the angel.

[Sahih. Narrated by Al-Bazaa 603]

Sunan Kubra Bayhaqi 162

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ (١٦٣)
إِسْحَاقَ الْفَقِيهَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ وَحُصَيْنٍ-

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ بِالْوَيْهِ الْمُزَكِّيِّ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إِسْحَاقُ بْنُ
مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ السُّوسِيَّ وَأَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو قَالُوا
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سُلَيْمَانَ
الْأَصْبَهَانِيَّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ
مَنْصُورٍ وَالْأَعْمَشِ وَحُصَيْنٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ -
لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِيٍّ-

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ
عَنْ أَبِي مُوسَى وَبِنْدَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاكى كا بيان

باب: نيند سے بيدار ہوتے وقت مسواك كرنے كى تاكيد

حديث نمبر: 162

:ترجمہ

(۱۶۳) (سیدنا حذیفہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب رات کو بيدار ہوتے تو اپنا منہ مسواك سے صاف كرتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Emphasis on using miswak when waking up

Hadith number: 162

Translation:

(162) It is narrated from Syeduna Hudhaifah (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) used to clean his mouth with a miswak when he woke up at night.

[Sahih. Narrated by Bukhari 245, 889 and Muslim 255 and Nasai 2 and Abu Dawud 55 and Ibn Majah 286 and Musnad Ahmad 5/382 and Darimi 712]

Sunan Kubra Bayhaqi 163

Arabic Translation:

وَرَوَاهُ هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ حُصَيْنٍ فَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: كَانَ (١٦٤)
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا قَامَ لِيَتَهَجَّدَ يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ فَذَكَرَهُ.
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ.
(ع قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ: الشَّوْصُ ذَلِكَ الْأَسْنَانِ عَرْضًا
بِالسِّوَاكِ وَبِالْأَصْبَعِ وَنَحْوَيْمَا.)

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: نیند سے بیدار ہوتے وقت مسواک کرنے کی تاکید
حدیث نمبر: 163

ترجمہ:

(١٦٤) (سیدنا حصین^{رض} سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب

تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنا منہ مسواک کے ساتھ صاف کرتے تھے۔

(ب) ابو سلیمان خطابی کہتے ہیں " شوص "دانتوں کو مسواک اور انگلی وغیرہ سے ملنے کو کہتے ہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Emphasis on using miswak when waking up

Hadith number: 163

Translation:

(163) It is narrated from Syeduna Hussain (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) used to clean his mouth with a miswak when he stood up for Tahajjud.

(B) Abu Sulayman al-Khattabi says: "Shous" means to rub the teeth with a miswak or a finger.

[Sahih. Narrated by Bukhari 235, 889, 1136

and Muslim 255 and Nasai 2, 1622 and Abu Dawud 55 and Ibn Majah 286 and Ahmad 5/382, 390, 397, 402, 407 and Darimi 20/712]

Sunan Kubra Bayhaqi 164

Arabic Translation:

:أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ (١٦٥)
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ
عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ بِشَامٍ عَنْ عَائِشَةَ فِي حَدِيثِ
طَوِيلٍ قَالَتْ: كُنَّا نَعُدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ - سِوَاكَهُ وَطَهْرَهُ فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ مَا
شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ ، فَيَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّيَ -
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ بَشِيرٍ - وَرَوَاهُ بِهِزُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ زُرَّارَةَ فَقَالَ فِي الْحَدِيثِ
كَانَ يُوضَعُ لَهُ وَضُوئُهُ وَسِوَاكَهُ ، فَإِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ تَخَلَّى ثُمَّ
اسْتَاكَ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان

باب: نیند سے بیدار ہوتے وقت مسواک کرنے کی تاکید

حدیث نمبر: 164

:ترجمہ

(الف) ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہم (۱۶۵) رسول اللہ ﷺ کے لیے مسواک اور وضو کا پانی تیار رکھتیں تھیں۔ جب اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کو چاہتا رات کو بیدار کرتا تو آپ ﷺ مسواک کرتے اور وضو کرتے، پھر نماز پڑھتے۔
(ب) سیدنا زرارہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ کے لیے وضو کا پانی اور مسواک رکھی جاتی تھیں، آپ ﷺ رات کو کھڑے ہوتے، قضائے حاجت کرتے، پھر مسواک کرتے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Emphasis on using miswak when waking up

Hadith number: 164

Translation:

(164) (a) It is narrated from Umm Al-Mu'minin Ayesha (may Allah have mercy on her) that we used to prepare the miswak and ablution water for the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him). When Allah Almighty woke him up at night, he would use the miswak and perform ablution, then he would offer prayers.

(B) It is narrated from Syeduna Zarrar that water of ablution and miswak were kept for him.

[Sahih. Narrated by Nasai 1316, 1602, 1721, 1722 and Nawawi in Riyad as-Salihin 1198]

The full and lengthy hadith was narrated by Muslim 746.

Sunan Kubra Bayhaqi 165

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذُبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ (١٦٦)
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا
بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ فَذَكَرَهُ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: نیند سے بیدار ہوتے وقت مسواک کرنے کی تاکید
حدیث نمبر: 165

ترجمہ:

(۱۶۶) ہم کو بہز بن حکیم نے گزشتہ حدیث کی طرح روایت نقل کی۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Emphasis on using miswak when waking up

Hadith number: 165

Translation:

(165) Bahz ibn Hakim narrated to us like the previous hadith.

[Hasan (Fair)]

Sunan Kubra Bayhaqi 166

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذِبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ (١٦٧)
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ
عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - كَانَ لَا يَرْقُدُ مِنْ لَيْلٍ
وَلَا نَهَارٍ فَيَسْتَيْقِظُ إِلَّا تَسَوَّكَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: نیند سے بیدار ہوتے وقت مسواک کرنے کی تاکید
حدیث نمبر: 166

:ترجمہ

(۱۶۷) ام المؤمنین سیدہ عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ دن یا رات کو جس وقت بھی سونے کے بعد بیدار ہوتے تو وضو سے پہلے مسواک کرتے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Emphasis on using miswak when waking up

Hadith number: 166

Translation:

(166) It is narrated from Umm Al-Mu'minin Syeda Ayesha (may Allah be pleased with her) that whenever the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) woke up after sleeping during the day or night, he would use the miswak before performing ablution.

Sunan Kubra Bayhaqi 167

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ أَخْبَرَنَا دَعْلُجُ بْنُ أَحْمَدَ (١٦٨)
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ جُنَيْدٍ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ
حَدَّثَنَا زُبَيْرٌ-

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ (ح)
بْنُ عَبْدِ الصَّفَّارِ حَدَّثَنَا ابْنُ مِلْحَانَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي خَالِدٍ
أَخْبَرَنَا زُبَيْرٌ حَدَّثَنَا قَابُوسُ بْنُ أَبِي ظَبْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ قَالَ : أَتَى رَجُلَانِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - حَاجَتُهُمَا وَاحِدَةٌ ، فَتَكَلَّمَ
أَحَدُهُمَا فَوَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - مِنْ فِيهِ إِخْلَافًا ، فَقَالَ لَهُ : أَمَا
تَسْتَأْذِنُ؟ قَالَ : بَلَى ، وَلَكِنِّي لَمْ أَطْعَمْ مِنْ ثَلَاثِ فَأَمَرَ رَجُلًا مِنْ
أَصْحَابِهِ فَأَوَاهُ وَقَضَى حَاجَتَهُ -
لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَهَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ زُبَيْرٍ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: دانتوں پر مسواک کرنے کی تاکید
حدیث نمبر: 167

ترجمہ:

(۱۶۸) (سیدنا ابن عباس^{رض} سے روایت ہے کہ دو شخص نبی ﷺ کے پاس آئے۔ ان دونوں کا کام ایک ہی تھا ان میں سے ایک نے بات کی تو رسول اللہ ﷺ نے ان میں بدبو پائی، آپ ﷺ نے اس کو کہا: کیا تو مسواک نہیں کرتا؟ اس نے کہا: کیوں نہیں لیکن میں نے تین دن سے کچھ نہیں کھایا۔ آپ ﷺ نے ایک شخص کو حکم دیا اس نے اس کی مدد کی اور اس کی ضرورت کو پورا کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Emphasis on using miswak on the teeth

Hadith number: 167

Translation:

(167) It is narrated from Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) two people came to the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him). They both had the same request. When one of them spoke, the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) found a bad smell in them. He said to him: Do you not use the miswak? He said: Why not, but I have not eaten for three days. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) ordered a man to help him and meet his needs.

[Daif (Weak). Narrated by Ahmad 267]

Sunan Kubra Bayhaqi 168

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ: الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو (١٦٩)
بَكْرٍ بْنُ دَاسَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا عَنبَسَةُ بْنُ سَعِيدِ
الْكُوفِيِّ الْحَاسِبُ قَالَ حَدَّثَنِي كَثِيرٌ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ
نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ - يَسْتَاكُ فَيُعْطِينِي السِّوَاكَ لِأَغْسِلَهُ ، فَأَبْدَأُ بِهِ
فَأَسْتَاكُ ثُمَّ أَغْسِلُهُ وَأَذْفَعُهُ إِلَيْهِ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان
باب: مسواک دھونا
حدیث نمبر: 168

ترجمہ:

(۱۶۹) ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب نبی ﷺ مسواک کرتے تو آپ مسواک دھونے کے لیے مجھے دیتے تو میں پہلے مسواک کرتی، پھر اس کی دھوتی اور آپ ﷺ کو لوٹا لوٹا دیتی۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Washing the miswak

Hadith number: 168

Translation:

(168) It is narrated from Umm Al-Mu'minin Ayesha (may Allah be pleased with her) when the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) used the miswak, he would give it to me to wash the miswak, I would first use the miswak, then wash it and return it to him. [Hasan (Fair). Narrated by Abu Dawud 52]

Sunan Kubra Bayhaqi 169

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ (١٧٠)
بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ زِيَادٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ -
وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ أَخْبَرَنِي (ح)

إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيِّ حَدَّثَنَا جَدِّي
 قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ
 بِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ -
 فَذَكَرَتْ قِصَّةً فِي مَرَضِهِ وَفِيهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
 أَبِي بَكْرٍ وَمَعَهُ سِوَاكٌ يَسْتَنْ بِهِ فَنظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - فَقُلْتُ
 لَهُ: أَعْطِنِي بِذَا السِّوَاكِ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ، فَأَعْطَانِيهِ فَقَضَيْتُهُ ثُمَّ
 طَيَّبْتُهُ، فَأَعْطَيْتُهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - فَاسْتَنْ وَهُوَ مُسْتَنْدٌ إِلَى صَدْرِي -
 ﷺ -

وَفِي حَدِيثِ أَبِي زَكَرِيَّا عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
 أَبِي بَكْرٍ فَذَكَرَهُ.
 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: دوسروں کی مسواک کرنا
 حدیث نمبر: 169

ترجمہ:

(۱۷۰) ام المومنین سیدہ عائشہؓ نے رسول اللہ ﷺ کی بیماری کا
 قصہ بیان کیا، آپ فرماتی ہیں کہ عبد الرحمن بن

ابوبکر داخل ہوئے، ان کے پاس مسواک تھی جو وہ کر رہے تھے، رسول اللہ ﷺ نے ان کی طرف دیکھا، میں نے ان سے کہا: اے عبدالرحمن! یہ مسواک مجھے دے دو تو انہوں نے (وہ مسواک) مجھے دے دی، پھر میں نے اس کو چبایا پھر اس کو دھویا اس کے بعد میں نے (وہ مسواک) (رسول اللہ ﷺ کو دے دی۔ آپ ﷺ نے مسواک کی اور آپ ﷺ میرے سینے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Using a Miswak which Belongs to Someone Else

Hadith number: 169

Translation:

(169) Umm Al-Mumineen Ayesha (may Allah be pleased with her) mentioned the story of the illness of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him). She says that Abdur-Rahman bin Abi Bakr came

holding a miswak with which he was cleaning his teeth. Allah's Messenger (peace and blessings of Allah be upon him) looked at him. I said to him: O Abdul Rahman! Give me this miswak, then he gave it to me, then I chewed it, then washed it, then I gave it (the miswak) to the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him). He used the miswak and leaned against my chest.

[Sahih. Narrated by Bukhari 890, 4438, 4450, 4451]

Sunan Kubra Bayhaqi 170

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ (١٧١)
عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرَبِيُّ
حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ - قَالَ)) : أُرَانِي أَتَسَوَّكُ فَجَانَنِي رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ
: مِنَ الْآخِرِ ، فَنَاولْتُ السِّوَاكَ الْأَصْغَرَ مِنْهُمَا ، فَقِيلَ لِي
كَبِّرْ فَدَفَعْتُهُ إِلَى الْأَكْبَرِ ((-))
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ قَالَ وَقَالَ عَفَّانُ فَذَكَرَهُ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: بڑے کو مسواک دینا
حدیث نمبر: 170

ترجمہ:

(١٧١) (سیدنا ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے مجھ کو

مسواک کرتے ہوئے دیکھا، اس کے بعد میرے پاس دو شخص آئے ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا تھا، میں نے ان میں سے چھوٹے کو مسواک دے دی۔ مجھے کہا گیا: بڑے کو دیں، پھر میں نے بڑے کو دے دی۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Giving Miswak to Elders

Hadith number: 170

Translation:

(170) It is narrated from Ibn Umar (may Allah be pleased with him) that (he dreamt that) the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) saw me using the miswak and two people came to me. One of them was older than the other and I gave the miswak to the younger. I was told that I should give it to the older and so I did.

[Sahih. Narrated by Bukhari 246 and Muslim 2271, 3003]

Sunan Kubra Bayhaqi 171

Arabic Translation:

:أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ (١٧٢)
الْقَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السِّيَّارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُؤَجَّهِ أَخْبَرَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا
عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - وَهُوَ يَسْتَنُّ ، فَأَعْطَاهُ أَكْبَرَ
الْقَوْمِ ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ جِبْرِيلَ أَمَرَنِي أَنْ أُكَبِّرَ)) (-).

اسْتَشْهَدَ الْبُخَارِيُّ بِهَذِهِ الرَّوَايَةِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: بڑے کو مسواک دینا
حدیث نمبر: 171

:ترجمہ

(۱۷۲) (سیدنا ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو مسواک کرتے ہوئے دیکھا، پھر آپ ﷺ نے وہ قوم میں سے بڑے کو دی اور فرمایا " :جبرائیل (علیہ السلام) نے مجھ کو مسواک بڑے کو دینے کا حکم دیا۔"

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Giving Miswak to Elders

Hadith number: 171

Translation:

(171) Ibn 'Umar (may Allah be pleased with him) said: I saw the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) using the miswak, then he gave it to the eldest of the people and said: "Jibreel (AS) ordered me to give the miswak to the older one."

[Daif (Weak). Narrated by Ahmad 2/138]

Sunan Kubra Bayhaqi 172

Arabic Translation:

وَقَدْ رُوِيَ فِي الْإِسْتِيَاكِ عَرْضًا حَدِيثٌ لَا أُحْتَجُّ بِمِثْلِهِ (١٧٣)
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصُّوفِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ
بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى
بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا الْيَمَانُ بْنُ عَدِيٍّ أَبُو عَدِيٍّ الْحِمَاصِيُّ حَدَّثَنَا
ثُبَيْتُ بْنُ كَثِيرٍ الضَّبِّيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ عَنْ بَهْزٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - كَذَا فِي بَدِئِ الرِّوَايَةِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: چوڑائی میں مسواک کرنا
حدیث نمبر: 172

ترجمہ:

(١٧٣) (چوڑائی کے بل مسواک کرنے کی حدیث بیان کی گئی ہے میں اس جیسی حدیث سے دلیل نہیں لیتا۔ بہز بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اس طرح چوڑائی میں مسواک کرتے تھے، اس روایت میں اسی طرح ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Using Miswak Across (the Mouth)

Hadith number: 172

Translation:

(172) The hadeeth of using miswak across the mouth (side to side) has been narrated.

Bahz narrates that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) used to use the miswak on his teeth across (the teeth).

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 173

Arabic Translation:

وَأَخْبَرَنَا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ (١٧٤)
عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيَّ بِالْكُوفَةِ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ
بْنِ الْحَسَنِ الرَّازِيَّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْكِنْدِيُّ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ رَبِيعَةَ الْقُرَشِيُّ الْمَدَنِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَكْثَمَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -
ﷺ - يَسْتَاكُ عَرَضًا وَيَشْرَبُ مَصًّا وَيَقُولُ ((: يُؤْ أُنْبَأُ وَأَمْرًا
وَأَبْرًا)) -

لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ أَكْثَمَ -

وَزَادَ فِي حَدِيثِ بَهْرٍ وَيَتَنَفَّسُ ثَلَاثًا وَيَقُولُ: يُؤْ أُنْبَأُ وَأَمْرًا وَأَبْرًا
وَإِنَّمَا يُعْرَفُ بَهْرٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، ذَكَرَهُ ابْنُ مَنِيْعٍ وَابْنُ مَنْدَهَ فَأَمَّا
رَبِيعَةُ بْنُ أَكْثَمَ فَإِنَّهُ اسْتَشْهَدَ بِخَيْرٍ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: چوڑائی میں مسواک کرنا

حدیث نمبر: 173

ترجمہ:

(۱۷۴) (الف) (سیدنا ربیعہ بن اکثم سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ چوڑائی کے بل مسواک کرتے تھے اور اس کو چوس کر پیتے تھے اور فرماتے تھے: یہ زیادہ ہضم کرنے والا ہے حد مزے دار اور شفا یاب ہے۔

(ب) (اور بہز کی روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ تین سانس لیتے تھے اور فرماتے تھے: یہ زیادہ ہضم کرنے والا اور بے حد مزے دار اور زیادہ شفا یاب ہے۔
(ب) (سیدنا ربیعہ بن اکثم غزوہ خیبر میں شریک ہوئے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Using Miswak Across (the Mouth)

Hadith number: 173

Translation:

(173) (a) It is narrated from Rabiah ibn Aktham that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) used to use

the miswak across his teeth (side to side) and chew it and say: It is more digestible, more delicious and healing.

(B) And in the narration of Bahz there are additional words that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) used to take three breaths and say: It is more digestible and more delicious and more healing.

(C) Syeduna Rabiah ibn Aktham participated in the battle of Khaybar.

[Daif (Weak). Narrated by Al-Aqili in As-Safa 3/229]

Sunan Kubra Bayhaqi 174

Arabic Translation:

وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَّاسِيلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ (١٧٥)
بُشَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ الْقُرَشِيِّ عَنْ عَطَائِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((إِذَا شَرِبْتُمْ فَاشْرَبُوا مَصًّا وَإِذَا اسْتَكْتُمُ
فَاسْتَكُّوا عَرْضًا)) (- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ
الْفَسَوِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ اللُّؤْلُؤِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ فَذَكَرَهُ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: چوڑائی میں مسواک کرنا
حدیث نمبر: 174

:ترجمہ

(١٧٥) (عطاء بن ابی رباح سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا " :جب تم پیو تو اچھی طرح پیو اور جب تم مسواک کرو تو چوڑائی کے بل مسواک کرو۔"

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Using Miswak Across (the Mouth)

Hadith number: 174

Translation:

(174) It is narrated on the authority of Ata ibn Abi Rabah (may Allah have mercy on him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: "When you drink, drink well, and when you use the miswak, then use it across (the mouth)."

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 175

Arabic Translation:

وَقَدْ رُوِيَ فِي الْإِسْتِيَاكِ بِالْأَصَابِعِ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ.
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ (١٧٦)
حَدَّثَنَا السَّاجِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ
شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الْحَكَمِ الْقَسْمَلِيِّ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَ
((تَجْزِي مِنْ السِّوَاكِ الْأَصَابِعُ)) -
(ج) أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ
حَمَّادٍ يَقُولُ قَالَ الْبُخَارِيُّ : عَبْدُ الْحَكَمِ الْقَسْمَلِيُّ الْبَصْرِيُّ عَنْ أَنَسٍ
وَعَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ -
قَالَ الشَّيْخُ وَقَدْ رَوَاهُ عَيْسَى بْنُ شُعَيْبٍ بِإِسْنَادٍ آخَرَ عَنْ أَنَسٍ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: انگلیوں کے ساتھ مسواک کرنا

حدیث نمبر: 175

ترجمہ:

" (: ۱۷۶) (سیدنا انسؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا

انگلیاں مسواک کی جگہ پر کفایت کر جاتی ہیں۔

(ب (امام بخاری) رح (فرماتے ہیں: عبدالحکم تسملی بصری

جو حضرت انس اور حضرت ابوبکر صدیقؓ سے روایات بیان

کرتا ہے "منکر الحدیث" ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Brushing the teeth with fingers

Hadith number: 175

Translation:

(175) It is narrated from Syeduna Anas (may Allah be pleased with him) he said: "Fingers are sufficient in place of miswak."

(B) Imam Bukhari (may Allah have mercy on him): Abdul Hakam Tasmali Basri who narrates narrations from Hazrat Anas and Hazrat Abu Bakr Siddiq (may Allah be pleased with them) is “Munkar Hadith”.

[Daif (Weak). Narrated by Ibn Adi in al-Kamil 5/334]

Sunan Kubra Bayhaqi 176

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ أَنْبَرَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ (١٧٧)
حَدَّثَنِي أَبُو الضَّحَّاكِ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ النَّبِيلِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
مُوسَى حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى عَنِ النَّضْرِ بْنِ
أَنْسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((: تَجْزِي مِنَ السِّوَاكِ
الْأَصَابِعُ))-.
تَابِعَهُمَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ عَنْ عِيسَى بْنِ شُعَيْبٍ (ت)
تَفَرَّدَ بِهِ عِيسَى بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: انگلیوں کے ساتھ مسواک کرنا
حدیث نمبر: 176

ترجمہ:

(١٧٧) (نصر بن انس اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول

اللہ ﷺ نے فرمایا " :انگلیاں مسواک کی جگہ پر کفایت کر جاتی ہیں۔"

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Brushing the teeth with fingers

Hadith number: 176

Translation:

(176) Nasr ibn Anas narrates from his father that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "Fingers are sufficient in place of a miswak."

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 177

Arabic Translation:

:أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ إِجَازَةً حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ (١٧٨)
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ صَادِرِ الْمَدَائِنِيِّ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ شُعَيْبٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((: تُجْزَى الْأَصَابِعُ مَجْزَى السِّوَاكِ)) (-).
كَذًا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِي مُوسَى بْنِ شُعَيْبٍ. وَالْمَحْفُوظُ مِنْ حَدِيثِ
:ابْنِ الْمُثَنَّى مَا

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى
كتاب: پاکی کا بیان
باب: انگلیوں کے ساتھ مسواک کرنا
حدیث نمبر: 177

ترجمہ:

(۱۷۸) حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " :انگلیاں مسواک کی جگہ پر کفایت کر جاتی ہیں۔"

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Brushing the teeth with fingers

Hadith number: 177

Translation:

(177) It is narrated from Hazrat Anas bin Malik (may Allah be pleased with him) the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "Fingers are sufficient in place of a miswak."

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 178

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ (١٧٩)
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ صَالِحٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَهْلِ بَيْتِي
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي
، عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ رَغَبْتَنَا فِي السِّوَاكِ
فَهَلْ دُونَ ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَ: ((إِصْبَعَاكَ سِوَاكَ عِنْدَ وُضُوئِكَ
تُمْرُهُمَا عَلَى أَسْنَانِكَ ، إِنَّهُ لَا عَمَلَ لِمَنْ لَا نِيَّةَ لَهُ ، وَلَا أَجْرَ لِمَنْ
لَا حِسْبَةَ لَهُ)).-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: انگلیوں کے ساتھ مسواک کرنا

حدیث نمبر: 178

ترجمہ:

(۱۷۹) حضرت انس بن مالک رض سے روایت ہے کہ انصار کا ایک شخص جو بنی عمرو بن عوف کے قبیلے کا تھا، اس نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! بلاشبہ آپ نے ہمیں مسواک کی بڑی ترغیب دلائی ہے، کیا اس کا بدل کوئی اور چیز ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا "تیری انگلیاں وضو کے وقت مسواک ہیں، ان دونوں کو اپنے دانتوں پر ملو، بیشک اس شخص کا کوئی عمل (قبول نہیں جس کی نیت نہیں اور اس کے لیے کوئی اجر نہیں جو اللہ تعالیٰ سے اجر کی توقع نہ رکھے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Brushing the teeth with fingers

Hadith number: 178

Translation:

(178) It is narrated from Hazrat Anas bin Malik (may Allah be pleased with him) a man of Ansar who belonged to the tribe of Bani Amr bin Awf said: O Messenger of Allah! Of course you have encouraged us to use a miswak, is there anything else to replace it? The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: “Your fingers are your miswak at the time of ablution. Rub them both on your teeth. Surely there is no deed (accepted) for him who has no intention and there is no reward for him who does not expect a reward from Allah.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 179

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا الْأُسْتَاذُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي نَصْرِ الصَّابُونِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو (١٨٠)
مُحَمَّدٍ: الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَخْلَدِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمْدُونَ بْنِ خَالِدِ
حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرْسُوسِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْحَمَّالُ حَدَّثَنَا
:-عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ ثَمَامَةَ عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -
((الإصْبَعُ تُجْزَى مِنْ السِّوَاكِ))-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى
کتاب: پاکی کا بیان
باب: انگلیوں کے ساتھ مسواک کرنا

حدیث نمبر: 179

ترجمہ:

(۱۸۰) حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " انگلی مسواک کی جگہ کفایت کر جاتی ہیں۔"

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Brushing the teeth with fingers

Hadith number: 179

Translation:

(179) It is narrated from Hazrat Anas (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "Fingers are sufficient in place of a miswak."

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 180

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمُوشِ الْفَقِيهِ أَخْبَرَنَا (١٨١)
أَبُو طَاهِرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُحَمَّدَابَادِيُّ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ
سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ الثَّوْرِيِّ حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ
وَقَّاصِ اللَّيْثِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - يَقُولُ)) : إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا
لِأَمْرٍ مَّا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ بِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى
اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ بِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ
يَتَزَوَّجُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ)) .-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: طہارت حکمیہ میں نیت کرنا

حدیث نمبر: 180

:ترجمہ

(۱۸۱) (سیدنا عمر بن خطاب ^{رض} سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور آدمی کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے نیت کی، پس جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف تھی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے کہ اس کو حاصل کرے گا یا عورت کی وجہ سے ہے کہ اس سے شادی کرے گا تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Making the Intention to purify

Hadith number: 180

Translation:

(180) It is narrated on the authority of Umar ibn al-Khattab (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: "The reward of deeds depend upon the intentions and every person will get the reward according to what he has intended. So whoever emigrated for worldly benefits or for a woman to marry, his emigration was for what he emigrated for."

[Sahih. Narrated by Bukhari 1, 54, 2529, 3898, 5070, 6689, 6953 and Muslim 1907 and Nasai 75, 3467, 3825 and Abu Dawud 2201 and Tirmidhi 1647 and Ibn Majah 4227 and Ahmad 1/25, 43]

Sunan Kubra Bayhaqi 181

Arabic Translation:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (١٨٢)
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيَى حَدَّثَنَا
أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ فَذَكَرَهُ
بِمِثْلِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ.
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنِ الثَّوْرِيِّ
وَعَنْ مُسَدَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى
كتاب: پاکی کا بیان
باب: طہارت حکمیہ میں نیت کرنا

حدیث نمبر: 181

ترجمہ:

(۱۸۲) آپ ﷺ نے فرمایا " اے لوگو! بیشک اعمال کا دارو مدار نیتوں پر ہے۔"

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Making the Intention to purify

Hadith number: 181

Translation:

(181) He said: "O people! Indeed, deeds are dependent upon intentions."

[Sahih. Narrated by al-Tayalisi 37]

Sunan Kubra Bayhaqi 182

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ: الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو (١٨٣)
بَكْرُ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى
عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: ((لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ
اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ)) (-).

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: طہارت حکمیہ میں نیت کرنا
حدیث نمبر: 182

ترجمہ:

(۱۸۲) (سیدنا ابوہریرہ ^{رض} سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " :اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے وضو نہیں کیا اور اس شخص کا وضو نہیں ہوتا جس نے اللہ کا نام نہ لیا " (یعنی بسم اللہ نہیں پڑھی۔)

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Making the Intention to purify

Hadith number: 182

Translation:

(182) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "The prayer of a person who has not performed ablution is not valid and the ablution of a person who has not recited the name of Allah (i.e did not recite Bismillah) is not valid."

[Hasan (Fair). Narrated by Abu Dawud 101
and Tirmidhi 25 and Ibn Majah 398 and
Ahmad 4/70, 5/381, 382, 6/382]

Sunan Kubra Bayhaqi 183

Arabic Translation:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا (۱۸۴)
أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنِ الدَّرَّاورِدِيِّ قَالَ
وَذَكَرَ رَبِيعَةَ أَنَّ تَفْسِيرَ حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ ((: لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ
يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ)) (أَنَّهُ الَّذِي يَتَوَضَّأُ وَيَغْتَسِلُ وَلَا يَنْوِي
وُضُوءًا لِلصَّلَاةِ وَلَا غُسْلًا لِلْجَنَابَةِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: طہارت حکمیہ میں نیت کرنا
حدیث نمبر: 183

ترجمہ:

(۱۸۴) حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس شخص کا وضو نہیں ہوتا جس نے اللہ کا نام نہ لیا، اس سے مراد وہ شخص ہے جو وضو یا غسل کرے لیکن وضو میں نماز کی اور غسل میں پاکی کی نیت نہ کرے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Making the Intention to purify

Hadith number: 183

Translation:

(183) It is narrated on the authority of Rabi'ah explaining the tradition of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) that the ablution of a person who does not mention the name of Allah is not valid: This tradition means that if a person performs ablution and takes a bath but does not have the intention to perform ablution for prayer and purify himself from sexual defilement, his ablution or bath is not valid.

[Sahih. Narrated by Abu Dawud 102]

Sunan Kubra Bayhaqi 184

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ (١٨٥)
الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ
بْنِ زِيَادِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرَبِيُّ حَدَّثَنَا عَفَّانُ
حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَامٍ عَنْ
جَدِّهِ مَمْطُورٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ
(يَقُولُ) ((: الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمْلَأُ الْمِيزَانَ
(، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ ، وَالْقُرْآنُ
حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُو فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ
مُؤَبِّقُهَا)) (-)

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ

حَبَّانَ بْنِ بِلَالٍ عَنِ أَبَانَ بْنِ يَزِيدَ الْعَطَّارِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: طہارت کی فرضیت اور ایمان میں اس کا مقام و مرتبہ

حدیث نمبر: 184

:ترجمہ

(۱۸۵) (سیدنا ابو مالک اشعریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا کرتے تھے " :صفائی نصف ایمان ہے اور الحمد للہ (کا ثواب) ترازو کو بھر دیتا ہے اور سبحان اللہ، اللہ اکبر زمین و آسمان کے درمیان کو بھر دیتے ہیں اور روزہ ڈھال ہے، صبر روشنی ہے، صدقہ دلیل ہے اور قرآن یا تیرے لیے حجت ہوگا یا تیرے خلاف۔ ہر انسان اپنے نفس کا سودا کرتا ہے یا اس کو آزاد کر دیتا ہے یا ہلاک کر دیتا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The Obligation of Purity and Its Position in Faith

Hadith number: 184

Translation:

(184) It is narrated on the authority of Abu Malik al-Ash'ari (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) used to say: Cleaning is half of faith and (saying) Alhamdulillah (the reward) fills the scales and (saying) Subhan Allah and Allah Akbar fills what is between the earth and the sky and fasting is a shield, patience is light, charity is evidence and the Qur'an will either be an argument for you or against you, every human being trades his soul or frees it or kills it.

[Sahih. Narrated by Muslim 223 and Nasai 2437 and Tirmidhi 3517 and Ibn Majah 280 and Ahmad 5/342, 343 and Darimi 679]

Sunan Kubra Bayhaqi 185

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ (١٨٦)
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ فَذَكَرَهُ
بِإِسْنَادِهِ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((-)) : الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ ((-))
وَجَعَلَ بَدَلَ)) : اللَّهُ أَكْبَرُ ((-)) ((الْحَمْدُ لِلَّهِ)) (وَجَعَلَ مَكَانَ)) : الصَّوْمُ
جُنَّةٌ ((-)) ((الصَّلَاةُ نُورٌ)) ((-))

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: طہارت کی فرضیت اور ایمان میں اس کا مقام و مرتبہ

حدیث نمبر: 185

ترجمہ:

(۱۸۶) (رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " :صفائی نصف ایمان ہے اور الصَّوْمُ جُنَّةٌ (کی جگہ) راوی نے) (اللَّهُ أَكْبَرُ ،) (الْحَمْدُ لِلَّهِ) (اور " (الصَّلَاةُ نُورٌ) (کے الفاظ ذکر کیے ہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The Obligation of Purity and Its Position in Faith

Hadith number: 185

Translation:

(185) The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "Cleanliness is half faith, and the narrator has mentioned the words (prayer is a light) instead of

(Alhamdulillah) and (الصَّوْمُ جُنَّةٌ).

[Sahih. Narrated by Muslim 223 and Nasai 2437 and Tirmidhi 3517 and Ibn Majah 280 and Ahmad 5/342, 343 and Darimi 679]

Sunan Kubra Bayhaqi 186

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا (١٨٧)
أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَفَّانَ
الْعَامِرِيُّ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ
حَرْبٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -
ﷺ ((: لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ ، وَلَا صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ)) -
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ حُسَيْنِ
بْنِ عَلِيٍّ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاكى كا بيان

باب: نماز كے ليے وضو فرض ہے

حدیث نمبر: 186

ترجمہ:

(: ۱۸۷) سيدنا ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

اللہ تعالیٰ خیانت کے مال سے صدقہ قبول نہیں کرتا اور نہ "

" بغیر پاکیزگی کے نماز (قبول کرتا ہے)۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Ablution is obligatory for prayers

Hadith number: 186

Translation:

(186) Ibn Umar (may Allah be pleased with him) says that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said:

"Allah does not accept charity from goods

acquired by embezzlement and He does not accept prayer without purification."

[Sahih. Narrated by Muslim 224 and Nasai 138, 2524 and Abu Dawud 59 and Ibn Majah 271 and Ahmad 5/74 and Darimi 713]

Sunan Kubra Bayhaqi 187

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورِكَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ (١٨٨)
اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا
أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمَلِيحِ
الْهَذَلِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - فِي بَيْتِ
فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ ((: إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ صَلَاةً مِنْ غَيْرِ طُهُورٍ ، وَلَا
صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ)) -.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: نماز کے لیے وضو فرض ہے
حدیث نمبر: 187

ترجمہ:

(١٨٨) (ابو ملیح ہذلی اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ کے ساتھ گھر میں تھا، آپ نے فرمایا " :اللہ تعالیٰ بغیر پاکیزگی کے نماز قبول نہیں کرتا اور نہ ہی خیانت کے ساتھ سے صدقہ قبول کرتا ہے۔"

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Ablution is obligatory for prayers

Hadith number: 187

Translation:

(187) Abu Malih Hudhali (may Allah be pleased with him) from his father that one day I was at home with the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) he said: "Allah Almighty does not accept prayers without purity, nor does He accept charity with (money acquired through) betrayal."

[Sahih. Narrated by Ahmad 2/51]

Sunan Kubra Bayhaqi 188

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرَانَ الْعَدْلُ (١٨٩)
بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ الْبَخْتَرِيِّ
الرَّرَّازُ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ.

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ :عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيَّ إِمْلايَّ
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ بِمَكَّةَ أَخْبَرَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرِ
الْمُخَرَّمِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ سَمِعَ
سَعِيدَ بْنَ الْحُوَيْرِثِ يَقُولُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّا :عِنْدَ
النَّبِيِّ ﷺ -فَأَتَى الْخَلَاءَ ، ثُمَّ إِنَّهُ رَجَعَ فَأُتِيَ بِطَعَامٍ فَقِيلَ :يَا
رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ)) :لِمَ أُصَلِّي فَأَتَوَضَّأُ؟ ((
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ ابْنِ
عُيَيْنَةَ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: نماز کے لیے وضو فرض ہے

حدیث نمبر: 188

ترجمہ:

(۱۸۹) سیدنا ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ہم نبی ﷺ کے پاس تھے، آپ ﷺ بیت الخلاء گئے، پھر واپس آئے تو آپ کے پاس کھانے لایا گیا۔ عرض کیا گیا: اے اللہ کے رسول! کیا آپ وضو نہیں کریں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا " کس لیے؟ میں نماز پڑھوں " پڑھوں تو وضو کروں گا

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Ablution is obligatory for prayers

Hadith number: 188

Translation:

(188) It is narrated from Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) that we were with the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him). He went to the toilet, then came

back and food was brought to him. It was said: O Messenger of Allah! Won't you perform ablution? He said: "Why? If I pray, I will perform ablution."

[Sahih. Narrated by Muslim 374 and Nasai 132 and Abu Dawud 3760 and Tirmidhi 1847 and Ahmad 1/282, 359]

Sunan Kubra Bayhaqi 189

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذَبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ (١٩٠)
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -
خَرَجَ مِنَ الْخَلَائِ فَقَدِمَ إِلَيْهِ طَعَامٌ فَقَالُوا: أَلَا نَأْتِيكَ بِوَضُوءٍ؟
فَقَالَ: ((إِنَّمَا أُمِرْتُ بِالْوَضُوءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ)) -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: نماز کے لیے وضو فرض ہے
حدیث نمبر: 189

ترجمہ:

(١٩٠) (عبداللہ بن عباس^{رض} سے روایت ہے کہ رسول اللہ بیت

الخلاء سے نکلے، آپ ﷺ کے آگے کھانا پیش کیا گیا تو صحابہ کرام نے عرض کیا: کیا ہم آپ کے لیے پانی نہ لائیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا "مجھے وضو اس وقت کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب میں نماز کا ارادہ کروں۔"

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Ablution is obligatory for prayers

Hadith number: 189

Translation:

(189) It is narrated from Abdullah bin Abbas (may Allah be pleased with him) that when the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) came out of the toilet, food was offered to him and the Companions asked: Shall we not bring you water? He said: "I have been commanded to perform ablution when I intend to pray."

[Sahih. Narrated by Muslim 374 and Nasai 132 and Abu Dawud 3760 and Tirmidhi 1847

and Ahmad 1/282, 359]

Sunan Kubra Bayhaqi 190

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ : عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَشْرَانَ (١٩١)
الْعَدْلُ بِيَعْدَادَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ : إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارِ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ الرَّمَادِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتٍ وَقَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : نَظَرَ
أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - وَضُؤِيَّ ا فَلََمْ يَجِدُوا قَالَ فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -)) : يَا بُنَا ((فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - وَضَعَ يَدَهُ فِي
 نُورًا بِسْمِ اللَّهِ ((قَالَ : الْإِنَائِي الَّذِي فِيهِ الْمَاءُ ، ثُمَّ قَالَ)) : تَوَضَّ
 الْقَوْمُ يَتَوَضَّوْنَ حَتَّى َ فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَفُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ ، وَ
 تَوَضَّوْا عَنْ آخِرِهِمْ قَالَ ثَابِتٌ فَقُلْتُ لِأَنْسٍ : تَرَاهُمْ كَمَا كَانُوا؟
 قَالَ : كَانُوا نَحْوًا مِنْ سَبْعِينَ رَجُلًا . هَذَا أَصَحُّ مَا فِي التَّسْمِيَةِ .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب : پاکی کا بیان
 باب : وضو کے لیے بسم اللہ پڑھنا
 حدیث نمبر : 190

:ترجمہ

(۱۹۱) حضرت انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ صحابہ
 کرامؓ نے پانی تلاش کیا تو انہیں پانی نہ ملا۔ رسول اللہ ﷺ
 فرمایا : یہاں آؤ ! میں نے نبی ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ نے پانی
 والے برتن میں اپنا ہاتھ رکھا، پھر فرمایا " : بسم اللہ پڑھ کر
 وضو کرو "۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا پانی آپ کی
 انگلیوں کے درمیان سے نکل رہا ہے، لوگ وضو کرتے رہے
 یہاں تک آخری شخص نے وضو کر لیا۔ حضرت ثابتؓ نے
 حضرت انسؓ سے پوچھا : تم اس وقت کتنے

تھے؟ انہوں نے فرمایا: تقریباً ستر تھے۔ یہ حدیث بسم اللہ کے پڑھنے کے بارے میں سب سے زیادہ صحیح ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Reciting Bismillah for Ablution

Hadith number: 190

Translation:

(190) It is narrated from Hazrat Anas bin Malik (peace and blessings of Allah be upon him) that some of the Companions of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) were looking for (water to perform) ablution but they couldn't find it. The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: Come here! I saw the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) put his hand in the vessel of water, then said: 'Recite Bismillah and then perform ablution. The narrator says: I saw the water

coming out from between his fingers until everyone had performed ablution." Thabit said: "I said to Anas (may Allah be pleased with him): 'How many people were there?' He said: 'About seventy.'" This hadith is the most authentic about reciting Bismillah.
[Sahih. Narrated by Nasai 78]

Sunan Kubra Bayhaqi 191

Arabic Translation:

فَأَمَّا مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ (١٩٢)
بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ
الْحُبَابِ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَبِيعِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي
:-سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -
لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ ((
اسمَ اللَّهِ عَلَيْهِ)) -.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: وضو کے لیے بسم اللہ پڑھنا
حدیث نمبر: 191

ترجمہ:

(١٩٢) حضرت ابوسعید خدریؓ اپنے دادا سے نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " :اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے وضو نہ کیا اور اس شخص کا وضو نہیں ہوتا جس نے اللہ کا نام نہ لیا۔"

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Reciting Bismillah for Ablution

Hadith number: 191

Translation:

(191) Hazrat Abu Saeed Al-Khudri (may Allah be pleased with him) narrates from his grandfather that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "The prayer of a person who has not performed ablution is not valid and the ablution of a person who does not say the name of Allah is not valid."

[Hasan (Fair). Narrated by Abu Dawud 101 and Tirmidhi 25 and Ibn Majah 398 and Ahmad 4/70, 5/381, 382, 6/382]

Sunan Kubra Bayhaqi 192

Arabic Translation:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ (١٩٣)
يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا
وَبَيْبُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَزْمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ثِقَالٍ يُحَدِّثُ
قَالَ سَمِعْتُ رَبَاحَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حُوَيْطِبٍ
يَقُولُ حَدَّثَنِي جَدِّي أَنَّهَا سَمِعَتْ أَبَاهَا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ -
يَقُولُ)) : لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ
يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِي ، وَلَا يُؤْمِنُ
بِي مَنْ لَا يُحِبُّ الْأَنْصَارَ ((-).

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: وضو کے لیے بسم اللہ پڑھنا

حدیث نمبر: 192

ترجمہ:

(۱۹۳) (رباح بن عبد الرحمن بن ابی سفیان بن حویطب کہتے ہیں کہ مجھ کو میری دادی نے بیان کیا اور اس نے اپنے والد سے سنا کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا " :اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے وضو نہیں کیا اور اس شخص کا وضو نہیں ہوتا جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی اور جو مجھ پر ایمان نہیں لایا وہ اللہ پر بھی ایمان نہیں لایا اور جو انصار سے محبت نہیں کرتا وہ بھی مجھ پر ایمان نہیں لایا۔"

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Reciting Bismillah for Ablution

Hadith number: 192

Translation:

(192) Rabah ibn Abdul Rahman ibn Abi Sufyan ibn Hawitib says that my grandmother narrated it to me and she heard from her

father that I heard the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) saying: "The prayer of a person who has not performed ablution is not valid. And the ablution of a person who does not recite Bismillah is not valid and the one who does not believe in me, does not believe in Allah, and the one who does not love the Ansar, does not believe in me. "

[Hasan Li Ghayrihi (Fair due to external evidence)]

Sunan Kubra Bayhaqi 193

Arabic Translation:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ: يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا (١٩٤)
الْمِهْرَجَانِيُّ بَنِيَسَابُورَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَحْرِ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ
كُوْثَرِ الْبَرْبَهَارِيِّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ عَنْ أَبِي
ثِقَالِ الْمُرِّيِّ عَنْ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ
:حُوَيْطِبِ قَالَ حَدَّثَنِي جَدَّتِي عَنْ أَبِيهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - قَالَ
لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ))
اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَلَا يُؤْمِنُ بِى مَنْ لَا يُحِبُّ الْأَنْصَارَ ((-
أَبُو ثِقَالِ الْمُرِّيِّ يُقَالُ اسْمُهُ ثُمَامَةُ بْنُ وَايِلِ ، وَقِيلَ ثُمَامَةُ بْنُ
حُصَيْنِ ، وَجَدَّةُ رَبَاحِ بِنْتُ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو
بْنِ نَفِيلِ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاكى كا بيان

باب: وضو كے ليے بسم الله پڑھنا

حدیث نمبر: 193

:ترجمہ

(۱۹۴) رباح بن عبدالرحمن بن ابوسفیان حویطب کی دادی نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے وضو نہیں کیا اور اس شخص کا وضو نہیں ہوتا جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی اور جو انصار سے محبت نہیں کرتا وہ مجھ پر بھی ایمان نہیں لایا۔"

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Reciting Bismillah for Ablution

Hadith number: 193

Translation:

(193) Rabah ibn Abdul Rahman ibn Abu

Sufyan Hawitib's grandmother narrated from her father that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: The prayer of a person who has not performed ablution is not valid and there is no ablution for a person who does not recite Bismillah and he who does not love the Ansar does not believe in me either. "

[Hasan Li Ghayrihi (Fair due to external evidence)]

Sunan Kubra Bayhaqi 194

Arabic Translation:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ (١٩٥)
نُصَيْرِ الْخُلْدِيِّ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ بَارُونَ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ
سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْمَخْزُومِيُّ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ سَلْمَةَ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((لَا
صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ لَهُ ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ
عَلَيْهِ)) .-

(ج) (وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَالِينِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ
بْنُ عَدِيِّ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ السَّعْدِيِّ قَالَ: سِئِلَ أَحْمَدُ
بْنُ حَنْبَلٍ يَعْغِي وَهُوَ حَاضِرٌ عَنِ التَّسْمِيَةِ فِي الْوُضُوءِ فَقَالَ: لَا
، أَعْلَمُ فِيهِ حَدِيثًا ثَابِتًا أَقْوَى شَيْئٍ فِيهِ حَدِيثُ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ رَبِيعِ
وَرَبِيعِ رَجُلٌ لَيْسَ بِمَعْرُوفٍ .-

وَبَلَّغَنِي عَنْ أَبِي عَيْسَى التِّرْمِذِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ
الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثٌ أَحْسَنَ عِنْدِي

مِنْ حَدِيثِ رَبَاحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ -
 ت (قَالَ أَبُو عَيْسَى: وَرَوَى بِذَا الْحَدِيثِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ
 صَدَقَةَ مَوْلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي ثَقَالٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ
 حُوَيْطِبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - وَهُوَ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ -
 ج (قَالَ الشَّيْخُ: وَأَبُو ثَقَالٍ لَيْسَ بِالْمَعْرُوفِ -
 وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ
 اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ
 الْبُخَارِيِّ قَالَ: سَلَمَةُ اللَّيْثِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَعْنِي فِي التَّسْمِيَةِ
 لَا يُعْرَفُ لِسَلَمَةَ سَمَاعٌ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَا لِيَعْقُوبَ مِنْ أَبِيهِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: وضو کے لیے بسم اللہ پڑھنا
 حدیث نمبر: 194

ترجمہ:

(۱۹۵) (سیدنا ابوہریرہ ^{رض} سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " :اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے وضو نہیں کیا اور اس شخص کا وضو نہیں ہوتا جس نے بسم

" اللہ نہ پڑھی۔

ب (امام احمد بن حنبل) رح (سے وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: میرے علم کے مطابق ایسی کوئی حدیث ثابت نہیں جو کثیر بن زید عن ربیع ہے۔ ربیع غیر معروف شخص ہے۔

ج (امام ترمذی) رح (امام بخاری) رح (سے نقل کرتے ہیں کہ امام بخاری) رح (نے فرمایا: میرے نزدیک اس باب میں میں رباح بن عبدالرحمن والی حدیث سے زیادہ اچھی کوئی روایت نہیں۔

د (ابوبکر بن حویطب نبی ﷺ سے مرسل روایت فرماتے ہیں۔
ر (شیخ کہتے ہیں: ابو ثقال غیر معروف ہے۔
س (امام بخاری) رح (کہتے ہیں کہ لیثی والی سند جو سیدنا ابوہریرہؓ سے بسم اللہ کے بارے میں ہے۔ اس میں مسلمہ کا حضرت ابوہریرہ سے، یعقوب کا اپنے باپ سے سماع ثابت نہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Reciting Bismillah for Ablution

Hadith number: 194

Translation:

(194) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: The prayer of a person who has not performed ablution is not valid and the ablution of a person who has not said Bismillah is not valid.

(B) Imam Ahmad ibn Hanbal (may Allah have mercy on him) was asked about reciting Bismillah before ablution so he said: To the best of my knowledge, there is no proven hadith that is Katheer bin Zayd on the authority of Rabih. Rabih is an unknown person.

(C) Imam Tirmidhi (may Allah have mercy on him) narrates from Imam Bukhari (may Allah have mercy on him): In my opinion, there is no hadith more authentic in this chapter than

the hadith of Rabah bin Abdul Rahman.

(D) Abu Bakr ibn Hawitib narrates from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) in a mursal hadith.

(E) Sheikh says: Abu Thaqal is unknown.

(F) Imam Bukhari (may Allah have mercy on him) says that the Laithi chain of transmission which is related to reciting Bismillah from Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him). In it, Muslima's hearing from Hazrat Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) and Yaqub's hearing from his father is not proven. [Hasan Li Ghayrihi (Fair due to external evidence)]

Sunan Kubra Bayhaqi 195

Arabic Translation:

وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ (١٩٦)
بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا ابْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو
يَزِيدَ الظَّفَرِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ النَّجَّارِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((مَا
تَوَضَّأَ مَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَمَا صَلَّى مَنْ لَمْ يَتَوَضَّأَ)) (-)
وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا يُعْرَفُ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ -

(ج) وَكَانَ أَيُّوبُ بْنُ النَّجَّارِ يَقُولُ: لَمْ أَسْمَعْ مِنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ إِلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا حَدِيثُ: التَّقَى آدَمُ وَمُوسَى. ذَكَرَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ فِيمَا رَوَاهُ عَنْهُ ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ فَكَانَ حَدِيثُهُ هَذَا مُنْقَطِعًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: وضو کے لیے بسم اللہ پڑھنا
حدیث نمبر: 195

ترجمہ:

(۱۹۶) (سیدنا ابوہریرہ ^{رض} سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو نہیں ہوا اور جس کا وضو نہیں ہوا اس کی نماز نہیں ہوئی۔
(ب) (یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ یحییٰ بن ابوکثیر کی ابوسلمہ سے صرف اسی سند سے منقول روایت ہے۔
(ج) (ایوب بن نجار فرماتے ہیں: میں نے یحییٰ بن ابوکثیر سے صرف ایک حدیث سنی ہے، یعنی آدم (علیہ السلام) اور موسیٰ (علیہ السلام) کی ملاقات کا قصہ۔
(د) (یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ یہ روایت منقطع ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Reciting Bismillah for Ablution

Hadith number: 195

Translation:

(195) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: He who does not recite Bismillah has not performed ablution, and he who has not performed ablution has not performed salah.

(B) Yahya ibn Mu'in says that there is a narration of Yahya ibn Abu Katheer from Abu Salma only from this chain of transmission.

(C) Ayub ibn Najjar says: I have heard only one hadith from Yahya ibn Abu Katheer, that

is, the story of the meeting of Adam (AS) and Moses (AS).

(D) Yahya ibn Mu'in says that this tradition is disconnected.

[Hasan Li Ghayrihi (Fair due to external evidence). Narrated by Al-Daraqutni 1/71]

Arabic Translation:

وَقَدْ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ (١٩٧)
حَمَّادِ الْعَدْلِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ
الْمِنْهَالِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ حَدَّثَنَا
عَلِيُّ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمِّهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ: أَنَّهُ
كَانَ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي صَلَاةِ الرَّجُلِ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: ((إِنَّهَا لَا تَتِمُّ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ
، الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهِ ، يَغْسِلُ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ
وَيَمْسَحُ رَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)) (وَذَكَرَ الْحَدِيثَ -
(ق) (اِحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ فِي نَفْيِ وُجُوبِ التَّسْمِيَةِ

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى
كتاب: پاکی کا بیان
باب: وضو کے لیے بسم اللہ پڑھنا
حدیث نمبر: 196

:ترجمہ

(۱۹۷) سیدنا رفاعہ بن رافعؓ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔۔۔ انہوں نے آدمی کی نماز والی حدیث بیان کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " تم میں سے کسی کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک مکمل وضو نہ کر لے جس طرح اس کو اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی (پہلے) اپنے چہرے کو دھوئے اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک دھوئے، پھر اپنے سر کا مسح کرے اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھوئے۔"

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Reciting Bismillah for Ablution

Hadith number: 196

Translation:

(196) Syeduna Rifaa bin Rafi (may Allah be pleased with him) was sitting in the service of the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him). He narrated the hadeeth of a man praying that the Messenger

of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: The prayer of any of you is not complete until he performs ablution perfectly, as Allah, the Exalted, has ordered you. He should wash his face and hands up to the elbows, and wipe his head and (wash) his feet up to the ankles.

[Sahih. Narrated by Nasai 668, 1137 and Abu Dawud 858 and Tirmidhi 302 and Ibn Majah 460 and Ahmad 1/100, 102, 4/340 and Darimi 1368]

Sunan Kubra Bayhaqi 197

Arabic Translation:

وَبِمَا أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ (١٩٨)
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ
بْنُ مِهْرَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو زَكْرِيَّا أَبُو يَحْيَى بْنُ هَاشِمِ السِّمْسَارِ
حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - يَقُولُ ((إِذَا تَطَهَّرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرْ اسْمَ
اللَّهِ فَإِنَّهُ يَطْهَرُ جَسَدَهُ كُلَّهُ ، فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ أَحَدُكُمْ اسْمَ اللَّهِ عَلَى
طَهُورِهِ لَمْ يَطْهَرْ إِلَّا مَا مَرَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ ، فَإِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ
مِنْ طَهُورِهِ فَلْيَشْهَدْ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ
(لِيُصَلِّ عَلَيَّ ، فَإِذَا قَالَ ذَلِكَ فَتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ
وَبِذَا ضَعِيفٌ لَا أَعْلَمُهُ رَوَاهُ عَنِ الْأَعْمَشِ غَيْرُ يَحْيَى بْنِ هَاشِمٍ -
ج) (وَيَحْيَى بْنُ هَاشِمٍ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ -
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ وَجْهِ آخَرَ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: وضو کے لیے بسم اللہ پڑھنا

حدیث نمبر: 197

:ترجمہ

(۱۹۸) (سیدنا عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: جب تم میں سے کوئی وضو کرے پھر اللہ کا نام لے تو اس کا سارا جسم پاک ہو جاتا ہے اور اگر کوئی وضو کرتے ہوئے اللہ کا نام نہیں لیتا تو وہ پاک نہیں ہوتا۔ صرف اس پر پانی گزر جاتا ہے اور جب تم سے کوئی اپنی طہارت سے فارغ ہو تو وہ گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں پھر مجھ پر درود پڑھے۔ جب ایسا کرے گا تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔

(ب) (شیخ فرماتے ہیں: یہ روایت ضعیف ہے، میرے علم کے مطابق یحییٰ بن ہاشم نے ہی اعمش سے روایت کیا ہے۔

(ج) (یحییٰ بن ہاشم متروک الحدیث ہے۔

(د) (سیدنا ابن عمرؓ سے منقول روایت ایک دوسری سند کے ساتھ بھی منقول ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Reciting Bismillah for Ablution

Hadith number: 197

Translation:

(197) Abdullah bin Masud (may Allah be pleased with him) said: I heard the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) say: When one of you performs ablution and then takes the name of Allah, his whole body becomes pure. If he does not take Allah's name, he is not pure. Only water passes over him and when one of you is free from his impurity, he should testify that there is no true god but Allah and Muhammad is His servant and Messenger, then recite durood on me. When he does so, the doors of mercy will be opened for him.

(B) The Shaykh says: This narration is weak. As far as I know, it was Yahya ibn Hashim who narrated it from Aamash.

(C) The narration narrated from Ibn Umar (may Allah be pleased with him) is also narrated with another chain of transmission. [MAUDU (FABRICATED)]. Narrated by Al-Daraqutni 1/73]

Sunan Kubra Bayhaqi 198

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ أَنْ خَبَرَنَا (١٩٩)
أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّفَّارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ حَدَّثَنَا بِشَامُ بْنُ
بَهْرَامٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَكِيمٍ أَبُو بَكْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((مَنْ تَوَضَّأَ وَذَكَرَ
اسْمَ اللَّهِ عَلَى وَضُوئِهِ كَانَ طُهُورًا لِحَسَنِهِ ، وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ يَذْكُرِ
اسْمَ اللَّهِ عَلَى وَضُوئِهِ كَانَ طُهُورًا لِأَعْضَائِهِ))
وَبَذَا أَيْضًا ضَعِيفٌ .

(ج) أَبُو بَكْرٍ الدَّاهِرِيُّ غَيْرُ ثِقَةٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ .
وَرُوِيَ مِنْ وَجْهِ آخَرَ ضَعِيفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا .

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى
كتاب: پاکی کا بیان

باب: وضو کے لیے بسم اللہ پڑھنا

حدیث نمبر: 198

ترجمہ:

" (: ۱۹۹ (سیدنا ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جو شخص وضو کرے اور وضو پر اللہ کا نام لے، یعنی بسم اللہ پڑھے تو یہ وضو اس کے جسم کے لیے (مکمل) پاکیزگی ہوگی اور جس نے وضو کیا، لیکن اللہ کا نام نہ لیا، یعنی بسم اللہ نہ پڑھی تو یہ وضو صرف اس کے اعضا کے لیے پاکیزگی کا باعث ہوگا۔

ب (یہ روایت بھی پچھلی روایت کی طرح ضعیف ہے۔

ج (ابوبکر داہری محدثین کے نزدیک ناقابل اعتماد ہے۔

ر (سیدنا ابوہریرہؓ سے ایک ضعیف سند سے یہ روایت مرفوعاً منقول ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Reciting Bismillah for Ablution

Hadith number: 198

Translation:

(198) Ibn Umar (may Allah be pleased with him) said: The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: Whoever performs ablution and takes the name of Allah on ablution, that is, recites Bismillah, then his ablution will be (complete) purity for his body but if he does not take the name of Allah, that is, if he does not recite Bismillah, then this ablution will only be a cause of purity for his limbs.

(B) This narration is as weak as the previous narration.

(C) Abu Bakr Dahri is unreliable according to the muhaditheen.

(R) This narration has been narrated from Syeduna Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) with a weak chain of transmission. [Daif Jiddan (Very Weak). Narrated by Al-Daraqutni 1/74]

Sunan Kubra Bayhaqi 199

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا الْفَقِيهُ أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَارِثِيُّ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ (٢٠٠)
:بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا مِرْدَاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ
-عَائِدِ الطَّائِبِيِّ عَنْ مُجَابِدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -
: مَنْ تَوَضَّأَ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ تَطَهَّرَ جَسَدُهُ كُلُّهُ ، وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ :
يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ لَمْ يَتَطَهَّرْ إِلَّا مَوْضِعَ الْوُضُوءِ)) (-.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: وضو کے لیے بسم اللہ پڑھنا

حدیث نمبر: 199

ترجمہ:

(: ۲۰۰) سیدنا ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے وضو کیا اور اللہ کا نام لیا تو اس کا سارا جسم پاک ہو جاتا ہے اور جس نے وضو کیا اور اللہ کا نام نہ لیا تو اس کی صرف وضو والی جگہ پاک ہوتی ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Reciting Bismillah for Ablution

Hadith number: 199

Translation:

(199) Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) said: The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: "Whoever performs ablution and takes the name of Allah, his whole body becomes

pure and whoever performs ablution and does not mention the name of Allah, then only the place of ablution is pure."

[Daif Jiddan (Very Weak). Narrated by Al-Daraqutni 1/74]

Sunan Kubra Bayhaqi 200

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو (٢٠١)
الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا
الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَبُو زَيْدٍ
 أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّفَّارِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ
 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي الْقَعْنَبِيَّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ
 الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ((إِذَا اسْتَيْقَظَ
 أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ ، فَإِنَّ
 أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ)) (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ
 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مَالِكٍ ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ
 أَبِي الزِّنَادِ-

وَتَبَّتْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ وَبِمَامِ بْنِ مُنَبِّهِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ (ت)
 بِنِ يَعْقُوبَ وَثَابِتِ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
 عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - هَذَا الْحَدِيثِ دُونَ ذِكْرِ التَّكْرَارِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: ہاتھوں کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے دھونے کا
 بیان
 حدیث نمبر: 200

:ترجمہ

(۲۰۱) (سیدنا ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا " :جب کوئی شخص اپنی نیند سے بیدار ہو تو اپنے ہاتھوں کو پانی میں ڈالنے سے پہلے اچھی طرح دھو لے، اس لیے کہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے "

(ب (سیدنا ابوہریرہ ^{رض} سے یہی روایت بغیر تکرار کے بھی منقول ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The statement on washing the hands before putting them in the pot

Hadith number: 200

Translation:

(200) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "When a person wakes up from his sleep, he should wash his hands thoroughly before dipping them in water, because no one knows where his

hands were during the night."

(B) The same narration has been narrated from Syeduna Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) without any repetition.

[Sahih. Narrated by Bukhari 162 and Muslim 278 and Nasai 1, 161, 441 and Abu Dawud 103, 105 and Tirmidhi 24 and Ibn Majah 393 and Malik 2/6 and Ahmad 2/241 and Darimi 793]

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي آخِرِينَ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو (٢٠٢)
الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا
الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ.

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيِّ أَخْبَرَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((إِذَا اسْتَيْقَظَ
أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي الْإِنَائِ حَتَّى يَغْسِلَهَا
ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ)) -
رَوَاهُ مُسْلِمٌ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ
وَجَمَاعَةٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ.
وَتَبَّتْ ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمَعْنَاهُ. (ت)

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان

باب :ہاتھوں کو ایک مرتبہ سے زیادہ دھونا

حدیث نمبر : 201

:ترجمہ

(۲۰۲) (سیدنا ابوہریرہ ^{رض} سے روایت ہے کہ رسول اللہ ^{صلی اللہ علیہ وسلم} نے فرمایا " :جب تم میں سے سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو اپنے ،ہاتھوں کو برتن میں نہ ڈبوئے بلکہ ان کو تین مرتبہ دھو لے اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھوں نے رات کہاں گزاری ہے۔"

سعید بن مسیب ^{رض} نے بھی سیدنا ابوہریرہ ^{رض} سے منقول روایت اسی کے ہم معنی ذکر کی ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Washing the hands more than once

Hadith number: 201

Translation:

(201) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of

Allah be upon him) said: "When anyone amongst you wakes up from sleep, he must not put his hand in the vessel till he has washed it three times, for he does not know where his hand spent the night."

(B) Saeed ibn Musaib has also narrated the same narration from Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him).

[Sahih. Narrated by Bukhari 162 and Muslim 278 and Nasai 1, 161, 441 and Abu Dawud 103, 105 and Tirmidhi 24 and Ibn Majah 393 and Malik 2/6 and Ahmad 2/241 and Darimi 793]

Sunan Kubra Bayhaqi 202

Arabic Translation:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ (٢٠٣)
يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعُطَارِدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو
مُعَاوِيَةَ-

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوَدْبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو
دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي رَزِينِ
وَأَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((إِذَا قَامَ
أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي الْإِنْيَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ)) (-) ،
بَكَاةً قَالَ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ -
وَكَذَلِكَ قَالَهُ عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ((مَرَّتَيْنِ
أَوْ ثَلَاثًا)) (وَلَمْ يَذْكُرْ فِي إِسْنَادِهِ أَبَا رَزِينِ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: ہاتھوں کو ایک مرتبہ سے زیادہ دھونا

حدیث نمبر: 202

:ترجمہ

(۲۰۳) (الف) (سیدنا ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا " :جب تم سے کوئی رات کو اٹھے تو اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے بلکہ اس کو تین مرتبہ دھولے ، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھوں نے رات کہاں گزاری ہے۔
(ب) (ایک حدیث میں ہے جب تم میں سے کوئی رات کو اٹھے۔
(ج) (اعمش والی روایت میں دو یا تین مرتبہ کے الفاظ ہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Washing hands more than once

Hadith number: 202

Translation:

(202) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "When anyone

amongst you wakes up from sleep, he must not put his hand in the vessel till he has washed it three times, for he does not know where his hand spent the night."

(B) There is a hadith in which it says when one of you gets up at night.

(C) The words in the tradition of Aamash are "one or two times".

[Sahih. Narrated by Bukhari 162 and Muslim 278 and Nasai 1, 161, 441 and Abu Dawud 103, 105 and Tirmidhi 24 and Ibn Majah 393 and Ahmad 2/241 and Malik 2/6 and Darimi 793]

Sunan Kubra Bayhaqi 203

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذَبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ (٢٠٤)
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ فَذَكَرَهُ
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ نَحْوَ
رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ: إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ وَكَيْعُ
بْنُ الْجَرَّاحِ عَنِ الْأَعْمَشِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: ہاتھوں کو ایک مرتبہ سے زیادہ دھونا
حدیث نمبر: 203

:ترجمہ

(٢٠٤) (الف) عیسیٰ بن یونس والی رایت بھی پچھلی روایت کی
طرح ہے۔
(ب) ایک روایت میں ہے: جب تم سے کوئی نیند سے بیدار ہو۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Washing hands more than once

Hadith number: 203

Translation:

(203) (a) The narration of Isa ibn Yunus is similar to the previous narration.

(B) It is narrated in a hadith: When one of you wakes up from sleep.

[Sahih. Narrated by Abu Dawud 104]

Sunan Kubra Bayhaqi 204

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَائِرٍ الْفَقِيهُ مِنْ أَصْلِ سَمَاعٍ أَخْبَرَنَا أَبُو (٢٠٥)
بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ التَّاجِرِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ أَخْبَرَنَا وَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَأَبِي رَزِينٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ الْأَعْمَشُ رَفَعَهُ قَالَ ((إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ
مَنَامِهِ فَلَا يَغْمَسُ يَدَهُ فِي الْإِنْيَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي
أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ)) (-).
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ وَغَيْرِهِ عَنْ وَكَيْعٍ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى
كتاب: پاکی کا بیان
باب: ہاتھوں کو ایک مرتبہ سے زیادہ دھونا
حدیث نمبر: 204

:ترجمہ

(: ٢٠٥) (سیدنا ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
جب تم سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو اپنا ہاتھ "

برتن میں نہ ڈالے، بلکہ اس کو تین مرتبہ دھولے، اس لیے کہ
" وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھوں نے رات کہاں گزاری ہے۔"

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Washing hands more than once

Hadith number: 204

Translation:

(204) Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) said: The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said:

"When one of you wakes up from sleep, he must not put his hand in the vessel, but wash it three times, because he doesn't know where his hands spent the night."

[Sahih. Narrated by Bukhari 162 and Muslim 278 and Nasai 1, 161, 441 and Abu Dawud 103, 105 and Tirmidhi 24 and Ibn Majah 393 and Ahmad 2/241 and Malik 2/6 and Darimi

Sunan Kubra Bayhaqi 205

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقْرِيُّ أَخْبَرَنَا (٢٠٦)
 الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ
 الْقَاضِي حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا خَالِدُ
 :الْحَدَائِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَ
 إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامٍ فَلَا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي الْإِنَائِ حَتَّى
 يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ (-)
 رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: ہاتھوں کو ایک مرتبہ سے زیادہ دھونا

حدیث نمبر 205

ترجمہ:

" (: ۲۰۶) سیدنا ابوہریرہ ^{رض} سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا جب تم سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو وہ اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے، بلکہ اس کو تین مرتبہ دھولے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھوں نے رات کہاں گزاری ہے۔"

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Washing hands more than once

Hadith number: 205

Translation:

(205) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of

Allah be upon him) said: "When one of you wakes up from sleep, he should not put his hand in the pot, but should wash it three times, because he doesn't know where his hands spent the night?"

[Sahih. Narrated by Bukhari 162 and Muslim 278 and Nasai 1, 161, 441 and Abu Dawud 103, 105 and Tirmidhi 24 and Ibn Majah 393 and Ahmad 2/241 and Malik 2/6 and Darimi 793]

Sunan Kubra Bayhaqi 206

Arabic Translation:

وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو (٢٠٧)
إِسْحَاقَ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خَالِدِ
بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ ((: أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ مِنْهُ)) (-
قَوْلُهُ)) ((تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبُسْرِيُّ.
(ج (وَهُوَ ثِقَةٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: ہاتھوں کو ایک مرتبہ سے زیادہ دھونا
حدیث نمبر: 206

ترجمہ:

(٢٠٧) (خالد سے منقول روایت میں چند لفاظ زائد ہیں، یعنی اس
کے ہاتھوں نے کسی عضو پر رات کہاں گزاری ہے۔
(ب) محمد بن ولید بسری "منہ" کی زیادتی میں متفرد ہیں۔

(ج (وہ ثقہ راوی ہیں۔ واللہ اعلم

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Washing hands more than once

Hadith number: 206

Translation:

(206) There are a few more words in the narration narrated from Khalid, i.e where his hands have spent the night on some organ.
[Sahih. Narrated by Ibn Khuzaymah 10]

Sunan Kubra Bayhaqi 207

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذُبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ (٢٠٨)
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ السَّرْحِ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَلْمَةَ
الْمُرَادِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي
مَرْزِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ
إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَدْخُلُ يَدَهُ فِي الْإِنَائِ حَتَّى
يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيَّنَ بَاتَتْ أَوْ أَيَّنَ
كَانَتْ تَطُوفُ يَدُهُ (-).

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان

باب :ہاتھوں کو ایک مرتبہ سے زیادہ دھونا

حدیث نمبر : 207

:ترجمہ

(۲۰۸) (سیدنا ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا " :جب تم میں سے سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے بلکہ اس کو تین مرتبہ دھولے، اس لیے کہ تم میں سے سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے " رات کہاں گزاری ہے یا اس کا ہاتھ کہاں گھومتا رہا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Washing hands more than once

Hadith number: 207

Translation:

(207) Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) said: I heard the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) say: When one of you wakes up from

sleep, do not put your hand in the vessel but wash it three times, because he does not know where his hand has spent the night or where his hand went around."

[Sahih. Narrated by Bukhari 162 and Muslim 278 and Nasai 1, 161, 441 and Abu Dawud 103, 105 and Tirmidhi 24 and Ibn Majah 393 and Ahmad 2/241 and Malik 2/6 and Darimi 793]

Sunan Kubra Bayhaqi 208

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَارِثِيُّ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا (٢٠٩)
عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ
بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عَمِّي حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ وَجَابِرُ بْنُ
إِسْمَاعِيلَ الْحَضْرَمِيُّ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ
، مِنْ مَنَامِهِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَائِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيَّنَ بَاتَتْ يَدُهُ ، أَوْ أَيَّنَ طَافَتْ يَدُهُ)) (. فَقَالَ لَهُ
رَجُلٌ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ حَوْضًا؟ فَحَصَبَهُ ابْنُ عُمَرَ وَقَالَ: أَخْبِرْكَ
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - وَتَقُولُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ حَوْضًا؟ قَالَ عَلِيُّ بْنُ
عُمَرَ: إِسْنَادٌ حَسَنٌ. قَالَ الشَّيْخُ لِأَنَّ جَابِرَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ مَعَ ابْنِ
لَهَيْعَةَ فِي إِسْنَادِهِ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: ہاتھوں کو ایک مرتبہ سے زیادہ دھونا

حدیث نمبر: 208

ترجمہ:

(۲۰۹) سالم بن عبداللہ اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " :جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے، بلکہ اس کو تین مرتبہ دھولے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے یا اس کا ہاتھ کہاں گھومتا رہا ہے۔ سیدنا ابن عمرؓ سے ایک شخص نے عرض کیا: اگرچہ حوض ہی ہو؟ ابن عمرؓ نے اس کو کنکری ماری اور فرمایا: میں تجھ کو رسول اللہ ﷺ کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تو کہہ رہا ہے کہ اگرچہ حوض ہی ہو۔"

علی بن عمر کہتے ہیں کہ اس کی اسناد حسن ہیں۔ شیخ کہتے ہیں کہ جابر بن اسماعیل ابن لہیعہ کے ساتھ اس کی سند میں ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Washing hands more than once

Hadith number: 208

Translation:

(208) Salem ibn Abdullah narrates from his father that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: When one of you wakes up from sleep, do not put your hand in the vessel but wash it three times, because he does not know where his hand has spent the night or where his hand went around." A man asked Ibn Umar (may Allah be pleased with him): Even if it is a pool? Ibn Umar threw pebbles at him and said: I am narrating to you the hadith of the Messenger of Allah (peace and blessings of Allaah be upon him) and you are saying that even if it is a pool."

Ali ibn Umar says that his evidence is Hasan (Fair).

The Shaykh says that its in his chain of transmission includes Jabir ibn Isma'il, Ibn Lahiya.

[Daif (Weak). Narrated by Al-Daraqutni 1/49]

Sunan Kubra Bayhaqi 209

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ (٢١٠)
الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا آدَمُ
بْنُ أَبِي إِيَّاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا النُّعْمَانُ يَعْنِي ابْنَ سَالِمٍ قَالَ
سَمِعْتُ ابْنَ عَمْرٍو بْنَ أَوْسٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَدِّهِ -
أَوْسِ بْنِ أَبِي أَوْسٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - تَوْضِأً

فَاسْتَوَكَّفَ ثَلَاثًا.

قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِلنُّعْمَانِ: وَمَا اسْتَوَكَّفَ؟ فَقَالَ: غَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا.
قَدْ أَقَامَ آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَّاسٍ إِسْنَادَهُ وَاخْتَلَفَ فِيهِ عَلَى شُعْبَةَ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: ہاتھوں کو ایک مرتبہ سے زیادہ دھونا

حدیث نمبر: 209

:ترجمہ

(الف) اوس بن ابی اوس^{رض} فرماتے ہیں کہ میں نے (۲۱۰) رسول اللہ ﷺ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ ﷺ نے تین ہتھیلیاں بھریں۔

(ب) شعبہ کہتے ہیں: میں نے نعمان سے پوچھا: ہتھیلیاں بھرنے سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا: آپ ﷺ نے اپنی ہتھیلیوں کو تین مرتبہ دھویا۔

(ج) آدم بن ابو ایاس نے اس کی سند کو قوی قرار دیا ہے، اس کی سند میں صرف شعبہ پر اختلاف ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Washing hands more than once

Hadith number: 209

Translation:

(209) (a) Aws ibn Abi Aws (may Allah be pleased with him) says that I saw the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) performing ablution and he filled three palms.

(B) Shubha says: I asked Nauman: What is meant by filling the palms? He said: The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) washed his palms three times.

(C) Adam ibn Abu Ayyas has declared its chain of transmission to be strong. The only difference of opinion in this chain of transmission is on Shubha.

[Hasan (Fair). Narrated by Ahmad 4/9]

Sunan Kubra Bayhaqi 210

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدِ أَنْ خَبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ مُحَمَّدٍ (٢١١)
الْعَسْكَرِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ
عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - فَأَمَرَ لَهُ بِوَضُوءٍ
فَقَالَ: تَوَضَّأْ يَا أَبَا جُبَيْرٍ فَبَدَأَ أَبُو جُبَيْرٍ بِفِيهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: ((لَا تَبْدَأُ بِفِيكَ يَا أَبَا جُبَيْرٍ

فَإِنَّ الْكَافِرَ يَبْدَأُ بِفِيهِ ((ثُمَّ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - بِوَضُوءٍ فَعَسَلَ كَفِّيهِ حَتَّى أَنْقَابَهَا ، ثُمَّ تَمَضَّمَصَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا وَالْيُسْرَى ثَلَاثًا ، وَمَسَحَ رَأْسَهُ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: ہاتھوں کو ایک مرتبہ سے زیادہ دھونا

حدیث نمبر: 210

ترجمہ:

(۲۱۱) (جبیر بن نفیر اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے نقل فرماتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کے پاس آئے۔ آپ ﷺ نے انہیں پانی لانے کا حکم دیا اور فرمایا " : ابو جبیر! وضو کرو، انہوں نے اپنے منہ سے شروع کیا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " : ابو جبیر! منہ سے شروع نہ کرو، اس لیے کہ کافر بھی اپنے منہ سے شروع کرتا ہے۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے پانی منگوا یا اور اپنی ہتھیلیوں کو دھو کر صاف کیا، پھر کلی کی اور ناک میں تین مرتبہ پانی چڑھایا اور تین مرتبہ اپنے چہرے کو دھویا اور تین مرتبہ اپنے دائیں ہاتھ کو

کہنیوں سمیت دھویا اور بائیں بازو کو بھی تین مرتبہ دھویا اور اپنے سر کا مسح کیا، پھر اپنے پاؤں کو دھویا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Washing hands more than once

Hadith number: 210

Translation:

(210) Jabir ibn Nafir narrates from his father and he narrates from his grandfather that he came to the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him). He ordered them to fetch water and said: "Abu Jubayr! Perform ablution." He started with his mouth. The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: "Abu Jubayr! Don't start with your mouth, because even a disbeliever starts with his mouth." Then the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) asked for water and

washed his palms, then he rinsed his mouth and put water in his nose three times, washed his face three times and washed his right hand including the elbows three times and his left arm three times. Wiped his head (with wet hands), then washed his feet.

[Sahih. Narrated by Ibn Hibban 1089]

Sunan Kubra Bayhaqi 211

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ (٢١٢)
بْنِ هَانِيٍّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْدَلَانِيُّ حَدَّثَنَا سَلْمَةُ بْنُ شَيْبٍ
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ
اللَّهِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ
ﷺ قَالَ ((إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْرِغْ عَلَى يَدِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ -
أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِي إِيَّائِهِ ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِيْمَ بَاتَتْ يَدُهُ)) (رَوَاهُ
مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ شَيْبٍ -
وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ :فَلْيُفْرِغْ (ت)
عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْمَائِ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان
باب: ہاتھو دھونے کا طریقہ
حدیث نمبر 211

ترجمہ:

(الف) (سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ (٢١٢)

نے فرمایا " :جب تم سے کوئی بیدار ہو تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ان پر تین مرتبہ پانی ڈالے، اس لیے کہ اس کو کیا معلوم کہ اس کے ہاتھ نے رات کیسے گزاری ہے۔
(ب) (سیدنا ابوہریرہؓ سے) ایک دوسری (روایت میں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ پر پانی بہائے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: How to wash your hands

Hadith number: 211

Translation:

(211) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: When someone gets up from sleep, before putting his hand in the utensil, he should wash them three times because he does not know how his hand has spent the night.

(B) It is narrated from Abu Hurayrah (may

Allah be pleased with him) (in another narration) that he should pour water on his hand.

[Sahih. Narrated by Bukhari 162 and Muslim 278 and Nasai 1, 161, 441 and Abu Dawud 103, 105 and Tirmidhi 24 and Ibn Majah 393 and Ahmad 2/241 and Malik 2/6 and Darimi 793]

Sunan Kubra Bayhaqi 212

Arabic Translation:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ أَنْ خَبَرَنَا (٢١٣)
أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّقَّارِ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ حَدَّثَنَا
أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَاقِمَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ
عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّى عَلِيُّ الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ الرَّحْبَةَ
وَدَخَلْنَا مَعَهُ فَدَعَا بِوَضُوءٍ، فَأَتَاهُ الْغُلَامُ بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ
وَوَطَّئْتِ، فَأَخَذَ الْإِنَاءَ بِيَمِينِهِ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ
غَسَلَهُمَا جَمِيعًا، ثُمَّ أَخَذَ الْإِنَاءَ بِيَمِينِهِ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى
فَغَسَلَهُمَا جَمِيعًا، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي
الْإِنَاءِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِي آخِرِهِ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ
إِلَى وَضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - فَهَذَا كَانَ طُهُورُهُ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
کتاب: پاکی کا بیان
باب: ہاتھو دھونے کا طریقہ
حدیث نمبر: 212

:ترجمہ

(۲۱۳) (سیدنا علیؓ سے روایت ہے کہ سیدنا علیؓ نے فجر کی نماز پڑھی، پھر آپ کھلی جگہ تشریف لے گئے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہوئے، آپ نے پانی منگوا یا تو ایک بچہ پانی والا برتن لے کر آیا۔ اس کے بعد سیدنا علیؓ نے برتن کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑا اور بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا، پھر ان دونوں کو اکٹھا دھویا، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے برتن پکڑا اور بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا۔ پھر ان دونوں کو اکٹھا دھویا اور اپنی ہتھیلیوں ہتھیلیوں کو برتن میں ڈالنے سے پہلے تین مرتبہ دھویا۔۔۔ اس کے آخر میں ہے کہ آپؓ نے فرمایا: جس شخص کو اچھا لگتا ہو کہ وہ رسول اللہ کا وضو دیکھے تو یہ آپ ﷺ کا وضو ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: How to wash your hands

Hadith number: 212

Translation:

(212) It is narrated from Syedna Ali (may Allah be pleased with him) that he offered

Fajr prayer, then he went to an open place, we also went with him. When he asked for water, a child brought a pot of water. Then Ali (may Allah have mercy on him) grabbed the vessel with his right hand and poured water on his left hand, then washed the two together and washed his palms three times before putting them in the pot.....At the end of it, he said: Whoever likes to see the ablution of the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him), then this is his ablution. [Sahih. Narrated by Nasai 91-94, Abu Dawud 111 and Tirmidhi 48 and Ahmad 1/122 and Darimi 728]

Sunan Kubra Bayhaqi 213

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوَدْبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ (٢١٤)
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيسَى
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ
عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ: أَنَّ عُثْمَانَ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ فَأَفْرَغَ
بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى ثُمَّ غَسَلَهُمَا إِلَى الْكُوعَيْنِ قَالَ ثُمَّ
مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ثُمَّ ذَكَرَ الْوُضُوءَ ثَلَاثًا قَالَ وَمَسَحَ
بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ -تَوَضَّأَ مِثْلَمَا
رَأَيْتُمُونِي تَوَضَّأْتُ- وَسَاقَ الْحَدِيثَ.
قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا الْغَسْلُ عِنْدَنَا سُنَّةٌ وَاخْتِيَارٌ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، وَبِهِ (ق)
قَالَ عَطَائُ وَابْنُ سِيرِينَ وَأَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
کتاب: پاکی کا بیان

باب :ہاتھو دھونے کا طریقہ

حدیث نمبر : 213

:ترجمہ

(۲۱۴) (سیدنا عثمانؓ نے پانی منگوا یا اور وضو کیا آپ نے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا، پھر ان دونوں کو گھٹنوں تک دھویا۔ پھر کلی کی اور ناک میں تین مرتبہ پانی چڑھایا، پھر وضو میں تین مرتبہ اعضاء دھونے کا ذکر کیا۔ پھر اپنے سر کا مسح کیا اور اپنے پاؤں کو دھویا۔ میں نے رسول اللہ ﷺ کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے جس طرح تم نے مجھے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

شیخ فرماتے ہیں : اعضاء کو اس طرح دھونا سنت یا مستحب ہے واجب نہیں ہے۔ یہی موقف عطائ، ابن سیرین اور اصحابِ عبداللہ بن مسعودؓ کا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: How to wash your hands

Hadith number: 213

Translation:

(213) Usman Ibn Affan (may Allah be pleased with him) asked for water and performed ablution. He poured water on his left hand with his right hand, then washed them both up to his wrists. Then he rinsed his mouth and put water in his nose three times, then (the narrator) mentioned washing his limbs three times in ablution. Then he wiped his head and washed his feet. Then Uthman said: "I have seen the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) performing ablution in the same way as you have seen me performing ablution."

The Sheikh says: It is Sunnah or Mustahabb (recommended) to wash the limbs in this way. It is not obligatory. This is the position of Ata, Ibn Sirin and the companions of Abdullah bin Masud (may Allah have mercy on them).
[Hasan (Fair). Narrated by Abu Dawud 109]

Sunan Kubra Bayhaqi 214

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ السُّلَمِيُّ (٢١٥)
حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ قَالَ
أَبُو عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي بُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ قَالَ ((إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ النَّوْمِ
فَلْيُفْرِغْ عَلَى يَدَيْهِ الْمَاءَ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا الْإِنَائِ)) (-
قَالَ فَقَالَ لَهُ قَيْسُ الْأَشْجَعِيُّ: فَإِذَا جِئْنَا مِهْرَاسَكُمْ هَذَا فَكَيْفَ نَصْنَعُ
بِهِ؟ فَقَالَ أَبُو بُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّكَ-
قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: الْمِهْرَاسُ حَجْرٌ مَنْقُورٌ مُسْتَطِيلٌ (غ)
عَظِيمٌ كَالْحَوْضِ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ النَّاسُ ، لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ عَلَى تَحْرِيكِهِ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى
كتاب: پاكى كا بيان
باب: ہاتھو دھونے كا طريقہ
حدیث نمبر: 214

:ترجمہ

(: ۲۱۵) حضرت ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا
جب تم میں سے کوئی نیند سے اٹھے تو اپنے ہاتھوں کو برتن
میں داخل کرنے سے پہلے ان پر پانی بہا لے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: How to wash your hands

Hadith number: 214

Translation:

(214) It is narrated from Hazrat Abu Hurayrah
(may Allah have mercy on him) that

the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said: When one of you wakes up, (he should) pour water on his hands before putting them in the pot.

[Hasan (Fair). Narrated by Abu Ya'la in his Musnad 5863]

Sunan Kubra Bayhaqi 215

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بَشْرَانَ بِبَعْدَادَ أَخْبَرَنَا أَبُو (٢١٦)
الْحَسَنَ: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو
بَدْرِ: شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي
صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - ((إِذَا اسْتَيْقَظَ
أَحَدُكُمْ مِنَ النَّوْمِ فَلَا يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَائِ حَتَّى يَغْسِلَ يَدَهُ، فَإِنَّهُ لَا
يَدْرِي أَيَّنَ بَاتَتْ يَدُهُ)) -

ت (قَالَ سُلَيْمَانُ فذَكَرَ ذَلِكَ لِابْرَاهِيمَ قَالَ قَدْ قَالَ أَصْحَابُ عَبْدِ
اللَّهِ: فَكَيْفَ يَصْنَعُ أَبُو هُرَيْرَةَ بِالْمِهْرَاسِ؟ قَالَ سُلَيْمَانُ: فَكَانُوا لَا
يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يُدْخِلَهَا إِذَا كَانَتْ نَظِيفَةً -

ق (وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - فِي تَرْكِ
لَايٍ وَقَدْ مَضَى ذِكْرُهُ - الْوُضُوءِ عِنْدَ الطَّعَامِ بَعْدَ مَا خَرَجَ مِنَ الْخ
قَالَ الشَّيْخُ وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا فِي ذَلِكَ بِحَدِيثِ رِفَاعَةَ بْنِ
رَافِعٍ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - وَقَدْ مَضَى ذِكْرُهُ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاکی کا بیان

باب: ہاتھ دھونے کا طریقہ

حدیث نمبر: 215

ترجمہ:

(الف) (۲۱۶) (الف) (سیدنا ابوہریرہ رض فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا " :جب تم سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو اپنے ہاتھ کو برتن میں داخل نہ کرے جب تک کہ انہیں دھولے اس لیے کہ " وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔

(ب) (سلیمان کہتے ہیں کہ ابراہیم سے بیان کیا گیا کہ عبداللہ بن مسعود کے اصحاب کہتے ہیں :سیدنا ابوہریرہ رض مہر اس میں کیا کرتے تھے؟ سلیمان نے کہا :جب ان کے ہاتھ صاف ہوتے تو وہ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

(ج) (امام شافعی رض نے حدیث ابن عباس رض سے دلیل لی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حاجت سے فارغ ہوتے تو کھانے کے لیے وضو نہیں کرتے تھے۔

(د) (شیخ کہتے ہیں کہ ہمارے اصحاب نے حدیث رفاعہ بن رافع جو نبی سے مرفوعاً منقول ہے سے دلیل لی ہے، اس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: How to wash your hands

Hadith number: 215

Translation:

(215) (a) Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) said: The Messenger of Allaah (peace and blessings of Allah be upon him) said: "When one of you wakes up from sleep, he should not put his hand into the vessel until he has washed it, for he does not know where his hand has spent the night."

(B) Imam Shafi'i (may Allah be pleased with him) has taken evidence from the hadith of Ibn Abbas (may Allah have mercy on him) that the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) did not perform ablution for food when he was free from need.

(C) The Shaykh says that our companions have taken evidence from the hadith of

Rifa'ah ibn Rafi 'which has been narrated from the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) and it has already been mentioned. [Hasan (Fair). Narrated by Ibn Abi Shaybah 1052]

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا أَبُو (٢١٧)
بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَيُّوبَ الْفَقِيهَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ
الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُقَيْلِ
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى
عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ
مِنَ الْإِنَائِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي
الْوَضُوءِ فَمَضَمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ
وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى
ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قَالَ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وَضُوءِي هَذَا ، ثُمَّ قَالَ: ((مَنْ
تَوَضَّأَ مِثْلَ وَضُوءِي هَذَا ثُمَّ رَكَعَ رَكَعَتَيْنِ لَمْ يُحَدِّثْ فِيهِمَا نَفْسَهُ
غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)) (-).

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاکی کا بیان

باب: دائیں ہاتھ کو برتن میں ڈالنا اور کلی اور ناک میں

پانی چڑھانے کے لیے چلو بھرنا

حدیث نمبر: 216

ترجمہ:

(۲۱۷) (حمران جو سیدنا عثمانؓ کے آزاد کردہ غلام ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے عثمان بن عفانؓ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے برتن سے اپنے ہاتھ پر پانی ڈالا، پھر ان دونوں کو تین مرتبہ دھویا، پھر اپنے دائیں ہاتھ پانی میں ڈالا پھر کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، پھر اپنے چہرے کو تین مرتبہ دھویا اور اپنے ہاتھوں کو اپنی کہنیوں سمیت دھویا پھر انہوں نے اپنے گیلے ہاتھ اپنے سر کے اوپر سے گزرے اور پھر ہر پاؤں کو تین بار دھویا۔ پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے، جس شخص نے میرے وضو جیسا وضو کیا، اس کے بعد دو رکعتیں پڑھیں اور اس کے دل میں کوئی برا خیال پیدا نہیں ہوا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Putting the right hand in the pot and

filling it to fill the nostrils and nose

Hadith number: 216

Translation:

(216) Hamran, the freed slave of Uthman, says: I saw Uthman (may Allah have mercy on him) performing ablution, he poured water from it over his hands and washed them thrice and then put his right hand in the water container and rinsed his mouth and washed his nose by putting water in it and then blowing it out. Then he washed his face thrice and (then) forearms up to the elbows thrice, then passed his wet hands over his head and then washed each foot thrice. After that `Uthman said, "I saw the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) performing ablution like this of mine, and he said, 'If anyone performs ablution like that of mine and offers a two-rak`at prayer during which he does not think of anything else (not related to the present prayer) then his past

sins will be forgiven." '

[Sahih. Narrated by Bukhari 159, 164, 1934 and Muslim 226 and Nasai 84 and and Ibn Majah 285 and Malik 6/29 and Ahmad 1/72 and Darimi 720]

Sunan Kubra Bayhaqi 217

Arabic Translation:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عُبَيْدٍ (٢١٨)
الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
مُلْحَانَ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى فذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ وَزَادَ فِي الرَّجُلِ: إِلَى
الْكَعْبَيْنِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: دائیں ہاتھ کو برتن میں ڈالنا اور کلی اور ناک میں پانی

چڑھانے کے لیے چلو بھرنا

حدیث نمبر: 217

:ترجمہ

(218) اس حدیث میں پاؤں کو ٹخنوں تک دھونے کے الفاظ

زیادہ ہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Putting the right hand in the pot and filling it to fill the nostrils and nose

Hadith number: 217

Translation:

(217) In this hadith, the words 'washing the feet up to the ankles' are extra.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 218

Arabic Translation:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ (٢١٩)
الْمُزَكِّي أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمْدُونَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا
أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي
عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ قَالَ: ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي
الْوَضُوءِ ثُمَّ تَمَضَّمَ وَاسْتَنْشَقَ -
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: دائیں ہاتھ کو برتن میں ڈالنا اور کلی اور ناک میں پانی
چڑھانے کے لیے چلو بھرنا
حدیث نمبر: 218

ترجمہ:

(٢١٩) (عطاء بن یزید نے پچھلی روایت کے ہم معنی بیان

کیا ہے، فرماتے ہیں: پھر آپ نے اپنا دایاں ہاتھ وضو کے پانی میں داخل کیا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Putting the right hand in the pot and filling it to fill the nostrils and nose

Hadith number: 218

Translation:

(218) Ata ibn Yazid has narrated the same meaning of the previous narration, saying:

Then he dipped his right hand in the water of ablution, then rinsed his mouth and put water in his nose.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 219

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي أَخْبَرَنَا أَبُو (٢٢٠)
سَهْلٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ الْقَطَّانُ أَخْبَرَنَا أَبُو يَحْيَى: عَبْدُ
الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ
قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ
بْنِ عَفَّانَ: أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعَا
بِوَضُوءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ
، أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوَضُوءِ ، ثُمَّ تَمَضَّمَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ
ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ
:مَسَحَ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ غَسَلَ كُلَّ رِجْلٍ مِنْ رِجْلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ قَالَ
:رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وَضُوءِي هَذَا ، ثُمَّ قَالَ
مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وَضُوءِي هَذَا ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ))
نَفْسَهُ فِيهِمَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)) (-)
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: دائیں ہاتھ کو برتن میں ڈالنا اور کلی اور ناک میں پانی
چڑھانے کے لیے چلو بھرنا

حدیث نمبر: 219

:ترجمہ

(۲۲۰) (سیدنا عثمانؓ کے آزاد کردہ غلام حمران سے روایت ہے کہ سیدنا عثمان بن عفانؓ نے پانی منگوا یا۔ پھر برتن سے پانی اپنے ہاتھ پر ڈالا۔ پھر اس کو تین مرتبہ دھویا، پھر اپنا دائیں ہاتھ پانی میں ڈالا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا اور ناک جھاڑا۔ پھر اپنے چہرے کو تین مرتبہ دھویا اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت تین مرتبہ دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر دونوں پاؤں کو تین مرتبہ دھویا، پھر فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا ہے، آپ میرے اس وضو کی طرح وضو کیا کرتے تھے، پھر فرمایا: جس نے میرے اس وضو کی طرح کیا، پھر کھڑے ہو کر دو رکعتیں پڑھیں، اس کے دل میں کوئی برا خیال پیدا نہیں ہوا تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Putting the right hand in the pot and filling it to fill the nostrils and nose

Hadith number: 219

Translation:

(219) It is narrated from the freed slave Hamran of Uthman that Uthman bin Affan (may Allah have mercy on him) asked for water. Then he poured water from it over his hands and washed them thrice and then put his right hand in the water container and rinsed his mouth and washed his nose by putting water in it and then blowing it out. Then he washed his face thrice and (then) forearms up to the elbows thrice, then passed his wet hands over his head and then washed each foot thrice. After that `Uthman said, "I saw the Prophet (peace and blessings

of Allaah be upon him) performing ablution like this of mine, and he said, 'If anyone performs ablution like that of mine and offers a two-rak`at prayer during which he does not think of anything else (not related to the present prayer) then his past sins will be forgiven." '[Sahih. Narrated by Bukhari 159, 164, 1934 and Muslim 226 and Nasai 84 and and Ibn Majah 285 and Malik 6/29 and Ahmad 1/72 and Darimi 720]

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ: الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّوْذِبَارِيُّ مِنْ (٢٢١)
أَصْلِ كِتَابِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شَوْذَبِ بِوَاسِطِ
حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ
زَائِدَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عُلْقَمَةَ الْهَمْدَانِيُّ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ
عَلِيٍّ: أَنَّهُ أَتَى بِوَضُوءٍ أَوْ أَتَى بِإِنَائٍ فِيهِ مَاءٌ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ
الْإِنَائِ ، فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَائِ ، وَأَدْخَلَ يَدَهُ
الْيُمْنَى فِي الْإِنَائِ فَمَلَأَ فَمَهُ فَتَمَضَّمْضَمَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَرَ بِيَدِهِ
، الْيُسْرَى يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثًا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَائِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا
ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَى الْمِرْفَقِ ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ
الْيُسْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَى الْمِرْفَقِ ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فِي
الْإِنَائِ حَتَّى غَمَرَهَا الْمَاءُ ، فَرَفَعَهَا بِمَا حَمَلَتْ مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ
مَسَحَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا مَرَّةً ، ثُمَّ
صَبَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ عَلَى قَدَمِ الْيُمْنَى ، ثُمَّ
غَسَلَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى ، ثُمَّ صَبَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى قَدَمِ
الْيُسْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ غَسَلَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى ، ثُمَّ قَالَ: هَذَا طُهُورُ
رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى طُهُورِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -
فَهَذَا طُهُورُهُ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے کا طریقہ

حدیث نمبر: 220

ترجمہ:

(۲۲۱) (سیدنا علیؓ سے منقول ہے کہ آپ کے پاس وضو کا پانی لایا گیا یا ایک برتن لایا گیا جس میں پانی تھا۔ آپ نے برتن سے پانی اپنے ہاتھ پر ڈالا، پھر اس کو تین مرتبہ دھویا تاکہ برتن میں داخل کریں، پھر اپنا دایاں ہاتھ برتن میں داخل کیا، پھر اپنے منہ کو بھرا اور کلی کی، ناک میں پانی چڑھایا اور بائیں ہاتھ سے ناک کو جھاڑا، ایسا تین مرتبہ کیا، پھر اپنا ہاتھ برتن میں داخل کیا اور اپنے چہرے کو تین مرتبہ دھویا پھر اپنے دائیں ہاتھ کو کہنی سمیت تین مرتبہ دھویا، پھر اپنے بائیں ہاتھ کو کہنی سمیت تین مرتبہ دھویا، پھر اپنا دایاں ہاتھ برتن میں داخل کیا یہاں تک کہ وہ پانی سے تر ہو گیا تو اس تر ہاتھ کو اوپر اٹھایا اور اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے ساتھ تر کیا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ ایک ہی مرتبہ مسح کیا، پھر تین مرتبہ اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ دائیں پاؤں پر پانی ڈالا، پھر اس کو اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ دھویا، پھر تین مرتبہ

اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ بائیں پاؤں پر پانی ڈالا۔ اس کو اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ دھویا، پھر فرمایا: یہ رسول اللہ ﷺ کا وضو ہے، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے وضو کو دیکھے تو یہی آپ ﷺ کا وضو ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The Way to Rinse Your Mouth and Wash Your Nose

Hadith number: 220

Translation:

(220) It is narrated from Syeduna Ali (may Allah have mercy on him) that water for ablution was brought to him or a vessel was brought in which there was water. He poured water from the vessel into his hand, then washed it three times so that he could enter his hands into the vessel, then inserted his right hand into the vessel, then filled his mouth and rinsed his mouth, poured water

into his nose, and then with his left hand wiped his nose, he did this three times, then he put his hand in the pot and washed his face three times, then he washed his right hand three times including the elbow, then he washed his left hand three times including the elbow, then he put his right hand into the vessel until it was wet with water. He then raised his wet hand and wet his left hand with his right hand and with both his hands wiped his head only once. Then he poured water on his right foot three times with his right hand, and washed it with his left hand, then he poured water on his left foot three times with his right hand and washed it with his left hand and then said: This is the ablution of the Messenger of Allah (peace and blessings of Allaah be upon him). Whoever likes to see the ablution of the Messenger of Allah (peace and blessings of Allaah be upon him), then this is his ablution.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 221

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَائِرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ (۲۲۲)
الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - قَالَ ((إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْشِقْ
بِمِنْخَرَيْهِ مَاءً ثُمَّ لِيَنْتَبِرْ)) -
رَوَاهُ مُسْلِمٌ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ
عَبْدِ الرَّزَّاقِ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان
باب: کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے کا طریقہ
حدیث نمبر: 221

ترجمہ:

(: ۲۲۲) (سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا

جب تم سے کوئی وضو کرے تو وہ اپنے ناک کے نتھنوں " میں پانی چڑھائے، پھر اس کو جھاڑے۔ "

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The Way to Rinse Your Mouth and Wash Your Nose

Hadith number: 221

Translation:

(221) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah that the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said: "When someone performs ablution with you, he should sniff water in the nostrils of his nose, then blow it out."

[Sahih. Narrated by Bukhari 161 and Muslim 237 and Nasai 86 and Abu Dawud 140 and Tirmidhi 27 and Ibn Majah 406 and Ahmad 2/242 and Darimi 730]

Sunan Kubra Bayhaqi 222

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهَ (۲۲۳) حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي وَ إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي بُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ((إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ الْمَاءَ ثُمَّ لِيَنْتَثِرْ وَمَنْ اسْتَجَمَرَ فَلْيُوتِرْ)) (-) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مَالِكٍ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان
باب: کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے کا طریقہ
حدیث نمبر: 222

ترجمہ:

(۲۲۳) (سیدنا ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے

فرمایا " :جب تم سے کوئی وضو کرے تو وہ اپنے ناک میں پانی ڈالے، پھر اسے جھاڑ دے اور کنکری طاق عدد میں استعمال کرے۔"

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The Way to Rinse Your Mouth and Wash Your Nose

Hadith number: 222

Translation:

(222) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah have mercy on him) the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said: "When someone performs ablution with you, he should sniff water in the nostrils of his nose, then blow it out and when you use pebbles (to remove filth) then make it odd (numbered)."

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 223

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدٌ (٢٢٤)
بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَخْبَرَنَا ابْنُ
وَهْبٍ-

وَحَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ قَالَ قُرِيَ عَلَيَّ ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَكَ يُونُسُ
بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَطَائِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّ
حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا يَوْمًا
بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ ، فَغَسَلَ كَفَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ تَمَضَّمَ
وَاسْتَنْشَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ-

وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِي آخِرِهِ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - يَوْمًا تَوَضَّأَ
نَحْوَ وَضُوءِي هَذَا-

رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الطَّائِرِ وَحَرْمَلَةَ عَنِ
ابْنِ وَهْبٍ إِلَّا أَنَّهُمَا لَمْ يَذْكُرَا التَّكْرَارَ فِي الْمَضْمَنَةِ
وَإِسْتِنْشَاقِ-

وَقَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَبَحْرِ بْنِ نَصْرِ هَكَذَا (ج)
وَبِمَا ثَقَّتَانِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
وَقَدْ رُوِيَ التَّكْرَارُ فِيهِمَا عَنْ عُثْمَانَ مِنْ أَوْجِهٍ أُخَرَ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: کلی اور ناک میں پانی تکرار کے ساتھ چڑھانے کا طریقہ

حدیث نمبر: 223

ترجمہ:

(۲۲۴) (الف) حضرت عثمان رض کے آزاد کردہ غلام فرماتے ہیں

کہ حضرت عثمان بن عفان رض نے ایک دن وضو کے لیے پانی

، منگوا یا اور وضو کیا، پھر اپنی ہتھیلیوں کو تین مرتبہ دھویا

پھر کلی کی اور ناک میں تین مرتبہ پانی چڑھایا۔

(ب) ایک حدیث کے آخر میں ہے کہ ایک دن میں نے رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرح وضو کیا۔ (ج)

صحیح مسلم میں ابوطاہر اور حرملمہ، ابن وہب سے نقل کرتے

ہیں، لیکن انہوں نے کلی اور ناک میں پانی چڑھانے میں

تکرار کا ذکر نہیں کیا۔ (د) حدیث میں ابن عبدالحکم اور بحر

نصر ثقہ راوی ہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The Way to Rinse Your Mouth and Sniff Water in the Nose with Repetition

Hadith number: 223

Translation:

(223) (a) The freed slave of Hazrat Uthman says that Hazrat Uthman bin Affan asked for water for ablution one day and performed ablution, then washed his palms three times, then rinsed his mouth and sniffed water in his nose three times.

(B) In the end of one hadith it says that one day I saw the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) performing ablution like me.

(C) In Sahih Muslim, Abu Tahir and Harmala narrate from Ibn Wahb, but they did not mention repetition in rinsing the mouth and sniffing the water in nose.

(D) Ibn Abdul Hakam and Bahr ibn Nasr are trustworthy narrators in the hadith.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 224

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوَدْبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ (٢٢٥)
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الْإِسْكَندَرَانِيُّ حَدَّثَنَا
زِيَادُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ زِيَادِ الْمُؤَدِّبِ عَنْ عُمَانَ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ التَّيْمِيِّ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْوُضُوءِ فَقَالَ
رَأَيْتُ عُمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ ، فَدَعَا
بِمَاءٍ فَاتَى بِالْمِيضَاءِ فَأَصْغَابًا عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى ، ثُمَّ ادَّخَلَهَا فِي
الْمَاءِ فَتَمَضَّمْ ثَلَاثًا ، وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. وَفِي آخِرِهِ
قَالَ: بِكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - يَتَوَضَّأُ.
(ت) قَالَ الشَّيْخُ وَرَوَاهُ أَيْضًا أَبُو عَلْقَمَةَ عَنْ عُمَانَ وَثَبَتَ ذَلِكَ عَنْ
-عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -
وَرُوِّينَاهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: کلی اور ناک میں پانی تکرار کے ساتھ چڑھانے کا طریقہ

حدیث نمبر: 224

:ترجمہ

(۲۲۵) عثمان بن عبدالرحمن تیمی کہتے ہیں کہ ابن ابی ملیکہ سے وضو کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا:

میں نے عثمان بن عفانؓ کو دیکھا، جب ان سے وضو کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے پانی منگوا یا، پھر ایک چھوٹا برتن لایا گیا، آپ نے اس کو اپنے دائیں ہاتھ پر جھکایا۔

پھر اس کو پانی میں داخل کیا، پھر تین مرتبہ کلی کی اور تین مرتبہ ناک جھاڑا۔۔۔ حدیث کے آخر میں ہے کہ سیدنا عثمان بن

عفان نے فرمایا: اسی طرح میں نے رسول اللہ ﷺ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

(ب) (شیخ کہتے ہیں کہ ابو علقمہ نے حضرت عثمان سے پچھلی روایت کی طرح نقل کیا ہے: اسی طرح یہ روایت عبداللہ

بن زید عن النبی ﷺ بھی ثابت ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The Way to Rinse Your Mouth and Sniff Water in the Nose with Repetition

Hadith number: 224

Translation:

(224) Uthman bin Abdul Rahman Taymi says that when Ibn Abi Malika was asked about ablution, he said: I saw Uthman bin Affan (may Allah be pleased with him). When he was asked about ablution, he asked for water. Then a small pot was brought. He inclined it towards his right hand (poured water over it). Then he put it (his hand) in the water, he then rinsed his mouth three times and swiped his nose three times... At the end of the hadith, 'Uthman ibn Affan (may Allah be pleased with him): "This is how I saw the

Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) performing Wudhu."

(B) The Shaykh says that Abu Alqamah has narrated from Hazrat Uthman like the previous narration: In the same way, this narration has also been proved by Abdullah ibn Zayd on the authority of the Prophet.

[Hasan (Fair). Narrated by Abu Dawud 108]

Sunan Kubra Bayhaqi 225

Arabic Translation:

:أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ (٢٢٦)
عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَخْتَوَيْهِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَزَةَ وَأَبُو ثَابِتٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ
يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ
أَبِي بُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - أَنَّهُ قَالَ ((: إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ
مَنَامِهِ فَتَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْزِرْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ
عَلَى خَيْشُومِهِ)) -.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَمَزَةَ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ
مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ -.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاکی کا بیان

باب: کلی اور ناک میں پانی تکرار کے ساتھ چڑھانے کا طریقہ

حدیث نمبر: 225

ترجمہ:

" (۲۲۶) (سیدنا ابوہریرہ ^{رض} سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا جب تم سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو وہ وضو کرے اور تین مرتبہ ناک جھاڑے، اس لیے کہ شیطان اس کے ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے۔"

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The Way to Rinse Your Mouth and Sniff Water in the Nose with Repetition

Hadith number: 225

Translation:

(225) It is narrated from Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said: "When one of you wakes up from sleep, he should perform Wudhu and clean his nose three times, because the devil spends the night in the interior of his nose.

[Sahih. Narrated by Bukhari 3295 and Muslim

Sunan Kubra Bayhaqi 226

Arabic Translation:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورِكَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ (۲۲۷)
اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الْأَصْبَهَانِيِّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ
الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ قَارِظِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي غَطَفَانَ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ تَوَضَّأَ
فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مَرَّتَيْنِ وَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - ((: إِذَا
مَضْمَضَ أَحَدُكُمْ وَاسْتَنْشَقَ فَلْيَفْعَلْ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ بِالْغَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا)).-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: کلی اور ناک میں پانی تکرار کے ساتھ چڑھانے کا طریقہ

حدیث نمبر: 226

:ترجمہ

(۲۲۷) ابو غطفان کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابن عباسؓ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے کلی کی اور ناک میں دو مرتبہ پانی چڑھایا اور کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " : جب تم میں سے کوئی کلی کرے اور ناک میں پانی چڑھائے تو " اچھی طرح دو یا تین مرتبہ کرے۔"

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The Way to Rinse Your Mouth and Sniff Water in the Nose with Repetition

Hadith number: 226

Translation:

(226) Abu Ghatfan says that I saw Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) performing Wudhu. He rinsed his mouth and put water in his nose twice and said: The Messenger of Allah (peace and blessings of Allaah be upon him) said: "When one of you rinses his mouth and puts water in his nose, do it well two or

three times."

[Sahih. Narrated by Abu Dawud 141 and Ibn Majah 408 and Ahmad 1/228]

Sunan Kubra Bayhaqi 227

Arabic Translation:

أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ (٢٢٨)
الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرَوْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَيَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ
صَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ - فَذَكَرَ أَشْيَاءَ ، فَقَالَ لَهُ
النَّبِيُّ ﷺ - ((: أَسْبَغِ الْوُضُوءَ وَخَلِّ الْأَصَابِعَ ، وَإِذَا اسْتَنْشَقْتَ
فَبَالِغٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا)) -.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: روزے کی حالت کے علاوہ ناک میں پانی چڑھانے میں
مبالغہ کرنا
حدیث نمبر: 227

:ترجمہ

(۲۲۸) (سیدنا عاصم بن لقیط بن صبرہ اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں کہ وہ نبی ﷺ کے پاس آئے اور کچھ چیزوں کا تذکرہ کیا۔ نبی ﷺ نے فرمایا " :مکمل وضو کر اور انگلیوں کا، خلال کر اور جب تو ناک میں پانی چڑھائے تو مبالغہ کر سوائے اس کے کہ تو روزہ دار ہو) یعنی روزے کی حالت میں ایسا نہ کر۔"

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Exaggerating when putting water in the nose except when you are fasting

Hadith number: 227

Translation:

(227) Asim ibn Laqit ibn Sabra narrates from his father that he came to the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) and mentioned some things. The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said: Perform complete ablution and wash in between the fingers, and exaggerate when

you put water in your nose, unless you are fasting (ie, do not do so while fasting).

[Sahih. Narrated by Nasai 87 and Ibn Majah 407, 448 and Ahmad 4/33 and Darimi 732]

Sunan Kubra Bayhaqi 228

Arabic Translation:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ (٢٢٩)
يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ -
(ح) قَالَ وَأَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ: مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفَقِيهِ
وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ الْإِمَامُ وَالْحَسَنُ
بْنُ سُفْيَانَ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ رَجَائٍ قَالُوا أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ قَالَا
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمِ رَجُلٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ وَكَانَتْ لَهُ
صُحْبَةٌ قَالَ قُلْنَا لَهُ: تَوَضَّأْنَا لَنَا وَضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - فَدَعَا بِمَائٍ
فَأَفْرَغَ عَلَى كَفِّهِ فَعَسَلَهُمَا ثَلَاثًا ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا
فَتَمَضَّمْضَمَ ، وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفِّ وَاحِدَةٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ
، غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ
ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَذْبَرَ مَرَّةً ، ثُمَّ غَسَلَ
رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ: بِكَذَا كَانَ وَضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُسَدَّدٍ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ

مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ كِلَابُهَا عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَأَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى قَالَ : ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الثَّوْرِ فَمَضَمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ يَعْنِي وَاللَّهِ أَعْلَمُ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ كُلَّ مَرَّةٍ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ : ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا بِثَلَاثِ غُرْفٍ بِدَلِيلِ مَا

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب : پاکی کا بیان
باب : کلی اور ناک میں یکبارگی پانی چڑھانا
حدیث نمبر : 228

ترجمہ:

(الف) (سیدنا عبداللہ بن زید بن عاصم بنی نجار قبیلے (۲۲۹) سے ہیں اور صحابی رسول ہیں، ہم نے ان سے کہا: ہمارے لیے نبی ﷺ جیسا وضو کریں۔ انہوں نے پانی منگوا یا اور اپنی ہتھیلیوں پر ڈالا، اس کو تین مرتبہ دھویا، پھر اپنا ہاتھ (برتن میں) داخل کیا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، ایک ہاتھ سے ایسا تین مرتبہ کرتے تھے، پھر اپنے چہرے کو تین مرتبہ دھویا، پھر اپنے ہاتھوں کو دو دو مرتبہ کہنیوں تک دھویا۔ پھر اپنا ہاتھ برتن میں

داخل کیا، پھر اپنے سر کا مسح کیا۔ پھر ایک مرتبہ ہاتھوں کو آگے سے پیچھے لے گئے اور پیچھے سے آگے لے آئے۔ اس کے بعد اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھویا، پھر فرمایا: رسول اللہ ﷺ کا وضو اس طرح تھا۔

(ب (عمرو بن یحییٰ کہتے ہیں: پھر اپنا ہاتھ برتن میں داخل کیا اور ایک ہی چلو سے کلی کی اور ناک میں تین مرتبہ پانی ڈالا۔ (واللہ اعلم (یعنی ہر مرتبہ کلی اور ناک میں پانی ایک ہی چلو سے ڈالا، پھر یہ تین مرتبہ کیا تین چلووں کے ساتھ

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Rinsing the mouth and washing the nose at the the same time

Hadith number: 228

Translation:

(228) (a) Syedna Abdullah bin Zaid bin Asim is from Bani Najjar tribe and is a companion of the Prophet. We said to him: Perform ablution for us like the Prophet. He asked for

water and poured it on his palms, washed it three times, then inserted his hand (into the vessel), then rinsed his mouth and put water in his nose. He did this three times with one hand, then washed his face three times then he washed his hands twice up to the elbows. Then he put his hand in the pot, then wiped his head and then passed his wet hands over his head from its front to its back and vice versa (beginning from the front and taking them to the back of his head up to the nape of the neck and then brought them to the front again from where he had started) and washed his feet up to the ankles. Then said: The ablution of the Messenger of Allah (peace and blessings of Allaah be upon him) was like this.

(B) Amr ibn Yahya says: Then he put his hand in the vessel and rinsed his mouth and put water in his nose with one stroke three times. (Allah knows best) That is, every time he put water in the nose and throat from the same

stroke, then he did it three times with three strokes.

[Sahih. Narrated by Bukhari 185, 191, 192, 199 and Muslim 235 and Nasai 97, 98 and Abu Dawud 118 and Tirmidhi 32, 47 and Ibn Majah 434 and Ahmad 4/38 and Darimi 721]

Sunan Kubra Bayhaqi 229

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقْرِيُّ (٢٣٠)
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ
الْقَاضِي حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا
عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ : شَهِدْتُ عَمْرُو بْنَ أَبِي حَسَنِ سَأَلَ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - فَدَعَا بِتَوْرٍ مِنْ
مَائٍ ، فَتَوَضَّأَ لَهُمْ فَأَكْفَأَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنَ التَّوْرِ ، فَغَسَلَ
يَدَيْهِ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَائِ فَتَمَضَّمْضَ وَاسْتَنْشَقَ ، وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثَ
مَرَّاتٍ مِنْ ثَلَاثِ غُرْفٍ مِنْ مَائٍ ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَائِ
فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَائِ فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى
الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَائِ فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ
فَأَقْبَلَ بِيَدِهِ وَأَدْبَرَ ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَائِ ، فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى
الْكَعْبَيْنِ -

:رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ
فَمَضَّمْضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا بِثَلَاثِ غُرَفَاتٍ مِنْ مَائٍ -
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ بَهْزِ بْنِ أَاسِدٍ عَنْ

وَبَيَّبِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ مِنْ ثَلَاثِ غَرَفَاتٍ-

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: کلی اور ناک میں یکبارگی پانی چڑھانا

حدیث نمبر: 229

:ترجمہ

(۲۳۰) (الف) عمرو بن یحییٰ اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں کہ میں عمرو بن ابی حسن کے پاس حاضر ہوا تو انہوں نے عبداللہ بن زیدؓ سے رسول اللہ ﷺ کے وضو کے بارے میں پوچھا: انہوں نے پانی کا برتن منگوا یا، پھر ان کے لیے وضو کیا، برتن سے اپنے ہاتھوں پر تین مرتبہ پانی ڈالا، پھر اپنے ہاتھوں کو دھویا، اس کے بعد اپنا ہاتھ برتن میں داخل کیا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا اور تین مرتبہ ناک جھاڑا اور یہ پانی کے تین چلوؤں سے کیا۔ پھر اپنا ہاتھ برتن میں داخل کیا تو اپنے چہرے کو تین مرتبہ دھویا، پھر اپنا ہاتھ برتن میں داخل کیا تو اپنے بازوؤں کو دو دو مرتبہ کہنیوں تک دھویا، پھر اپنا ہاتھ برتن میں داخل کیا تو اپنے سر کا مسح کیا اور اپنے ہاتھوں کو آگے سے پیچھے اور پیچھے سے آگے لے آئے، پھر اپنا ہاتھ برتن

میں داخل کیا اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھویا۔

(ب) (ایک حدیث میں ہے کہ کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا اور پانی کے تین چلوؤں سے تین مرتبہ ناک جھاڑا۔
(ج) (ایک روایت میں ہے، پھر کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا اور پانی کے تین چلوؤں سے تین مرتبہ ناک جھاڑا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Rinsing the mouth and washing the nose at the the same time

Hadith number: 229

Translation:

(229) (a) Amr ibn Yahya narrates from his father that when I came to Amr ibn Abi Hassan, he asked Abdullah ibn Zayd (may Allah be pleased with him) about the ablution of the Messenger of Allah (saw): He asked for a vessel of water. Then he performed ablution for them, poured water from the vessel on his hands three times, then washed

his hands, then inserted his hand into the vessel, then rinsed his mouth and put water in his nose and swept his nose three times and he did this with three strokes. Then he put his hand into the vessel, washed his face three times, then put his hand into the vessel, washed his arms up to his elbows twice, then inserted his hand into the vessel, wiped his head then passed his wet hands over his head from its front to its back and vice versa (beginning from the front and taking them to the back of his head up to the nape of the neck and then brought them to the front again from where he had started) then he put his hand in the pot and washed his feet up to the ankles.

(B) It is narrated in a hadith that he put water in the nose and throat and swept the nose three times with three strokes.

(C) According to one tradition, he then rinsed his nose and put water in his nose and swept his nose three times with three strokes.

[Sahih. Narrated by Bukhari 185]

Sunan Kubra Bayhaqi 230

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ: أَحْمَدُ بْنُ (۲۳۱)
عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ الْقَاضِي حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ: بِشَامُ
بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ
زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَائِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ -
ﷺ- تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً ، وَجَمَعَ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: کلی اور ناک میں یکبارگی پانی چڑھانا
حدیث نمبر: 230

ترجمہ:

(۲۳۱) (سیدنا بن عباس^{رض} سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ایک

مرتبہ وضو کیا، کلی کی اور ناک میں پانی اکٹھے چڑھایا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Rinsing the mouth and washing the nose at the the same time

Hadith number: 230

Translation:

(230) It is narrated from Syeduna bin Abbas (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) performed ablution once, rinsed his mouth and put water in his nose simultaneously.

[Sahih. Narrated by Darimi 697]

Sunan Kubra Bayhaqi 231

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوَدْبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ (٢٣٢)
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ
عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ: أَتَانَا عَلِيٌُّّ وَقَدْ صَلَّى فَدَعَا
، بِطُهُورٍ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: ثُمَّ تَمَضَّمْضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلَاثًا
فَمَضَّمْضَ وَنَثَرَ مِنَ الْكَفِّ الَّذِي أَخَذَ فِيهِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِي
آخِرِهِ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْلَمَ وَضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - فَهُوَ هَذَا -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: کلی اور ناک میں یکبارگی پانی چڑھانا
حدیث نمبر: 231

ترجمہ:

(٢٣٢) (سیدنا عبد خیرؓ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس سیدنا

علیؑ آئے اور وہ نماز پڑھ چکے تھے، پھر آپؑ نے پانی منگوا یا۔۔۔ اس میں ہے کہ پھر آپ نے کلی کی اور تین مرتبہ ناک چھاڑا۔ کلی اور ناک اسی ہتھیلی سے جھاڑا جس سے پانی لیا تھا۔

پھر طویل حدیث ذکر کی۔ اس کے آخر میں ہے: جس شخص کو اچھا لگے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے وضو کا طریقہ جانے تو یہ وہی (طریقہ) ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Rinsing the mouth and washing the nose at the the same time

Hadith number: 231

Translation:

(231) Syedna Abdul Khair says that Syedna Ali (may Allah be pleased with him) came to us and he had offered his prayer, he asked for water. In it he then rinsed his mouth and blew his nose three times. He rinsed his mouth and nose with the same palm from which

water was taken.

Then he narrated a long hadith. At the end of it (the narration) is: If a person likes to know the method of ablution of the Messenger of Allah, then this is the method.

[Sahih]

The full hadith was narrated by Nasai 91, 92, 93, 94 and Abu Dawud 111 and Tirmidhi 48 and Ahmad 1/122 and Darimi 768.

Sunan Kubra Bayhaqi 232

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذِبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ (٢٣٤)
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ
سَمِعْتُ لَيْثًا يَذْكُرُ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: دَخَلْتُ
يَعْنِي عَلَى النَّبِيِّ ﷺ - وَهُوَ يَتَوَضَّأُ وَالْمَاءُ يَسِيلُ مِنْ وَجْهِهِ
وَلِحْيَتِهِ عَلَى صَدْرِهِ ، فَرَأَيْتُهُ يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَضْمَضَةِ
وَالِاسْتِنْشَاقِ-

وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي حَدِيثِ آخَرَ لِلَّيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ طَلْحَةَ (ج)
بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ فِي الْوُضُوءِ قَالَ مُسَدَّدٌ فَحَدَّثْتُ بِهِ
يَحْيَى يَعْنِي الْقَطَّانَ فَأَنْكَرَهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ يَقُولُ
إِنَّ ابْنَ عِيْنَةَ كَانَ يُنْكَرُهُ وَيَقُولُ: أَيُّشِ

بَدَا طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنِ أَبِيهِ عَنِ جَدِّهِ -
 وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ
 الطَّرَائِيفِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ سَعِيدٍ الدَّارِمِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيَّ
 بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِيَّ يَقُولُ قُلْتُ لِسُفْيَانَ: إِنَّ لَيْثًا رَوَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ
 مُصَرِّفٍ عَنِ أَبِيهِ عَنِ جَدِّهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَوَضَّأَ فَأَنْكَرَ
 يَكُونُ جَدُّ طَلْحَةَ لَقِيَ النَّبِيَّ ذَلِكَ سُفْيَانُ يَعْنِي ابْنَ عُيَيْنَةَ وَعَجَبَ أَنْ
 النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

قَالَ عَلِيٌّ: وَسَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ عَنِ نَسَبِ جَدِّ
 طَلْحَةَ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ كَعْبٍ أَوْ كَعْبُ بْنُ عَمْرٍو وَكَانَتْ لَهُ
 صُحْبَةٌ وَقَالَ غَيْرُهُ عَمْرُو بْنُ كَعْبٍ لَمْ يَشْكُ فِيهِ -
 وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ
 يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ قَالَ قُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ
 طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ عَنِ أَبِيهِ عَنِ جَدِّهِ رَأَى جَدَّهُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟
 فَقَالَ يَحْيَى: الْمُحَدِّثُونَ يَقُولُونَ قَدْ رَأَاهُ وَأَهْلُ بَيْتِ طَلْحَةَ يَقُولُونَ
 لَيْسَتْ لَهُ صُحْبَةٌ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: کلی اور ناک میں پانی الگ ڈالنا
 حدیث نمبر: 233

ترجمہ:

(۲۳۴) طلحہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ میں نبی ﷺ کے پاس آیا، آپ ﷺ وضو کر رہے تھے اور پانی آپ ﷺ کے چہرے سے داڑھی اور سینے پر بہ رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ آپ ﷺ کلی اور ناک میں پانی الگ الگ ڈالتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Rinsing the mouth and washing the nose at seperate times

Hadith number: 233

Translation:

(233) Talha narrates from his grandfather that I came to the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him), he was performing ablution and water was flowing from his face to his beard and chest. I saw that you used to rinse his mouth separately and put water in his nose separately.

[Daif (Weak). Narrated by Abu Dawud 139]

Sunan Kubra Bayhaqi 234

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ (٢٣٥)
يَعْقُوبَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى حَدَّثَنَا سَعِيدُ
بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكِرْمَانِيُّ عَنْ يُونُسَ بْنِ
يَزِيدٍ-

ح (وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَلِيمِ
الصَّائِعِ بِمَرَوْ أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُؤَجِّهِ أَخْبَرَنَا عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ
اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي
:أَبُو إِدْرِيسَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - أَنَّهُ قَالَ
(مَنْ تَوَضَّأَ فَلَيْسَتْ تَنَزَّرَ وَمَنْ اسْتَجَمَرَ فَلْيُوتِرْ) (- بِذَا حَدِيثِ ابْنِ
الْمُبَارَكِ ، وَزَادَ حَسَّانُ فِي حَدِيثِهِ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ
- فَذَكَرَهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ سَعِيدِ
بْنِ مَنْصُورٍ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاكى كا بيان

باب: كلى اور ناك ميں پانى چڑھانے كى تاكيد

حديث نمبر: 234

:ترجمہ

" (: ۲۳۵) سيدنا ابو ہريرهؓ سے روايت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا جو شخص وضو کرے تو وہ ناک کو جھاڑے اور جو کنکری استعمال کرے تو وہ طاق عدد ميں استعمال کرے۔"

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Emphasis on rinsing the mouth and washing the nose

Hadith number: 234

Translation:

(234) It is narrated from Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said: "Whoever performs Wudhu should clean

his nose and whoever uses it pebbles (to remove filth) should use them in odd numbers."

[Sahih. Narrated by Bukhari 161 and Muslim 237 and Nasai 86 and Abu Dawud 140 and Tirmidhi 27 and Ibn Majah 406 and Ahmad 2/242 and Darimi 730]

Sunan Kubra Bayhaqi 235

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ (۲۳۶)
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو الْبَرَّازُ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ حَدَّثَنَا
حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهَ (ح)
وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ
ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ
صَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ أَتَى عَائِشَةَ بُوَ وَصَاحِبٌ لَهُ يُطْلُبَانِ
، رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - فَلَمْ يَجِدَاهُ ، فَأَطْعَمْتُهُمَا عَائِشَةَ تَمْرًا وَعَصِيدًا
فَلَمْ يَلْبَثَا أَنْ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - يَتَقَلَّعُ يَتَكَفَّأُ فَقَالَ)) : بَلْ
أَطْعَمَكُمَا أَحَدٌ؟ ((فَقُلْتُ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ثُمَّ قُلْتُ : يَا رَسُولَ
اللَّهِ أَخْبَرْنَا عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ)) : أَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَخَلِّ
الْأَصَابِعَ ، وَإِذَا اسْتَنْشَقْتَ فَبَالِغِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا)) -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کی تاکید

حدیث نمبر: 235

ترجمہ:

(۲۳۶) (سیدنا عاصم بن لقیط بن صبرہؓ اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں کہ وہ اور ان کا ساتھی سیدہ عائشہؓ کے پاس آئے، وہ دونوں رسول اللہ ﷺ کو تلاش کر رہے تھے لیکن انہوں نے آپ ﷺ کو نہ پایا تو سیدہ عائشہؓ نے ان کو کھجوریں اور آٹے کا حلوہ کھلایا۔ وہ زیادہ دیر نہیں ٹھہرے تھے کہ رسول اللہ ﷺ باوقار انداز میں سے چلتے ہوئے تشریف لائے اور فرمایا: کیا تم دونوں کو کسی نے کوئی چیز کھلائی ہے؟ میں نے کہا: ہاں اے اللہ کے رسول! پھر میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہمیں نماز کے بارے میں بتائیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: "مکمل وضو کرو اور انگلیوں کا خلال کرو اور جب ناک میں پانی چڑھاؤ " تو مبالغہ کرو مگر روزے کی حالت میں نہ کرو۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Emphasis on rinsing the mouth and washing the nose

Hadith number: 235

Translation:

(235) Asim ibn Laqeet ibn Sabrah narrates from his father that he and his companion came to Ayesha (may Allah be pleased with her). They were both looking for the Messenger of Allah (saw) but they did not find him. She fed them dates and a sweet made of flour. They waited a short while until when the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) came walking in a dignified manner and said: Has anyone fed you both? I said: Yes, O Messenger of Allah! Then I said: O Messenger of Allah! Tell us about prayer. The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said: Perform ablution in full and wash in between the fingers, and exaggerate when you put water in your nose,

unless you are fasting (ie, do not do so while fasting).

[Sahih. Narrated by Nasai 87 and Ibn Majah 407, 448 and Ahmad 4/33 and Darimi 732]

Sunan Kubra Bayhaqi 236

Arabic Translation:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذِبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ (۲۳۷)
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ
أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فِيهِ: إِذَا تَوَضَّأَتْ فَمَضْمُضٌ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کی تاکید

حدیث نمبر: 236

ترجمہ:

" (۲۳۷) ایک حدیث میں ہے "جب تو وضو کرے تو کلی کر۔"

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Emphasis on rinsing the mouth and washing the nose

Hadith number: 236

Translation:

(236) There is a hadith which says, "When you perform ablution, rinse your mouth."

[Sahih. Narrated by Abu Dawud 144]

Sunan Kubra Bayhaqi 237

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ أَنْ خَبَرَنَا أَحْمَدُ (٢٣٨)
بْنُ عُبَيْدِ الصَّفَّارِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ
بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - أَمَرَ بِالْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ -
قَالَ وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى مُرْسَلًا لَمْ يَقُلْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ الشَّيْخُ
كَذَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَظُنُّهُ هُدْبَةُ أَرْسَلَهُ مَرَّةً وَوَصَلَهُ
أُخْرَى - (وَتَابَعَهُ دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ عَنْ حَمَّادٍ فِي وَصَلِهِ
وَغَيْرُهُمَا يَرْوِيهِ مُرْسَلًا كَذَلِكَ ذَكَرَهُ لِي أَبُو بَكْرٍ الْفَقِيهُ عَنْ
أَبِي الْحَسَنِ الدَّارِقُطْنِيِّ -
قَالَ الشَّيْخُ وَخَالَفَهُمَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْخَلَّالُ شَيْخُ لِيَعْقُوبَ بْنِ
سُفْيَانَ فَقَالَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَكِلَاهُمَا غَيْرُ
مَحْفُوظٍ

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کی تاکید

حدیث نمبر: 237

:ترجمہ

(۲۳۸) سیدنا ابوہریرہ رض سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے کا حکم دیا۔ حسن۔
(ب) بعض اوقات راوی اس حدیث کو سیدنا ابوہریرہ رض کا واسطہ چھوڑ کر مرسل بیان کرتا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں: میرے میرے گمان کے مطابق اس نے ایک دفعہ مرسل اور دوسری مرتبہ موصولاً بیان کیا۔
(ج) (شیخ) رح (فرماتے ہیں): اس حدیث کو موصولاً بیان کرنے والے رواۃ کی یعقوب بن سفیان کے استاد ابراہیم بن خلال نے مخالفت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں: دونوں راوی غیر محفوظ ہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Emphasis on rinsing the mouth and washing the nose

Hadith number: 237

Translation:

(237) It is narrated from Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) ordered rinsing the mouth and putting water in the nose.

(B) Sometimes the narrator narrates this hadith leaving the intercession of Abu Hurayrah. Sheikh says: I think he narrated it once as a mursal hadith and the second time as a mawsul hadith.

(C) Shaykh (RA) says: The narrator of this hadith is Ibrahim ibn Khalal, the teacher of Yaqub ibn Sufyan. He says: Both narrators are not secure.

[Hasan (Fair)]

Sunan Kubra Bayhaqi 238

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصُّوفِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ (٢٣٩)
بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ
بْنُ عَلِيٍّ بْنِ مِهْرَانَ حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((: الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ
مِنَ الْوُضُوءِ الَّذِي لَا بُدَّ مِنْهُ))-.
ت (قَالَ الشَّيْخُ وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ بِشْرِ الْبَلْخِيُّ عَنْ عِصَامِ نَحْوَهُ
مُ الصَّلَاةُ إِلَّا بِهِ)) (إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:)): مِنَ الْوُضُوءِ الَّذِي لَا تَتَّ
ج (: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ
تَفَرَّدَ بِهِ عِصَامٌ وَوَيْهَمَ فِيهِ وَالصَّوَابُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى مُرْسَلًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: ((: مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَمِضْ
وَلْيَسْتَنْشِقْ))-.)

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کی تاکید

حدیث نمبر: 238

ترجمہ:

(۲۳۹) (الف) سیدہ عائشہ^{رض} سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " وضو میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا فرض ہے۔ "

(ب) (عصام نے بھی اسی طرح بیان کیا ہے، مگر وہ یہ

بھی کہتے ہیں کہ وضو کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔

(ج) (مسلمان بن موسیٰ نبی ﷺ سے مرسل بیان کرتے ہیں " جو

شخص وضو کرے تو وہ کلی کرے اور ناک میں پانی

" چڑھائے۔ "

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Emphasis on rinsing the mouth and washing the nose

Hadith number: 238

Translation:

(238) (a) It is narrated from Ayesha (may Allah be pleased with her) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "It is obligatory to rinse the mouth and put water in the nose in ablution."

(B) Issam has also narrated the same way, but he also says that prayers are not complete without ablution.

(C) Muslim ibn Musa narrates from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him): "If a person performs ablution, he should rinse his mouth and put water in his nose."

[Daif (Weak). Narrated by Al-Daraqutni 1/84]

Sunan Kubra Bayhaqi 239

Arabic Translation:

قَالَ عَلِيُّ حَدَّثَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ (٢٤٠)
إِسْمَاعِيلَ الْحَسَانِيُّ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ
بْنِ مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((: مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيُضْمِضْ
وَلْيَسْتَنْشِقْ)) -

ت (وَبِهَذَا رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَغَيْرُهُمَا عَنْ
ابْنِ جُرَيْجٍ وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْأَزْهَرِ الْجَوْزْجَانِيُّ عَنِ الْفَضْلِ
بْنِ مُوسَى السِّينَانِيِّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِإِسْنَادِ عِصَامِ وَمَثْنِ الْجَمَاعَةِ -
ج (قَالَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ: مُحَمَّدُ بْنُ الْأَزْهَرِ هَذَا ضَعِيفٌ وَهَذَا خَطَأٌ
وَالْمُرْسَلُ أَصَحُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاكى كا بيان

باب: كلى اور ناك ميں پانى چڑھانے كى تاكيد

حديث نمبر: 239

:ترجمہ

(۲۴۰) سيدنا سليمان بن موسى^{رض} فرماتے هيں كه رسول الله ﷺ نے فرمايا " :جو شخص وضو كرے تو اسے چاہيے كه وه كلى كرے اور ناك ميں پانى چڑھائے۔"

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Emphasis on rinsing the mouth and washing the nose

Hadith number: 239

Translation:

(239) Sulaiman ibn Musa (may Allah be pleased with him) said: The Messenger of

Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: "Whoever performs ablution should rinse his mouth and put water in his nose."
[Daif (Weak). Narrated by Al-Daraqutni 1/84]

Sunan Kubra Bayhaqi 240

Arabic Translation:

ق (وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ وَ عَطَائُ أَخِرَ قَوْلَيْهِ وَالزُّبَيْرِيُّ وَقَتَادَةُ وَرَبِيعَةُ
وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيِّ -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوَدْبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ دَاسَةَ (٢٤١)
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا
بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ ابْنِ
الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -)) : عَشْرٌ مِنَ
الْفِطْرَةِ : قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ ، وَالسِّوَاكُ وَالِاسْتِنْشَاقُ
بِالْمَاءِ ، وَقَصُّ الْأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ ، وَنَتْفُ

الإِبْطِ وَحَلَقُ الْعَانَةِ ، وَانْتِقَاصُ الْمَائِ يَعْنِي الْإِسْتِنْجَاءَ بِالْمَائِ)) (-).
قَالَ زَكَرِيَّا قَالَ مُصْعَبٌ : وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
الْمَضْمَضَةَ.

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ عَنْ وَكَيْعٍ وَذَكَرَ فِيهِ يَعْنِي
الْإِسْتِنْجَاءَ بِالْمَائِ .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کا طریقہ اور دونوں کے
واجب نہ ہونے کا بیان
حدیث نمبر: 240

:ترجمہ

(الف) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (۲۴۱) فرمایا " :دس چیزیں فطرت میں سے ہیں : مونچھیں کاٹنا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، ناخن کاٹنا، پوروں کو دھونا، بغل کے بال اکھیڑنا، زیر ناف بال موندنا اور پانی سے استنجا کرنا۔ زکریا راوی کہتے ہیں کہ مصعب نے کہا :میں دسویں چیزیں بھول گیا ہوں شاید وہ کلی کرنا ہے۔

ب (صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ یہ ہیں: پانی کے ساتھ استنجا کرنا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: How to rinse the mouth and put water in the nose and the statement that both are not obligatory

Hadith number: 240

Translation:

(240) It is narrated on the authority of Ayesha (may Allah have mercy on her) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allaah be upon him) said: Ten are the acts according to fitra: clipping the moustache, letting the beard grow, using the tooth-stick, snuffing water in the nose, cutting the nails, washing the finger joints, plucking the hair under the armpits, shaving the pubes and intanja with water (cleaning one's private

parts with water). Zakaria narrates that Musab said: I have forgotten the tenth, but it may have been rinsing the mouth.

(B) The words of Sahih Muslim's narration are: Istanja with the help of water.

[Sahih. Narrated by Muslim 261 and Abu Dawud 53 and Tirmidhi 2757 and Ibn Majah 293 and Ahmad 4/264, 25114]

Sunan Kubra Bayhaqi 241

Arabic Translation:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو صَادِقٍ: مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي (٢٤٢)
الْفَوَارِسِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا
 حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمَّارِ
 بْنِ يَاسِرٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ((:عَشْرَةٌ مِنْ
 ، الْفِطْرَةِ :الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ ، وَالسِّوَاكُ وَقَصُّ الشَّارِبِ
 ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ
 وَالِانْتِضَاحُ بِالْمَاءِ وَالْخِتَانُ)) (-).

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کا طریقہ اور دونوں کے
 واجب نہ ہونے کا بیان
 حدیث نمبر: 241

:ترجمہ

" (: ۲۴۲ (سیدنا عمار بن یاسرؓ فرماتے ہیں: نبی ﷺ نے فرمایا
 دس چیزیں فطرت میں سے ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی
 چڑھانا، مسواک کرنا، مونچھیں کاٹنا، ناخن کاٹنا اور بغل کے
 بال اکھیڑنا، زیرِ ناف بال مونڈنا، پوروں کو دھونا، پانی کے
 " چھینٹے مارنا اور ختنہ کرنا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: How to rinse the mouth and put water in the nose and the statement that both are not obligatory

Hadith number: 241

Translation:

(241) Ammar ibn Yasir (may Allah be pleased with him) said: The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: Ten are the acts according to fitra: Rinsing the mouth, watering the nose, using the miswak, cutting the mustache, cutting the nails and armpit hair, shaving the hair under the navel, washing the finger joints, sprinkling water and circumcising."

[Hasan Li Ghayrihi (Fair due to external evidence)]

Sunan Kubra Bayhaqi 242

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ (٢٤٣)
جَعْفَرُ الْقَطِيعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنِي
أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخَزَاعِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ زَيْدِ
بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَائِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ تَوَضَّأَ
فَغَسَلَ وَجْهَهُ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَائٍ فَتَمَضَّمَصَ بِهَا ، وَاسْتَنْشَرَ ثُمَّ
أَخَذَ غَرْفَةً فَجَعَلَ بِهَا يَكْدَا يَعْنِي أَضَافَهَا إِلَى يَدِهِ الْأُخْرَى ، فَغَسَلَ
بِهَا وَجْهَهُ ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَائٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُمْنَى ، ثُمَّ
أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَائٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسْرَى ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ ، ثُمَّ
أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَائٍ ، ثُمَّ رَشَّ عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى حَتَّى غَسَلَهَا ، ثُمَّ
أَخَذَ غَرْفَةً أُخْرَى فَغَسَلَ بِهَا رِجْلَهُ الْيُسْرَى ثُمَّ قَالَ: يَكْدَا
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - يَعْنِي يَتَوَضَّأَ -
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ مَنْصُورِ بْنِ سَلَمَةَ الْخَزَاعِيِّ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: چہرہ دھونے کا بیان

حدیث نمبر: 242

ترجمہ:

(۲۴۳) (سیدنا ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے وضو کیا تو اپنے چہرے کو دھویا، پھر پانی کا چلو لے کر اس سے کلی کی اور ناک جھاڑا، پھر ایک چلو اور لے کر ایسے ہی کیا، یعنی اس کو دوسرے ہاتھ کی طرف بہایا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے چہرے کو دھویا، پھر پانی کا ایک چلو لیا اور اس سے اپنے دائیں ہاتھ کو دھویا، پھر پانی کا ایک چلو لیا اور اپنا بائیں ہاتھ دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر پانی کا ایک چلو لیا اور اپنے دائیں پاؤں پر چھینٹے مار کر اس کو دھویا، پھر پانی کا ایک دوسرا چلو لیا اور اپنا بائیں پاؤں دھویا پھر فرمایا: میں نے اسی طرح رسول اللہ ﷺ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on washing the face

Hadith number: 242

Translation:

(242) It is narrated from Ibn `Abbas (may Allah be pleased with him) when he performed ablution and he washed his face (in the following way): He ladled out a handful of water, rinsed his mouth and washed his nose with it by putting in water and then blowing it out. He then, took another handful (of water) and did like this (gesturing) joining both hands, and washed his face, took another handful of water and washed his right forearm. He again took another handful of water and washed his left forearm, and passed wet hands over his head and took another handful of water and sprinkled it over his right foot (up to his ankles) and washed it and similarly took another handful of water and washed his left foot (up to the ankles) and said, "I saw Allah's Messenger (ﷺ) performing ablution in this way."

[Sahih. Narrated by Bukhari 140 and Nasai
101, 102]

Sunan Kubra Bayhaqi 243

Arabic Translation:

:حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ :عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَافِظُ وَأَبُو عَمْرٍو (٢٤٤)
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَدِيبُ قَالَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ :أَحْمَدُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ الْإِسْمَاعِيلِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ :جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ
الْفَارِيزِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ
:بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدٍ أَخْبَرَهُ
أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ :أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا
بِإِنَائِي ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَعَسَلَهُمَا ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي
الْإِنَائِي فَتَمَضَّمْضَ وَاسْتَنْثَرَ ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَيَدَيْهِ
إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ
ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- : ((مَنْ
تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ
فِيهِمَا نَفْسَهُ بِشَيْءٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ))-
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
الْأَوْيسِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ
حَرْبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ-
وَرَوَيْنَا فِي ذَلِكَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ (ت)

عَنْهُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: چہرے کو بار بار دھونے کا بیان

حدیث نمبر: 243

:ترجمہ

(۲۴۴) (سیدنا عثمان رض کے آزاد کردہ غلام حمران نے خبر دی کہ اس نے سیدنا عثمان بن عفان رض کو دیکھا، آپ نے برتن منگوا یا اور اپنے ہاتھوں پر تین مرتبہ پانی ڈال کر ان کو دھویا، پھر اپنا ہاتھ برتن میں ڈالا اور کلی کی، ناک جھاڑا اور اپنے چہرے کو تین مرتبہ دھویا، پھر تین مرتبہ اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت تین مرتبہ دھویا، پھر فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " جس نے میرے وضو کی طرح وضو کیا، پھر دو رکعتیں پڑھیں کہ ان میں اپنے اندر کسی چیز کا خیال پیدا نہیں کیا تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔"

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on repeatedly washing the face

Hadith number: 243

Translation:

(243) Hamran, the freed slave of Uthman, reported that he saw Uthman bin Affan asking for a tumbler of water (and when it was brought) he poured water over his hands and washed them thrice and then put his right hand in the water container and rinsed his mouth, washed his nose by putting water in it and then blowing it out, then he washed his face thrice and washed his forearms up to the elbows thrice, passed his wet hands over his head and washed his feet up to the ankles thrice. Then he said, "Allah's Messenger (peace and blessings of Allah be upon him)

said 'If anyone performs ablution like that of mine and offers a two-rak'at prayer during which he does not think of anything else (not related to the present prayer) then his past sins will be forgiven.' "

[Sahih. Narrated by Bukhari 159, 164, 1934 and Muslim 226 and Nasai 84 and and Ibn Majah 285 and Malik 6/29 and Ahmad 1/72 and Darimi 720]

Sunan Kubra Bayhaqi 244

Arabic Translation:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذُبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ دَاسَةَ (٢٤٥)

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنِي
 مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ
 بْنِ يَزِيدِ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: دَخَلَ
 عَلَيَّ عَلَى وَقَدْ أَهْرَاقَ الْمَاءَ فِدَعَا بَوْضُوءِي فَأَتَيْتَاهُ بِتَوْرٍ فِيهِ مَاءٌ
 حَتَّى وَضَعْنَاهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ عَبَّاسِ أَلَا أُرِيكَ كَيْفَ كَانَ
 يَتَوَضَّأُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - ؟ قُلْتُ : بَلَى قَالَ : فَأَصْنَعِي الْإِنَائِي عَلَى يَدِهِ
 فَعَسَلَهُمَا ، ثُمَّ ادْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى فَأَفْرَغَ بِهَا عَلَى الْأُخْرَى ، ثُمَّ
 غَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ تَمَضَّمْضَ وَاسْتَنْشَرَ ، ثُمَّ ادْخَلَ يَدَيْهِ فِي الْإِنَائِي
 جَمِيعًا ، فَأَخَذَ بِمَا حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَضَرَبَ بِهَا عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أَلْقَمَ
 إِبْهَامِيهِ مَا أَقْبَلَ مِنْ أُذُنَيْهِ ، ثُمَّ الثَّانِيَةَ ثُمَّ الثَّلَاثَةَ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ
 أَخَذَ بِكَفِّهِ الْيُمْنَى قَبْضَةً مِنْ مَاءٍ فَصَبَّهَا عَلَى نَاصِيَّتَيْهِ ، فَتَرَكَهَا
 تَسْتَنْ عَلَى وَجْهِهِ - وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ - .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: چہرے کو بار بار دھونے کا بیان

حدیث نمبر: 244

:ترجمہ

(۲۴۵) (سیدنا ابن عباس رضی سے روایت ہے کہ میرے پاس علی تشریف لائے، انہوں نے قضائے حاجت کی، پھر پانی منگوا یا، ہم آپ کے پاس برتن میں پانی لے کر آئے اور آپ کے سامنے رکھ دیا۔ سیدنا علی رضی نے فرمایا: اے ابن عباس! کیا میں آپ کو نہ دکھلاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کیا کرتے تھے؟ میں نے کہا: کیوں نہیں! تو انہوں نے برتن اپنے ہاتھ پر جھکایا اور ہاتھوں کو دھویا۔ پھر اپنا دائیں ہاتھ برتن میں داخل کیا، اس ہاتھ سے پانی دوسرے ہاتھ پر ڈالا، پھر اپنی ہتھیلیوں کو دھویا، پھر کلی کی اور ناک جھاڑا۔ پھر اکٹھے اپنے ہاتھوں کو برتن میں داخل کیا اور دونوں ہاتھوں کے ساتھ چلو لے کر اس کو اپنے منہ پر مارا، پھر اپنے انگوٹھے کان کی اگلی جانب داخل کیے۔ پھر دوسری اور تیسری مرتبہ بھی ایسے ہی کیا، پھر دائیں ہاتھ سے پانی کا چلو لیا تو اس کو اپنی پیشانی پر ڈالا۔ پھر اس پانی کو چھوڑ دیا۔ پانی آپ کی پیشانی پر بہ رہا تھا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement of repeated face washing

Hadith number: 244

Translation:

(244) It is narrated from Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) Ali (may Allah be pleased with him) came to me, he made ablution, he then called for water for ablution. We brought to him a vessel containing water, and placed it before him. He said: O Ibn' Abbas, may I not show you how the Messenger of Allah (peace and blessings of Allaah be upon him) used to perform ablution? I replied: Why not? He then inclined the vessel to his hand and washed it. He then put his right hand in the vessel and poured water over the other hand and washed his hands up to the wrist. He then rinsed his mouth and snuffed up water in his nose. He then put both of his hands together in the water and took out a handful of water and threw it on the face. He then inserted both of his thumbs in the front part of the ears. He did like that twice and thrice. Then he took a

handful of water with his right hand and put it on his forehead. Then he released the water. Water was flowing from his forehead.

[Hasan (Fair). Narrated by Nasai 95 and Abu Dawud 117 and Ahmad 1/82]

Sunan Kubra Bayhaqi 245

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا (٢٤٤)

أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيَّ بِمَرَوْ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ
 مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ -
 ح (وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيِّ حَدَّثَنَا
 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
 أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ يَعْنِي ابْنَ جَمْرَةَ عَنْ
 شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَانَ تَوْضَأَ فذَكَرَ
 الْحَدِيثَ -

قَالَ: فَخَلَّلَ لِحَيْتَهُ ثَلَاثًا حِينَ غَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -
ﷺ - فَعَلَّ الَّذِي رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ -
 بَلَّغَنِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ
 فَقَالَ: بُوَ حَسَنٌ -
 قَالَ مُحَمَّدٌ: أَصَحُّ شَيْءٍ عِنْدِي فِي التَّخْلِيلِ حَدِيثُ عُثْمَانَ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: داڑھی کا خلال کرنا
 حدیث نمبر: 245

:ترجمہ

(۲۴۶) (سیدنا شقیق بن سلمةؓ فرماتے ہیں کہ میں نے

حضرت عثمان بن عفانؓ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ پھر انہوں نے مکمل حدیث ذکر کی، فرماتے ہیں: جس وقت انہوں نے اپنے چہرے کو دھویا تو تین مرتبہ داڑھی کا خلال کیا اور فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے جس طرح تم نے مجھے دیکھا ہے۔
(ب) محمد کہتے ہیں: میرے نزدیک داڑھی کے خلال میں حدیث عثمانؓ سب سے زیادہ صحیح ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Washing the Beard

Hadith number: 245

Translation:

(245) Sayyidna Shaqiq ibn Salma says that I saw Hazrat Uthman ibn Affan (may Allah be pleased with him) performing Wudhu. Then he narrated the whole hadith, saying: When he washed his face, he washed his beard three times and said: I have seen the Messenger of Allah (peace be upon him) do

as you have seen me.

(B) Muhammad says: In my opinion, the hadith of 'Uthman is the most authentic in washing the beard.

[Daif (Weak). Narrated by Ibn Hibban 1081]

Sunan Kubra Bayhaqi 246

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوَدْبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ (٢٤٧)

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمَلِيحِ
 حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ زُورَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -
 ﷺ - كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَائٍ فَأَدْخَلَهُ تَحْتَ حَنَكِهِ ، فَخَلَّلَ
 بِهِ لِحْيَتَهُ وَقَالَ: بِكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ -
 (ت) (وَرُوِينَا فِي ذَلِكَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَمُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ وَغَيْرِهِمَا
 عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: داڑھی کا خلال کرنا
 حدیث نمبر: 246

:ترجمہ

(۲۴۷) (سیدنا انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب وضو کرتے تو ہتھیلی میں پانی لیتے اور اس کو اپنی ٹھوڑی کے نیچے داخل کرتے، پھر اس سے اپنی داڑھی کا خلال کرتے اور فرماتے " :اسی طرح میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے۔"

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Washing the Beard

Hadith number: 246

Translation:

(246) It is narrated from Anas bin Malik (may Allah be pleased with him) that when the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) performed ablution, he took a handful of water, and, putting it under his chin, made it go through his beard, saying: "Thus did my Lord command me."

[Sahih. Narrated by Abu Dawud 145 and Ibn Majah 431]

Sunan Kubra Bayhaqi 247

Arabic Translation:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ (٢٤٨)
يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ أَسَدٍ
حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا السُّكَّرِيُّ يَعْنِي أَبَا حَمْرَةَ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ الصَّائِعِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: وَضَّأْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ وَعَنْقَتَهُ بِالْأَصَابِعِ ، وَقَالَ:)) بِكَذَا
أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ ((-
ت (وَرُوِينَا فِي تَخْلِيلِ اللَّحْيَةِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ وَعَائِشَةَ وَامَّ
سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - ثُمَّ عَنْ عَلِيٍّ وَغَيْرِهِ- وَرُوِينَا فِي الرَّخْصَةِ
فِي تَرْكِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ثُمَّ عَنِ النَّخَعِيِّ وَجَمَاعَةٍ
مِنَ التَّابِعِينَ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان

باب: داڑھی کا خلال کرنا

حدیث نمبر: 247

ترجمہ:

(۲۴۸) سیدنا انس بن مالک رض سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھا تو انہوں نے اپنی داڑھی اور بچہ داڑھی کا انگلیوں کے ساتھ خلال کیا اور فرمایا: "اسی طرح میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے۔"
(ب) داڑھی کے خلال کے متعلق سیدنا عمار بن یاسر رض، سیدہ عائشہ صدیقہ رض اور سیدہ ام سلمہ رض سے مرفوع روایات بیان کی ہیں۔ اسی طرح حضرت علی رض سے۔ پھر سیدنا ابن عمر رض، حسن بن علی رض، امام نخعی (رح) اور تابعین کی ایک جماعت سے ایسا نہ کرنا روایت کیا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Washing the Beard

Hadith number: 247

Translation:

(247) It is narrated on the authority of Anas

ibn Malik that I kept the water of ablution for the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him). So he washed his beard with his fingers and said: "This is how my Lord has commanded me."

(B) Washing the beard has been narrated from Ammar bin Yasir, Ayesha Siddiqah and Umm Salmah and also from Hazrat Ali.

But it has also been narrated from Ibn Umar, Hasan ibn Ali, Imam Nakha'i (may Allah be pleased with them) and a group of the tabi'een not to do so.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence)]

Sunan Kubra Bayhaqi 248

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصُّوفِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ (٢٤٩)
بْنُ عَدِيِّ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا ابْنُ دُحَيْمٍ وَجَمَاعَةٌ قَالُوا حَدَّثَنَا بِشَامُ بْنُ
عَمَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْعَشْرِينَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ
الْوَاحِدِ بْنُ قَيْسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -
ﷺ - إِذَا تَوَضَّأَ عَرَكَ عَارِضِيهِ بَعْضَ الْعَرَكَ ، ثُمَّ شَبَكَ لِحْيَتَهُ
بِأَصَابِعِهِ مِنْ تَحْتِهَا . (ج) (تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ
قَيْسٍ - وَاخْتَلَفُوا فِي عَدَالَتِهِ ، فَوَثَّقَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَأَبَاهُ يَحْيَى
بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الدَّارِقُطْنِيُّ الْحَافِظُ
قَالَ قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ قَالَ أَبِي : رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْوَلِيدُ عَنْ
الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا : كَانَ
النَّبِيُّ ﷺ - مُرْسَلًا وَهُوَ صَوَابٌ -
قَالَ أَبُو الْحَسَنِ : وَرَوَاهُ أَبُو الْمُغِيرَةَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ مَوْقُوفًا

عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ الصَّوَابُ۔

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: رخساروں کو اچھی طرح مل کر دھونے کا بیان

حدیث نمبر: 248

:ترجمہ

(۲۴۹) (سیدنا عبداللہ بن عمر^{رض} سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب وضو کرتے تو اپنے رخساروں کو اچھی طرح ملتے۔ پھر داڑھی کے نیچے سے انگلیاں ڈال کر خلال کرتے۔

ب) (ابن ابی حاتم کے والد بیان فرماتے ہیں کہ ولید نے عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَبْدِ الْوَّاحِدِ عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ وَقَتَادَةَ كِي سَنَدٍ مَرْفُوعٍ بَيَانُ كَيْفَا هُوَ ، لَيْكِنَ اس كَا مَرْسَلٌ هُونَا زِيَادَه صَحِيحٌ

ہے۔

ج) (سیدنا ابن عمر^{رض} پر اس کا موقف ہونا ہی درست ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The statement on washing the cheeks well

Hadith number: 248

Translation:

(248) It is narrated from Abdullah ibn Umar (may Allah be pleased with him) that when the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) performed ablution, he would rub his cheeks well. Then he would put his fingers under his beard and wash it.

(B) Ibn Abi Hatim's father states that Waleed has narrated from the authority of Al-Awza'i on the authority of 'Abd al-Wahid on the authority of Yazid al-Raqashi and Waqtadah in a marfu hadith but it being mursal is more correct.

(C) It is correct to stop it (the narration) on Ibn Umar (may Allah be pleased with him).

Sunan Kubra Bayhaqi 249

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ (٢٥٠)
مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ
حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ قَيْسٍ عَنْ يَزِيدَ
الرَّقَاشِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - نَحْوَهُ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: رخساروں کو اچھی طرح مل کر دھونے کا بیان
حدیث نمبر: 249

:ترجمہ

(۲۵۰) یزید رقاشی نبی ﷺ سے اسی پچھلی حدیث کی طرح بیان کرتے ہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The statement on washing the cheeks well

Hadith number: 249

Translation:

(249) Yazid Raqashi narrates from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) like the previous hadeeth.

[Daif (Weak). Narrated by Al-Daraqutni 1/107]

Sunan Kubra Bayhaqi 250

Arabic Translation:

وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ قَيْسٍ عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ (۲۵۱)
ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ يَغْرُكُ عَارِضِيهِ وَيَشْبِكُ لِحِيَّتَهُ
بِأَصَابِعِهِ أَحْيَانًا وَيَتْرُكُ أَحْيَانًا.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: رخساروں کو اچھی طرح مل کر دھونے کا بیان

حدیث نمبر: 250

ترجمہ:

(۲۵۱) (نافع) رح (سے روایت ہے کہ سیدنا ابن عمرؓ جب
وضو کرتے تو اپنے رخساروں کو مل کر دھوتے، کبھی اپنی
انگلیوں کے ساتھ داڑھی کا خلال کرتے، کبھی چھوڑ دیتے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The statement on washing the cheeks well together

Hadith number: 250

Translation:

(250) It is narrated from Nafi (may Allah have mercy on him) that when Ibn Umar (may Allah be pleased with him) used to perform ablution, he would wash his cheeks by rubbing them, sometimes he would wash his beard with his fingers, sometimes he would leave it.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 251

Arabic Translation:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ السُّوسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ (٢٥٢)
الْأَصَمُّ أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزِيدٍ أَخْبَرَنِي أَبِي
أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنِي نَافِعٌ: أَنَّ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَعْزُكُ عَارِضِيَهُ وَيَشْبِكُ لِحِيَّتَهُ بِأَصَابِعِهِ
أَحْيَانًا وَيَتْرُكُ هَكَذَا قَالَ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
کتاب: پاکی کا بیان

باب: رخساروں کو اچھی طرح مل کر دھونے کا بیان

حدیث نمبر: 251

ترجمہ:

(۲۵۲) (نافع) رح (نے بیان کیا ہے کہ سیدنا ابن عمرؓ اپنے رخساروں کو اچھی طرح مل کر دھوتے تھے، کبھی اپنی انگلیوں کے ساتھ داڑھی کا خلال کرتے تھے اور کبھی چھوڑ دیتے تھے پھر راوی نے اس طرح کر کے دکھلایا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The statement on washing the cheeks well together

Hadith number: 251

Translation:

(251) Nafi (may Allah have mercy on him) has narrated that Ibn Umar (may Allah be pleased with him) used to wash his cheeks well by rubbing them, sometimes he would wash his beard with his fingers and

sometimes he would leave it.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 252

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ : عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ (٢٥٣)
مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو اللَّيْثُ : نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ
الْفَرَائِضِيُّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ
عَطَائِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - تَوَضَّأَ فَعَرَفَ
غَرْفَةً فَمَضَمَ مِنْهَا وَاسْتَنْثَرَ ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَعَسَلَ وَجْهَهُ ، ثُمَّ
غَرَفَ غَرْفَةً فَعَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَعَسَلَ يَدَهُ
، الْيُسْرَى ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَأُذُنَيْهِ دَاخِلَهُمَا بِالسَّبَابَتَيْنِ
وَخَالَفَ بَابِهِمَا عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ فَمَسَحَ بَاطِنَهُمَا وَظَاهِرَهُمَا ، ثُمَّ
غَرَفَ غَرْفَةً

فَغَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: ہاتھوں کو دھونا
حدیث نمبر: 252

:ترجمہ

(۲۵۳) (سیدنا ابن عباس^{رض} سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے وضو کیا تو ایک چلو پانی لیا، اس سے کلی کی اور ناک جھاڑا، جھاڑا پھر ایک چلو پانی لیا، اس سے اپنے چہرے کو دھویا، پھر ایک چلو پانی لیا اور اس سے اپنا دایاں ہاتھ دھویا، پھر ایک چلو پانی لیا، اس سے اپنا بائیں ہاتھ دھویا، پھر ایک چلو پانی لیا، اس سے انگشت شہادت کے ساتھ اپنے کانوں کے اندرونی حصے کا اور انگوٹھوں کے ساتھ بیرونی حصے کا، مسح کیا، پھر ایک چلو پانی لیا، اس سے اپنا دایاں پاؤں دھویا، پھر ایک چلو پانی لیا اور اس سے اپنا بائیں پاؤں دھویا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Washing The Hands

Hadith number: 252

Translation:

(252) It is narrated from Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) that when the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) performed ablution, he took a handful of water, rinsed his mouth and wiped his nose. Then he took a handful of water, washed his face with it, then took a handful of water he washed his right hand with it, then took a handful of water, washed his left hand with it, then took a handful of water, wiped the inner part of his ears with his index finger and the outer part with his thumbs, then took one handful of water and washed his right foot with it, then took one handful of water and washed his left foot with it.

[Hasan (Fair). Narrated by Ibn Abi Shaybah 63]

Sunan Kubra Bayhaqi 253

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو (٢٥٤)
الْعَبَّاسِ: الْقَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السِّيَّارِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ أَخْبَرَنَا
عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عَطَائِ
بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ
، عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَتَوَضَّأُ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا فغَسَلَهُمَا
ثُمَّ تَمَضَّمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ
الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ مَسَحَ
يَدَهُ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا ، ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ
ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ، ثُمَّ ،
قَالَ ((مَنْ تَوَضَّأَ كَوُضُوئِي هَذَا ثُمَّ

صَلَّى رَكَعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا بِشَيْءٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)) (-).
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِانَ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: ہاتھوں کو تکرار سے دھونے کا بیان
حدیث نمبر: 253

ترجمہ:

(۲۵۴) (حمران بن ابان فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا عثمان بن عفانؓ کو دیکھا، انہوں نے اپنے ہاتھوں پر تین مرتبہ پانی ڈالا، پھر ان کو دھویا، پھر کلی کی اور ناک جھاڑا اور اپنے چہرے چہرے کو تین مرتبہ دھویا، پھر اپنے دائیں ہاتھ کو کہنی سمیت تین مرتبہ دھویا، پھر اسی طرح بائیں کو دھویا، پھر اپنے ہاتھ سے سر کا مسح کیا، پھر اپنے دائیں پاؤں کو تین مرتبہ دھویا، پھر اسی طرح بائیں کو، پھر فرمایا: میں نے رسول اللہ کو اس طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے اور آپ ﷺ نے فرمایا: جس نے میرے اس وضو

کی طرح وضو کیا، پھر دو رکعتیں پڑھیں، ان دونوں رکعتوں
میں کسی چیز کا خیال دل میں پیدا نہیں ہوا تو اس کے اگلے
گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The statement on washing hands
repeatedly

Hadith number: 253

Translation:

(253) Hamran ibn Aban says that I saw
'Uthman ibn Affan (may Allah be pleased with
him). He poured water on his hands three
times, then washed them, then rinsed his
mouth and swiped his nose and washed his
face three times. He washed his right hand

three times including his elbow, then he washed his left hand in the same way, then he wiped his head with his hand, then he washed his right foot three times, then his left hand in the same way, then he said: I saw the Messenger of Allah (peace and blessings of Allaah be upon him) performing ablution the same way (as i did) and then he (peace and blessings of Allaah be upon him) said: "Allah's Messenger (peace and blessings of Allaah be upon him) said 'If anyone performs ablution like that of mine and offers a two-rak'at prayer during which he does not think of anything else (not related to the present prayer) then his past sins will be forgiven.' "

[Sahih. Narrated by Bukhari 159, 164, 1934 and Muslim 226 and Nasai 84 and and Ibn Majah 285 and Malik 6/29 and Ahmad 1/72 and Darimi 720]

Sunan Kubra Bayhaqi 254

Arabic Translation:

(ق) (وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ -
حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَبْدَوِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ (٢٥٥)
أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ بِبَغْدَادَ
حَدَّثَنِي سُؤَيْدٌ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَقِيلِيُّ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ
-يُدِيرُ الْمَاءَ عَلَى الْمِرْفَقِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

کتاب: پاکی کا بیان

باب: وضو میں کہنیوں کے شامل ہونے کا بیان

حدیث نمبر: 254

ترجمہ:

(۲۵۴) (سیدنا جابرؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو کہنیوں پر پانی پھیرتے ہوئے دیکھا۔ ضعیف۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on the inclusion of elbows in ablution

Hadith number: 254

Translation:

(254) It is narrated from Syeduna Jabir (may Allah be pleased with him) that I saw the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) pouring water on his elbows.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 255

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ (٢٥٦)
عُمَرَ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا الْقَاضِي أَبُو جَعْفَرٍ: أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بُهْلُولِ
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَدِّهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ
اللَّهِ - ﷺ - إِذَا تَوَضَّأَ أَدَارَ الْمَاءَ عَلَى مِرْفَقَيْهِ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
کتاب: پاکی کا بیان

باب: وضو میں کہنیوں کے شامل ہونے کا بیان

حدیث نمبر: 255

ترجمہ:

(۲۵۶) (سیدنا جابر بن عبداللہؓ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ وضو فرماتے تو اپنی کہنیوں پر پانی پھیرتے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement of the inclusion of elbows
in ablution

Hadith number: 255

Translation:

(255) It is narrated from Jabir bin Abdullah (may Allah be pleased with him) that when the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) performed ablution, he would throw water on his elbows.

[Daif (Weak). Narrated by Al-Daraqutni 1/83

Sunan Kubra Bayhaqi 256

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٢٥٧)
بْنِ الْفَضْلِ الْمُرَكِّي حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ
سَعِيدٍ حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي
حَازِمٍ قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ، فَكَانَ
يَمُدُّ يَدَهُ حَتَّى يَبْلُغَ إِبْطَهُ ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا بَدَأَ
الْوُضُوءُ؟ فَقَالَ لِي: يَا بَنِي فَرُّوخَ أَنْتُمْ بَا هُنَا ، لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ بَا
هُنَا مَا تَوَضَّأْتُ بَدَأَ الْوُضُوءِ ، سَمِعْتُ خَلِيلِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: ((: تَبْلُغُ
الْحَلِيَّةَ مِنَ الْمُؤْمِنِ حَيْثُ يَبْلُغُ الْوُضُوءُ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ بْنُ الْحَجَّاجِ
فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ)) (-).

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: پانی کندھوں تک لے جانا مستحب ہے

حدیث نمبر: 256

ترجمہ:

(۲۵۹) ابو حازم فرماتے ہیں کہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی کے پیچھے تھا، وہ نماز کے لیے وضو کر رہے تھے۔ دورانِ وضو وہ اپنے ہاتھ کو بغلوں تک کھینچ کر لے جاتے تھے۔ میں نے ان سے کہا: اے ابو ہریرہ! یہ کیسا وضو ہے؟ انہوں نے فرمایا: اے بنی فروخ! تم یہاں ہو؟ اگر مجھے علم ہوتا کہ تم یہاں ہو تو میں یہ وضو نہ کرتا، میں نے اپنے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مومن کی سفیدی وہاں تک پہنچے گی جہاں تک وضو کا پانی لگے گا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: It is mustahabb (recommended) to carry water till the shoulders

Hadith number: 256

Translation:

(256) Abu Hazem says that I was behind Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him), when he was performing ablution for prayer. During ablution, he would extend (the washing of) his hand up to his armpits. I said to him: O Abu Hurayrah! What kind of ablution is this? He said: O Tribe of Farrukh! You are here? If I had known that you were here, I would not have performed this ablution. I have heard from my Khalil (the Messenger (peace and blessings of Allaah be upon him)) that the adornment of a believer will reach as far as the water of ablution (reaches).
[Sahih. Narrated by Muslim 250 and Nasai 149]

Sunan Kubra Bayhaqi 257

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدٌ (٢٥٨)
بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حَسَنِ بْنِ مُهَاجِرٍ حَدَّثَنَا هَارُونَ بْنُ سَعِيدِ
الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي
بِلَالٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ -.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: پانی کندھوں تک لے جانا مستحب ہے

حدیث نمبر: 257

ترجمہ:

(۲۵۸) سیدنا ابوہریرہؓ فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ سے سنا۔۔۔ پچھلی حدیث

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: It is mustahabb (recommended) to carry water till the shoulders

Hadith number: 257

Translation:

(257) Abu Hurayrah says: I heard from the Messenger of Allah ... Previous Hadith

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 258

Arabic Translation:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ أَنْ وَاللَّفْظُ لَهُ (٢٥٩)
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ الصَّفَّارِ حَدَّثَنَا ابْنُ مِلْحَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بِلَالٍ عَنْ نَعِيمِ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجَمِّرِ أَنَّهُ قَالَ : رَقِيتُ يَوْمًا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ
الْمَسْجِدِ وَعَلَيْهِ سَرَائِيلُ مِنْ تَحْتِ قَمِيصِهِ ، فَنَزَعَ سَرَائِيلَهُ ثُمَّ
، تَوَضَّأَ ، فَعَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَرَفَعَ فِي عَضُدَيْهِ الْوُضُوءَ
وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ وَرَفَعَ فِي سَاقَيْهِ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ((: إِنْ أُمَّتِي تَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ
مِنْ آثَارِ الْوُضُوءِ ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ)) .-

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ دُونَ
فِعْلِ أَبِي بُرَيْرَةَ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ هَارُونَ بْنِ سَعِيدٍ وَذَكَرَ فِعْلَ
أَبِي بُرَيْرَةَ بِمَعْنَاهُ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: پانی کندھوں تک لے جانا مستحب ہے

حدیث نمبر: 258

ترجمہ:

(۲۵۹) سیدنا نعیم بن عبداللہ مجمر سے روایت ہے کہ میں ایک دن سیدنا ابوہریرہؓ کے ساتھ مسجد کی چھت پر چڑھا، ان پر قمیض کے نیچے شلوار تھی۔ انہوں نے اپنی شلوار کو کھینچا، پھر وضو کیا، پھر اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا اور ہاتھوں کو کندھوں تک دھویا، پاؤں کو پنڈلیوں تک دھویا، پھر " فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے بیشک میری امت قیامت کے دن آئے گی اور ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، جو یہ طاقت رکھے کہ وہ اپنی سفیدی کو بڑھائے تو وہ ایسا کرے۔ "

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: It is mustahab to carry water to the shoulders

Hadith number: 258

Translation:

(258) It is narrated from Syeduna Naeem bin Abdullah Mujmar (may Allah have mercy on him) that one day I climbed on the roof of the mosque with Syedna Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) and he had a pant under his shirt. He stretched his pant, then performed ablution, then washed his face and hands and washed his hands up to his shoulders, washed his feet up to his shins, then said: I have heard the Messenger of Allah saying: "Surely my ummah will come on the Day of Resurrection and their limbs of ablution will be shining and whoever can

increase the area of his radiance should do so (i.e. by performing ablution regularly)."

[Sahih. Narrated by Bukhari 136 and Muslim 246]

Sunan Kubra Bayhaqi 259

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَالِينِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو (٢٦٠)
أَحْمَدُ بْنُ عَدِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ
حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الضَّرِيرُ حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ أَبِي عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا تَوَضَّأَ حَرَّكَ خَاتَمَهُ.
قَالَ أَبُو أَحْمَدَ سَمِعْتُ ابْنَ حَمَّادٍ يَقُولُ قَالَ الْبُخَارِيُّ: مُعَمَّرُ بْنُ (ج)
مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.
(ق) قَالَ الشَّيْخُ وَالْإِعْتِمَادُ فِي هَذَا الْبَابِ عَلَى الْأَثَرِ عَنْ عَلِيٍّ
وَغَيْرِهِ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاكى كا بيان

باب: ہاتھوں کو دھوتے وقت انگوٹھی کو انگلی میں حرکت دینے کا بیان

حدیث نمبر: 259

ترجمہ:

(۲۶۰) (سیدنا ابو رافعؓ سے روایت ہے کہ جب نبی ﷺ وضو

کرتے تو اپنی انگوٹھی کو حرکت دیتے۔

ب (امام بخاری) رح (فرماتے ہیں کہ معمر بن محمد بن

عبیداللہ بن ابو رافع منکر الحدیث ہے۔

ج (شیخ فرماتے ہیں: اس بارے میں سیدنا علیؓ وغیرہ کے اثر

پر اعتماد کیا جائے گا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The statement on moving the ring in the finger while washing hands

Hadith number: 259

Translation:

(259) It is narrated from Abu Rafi 'that when the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) performed ablution, he would move his ring.

(B) Imam Bukhari (may Allah have mercy on him) says that Mu'amar bin Muhammad bin Ubaidullah bin Abu Rafi 'is a denounced..

(C) The Sheikh says: In this regard, the report of Syeduna Ali (may Allah be pleased with him) etc. will be trusted.

[Daif (Weak). Narrated by Ibn Majah 449]

Sunan Kubra Bayhaqi 260

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَائِرٍ الْفَقِيهٖ مِنْ أَصْلِ سَمَاعِ أَخْبَرَنَا أَبُو (٢٦١)
:عُثْمَانَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ
الصَّمَدِ بْنُ جَابِرِ بْنِ رَبِيعَةَ الضَّبِّيُّ قَالَ سَمِعْتُ مُجَمِّعَ بْنَ عَنَابِ
بْنَ شَمِيرٍ عَنِ أَبِيهِ قَالَ: وَضَّأْتُ عَلَيَّا فَكَانَ إِذَا تَوَضَّأَ حَرَّكَ
خَاتَمَهُ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
کتاب: پاکی کا بیان

باب: ہاتھوں کو دھوتے وقت انگوٹھی کو انگلی میں حرکت
دینے کا بیان
حدیث نمبر: 260

ترجمہ:

(۲۶۱) عتاب بن شمیر فرماتے ہیں: میں نے سیدنا علیؑ کے
لیے پانی رکھا، جب آپؑ وضو کرتے تو اپنی انگوٹھی کو
حرکت دیتے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The statement on moving the ring in
the finger while washing hands

Hadith number: 260

Translation:

(260) Atab ibn Shamir says: I kept water for
Syeduna Ali (may Allah be pleased with him).
When he performed Wudhu, he would move
his ring.

[Daif (Weak). Narrated by Ibn Abi Shaybah

Sunan Kubra Bayhaqi 261

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ خُشَيْشِ التَّمِيمِيِّ (٢٦٢)
 الْمُقْرِئُ بِالْكُوفَةِ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ دُحَيْمِ
 الشَّيْبَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرِ
 التَّمَّارُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَيَزِيدُ
 بْنُ زُرَيْعٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ جَابِرٍ عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ
 رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ إِذَا تَوَضَّأَ حَرَّكَ خَاتَمَهُ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: ہاتھوں کو دھوتے وقت انگوٹھی کو انگلی میں حرکت
دینے کا بیان

حدیث نمبر: 261

ترجمہ:

(۲۶۲) (ازرق بن قیس سے روایت ہے کہ میں نے سیدنا ابن
عمرؓ کو دیکھا، جب آپ وضو کرتے تو اپنی انگوٹھی کو
حرکت دیتے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The statement on moving the ring in
the finger while washing hands

Hadith number: 261

Translation:

(261) It is narrated from Azraq ibn Qays that I
saw Ibn 'Umar, when he performed Wudhu, he
would move his ring.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 262

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْحَرَشِيُّ (٢٦٣)
أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَائِ بْنِ يَزِيدَ
اللَّيْثِيِّ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَوَضَّأَ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا فغَسَلَهُمَا ، ثُمَّ
تَمَضَّمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى
إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ
:ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ -تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضُوءِي هَذَا، ثُمَّ قَالَ ((مَنْ
تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضُوءِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ لَا

يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ((-).
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ كَمَا تَقَدَّمَ
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ أَوْجُهٍ أُخْرَ عَنْ الزُّبَيْرِيِّ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: سر کے مسح کا بیان
حدیث نمبر: 262

:ترجمہ

(۲۶۳) (حمران بن ابان فرماتے ہیں: میں نے سیدنا عثمان بن عفانؓ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، آپ نے اپنے ہاتھ پر تین مرتبہ پانی ڈالا، پھر ان کو دھویا، پھر کلی کی اور ناک جھاڑا، جھاڑا، پھر اپنے چہرے کو تین مرتبہ دھویا، پھر اپنے دائیں ہاتھ کو کہنی سمیت تین مرتبہ دھویا، پھر اسی طرح بائیں کو دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر تین مرتبہ اپنا دائیں پاؤں دھویا، دھویا، پھر اسی طرح بائیں پاؤں دھویا

پھر فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو اس طرح وضو کرتے دیکھا اور آپ ﷺ نے فرمایا " :جس نے میرے اس وضو جیسا وضو کیا، پھر دو رکعتیں پڑھیں اور اپنے دل کے اندر کوئی خیال پیدا نہیں کیا تو اس کے پہلے معاف کر دیے جائیں گے۔"

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on Wiping The Head
(doing Masah)

Hadith number: 262

Translation:

(262) Hamran ibn Aban says Uthman bin Affan (may Allah be pleased with him) called for ablution water and this is how he performed the ablution. He washed his hands thrice. He then rinsed his mouth and cleaned his nose with water (three times). He then

washed his face three times, then washed his right arm up to the elbow three times, then washed his left arm like that, then wiped his head; then washed his right foot up to the ankle three times, then washed his left foot like that, and then said: I saw the Messenger of Allah (ﷺ) perform ablution like this ablution of mine. Then the Messenger of Allah (ﷺ) said: He who performs ablution like this ablution of mine and then stood up (for prayer) and offered two rak'ahs of prayer without allowing his thoughts to be distracted, all his previous sins are expiated.

[Sahih. Narrated by Bukhari 159, 164, 1934 and Muslim 226 and Nasai 84 and and Ibn Majah 285 and Malik 6/29 and Ahmad 1/72 and Darimi 720]

Sunan Kubra Bayhaqi 263

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو (٢٦٤)
الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَفَّانَ
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عُلْقَمَةَ
الْهَمْدَانِيُّ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّهُ دَعَا بِوَضُوءِي فَذَكَرَ
الْحَدِيثَ.

قَالَ فِيهِ: ثُمَّ ادَّخَلَ يَدَهُ الِئْمَنِي فِي الْإِنَائِي حَتَّى غَمَرَبَا الْمَائِي ثُمَّ رَفَعَهَا
بِمَا حَمَلَتْ مِنَ الْمَائِي ، ثُمَّ مَسَحَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى ، ثُمَّ مَسَحَ
رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا مَرَّةً وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
وَفِي آخِرِهِ: فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى طُهُورِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -
فَهَذَا طُهُورُهُ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: سر کے مسح کا بیان

حدیث نمبر: 263

:ترجمہ

(۲۶۴) (الف) (سیدنا علیؓ سے روایت ہے کہ آپؐ نے پانی منگوا یا۔۔۔

ب) (اس میں ہے کہ پھر آپ نے اپنا دایاں ہاتھ برتن میں داخل کیا اور اس کو پانی میں ڈبو دیا، پھر پانی سے گیلے ہاتھ کو اٹھایا اور پھر اپنے بائیں پر پھیرا، پھر ان دونوں ہاتھوں کے ساتھ ایک مرتبہ اپنے سر کا مسح کیا۔۔۔

ج) (اس کے آخر میں ہے: جس شخص کو اچھا لگے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے وضو کی طرف دیکھے تو یہ آپ کا وضو ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on Wiping The Head

(doing Masah)

Hadith number: 263

Translation:

(263) (a) It is narrated from Syeduna Ali that he asked for water...

(B) In it (the narration) is that he (Ali (may Allah be pleased with him)) then put his right hand into the vessel and dipped it in the water, then lifted the wet hand from the water and then turned it to his left (hand), then with both his hands wiped his head once.

(C) At the end of it (the narration) is: If a person likes to look at the ablution of the Messenger of Allah (peace and blessings of Allaah be upon him), then this is his ablution.
[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 264

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذُبَارِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو (٢٦٥)
دَاوُدَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ
الْكِنَانِيُّ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زُرِّ بْنِ حُبَيْشٍ أَنَّهُ سَمِعَ
:عَلِيًّا وَسُئِلَ عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ
وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ حَتَّى (لَمَّا) (الْمَاءُ) يَقْطُرُ ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ
ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ :بَكَذَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: سر کے مسح کا بیان
حدیث نمبر: 264

ترجمہ:

(۲۶۵) زر بن حبیش نے سیدنا علیؑ سے سنا اور سیدنا علیؑ سے نبی ﷺ کے وضو کے بارے میں پوچھا گیا۔۔۔ اس میں ہے کہ آپ نے اپنے سر پر مسح کیا اور پانی کے قطرے بہ رہے تھے اور اپنے پاؤں کو تین تین مرتبہ دھویا، پھر فرمایا: رسول اللہ ﷺ کا وضو اس طرح تھا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on Wiping The Head

(doing Masah)

Hadith number: 264

Translation:

(264) Zar ibn Habish heard from Syeduna Ali (may Allah be pleased with him) and Ali was

asked about the ablution of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him). In the narration (it says that) he wiped his head and drops of water were flowing and he washed his feet three times, then he said: The ablution of the Messenger of Allah (peace and blessings of Allaah be upon him) was like this. [Sahih. Narrated by Abu Dawud 114]

Sunan Kubra Bayhaqi 265

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ (٢٦٦)
بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى الْأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى
حَدَّثَنَا بِشَامُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَائِ بْنِ يَسَارٍ
قَالَ قَالَ لَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ : أَتُحِبُّونَ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ كَانَ

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - يَتَوَضَّأُ؟ فَدَعَا بِإِنَائِي فِيهِ مَاءٌ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ: ثُمَّ قَبِضَ قَبْضَةً مِنَ الْمَاءِ ، فَنَفَّضَ يَدَهُ فَمَسَحَ بِهَا رَأْسَهُ وَأَذُنَيْهِ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان
باب: سر کے مسح کا بیان
حدیث نمبر: 265

:ترجمہ

(۲۶۶) (عطاء بن یسار سے روایت ہے کہ ہم سے ابن عباس نے پوچھا: کیا تم پسند کرتے ہو کہ میں تم کو دکھاؤں، رسول اللہ ﷺ کس طرح وضو کرتے تھے؟ پھر آپ نے ایک برتن منگوا یا جس میں پانی تھا۔۔ اس میں ہے کہ آپ نے پانی کا ایک ایک چلو لیا، پھر اپنے ہاتھ کو صاف کیا اور اپنے سر اور کانوں کا مسح کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on Wiping The Head
(doing Masah)

Hadith number: 265

Translation:

(265) It is narrated from Ata 'ibn Yasar that Ibn' Abbas (may Allah be pleased with him) asked us: Do you like me to show you how the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) used to perform ablution? Then he called for a vessel containing water... In the narration (it says that) he took a handful of water, then cleaned his hands and wiped his head and ears.

[Sahih]

... The full hadith was narrated by Bukhari 140 and Nasai 101, 102

Sunan Kubra Bayhaqi 266

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ (٢٦٧)
الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُتَنَّى وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا
مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ عَنْ حَمْرَةَ بْنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
:تَخَلَّفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - فَتَخَلَّفْتُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ قَالَ
((هَلْ مَعَكَ مَائٌ؟)) - فَاتَيْتُهُ بِمَطْهَرَةٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ ، ثُمَّ
ذَبَبَ يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمُّ الْجُبَّةِ ، فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ
الْجُبَّةِ ، وَأَلْقَى الْجُبَّةَ عَلَى مَنْكَبَيْهِ ، فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِنَاصِيَتَيْهِ
وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى خُفَّيْهِ - وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ -

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزْرِيعٍ عَنْ
يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمَغِيرَةِ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: سر کے بعض حصے کا مسح کرنے کا بیان
حدیث نمبر: 266

ترجمہ:

(۲۶۷) حمزہ بن مغیرہ بن شعبہؓ اپنے والد سے نقل فرماتے کہ
رسول اللہ ﷺ نماز سے (پیچھے رہ گئے، میں بھی آپ ﷺ کے
ساتھ تھا، جب آپ قضائے حاجت سے فارغ ہو گئے تو آپ ﷺ
نے فرمایا: کیا تیرے پاس پانی ہے؟ میں پانی کا ایک برتن لے
آیا تو آپ نے اپنی ہتھیلیاں اور چہرہ دھویا، پھر اپنے بازوؤں
کو نکالنا شروع ہوئے، جبے کی آستین تنگ ہو گئی تو اپنے
ہاتھوں کو جبے کے نیچے سے نکالا اور جبے کو اپنے
کندھوں پر ڈال دیا۔ پھر اپنے بازوؤں کو دھویا اور اپنی
پیشانی، پگڑی اور موزوں پر مسح کیا۔۔۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The statement on wiping part of the head

Hadith number: 266

Translation:

(266) Hamzah ibn Mughirah ibn Shu'bah used to narrate from his father that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allaah be upon him) lagged behind (in a journey) and I also lagged behind along with him. After having relieved himself he said: Have you any water with you? I brought to him a jar of water; he washed his palms, and face, and when he tried to get his forearms out (he could not) for the sleeve of the gown was tight. He, therefore, brought them out from under the gown and, throwing it over his shoulders, he washed his forearm. He then wiped his forelock and his turban and his socks.....

[Sahih. Narrated by Bukhari 182, 203, 4421, 5799 and Muslim 274 and Nasai 82, 108, 125 and Abu Dawud 149 and Ahmad 4/249, 251, 254, 255 and Darimi 740]

Sunan Kubra Bayhaqi 267

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ (٢٦٨)
أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيَّ بِمَرَوْ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ
هَارُونَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ بَكْرِ بْنِ ابْنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ
شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، وَمَسَحَ
مُقَدَّمَ رَأْسَهُ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْعِمَامَةِ أَوْ مَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ -
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أُمِّيَّةَ بْنِ بَسْطَامٍ وَغَيْرِهِ عَنْ مُعْتَمِرِ
بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ -
ت (وَرَوَاهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنِ التَّيْمِيِّ عَنْ بَكْرِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ ابْنِ
الْمُغِيرَةَ قَالَ بَكْرٌ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ ابْنِ الْمُغِيرَةَ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: سر کے بعض حصے کا مسح کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 267

ترجمہ:

(۲۶۸) (سیدنا مغیرہ بن شعبہ رض فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے موزوں پر مسح کیا اور اپنے سر کے اگلے حصے کا مسح کیا اور اپنا ہاتھ پگڑی پر رکھا یا پگڑی پر مسح کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The statement of wiping some part of the head

Hadith number: 267

Translation:

(267) Sayyidna Mughirah ibn Shu'bah (may Allah be pleased with him) says that the Messenger of Allah (may peace be upon him) wiped his socks and wiped the front of his head and placed his hand on the turban or wiped it on the turban.

[Sahih. Narrated by Bukhari 182, 203, 4421, 5799 and Muslim 274 and Nasai 82, 108, 125 and Abu Dawud 149 and Ahmad 4/249, 251, 254, 255 and Darimi 740]

Sunan Kubra Bayhaqi 268

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الصَّفَّارِ (٢٦٩)
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي أَخْبَرَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ
بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ

عَمْرُو بْنُ وَهَبٍ الثَّقَفِيُّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ فَذَكَرَ
 الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - وَفِيهِ: فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ
 وَمَسَحَ بِنَاصِيَّتِهِ، وَمَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخُفَّيْنِ -
 وَكَذَلِكَ قَالَ جَرِيرُ بْنُ حَارِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ (ت)
 وَرَوَى عَنْ قَتَادَةَ وَعَوْفٍ وَبِشَامٍ وَغَيْرِهِمْ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرُو بْنِ
 وَهَبٍ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: سر کے بعض حصے کا مسح کرنے کا بیان
 حدیث نمبر: 268

:ترجمہ

(۲۶۹) عمرو بن وہب ثقفی فرماتے ہیں: ہم سیدنا مغیرہ بن
 شعبہؓ کے پاس تھے، انہوں نے نبی ﷺ کی حدیث بیان کی۔ اس
 میں ہے کہ آپ نے وضو کیا اور اپنے چہرے اور بازوؤں کو
 دھویا، اپنی پیشانی کا مسح کیا اور اپنے موزوں اور پگڑی پر
 بھی مسح کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The statement of wiping some part of the head

Hadith number: 268

Translation:

(268) Amr ibn Wahb al-Thaqafi says: We were with Mughira ibn Shu'bah (may Allah be pleased with him), he narrated the hadith of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him). This (narration) includes that he performed ablution and washed his face and arms, wiped his forehead and wiped his socks and turban.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 269

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ (٢٧٠)
قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ
قَالَ قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَكَ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَالِكِ
بْنِ أَنَسٍ-

ح (وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَأَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ: مُحَمَّدُ بْنُ
مَدُّ بْنُ أَيُّوبَ الْبَجَلِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ
ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ
عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ وَهُوَ جَدُّ
عَمْرِو بْنِ يَحْيَى وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - هَلْ
تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِينِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -

، يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ: نَعَمْ. فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ،
 ، فَعَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ تَمَضَّمَصَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا
 وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ، ثُمَّ
 مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ، بَدَأَ بِمُقَدِّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ
 بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ ، ثُمَّ رَدَّيَهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ ، ثُمَّ
 غَسَلَ رِجْلَيْهِ-

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مَالِكٍ
 وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُوسَى الْأَنْصَارِيِّ عَنْ مَعْنٍ عَنْ
 مَالِكٍ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مکمل سر کا مسح کرنے میں اختیار ہے

حدیث نمبر: 269

ترجمہ:

(۲۷۰) عمرو بن یحییٰ مازنی اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ

ایک شخص نے عمرو بن یحییٰ کے دادا عبداللہ بن زید بن

عاصم^{رض} سے کہا: کیا آپ مجھے رسول اللہ ﷺ کا وضو کر

اے دکھا سکتے ہیں؟ سیدنا عبداللہ بن زیدؓ نے فرمایا: جی ہاں
پھر انہوں نے پانی منگوا یا، اپنے ہاتھوں پر ڈالا اور انہیں دو
دو مرتبہ دھویا، پھر کلی کی اور تین مرتبہ ناک میں پانی
چڑھایا، تین مرتبہ اپنے چہرے کو دھویا، پھر دو مرتبہ اپنے
ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھویا، پھر اپنے دونوں ہاتھوں سے
سر کا مسح کیا اور ہاتھ کو آگے سے پیچھے اور پیچھے سے
آگے لے آئے، یعنی سر کے اگلے حصے سے شروع کیا اور
گدی تک لے گئے، پھر ان دونوں کو واپس لوٹایا اور اپنی جگہ
لے آئے جہاں سے شروع کیا تھا، پھر اپنے پاؤں کو دھویا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: There is an option to wipe the whole
head

Hadith number: 269

Translation:

(269) Amr ibn Yahya Mazni narrates from his
father that a man said to Abdullah ibn Zayd
ibn Asim, the grandfather of Amr ibn Yahya:

"Can you show me the ablution of the Messenger of Allah (saw)?" Abdullah bin Zayd said: Yes! Then he asked for water, he poured it on his hands and washed them twice, then he rinsed his mouth thrice and washed his nose with water thrice by putting water in it and blowing it out. He washed his face thrice and after that he washed his forearms up to the elbows twice and then passed his wet hands over his head from its front to its back and vice versa (beginning from the front and taking them to the back of his head up to the nape of the neck and then brought them to the front again from where he had started) and washed his feet (up to the ankles).

[Sahih. Narrated by Bukhari 185]

Sunan Kubra Bayhaqi 270

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ الصَّفَّارِ (٢٧١)
حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا
زَائِدَةُ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيِّ فَذَكَرَ
الْحَدِيثَ فِي وُضُوئِهِ قَالَ: وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا مُقَدِّمَهُ
وَمُؤَخَّرَهُ مَرَّةً وَذَكَرَ الْحَدِيثَ ثُمَّ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى
وُضُوئِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - فَهَذَا كَانَ طُهُورُهُ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مکمل سر کا مسح کرنے میں اختیار ہے

حدیث نمبر: 270

ترجمہ:

(۲۷۱) سیدنا علیؑ نے وضو کی حدیث ذکر کی اور اپنے ہاتھوں سے سر کے اگلے اور پچھلے حصے کا ایک مرتبہ مسح کیا، پھر فرمایا: جس شخص کو اچھا لگے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے وضو کی طرف دیکھے تو یہ آپ ﷺ کا وضو ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: There is an option to wipe the whole head

Hadith number: 270

Translation:

(270) Ali (may Allah be pleased with him) narrated the hadeeth of ablution and wiped the front and back of the head once with his

hands, then said: Whoever likes to look at the ablution of the Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him) Is ablution.

[Sahih. Narrated by Abu Dawud 112]

Sunan Kubra Bayhaqi 271

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذِبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ (٢٧٢)
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ وَيَعْقُوبُ بْنُ كَعْبِ
الْأَنْطَاكِيُّ لَفْظُهُ قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ
: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ قَالَ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - تَوَضَّأَ ، فَإِذَا بَلَغَ مَسْحَ رَأْسِهِ وَضَعَ كَفَّيْهِ
عَلَى مُقَدِّمِ رَأْسِهِ ، فَأَمَرَهُمَا حَتَّى بَلَغَ الْقَفَا ، ثُمَّ رَدَّهُمَا إِلَى
الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ -
قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ أَخْبَرَنِي حَرِيزٌ حَتَّى يَرْفَعَ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مکمل سر کا مسح کرنے میں اختیار ہے

حدیث نمبر: 271

ترجمہ:

(۲۷۲) (مقدام بن معدی کرب فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، جب آپ سر کے مسح تک پہنچے تو اپنی ہتھیلیوں کو سر کے اگلے حصے پر رکھا۔ پھر ان کو گدی تک لے گئے، پھر اس جگہ واپس لے آئے جہاں سے شروع کیا تھا۔) ب (حریر کہتے ہیں: پھر آپ نے سر اٹھایا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: There is an option to wipe the whole head

Hadith number: 271

Translation:

(271) Muqaddam ibn Maadi Karb says that I saw the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) performing Wudhu. When he reached the stage of wiping his head, he placed his palms on the front of the head. Then he moved them until he reached the nape (of the neck). He then returned them to the place from where he had started.

(B) Hareez says: Then he raised his head.
[Sahih. Narrated by Abu Dawud 122, 123 and Ibn Majah 442]

Sunan Kubra Bayhaqi 272

Arabic Translation:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا (٢٧٣)
مُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ أَخْبَرَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْبَرِ: الْمُغِيرَةُ بْنُ فَرْوَةَ وَيَزِيدُ
بْنُ أَبِي مَالِكٍ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ تَوَضَّأَ لِلنَّاسِ كَمَا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ -
ﷺ- يَتَوَضَّأُ ، فَلَمَّا بَلَغَ رَأْسَهُ غَرَفَ غَرْفَةً مِنْ مَائٍ فَتَلَقَّابَا بِشِمَالِهِ
، حَتَّى وَضَعَهَا عَلَى وَسْطِ رَأْسِهِ حَتَّى قَطَرَ الْمَائُ أَوْ كَادَ يَقْطُرُ
ثُمَّ مَسَحَ مِنْ مُقَدِّمِ رَأْسِهِ إِلَى مُؤَخَّرِهِ وَمِنْ مُؤَخَّرِهِ إِلَى مُقَدِّمِهِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مکمل سر کا مسح کرنے میں اختیار ہے

حدیث نمبر: 272

:ترجمہ

(۲۷۳) (سیدنا معاویہؓ نے لوگوں کو وضو کر کے دکھلایا، جس طرح رسول اللہ ﷺ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، جب آپ اپنے سر تک پہنچے تو پانی کا ایک چلو لیا اور اس کو اپنے بائیں ہاتھ پر ڈالا، پھر اس کو اپنے سر کے درمیان رکھ دیا، یہاں تک کہ پانی بہ گیا یا قریب تھا کہ بہ پڑتا، پھر اپنے سر کے اگلے حصے سے پچھلے اور پچھلے حصے سے اگلے حصے تک مسح کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: There is an option to wipe the whole head

Hadith number: 272

Translation:

(272) Mu'awiyah performed ablution before the people, as he saw the Messenger of Allah (peace and blessings of Allaah be upon him) performed ablution. When he reached the stage of wiping his head, he took a handful of water and poured it with his left hand over the middle of his head so much so that drops of water came down or almost came down. Then he wiped (his head) from its front to its back and from its back to its front.

[Sahih. Narrated by Abu Dawud 124]

Sunan Kubra Bayhaqi 273

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ (٢٧٤)
يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْقِذٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِي
عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِتِ مُعَوَّذِ ابْنِ
عَفْرَائِيَّ قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - يَتَوَضَّأُ فَمَسَحَ مَا أَقْبَلَ مِنْ
رَأْسِهِ وَمَا أَدْبَرَ ، وَمَسَحَ صُدُغَيْهِ وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرُهُمَا وَبَاطِنُهُمَا
وَنَثْيَهُمَا-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: سر کے مسح میں کنپٹی کو شامل کرنا

حدیث نمبر: 273

:ترجمہ

(۲۷۴) سیدہ ربیع بنت معوذہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو وضو کرتے دیکھا تو آپ ﷺ نے مسح کیا اس طرح کہ اپنے سر کے اگلے اور پچھلے حصے کا مسح کیا اور اپنی کنپٹی (کے بالوں) کا مسح کیا اور اپنے کانوں کے باہر اور اندرونی حصے کا مسح کیا اور ان دونوں کو ملا دیا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Adding the Temple to the Wiping of the Head

Hadith number: 273

Translation:

(273) It is narrated on the authority of Rabi

'bint Mu'adh that when I saw the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) performing ablution, he wiped his head in such a way that he wiped the front and back of his head and wiped his temple (temple hair). And he wiped the outside of his ears and the inside of his ears, and he joined them together.

[Hasan (Fair). Narrated by Abu Dawud 129 and Tirmidhi 34 and Ahmad 6/359]

Sunan Kubra Bayhaqi 274

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ (٢٧٥)
بْنُ عَبْدِ الصَّفَّارِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكِ حَدَّثَنَا يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ
بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ الرَّبِيعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ : أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - تَوَضَّأَ عِنْدَهَا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَمَسَحَ الرَّأْسَ كُلَّهُ
مِنْ فَوْقِ الشَّعْرِ كُلِّ نَاحِيَةٍ لِمُنْصَبِ الشَّعْرِ ، لَا يُحَرِّكُ
الشَّعْرَ عَنْ بَيْتِهِ وَفِي رِوَايَةٍ غَيْرِهَا مِنْ قَرْنِ الشَّعْرِ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاكى كا بيان

باب: سر كے بالوں پر مسح كرنا

حدیث نمبر: 274

:ترجمہ

(274) (سیدہ ربیع بنت معوذہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان کے پاس وضو کیا تو اپنے سر کا مسح کیا۔ پھر اپنے بالوں کے اوپر مکمل سر کا ہر بال اگنے کی جانب سے مسح کیا اور بالوں کو ان کی حالت سے ہلاتے نہیں تھے۔)

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Wiping the hair of the head

Hadith number: 274

Translation:

(274) It is narrated from Syeda Rabi bint Mu'adh that the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) performed ablution with her and then wiped his head.

He wiped the whole of his head from its upper to the lower part moving every side. He did not move the hair from their original position.
[Hasan (Fair). Narrated by Abu Dawud 128]

Sunan Kubra Bayhaqi 275

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ بِشْرَانَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو بْنُ السَّمَّكِ (٢٧٦)
حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ يَغْنِي أَحْمَدَ
بْنَ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ حُمَيْدٍ عَنِ أَنَسٍ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا
مَسَحَ رَأْسَهُ لَمْ يَقْلِبْ شَعْرَهُ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: بِذَا وَحَدِيثُ الرَّبِيعِ مَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ لَا يَقْلِبُ
الشَّعْرَ عَنِ مَجَارِيهِ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: سر کے بالوں پر مسح کرنا

حدیث نمبر: 275

ترجمہ:

(۲۶۷) (الف) (سیدنا انسؓ سے روایت ہے کہ جب وہ اپنے سر کا مسح کرتے تو اپنے بالوں کو الٹ پلٹ نہیں کرتے تھے۔
(ب) (ایک روایت میں ہے کہ بالوں کو ان کی جگہ سے الٹ پلٹ نہیں کرتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Wiping the hair of the head

Hadith number: 275

Translation:

(275) (a) It is narrated from Syeduna Anas (may Allah be pleased with him) that when he wiped his head (did masah), he did not turn his hair here and there.

(B) There is a tradition that his hair was not turned here and there.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 276

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ (٢٧٧)
يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَامٍ
وَعُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا
لَيْثٌ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -
إِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ اسْتَقْبَلَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ حَتَّى يَأْتِيَ عَلَى أُذُنَيْهِ
وَسَالَفْتِهِ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

کتاب: پاکی کا بیان
باب: پانی کو گدی پر بہانے کا بیان
حدیث نمبر: 276

ترجمہ:

(۲۷۷) (طلحہ اپنے دادا سے نقل فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ اپنے سر کا مسح کرتے تو اپنے ہاتھوں کو سر کے سامنے سے شروع کرتے، یہاں تک کہ اس کو اپنے کانوں کے پیچھے تک لے جاتے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The statement of pouring water on the nape (of the neck)

Hadith number: 276

Translation:

(276) Talha narrates from his grandfather that when the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) wiped his head, he would start his hands from the front of his

head and even take it behind his ears.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 277

Arabic Translation:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ : عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ (٢٧٨)
النَّجَّارِ الْمُقْرِيُّ بِالْكُوفَةِ أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ : جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ
عَمْرٍو الْأَحْمَسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو حَاصِبِ بْنِ الْوَادِعِيِّ حَدَّثَنَا يَحْيَى
الْحِمَانِيُّ حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ لَيْثِ بْنِ عَنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّهُ
أَبْصَرَ النَّبِيَّ ﷺ - حِينَ تَوَضَّأَ مَسَحَ رَأْسَهُ وَأَذُنَيْهِ وَأَمَرَ يَدَيْهِ
عَلَى قَفَاهُ.

وَرَوَاهُ عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ فَقَالَ : مَسَحَ (ت)
رَأْسَهُ حَتَّى بَلَغَ الْقَدَالَ وَهُوَ أَوَّلُ الْقَفَا وَلَمْ يَذْكُرِ الْإِمْرَارَ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: پانی کو گدی پر بہانے کا بیان
حدیث نمبر: 277

ترجمہ:

(۲۷۸) (الف) طلحہ اپنے دادا سے نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی ﷺ کو وضو کرتے دیکھا، آپ نے اپنے سر اور کانوں کا مسح کیا اور اپنے ہاتھوں کو گدی پر پھیرا۔
(ب) (لیث بن ابی سلیم فرماتے ہیں: اپنے سر کا مسح کیا اور گدی کے شروع حصے تک پہنچ گئے، لیکن گدی پر ہاتھ پھیرنے کا ذکر نہیں کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The statement on pouring water on the nape (of the neck)

Hadith number: 277

Translation:

(277) (a) Talha narrates from his grandfather that he saw the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) performing Wudhu. He wiped his head and ears and put his hands on the nape.

(B) Laith ibn Abi Saleem says: He wiped his head and reached the beginning of the nape, but did not mention touching the nape.

[Daif (Weak). Narrated by Abu Dawud 132]

Sunan Kubra Bayhaqi 278

Arabic Translation:

وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا (٢٧٩)
أَبُو حَاصِبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو
عَنْ مُجَابِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ مَسَحَ قَفَاهُ
مَعَ رَأْسِهِ -
هَذَا مَوْقُوفٌ وَالْمُسْنَدُ فِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى
كتاب: پاکی کا بیان

باب: پانی کو گدی پر بہانے کا بیان

حدیث نمبر: 278

ترجمہ:

(۲۷۹) (سیدنا ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ جب اپنے سر کا مسح کرتے تھے تو اپنے سر کے ساتھ گدی کا بھی مسح کرتے۔

(ب) (یہ روایت موقوف ہے، اس کی سند میں ضعف ہے۔ واللہ اعلم۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The statement on pouring water on the nape (of the neck)

Hadith number: 278

Translation:

(278) It is narrated from Ibn Umar (may Allah be pleased with him) that when he used to wipe his head, he used to wipe his nape as well as his head.

(B) This narration is mawquf (action of sahaba and not the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him)), its authenticity is weak. Allah knows best.
[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 279

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ (٢٨٠)
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ الْإِمَامُ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
الْمُرَزِيُّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تَخَلَّفَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - فَتَخَلَّفْتُ مَعَهُ ، فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ قَالَ : أَمَعَكَ
مَائٌ؟ فَاتَيْتُهُ بِمَطْهَرَةٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ، ثُمَّ ذَهَبَ
يَحْسِرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ فَضَاقَ كُمُّ الْجُبَّةِ ، فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ
الْجُبَّةِ ، وَالْقَى الْجُبَّةَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ ، فَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ
بِنَاصِيَتَيْهِ ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى خُفَيْهِ ثُمَّ رَكِبَ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ
فِي الصَّحِيحِ كَمَا تَقَدَّمَ ذِكْرِي لَهُ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: سر کے ساتھ پگڑی پر مسح کرنا

حدیث نمبر: 279

ترجمہ:

(۲۸۰) (سیدنا مغیرہ بن شعبہ رض فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کی وجہ سے جماعت سے پیچھے رہ گئے، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حاجت پوری کر لی تو فرمایا "کیا تیرے پاس پانی ہے؟" میں پانی کا ایک برتن لے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنے چہرے کو دھویا، پھر اپنے بازوؤں کو نکالنا شروع ہوئے تو جبے کی آستین تنگ ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبے کے نیچے سے ہاتھوں کو نکالا اور جبے کو اپنے کندھوں پر ڈال دیا، پھر اپنے بازوؤں کو دھویا اور اپنی پیشانی، پگڑی اور موزوں پر مسح کیا، پھر (سواری پر) سوار ہو گئے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Wiping the turban with the head

Hadith number: 279

Translation:

(279) Syedna Mughira bin Shu'bah says that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allaah be upon him) lagged behind (in a journey) and I also lagged behind along with him. After having relieved himself he said: Have you any water with you? I brought to him a jar of water; he washed his palms, and face, and when he tried to get his forearms out (he could not) for the sleeve of the gown was tight. He, therefore, brought them out from under the gown and, throwing it over his shoulders, he washed his forearm. He then wiped his forelock and his turban and his socks and then he rode (on his ride)...

[Sahih. Narrated by Bukhari 182, 203, 4421, 5799 and Muslim 274 and Nasai 82, 108, 125

and Abu Dawud 149 and Ahmad 4/249, 251, 254, 255 and Darimi 740]

Sunan Kubra Bayhaqi 280

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكْرِيَّا: يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو (٢٨١)
الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ
الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ-

ح (قَالَ وَحَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ قَالَ قَرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ حَدَّثَكَ
مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي مَعْقِلٍ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ - يَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ
، قِطْرِيَّةٌ ، فَأَدْخَلَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ الْعِمَامَةِ فَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ
وَلَمْ يَنْقُضِ الْعِمَامَةَ-
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: سر کا مسح کرنا واجب ہے اگرچہ پگڑی باندھی ہوئی ہو

حدیث نمبر: 280

ترجمہ:

(۲۸۱) (سیدنا انس بن مالکؓ فرماتے ہیں: میں نے نبی ﷺ کو وضو کرتے ہوئے، آپ ﷺ پر قطری پگڑی تھی، آپ ﷺ نے اپنا ہاتھ پگڑی کے نیچے داخل کیا، پھر سر کے اگلے حصے کا مسح کیا لیکن پگڑی کو نہیں کھولا۔)

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: It is obligatory to wipe the head even if the turban is tied

Hadith number: 280

Translation:

(280) Anas ibn Malik (may Allah be pleased

with him) said: I saw the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) performing ablution, he had a Qatari turban on him. He put his hand under the turban, then wiped the front of his head but did not open the turban. [Daif (Weak). Narrated by Abu Dawud 147 and Ibn Majah 564]

Sunan Kubra Bayhaqi 281

Arabic Translation:

:حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ (٢٨٢)
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ

أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَايٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ -
تَوَضَّأَ فَحَسَرَ الْعِمَامَةَ وَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ أَوْ قَالَ نَاصِيَتَهُ
بِالْمَائِ -

بَذَا مُرْسَلٌ وَقَدْ رَوَيْنَا مَعْنَاهُ مَوْصُولاً فِي حَدِيثِ الْمُغِيرَةَ بْنِ
شُعْبَةَ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: سر کا مسح کرنا واجب ہے اگرچہ پگڑی باندھی ہوئی ہو

حدیث نمبر: 281

:ترجمہ

(۲۸۲) (عطاء تابعی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے وضو

کیا، پس آپ نے پگڑی کو پیچھے کیا اور سر کے اگلے حصے

پر مسح کیا یا فرمایا: اپنی پیشانی پر پانی سے مسح کیا۔

(ب) (یہ روایت مرسل ہے۔ اس کے ہم معنی مغیرہ بن شعبہ رضی

روایت ہم نے بیان کر دی ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: It is obligatory to wipe the head even if the turban is tied

Hadith number: 281

Translation:

(281) It is narrated from Ata Tabi that the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) performed Wudhu, so he mived his turban back and wiped the front of his head or said: Wiped his forehead with water.

(B) This tradition is mursal. We have narrated a similiar narration of Mughirah ibn Shu'bah. [Daif (Weak). Narrated by Shafi'i in his Musnad 45]

Sunan Kubra Bayhaqi 282

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو (٢٨٣)
الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا
ابْنُ وَهْبٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا بَحْرٌ قَالَ قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَكَ ابْنُ
لَهَيْعَةَ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أُمِّ
عَلْقَمَةَ مَوْلَاةِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ - عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا
تَوَضَّأَتْ تُدْخِلُ يَدَيَا مِنْ تَحْتِ الْوِقَايَةِ تَمْسَحُ بِرَأْسِهَا كُلِّهِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: سر کا مسح کرنا واجب ہے اگرچہ پگڑی باندھی ہوئی ہو
حدیث نمبر: 282

:ترجمہ

(۲۸۳) (سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب وہ وضو کرتیں تو اپنا ہاتھ کپڑے کے نیچے داخل کرتیں اور اپنے مکمل سر کا مسح کرتیں۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: It is obligatory to wipe the head even if the turban is tied

Hadith number: 282

Translation:

(282) It is narrated from Ayesha (may Allah be pleased with her) that when she performed ablution, she would put her hand

under her cloth and wipe her entire head.
[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 283

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ (٢٨٤)
بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ
سُفْيَانَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ
يَاسِرٍ -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْفَتْحِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ
الْقَاضِي بِالرِّيِّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَبِيبِ بْنِ الْحَسَنِ الْقَرَّازُ حَدَّثَنَا
الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْقَاضِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ أَبِي
مَدْعُورٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ
:حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ

سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، فَقَالَ : يَا ابْنَ
، أَخِي ذَلِكَ السُّنَّةُ - وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ ، فَقَالَ : لَا
أَمْسَسَ الشَّعْرَ الْمَائِءَ -

سنن كبرى للبيهقى

کتاب: پاکی کا بیان

باب: سر کا مسح کرنا واجب ہے اگرچہ پگڑی باندھی ہوئی ہو

حدیث نمبر: 283

:ترجمہ

(۲۸۴) (سیدنا عمار بن یاسرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے جابر بن
عبداللهؓ سے موزوں پر مسح کرنے کے بارے میں سوال کیا تو
انہوں نے فرمایا: بہتجے! یہ سنت ہے۔ میں نے ان سے پگڑی
پر مسح کرنے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا:
نہیں میں بالوں کو پانی لگاتا ہوں۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: It is obligatory to wipe the head even
if the turban is tied

Hadith number: 283

Translation:

(283) Ammar ibn Yasir (may Allah be pleased with him) said: I asked Jabir ibn Abdullah (may Allah be pleased with him) about wiping on socks and he said: Nephew! This is Sunnah. When I asked him about wiping on the turban, he said: No, I apply water to my hair.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 284

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهِ (٢٨٥)
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
سَعِيدِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا مَسَحَ
رَأْسَهُ رَفَعَ الْقَلَنْسُوَةَ وَمَسَحَ مُقَدَّمَ رَأْسِهِ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان

باب: سر کا مسح کرنا واجب ہے اگرچہ پگڑی باندھی ہوئی ہو

حدیث نمبر: 284

ترجمہ:

(۲۸۵) (سیدنا ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ جب وہ اپنے سر کا مسح کرتے اپنی ٹوپی کو اٹھاتے اور سر کے اگلے حصے پر مسح کرتے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: It is obligatory to wipe the head even if the turban is tied

Hadith number: 284

Translation:

(284) It is narrated from Ibn Umar (may Allah be pleased with him) that when he wiped his head, he would lift his hat and wipe the front part of his head.

[Hasan (Fair). Narrated by Al-Daraqutni 1/107]

Sunan Kubra Bayhaqi 285

Arabic Translation:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَدْلُ (٢٨٦)
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمُزَكِّي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنجِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ
نَافِعٍ : أَنَّهُ رَأَى صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ امْرَأَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
تَنْزِعُ خِمَارَهَا ثُمَّ تَمْسَحُ عَلَى رَأْسِهَا بِالْمَاءِ - وَنَافِعٌ يَوْمَئِذٍ صَغِيرٌ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: سر کا مسح کرنا واجب ہے اگرچہ پگڑی باندھی ہوئی ہو
حدیث نمبر: 285

ترجمہ:

(۲۸۶) نافع سے منقول ہے کہ انہوں نے سیدنا عبداللہ بن عمر کی بیوی صفیہ بنت ابو عبید کو دیکھا، انہوں نے اپنی چادر اتاری۔ پھر پانی سے اپنے سر کا مسح کیا۔ نافع ان دنوں بچے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: It is obligatory to wipe the head even if the turban is tied

Hadith number: 285

Translation:

(285) It is narrated from Nafi that he saw Safia bint Abu Ubaid, the wife of Abdullah bin Umar (may Allah be pleased with him), she

took off her chador. Then she wiped her head with water. Nafi was a child in those days.
[Sahih. Narrated by Malik 2/39]

[SHARH] Explanation:

Malik was asked about a man who did wudu but forgot to wipe his head until the water had dried. He said, "I consider that he should wipe his head and then repeat the prayer if he has already performed it."

Malik was asked about a man who did wudu but forgot to wipe his head until the water had dried. He said, "I consider that he should wipe his head and then repeat the prayer if he has already performed it."

Sunan Kubra Bayhaqi 286

Arabic Translation:

وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ بِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ (٢٨٧)
كَانَ يَنْزِعُ الْعِمَامَةَ وَيَمْسَحُ رَأْسَهُ بِالْمَاءِ -
وَفِي كُلِّ ذَلِكَ مَعَ ظَاهِرِ الْكِتَابِ دَلَالَةٌ ظَاهِرَةٌ عَلَى اخْتِصَارٍ وَقَعَ مِنْ
جِهَةِ الرَّاَوِي فِي الْحَدِيثِ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاکی کا بیان

باب: سر کا مسح کرنا واجب ہے اگرچہ پگڑی باندھی ہوئی ہو

حدیث نمبر: 286

:ترجمہ

(٢٨٧) (بشام بن عروہ سے روایت ہے کہ ان کے والد پگڑی

اتار کر پانی سے اپنے سر پر مسح کرتے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: It is obligatory to wipe the head even if the turban is tied

Hadith number: 286

Translation:

(286) It is narrated from Hisham bin Arwa that his father used to take off his turban and wipe his head with water.

[Sahih. Narrated by Malik 69, 2/40]

Sunan Kubra Bayhaqi 287

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدٍ: مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى (٢٨٨)
قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ
الْجَبَّارِ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنْ بِلَالٍ قَالَ: رَأَيْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ -
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاكى كا بيان

باب: سر كا مسح كرنا واجب هے اگرچه پگڑى باندھى ہوئى هو
حدیث نمبر: 287

ترجمہ:

(287) (سیدنا بلالؓ سے روایت ہے کہ میں نے نبی ﷺ کو
موزے اور چادر پر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: It is obligatory to wipe the head even
if the turban is tied

Hadith number: 287

Translation:

(287) It is narrated from Syeduna Bilal (may
Allah be pleased with him) that I saw the

Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) wiping on socks and chador.

[Sahih. Narrated by Muslim 275 and Nasai 104 and Tirmidhi 101 and Ibn Majah 561 and Ahmad 6/12-15]

Sunan Kubra Bayhaqi 288

Arabic Translation:

وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضًا مَا أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ: عُمَرُ بْنُ (٢٨٩)
عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ: مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ
بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَيْسَى حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ
ابْنِ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي رَجَائٍ مَوْلَى أَبِي
قِلَابَةَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ بِلَالٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - مَسَحَ
عَلَى الْخُفَّيْنِ وَنَاصِيَتِهِ وَالْعِمَامَةِ -
حُمَيْدُ بْنُ الطَّوِيلِ ، وَخَالِدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، وَابْنُ عُمَرَ

الْوَاسِطِيُّ ، وَهَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ وَهُوَ كَحَدِيثِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ - فِي الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالنَّاصِيَةِ جَمِيعًا. وَيُشْبَهُ
أَنْ يَكُونَ هَذَا الْإِخْتِصَارُ وَقَعَ أَيْضًا فِيمَا.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: سر کا مسح کرنا واجب ہے اگرچہ پگڑی باندھی ہوئی ہو

حدیث نمبر: 288

ترجمہ:

(۲۸۹) (الف) (سیدنا بلالؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے

موزوں، پیشانی اور پگڑی پر مسح کیا۔

(ب) (سیدنا شعبہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے پگڑی اور

پیشانی پر اکٹھے مسح کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: It is obligatory to wipe the head even if the turban is tied

Hadith number: 288

Translation:

(288) (a) It is narrated from Syeduna Bilal (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) wiped on socks, forehead and turban.

(B) It is narrated from Syeduna Sha'ba (may Allah be pleased with him) that he wiped his turban and forehead together.

[Sahih. Narrated by Muslim 275 and Nasai 104 and Tirmidhi 101 and Ibn Majah 561]

Sunan Kubra Bayhaqi 289

Arabic Translation:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذُبَارِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ (٢٩٠)
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ
عَنْ ثَوْرٍ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -
سَرِيَّةً فَأَصَابَهُمُ الْبَرْدُ ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - أَمَرَهُمْ
أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالتَّسَاخِينِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: سر کا مسح کرنا واجب ہے اگرچہ پگڑی باندھی ہوئی

ہو

حدیث نمبر: 289

ترجمہ:

(۲۹۰) (سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ایک لشکر بھیجا، ان کو سردی لگی تو رسول اللہ کے پاس آئے، آپ ﷺ نے ان کو پگڑیوں اور موزوں پر مسح کرنے کا حکم دیا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: It is obligatory to wipe the head even if the turban is tied

Hadith number: 289

Translation:

(289) It is narrated from Thawban (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) sent out an expedition. They were affected by cold so they came to the Messenger of Allah (peace and blessings of

Allaah be upon him), he commanded them to wipe over turbans and socks.

[Sahih. Narrated by Abu Dawud 146 and Ahmad 5/277]

Sunan Kubra Bayhaqi 290

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِ الْأَحَادِيثِ (٢٩١)
لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ
عَنْ بِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى
كتاب: پاكى كا بيان
باب: بار بار سر كا مسح كرنا
حدیث نمبر: 290

:ترجمہ

(۲۹۱) (سیدنا عثمان بن عفانؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے تین تین مرتبہ وضو کیا) یعنی ہر عضو کو تین بار دھویا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Repeatedly wiping the head

Hadith number: 290

Translation:

(290) It is narrated from Uthman bin Affan (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allaah be

upon him) performed ablution three times (i.e, washed each limb three times).

[Sahih. Narrated by Muslim 230]

Sunan Kubra Bayhaqi 291

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ (٢٩٢)
مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا بَارُونُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ بِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ
تَوَضَّأَ عُثْمَانُ عَلَى الْمَقَاعِدِ ثَلَاثًا وَقَالَ: بِكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -
ﷺ- يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يَقُولُ: ((مَا مِنْ رَجُلٍ
يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يُصَلِّي إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ

مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الْآخَرَى حَتَّى يُصَلِّيَهَا)) (-).
 رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ -
 (ق) وَعَلَىٰ بِذَا اعْتَمَدَ الشَّافِعِيُّ فِي تَكَرَّرِ الْمَسْحِ وَبِذِهِ رَوَايَةٌ مُطْلَقَةٌ
 أَنَّ تَدْلُّ عَلَى أَنَّ التَّكَرَّرَ وَالرَّوَايَاتُ الثَّابِتَةُ الْمُفَسَّرَةُ عَنْ حُمْرٍ ،
 وَقَعَ فِيهَا عَدَا الرَّأْسِ مِنَ الْأَعْضَاءِ وَأَنَّهُ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً .
 أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوَدُبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ : مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ قَالَ قَالَ
 أَبُو دَاوُدَ السَّجِسْتَانِيُّ : أَحَادِيثُ عُثْمَانَ الصِّحَّاحُ كُلُّهَا تَدْلُّ عَلَى مَسْحِ
 الرَّأْسِ أَنَّهُ مَرَّةً ، فَإِنَّهُمْ ذَكَرُوا الْوُضُوءَ ثَلَاثًا وَقَالُوا فِيهَا : وَمَسَحَ
 بِرَأْسِهِ ، وَلَمْ يَذْكُرُوا عَدَدًا كَمَا ذَكَرُوا فِي غَيْرِهِ .
 قَالَ الشَّيْخُ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ أَوْجِهٍ غَرِيبَةٍ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 ذَكَرُ التَّكَرَّرِ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ إِلَّا أَنَّهَا مَعَ خِلَافِ الْحِفَاطِ الثَّقَاتِ
 لَيْسَتْ بِحُجَّةٍ عِنْدَ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ وَإِنْ كَانَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا
 يَحْتَجُّ بِهَا .

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
 كتاب: پاکی کا بیان
 باب: بار بار سر کا مسح کرنا
 حدیث نمبر: 291

ترجمہ:

(۲۹۲) (سیدنا حمران سے روایت ہے کہ سیدنا عثمانؓ نے بیٹھنے کی جگہ پر تین مرتبہ وضو کیا اور فرمایا: اسی طرح میں نے رسول اللہ ﷺ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا اور میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے " : جو شخص اچھی طرح وضو کرے، پھر نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے دوسری نماز کے درمیان والے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ نماز ادا کر لے۔"

(ب) (امام شافعیؒ نے مسح کے تکرار میں اس حدیث کو دلیل بنایا ہے، یہ روایت مطلق ہے اور وہ روایات جو مفسر ہیں ان کے راوی سیدنا حمران ہیں۔ ان میں سر کے علاوہ باقی اعضاء میں تکرار کا ذکر ہے۔

(ج) (امام ابوداؤد سجستانی فرماتے ہیں: سیدنا عثمانؓ والی تمام روایات صحیح ہیں، ان میں سر کے مسح کا ایک مرتبہ ذکر ہے۔ یعنی احادیث میں باقی اعضاء تین مرتبہ دھونے کا ذکر ہے اور سر کے مسح کا ایک مرتبہ۔

(د) (شیخ فرماتے ہیں: سیدنا عثمانؓ سے سند غریب کے ساتھ منقول روایات میں مسح کے تکرار کا ذکر ہے، لیکن یہ روایات ثقہ حفاظ کے خلاف ہیں اور محدثین کے نزدیک قابل حجت نہیں، اگرچہ ہمارے بعض اصحاب نے دلیل پکڑی ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Repeatedly wiping the head

Hadith number: 291

Translation:

(291) It is narrated from Hamran that Uthman (may Allah be pleased with him) performed ablution three times in the courtyard and said: In the same way I saw the Messenger of Allah (peace and blessings of Allaah be upon him) performing ablution and I heard the Messenger of Allah (peace and blessings of Allaah be upon him) saying: "If a Muslim performs ablution and does it well and offers prayer, Allah will forgive his sins committed between that (prayer) and the (next) prayer till he offers it."

(B) Imam Shafi'i (may Allah have mercy on him) has used this hadith as evidence in the

repetition of wiping the head. This narration is absolute and the narrators of the narrators are Syeduna Hamran. These include repetition in the limbs other than the head.

(C) Imam Abu Dawud Sajistani (may Allah have mercy on him) says: All the narrations of Syeduna Uthman (may Allah be pleased with him) are correct, they mention the wiping of the head once. That is, the ahadith mention washing the rest of the limbs three times and wiping the head once.

(D) The Shaykh says: There is a mention of repetition of wiping the head in the narrations narrated from Syedna Usman with Gharib isnad (narrated from one chain of transmission only), but these narrations are against the trustworthy guardians and are not reliable according to the muhaditheen, although some of our companions have taken this as evidence.

[Sahih. Narrated by Bukhari 160 and Muslim 227]

Sunan Kubra Bayhaqi 292

Arabic Text:

مِنْهَا مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذِبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ (٢٩٣)
دَاسَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ
مَخْلَدٍ وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ وَاللَّفْظُ لَهُ -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ
بْنِ الْأَشْعَثِ السَّجِسْتَانِيُّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا
أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ وَرْدَانَ قَالَ

أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنِي حُمْرَانُ قَالَ: رَأَيْتُ
 عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ
 ، ثَلَاثًا وَذَرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا
 ثُمَّ قَالَ: بِكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ -تَوَضَّأَ ، ثُمَّ قَالَ ((: مَنْ
 تَوَضَّأَ دُونَ وَضُوئِي هَذَا كَفَّاهُ)).-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: بار بار سر کا مسح کرنا
 حدیث نمبر: 292

:ترجمہ

(۲۹۳) (سیدنا حمرانؓ فرماتے ہیں کہ میں نے عثمان بن عفان کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، آپ ﷺ نے اپنے ہاتھوں کو تین مرتبہ دھویا اور اپنے چہرے اور بازوؤں کو تین تین مرتبہ دھویا، اپنے سر کا تین مرتبہ مسح کیا اور اپنے پاؤں کو تین مرتبہ دھویا۔ پھر فرمایا: رسول اللہ ﷺ نے اسی طرح وضو کیا اور فرمایا " جس نے اس وضو سے کم وضو کیا وہ بھی اس کو کفایت کر جائے گا۔"

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Repeatedly wiping the head

Hadith number: 292

Translation:

(292) Hamran (may Allah be pleased with him) said: I saw the Uthman Ibn Affan (may Allah be pleased with him) performing ablution. He washed his hands three times and washed his face and arms three times, wiped his head three times and washed his feet three times. Then he said: The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) performed ablution in the same way and said: "Whoever performs ablution less than this ablution will also suffice."

[Hasan (Fair). Narrated by Abu Dawud 107]

Sunan Kubra Bayhaqi 293

Arabic Text:

وَمِنْهَا مَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ (٢٩٤)
الْمُقَرَّبِيُّ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَائِينِيَّ حَدَّثَنَا
يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِيَّ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسْرَبِدٍ حَدَّثَنَا
:صَفْوَانُ بْنُ عَيْسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ
، دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ دَارَةَ مَوْلَى عُثْمَانَ مَنَزِلَهُ فَسَمِعَنِي أْتَمَضْمُضُ
فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ قُلْتُ لِبَيْتِكَ قَالَ : أَلَا أَخْبِرُكَ عَنْ

وَضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -؟ قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ،
 وَهُوَ بِالْمَقَاعِدِ فَدَعَا بِإِنَائِي فَمَضَمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا
 وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، وَمَسَحَ
 بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا ، وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى
 وَضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَلْيَنْظُرْ إِلَى وَضُوءِي هَذَا وَقَدْ ذَكَرَ غَيْرُهُ
 التَّثْلِيثَ فِي الْقَدَمَيْنِ أَيْضًا.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: بار بار سر کا مسح کرنا
 حدیث نمبر: 293

:ترجمہ

(۲۹۴) محمد بن عبداللہ بن ابی مریم فرماتے ہیں کہ میں سیدنا
 عثمانؓ کے غلام ابن دارہ کے پاس ان کے گھر گیا تو انہوں
 نے مجھ سے فرمایا: کیا تو کلی کرے گا؟ پھر فرمایا: اے
 محمد! میں نے کہا: جی! انہوں نے فرمایا: کیا میں تم کو
 رسول اللہ ﷺ کا وضو نہ بتلاؤں؟ میں نے کہا: کیوں نہیں! انہوں
 نے فرمایا: میں نے سیدنا عثمان بن عفانؓ کو بیٹھنے کی جگہ
 دیکھا، انہوں نے ایک برتن منگوا یا، پھر

تین مرتبہ کلی کی، تین مرتبہ ناک میں پانی چڑھایا اور تین مرتبہ اپنے چہرے اور بازوؤں کو دھویا اور تین مرتبہ سر کا مسح کیا، پھر اپنے قدموں کو دھویا۔ پھر فرمایا: جس شخص کو پسند ہو کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے وضو کا طریقہ دیکھے تو وہ میرے اس وضو کو دیکھ لے۔ ان کے علاوہ (دوسرے راویوں نے) پاؤں کو بھی تین مرتبہ دھونے کا ذکر کیا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Repeatedly wiping the head

Hadith number: 293

Translation:

(293) Muhammad ibn Abdullah ibn Abi Maryam says that I went to the house of Ibn Dara, the slave of Uthman, and he said to me: Will you rinse your mouth? Then he said: O Muhammad! I said: Yes! He said: "Shall I not tell you about the ablution of the Messenger of Allah (peace and blessings of Allaah be

upon him)?" I said, why not! He said: "I saw 'Uthman ibn Affan (may Allah be pleased with him) in the courtyard. He asked for a vessel, then rinsed his mouth three times, put water in his nose three times and washed his face and arms three times and wiped his head three times. Then washed his feet. Then he said: Whoever wants to see the method of ablution of the Messenger of Allah (peace and blessings of Allaah be upon him) should see this ablution of mine." Apart from them (other narrators) have also mentioned washing the feet three times.

[Hasan (Fair). Narrated by Bazar 9/4]

Sunan Kubra Bayhaqi 294

Arabic Text:

وَمِنْهَا مَا أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ: جَنَاحُ بْنُ نَذِيرِ بْنِ جَنَاحٍ (٢٩٥)
الْقَاضِي بِالْكُوفَةِ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنِ دُحَيْمٍ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ
حَازِمٍ أَخْبَرَنَا أَبُو غَسَّانَ: مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ
:عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ يَعْنِي ابْنَ جَمْرَةَ عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ
رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَتَوَضَّأُ فَيَغْسِلُ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا وَمَضْمَضَ
، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا

، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرُهُمَا وَبَاطِنُهُمَا ، وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ
وَوَسَّطَهُمَا ، وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلَاثًا ، وَخَلَّلَ أَصَابِعَ قَدَمَيْهِ وَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ
فَعَلَّ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ۔

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: بار بار سر کا مسح کرنا
حدیث نمبر: 294

ترجمہ:

(۲۹۵) شفیق بن سلمہ فرماتے ہیں: میں نے سیدنا عثمان بن
عفانؓ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے تین مرتبہ
ہتھیلیوں کو دھویا، پھر کلی کی اور تین مرتبہ ناک میں پانی
چڑھایا، پھر اپنے چہرے کو تین مرتبہ دھویا اور اپنے بازوؤں
کو بھی تین مرتبہ دھویا اپنے سر کا اور اپنے کانوں کے ظاہری
ظاہری اور اندرونی حصوں کا تین مرتبہ مسح کیا، اپنی داڑھی
کا خلال کیا اور اپنے پاؤں کو تین مرتبہ دھویا اور اپنے پاؤں
کی انگلیوں کا خلال کیا اور فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو
ایسے ہی وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے جس طرح تم نے مجھے
دیکھا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Repeatedly wiping the head

Hadith number: 294

Translation:

(294) Shafiq ibn Salamah says: I saw 'Uthman ibn Affan (may Allah be pleased with him) performing ablution. He washed his palms three times, then rinsed his mouth and put water in his nose three times, then washed his face three times and he also washed his arms three times, wiped his head and the outer and inner parts of his ears three times, washed his beard and washed his feet three times, and washed the toes of his feet and said: I have seen the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) performing ablution as you have seen me. [Hasan (Fair). Narrated by Ibn Khuzaymah

Sunan Kubra Bayhaqi 295

Arabic Text:

وَمِنْهَا مَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ (٢٩٦)
 الْمُؤَدِّبُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
 بْنُ إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ
 حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ
 إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي
 طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ

، أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَعَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ، وَاسْتَنْشَرَ ثَلَاثًا
وَمَضْمَضَ ثَلَاثًا ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، وَغَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى
الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا
ثَلَاثًا كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ثُمَّ قَالَ : رَأَيْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - يَتَوَضَّأُ هَكَذَا -
(ت) (وَرُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنْ عَطَايِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عُثْمَانَ وَهُوَ
مُرْسَلٌ -

وَقَدْ رُوِيَ مِنْ أَوْجِهِ غَرِيبَةٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
وَالرَّوَايَةُ الْمَحْفُوظَةُ عَنْهُ غَيْرُهَا -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب : پاکی کا بیان
باب : بار بار سر کا مسح کرنا
حدیث نمبر : 295

:ترجمہ

(۲۹۶) (سیدنا عثمان بن عفانؓ سے منقول ہے کہ انہوں نے
وضو فرمایا، اپنے ہاتھوں کو تین مرتبہ دھویا اور تین مرتبہ
ناک جھاڑا، تین مرتبہ کلی کی اور اپنے چہرے کو

تین مرتبہ دھویا اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت تین تین مرتبہ دھویا اور اپنے سر کا تین بار مسح کیا اور دونوں پاؤں کو تین تین مرتبہ دھویا، پھر کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

(ب) (عطاء بن ابی رباح سیدنا عثمان سے مرسلًا نقل فرماتے ہیں۔

(ج) (سیدنا علیؓ سے غریب اسناد کے ساتھ منقول روایات بیان کردی گئی ہیں، اس روایت کے علاوہ باقی محفوظ روایات ہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Repeatedly wiping the head

Hadith number: 295

Translation:

(295) It is narrated from Uthman bin Affan (may Allah be pleased with him) that he performed ablution, washed his hands three

times and swept his nose three times, rinsed his mouth three times and washed his face three times and washed his hands three times including his elbows. He wiped his head three times and washed his feet three times, then said: I saw the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) performing ablution in this way.

(B) Ata 'ibn Abi Rabah (may Allah have mercy on him) narrates from Uthman (may Allah be pleased with him) in a mursal narration.

[Hasan Li Ghayrihi (Fair due to external evidence)]

Sunan Kubra Bayhaqi 296

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ الطُّوسِيِّ (٢٩٧)
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شَوْذَبِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ
بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ أَبُو يَحْيَى الْحِمَانِيُّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ
عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْرِ الْهَمْدَانِيِّ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ
أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ، فَغَسَلَ
كَفَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، وَتَمَضَّمْضَمَّ ثَلَاثًا ، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ، وَغَسَلَ
، وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، وَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا
وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ: بِكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ -
فَعَلَ-

(ت) (وَبِكَذَا رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ زِيَادِ اللُّؤْلُؤِيُّ وَأَبُو مُطِيعٍ عَنْ أَبِي
حَنِيفَةَ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ ثَلَاثًا-

وَرَوَاهُ زَائِدَةُ بْنُ قُدَّامَةَ وَأَبُو عَوَانَةَ وَغَيْرُهُمَا عَنْ خَالِدِ بْنِ

عَلَقَمَةٌ دُونَ ذِكْرِ التَّكْرَارِ فِي مَسْحِ الرَّأْسِ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ
عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا مَا شَدَّ مِنْهَا. وَأَحْسَنُ مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ فِيهِ مَا

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: بار بار سر کا مسح کرنا
حدیث نمبر: 296

:ترجمہ

(۲۹۷) (سیدنا علی بن ابی طالبؓ نے پانی منگوا یا، پھر وضو کیا، اپنی ہتھیلیوں کو تین مرتبہ دھویا اور تین مرتبہ کلی کی، تین مرتبہ ناک میں پانی چڑھایا اور اپنے چہرے کو تین مرتبہ دھویا، اپنے بازوؤں کو تین تین مرتبہ دھویا اور اپنے سر کا تین بار مسح کیا اور اپنے قدموں کو تین تین مرتبہ دھویا۔ پھر فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا۔

(ب (امام ابوحنیفہ) رح (سے سر کے مسح کا تین دفعہ

کرننا منقول ہے۔

(ج) خالد بن علقمہ والی روایت میں سر کے مسح کا تکرار نہیں ہے، اسی طرح ایک جماعت نے سیدنا علیؑ سے شاذ روایت نقل کی ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Repeatedly wiping the head

Hadith number: 296

Translation:

(296) Ali ibn Abi Talib (may Allah be pleased with him) asked for water, then performed ablution, washed his palms three times and

rinsed his mouth three times, put water in his nose three times and washed his face three times, washed his arms three times. He wiped his head three times and washed his feet three times. Then he said: "I saw the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) performing ablution in this manner."

(B) It is narrated from Imam Abu Hanifa (may Allah have mercy on him) to wipe the head three times.

(C) There is no repetition of the wiping of the head in the narration of Khalid ibn Alqama, similarly a group has seldom narrated the narration from Syeduna Ali (may Allah be pleased with him).

[Hasan Li Ghayrihi (Fair due to external evidence). Narrated by Al-Daraqutni 1/89]

Sunan Kubra Bayhaqi 297

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ (٢٩٨)
بْنُ عَبْدِ الصَّفَّارِ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ
حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ
ثَلَاثًا ، وَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ
ثَلَاثًا ، وَقَالَ : بِكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - يَتَوَضَّأُ بِكَذَا

قَالَ ابْنُ وَهْبٍ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا.
وَقَالَ فِيهِ حَجَّاجٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً. (ت)

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: بار بار سر کا مسح کرنا
حدیث نمبر: 297

:ترجمہ

(۲۹۸) (الف) (سیدنا علیؑ سے منقول ہے کہ انہوں نے وضو کیا، اپنے چہرے اور ہاتھوں کو تین مرتبہ دھویا اور تین مرتبہ اپنے سر کا مسح کیا اور اپنے پاؤں کو تین مرتبہ دھویا، پھر فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابن وہب بھی اسی طرح فرماتے ہیں: سر کا تین مرتبہ مسح کیا۔

(ب) (ابن جریج والی روایت میں ہے کہ اپنے سر کا ایک مرتبہ مسح کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Repeatedly wiping the head

Hadith number: 297

Translation:

(297) (a) It is narrated from Ali (may Allah be pleased with him) that he performed ablution, washed his face and hands three times, wiped his head three times and washed his feet three times, then said: "I have seen the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) performing ablutions in this way." Ibn Wahb also says in the same way: He wiped his head three times.

(B) In the narration of Ibn Jarir it says that he wiped his head once.

[Hasan Li Ghayrihi (Fair due to external evidence)]

Sunan Kubra Bayhaqi 298

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ (٢٩٩)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - تَوَضَّأَ ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ
ثَلَاثًا وَيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ مَرَّتَيْنِ -
وَأَخْرَجَهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ فِي كِتَابِ السُّنَنِ مِنْ

حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ بِكَذَا فِي مَسْحِ الرَّأْسِ مَرَّتَيْنِ -
وَقَدْ خَالَفَهُ مَالِكٌ وَوُهَيْبٌ وَسُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ وَخَالِدٌ (ت)
الْوَاسِطِيُّ وَغَيْرُهُمْ فَرَوَوْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى فِي مَسْحِ الرَّأْسِ
مَرَّةً إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَقْبَلَ وَأَدْبَرَ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: بار بار سر کا مسح کرنا
حدیث نمبر: 298

:ترجمہ

(۲۹۹) (الف) (عبداللہ بن زید^{رض} سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے
وضو کیا، اپنے چہرے کو تین مرتبہ دھویا اور اپنے ہاتھوں

کو دو مرتبہ اور اپنے سر کا دو مرتبہ مسح کیا اور اپنے پاؤں کو دو مرتبہ دھویا۔

امام نسائی (رح) نے "کتاب السنن" میں سفیان بن عیینہ سے اسی طرح روایت نقل کی ہے، جس میں سر کے مسح کا دو مرتبہ ذکر ہے۔

(ب) عمرو بن یحییٰ سر کا ایک مرتبہ مسح کرنا نقل فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہاتھوں کو آگے سے پیچھے لے گئے اور پیچھے سے آگے لے آئے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Repeatedly wiping the head

Hadith number: 298

Translation:

(298) (a) It is narrated from Abdullah bin Zayd (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be

upon him) performed ablution, washed his face three times, wiped his hands twice and wiped his head twice, and washed his feet twice.

Imam Nasai (may Allah have mercy on him) has narrated the same narration from Sufyan ibn Uyaynah (may Allah have mercy on him) in "Kitab al-Sunan", in which the wiping of the head is mentioned twice.

(B) Amr ibn Yahya narrates the wiping of the head once and says that he moved his hands from front to back and from back to front.

[Sahih. Narrated by Bukhari 197 and Muslim 235 and Nasai 99 and Abu Dawud 100 and Tirmidhi 32 and Ibn Majah 471 and Ahmad 4/38]

Sunan Kubra Bayhaqi 299

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَبْدَوِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ : مُحَمَّدٌ (٣٠٠)
بْنُ مُحَمَّدِ الْحَافِظِ أَخْبَرَنَا أَبُو يُوسُفَ : مُحَمَّدُ بْنُ سُفْيَانَ الصَّفَّارُ
بِالْمَصِيبَةِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الرُّمَانِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ يَعْنَى ابْنَ
الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مَعْوَدٍ
: ابْنِ عَفْرَاءٍ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - يَأْتِينَا قَالَ فَحَدَّثَنَا أَنَّهُ قَالَ
اسْكُبِي لِي وَضُوءًا ا فَسَكَبْتُ لَهُ

فِي مِيضَاءِ وَبِي الرَّكُوعِ فَأَخَذَ مُدًّا وَتُلْتًا أَوْ مُدًّا وَرُبْعًا فَقَالَ:
 :اسْكُبِي عَلَيَّ يَدَيَّ فَعَسَلَ كَفِّيهِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ :ضَعِي .قَالَتْ
 ، فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- وَأَنَا أَنْظُرُ ، فَوَضَّأَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا
 وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مَرَّةً ، وَوَضَّأَ يَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا ، وَوَضَّأَ يَدَهُ
 الْيُسْرَى ثَلَاثًا ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ ، يَبْدَأُ بِمُوَخَّرِ رَأْسِهِ ثُمَّ
 بِمُقَدَّمِهِ ثُمَّ مُوَخَّرِ رَأْسِهِ ثُمَّ مُقَدَّمِهِ ، ثُمَّ مَسَحَ بِأُذُنَيْهِ كِلْتَابِيهِمَا
 ظَاهِرِيهِمَا وَبَاطِنِيهِمَا ، وَوَضَّأَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا وَوَضَّأَ رِجْلَهُ
 الْيُسْرَى ثَلَاثًا .
 (ت (وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ بَشِيرٍ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ :ثُمَّ مُوَخَّرِ رَأْسِهِ ثُمَّ
 مُقَدَّمِهِ .

وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يُونُسَ الْأَزْرَقِ عَنْ
 أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ :أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ عَلَيَّ رَأْسِهِ
 ثَلَاثًا يَأْخُذُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مَائًا جَدِيدًا .

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
 كتاب: پاکی کا بیان
 باب: بار بار سر کا مسح کرنا
 حدیث نمبر: 299

:ترجمہ

(۳۰۰) (الف) (ربیع بنت معوذ بن عفرائؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس آیا کرتے تھے۔ راوی کہتا ہے: ربیعؓ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا: میرے لیے پانی ڈالو، میں نے آپ کے لیے ایک چھوٹے برتن میں پانی ڈالا تو آپ نے ایک مد اور ایک تہائی یا چوتھائی حصہ پانی لیا، پھر فرمایا: میرے ہاتھ پر پانی ڈالو، پھر آپ نے اپنی ہتھیلیوں کو تین مرتبہ دھویا اور فرمایا: اس (برتن) کو رکھ دے۔ فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ نے وضو کیا اور میں دیکھ رہی تھی کہ آپ ﷺ نے اپنے چہرے کو تین مرتبہ دھویا، کلی کی اور ایک مرتبہ ناک میں پانی چڑھایا اور اپنے دائیں اور بائیں ہاتھ کو تین مرتبہ دھویا، پھر اپنے سر کا دو مرتبہ مسح کیا اپنے سر کے پچھلے حصے سے شروع کیا اور اگلے حصے تک لے آئے، پھر سر کے پچھلے حصے سے شروع کیا اور اگلے حصے تک لے آئے پھر اپنے کانوں کے ظاہری اور اندرونی حصوں کا مسح کیا اور اپنے دائیں اور بائیں پاؤں کو تین مرتبہ دھویا۔

(ب) (ایک روایت میں ہے: پھر سر کے پچھلے حصے سے شروع کیا، پھر اگلے حصے پر کیا۔

(ج) (سیدنا انسؓ سے روایات ہے کہ آپ ﷺ نے اپنے سر کا تین مرتبہ مسح کرتے تھے اور ہر مرتبہ نیا پانی لیتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Repeatedly wiping the head

Hadith number: 299

Translation:

(299) (a) Rabi 'bint Mu'adh bin' Afrai says that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allaah be upon him) used to come to us. The narrator said: Rabi 'narrated that the Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, said to me: Pour water for me. I poured water into a small vessel for him, then he took one mudh and one third or one quarter of water, then said: Pour water on my hand, then he washed his palms three times and said: Put this (vessel) She said: The Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him) performed ablution and I saw that he washed his face three times, rinsed his mouth and he

put water in his nose once and washed his right and left hands three times, then wiped his head twice. Wiping once, starting from the back of his head and bringing it to the front, then starting from the front of the head and bringing it to the back, then wiping the outer and inner parts of his ears and washed his right and left feet three times.

(B) It is narrated in one narration: Then he started from the back of the head, then on the front part.

(C) It is narrated from Anas (may Allah be pleased with him) that he used to wipe his head three times and take fresh water each time.

[Hasan (Fair). Narrated by Abu Dawud 126]

Sunan Kubra Bayhaqi 300

Arabic Text:

(ت) (قَدْ مَضَى فِيهِ حَدِيثُ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عُمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذُبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ دَاسَةَ (٣٠١)
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ الْإِسْكَندَرَانِيُّ حَدَّثَنَا زِيَادُ
بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ زِيَادِ الْمُؤَدِّبِ عَنْ عُمَانَ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ النَّيْمِيِّ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ

الْوُضُوءِ فَقَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ سُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ ، فَدَعَا
بِمَائٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ : فَأَخَذَ مَائًا فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ
وَأُذُنَيْهِ فَغَسَلَ بَطُونَهُمَا وَظُهُورَهُمَا مَرَّةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ غَسَلَ
رِجْلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : أَيُّنَ السَّائِلُونَ عَنِ الْوُضُوءِ ؟ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ - يَتَوَضَّأُ .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب : پاکی کا بیان
باب : کانوں کے مسح کا بیان
حدیث نمبر : 300

:ترجمہ

(۳۰۱) عثمان بن عبد الرحمن تیمی کہتے ہیں کہ ابن ابی ملیکہ
سے وضو کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا : میں
نے سیدنا عثمان بن عفانؓ کو دیکھا، ان سے بھی وضو کے
بارے میں سوال کیا گیا، انہوں نے پانی منگوا یا۔۔۔ پھر لمبی
حدیث بیان کی، فرمایا : انہوں نے پانی لیا اور اپنے سر اور
کانوں کا مسح کیا، ایک ہی مرتبہ کانوں کے ظاہری اور
:اندرونی حصے کو دھویا، پھر اپنے پاؤں کو دھویا پھر پوچھا
وضو کے بارے میں سوال کرنے

والے کہاں ہیں؟ رسول اللہ ﷺ اسی طرح وضو کیا کرتے تھے
(جس طرح میں نے کیا ہے۔)

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on Wiping the Ears

Hadith number: 300

Translation:

(300) Uthman bin Abdul Rahman Taymi says that when Ibn Abi Malika was asked about ablution, he said: I saw Usman bin Affan (may Allah be pleased with him), he was also asked about ablution, he called for water... Then he narrated a long hadith and said: He took water and wiped his head and ears, washed the outer and inner part of the ears once, then washed his feet and then asked:

Where are those who ask about ablution?.
The Prophet (peace and blessings of Allaah
be upon him) used to perform ablution in the
same way (as I have done).

[Hasan (Fair). Narrated by Abu Dawud 108]

Sunan Kubra Bayhaqi 301

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدٌ (٣٠٢)
بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ
عَنِ الرَّبِيعِ بِنْتِ مَعْوِذٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - مَسَحَ أُذُنَيْهِ ظَاهِرُهُمَا
وَبَاطِنَهُمَا -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: کانوں کے مسح کا بیان
حدیث نمبر: 301

ترجمہ:

(٣٠٢) (ربیع بنت معوذہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے اپنے
کانوں کے ظاہری اور اندرونی حصے کا مسح کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on Wiping the Ear

Hadith number: 301

Translation:

(301) It is narrated from Rabi bint Mu'adh that the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) wiped the outer and inner parts of his ears.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence)]

Sunan Kubra Bayhaqi 302

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ بْنُ أَبِي عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدٌ (٣٠٣)
بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشَامٍ حَدَّثَنَا مَرْوَانَ بْنَ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا
حُمَيْدٌ قَالَ : تَوَضَّأَ أَنَسٌ وَنَحْنُ عِنْدَهُ ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ بَاطِنَ أُذُنَيْهِ
وَوَظَاهِرَهُمَا ، فَرَأَى شِدَّةَ نَظَرِنَا إِلَيْهِ فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ
يَأْمُرُنَا بِهَذَا .

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان
باب: کانوں کے مسح کا بیان
حدیث نمبر: 302

:ترجمہ

(٣٠٣) (حمید کہتے ہیں کہ سیدنا انس^{رض} نے وضو کیا، ہم آپ کے پاس تھے، آپ نے کانوں کے ظاہری اور اندرونی حصوں کا مسح کیا تو ہماری وضو کی طرف غور سے دیکھا اور

فرمایا: سیدنا ابن مسعودؓ ہمیں اس کا حکم دیا کرتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on Wiping the Ear

Hadith number: 302

Translation:

(302) Hameed says that Syeduna Anas (may Allah be pleased with him) performed ablution, we were with him, he wiped the outer and inner parts of the ears, then he looked at our ablution carefully and said: "Syeduna Ibn Masud (may Allah be pleased with him) used to give us this command."

[Hasan (Fair)]

Sunan Kubra Bayhaqi 303

Arabic Text:

:أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ (٣٠٤)
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَسِيدُ بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ
حَفْصٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ
:تَوَضَّأَ وَمَسَحَ أُذُنَيْهِ ظَاهِرُهُمَا وَبَاطِنَهُمَا ، فَنَظَرْنَا إِلَيْهِ فَقَالَ
كَانَ ابْنُ أُمِّ عَبْدِ يَأْمُرُنَا بِذَلِكَ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: کانوں کے مسح کا بیان
حدیث نمبر: 303

:ترجمہ

(٣٠٤) حمید کہتے ہیں: میں نے سیدنا انس بن مالکؓ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے اپنے کانوں کے ظاہری اور اندرونی حصوں کا مسح کیا، ہم نے ان کی طرف دیکھا تو

انہوں نے فرمایا: ابن ام عبد (عبد اللہ بن مسعودؓ) ہم کو یہی حکم دیا کرتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on Wiping the Ear

Hadith number: 303

Translation:

(303) Hameed says: I saw Anas bin Malik (may Allah be pleased with him) performing ablution. He wiped the outer and inner parts of his ears. When we looked at him, he said: Ibn Umm Abdul (Abdullah bin Masud (may Allah be pleased with him)) used to give us this order.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence)]

Sunan Kubra Bayhaqi 304

Arabic Text:

:أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّوْذُبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ (٣٠٥)
مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ وَبِشَامُ
بْنُ خَالِدِ الْمَعْنَى قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ حَرِيزِ بْنِ
عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ
قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ -تَوَضَّأَ قَالَ وَمَسَحَ بِأُذُنَيْهِ بَاطِنِيهِمَا
وَوَظَاهِرِيهِمَا-
زَادَ بِشَامٌ: وَأَدْخَلَ أَصَابِعَهُ فِي صِمَاحِي أُذُنَيْهِ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان
باب: انگلیاں کانوں میں داخل کرنے کا بیان
حدیث نمبر: 304

:ترجمہ

(۳۰۵) (الف) (مقدم بن معدی کرب فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا) پھر وضو کا طریقہ بیان کرتے ہوئے (فرمایا: آپ ﷺ نے اپنے کانوں کے ظاہری اور اندرونی حصوں پر مسح کیا۔

(ب) (ہشام نے یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں کہ آپ ﷺ نے اپنے کانوں کے سوراخوں میں اپنی انگلیاں داخل کیں۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement of inserting fingers in ears

Hadith number: 304

Translation:

(304) (a) Muqaddam ibn Maadi Karb says: I saw the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) performing ablution (then explaining the method of ablution). He said: He wiped the outer and inner parts of his ears.

(B) Hisham has added the words that the

Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) inserted his fingers in his ear holes.
[Sahih. Narrated by Abu Dawud 123]

Sunan Kubra Bayhaqi 305

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ (٣٠٦)
الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ الدُّبَلِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى
أَخْبَرَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ
الرَّبِيعِ بِنْتِ مُعَوَّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - تَوَضَّأَ فَأَدْخَلَ
إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: انگلیاں کانوں میں داخل کرنے کا بیان
حدیث نمبر: 305

ترجمہ:

(٣٠٦) (ربیع بنت معوذ بن عفرائ^{رض} سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے وضو کیا تو اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں داخل کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement of inserting fingers in ears

Hadith number: 305

Translation:

(305) It is narrated from Rabi 'bint Mu'adh bin Afrai that the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) performed ablution and put his fingers in his ears.

[Hasan (Fair). Narrated by Abu Dawud 131 and Ibn Majah 441]

Sunan Kubra Bayhaqi 306

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدٌ (٣٠٧)
بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَقِيلٍ
فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ وَقَالَ: إِنْ صَبَعْتَهُ فِي جُحْرِي أُذُنَيْهِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: انگلیاں کانوں میں داخل کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 306

ترجمہ:

(٣٠٧) (عبداللہ بن محمد عقیل نے پچھلی حدیث کی طرح روایت

نقل کی ہے اور فرمایا: آپ کی انگلیاں آپ کے کانوں کے

سوراخوں میں تھیں۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement of inserting fingers in ears

Hadith number: 306

Translation:

(306) Abdullah bin Muhammad Aqeel has narrated the same hadith as in the previous hadith and said: His fingers were in the holes of his ears.

[Hasan (Fair). Narrated by Abu Dawud 131 and Ibn Majah 441]

Sunan Kubra Bayhaqi 307

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو (٣٠٨)
الْحَسَنُ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ وَاسِعِ الْعَنْزِيِّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ
سَعِيدِ الدَّارِمِيِّ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ
قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ حَبَّانِ بْنِ وَاسِعِ
الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ يَذْكُرُ: أَنَّهُ
رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - يَتَوَضَّأُ فَأَخَذَ لِأُذُنَيْهِ مَائًا خِلَافَ الْمَائِ
الَّذِي أَخَذَ لِرَأْسِهِ - وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ -
(ت) وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ مِقْلَاصٍ
وَحَزْمَلَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ ابْنِ وَهْبٍ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: نئے پانی کے ساتھ کانوں کا مسح کرنا
حدیث نمبر: 307

ترجمہ:

(۳۰۸) سیدنا عبداللہ بن زید فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، آپ ﷺ نے کانوں کے لیے اس پانی کے علاوہ پانی لیا جو آپ ﷺ نے اپنے سر کے لیے لیا تھا (یعنی مسح کے لیے نیا پانی لیا)۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Wiping the ears with fresh water

Hadith number: 307

Translation:

(307) Abdullah ibn Zayd (may Allah be pleased with him) says that he saw the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) performing ablution. He took water for the ears in addition to the water he had taken for his head (i.e, fresh water for wiping).

[Sahih. Narrated by Hakim 1/253]

Sunan Kubra Bayhaqi 308

Arabic Text:

وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ عَنْ بَارُونَ بْنِ (٣٠٩)
مَعْرُوفٍ وَبَارُونَ بْنِ سَعِيدِ الْأَيْلِيِّ وَأَبِي الطَّائِرِ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ
بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - يَتَوَضَّأُ فَذَكَرَ وَضُوءَهُ
قَالَ: وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِمَايَ غَيْرِ فَضَلَّ يَدَيْهِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْأُذُنَيْنِ -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوَدْبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ أَخْبَرَنَا
أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ يَعْنِي أَبَا الطَّائِرِ
حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْحَارِثِ فَذَكَرَهُ -
وَبَدَأَ أَصَحُّ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان
باب: نئے پانی کے ساتھ کانوں کا مسح کرنا
حدیث نمبر: 308

:ترجمہ

(۳۰۹) ابن وہب صحیح سند سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، پھر آپ ﷺ کے وضو کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ ﷺ نے اپنے ہاتھوں کے بچے ہوئے پانی کے علاوہ اپنے سر کا مسح کیا، لیکن کانوں کا ذکر نہیں کیا۔
(ب) دوسری روایت پہلی روایت سے زیادہ صحیح ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Wiping the ears with fresh water

Hadith number: 308

Translation:

(308) Ibn Wahb narrates from a saheeh chain of transmission that he saw the Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him) performing ablution. Explaining the method of his ablution, he wiped over his head with water other than the extra water that remained in his hands (after washing his

arms) but did not mention his ears.

(B) The second narration is more correct than the first narration.

[Sahih]

Explanation (Sharh): It is for this reason that the majority of the scholars are of the view that the ablution of a person who wiped over his head with the water that remained (on his hands) after washing his arms is not valid. Imam Shafi'i (may Allah have mercy on him) said in his book entitled Al-Umm: "If a person wipes over his head with the water that remained after washing his arms in ablution, or that he wipes over his head with the water that remained in his beard, then this is not sufficient for him; it would only be sufficient for him if he takes fresh water again."

Moreover, Ibn Rushd said: "The majority of the scholars are of the view that it is an

obligation to take fresh water for wiping over one's head by analogy to all other organs of ablution.”

On the other hand, some scholars are of the view that it is permissible to wipe over the head with the water that remained after washing the hands (arms) as Ar-Rubayyi' said that the Prophet wiped over his head with some extra water remaining in his hands. [Abu Dawud]

Besides, Al-Daraqutni reported the same Hadith with the wording: “He [the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him)] performed ablution and wiped over his head with the moisture that remained in his hands.” Also, in another narration by him [Ad-Daraqutni], she [Ar-Rubayyi'] said: “The Prophet used to come to us and he would perform ablution and he would wipe over his head with the water remaining in his hands.”

However, the view that it is permissible to wipe over the head with the water that remained after washing the hands (arms) is the opinion of Imam Al-Awzaa'i, Al-Hasan Al-Basri and 'Urwa Ibn Az-Zubayr and this is the famous opinion of the Hanafi School of jurisprudence.

Sunan Kubra Bayhaqi 309

Arabic Text:

:أَخْبَرَنَا أَبُو زَكْرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ (٣١٠)
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ
أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ
عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدَ
اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُعِيدُ إِصْبَعَيْهِ فِي الْمَائِ فَيَمْسَحُ بِهِمَا أُذُنَيْهِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: نئے پانی کے ساتھ کانوں کا مسح کرنا
حدیث نمبر: 309

:ترجمہ

(٣١٠) حضرت نافع سے روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر

جب وضو کرتے تھے تو اپنے کانوں کے لیے اپنی انگلیوں ۛ کے ساتھ پانی لیتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Wiping the ears with fresh water

Hadith number: 309

Translation:

(309) It is narrated from Hazrat Nafi 'that when Abdullah bin Umar (may Allah be pleased with him) used to perform ablution, he used to take water with his fingers for his ears.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 310

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ أَخْبَرَنَا جَدِّي أَبُو عَمْرٍو (٣١١)
بْنُ نُجَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنجِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ
حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ يَأْخُذُ
:الْمَاءَ بِإِصْبَعَيْهِ لِأَذُنَيْهِ. وَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - أَنَّهُ قَالَ
((الْأَذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ)) (- فَرُوِيَ ذَلِكَ بِأَسَانِيدٍ ضِعَافٍ ذَكَرْنَا فِي
الْخِلَافِ وَأَشْهَرُ إِسْنَادٍ فِيهِ مَا -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: نئے پانی کے ساتھ کانوں کا مسح کرنا
حدیث نمبر: 310

:ترجمہ

(٣١٢) حضرت نافع سے روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر

کانوں کے مسح کے لیے انگلیوں کے ساتھ پانی لیتے تھے ۛ
اور نبی ﷺ سے منقول روایت میں کان سر کا حصہ ہیں۔ یہ
روایت ضعیف اسناد کے ساتھ منقول ہے، ان میں اختلاف ہے
ہم نے ذکر کر دیا ہے اور مشہور سند وہ ہے جو ہم نے بیان
کر دی۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Wiping the ears with fresh water

Hadith number: 310

Translation:

(310) It is narrated from Hazrat Nafi 'that
Abdullah bin Umar (may Allah be pleased with
him) used to take water with his fingers to
wipe his ears and in the narration narrated
from the Prophet (peace and blessings of
Allaah be upon him) the ears are part of the
head. This narration is narrated with weak
isnaads (chains of transmission), there is a
difference of opinion between them, we have

mentioned it and the famous sanad (chain of transmission) is what we have narrated.

[Daif (Weak). Narrated by Abu Dawud 134]

Sunan Kubra Bayhaqi 311

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقْرِي (٣١٢)
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ
الْقَاضِي حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَأَبُو الرَّبِيعِ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا سِنَانُ
بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -
ﷺ - تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، وَيَدَيْهِ ثَلَاثًا ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ
وَقَالَ)) : الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ ((- وَكَانَ يَمْسَحُ الْمَاقِنِينَ -
وَهَذَا الْحَدِيثُ يُقَالُ فِيهِ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا ضَعْفُ بَعْضِ الرُّوَاةِ
وَالْآخَرُ دُخُولُ الشَّكِّ فِي رَفْعِهِ - (ج) وَبِصِحَّةِ ذَلِكَ أَخْبَرَنَا أَبُو
عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا
عَبَّاسُ الدُّورِيُّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ : سِنَانُ بْنُ
رَبِيعَةَ يُحَدِّثُ عَنْهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ لَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا
أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غِيْلَانَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ
شَمِيلٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ وَذَكَرَ عِنْدَهُ شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ

فَقَالَ: إِنَّ شَهْرًا نَزَّكَوهُ قَوْلُهُ نَزَّكَوهُ أَي طَعَنُوا فِيهِ وَأَخَذَتْهُ السِّنَةُ

النَّاسِ-

وَبِإِسْنَادِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ سَمِعْتُ شُعْبَةَ يَقُولُ: كَانَ شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ رَافِقَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَسَرَقَ

عَيْتَهُ-

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: كَانَ شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ، فَأَخَذَ خَرِيطَةً

:فِيهَا دَرَاهِمُ فَقَالَ الْقَائِلُ

فَمَنْ يَأْمَنُ الْفُرَّاءَ بَعْدَكَ يَا شَهْرُ لَقَدْ بَاعَ شَهْرُ دِينَهُ بِخَرِيطَةٍ

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَمْرٍ

الْحَافِظُ حَدَّثَنَا دَعْلُجُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: سَأَلْتُ مُوسَى بْنَ هَارُونَ

عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، فِيهِ شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ وَشَهْرُ

ضَعِيفٌ-

قال البيهقي: وَالْحَدِيثُ فِي رَفْعِهِ شَكٌّ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

كتاب: پاکی کا بیان

باب: نئے پانی کے ساتھ کانوں کا مسح کرنا

حدیث نمبر: 311

ترجمہ:

(۳۱۲) (سیدنا ابو امامہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے وضو کیا اپنے چہرے اور ہاتھوں کو تین مرتبہ دھویا اور اپنے سر کا مسح کیا اور فرمایا: کان سر کا حصہ ہیں اور آپ ﷺ کن پٹی کا مسح کرتے تھے۔

(ب) (اس حدیث میں دو لحاظ سے کلام ہے: 1 بعض راوی ضعیف ہیں 2 اس کے مرفوع ہونے میں شک ہے۔

(ج) (یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ سنان بن ربیعہ جو حماد بن زید سے نقل کرتا ہے قوی نہیں۔

(د) (ابن عون کے پاس شہر بن حوشب کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: شہر کے بارے میں لوگوں نے طعن کیا ہے۔

(ر) (شعبہ کہتے ہیں کہ شہر بن حوشب اہل شام میں سے کسی شخص سے ملا تو اس نے شہر پر چوری کا الزام لگایا۔

(س) (ابوبکر کہتے ہیں کہ شہر بن حوشب کی ذمہ داری بیت المال پر تھی تو اس نے درہموں کی ایک تھیلی چرائی تو

کسی نے کہا: شہر نے اپنا دین ایک تھیلی کے عوض بیچ دیا ہے۔ اے شہر! تیرے بعد قراء کیسے محفوظ رہیں گے۔

(ش) (موسیٰ بن ہارون کہتے ہیں کہ یہ حدیث ثابت

نہیں۔ اس میں شہر بن حوئب ضعیف راوی ہے۔ امام بیہقی
(رح) فرماتے ہیں: اس روایت کے مرفوع ہونے میں شک ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Wiping the ears with fresh water

Hadith number: 311

Translation:

(311) It is narrated from Abu Umamah that the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) performed ablution; so he washed his face and his hands three times, and wiped his head, and he said: "The ears are part of the head and he used to wipe the earlobe."

[Hasan (Fair). Narrated by Tirmidhi 37]

Sunan Kubra Bayhaqi 312

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ (٣١٣)
بْنِ حُشَيْبٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مَوْسَى الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ
بْنُ حَرْبٍ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ شَهْرِ
بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ: أَنَّهُ وَصَفَ وَضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ -
ﷺ فَقَالَ: كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ مَسَحَ مَاقِيَهُ بِالْمَاءِ ، وَقَالَ أَبُو أَمَامَةَ
الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ -

قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ: الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ - إِنَّمَا هُوَ مِنْ قَوْلِ
أَبِي أَمَامَةَ ، فَمَنْ قَالَ غَيْرَ هَذَا فَقَدْ بَدَّلَ أَوْ كَلِمَةً قَالَهَا سُلَيْمَانُ
أَيُّ أَخْطَأَ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: نئے پانی کے ساتھ کانوں کا مسح کرنا

حدیث نمبر: 312

ترجمہ:

(۳۱۳) (ابو امامہ سے نبی ﷺ کے وضو کا طریقہ منقول ہے فرماتے ہیں: جب آپ ﷺ وضو کرتے تھے تو پانی سے اپنی کن پٹیوں کا مسح کرتے تھے اور فرمایا: کان سر کا حصہ ہیں۔) ب (سلیمان بن حرب فرماتے ہیں کہ کان سر کا حصہ ہیں، یہ ابو امامہ کا قول ہے، جس نے اس کے علاوہ کہا یا اس کو تبدیل کیا یا کوئی کلمہ کہا تو اس کا قائل سلیمان ہے یعنی اس نے غلطی کی ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Wiping the ears with fresh water

Hadith number: 312

Translation:

(312) The method of ablution of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) is narrated from Abu Umamah (may Allaah be pleased with him). He said: When the Prophet

(peace and blessings of Allaah be upon him) used to perform ablution, he used to wipe his earlobes with water and said: The ears are part of the head.

(B) Sulaiman ibn Harb says that the ears are a part of the head. This is the view of Abu Umamah, who said something other than that or changed it or said a word, then Sulayman is convinced of it, that is, he has made a mistake.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence). Narrated by Al-Daraqutni 1/104]

Sunan Kubra Bayhaqi 313

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوَدْبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ (٣١٤)
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌ وَقُتَيْبَةُ عَنْ
حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سِنَانِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ
أَبِي أَمَامَةَ: ذَكَرَ وَضُوءَ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -
يَمْسَحُ الْمَاقِينَ قَالَ وَقَالَ: ((الأذنان من الرأس)) -
قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ يَقُولُهَا أَبُو أَمَامَةَ -
قَالَ قُتَيْبَةُ قَالَ حَمَّادٌ: لَا أَدْرِي هُوَ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ - ﷺ - أَوْ أَبِي
أَمَامَةَ يَعْنِي قِصَّةَ الْأَذُنَيْنِ -
قَالَ قُتَيْبَةُ عَنْ سِنَانِ أَبِي رَبِيعَةَ كَذَا فِي كِتَابِي الْمَاقِينَ وَهُوَ فِي
رِوَايَةِ أَبِي سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيِّ عَنْ ابْنِ دَاسَةَ الْمَاقِينَ - غ (فَسَّرَهُ أَبُو
سُلَيْمَانَ بِطَرْفِ الْعَيْنِ الَّذِي يَلِي الْأَنْفَ وَهُوَ مَخْرَجُ الدَّمْعِ -
وَالَّذِي رُويَ مِنْ مَسْحِهِ رَأْسَهُ وَأَذُنَيْهِ فِي بَعْضِ مَا مَضَى
مُجْمَلٌ وَكَيْفِيَّتُهُ مَوْجُودَةٌ فِيمَا -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: نئے پانی کے ساتھ کانوں کا مسح کرنا

حدیث نمبر: 313

ترجمہ:

(۳۱۴) (سیدنا ابو امامہ نے نبی ﷺ کے وضو کا تذکرہ کیا فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ اپنی کن پٹیوں کا مسح کیا کرتے تھے اور آپ ﷺ نے فرمایا: کان سر کا حصہ ہیں۔)

(ب) (سلیمان بن حرب کہتے ہیں: یہ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔) (ج) حماد کہتے ہیں: مجھے نہیں معلوم کہ یہ نبی ﷺ کا قول ہے یا ابو امامہ (رح) کا۔)

(د) (ابو سنان ربیعہ کی کتاب میں "مأقین" کے الفاظ ہیں، ابن داسہ کی روایت میں بھی اس طرح ہے۔)

(ر) (ابو سلیمان نے مأقین کی تشریح کی ہے کہ آنکھ کا وہ کنارہ جو ناک کے ساتھ ملا ہوتا ہے اور وہ آنسوؤں کے نکلنے نکلنے کی جگہ ہے۔ گزشتہ روایات میں سر اور دونوں کانوں کے مسح کا مجمل بیان ہے اور کیفیت اس روایت میں ہے۔)

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Wiping the ears with fresh water

Hadith number: 313

Translation:

(313) Abu Umamah mentioned the ablution of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him). He said that the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) used to wipe his earlobes and he said: The ears are part of the head.

(B) Sulaiman ibn Harb says: This is the saying of Abu Umamah.

(C) Hammad says: I do not know whether this is the saying of the Prophet or Abu Umamah.

(D) In the book of Abu Sanaan Rabia there are the words "Muqeen", the same is in the narration of Ibn Dasah.

(R) Abu Sulayman has explained to the word 'Muqeen' that the corner of the eye which is connected with the nose and it is the place where tears come out. In the previous narrations, there is a complete description of wiping the head and both ears and the condition is in this narration.

[Hasan (Fair). Narrated by Ibn Majah 444]

Sunan Kubra Bayhaqi 314

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ (٣١٥)
بْنُ عَبْدِ الصَّفَّارِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ
الْمَدِينِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ
زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَائِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ مَائٍ فَمَسَحَ بِهِ
رَأْسَهُ وَقَالَ بِالْوُسْطِيِّينَ مِنْ أَصَابِعِهِ فِي بَاطِنِ أُذُنَيْهِ وَالْإِبْهَامَيْنِ مِنْ
وَرَائِ أُذُنَيْهِ.
ق (وَقَالَ أَصْحَابُنَا: فَكَأَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ مِنْ كُلِّ يَدٍ إصْبَعَيْنِ فَإِذَا
فَرَغَ مِنْ مَسْحِ الرَّأْسِ مَسَحَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: نئے پانی کے ساتھ کانوں کا مسح کرنا
حدیث نمبر: 314

:ترجمہ

(۳۱۵) (سیدنا ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے وضو کیا، پھر لمبی حدیث بیان کی۔ فرماتے ہیں، پھر آپ ﷺ نے کچھ پانی لیا تو اس کے ساتھ سر کا مسح کیا، پھر اپنے کانوں کے اندرونی حصے میں اپنی درمیانی انگلیوں سے اور انگوٹھوں سے اپنے کانوں کی پچھلی جانب کا مسح کیا۔ حسن۔
(ہمارے اصحاب کہتے ہیں کہ آپ دونوں ہاتھوں کی دو انگلیوں کے ساتھ سر کا مسح کرنے کے بعد انہی انگلیوں کے ساتھ کانوں کا مسح کرتے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Wiping the ears with fresh water

Hadith number: 314

Translation:

(314) It is narrated from Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) performed ablution and then narrated a long

hadeeth.....He said, "Then he took some water and wiped his head with it, then wiped the inside of his ears with his middle fingers and the back of his ears with his thumbs."

(B) Our companions say that after wiping the head with two fingers of both hands, he would wipe the ears with those fingers.

[Hasan (Fair)]

Sunan Kubra Bayhaqi 315

Arabic Text:

وَقَدْ رُوِيَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: مَسَحَ أُذُنَيْهِ دَاخِلَهُمَا بِالسَّبَابَتَيْنِ (۳۱۶)
وَخَالَفَ بَابَهُمَا فَمَسَحَ بَاطِنَهُمَا وَظَاهِرَهُمَا.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا
الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَخْبَرَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ
عَنِ ابْنِ عَجَلَانَ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: نئے پانی کے ساتھ کانوں کا مسح کرنا
حدیث نمبر: 315

:ترجمہ

(۳۱۶) اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ اپنی دو سبابہ انگلیوں کو داخل کر کے اپنے کانوں کا مسح کیا اور انگوٹھوں کے ساتھ مخالف سمت میں مسح کیا، پھر اپنے

كانوں كے ظاہری اور اندرونی حصوں كا مسح كیا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Wiping the ears with fresh water

Hadith number: 315

Translation:

(315) It is narrated in this hadith that he wiped his ears by inserting his two index fingers and wiped them in the opposite direction with his thumbs, then wiped the outer and inner parts of his ears.

[Hasan (Fair). Narrated by Ibn Hibban 1086]

Sunan Kubra Bayhaqi 316

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو أَحْمَدَ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ (٣١٧)
مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَدْلُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا
وَرَقَائُ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَائِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ ابْنُ
عَبَّاسٍ : أَلَا أُرِيكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - ؟ قَالَ : فَغَسَلَ يَدَيْهِ
مَرَّةً مَرَّةً ، وَمَضْمَضَ مَرَّةً وَاسْتَنْشَقَ مَرَّةً ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ
مَرَّةً ، وَذَرَاَعَيْهِ مَرَّةً مَرَّةً ، وَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ مَرَّةً
مَرَّةً ، ثُمَّ قَالَ : هَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - . هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ .
[حسن- أخرجه الشافعي ٥١]

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
کتاب: پاکی کا بیان
باب: پاؤں دھونے کا بیان
حدیث نمبر: 316

ترجمہ:

(۳۱۷) (سیدنا ابن عباسؓ نے فرمایا: کیا میں تم کو نبی ﷺ کا وضو نہ دکھاؤں؟ پھر وضو کا طریقہ بیان کیا اور آپ نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھویا اور ایک مرتبہ کلی کی، ایک مرتبہ ناک میں پانی چڑھایا اور ایک مرتبہ اپنے چہرے کو دھویا اور اپنے بازوؤں کو ایک مرتبہ دھویا اور ایک مرتبہ ہی اپنے سر کا مسح کیا اور ایک مرتبہ اپنے پاؤں کو دھویا، پھر فرمایا: یہ نبی ﷺ کا وضو ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement of foot washing

Hadith number: 316

Translation:

(316) Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) said: Shall I not show you the ablution of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him). Then he explained the method of ablution and he washed his hands once

and rinsed his mouth once, put water in his nose once and washed his face once and washed his arms once and wiped his head only once and once he washed his feet, then he said: This is the ablution of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him). [Hasan (Fair). Narrated by Shafi'i in his Musnad 51]

Sunan Kubra Bayhaqi 317

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ (٣١٨)
قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ
نَصْرِ قَالَ قُرِيَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَكَ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ
شِهَابٍ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَزِيدَ اللَّيْثِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ حُمْرَانَ مَوْلَى عَثْمَانَ
أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا يَوْمًا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ
ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ مَضَمَضَ وَاسْتَنْشَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ غَسَلَ
وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثَ
مَرَّاتٍ ، ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ
غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى
مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يَوْمًا تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضُوءِي
هَذَا ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: ((مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وَضُوءِي هَذَا ، ثُمَّ
قَامَ فَرَكَعَ رَكَعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ
ذَنْبِهِ)) (-).

رَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ عَنْ حَرْمَلَةَ وَأَبِي الطَّاهِرِ
عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ أَوْجِهٍ أُخْرَى عَنِ ابْنِ
شِهَابٍ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: پاؤں کو تکرار سے دھونا

حدیث نمبر: 317

:ترجمہ

(۳۱۸) (سیدنا عثمان بن عفانؓ نے ایک دن پانی منگوا کر وضو کیا، اپنی ہتھیلیوں کو تین تین مرتبہ دھویا، پھر کلی کی اور تین مرتبہ ناک جھاڑا، پھر اپنے چہرے کو تین مرتبہ دھویا، پھر اپنے دائیں ہاتھ کو کہنی سمیت تین مرتبہ دھویا، پھر اسی طرح بائیں ہاتھ کو دھویا۔ پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر اپنے دائیں پاؤں کو ٹخنوں سمیت تین مرتبہ دھویا، پھر اسی طرح بائیں پاؤں کو دھویا، پھر فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو ایک دن اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا، پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " جس نے میرے اس وضو جیسا وضو کیا، پھر کھڑے ہو کر دو رکعتیں پڑھیں اور اپنے دل میں کوئی خیال پیدا نہیں ہونے دیا تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔"

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Washing the feet repeatedly

Hadith number: 317

Translation:

(317) One day 'Uthman ibn Affan (may Allah be pleased with him) asked for water and performed ablution. He washed his palms three times, then rinsed and brushed his nose three times, then he washed his face three times, then he washed his right hand three times, including his elbow, then he washed his left hand in the same way. Then he wiped his head, then he washed his right foot three times including his ankles, then he washed his left foot in the same way, then he said: I saw the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) performing ablution in the same way one day. I saw the Prophet (peace and blessings of Allaah be

upon him) performing ablution like this of mine, and he said, 'If anyone performs ablution like that of mine and offers a two-rak`at prayer during which he does not think of anything else (not related to the present prayer) then his past sins will be forgiven." '

[Sahih. Narrated by Bukhari 159, 164, 1934 and Muslim 226 and Nasai 84 and and Ibn Majah 285 and Malik 6/29 and Ahmad 1/72 and Darimi 720]

Sunan Kubra Bayhaqi 318

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقْرِيُّ (٣١٩)
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ
حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسْرَبِدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ
عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ : أَتَانَا عَلِيٌّ وَقَدْ صَلَّى فَدَعَا بِطَهْرٍ ، فَقُلْنَا مَا
يَصْنَعُ بِالطَّهْرِ وَقَدْ صَلَّى؟ مَا يُرِيدُ إِلَّا لِيُعَلِّمَنَا ، فَأَتَى بِنَائِي فِيهِ
مَاءٌ وَطُسْتٌ ، فَأَفْرَغَ مِنَ الْإِنَائِ عَلَى يَمِينِهِ ، فغَسَلَ يَدَهُ
ثَلَاثًا ، ثُمَّ تَمَضَّمْضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ، مَضْمَضَ وَنَثَرَ مِنَ الْكَفِّ
الَّذِي يَأْخُذُ مِنْهُ الْمَاءُ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى
ثَلَاثًا ، وَغَسَلَ يَدَهُ الشِّمَالِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ جَعَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَائِ فَمَسَحَ
بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا ، وَرِجْلَهُ
الشِّمَالِ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَعْلَمَ وَضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -
فَهُوَ بِذَا.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان

باب: پاؤں کو تکرار سے دھونا

حدیث نمبر: 318

:ترجمہ

(۳۱۹) (عبد خیر فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس سیدنا علیؓ آئے آپ نے نماز پڑھی، پھر پانی منگوا یا۔ ہم نے عرض کیا: آپ پانی سے کیا کریں گے حالانکہ آپ نے نماز پڑھ لی ہے؟ وہ ہمیں وضو کا طریقہ سکھلانا چاہتے تھے، چنانچہ ایک برتن اور تھال لایا گیا، جس میں پانی تھا۔ آپ نے برتن سے اپنے دائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور اس کو تین مرتبہ دھویا، پھر کلی کی اور تین مرتبہ ناک میں پانی چڑھایا، آپ کلی اور ناک اسی ہتھیلی سے جھاڑتے جس سے پانی لیتے تھے، پھر اپنے چہرے کو تین مرتبہ دھویا اور اپنے دائیں اور بائیں ہاتھ کو تین مرتبہ دھویا، پھر اپنا ہاتھ برتن میں ڈالا اور ایک مرتبہ سر کا مسح کیا، پھر اپنا دایاں بائیں پاؤں تین مرتبہ دھویا پھر فرمایا: جس کو پسند ہو کہ وہ رسول اللہ ﷺ کا وضو جانے تو یہی آپ کا وضو ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Washing the feet repeatedly

Hadith number: 318

Translation:

(318) Abdul Khair says that Syeduna Ali (may Allah be pleased with him) came to us, he offered prayers, then asked for water. We asked: What will you do with the water even though you have prayed? He wanted to teach us how to do ablution, so a pot and a plate were brought, which contained water. Then rinsed his mouth and put water in his nose three times. He would rinse his mouth and wipe his nose with the same palm from which he used to take water, then wash his face three times and wash then his right and left hand three times, then put his hand in the pot and wiped his head once, then washed

his right and left feet three times and then said: Whoever likes to perform the ablution of the Messenger of Allah (peace and blessings of Allaah be upon him) then this is his ablution.

[Sahih. Narrated by Nasai 91-94 and Abu Dawud 111 and Tirmidhi 48 and Ahmad 1/122 and Darimi 768]

Sunan Kubra Bayhaqi 319

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو (۳۲۰)
عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَالْحَجَبِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشْرِ عَنْ
يُوسُفَ بْنِ مَاهِكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: تَخَلَّفَ عَنَّا رَسُولُ
اللَّهِ - ﷺ - فِي سَفَرَةٍ سَافَرْنَا بِهَا فَأَدْرَكْنَا ، وَقَدْ أَرْبَعْنَا صَلَاةَ الْعَصْرِ
:وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ فَجَعَلْنَا نَمْسُحُ عَلَى أَرْجُلِنَا فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ
((وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ))-

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُسَدَّدٍ وَمُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ
وَأَبِي النُّعْمَانِ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ شَيْبَانَ وَأَبِي كَامِلٍ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي
عَوَانَةَ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: پاؤں دھونے کی فرضیت کی دلیل اور مسح کے ناکافی

ہونے کا بیان

حدیث نمبر: 319

ترجمہ:

(۳۲۰) (سیدنا عبداللہ بن عمرو رض سے روایت ہے کہ ایک سفر میں رسول اللہ ﷺ ہم سے پیچھے رہ گئے، ہم سفر کرتے رہے، پھر آپ ﷺ نے ہمیں پالیا، عصر کی نماز ہم سے چھوٹ گئی تھی اور ہم وضو کر رہے تھے، ہم اپنے پاؤں پر مسح کرنا شروع ہوئے تو آپ ﷺ نے اونچی آواز سے فرمایا: ایڑیوں کے لیے آگ کی ہلاکت ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Proof of Obligation to Wash Feet
and Statement of Insufficient Wiping

Hadith number: 319

Translation:

(319) It is narrated on the authority of Abdullah bin Amr (may Allah be pleased with him) that on a journey, the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon

him) stayed behind us, we continued to travel, then he found us, we missed the Asr prayer and we were performing ablution. We started wiping on our feet and he said in a loud voice: "Woe to the heels because of hell-fire."

[Sahih. Narrated by Bukhari 60, 163, 165 and Muslim 241 and 242 and Abu Dawud 97 and Nasai 111 and Ibn Majah 450 and Ahmad 2/193, 205, 211]

Sunan Kubra Bayhaqi 320

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى (٣٢١)
بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَأَبُو سَعِيدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ
الْفَضْلِ وَأَبُو سَعِيدٍ : مَسْعُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُرْجَانِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو
الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا هَارُونَ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ -
(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ
مَنْصُورٍ عَنْ بِلَالِ بْنِ بِسَافٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَمْرٍو قَالَ : رَجَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ
فَانْتَهَيْنَا إِلَى مَائٍ بِالطَّرِيقِ ، فَتَعَجَّلَ قَوْمٌ يَتَوَضَّئُونَ وَهُمْ
عِجَالٌ عِنْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ ، فَانْتَهَيْنَا إِلَيْهِمْ وَأَعْقَابُهُمْ بِيضٌ تَلُوحُ
لَمْ يَمْسَسْهَا الْمَائُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - : ((أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ ،
وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ ، أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ)) (-) ،

رَوَاهُ مُسْلِمٌ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ وَكَيْعٍ عَنِ الثَّوْرِيِّ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: پاؤں دھونے کی فرضیت کی دلیل اور مسح کے ناکافی

ہونے کا بیان

حدیث نمبر: 320

ترجمہ:

(۳۲۱) (سیدنا عبداللہ بن عمروؓ فرماتے ہیں: ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مکہ سے مدینہ کی طرف لوٹے، راستے میں ہم نے پانی کے پاس پڑاؤ ڈالا، لوگوں نے وضو کرنے میں جلدی کی تاکہ عصر کی نماز ادا کریں، ہم ان پاس پہنچے تو دیکھا کہ ان کی سفید ایڑیاں چمک رہی تھیں، ان کو پانی نہیں لگا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مکمل وضو کرو، ایڑیوں کے لیے آگ کی ہلاکت ہے لہذا مکمل وضو کرو۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Proof of Obligation to Wash Feet
and Statement of Insufficient Wiping

Hadith number: 320

Translation:

(320) Abdullah ibn Amr (may Allah be pleased with him) said: We returned from Makkah to Madinah with the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him). On the way we encamped near the water, people hurried to perform ablution so that they could offer Asr prayers. When we reached them we saw that their white heels were dry, the water had not touched them. He then said : "Woe to the heels because of Hell. Perform the ablution in full."

[Sahih. Narrated by Muslim 241 and Nasai 111 and Abu Dawud 97 and Ibn Majah 450 and Ibn Khuzaymah 161]

Sunan Kubra Bayhaqi 321

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورِكَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ (٣٢٢)
اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ.
: وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ (ح)
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ بِهَمْدَانَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَّاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا وَالنَّاسُ
يَتَوَضَّئُونَ مِنَ الْمِطْهَرَةِ فَيَقُولُ: أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ ، فَإِنَّ أَبَا
الْقَاسِمِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ: ((وَيَلُّ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ)) -
لَفْظُ حَدِيثِ آدَمَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ آدَمَ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ
مِنْ أَوْجِهٍ أُخَرَ عَنْ شُعْبَةَ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاكى كا بيان

باب: پاؤں دھونے كى فرضيت كى دليل اور مسح كے ناكافى
ہونے كا بيان

حدیث نمبر: 321

:ترجمہ

(۳۲۲) محمد بن زیاد فرماتے ہیں: میں نے سیدنا ابوہریرہؓ سے سنا، وہ ہمارے پاس سے گزر رہے تھے اور لوگ برتن سے وضو کر رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا: مکمل وضو کرو، یقیناً ابو القاسمؓ نے فرمایا " : ایڑیوں کے لیے آگ کی ہلاکت ہے۔ "

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Proof of Obligation to Wash Feet
and Statement of Insufficient Wiping

Hadith number: 321

Translation:

(321) Muhammad ibn Ziyad says: I heard from Abu Hurayrah that he was passing by us and people were performing Wudhu from a vessel. Perform ablution perfectly and thoroughly for Abul-Qasim (the Prophet) said, "Woe to the heels because of hell-fire."
[Sahih. Narrated by Bukhari 165]

Sunan Kubra Bayhaqi 322

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ (۳۲۳)
إِسْحَاقَ الْفَقِيهَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُتَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَامٍ
وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَكْرِ قَالَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
زِيَادٍ عَنْ أَبِي بُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - رَأَى رَجُلًا لَمْ يَغْسِلْ عَقِبَهُ
فَقَالَ: ((: وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ)) (- رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَلَامٍ-) ت (وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي
بُرَيْرَةَ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: پاؤں دھونے کی فرضیت کی دلیل اور مسح کے ناکافی
ہونے کا بیان
حدیث نمبر: 322

:ترجمہ

(۳۲۳) سیدنا ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ایک شخص کو دیکھا، اس نے اپنی ایڑھیاں نہیں دھوئیں تو آپ ﷺ نے فرمایا " : ایڑیوں کے لیے آگ کی ہلاکت ہے۔"

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Proof of Obligation to Wash Feet and Statement of Insufficient Wiping

Hadith number: 322

Translation:

(322) It is narrated from Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) saw a man who did not wash his heels, so he said: "Woe to the heels because of hell-fire."

[Sahih. Narrated by Bukhari 60, 163, 165 and Muslim 241, 242 and Abu Dawud 97 and Nasai 111 and Ibn Majah 450 and Ahmad 2/193, 205, 211]

Sunan Kubra Bayhaqi 323

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورِكَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ (٣٢٤)
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ
عَنْ عِمْرَانَ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ سَالِمِ سَبْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ لِأَخِيهَا يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ أَسْبِغِ الوُضُوءَ ، فَإِنِّي
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ ((وَيَلُ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ)) .-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: پاؤں دھونے کی فرضیت کی دلیل اور مسح کے ناکافی
ہونے کا بیان
حدیث نمبر: 323

ترجمہ:

(٣٢٤) سالم سبلان فرماتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ

!سے سنا، وہ اپنے بھائی سے کہتی تھیں: اے عبد الرحمن
مکمل وضو کرو، میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا
ہے کہ قیامت کے دن ایڑیوں کے لیے آگ کی ہلاکت ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Proof of Obligation to Wash Feet
and Statement of Insufficient Wiping

Hadith number: 323

Translation:

(323) Salem Sablan says that I heard from
Ayesha (may Allah be pleased with her), she
used to say to her brother: O Abd al-Rahman!
Perform complete ablution as I heard the
Allah's Messenger (peace and blessings of
Allaah be upon him) say: "Woe to the heels
because of hell-fire."

[Sahih. Narrated by Muslim 240 and Ibn Majah
451, 452 and Malik 2/5]

Sunan Kubra Bayhaqi 324

Arabic Text:

:أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ (٣٢٥)
الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ إِمْلائِيٌّ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ
سُلَيْمَانَ وَعَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ قُدَيْدٍ وَعَاصِمُ بْنُ رَازِحِ الْمِصْرِيِّونَ
بِمِصْرَ قَالُوا أَخْبَرَنَا أَبُو الطَّائِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ
بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَالِمِ مَوْلَى شَدَّادٍ : أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي
بَكْرٍ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَتَوَضَّأَ عِنْدَهَا فَقَالَتْ : يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ
أَسْبِغِ الوُضُوءَ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ ((: وَيَلُّ
لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ)) .-
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الطَّائِرِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : لِلْأَعْقَابِ .-
وَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَنُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ (ت)
سَالِمٍ بِمَعْنَاهُ .-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: پاؤں دھونے کی فرضیت کی دلیل اور مسح کے ناکافی

ہونے کا بیان

حدیث نمبر: 324

:ترجمہ

(۳۲۵) (سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر سیدہ عائشہؓ کے پاس

آئے، انہوں نے آپؐ کے پاس وضو کیا تو سیدہ عائشہؓ نے

فرمایا: اے عبد الرحمن! مکمل وضو کر، میں نے رسول اللہ ﷺ

کو فرماتے ہوئے سنا "قیامت کے دن ایڑیوں کے لیے آگ کی

"ہلاکت ہے۔"

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Proof of Obligation to Wash Feet
and Statement of Insufficient Wiping

Hadith number: 324

Translation:

(324) Syeduna Abdul Rahman bin Abi Bakr (may Allah be pleased with him) came to Ayesha (may Allah be pleased with her). He performed ablution at her place. Ayesha then said: O Abd al-Rahman! Perform complete ablution as I heard the Allah's Messenger (peace and blessings of Allaah be upon him) say: "Woe to the heels because of hell-fire." [Sahih. Narrated by Muslim 240 and Ibn Majah 451,452 and Malik 2/5]

Sunan Kubra Bayhaqi 325

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ (٣٢٦)
بْنُ عَبْدِ الصَّفَّارِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكَ حَدَّثَنَا يَحْيَى -
(ح) وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ
بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِلْحَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ حَيَّوَةَ بْنِ شَرِيحٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ
-عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزِيِّ الزُّبَيْدِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ -
((يَقُولُ)) : وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ وَبُطُونِ الْأَفْدَامِ مِنَ النَّارِ ((-)).

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: پاؤں دھونے کی فرضیت کی دلیل اور مسح کے ناکافی

ہونے کا بیان

حدیث نمبر: 325

ترجمہ:

(۳۲۶) عبدالله بن حارث بن جزء زبیدیؓ نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا " :ایڑیوں اور پاؤں کے اندرونی حصے کے لیے آگ کی ہلاکت ہے ("پاؤں کا جو حصہ خشک ہوگا وہ آگ میں جائے گا۔)۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Proof of Obligation to Wash the Feet and Statement of Insufficient Wiping

Hadith number: 325

Translation:

(325) Abdullah ibn Harith ibn Jaz Zubaydi heard the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) say: " "Woe to the heels and the inner part of the feet because of hell-fire."

[Sahih. Narrated by Ahmad 4/191]

Sunan Kubra Bayhaqi 326

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ (۳۲۷)
بْنِ هَانِيٍّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْدَلَانِيُّ حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
عَنْ جَابِرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَنَّ رَجُلًا تَوَضَّأَ
:فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفْرِ عَلَى قَدَمِهِ فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ - فَقَالَ
((ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ)) (فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى -
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ شَبِيبٍ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: پاؤں دھونے کی فرضیت کی دلیل اور مسح کے ناکافی
ہونے کا بیان
حدیث نمبر: 326

ترجمہ:

(۳۲۷) سیدنا جابرؓ فرماتے ہیں: مجھ کو سیدنا عمر بن خطاب نے بتلایا کہ ایک شخص نے وضو کیا تو اس نے اپنے پاؤں پر ناخن کے برابر جگہ خشک چھوڑ دی۔ نبی ﷺ نے اس کو دیکھ کر فرمایا " واپس جاؤ اچھی طرح وضو کرو۔ وہ لوٹا پھر اس نے نماز پڑھی۔"

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Proof of Obligation to Wash the Feet and Statement of Insufficient Wiping

Hadith number: 326

Translation:

(326) Syedna Jabir (may Allah be pleased with him) said: I was informed by Umar ibn al-Khattab (may Allah be pleased with him) that a person performed ablution and left an area on his feet, equal to a nail, dry. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him)

looked at him and said: "Go back and perform ablution properly. He returned and then he prayed."

[Sahih. Narrated by Muslim 243 and Abu Dawud 173 and Ibn Majah 665 and Ahmad 3/143]

Sunan Kubra Bayhaqi 327

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ (٣٢٨)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا
ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ قَتَادَةَ بْنَ دِعَامَةَ قَالَ
حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ - قَدْ
- تَوَضَّأَ وَتَرَكَ عَلَى قَدَمِهِ مِثْلَ مَوْضِعِ الظُّفْرِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -
((أَرْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ)) -: .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: پاؤں دھونے کی فرضیت کی دلیل اور مسح کے ناکافی
ہونے کا بیان
حدیث نمبر: 327

:ترجمہ

(۳۲۸) سیدنا انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی ﷺ کے پاس آیا، اس نے وضو کیا تو اپنے پاؤں پر ناخن کے برابر جگہ خشک چھوڑ دی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " :
" واپس جاؤ اور اچھی طرح وضو کرو۔"

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Proof of Obligation to Wash the Feet
and Statement of Insufficient Wiping

Hadith number: 327

Translation:

(327) Syedna Anas (may Allah be pleased with him) said: A person came to the Messenger of Allah (peace and blessings of Allaah be upon him) . He performed ablution and left a small part equal to the space of a nail upon his foot. The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said to him : Go back and perform ablution

well.

[Sahih. Narrated by Muslim 243 and Abu Dawud 173 and Ibn Majah 665 and Ahmad 3/143]

Sunan Kubra Bayhaqi 328

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ: عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ (٣٢٩)
أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ: الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ زَكَرِيَّا الضَّبِّيُّ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا بُشَيْمٌ
{ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ كَانَ يُقْرَأُ
وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ } قَالَ: عَادَ الْأَمْرُ إِلَى الْغَسْلِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: وَأَرْجُلِكُمْ کے منسوب پڑھانے کا بیان، اس وقت مراد
دھونا ہوگا اور مجرور پڑھنے کی وجہ قریب ہونا ہے

حدیث نمبر: 328

ترجمہ:

(٣٢٩) (سیدنا ابن عباسؓ پڑھا کرتے تھے) { وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ }

وَسِکُمْ وَأَرْجُلُکُمْ } اور فرماتے پاؤں کا حکم دھونے کی طرف
لوٹ گیا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The statement of reciting **وَأَرْجُلُکُمْ** as
mansoob, then the meaning will be washed
and the reason for reciting it majroor is close

Hadith number: 328

Translation:

(328) Ibn Abbas (may Allah be pleased with
him) used to recite:

{وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ}

{And wipe your heads and your feet}

[Surah Maidah 5:6]

and he returned to washing his feet.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 329

Arabic Text:

وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا بُشَيْمٌ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ مَوْلَى (۳۳۰)
قُرَيْشٍ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُهَا
كَذَلِكَ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: وَأَرْجُلُكُمْ كَيْ مَنْصُوبٍ پڑھانے کا بیان، اس وقت مراد
دھونا ہوگا اور مجرور پڑھنے کی وجہ قریب ہونا ہے

حدیث نمبر: 329

ترجمہ:

(۳۳۰) (سیدنا علیؓ بھی اسی طرح پڑھا کرتے تھے) یعنی
أَرْجُلُكُمْ (-)

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The statement of reciting **وَأَرْجُلَكُمْ** as mansoob, then the meaning will be washed and the reason for reciting it majroor is close
Hadith number: 329

Translation:

(329) Syeduna Ali (may Allah be pleased with him) used to recite in the same way (i.e **أَرْجُلَكُمْ**).
[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 330

Arabic Text:

:أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ: أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ (۳۳۱)
إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا
بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ
{ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ
وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ } قَالَ: رَجَعَ الْأَمْرُ إِلَى الْغَسْلِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: وَأَرْجُلُكُمْ كَيْ مَنْصُوبٍ پڑھانے کا بیان، اس وقت مراد

دھونا ہوگا اور مجرور پڑھنے کی وجہ قریب ہونا ہے

حدیث نمبر: 330

:ترجمہ

(۳۳۱) (سیدنا ابن مسعود رض) {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} پڑھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ پاؤں دھونے کا حکم ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The statement of reciting **وَأَرْجُلَكُمْ** as mansoob, then the meaning will be washed and the reason for reciting it majroor is close

Hadith number: 330

Translation:

(330) Ibn Masud (may Allah be pleased with him) used to recite **{وَأَرْجُلَكُمْ لِي الْكَعْبَيْنِ}**

{And your feet till the ankles}

[Surah Maidah 5:6]

and said that it is commanded to wash one's feet.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 331

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ (۳۳۲)
يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ
سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ بِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَجَعَ
الْقُرْآنُ إِلَى الْغَسْلِ وَقَرَأَ {وَأَرْجُلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} بِنَصْبِهَا.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: وَأَرْجُلُكُمْ کے منصوب پڑھانے کا بیان، اس وقت مراد
دھونا ہوگا اور مجرور پڑھنے کی وجہ قریب ہونا ہے

حدیث نمبر: 331

:ترجمہ

(۳۳۲) ہشام بن عروہ اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں کہ قرآن کا حکم دھونے کی طرف لوٹتا ہے (یعنی پاؤں کو دھونے کا نصب کے ساتھ { حکم ہے (اور آپ نے {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} پڑھا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The statement of reciting وَأَرْجُلَكُمْ as mansoob, then the meaning will be washed and the reason for reciting it majroor is close
Hadith number: 331

Translation:

(331) Hisham ibn Arwa narrates from his father that the command of the Qur'an goes back to washing (ie the command to wash the feet) and he has recited {وَأَرْجُلَكُمْ لِي الْكَعْبَيْنِ}

{And your feet till the ankles}

[Surah Maidah 5:6] with nusb.

[Sahih. Narrated by Ibn Abi Shaybah 194]

Sunan Kubra Bayhaqi 332

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ (۳۳۳)
حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ
قَيْسٍ عَنْ مُجَابِدٍ قَالَ: رَجَعَ الْقُرْآنُ إِلَى الْغَسْلِ وَقِرَاءٍ {وَأَرْجُلِكُمْ
بِنَصِيهَاً.}

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: وَأَرْجُلِكُمْ کے منصوب پڑھانے کا بیان، اس وقت مراد

دھونا ہوگا اور مجرور پڑھنے کی وجہ قریب ہونا ہے

حدیث نمبر: 332

ترجمہ:

(۳۳۳) مجاہد فرماتے ہیں: قرآن کا حکم دھونے کی طرف لوٹ آیا ہے اور آپ نے {وَأَرْجُلَكُمْ} نصب کے ساتھ پڑھا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The statement of reciting وَأَرْجُلَكُمْ as mansoob, then the meaning will be washed and the reason for reciting it majroor is close

Hadith number: 332

Translation:

(332) Mujahid says: The command of the Qur'an has returned to washing and he read {وَأَرْجُلَكُمْ} {and your feet} [Surah Maidah 5:6] with nusb.

[Sahih. Narrated by al-Tahawi in Sharh al-Ma'ani Al-Athar 1/40]

Sunan Kubra Bayhaqi 333

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ (۳۳۴)
الْفَضْلِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَايٍ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ
قَيْسٍ عَنْ عَطَايٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُهَا {وَأَرْجُلُكُمْ} نَصَبًا.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: وَأَرْجُلُكُمْ کے منصوب پڑھانے کا بیان، اس وقت مراد

دھونا ہوگا اور مجرور پڑھنے کی وجہ قریب ہونا ہے

حدیث نمبر: 333

ترجمہ:

(۳۳۴) عطاء سے روایت کہ وہ {وَأَزْجُلْكُمْ} کو منصوب پڑھا کرتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The statement of reciting وَأَزْجُلْكُمْ as mansoob, then the meaning will be washed and the reason for reciting it majroor is close

Hadith number: 333

Translation:

(333) Narrated from Ata (may Allah have mercy on him) that he used to recite {وَأَزْجُلْكُمْ} {and your feet} [Surah Maidah 5:6] as mansoob.

[Daif Jiddan (Very Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 334

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ (۳۳۵)
حَدَّثَنَا يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى عَنْ أُسَيْدِ
بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجَ كَانَ يَنْصِبُهَا {وَأَرْجُلَكُمْ}
قَالَ وَأَخْبَرَنَا بَارُونُ بْنُ مُوسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ غِيْلَانَ
{وَأَرْجُلَكُمْ} نَصَبًا.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: وَأَرْجُلَكُمْ کے منصوب پڑھانے کا بیان، اس وقت مراد
دھونا ہوگا اور مجرور پڑھنے کی وجہ قریب ہونا ہے

حدیث نمبر: 334

ترجمہ:

(۳۳۵) حضرت عبد الرحمن رض {وَأَرْجُلُكُمْ} کو منصوب پڑھا کرتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The statement of reciting **وَأَرْجُلُكُمْ** as mansoob, then the meaning will be washed and the reason for reciting it majroor is close
Hadith number: 334

Translation:

(334) Hazrat Abdul Rahman used to recite **{وَأَرْجُلُكُمْ}** {and your feet} [Surah Maidah 5:6] as mansoob.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 335

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ (۳۳۶)
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مِينَائِ
قَالُونَ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعَيْمِ
الْقَارِيِّ بِذِهِ الْقِرَائَةِ غَيْرَ مَرَّةٍ فَذَكَرَ فِيهَا بِرِيٍّ وَسِكْمٍ
وَأَرْجُلِكُمْ {مَفْتُوحَةً}.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: وَأَرْجُلِكُمْ کے منصوب پڑھانے کا بیان، اس وقت مراد
دھونا ہوگا اور مجرور پڑھنے کی وجہ قریب ہونا ہے

حدیث نمبر: 335

ترجمہ:

(۳۳۶) عیسیٰ بن میناء قالون فرماتے ہیں کہ میں نے نافع بن عبد الرحمن بن ابو نعیم قاری سے یہ قراءت کئی مرتبہ پڑھی، انہوں نے بھی {بِرُّیْ وَسِکُمْ وَارْجُلَکُمْ} منسوب پڑھا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The statement of reciting **وَارْجُلَکُمْ** as mansoob, then the meaning will be washed and the reason for reciting it majroor is close
Hadith number: 334

Translation:

(334) Isa ibn Mina Qalun says that I have recited this recitation from Nafi 'ibn' Abd al-Rahman ibn Abu Naeem Qari many times. He has also recited **{وَأَمْسَحُوا بِرِّیْ وَسِکُمْ وَارْجُلَکُمْ}**
{And wipe your heads and your feet}
[Surah Maidah 5:6]

mansoob.
[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 335

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ (۳۳۷)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْجَهْمِ أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ بْنُ حَسَّانَ الثَّوْرِيُّ: أَنَّهُ قَرَأَ
الْقُرْآنَ عَلَى أَبِي مُحَمَّدٍ: يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ الْحَضْرَمِيِّ
وَكَانَ عَالِمًا بَوُجُوهِ الْقِرَائِ اتِ وَذَكَرَ فِيهَا {وَأَرْجُلَكُمْ}
مُنْتَصِبَ اللَّامِ.
(ت) وَبَلَغَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ النَّيْمِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُهَا نَصْبًا.
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ الْيَحْصَبِيِّ وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ رُوَيْتَةَ حَفْصِ وَعَنْ
أَبِي بَكْرِ بْنِ عِيَّاشِ بْنِ رُوَيْتَةَ الْأَعَشِيِّ وَعَنْ الْكِسَائِيِّ كُلِّ
هُؤُلَاءِ نَصَبُوهَا وَمَنْ خَفَضَهَا فَإِنَّمَا هُوَ لِلْمُجَاوِرَةِ.
قَالَ الْأَعْمَشُ: كَانُوا يَقْرَأُوهَا وَنَهَا بِالْخَفْضِ وَكَانُوا يَغْسِلُونَ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: وَأَرْجُلُكُمْ کے منصوب پڑھانے کا بیان، اس وقت مراد دھونا ہوگا اور مجرور پڑھنے کی وجہ قریب ہونا ہے

حدیث نمبر: 336

ترجمہ:

(۳۳۷) (الف) ولید بن حسان ثوری نے ابو محمد یعقوب بن اسحاق بن یزید حضرمی پر قرآن پڑھا اور وہ قرآن کی قراءتوں کے عالم تھے، انہوں نے بھی {وَأَرْجُلُكُمْ} کو منصوب پڑھا ہے۔

(ب) ابراہیم بن یزید تیمی بھی اس کو منصوب پڑھا کرتے تھے۔

(ج) کسائی فرماتے ہیں کہ تمام نحوی اس کو منصوب پڑھا کرتے تھے اور جس نے اس کو مجرور پڑھا ہے وہ قریب ہونے کی بنا پر پڑھا ہے۔

(د) اعمش فرماتے ہیں: وہ اسے مجرور پڑھتے تھے اور پاؤں دھوتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The statement of reciting **وَأَرْجُلُكُمْ** as mansoob, then the meaning will be washed and the reason for reciting it majroor is close
Hadith number: 336

Translation:

(336) (a) Waleed bin Hassan Al-Thawri recited the Qur'an on Abu Muhammad Yaqub bin Ishaq bin Yazid Hazrami and he was a scholar of recitations of the Qur'an. He has also read **{وَأَرْجُلُكُمْ}** {and your feet} [Surah Maidah 5:6] as mansoob.

(B) Ibrahim bin Yazid Taymi also used to recite it.

(C) Imam Kasai (may Allah be pleased with him) says that all the grammarians used to read it as mansoob and the one who has read

it as majroor has read it because it is close.

(D) Aamish says: They used to recite it majroor and wash their feet.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 337

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ (٣٣٨)
الْفَضْلِ الْقَطَّانُ وَأَبُو الْقَاسِمِ طَلْحَةُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الصَّفْرِ بِبَغْدَادَ قَالَا
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَثْمَانَ الْأَدَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو
الْجَوَّابِ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ
عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: اغْسِلُوا الْقَدَمَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ كَمَا أَمَرْتُمْ.
(ت) (وَرَوَيْنَا فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ عَنْ
النَّبِيِّ ﷺ - فِي الْوُضُوءِ ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ كَمَا أَمَرَهُ
اللَّهُ تَعَالَى-) (ق) (وَفِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِغَسْلِهِمَا.)

وَأَمَّا الْأَثَرُ الَّذِي

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: وَأَرْجُلُكُمْ کے منصوب پڑھانے کا بیان، اس وقت مراد دھونا ہوگا اور مجرور پڑھنے کی وجہ قریب ہونا ہے

حدیث نمبر: 337

ترجمہ:

(۳۳۸) الف (سیدنا علیؓ فرماتے ہیں: قدموں کو ٹخنوں تک

اس طرح دھوؤ جس طرح تم کو حکم دیا گیا ہے۔

ب (عمر و بن عبسہ نبی ﷺ سے وضو کے بارے میں نقل

فرماتے ہیں: آپ نے اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک اس طرح دھویا

جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں حکم دیا ہے۔ اس

کی دلیل ہے کہ اللہ نے پاؤں دھونے کا حکم دیا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The statement of reciting وَأَرْجُلُكُمْ as

mansoob, then the meaning will be washed and the reason for reciting it majroor is close
Hadith number: 337

Translation:

(337) (a) Syeduna Ali (may Allah be pleased with him) says: Wash the feet up to the ankles as you have been commanded.

(B) Amr ibn Abbas narrates from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) about ablution: He washed his feet up to the ankles as Allaah has commanded him to do. This proves that Allah has commanded to wash the feet.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 338

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ (٣٣٩) الْفَضْلِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ قَالَ: خَطَبَ الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ النَّاسَ فَقَالَ اغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ فَاغْسِلُوا ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا وَعَرَاقِبِيَهُمَا ، فَإِنَّ ذَلِكَ أَقْرَبُ إِلَى جَنَّتِكُمْ فَقَالَ أَنَسٌ: صَدَقَ اللَّهُ وَكَذَبَ الْحَجَّاجُ ((فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)) (قَالَ: قَرَأَ جَرًّا- فَإِنَّمَا أَنْكَرَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْقِرَاءَةَ دُونَ الْغَسْلِ فَقَدْ رَوَيْنَا (ق) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - مَا دَلَّ عَلَى وُجُوبِ الْغَسْلِ- : وَأَمَّا الَّذِي

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: وَأَرْجُلُكُمْ کے منصوب پڑھانے کا بیان، اس وقت مراد دھونا ہوگا اور مجرور پڑھنے کی وجہ قریب ہونا ہے

حدیث نمبر: 338

ترجمہ:

(۳۳۹) موسیٰ بن انس فرماتے ہیں کہ حجاج بن یوسف نے لوگوں کو خطبہ دیا کہ اپنے چہروں، ہاتھوں اور پاؤں کو دھوؤ اور اس کے ظاہری اور اندرونی اور اوپر والے حصے کو دھوؤ، بیشک یہ تمہاری جنت کے زیادہ قریب ہے (یعنی جنت میں لے جانے کا سبب ہے)۔

(ب) سیدنا انسؓ فرماتے ہیں: اللہ نے سچ کہا اور حجاج نے جھوٹ کہا: وہ أَرْجُلُكُمْ کو مجرور پڑھتے تھے۔

(ج) سیدنا انسؓ نے اس قراءت کا انکار کیا ہے جس میں غسل کا تذکرہ نہیں ہے۔ اسی طرح ہم نے سیدنا انس بن مالک کی وہ روایت بیان کی ہے جس میں غسل کے وجوب کا ذکر ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The statement of reciting **وَأَرْجُلَكُمْ** as mansoob, then the meaning will be washed and the reason for reciting it majroor is close
Hadith number: 338

Translation:

(338) Musa ibn Anas says that Hajjaj ibn Yusuf gave a sermon to the people to wash their faces, hands and feet and wash its outer and inner and upper part. Indeed, it is closer to your Paradise (That is, it is the cause of being taken to heaven).

(B) Syeduna Anas (may Allah be pleased with him) says: Allah told the truth and Hajjaj has lied: He used to recite **{وَأَرْجُلَكُمْ}** {and your feet} [Surah Maidah 5:6] with majroor

(C) Anas has denied the recitation which does not mention ghusl. In the same way, we have narrated the narration of Anas ibn Malik

which mentions the necessity of ghusl.

[Hasan (Fair)]

Footnote: (In Arabic, the noun/ism إسم following the preposition is called: “majroor مجرور”).

The majroor مجرور exists in the genitive case (jarr جرّ). A noun coming after a preposition will end in ـِ or ـٍ, depending on whether it is definite or not.)

Sunan Kubra Bayhaqi 339

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا الْفَقِيهُ أَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ (٣٤٠)
الْحَارِثِ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ
حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ : أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ أَرْسَلَهُ إِلَى
الرُّبَيْعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ يَسْأَلُهَا عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَذَكَرَ
الْحَدِيثَ فِي صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ - ﷺ - وَفِيهِ قَالَتْ : ثُمَّ
غَسَلَ رِجْلَيْهِ - قَالَتْ : وَقَدْ أَتَانِي ابْنُ عَمِّ لِكَ تَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ
فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ : مَا أَجْدُ فِي الْكِتَابِ إِلَّا غَسَلْتَيْنِ وَمَسْحَتَيْنِ -
فَهَذَا إِنْ صَحَّ فَيَحْتَمِلُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَرَى الْقِرَاءَةَ (ق)
بِالْخَفْضِ وَأَنَّهَا تَقْتَضِي الْمَسْحَ ثُمَّ لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - تَوَعَّدَ
عَلَى تَرْكِ غَسْلِهِمَا أَوْ تَرْكِ شَيْءٍ مِنْهُمَا ذَهَبَ إِلَى وُجُوبِ
غَسْلِهِمَا وَقَرَأَهَا نَصَبًا وَقَدْ رُوِينَا عَنْهُ أَنَّهُ قَرَأَهَا نَصَبًا . وَأَمَّا الْحَدِيثُ
الَّذِي :

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: وَأَرْجُلُكُمْ کے منصوب پڑھانے کا بیان، اس وقت مراد دھونا ہوگا اور مجرور پڑھنے کی وجہ قریب ہونا ہے

حدیث نمبر: 339

ترجمہ:

(۳۴۰) (عبداللہ بن محمد بن عقیل بیان کرتے ہیں کہ علی بن حسینؑ نے انہیں ربیع بنت معوذؓ کی طرف بھیجا کہ وہ رسول اللہ کے وضو کے (طریقے کے) بارے میں پوچھے، انہوں نے نبی ﷺ کے وضو کے طریقے کے بارے میں حدیث بیان کی، جس میں ہے کہ آپ نے اپنے پاؤں کو دھویا۔ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ابن عباسؓ آئے، میں نے انہیں حدیث بیان کی تو انہوں نے فرمایا کہ میں صرف کتاب (قرآن) میں دو دفعہ دھونے اور دو بار مسح کو پاتا ہوں۔

اگر یہ بات صحیح ہو تو اس میں احتمال ہے کہ ابن عباس قراءت کو مجرور خیال کرتے تھے، حالانکہ وہ مسح کا تقاضا کرتی ہے۔ جب ابن عباسؓ کو یہ بات پہنچی کہ

نبی ﷺ نے ان کے نہ دھونے والے کو ڈانٹا ہے یا کسی چیز کے چھوڑنے کو ڈانٹا ہے تو پھر ابن عباسؓ پاؤں کے دھونے کو واجب سمجھتے تھے اور آیت کو منصوب پڑھتے تھے۔ ابن عباسؓ سے منصوب پڑھنے کی قراءت بھی روایت کی گئی ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The statement of reciting **وَأَرْجُلُكُمْ** as mansoob, then the meaning will be washed and the reason for reciting it majroor is close
Hadith number: 339

Translation:

(339) Abdullah ibn Muhammad ibn Aqeel narrates that Ali ibn Husayn (may Allah be pleased with him) sent him to Rabi 'bint Mu'adh (may Allah have mercy on her) to ask her about the method of ablution of the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him). She narrated a hadith in

which it is said that he washed his feet. She says that Ibn 'Abbas (may Allah be pleased with him) came to me and I narrated the hadith to him. So he said, "I only find washing twice and wiping the head twice in the book (Qur'an)." Even though he used to demand wiping the head.

If this is true, then it is probable that Ibn 'Abbas (may Allah be pleased with him) used to consider recitation to be majroor. When Ibn 'Abbas was informed that the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) had rebuked those who did not wash them or rebuked them for leaving something, then Ibn 'Abbaas considered it obligatory to wash the feet and recited the verse as mansoob. It has also been narrated from Ibn 'Abbas to recite as mansoob.

[Daif (Weak). Narrated by Al-Daraqutni 1/96]

Sunan Kubra Bayhaqi 340

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدٌ (٣٤١)
بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِالْوَيْهِ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى
حَدَّثَنَا بِشَامُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَائِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ
قَالَ لَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ: اتَّحِبُّونَ أَنْ أُحَدِّثَكُمْ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -
ﷺ- يَتَوَضَّأُ؟ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: ثُمَّ اغْتَرَفَ غَرْفَةً أُخْرَى فَرَشَّ
عَلَى رِجْلِهِ وَفِيهَا النَّعْلُ ، وَالْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ، وَمَسَحَ بِأَسْفَلِ
النَّعْلَيْنِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: وَأَرْجُلُكُمْ كَيْفَ مَنْصُوبٍ پڑھانے کا بیان، اس وقت مراد

دھونا ہوگا اور مجرور پڑھنے کی وجہ قریب ہونا ہے

حدیث نمبر: 340

:ترجمہ

(۳۴۱) (عطاء بن یسار کہتے ہیں: ہم کو سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: کیا تم پسند کرتے ہو کہ میں تم کو بتلاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کیا کرتے تھے؟ پھر لمبی حدیث ذکر کی، فرماتے فرماتے ہیں: پھر آپ نے دوسرا چلو بھرا تو اپنے پاؤں پر چھڑ کا اور اس میں جوتی تھی اور بائیں پاؤں میں بھی ایسا ہی کیا اور جوتیوں کے نیچے مسح کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The statement of reciting **وَأَرْجُلُكُمْ** as mansoob, then the meaning will be washed and the reason for reciting it majroor is close
Hadith number: 340

Translation:

(340) Ata ibn Yasar says: Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) said to us: Do you like me to tell you how the Messenger of Allah used to perform ablution? Then he narrated a long hadith and said: He then took out a handful of water and sprinkled it over

his right foot in his shoe and wiped beneath the shoe. He then did the same with his left foot.

[Hasan (Fair)]

The full hadith was narrated by Bukhari 140 and Nasai 80 and Abu Dawud 137 and Tirmidhi 42 and Ibn Majah 403, 411 and Ahmad 1/333 and Darimi 723

Sunan Kubra Bayhaqi 341

Arabic Text:

وَالَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ (٣٤٢)
عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْرَةَ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَائِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَائِ
فَاسْتَنْشَقَ وَمَضْمَضَ مَرَّةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَصَبَّ عَلَى ،
وَجْهِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَصَبَّ عَلَى يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، وَمَسَحَ
رَأْسَهُ مَرَّةً ، ثُمَّ أَخَذَ حَفْنَةَ مَائٍ فَرَشَّ عَلَى قَدَمَيْهِ وَهُوَ مُنْتَعِلٌ -
فَهَكَذَا رَوَاهُ بِشَّامُ بْنُ سَعْدٍ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ (ت)
الدَّرَاوَرْدِيُّ وَقَدْ خَالَفَهُمَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ
وَوَرَقَائُ بْنُ عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: وَأَرْجُلَكُمْ كَيْفَ يَتَوَضَّأُ فِيهِمْ ، اس وقت مراد

دھونا ہوگا اور مجرور پڑھنے کی وجہ قریب ہونا ہے

حدیث نمبر: 341

ترجمہ:

(۳۴۲) (سیدنا ابن عباس رض سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے وضو کیا تو اپنا ہاتھ برتن میں داخل کیا، ناک میں پانی چڑھایا اور ایک مرتبہ کلی کی، پھر اپنا ہاتھ برتن میں داخل کیا، ایک مرتبہ اپنے چہرے پر پانی ڈالا اور اپنے ہاتھوں پر دو مرتبہ پانی ڈالا اور ایک مرتبہ اپنے سر کا مسح کیا، پھر پانی کا ایک چلو لیا اور اپنے قدموں پر چھینٹے دیے اور آپ ﷺ جوتی پہنے ہوئے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The statement of reciting **وَأَرْجُلَكُمْ** as mansoob, then the meaning will be washed and the reason for reciting it majroor is close

Hadith number: 341

Translation:

(341) It is narrated from Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) that when the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) performed ablution, he put his hand in the vessel, put water in his nose and rinsed it once, then put his hand in the vessel and poured water on his face once. He poured water on his hands twice and wiped his head once, then took a handful of water and sprinkled it on his feet while he was wearing shoes.

[Hasan (Fair). Narrated by Tahawi 1/71]

Arabic Text:

أَمَّا حَدِيثُ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ فَأَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو : مُحَمَّدُ بْنُ (۳۴۳)
أَحْمَدَ الْأَدِيبُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا
أَخْبَرَنَا الرَّمَادِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ
بِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَائِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ : ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَائِ ثُمَّ
رَشَّ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى ، ثُمَّ قَالَ : بِكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - يَغْنِي
يَتَوَضَّأَ .

وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ عَنْ
أَبِي سَلَمَةَ الْخُزَاعِيِّ ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ : أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَائِ
فَرَشَّ عَلَى رِجْلِهِ يَغْنِي الْيُمْنَى حَتَّى غَسَلَهَا ، ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً
أُخْرَى فَغَسَلَ بِهَا رِجْلَهُ الْيُسْرَى ، ثُمَّ قَالَ : بِكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ - يَتَوَضَّأَ .

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاکی کا بیان

باب: وَأَرْجُلُكُمْ كَيْفَ مَنصُوبٍ پڑھانے کا بیان، اس وقت مراد

دھونا ہوگا اور مجرور پڑھنے کی وجہ قریب ہونا ہے

حدیث نمبر: 342

ترجمہ:

(۳۴۳) (الف) (سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا۔۔۔ پھر پانی کا ایک چلو لیا، پھر اپنے بائیں پاؤں پر چھینٹے مارے۔ پھر فرمایا: اسی طرح میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

(ب) (ابو سلمہ خزاعی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک چلو لیا، پھر دائیں پاؤں پر چھینٹے مارے، اس کو دھویا، پھر دوسرا چلو لیا، اس کے ساتھ اپنا بائیں پاؤں دھویا، پھر فرمایا: میں نے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The statement of reciting **وَأَرْجُلَكُمْ** as mansoob, then the meaning will be washed and the reason for reciting it majrour is close

Hadith number: 342

Translation:

(342) (a) It is narrated from Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) that he performed ablution..... Then he took a handful of water, then splashed on his left foot. Then he said: This is how I saw the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) performing ablution.

(B) It is narrated from Abu Salamah Khuza'i that he took a handful of water, then sprinkled it on his right foot, washed it, then took another handful (of water), washed his left foot with it, then said: I have seen the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) performing ablution in this way.

[Sahih]

The full hadith was narrated by Bukhari 140 and Nasai 101, 102 and Abu Dawud 137 and Ibn Majah 403 and Ahmad 1/268, 365, 705 and Darimi 723, 724.

Sunan Kubra Bayhaqi 343

Arabic Text:

وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَجْلَانَ فَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْعَبْدِيُّ (٣٤٤)
الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو
اللَّيْثِ: نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ الْفَرَائِضِيُّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ
زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً ثُمَّ غَسَلَ
رِجْلَهُ الْيُمْنَى، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: وَأَرْجُلُكُمْ کے منصوب پڑھانے کا بیان، اس وقت مراد دھونا ہوگا اور مجرور پڑھنے کی وجہ قریب ہونا ہے
حدیث نمبر: 343

ترجمہ:

(۳۴۴) (زید بن اسلم نے یہ روایت اپنی سند سے بیان کی ہے فرماتے ہیں: پھر آپ نے ایک چلو لیا اور اپنا دایاں پاؤں دھویا پھر چلو لیا اور اپنا بائیں پاؤں دھویا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The statement of reciting وَأَرْجُلُكُمْ as mansoob, then the meaning will be washed and the reason for reciting it majroor is close
Hadith number: 343

Translation:

(343) Zayd ibn Aslam has narrated this narration from his chain of transmission, saying: Then he took a handful of water and washed his right foot, then he took a handful of water and washed his left foot.
[Hasan (Fair). Narrated by Nasai 102]

Sunan Kubra Bayhaqi 344

Arabic Text:

وَأَمَّا حَدِيثُ وَرَقَائٍ فَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا (٣٤٥)
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا وَرَقَائٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ
عَطَائِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَلَا أُرِيكُمْ وُضُوءَ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: فَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّةً مَرَّةً، وَمَضْمَضَ مَرَّةً
وَاسْتَنْشَقَ مَرَّةً، وَغَسَلَ وَجْهَهُ مَرَّةً، وَذَرَأَعِيهِ مَرَّةً مَرَّةً وَمَسَحَ
بِرَأْسِهِ مَرَّةً، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ مَرَّةً مَرَّةً ثُمَّ قَالَ: بَدَأَ وُضُوءُ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -
وَقَدْ ذَكَرْنَا الرِّوَايَاتِ فِيهَا مَضَى إِلَّا رِوَايَةَ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ
وَبِي فِيهَا -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: وَأَرْجُلُكُمْ کے منصوب پڑھانے کا بیان، اس وقت مراد دھونا ہوگا اور مجرور پڑھنے کی وجہ قریب ہونا ہے

حدیث نمبر: 344

ترجمہ:

(۳۴۵) (ابن عباسؓ فرماتے ہیں: کیا میں تم کو رسول اللہ ﷺ کا وضو نہ دکھاؤں؟ پھر انہوں نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھویا اور ایک مرتبہ کلی کی، ایک مرتبہ ناک میں پانی چڑھایا اور ایک مرتبہ اپنا چہرہ دھویا، ایک مرتبہ اپنے بازوؤں کو دھویا اور ایک مرتبہ اپنے سر کا مسح کیا اور ایک مرتبہ اپنے پاؤں کو دھویا، پھر فرمایا: یہ رسول اللہ ﷺ کا وضو ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The statement of reciting وَأَرْجُلُكُمْ as

mansoob, then the meaning will be washed and the reason for reciting it majroor is close
Hadith number: 344

Translation:

(344) Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) says: Shall I not show you the ablution of the Messenger of Allah (peace and blessings of Allaah be upon him)? Then he washed his hands once and rinsed his mouth once, put water in his nose once and washed his face once, washed his arms once and wiped his head once and washed his feet once. Then he said: This is the ablution of the Messenger of Allah (peace and blessings of Allaah be upon him).

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence)]

Sunan Kubra Bayhaqi 345

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ (٣٤٦)
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ مِينَائِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
جَعْفَرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ حَفْنَةً فَغَسَلَ
بِهَا رِجْلَهُ الْيُمْنَى، وَأَخَذَ حَفْنَةً فَغَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى.
ق (فَهَذِهِ الرَّوَايَاتُ اتَّفَقَتْ عَلَى أَنَّهَا غَسَلَهُمَا وَحَدِيثُ الدَّرَّاورِدِيِّ
يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُوَافِقًا لَهَا بِأَنْ يَكُونَ غَسَلَهُمَا فِي النَّعْلِ.
ج (وَبِشَّامِ بْنِ سَعْدٍ لَيْسَ بِالْحَافِظِ جِدًّا فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ مَا يُخَالِفُ فِيهِ
التَّقَاتِ الْأَثْبَاتِ، كَيْفَ وَهُمْ عَدَدٌ وَهُوَ وَاحِدٌ؟
وَقَدْ رَوَى التَّوْرِيُّ وَبِشَّامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ مَا يُوَافِقُ
رَوَايَةَ الْجَمَاعَةِ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: وَأَرْجُلُكُمْ کے منصوب پڑھانے کا بیان، اس وقت مراد دھونا ہوگا اور مجرور پڑھنے کی وجہ قریب ہونا ہے

حدیث نمبر: 345

:ترجمہ

(۳۴۶) (زید بن اسلم اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ پھر آپ نے ایک چلو لیا، اس کے ساتھ اپنا دایاں پاؤں دھویا پھر ایک چلو لیا اور اس سے اپنا بائیں پاؤں دھویا۔

ب) (ان تمام روایات میں پاؤں دھونے پر اتفاق ہے۔ در اور دی کی حدیث میں یہ احتمال ہے کہ شاید آپ ﷺ نے پاؤں جوتے میں ہی دھوئے ہوں۔

ج) (ہشام بن سعید زیادہ مضبوط نہیں ہیں، ان کی ثقہ راویوں سے مخالفت قابل قبول نہیں۔ کیونکہ وہ پوری جماعت ہیں اور یہ اکیلا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The statement of reciting **وَأَرْجُلَكُمْ** as mansoob, then the meaning will be washed and the reason for reciting it majroor is close
Hadith number: 345

Translation:

(345) Zayd ibn Aslam narrates from his chain of transmission that then he took a handful of water, washed his right foot with it, then took a handful of water, washed his left foot with it.

(B) All of these traditions agree on foot washing. In the hadith of (AbdulAziz) Dravardi, it is possible that he may have washed his feet in his shoes.

(C) Hisham bin Saeed is not very strong, his opposition to trustworthy narrators is not acceptable. Because they are the whole a congregation and it is alone.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence)]

Sunan Kubra Bayhaqi 346

Arabic Text:

حَدَّثَنِي الْبَيْرُوتِيُّ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، ثنا هِشَامُ بْنُ (٣٤٧)
سَعْدٍ، ثنا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَائِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ
عَبَّاسٍ: أَتُحِبُّونَ أَنْ أُحَدِّثَكُمْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ؟ قَالَ
فَدَعَا بِإِنَائٍ فِيهِ مَاءٌ، ثُمَّ ذَكَرَ وُضُوءَهُ، وَقَالَ فِيهِ: ثُمَّ قَبَضَ
قَبْضَةً مِنْ مَائِ فَرَشَّ عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى وَفِيهَا النَّعْلُ، ثُمَّ مَسَحَ
بِيَدِهِ مِنْ فَوْقِ الْقَدَمِ وَمِنْ تَحْتِ الْقَدَمِ وَمِنْ تَحْتِ الْقَدَمِ، ثُمَّ فَعَلَ
بِالْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ.
هَذَا أَصَحُّ حَدِيثٍ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا إِلَى مَا يُوَافِقُ رِوَايَةَ
الْجَمَاعَةِ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: وَأَرْجُلُكُمْ کے منصوب پڑھانے کا بیان، اس وقت مراد دھونا ہوگا اور مجرور پڑھنے کی وجہ قریب ہونا ہے
حدیث نمبر: 346

ترجمہ:

(۳۴۷) (سیدنا ابن عباسؓ فرماتے ہیں: کیا تم پسند کرتے ہو کہ میں تم کو) وہ طریقہ (بیان کروں جس طرح رسول اللہ ﷺ وضو کیا کرتے تھے؟ پھر آپؐ نے پانی کا برتن منگوا یا، پھر آپ ﷺ کے وضو کا طریقہ ذکر کیا۔ اس میں ہے کہ پھر آپ نے پانی کا ایک چلو لیا اور اپنے دائیں پاؤں پر چھینٹے مارے اور پاؤں میں جوتا تھا، پھر پاؤں کے اوپر اور نیچے مسح کیا، پھر بائیں پاؤں کے ساتھ بھی یہی عمل کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The statement of reciting وَأَرْجُلُكُمْ as mansoob, then the meaning will be washed and the reason for reciting it majroor is close
Hadith number: 346

Translation:

(346) Ibn 'Abbas (may Allah be pleased with him) says: Do you like me to tell you (the method) as the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) used to do ablution? Then he asked for a vessel of water, then he mentioned the method of ablution..... In it (the narration) he then took a handful of water and splashed it on his right foot and had a shoe on his foot, then wiped the top and bottom of the foot, then did the same with the left foot.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence). Narrated by Hakim 1/247]

Sunan Kubra Bayhaqi 347

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا الْفَقِيهُ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ الطُّوسِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو (٣٤٨)
بِشْرِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَاضِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ السَّرَّاجُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي سَمِينَةَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ
بْنِ يَزِيدَ الْجَرَمِيِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَبِشَامُ بْنُ سَعْدِ
كِلَابِمَا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَايِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ لِي
ابْنُ عَبَّاسٍ: أَلَا أُرِيكَ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ فَتَوَضَّأَ
مَرَّةً ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ وَعَلَيْهِ نَعْلُهُ.
فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ غَسَلَ رِجْلَيْهِ فِي النَّعْلَيْنِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (ق)

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان

باب: وَأَرْجُلُكُمْ كے منصوب پڑھانے کا بیان، اس وقت مراد دھونا ہوگا اور مجرور پڑھنے کی وجہ قریب ہونا ہے
حدیث نمبر: 347

ترجمہ:

(۳۴۸) عطاء بن یسار سے سیدنا ابن عباسؓ نے کہا: کیا میں تم کو رسول اللہ ﷺ کا وضو نہ دکھاؤں؟ پھر ایک مرتبہ وضو کیا اور اپنے پاؤں کو دھویا اور پاؤں میں جوتیاں تھیں۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The statement of reciting وَأَرْجُلُكُمْ as mansoob, then the meaning will be washed and the reason for reciting it majroor is close
Hadith number: 347

Translation:

(347) Ibn 'Abbas (may Allah be pleased with him) said to Ata' ibn Yasar: Shall I not show you the ablution of the Messenger of Allah

(peace and blessings of Allaah be upon him)?
Then he performed ablution washing each
part once and washed his feet and had shoes
on his feet.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 348

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدٌ (٣٤٩)
بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ قَدْ
رُويَ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - مَسَحَ عَلَى ظُهُورِ قَدَمَيْهِ ، وَرُويَ أَنَّهُ رَشَّ
ظُهُورَهُمَا ، وَأَحَدُ الْحَدِيثَيْنِ مِنْ وَجْهِ صَالِحِ الْإِسْنَادِ لَوْ كَانَ مُنْفَرِدًا
ثَبَّتَ ، وَالَّذِي خَالَفَهُ أَكْثَرُ وَأَثْبَتُ مِنْهُ ، وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْآخِرُ فَلَيْسَ
مِمَّا يُثْبِتُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ لَوْ انْفَرَدَ -

قَالَ الشَّيْخُ: وَإِنَّمَا عَنَى بِالْحَدِيثِ الْأَوَّلِ حَدِيثَ الدَّرَاوَرْدِيِّ وَغَيْرِهِ
 عَنْ زَيْدٍ ، وَعَنَى بِالْحَدِيثِ الْآخِرِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ حَدِيثَ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ
 عَلِيٍّ فِي الْمَسْحِ عَلَى ظُهُورِ الْقَدَمَيْنِ -
 وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ صَحَّ ظَهْرَ الْخُفَّيْنِ وَهُوَ مَذْكُورٌ فِي بَابِ
 الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ بِعَلِّهِ -
 وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ وَجْهِ آخَرَ فِي مَعْنَى الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: وَأَرْجُلُكُمْ کے منصوب پڑھانے کا بیان، اس وقت مراد
 دھونا ہوگا اور مجرور پڑھنے کی وجہ قریب ہونا ہے
 حدیث نمبر: 348

ترجمہ:

(۳۴۹) (امام شافعی) رح (فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ سے منقول ہے
 کہ آپ ﷺ نے اپنے قدموں کے اوپر والے حصے پر مسح کیا
 اور آپ ﷺ نے ظاہری حصے پر چھینٹے مارے تھے۔
 ب (ان دونوں میں سے ایک حدیث صحیح سند کے

ساتھ ہے، اگرچہ اس میں تفرّد ہے، یعنی جنہوں نے اس کی مخالفت کی ہے وہ تعداد میں زیادہ اور ثقہ ہیں۔ دوسری حدیث اہل علم کے ہاں ثابت نہیں۔ اگرچہ یہ بھی منفرد ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ پہلی حدیث سے مراد در اور دی وغیرہ کی حدیث ہے جو زید^{رض} سے منقول ہے اور دوسری حدیث سے مراد عبد خیر کی حدیث ہے جو حضرت علی^{رض} سے پاؤں کے اوپر والے حصے پر مسح کرنے کے متعلق ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The statement of reciting **وَأَرْجُلَكُمْ** as mansoob, then the meaning will be washed and the reason for reciting it majroor is close
Hadith number: 348

Translation:

(348) Imam Shafi'i (may Allah have mercy on him) says that it is narrated from the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) that he wiped over the upper part of his feet and he sprinkled on the outer part.

(B) One of these two hadiths is with a saheeh chain of transmission, although there is a difference in it, i.e those who have opposed it are more numerous and trustworthy. The second hadith is not proven by the scholars. Although it is also unique. The Shaykh says that the first hadeeth refers to the hadeeth of (AbdulAziz) Dravardi etc. which is narrated from Zayd and the second hadeeth refers to the hadeeth of 'Abd al-Khair which is about wiping the upper part of the foot from Hazrat Ali.

Sunan Kubra Bayhaqi 349

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدٌ (٣٥٠)
بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ
قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : دَخَلَ عَلَيَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي
فَدَعَا بَوْضُوءِي فَجِئْنَا بِقَعْبٍ يَأْخُذُ الْمُدَّ أَوْ قَرِيبَهُ حَتَّى وُضِعَ بَيْنَ
يَدَيْهِ وَقَدْ بَالَ فَقَالَ : يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَلَا اتَّوَضَّأُ لَكَ وَضُوءَ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - ؟ قُلْتُ : بَلَى ، فِدَاكَ أَبِي وَآمِي - . قَالَ : فَوَضَّعَ لَهُ إِنَائِي
فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ مَضَمَ ، وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدَيْهِ ،
فَصَكَ بِهَمَا وَجْهَهُ وَالْقَمَّ إِبْهَامَيْهِ مَا أَقْبَلَ مِنْ أُذُنَيْهِ قَالَ ثُمَّ
عَادَ مِثْلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا ، ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَائِ بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَأَفْرَغَهَا
عَلَى نَاصِيَتَيْهِ ، ثُمَّ أَرْسَلَهَا تَسِيلُ عَلَى وَجْهِهِ ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى
إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ يَدَهُ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ
وَأُذُنَيْهِ مِنْ ظُهُورِهِمَا ، ثُمَّ أَخَذَ بِكَفَيْهِ مِنَ الْمَائِ فَصَكَ عَلَى قَدَمَيْهِ
، وَفِيهَا النَّعْلُ فَتَلَّهَا ،

ثُمَّ عَلَى الرَّجُلِ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَلِكَ. قُلْتُ: وَفِي النَّعْلَيْنِ؟ قَالَ: وَفِي النَّعْلَيْنِ. قَالَ فَقُلْتُ: وَفِي النَّعْلَيْنِ؟ قَالَ: وَفِي النَّعْلَيْنِ. قُلْتُ: وَفِي النَّعْلَيْنِ؟ قَالَ: وَفِي النَّعْلَيْنِ.

قَالَ أَبُو عَيْسَى التِّرْمِذِيُّ: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيَّ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ لَا أَدْرِي مَا هَذَا الْحَدِيثُ وَكَأَنَّهُ رَأَى الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ أَصَحَّ، يَعْنِي حَدِيثَ عَطَائِ بْنِ يَسَارٍ. (قَالَ الشَّيْخُ: يُحْتَمَلُ أَنْ صَحَّ أَنْ يَكُونَ غَسَلَهُمَا فِي النَّعْلَيْنِ فَقَدْ رُوِيَ مِنْ أَوْجِهٍ كَثِيرَةٍ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ غَسَلَ رِجْلَيْهِ فِي الْوُضُوءِ مِنْهَا مَا

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: وَأَرْجُلُكُمْ كَمَا مَنْصُوبٌ بِرُحَانِهِ كَمَا بَيَّانٌ، اس وقت مراد

دھونا ہوگا اور مجرور پڑھنے کی وجہ قریب ہونا ہے

حدیث نمبر: 349

ترجمہ:

(۳۵۰) (الف) ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ علیؓ میرے گھر

تشریف لائے، آپؓ نے پانی منگوا دیا، ہم ایک پیالہ لے کر آئے

جس میں ایک مدیا اس کے قریب پانی تھا، وہ آپ کے سامنے
 رکھا گیا، سیدنا علیؓ نے پیشاب کیا اور فرمایا: اے ابن عباس
 کیا میں آپ کے لیے رسول اللہ ﷺ کی طرح کا وضو نہ کروں؟
 میں نے کہا: کیوں نہیں! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔
 راوی کہتا ہے: آپ کے لیے برتن رکھا گیا تو آپ نے اپنے
 ہاتھ دھوئے، پھر کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، کلی کی
 اور اپنے ہاتھوں کو دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی
 چڑھایا، پھر کلی کی اور اپنے ہاتھوں سے پانی لے کر اپنے
 چہرے پر ڈالا اور اپنے انگوٹھوں کو اپنے کانوں میں داخل کیا۔
 راوی کہتا ہے: پھر اسی طرح تین مرتبہ کیا۔ پھر پانی کی ایک
 ہتھیلی اپنے دائیں ہاتھ سے لی تو اس کو اپنی پیشانی پر ڈالا
 پھر اس کو اپنے چہرے پر بہنے دیا، پھر اپنے دائیں ہاتھ کو
 کہنی تک تین مرتبہ دھویا، پھر دوسرے ہاتھ کو بھی ایسے ہی
 دھویا، پھر اپنے سر اور کانوں کے ظاہری حصے کا مسح
 کیا، پھر پانی کی دو ہتھیلیاں لیں تو ان کو اپنے قدموں پر ڈالا
 اور جو جوتا پاؤں میں تھا تو اس کو تر کیا۔ پھر دوسرے پاؤں
 پر بھی ایسے ہی کیا۔ میں نے کہا: جوتیوں میں؟ فرمایا: ہاں جو
 :تیوں میں۔ راوی کہتا ہے: میں نے کہا: کیا جوتیوں میں؟ فرمایا
 جوتیوں میں۔ میں نے کہا: جوتیوں میں؟ فرمایا: جوتیوں میں۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The statement of reciting **وَأَرْجُلَكُمْ** as mansoob, then the meaning will be washed and the reason for reciting it majroor is close
Hadith number: 349

Translation:

(349) (a) Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) says that Ali (may Allah be pleased with him) came to my house, he asked for water, we brought a cup in which there was a medium near him, it was placed in front of him, Syeduna Ali (may Allah be pleased with him) urinated and then said: O Ibn Abbas! Shall I not perform ablution for you like the Messenger of Allah? I said, why not! May my parents be sacrificed for you. The narrator

says: When a vessel was kept for him, he washed his hands, then rinsed his mouth and put water in his nose, rinsed his mouth and washed his hands, then rinsed his mouth and put water in his nose, then rinsed his mouth and with his hands he took water and put it on his face and put his thumbs in his ears.

The narrator says: He did like that thrice. He then took a handful of water with his right hand and poured it over his forehead and left it running down his face he then washed his right hand up to the elbow three times, then washed the other hand in the same way he then wiped his head and the back of his ears. He then took two handfuls of water and threw it on his foot and wet the shoe that was on his foot. Then he did the same on the other foot. I said: In shoes? He said: Yes. In shoes. The narrator says: I said: In the shoes? He said: In shoes. I said: In shoes? He said: In shoes. (The question and answer were repeated three times)

[Hasan (Fair). Narrated by Abu Dawud 117
and Nasai 95 and Ahmad 1/82]

Sunan Kubra Bayhaqi 350

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ (۳۵۱)
بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَقَّانَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ
عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عُلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ دَعَا بَوْضُوءِي فَآتَى بِإِنَائِي فِيهِ مَاءٌ. فَذَكَرَ
الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ: ثُمَّ صَبَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ عَلَى قَدَمِهِ
الْيُمْنَى، ثُمَّ غَسَلَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ صَبَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى
قَدَمِهِ الْيُسْرَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرَى، ثُمَّ قَالَ: بِذَا
طُهُورُ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: وَأَرْجُلُكُمْ كَيْ مَنْصُوبٍ پڑھانے کا بیان، اس وقت مراد

دھونا ہوگا اور مجرور پڑھنے کی وجہ قریب ہونا ہے

حدیث نمبر: 350

ترجمہ:

(۳۵۱) حضرت علیؓ نے وضو کا پانی منگوا یا، ایک پانی والا برتن لایا گیا۔۔۔ اس میں ہے کہ آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے دائیں پاؤں پر تین مرتبہ پانی بہایا، پھر اسے بائیں ہاتھ سے دھویا، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں پاؤں پر پانی بہایا اور اسے اپنے بائیں ہاتھ سے دھویا، پھر فرمایا: یہ ہے رسول اللہ ﷺ کا وضو۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The statement of reciting **وَأَرْجُلَكُمْ** as mansoob, then the meaning will be washed and the reason for reciting it majroor is close
Hadith number: 350

Translation:

(350) Hazrat Ali (may Allah be pleased with him) asked for ablution water, a pot of water was brought In the narration is mentioned that he poured water on his right foot three

times with his right hand, then washed it with his left hand, then poured water on his left foot with his right hand and washed it with his left hand, then said: This is the ablution of the Messenger of Allah (peace and blessings of Allaah be upon him).

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence)]

The full hadith was narrated by Nasai 91, 92, 93, 94 and Abu Dawud 111 and Tirmidhi 48 and Ahmad 1/122 and Darimi 768 and Ibn Hibban 1/79.

Sunan Kubra Bayhaqi 351

Arabic Text:

وَمِنْهَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو طَائِرٍ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ (٣٥٢)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ: الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ -
: وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ بْنُ أَبِي عَمْرٍو أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (ح)
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبِرْتِيُّ
الْقَاضِي حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ الْكِنَانِيُّ عَنِ الْمِنْهَالِ
بْنِ عَمْرٍو عَنْ زُرِّ بْنِ حُبَيْشٍ: أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
وَسُئِلَ عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَأَرَأَى الْمَائِ فِي الرَّحْبَةِ ، ثُمَّ
قَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - ؟ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلَاثًا
، وَوَجْهَهُ ثَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ حَتَّى أَلَمَّ أَنْ يَقْطُرَ
وَوَسَطَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ: بِكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -
يَتَوَضَّأُ
لَيْسَ فِي رِوَايَةِ الْفَقِيهِ قَوْلُهُ حَتَّى أَلَمَّ أَنْ يَقْطُرَ - وَالْبَاقِي
سَوَائِي -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: وَأَرْجُلَكُمْ کے منصوب پڑھانے کا بیان، اس وقت مراد دھونا ہوگا اور مجرور پڑھنے کی وجہ قریب ہونا ہے

حدیث نمبر: 351

ترجمہ:

(۳۵۲) زر بن حبیش سے روایت ہے کہ سیدنا علیؑ سے رسول اللہ کے وضو کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے ایک برتن میں پانی ڈالا، پھر پوچھا: سائل کہاں ہے جس نے رسول اللہ ﷺ کے وضو کے متعلق پوچھا تھا؟ پھر اپنے ہاتھوں کو تین مرتبہ دھویا اور اپنے چہرے کو تین مرتبہ اور اپنے بازوؤں کو تین مرتبہ اور اپنے سر کا مسح کیا اور قریب تھا کہ سر سے پانی کے قطرے ٹپکیں اور اپنے پاؤں کو تین تین مرتبہ دھویا، پھر کہا: اسی طرح رسول اللہ ﷺ وضو کیا کرتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The statement of reciting **وَأَرْجُلَكُمْ** as mansoob, then the meaning will be washed and the reason for reciting it majroor is close

Hadith number: 351

Translation:

(351) It is narrated from Zar ibn Habish that when Ali (may Allah be pleased with him) was asked about the ablution of the Messenger of Allah (peace and blessings of Allaah be upon him), he poured water into a pot, then asked: Where is the questioner who asked about the ablution of the Messenger of Allah (peace and blessings of Allaah be upon him)? Then he washed his hands three times and wiped his face three times and (washed) his arms three times and wiped his head. He was about to drip water from his head and

washed his feet three times. Then said: This is how the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) used to perform ablution. [Hasan (Fair). Narrated by Bazzar 561]

Sunan Kubra Bayhaqi 352

Arabic Text:

وَمِنْهَا مَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (٣٥٣)
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ الصَّفَّارِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا
مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي حَيَّةَ
قَالَ : رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَيْهِ حَتَّى أَنْقَابَهُمَا ، ثُمَّ
، مَضْمَضَ ثَلَاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا
وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ، ثُمَّ قَامَ وَأَخَذَ فَضْلَ
وَضُوءِهِ فَشَرِبَهُ وَهُوَ قَائِمٌ ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ أُرِيكُمْ كَيْفَ
كَانَ طُهُورُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . - بَكَذَا رَوَاهُ أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي حَيَّةَ
وَتَبَّتْ فِي مِثْلِ بَدِهِ الْقِصَّةِ أَنَّهُ مَسَحَ وَأَخْبَرَ أَنَّهُ وَضُوءٌ مَنْ
لَمْ يُحَدِّثْ .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب : پاکی کا بیان

باب : وَأَرْجُلُكُمْ كَيْفَ مَنْصُوبٍ پڑھانے کا بیان، اس وقت مراد

دھونا ہوگا اور مجرور پڑھنے کی وجہ قریب ہونا ہے

حدیث نمبر : 352

ترجمہ:

(۳۵۳) ابو حنیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا علیؑ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اپنی ہتھیلیوں کو دھویا اور ان کو صاف کیا، پھر تین مرتبہ کلی کی اور تین مرتبہ ناک میں پانی چڑھایا، تین مرتبہ اپنے چہرے اور بازوؤں کو دھویا اور اپنے سر کا مسح کیا۔ پھر اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھویا، پھر کھڑے ہوئے اور اپنے وضو کا بچا ہوا پانی لیا اور اس کو کھڑے ہو کر پیا، پھر فرمایا: مجھے پسند ہے کہ آپ کو دکھاؤں کہ آپ ﷺ کا وضو کیسے تھا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The statement of reciting **وَأَرْجُلَكُمْ** as mansoob, then the meaning will be washed and the reason for reciting it majroor is close

Hadith number: 352

Translation:

(352) Abu Hayy says that when I saw Ali

(may Allah be pleased with him) performing ablution, he washed his palms and cleaned them, then rinsed his mouth three times and put water in his nose three times, washed his face and arms three times and wiped his head. Then he washed his feet including his ankles, then stood up and took the remaining water of his ablution and drank it while standing, then said: I like to show you how the ablution of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) was.

[Sahih]

A similiar hadith was narrated by Abu Dawud 112

Sunan Kubra Bayhaqi 353

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوَدْبَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ (٣٥٤)
أَحْمَدَ بْنَ مَحْمُودِ الْعَسْكَرِيِّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَلَانِسِيُّ
حَدَّثَنَا آدَمُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ
سَمِعْتُ النَّزَّالَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ قَعَدَ فِي حَوَائِجِ النَّاسِ فِي رَحْبَةِ
الْكُوفَةِ حَتَّى حَضَرَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ، ثُمَّ أَتَى بِكُوزٍ مِنْ مَائِ
، فَأَخَذَ مِنْهُ حَفْنَةً وَاحِدَةً ، فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَرَأْسَهُ وَرِجْلَيْهِ
ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَهُ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُونَ الشُّرْبَ
قَائِمًا ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - صَنَعَ كَمَا صَنَعْتُ وَقَالَ: بَدَأَ وَضُوءُ
مَنْ لَمْ يُحَدِّثْ.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ آدَمَ بْنِ أَبِي إِيَّاسٍ بِبَعْضِ مَعْنَاهُ.
وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ النَّابِتِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْحَدِيثَ الَّذِي رُوِيَ (ق)
عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - فِي الْمَسْحِ عَلَى الرَّجْلَيْنِ إِنْ صَحَّ فَإِنَّمَا عَنَى بِهِ
وَهُوَ طَائِرٌ غَيْرٌ مُحَدَّثٍ إِلَّا أَنْ بَعْضَ الرَّوَاةِ كَأَنَّهُ اخْتَصَرَ الْحَدِيثَ
فَلَمْ يَنْقُلْ قَوْلَهُ هَذَا وَضُوءُ مَنْ لَمْ يُحَدِّثْ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: وَأَرْجُلُكُمْ کے منصوب پڑھانے کا بیان، اس وقت مراد

دھونا ہوگا اور مجرور پڑھنے کی وجہ قریب ہونا ہے

حدیث نمبر: 353

ترجمہ:

(۳۵۴) (سیدنا علی بن ابوطالب رض سے روایت ہے کہ انہوں نے ظہر کی نماز ادا کی، پھر لوگوں کی ضروریات کے لیے کوفہ کی ایک گلی میں بیٹھے، یہاں تک کہ نماز عصر کا وقت ہو گیا، پھر پانی کا ایک پیالہ لے کر آئے تو اس سے ایک چلو لیا اور اس کے ساتھ اپنے چہرے، ہاتھوں، سر اور پاؤں کا مسح کیا، پھر کھڑے ہوئے اور بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا، پھر فرمایا: لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو ناپسند سمجھتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح کیا ہے اور فرمایا: یہ اس شخص کا وضو ہے جو بے وضو نہیں ہوتا۔ (اس صحیح حدیث میں دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بے وضو نہ ہو تو وہ ایسا کر لے۔ گویا حدیث مختصر ہے اور یہ قول نقل نہیں کیا گیا: هَذَا كَرَلَى۔ هَذَا وَضُوءٌ مِّنْ لَّمْ يُحَدِّثْ۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The statement of reciting **وَأَرْجُلَكُمْ** as mansoob, then the meaning will be washed and the reason for reciting it majroor is close
Hadith number: 353

Translation:

(353) It is narrated from Ali ibn Abu Talib (may Allah be pleased with him) that he offered the Zuhr prayer and then sat down in the wide courtyard (of the Mosque) of Kufa in order to deal with the affairs of the people till the `Asr prayer became due. Then water was brought to him and he drank of it, washed his face, hands, head and feet. Then he stood up and drank the remaining water while he was standing and said, "Some people dislike to drink water while standing though the

Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) did I have just done." And said: "This is the ablution of a person who is not without ablution."

[Sahih. Narrated by Bukhari 5616 and Nasai 130 and Ahmad 1/78]

Sunan Kubra Bayhaqi 354

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا
أَبِي أَخْبَرَنَا ابْنُ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ السُّدِّيِّ عَنْ
عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ : أَنَّهُ دَعَا بِكُوزٍ مِنْ مَائٍ ثُمَّ قَالَ : أَيُّنَ هَؤُلَاءِ
الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يَكْرَهُونَ الشَّرْبَ قَائِمًا؟ قَالَ : فَأَخَذَهُ فَشَرِبَ
وَهُوَ قَائِمٌ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَضُوءًا خَفِيفًا، وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ، ثُمَّ
قَالَ : بِكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - مَا لَمْ يُحَدِّثْ -
وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي اللَّيْثِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
الْأَشْجَعِيِّ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب : پاکی کا بیان

باب : وَأَرْجُلُكُمْ كَيْفَ مَنْصُوبٍ پڑھانے کا بیان، اس وقت مراد

دھونا ہوگا اور مجرور پڑھنے کی وجہ قریب ہونا ہے

حدیث نمبر : 354

:ترجمہ

(۳۵۵) (سیدنا علیؑ سے روایت ہے کہ انہوں نے پانی کا ایک

پیالہ منگوا یا، پھر فرمایا: کہاں ہیں وہ لوگ جو کھڑے ہو کر پانی پینے کو ناپسند سمجھتے ہیں؟
راوی کہتا ہے کہ سیدنا علیؑ نے اس (پیالے) کو پکڑا اور کھڑے ہو کر پانی پیا، پھر ہلکا وضو کیا اور اپنی جوتیوں پر مسح کیا، پھر فرمایا: رسول اللہ ﷺ نے اسی طرح کیا ہے جب تک کوئی بے وضو نہ ہو۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The statement of reciting **وَأَرْجُلُكُمْ** as mansoob, then the meaning will be washed and the reason for reciting it majroor is close
Hadith number: 354

Translation:

(345) It is narrated from Syeduna Ali (may Allah be pleased with him) that he asked for a cup of water, then said: Where are the people who do not like to drink while standing?

The narrator says that Ali (may Allah be pleased with him) grabbed the cup and stood

up and drank the water, then performed a light ablution and wiped his shoes. Then he said: The Messenger of Allah, may Allah bless him and grant him peace, has done the same till he had ablution.

[Hasan (Fair). Narrated by Ibn Khuzaymah 2/2]

Sunan Kubra Bayhaqi 355

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ (۳۵۶)
 بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ
 خَزِيمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَزَّازُ أَخْبَرَنَا
 إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي اللَّيْثِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدِ الرَّحْمَنِ الْأَشْجَعِيُّ
 عَنْ سُفْيَانَ عَنْ السُّدِّيِّ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّهُ دَعَا بِكُوزٍ
 مِنْ مَاءٍ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَضُوءًا خَفِيفًا، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ ثُمَّ
 قَالَ: بِكَذَا وَضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - لِلطَّائِرِ مَا لَمْ يُحَدِّثْ -
 (ق) (وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ فِي الْمَسْحِ عَلَى
 النَّعْلَيْنِ إِنَّمَا هُوَ فِي وَضُوءٍ مُتَطَوِّعٍ بِهِ لَا فِي وَضُوءٍ وَاجِبٍ
 عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثٍ يُوجِبُ الْوَضُوءَ، أَوْ أَرَادَ غَسْلَ الرَّجْلَيْنِ فِي
 النَّعْلَيْنِ، أَوْ أَرَادَ الْمَسْحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ وَنَعْلَيْهِ كَمَا رَوَاهُ عَنْهُ بَعْضُ
 الرَّوَاةِ مُقَيَّدًا بِالْجَوْرَبَيْنِ، وَأَرَادَ بِهِ جَوْرَبَيْنِ مُنْعَلَيْنِ فَثَابِتٌ
 عَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ غَسْلُ الرَّجْلَيْنِ، وَثَابِتٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -
 غَسْلُ الرَّجْلَيْنِ وَالْوَعِيدُ عَلَى تَرْكِهِ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: وَأَرْجُلُكُمْ كَمَا مَنْصُوبٌ بِرُهَانِهِ كَمَا بَيَانَ، اس وقت مراد

دھونا ہوگا اور مجرور پڑھنے کی وجہ قریب ہونا ہے

حدیث نمبر: 355

ترجمہ:

(۳۵۶) (سیدنا علیؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے پانی کا ایک پیالہ منگوا یا، پھر ہلکا وضو کیا، پھر اپنے جوتیوں پر مسح کیا، پھر فرمایا: اسی طرح پاک آدمی کے لیے وضو ہے جب تک وہ بے وضو نہ ہو۔

(ب) (سیدنا علیؓ سے منقول جوتوں پر مسح کے متعلق روایت نفلی وضو کے متعلق ہے نہ کہ فرض وضو سے متعلق اور پاؤں جوتوں میں دھونے سے مراد موزوں پر مسح کرنا ہے جسے بعض رواۃ جرابوں کی قید کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور جو ربین سے مراد چمڑے والی ہیں اس لیے کہ حضرت علیؓ سے پاؤں کا دھونا ثابت ہے اور رسول اللہ ﷺ سے پاؤں دھونا ثابت ہے اور نہ دھونے پر سخت وعید ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The statement of reciting **وَأَرْجُلَكُمْ** as mansoob, then the meaning will be washed and the reason for reciting it majroor is close
Hadith number: 355

Translation:

(355) It is narrated from Syeduna Ali (may Allah be pleased with him) that he asked for a cup of water, then performed light ablution, then wiped his shoes, then said: In the same way ablution is for a pure man unless he is without ablution.

(B) The narration about wiping over shoes narrated from Ali is related to naafil ablution and not related to obligatory ablution and washing the feet in shoes means wiping on socks which is narrated by some narrators with the restriction of socks and The word rabbin means leather because it is proven that Ali (may Allah be pleased with him) washed his feet and the Prophet (peace and

blessings of Allaah be upon him) is proven to wash his feet.

[Hasan Li Ghayrihi (Fair due to external evidence). Narrated by Ibn Khuzaymah 200]

Sunan Kubra Bayhaqi 356

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْعَبْدَوِيُّ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ (۳۵۷)
 الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا سَلْمُ
 بْنُ جُنَادَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ
 الْجَدَلِيُّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
 -بِوَجْهِهِ فَقَالَ ((: أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثَلَاثًا، وَاللَّهِ لَتُقِيمَنَّ صُفُوفَكُمْ-
 أَوْ لِيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ)) (- قَالَ: فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ يَلْزِقُ كَعْبَهُ
 بِكَعْبِ صَاحِبِهِ ، وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَةِ صَاحِبِهِ ، وَمَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِهِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: پاؤں کے دونوں جانب ابھری ہڈیوں کے ایڑھیاں ہونے کا بیان

(الف) (سیدنا عثمان بن عفان) رض (والی حدیث نبی ﷺ کے وضو کے متعلق ہے، اس میں ہے کہ آپ نے دائیں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھویا، پھر بائیں کو بھی اسی طرح دھویا۔ (ب) (اس حدیث میں دلیل ہے کہ پاؤں کے دو ٹخنے ہیں۔

حدیث نمبر: 356

:ترجمہ

(۳۵۷) ابو القاسم جدلی کہتے ہیں: میں نے نعمان بن بشیرؓ کو فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ ﷺ رخ انور کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہوئے، اور تین مرتبہ فرمایا: اپنی صفوں کو سیدھا کرو، اللہ کی قسم! ضرور تم اپنی صفوں کو سیدھا کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے درمیان مخالفت ڈال دے گا۔ راوی کہتا ہے: میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ اپنی ایڑھی کو اپنے ساتھی کی ایڑھی کے ساتھ چمٹائے ہوئے تھا اور اپنے گھٹنے کو اپنے ساتھی کے گھٹنے کے ساتھ اور اپنے کندھے کو اس کے کندھے کے ساتھ

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: A statement on the protrusion of

the bones on either side of the foot

(A) The hadith of Uthman ibn Affan (may Allah be pleased with him) is related to the ablution of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him). In it is that he washed the right foot including the ankle, then washed the left in the same way.

(B) There is evidence in this hadith that the foot has two ankles.

Hadith number: 356

Translation:

(356) Abu Al-Qasim Jadali says: I heard Nu'man bin Bashir saying that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) turned towards us and said three times: Straighten your rows, by Allah! You must straighten your rows, otherwise Allah will put opposition in your hearts. The narrator says: I saw a man, he was clutching his heel with his partner's heel and his knee with his partner's knee and his shoulder with

his shoulder.

[Sahih. Narrated by Abu Dawud 662]

Sunan Kubra Bayhaqi 357

Arabic Text:

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو (۳۵۸)
 الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَخْبَرَنَا
 يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَامِعِ
 بْنِ شَدَّادٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
 -مَرَّ بِسُوقِ ذِي الْمَجَازِ وَأَنَا فِي بَيْعَةٍ لِي، فَمَرَّ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ -
 حَمْرَاءُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 تَفْلِحُوا)) (- وَرَجُلٌ يَتَّبَعُهُ يَرْمِيهِ بِالْحِجَارَةِ
 قَدْ أَدْمَى كَعْبِيهِ، يَعْنِي أَبَا لَهَبٍ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: پاؤں کے دونوں جانب ابھری ہڈیوں کے ایڑھیاں ہونے کا
 بیان
 الف (سیدنا عثمان بن عفان) رض (والی حدیث نبی ﷺ کے
 وضو کے متعلق ہے، اس میں ہے کہ آپ نے دائیں پاؤں کو
 ٹخنوں سمیت دھویا، پھر بائیں کو بھی اسی طرح دھویا۔

(ب) (اس حدیث میں دلیل ہے کہ پاؤں کے دو ٹخنے ہیں۔

حدیث نمبر: 357

ترجمہ:

(۳۵۸) طارق بن عبداللہ محاربی فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ ﷺ کو ذی المجاز بازار سے گزرتے ہوئے دیکھا، میں اپنا مال بیچ رہا تھا، آپ ﷺ گزرے اور آپ ﷺ پر سرخ جبہ تھا، میں نے آپ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: اے لوگو! "إلا اله الا الله" کہو فلاح پا جاؤ گے اور ایک شخص آپ ﷺ کو پیچھے سے پتھر مار رہا تھا، اس کی ایڑھیاں گندم گوں تھیں وہ ابو لہب تھا۔۔۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: A statement on the protrusion of the bones on either side of the foot

(A) The hadith of Uthman ibn Affan (may Allah be pleased with him) is related to the ablution of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him). In it is that he washed the right foot including the ankle, then

washed the left in the same way.

(B) There is evidence in this hadith that the foot has two ankles.

Hadith number: 357

Translation:

(357) Tariq ibn Abdullah al-Muharibi says: I saw the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) passing by Dhi Al-Majaz Bazaar, I was selling my goods, he passed by and he had a red hullabaloo and I heard the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) say: "O people! Say "La ilaha illa Allah" and you will prosper." A man was throwing stones at him from behind. His heels were like wheat. He was Abu Lahab. [Hasan (Fair). Narrated by Hakim 2/668]

Sunan Kubra Bayhaqi 358

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ (٣٥٩)
الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَحْيَى
بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ لَقِيطِ بْنِ
صَبْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ وَافِدَ بَنِي الْمُنتَفِقِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -
ﷺ - فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ فَقَالَ: أَسْبِغِ
الْوُضُوءَ وَخَلِّ بَيْنَ الْأَصَابِعِ ، وَبَالِغٌ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ صَائِمًا.
وَقَدْ مَضَى فِي حَدِيثِ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَثْمَانَ فِي صِفَةِ (ت)
وُضُوءِ النَّبِيِّ - ﷺ - أَنَّهُ خَلَّ أَصَابِعَ قَدَمَيْهِ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: انگلیوں کا خلال کرنا
حدیث نمبر: 358

ترجمہ:

(۳۵۹) (الف) اسماعیل بن کثیر کہتے ہیں: میں نے عاصم بن لقیط بن صبرہ کو اپنے والد سے حدیث نقل کرتے ہوئے سنا کہ میں بنی منتفق کے لشکر میں نبی ﷺ کی طرف گیا، میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے وضو کے بارے میں بتائیں، آپ ﷺ نے فرمایا: مکمل وضو کر، انگلیوں کے درمیان خلال کر اور ناک میں خوب اچھی طرح پانی چڑھا مگر روزے کی حالت میں نہ کر۔

(ب) (سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ) نبی ﷺ کے وضو کے بارے میں فرماتے ہیں: آپ ﷺ نے اپنے قدموں کی انگلیوں کا بھی خلال کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Washing the Fingers

Hadith number: 358

Translation:

(358) (a) Isma'il ibn Katheer says: I heard Asim ibn Laqeet ibn Sabrah narrating a hadith from my father that I went to the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) in the army of Bani Muntafiq. I said: O Messenger of Allah! Tell me about ablution. The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said: Perform complete ablution, wash between the fingers and put water in the nose very well, but do not do it while fasting.

(B) Sayyidna 'Uthman (may Allah be pleased with him) says about the ablution of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him): He (peace and blessings of Allaah be upon him) also washed the fingers of his feet (toes).

[Sahih. Narrated by Nasai 87, 114 and Abu Dawud 142-144 and Tirmidhi 788 and Ibn Majah 407, 448 and Ahmad 4/32, 33, 211 and Darimi 732]

A similiar hadith was narrated by Abu Dawud 148 and Tirmidhi 38 and Ahmad 4/33 and Darimi 732.

Sunan Kubra Bayhaqi 359

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكْرِيَّا: يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيَى (٣٦٠)
الْمُرْزُوقِيُّ وَأَبُو بَكْرِ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو
الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَبْدِ الْحَكَمِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ
قَالَ وَحَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ قَالَ قَرِئَ عَلَيَّ ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَكَ (ح)
ابْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍو الْمَعَاوِرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا

:عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ الْمُسْتَوْرِدَ بْنَ شَدَّادِ الْقُرَشِيِّ يَقُولُ
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَذُلُّكَ بِخِنْصَرِهِ مَا بَيْنَ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى
كتاب: پاکی کا بیان
باب: خلال کرنے کا طریقہ
حدیث نمبر: 359

:ترجمہ

(۳۶۰) یزید بن عمرو معافری فرماتے ہیں: میں نے ابو عبد الرحمن حبلی سے سنا کہ مستور دبن شداد قرشی فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ کو دیکھا، آپ ﷺ اپنی چھوٹی انگلی کے ساتھ اپنے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلال فرماتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Method of Washing

Hadith number: 359

Translation:

(359) Yazid ibn Amr (may Allah be pleased with him) said: I heard from Abu 'Abd al-Rahman al-Habali that Mastur Dabn Shaddad Qurashi said: I saw the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) washing between his toes with his little finger.

[Daif (Weak). Narrated by Tahawi in Sharh Ma'ani 1/36]

Sunan Kubra Bayhaqi 360

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ : عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ (٣٦١)
مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ
بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيسَ الْحَنْظَلِيُّ بِالرِّيِّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ يَعْنِي ابْنَ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمِّي يَقُولُ : سَمِعْتُ مَالِكًا
يُسْأَلُ عَنْ تَخْلِيلِ أَصَابِعِ الرَّجُلَيْنِ فِي الْوَضُوءِ فَقَالَ : لَيْسَ ذَلِكَ
عَلَى النَّاسِ قَالَ فَتَرَكْتُهُ حَتَّى خَفَّ

النَّاسُ فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ سَمِعْتُكَ تُفْتِي فِي مَسْأَلَةٍ فِي تَخْلِيلِ
 أَصَابِعِ الرَّجُلَيْنِ زَعَمْتَ أَنَّ لَيْسَ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ وَعِنْدَنَا فِي
 ذَلِكَ سُنَّةٌ. فَقَالَ: وَمَا بِي؟ فَقُلْتُ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَابْنُ
 لَهْبَعَةَ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَمْرٍو الْمَعَاوِرِيِّ عَنْ أَبِي
 عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادِ الْقُرَشِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ
 رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - يَذُكُّ بِخِنْصَرِهِ مَا بَيْنَ أَصَابِعِ رَجُلَيْهِ. فَقَالَ: إِنَّ
 هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، وَمَا سَمِعْتُ بِهِ قَطُّ إِلَّا السَّاعَةَ. ثُمَّ سَمِعْتُهُ يُسْأَلُ
 بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَمَرَ بِتَخْلِيلِ الْأَصَابِعِ. قَالَ عَمِّي: مَا أَقَلَّ مَنْ
 يَتَوَضَّأُ إِلَّا وَيُخْطِئُهُ الْخَطُّ الَّذِي تَحْتَ الْإِبْهَامِ فِي الرَّجْلِ، فَإِنَّ
 النَّاسَ يَنْتُونُ إِبْهَامَهُمْ عِنْدَ الْوُضُوءِ، فَمَنْ تَفَقَّدَ ذَلِكَ سَلِمَ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: خلال کرنے کا طریقہ
 حدیث نمبر: 360

ترجمہ:

(۳۶۱) (ابن عبد الرحمن بن وہب کہتے ہیں: میں نے اپنے چچا
 سے سنا اور انہوں نے مالک سے سنا کہ ان سے وضو

میں پاؤں کی انگلیوں کے خلال کے بارے میں سوال کیا گیا تو: انہوں نے فرمایا: یہ لوگوں پر (فرض نہیں ہے)۔ فرماتے ہیں: میں نے اس کو چھوڑ دیا، لوگوں نے اس کو ہلکا سمجھا، میں نے ان سے کہا: اے عبداللہ! میں نے آپ کے متعلق سنا ہے کہ آپ پاؤں کی انگلیوں کے خلال کے بارے میں فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ لوگوں پر فرض نہیں ہے جبکہ ہمارے پاس اس بارے میں حدیث پاک موجود ہے۔ اس نے کہا: وہ کیا ہے؟ میں نے کہا: مستورد بن شداد قرشی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا، آپ اپنے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان اپنی چھوٹی انگلی سے ملتے تھے۔ انہوں نے فرمایا: بلاشبہ یہ اچھی بات ہے اور میں نے ان سے صرف اسی وقت سنا، پھر میں نے اس کے بعد سنا۔ ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے پاؤں کی انگلیوں کے خلال کا حکم دیا۔ میرے چچا فرماتے ہیں: کم ہی ایسے لوگ ہیں جو وضو کرتے ہیں، ان سے پاؤں کے انگوٹھے کی نچلی جانب خط برابر جگہ نہ رہ جائے کیونکہ عام لوگ وضو کرتے ہوئے اپنے انگوٹھے موڑ لیتے ہیں تو جس نے اس کا خلال کیا وہ اس غلطی سے بچ گیا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Method of Washing

Hadith number: 360

Translation:

(360) Ibn 'Abd al-Rahman ibn Wahb said: I heard from my uncle and he heard from Malik that he was asked about the washing of the toes in ablution, so he said: This is not (obligatory) on the people. He said: I left it, the people considered it light, I said to him: O Abdullah! I have heard about you that you give a fatwa about washing the toes that it is not obligatory on the people while we have a hadith about it. He said: What is that? I said: It is narrated from Mustarad bin Shaddad Qarshi that I saw the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) with his little finger between his toes. He said: Of course this is a good thing and I heard from him only then, then I heard after that, that when questioned, he ordered the toes to be washed. My uncle says: There are

very few people who perform ablution, they leave a space, the size of a letter, dry on the lower side of the foot, because ordinary people bend their toes while performing ablution, so whoever washes his toes will have escaped this mistake.

[Daif (Weak). Narrated by Tahawi in Sharh Ma'ani 1/31]

Sunan Kubra Bayhaqi 361

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو (۳۶۲)
الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا
خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ
غَزِيَّةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ نَعِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا
بُرَيْرَةَ تَوَضَّأَ ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ
الْيُمْنَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي الْعَضُدِ ، ثُمَّ يَدَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي
الْعَضُدِ ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى حَتَّى
أَشْرَعَ فِي السَّاقِ ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى أَشْرَعَ فِي
السَّاقِ ثُمَّ قَالَ: بِكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - تَوَضَّأَ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: پینڈلی سے شروع ہونا مستحب ہے

حدیث نمبر: 361

:ترجمہ

(۳۶۲) (نعیم بن عبد اللہ مجمر فرماتے ہیں: میں نے سیدنا ابو ہریرہؓ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اپنے چہرے کے دھویا اور مکمل وضو کیا، پھر اپنے دائیں ہاتھ کو دھویا کندھے تک پہنچ گئے، پھر اپنا بائیں ہاتھ کندھے تک دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا پھر اپنا دائیں پاؤں پنڈلی تک دھویا، پھر اپنا بائیں پاؤں دھویا، پنڈلی تک دھویا، پھر فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: It is mustahab (recommended) to start with the shin

Hadith number: 361

Translation:

(361) Naeem bin Abdullah Mujmar says: I saw Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) performing ablution, so he washed his face and performed complete ablution, then

washed his right hand and reached his shoulder, then washed his left hand up to his shoulder. Then he wiped his head, then he washed his right foot up to his shin, then he washed his left foot, he washed up to his shin, then he said: I saw the Messenger of Allah (peace and blessings of Allaah be upon him) performing ablution in this way.

[Sahih. Narrated by Muslim 246]

Sunan Kubra Bayhaqi 362

Arabic Text:

وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - ((:أَنْتُمْ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ (۳۶۳)
يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ إِسْبَاغِ الْوُضُوءِ ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ فَلْيُطِلْ غُرَّتَهُ
وَتَحْجِيلَهُ))-

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ وَغَيْرِهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ
مَخْلَدٍ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: پینڈلی سے شروع ہونا مستحب ہے

حدیث نمبر: 362

ترجمہ:

(۳۶۳) (اسی سند سے ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " :قیامت
کے دن مکمل وضو کرنے سے تمہارے ہاتھ اور پاؤں چمکیں
گئے، جو تم میں سے طاقت رکھے کہ وہ اپنی چمک اور پاؤں
" کی سفیدی کو لمبا کرے تو وہ ایسا کرے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: It is mustahab (recommended) to start with the shin

Hadith number: 362

Translation:

(362) It is from this chain of transmission that the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said: "Performing complete ablutions on the Day of Resurrection will make your hands and feet shine. Whoever of you has the strength to prolong his radiance and the whiteness of his feet, let him do so (by performing complete ablution)."

[Sahih. Narrated by Bukhari 136 and Muslim 246, 247]

Sunan Kubra Bayhaqi 363

Arabic Text:

:أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ (٣٦٤)
مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ
الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَنَا بُشَيْمٌ وَمُعَاذٌ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ
أَبِي سَعِيدِ ابْنِ أَخِي أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِنْ
الرِّضَاعَةِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي الْمَرْأَةِ تَتَوَضَّأُ وَعَلَيْهَا
الْخِضَابُ قَالَتْ: اسْأَلْتِيهِ وَأَرْغَمِيهِ-
(ع) قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: قَوْلُهَا أَرْغَمِيهِ تَقُولُ أَيْبِيهِ وَأَرْمِي بِهِ عَنْكَ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: وضو کرتے وقت خضاب اتار دینا واجب ہے اگر وہ پانی

روکے

حدیث نمبر: 363

ترجمہ:

(۳۶۴) (سیدہ عائشہ ^{رض} اس عورت کے بارے میں جو وضو کرتی ہے اور اس پر خضاب ہو فرماتی ہیں کہ وہ اس کو اتار دے اور اس کو مجبور کر دے۔

(ابو عبید فرماتے ہیں کہ آپ ^{رض} کے ارشاد "اس کو مجبور کر دے" سے ان کی مراد یہ ہے کہ اسے اپنے سے دور کر دے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: It is obligatory to remove the dye while performing ablution if it stops the water

Hadith number: 363

Translation:

(363) Ayesha (may Allah be pleased with her) says about the woman who performs ablution and dyes her hair that she should take it off and force her.

(B) Abu Ubaid says that by her (may Allah be pleased with her) saying "force her" she means to take it away from her.

[Hasan (Fair)]

Sunan Kubra Bayhaqi 364

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ (٣٦٥)
بْنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي
إِيَّاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ عَائِشَةَ
أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تَقُولُ: بَلَّغِي أَوْ ذُكِّرِي لِي أَنَّ نِسَاءً يَخْتَضِبْنَ
ثُمَّ تَمْسَحُ إِحْدَاهُنَّ عَلَى خِضَابِهَا إِذَا تَوَضَّأَتْ لِلصَّلَاةِ لِأَنَّ تَقْطَعُ
يَدَيَّ بِالسَّكَاكِينِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: وضو کرتے وقت خضاب اتار دینا واجب ہے اگر وہ پانی روکے

حدیث نمبر: 364

:ترجمہ

(۳۶۵) ابن ابی نجیع فرماتے ہیں: مجھے اس شخص نے بیان کیا جس نے سیدہ عائشہؓ سے سنا کہ مجھ کو یہ بات پہنچی ہے یا مجھے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ عورتیں خضاب لگاتی ہیں، پھر کوئی اپنے خضاب پر مسح کرتی ہے جب وہ نماز کے لیے وضو کرتی ہے، ان کا ہاتھ چھری کے ساتھ کاٹ دیا جائے یہ مجھ کو زیادہ اچھا لگتا ہے اس سے کہ میں یہ کروں۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: It is obligatory to remove the dye while performing ablution if it stops the water

Hadith number: 364

Translation:

(364) Ibn Abi Naji 'says: I was told by a person who heard from Ayesha (may Allah be pleased with her) that I have been told this or I have been mentioned that women use dye, then someone wipes on (top of) her dye when she performs ablution for prayers. I would prefer that my hand be cut off with a knife than to do this.

[Daif (Weak). Narrated by Darimi 1901]

Sunan Kubra Bayhaqi 365

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ (٣٦٦)
الْحَسَنِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا بَحْرُ
بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ
قَتَادَةَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا الْعَالِيَةَ حَدَّثَهُ أَوْ رَجُلٌ آخَرُ: أَنَّهُ سَأَلَ
ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْخِضَابِ-

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَخْبِرُكَ كَيْفَ تَخْتَضِبُ نِسَاؤُنَا يُصَلِّينَ يَعْنِي
الْعِشَاءَ ، ثُمَّ يَرْكَبْنَ الْخِضَابَ فَيَنْمَنَ ، فَإِذَا كَانَ صَلَاةُ الصُّبْحِ
نَزَعْنَهُ فَتَوَضَّئْنَ وَصَلَّيْنَ ثُمَّ رَكِبْنَهُ ، فَإِذَا كَانَ صَلَاةُ الظُّهْرِ
نَزَعْنَهُ بِأَحْسَنِ خِضَابٍ ، لَا يُشْغَلْنَ عَنْ وُضُوءِي ، فَإِنَّ أَرْوَاجَ
النَّبِيِّ - ﷺ - كُنَّ يَخْتَضِبْنَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: وضو کرتے وقت خضاب اتار دینا واجب ہے اگر وہ پانی روکے

حدیث نمبر: 365

:ترجمہ

(۳۶۶) (ابو العالیہ یا کسی اور شخص نے حدیث بیان کی کہ اس نے ابن عباسؓ سے خضاب کے بارے میں سوال کیا تو ابن عباسؓ نے فرمایا: میں آپ کو بتلاؤں گا کہ ہماری عورتیں کس طرح خضاب لگاتی تھیں، وہ عشا کی نماز پڑھتی تھیں، پھر خضاب لگاتیں پھر وہ سو جاتیں۔ جب صبح کی نماز ہوتی اس کو اتار دیتیں، وضو کرتیں اور نماز پڑھتیں، پھر اس کو لگا لیتیں، جب ظہر کی نماز کا وقت ہوتا تو اس کو اچھے خضاب کے ساتھ اتار دیتیں۔ یہ چیز ان کو وضو سے مشغول نہیں کرتی تھی۔ نبی ﷺ کی ازواج مطہرات بھی عشا کی نماز کے بعد خضاب لگاتی تھیں۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: It is obligatory to remove the dye while performing ablution if it stops the water

Hadith number: 365

Translation:

(365) Abu al-'Aliyah or another person narrated that he asked Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) about dyeing. Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) said: I will tell you how our women used to dye. She would pray Isha, then dye, then she would fall

asleep. When it was time for the morning prayer, she would take it off, perform ablution and offer prayers, then put it on. When it was time for the Zuhr prayers, she would take it off with good dyeing. This did not distract them from ablution. The wives of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) also used to dye their hair after Isha prayers. [Sahih. Narrated by AbdulRazzaq 3930]

Sunan Kubra Bayhaqi 366

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِالْوَيْهِ (٣٦٧)
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ
عَنْ لَاحِقِ بْنِ حَمِيدٍ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ
الْخِضَابِ فَقَالَ: أَمَّا نِسَاؤُنَا فَيَخْتَضِبْنَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى صَلَاةِ
الصُّبْحِ ، ثُمَّ نَظَّفْنَ أَيْدِيَهُنَّ فَتَطَهَّرْنَ ، ثُمَّ يَعْدُنَ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاةِ
الصُّبْحِ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ بِأَحْسَنِ خِضَابٍ ، وَلَا يَمْنَعُهُنَّ ذَلِكَ مِنَ
الصَّلَاةِ۔

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: وضو کرتے وقت خضاب اتار دینا واجب ہے اگر وہ پانی

روکے

حدیث نمبر: 366

ترجمہ:

(٣٦٧) (لاحق بن حمید فرماتے ہیں: میں نے سیدنا ابن عباس

سے خضاب کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا ُ
ہماری عورتیں عشا کی نماز سے صبح کی نماز تک خضاب
لگاتی تھیں، پھر اپنے ہاتھوں کو صاف کرتیں، پھر وضو کرتیں
اور صبح کی نماز سے ظہر کی نماز تک دوبارہ اپنے خضاب
کے ساتھ لوٹ آتیں اور یہ چیز ان کو نماز سے نہیں روکتی
تھی۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: It is obligatory to remove the dye
while performing ablution if it stops the water

Hadith number: 366

Translation:

(366) Lahaq ibn Hameed says: I asked Ibn
Abbas about dyeing and he said: Our women
used to dye their hair from Isha prayer to
morning prayer, then they would clean their
hands, then they would perform ablution. They
used to dye their hair again from the morning
prayers to Zuhr prayer and this did

not stop her from praying.
[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 367

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ (٣٦٨)
جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحِ
الْجُهَنِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحِ الْحِمَاصِيِّ قَاضِي
أَنْدَلُسَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ وَرَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ
أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ وَعَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ بُوَيْبٍ عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَلِيمِ
الْجُهَنِيِّ كُلِّهِمْ يُحَدِّثُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ -
(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ
أَحْمَدَ بْنَ بَالُوَيْهِ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ
أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ رَبِيعَةَ يَعْنِي ابْنَ يَزِيدَ عَنْ أَبِي
إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ وَحَدَّثَهُ أَبُو عُثْمَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ
عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الْإِبِلِ ، فَحَانَتْ نَوْبَتِي
فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِيِّ ، فَأَدْرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَائِمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ
فَأَدْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ ثُمَّ
يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ ، فَيُقْبَلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ
الْجَنَّةُ . قَالَ فَقُلْتُ: مَا أَجُودَ بِهِ ، فَإِذَا قَائِلٌ بَيْنَ يَدَيَّ يَقُولُ: الَّذِي
:قَبْلَهَا أَجُودُ. فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
إِنِّي قَدْ رَأَيْتُكَ جِئْتَ آتِفًا ، قَالَ: مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ
يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
إِلَّا فَتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ

الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ .

لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ مَهْدِيٍّ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
حَاتِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ وَقَالَ فِي إِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي
إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ وَحَدَّثَنِي أَبُو عَثْمَانَ عَنْ
جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: وضو کے بعد کی دعا

حدیث نمبر: 367

ترجمہ:

(۳۶۸) عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ ہمارے ذمہ اونٹ چرانا تھا
ایک بار میری باری آگئی، میں نے اس کو کھانے کے لیے
چھوڑ دیا، پھر میں نے رسول اللہ ﷺ کو کھڑے ہوئے پایا، آپ
لوگوں سے باتیں کر رہے تھے، میں نے آپ ﷺ سے یہ بات
سیکھی کہ جو مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر کھڑے
ہو کر دو رکعتیں ادا کرتا ہے اور اپنے چہرے اور دل کے
ساتھ متوجہ ہوتا ہے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔
راوی کہتا ہے: میں نے کہا: یہ کیا خوب ہے۔

میرے سامنے بھی ایک شخص کہہ رہا تھا کہ آپ نے پہلے
 اس سے پہلے اس سے زیادہ عمدہ بات کہی تھی۔
 میں نے دیکھا، وہ سیدنا عمر بن خطابؓ تھے، آپ نے فرمایا
 میں نے تم کو ابھی آتے ہوئے دیکھا، پھر آپ ﷺ نے فرمایا
 تھا: جب تم میں سے کوئی وضو کرتا ہے پھر کہتا ہے: أَشْهَدُ
 أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
 تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے
 ہیں جس سے چاہے داخل ہو جائے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Dua (Supplication) after Ablution

Hadith number: 367

Translation:

(367) Aqaba bin Amir says that it was our duty to feed the camels. Once it was my turn, I left it to eat, then I found the Messenger of Allah (peace and blessings of Allaah be upon him) standing, talking to the people. I learned from him that if any Muslim performs

ablution well, then stands and prays two rak'ahs with his heart and face focused, Paradise would be obligatory for him. I said: What a fine thing is this! And a narrator who was before me said: The first was better than even this. When I cast a glance, I saw that it was Umar ibn Khattab (may Allah be pleased with him) who said: I see that you have just come and observed: If anyone amongst you performs the ablution, and then completes the ablution well and then says: **أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ**

(I testify that there is no god but Allah and that Muhammad is the servant of Allah and His Messenger). The eight gates of Paradise would be opened for him and he may enter by whichever of them he wishes.

[Sahih. Narrated by Muslim 234 and Nasai 148 and Abu Dawud 169 and Tirmidhi 55 and Ibn Majah 470 and Ahmad 4/146, 151, 153 and Darimi 743]

Sunan Kubra Bayhaqi 368

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ (٣٦٩)
يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ
حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ

الدِّمَشْقِيُّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ
عَامِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -
مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءِ ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ))
وَخَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةٌ
أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ ((-).

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: وضو کے بعد کی دعا
حدیث نمبر: 368

ترجمہ:

(۳۶۹) (سیدنا عقبہ بن عامر نے حضرت عمر بن خطابؓ کو
فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ نے فرمایا " :جس نے اچھی
طرح وضو کیا پھر کہا: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَخَدَهُ لَا شَرِيكَ
لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ تو جنت کے آٹھ دروازے کھول
دیے جاتے ہیں جس سے چاہے داخل ہو جائے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Dua (Supplication) after Ablution

Hadith number: 368

Translation:

(368) Syedna Aqaba bin Amir heard Hazrat Umar bin Khattab (may Allah be pleased with him) saying that the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said:

“Whoever performs ablution properly and then says:

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ

(Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lahu, wa ashadu anna Muhammadan-abduhu wa rasuluhu)

(I testify that none has the right to be worshipped but Allah Alone, there are no partners for Him. And I testify that

Muhammad is His servant and Messenger.)
The eight gates of Paradise would be opened
(for him) and he may enter by whichever of
them he wishes.

[Sahih. Narrated by Muslim 234 and Nasai
148 and Abu Dawud 169 and Tirmidhi 55 and
Ibn Majah 470 and Ahmad 4/146, 151, 153
and Darimi 743]

Sunan Kubra Bayhaqi 369

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا (۳۷۰)
 الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ أَخْبَرَنَا زَيْدُ
 بْنُ الْحُبَابِ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَقَالَ وَأَبُو عَثْمَانَ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرِ
 بْنِ مَالِكِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي
 الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ -
 (وَرَوَى فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَأَنْسٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ) : اللَّهُمَّ
 اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ (- وَذَلِكَ مَعَ غَيْرِهِ
 مُخْرَجٌ فِي كِتَابِ الدَّعَوَاتِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: وضو کے بعد کی دعا
 حدیث نمبر: 369

ترجمہ:

(: ۳۷۰) (سیدنا ابن عمر اور انسؓ کی حدیث میں بیان کیا گیا ہے
 (اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ) (-)
 اے اللہ! مجھے بہت زیادہ رجوع کرنے والوں اور پاک "

" صاف رہنے والوں میں شامل فرمائیے۔ "

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Dua (Supplication) after Ablution

Hadith number: 369

Translation:

(369) It is stated in the hadith of Ibn Umar and Anas (may Allah be pleased with them):

((اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ)).

(Allahummajalni minat tawwabin, waj'alni minal mutatahhirin)

(O Allah! Make me among the repentant, and make me among those who purify themselves)

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 370

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ (٣٧١)
يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ -
قَالَ وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَةَ

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ
عَنْ أَبِي أَنَسٍ قَالَ: تَوَضَّأَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عِنْدَ
الْمَقَاعِدِ فَقَالَ: أَلَا أُرِيكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - قَالَ: ثُمَّ
و النَّضْرِ عَنْ أَبِي أَنَسٍ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا. قَالَ سُفْيَانُ قَالَ أَبُو
رَجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - فَقَالَ لَهُمْ: أَلَيْسَ هَكَذَا رَأَيْتُمْ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - يَتَوَضَّأُ؟ قَالُوا: بَلَى -

هَكَذَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ وَأَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي
شَيْبَةَ وَزُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ وَكَيْعٍ وَقَالَ فِي إِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي
أَنَسٍ ، وَأَبُو أَنَسٍ هُوَ مَالِكُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ الْأَصْبَحِيُّ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: تین تین مرتبہ وضو کرنا
حدیث نمبر: 370

ترجمہ:

(۳۷۱) (سیدنا انسؓ فرماتے ہیں: حضرت عثمان بن عفانؓ نے
بیٹھنے کی جگہ وضو کیا اور فرمایا: کیا میں تم کو رسول اللہ
ﷺ کا وضو نہ دکھاؤں، پھر انہوں نے تین تین مرتبہ

وضو کیا۔ سفیان کہتے ہیں: ابو نضر ابو انس سے نقل کرتے ہیں: ان کے پاس صحابہ کرامؓ موجود تھے، انہوں نے کہا: تم نے رسول اللہ کو ایسے وضو کرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ انہوں نے فرمایا: کیوں نہیں، ایسے ہی دیکھا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Performing ablution three times (i.e Washing the limbs thrice)

Hadith number: 370

Translation:

(370) Anas (may Allah be pleased with him) says: Hazrat Uthman bin Affan (may Allah be pleased with him) performed ablution in the courtyard and said: Shall I not show you the ablution of the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him), then he performed ablution three times (i.e washed the limbs thrice). Sufyan says: Abu Nadr

narrates from Abu Anas: He had the Companions of the Prophet Muhammad with him. He said: Have you not seen the Messenger of Allah (peace and blessings of Allaah be upon him) performing ablution as such? They said: Why not, we have seen it like this.

[Sahih. Narrated by Muslim 230]

Sunan Kubra Bayhaqi 371

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو قَالَا (٣٧٢)
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَسِيدُ بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا
الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصِ عَنْ سُفْيَانَ
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بَشْرَانَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ (ح)
الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا الْفَرِيَابِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدِانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ (ح)
الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبِ بْنِ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو حُدَيْفَةَ حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ عَنْ سَالِمِ أَبِي النَّضْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدِ
، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ: أَنَّهُ دَعَا بِمَايَ فِتْوَضًا عِنْدَ الْمَقَاعِدِ
فِتْوَضًا ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ - ﷺ - ((بَلِّ
رَأَيْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -)) (فَعَلَّ بَدَا؟ قَالُوا: نَعَمْ. لَفْظُ حَدِيثِ الْحُسَيْنِ -
وَفِي حَدِيثِ الْفَرِيَابِيِّ: أَنَّ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ
لِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - هَكَذَا رَأَيْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -؟ قَالُوا: نَعَمْ -
وَفِي حَدِيثِ أَبِي حُدَيْفَةَ: دَعَا بِوَضُوءٍ عَلَى الْمَقَاعِدِ. وَهَكَذَا هُوَ
فِي جَامِعِ الثَّوْرِيِّ رَوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيِّ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: تین تین مرتبہ وضو کرنا

حدیث نمبر: 371

ترجمہ:

(الف) (۳۷۲) (سیدنا عثمان بن عفانؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے پانی منگوا یا، پھر بیٹھنے کی جگہ پر وضو کیا، پھر تین تین مرتبہ وضو کیا، پھر اصحاب رسول سے پوچھا: کیا تم نے رسول اللہ کو ایسے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔

(ب) (فریابی کی حدیث کے الفاظ ہیں: سیدنا عثمانؓ نے تین تین مرتبہ وضو کیا، پھر اصحاب رسول سے کہا: اسی طرح تم نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔

(ج) (ابو حذیفہ کی حدیث میں ہے کہ بیٹھنے کی جگہ پانی منگوا یا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Performing ablution three times (i.e
Washing the limbs thrice)

Hadith number: 371

Translation:

(371) (a) It is narrated from Uthman bin Affan (may Allah be pleased with him) that he asked for water, then performed Wudhu in the courtyard, then performed Wudhu three times, then asked the companions of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him): Have you seen the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) performing ablution like this? They said: Yes.

(B) The words of the hadith of Faryabi are: Uthman performed Wudhu three times, then he said to the companions of the Prophet: Have you seen the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) performing ablution in the same way? They said: Yes.

(C) It is narrated in the hadith of Abu Hudhaifa that he asked for water in the courtyard.

[Sahih. Narrated by Ahmad 1/67]

Sunan Kubra Bayhaqi 372

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَائِرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَثْمَانَ الْبَصْرِيُّ (٣٧٣)
وَالْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُوبِيَّارٍ قَالَا أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ
حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى
النَّبِيِّ ﷺ - فَسَأَلَهُ عَنِ الْوُضُوءِ ، فَأَرَاهُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ: ((بَدَأَ
الْوُضُوءُ ، فَمَنْ زَادَ عَلَى بَدَأَ فَقَدْ أَسَاءَ أَوْ تَعَدَّى وَظَلَمَ)) -
ت (وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْأَشْجَعِيُّ عَنِ الثَّوْرِيِّ مَوْصُولًا -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: تین سے زیادہ مرتبہ دھونے کی کراہت کا بیان

حدیث نمبر: 372

:ترجمہ

(۳۷۳) (سیدنا عمرو بن شعیب اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی ﷺ کے پاس آیا، اس نے وضو کے متعلق سوال کیا تو آپ ﷺ نے اس کو تین تین مرتبہ کر کے دکھایا، پھر آپ ﷺ نے فرمایا " یہ وضو (کا طریقہ) ہے جو اس سے زیادہ کرے گا وہ نافرمان ہوگا یا حد سے بڑھے گا اور ظلم کرے گا۔ (امام ثوری سے موصولاً روایت ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The Disgust of Washing More Than Three Times

Hadith number: 372

Translation:

(372) Amr ibn Shuayb narrates from his grandfather that a villager came to the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) and asked him about ablution. He (the Prophet) performed it (ablution) three

times, then he said: The method (of ablution) is this whoever does more than this, he will be disobedient or he will exceed the limit and will do oppression.

(B) It is narrated from Imam al-Thawri with an uninterrupted chain of transmission.

[Hasan (Fair). Narrated by Al-Tabarani in Mujam Kabeer 174]

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذِبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ (۳۷۴)
بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ
أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى
النَّبِيَّ ﷺ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الطُّهُورُ؟ فَدَعَا بِمَاءٍ فِي
إِنَائٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ
، ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ ، فَأَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّاحَتَيْنِ فِي أُذُنَيْهِ
وَمَسَحَ بِابْهَامَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ ، وَبِالسَّبَّاحَتَيْنِ بَاطِنِ أُذُنَيْهِ
ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ: ((بِكَذَا الْوُضُوءُ ، فَمَنْ ،
((زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ أَوْ ظَلَمَ وَأَسَاءَ
:ق (قَوْلُهُ: نَقَصَ - يُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ نُقْصَانَ الْعَضْوِ ، وَقَوْلُهُ
ظَلَمَ - يَعْنِي جَاوَزَ الْحَدَّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: تین سے زیادہ مرتبہ دھونے کی کراہت کا بیان

ترجمہ:

(۳۷۴) (سیدنا عمرو بن شعیب اپنے دادا سے نقل فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی ﷺ کے پاس آیا اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! وضو کس طرح ہے؟ آپ ﷺ نے پانی کا ایک برتن منگوایا، اپنی ہتھیلیوں کو تین تین مرتبہ دھویا، پھر اپنے چہرے کو تین مرتبہ دھویا، پھر اپنے بازوؤں کو تین مرتبہ دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا تو اپنی دونوں سبابہ انگلیاں اپنے کانوں میں داخل کیں اور اپنے انگوٹھوں کے ساتھ کانوں کے باہر والے حصے پر مسح کیا اور انگوٹھوں کے ساتھ اپنے کانوں کے باطنی حصوں پر بھی، پھر اپنے پاؤں کو تین تین مرتبہ دھویا، پھر فرمایا " :اس طرح وضو (کا طریقہ) ہے، جو اس سے زیادہ کرے یا کم کرے اس نے نافرمانی کی اور ظلم کیا یا فرمایا: ظلم کیا اور نافرمانی کی۔

(ب) (نَقَصَمِیْ اِحْتِمَالِ یَہُ ہے کہ اس سے مراد عضو کا نقصان ہے اور ظَلَمَ سے مراد اللہ تعالیٰ کی حد سے تجاوز کرنا۔ واللہ اعلم۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The Disgust of Washing More Than Three Times

Hadith number: 373

Translation:

(373) Amr ibn Shuayb narrates from his grandfather that a man came to the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) and said: O Messenger of Allah! How is ablution (performed)? He called for a vessel of water, washed his palms three times, then washed his face three times, then washed his arms three times, then wiped his head, then inserted both his fingers into his ears and He wiped the outer part of the ears with his thumbs and also with the thumbs on the inner parts of his ears, then washed his feet three times, then said: "This is the method of ablution, whoever does more than this or less

than this then he has disobeyed and has oppressed", or he said: "has oppressed and has disobeyed."

(B) The probability is that it means harm on the limb and oppression means exceeding the limits of Allah Almighty. Allah knows best.
[Hasan (Fair)]

Sunan Kubra Bayhaqi 374

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو (۳۷۵)
الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ
: وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ (ح)
أَحْمَدُ بْنُ كَامِلِ بْنِ خَلْفِ الْقَاضِي بِنَعْدَادَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ
الْأَزْرَقُ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ: أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ - تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ
عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: دو مرتبہ وضو کرنے کا بیان
حدیث نمبر: 374

ترجمہ:

(۳۷۵) سیدنا عبداللہ بن زیدؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے دو دو مرتبہ وضو کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on performing ablution washing each part twice

Hadith number: 374

Translation:

(374) It is narrated from Abdullah bin Zayd (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) performed ablution washing each part twice.

[Sahih. Narrated by Bukhari 158]

Sunan Kubra Bayhaqi 375

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدٌ (٣٨٦)
بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ
: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيُّ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان
باب: دو دو مرتبہ وضو کرنے کا بیان
حدیث نمبر: 375

:ترجمہ

(376) (سیدنا ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے دو دو
مرتبہ وضو کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on performing ablution
washing each part twice

Hadith number: 375

Translation:

(375) It is narrated from Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) performed ablution washing each part twice. [Hasan (Fair). Narrated by Abu Dawud 136 and Tirmidhi 43 and Ahmad 2/288, 364]

Sunan Kubra Bayhaqi 376

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ : عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَشْرَانَ (٣٧٧)
الْعَدْلُ بِنِعْدَادٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ : إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ
وَسُفْيَانُ وَدَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَائِ بْنِ يَسَارٍ
: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِوَضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - ؟ قَالَ
فَدَعَا بِإِنَائِي فِيهِ مَائٌ ، فَجَعَلَ يَغْرِفُ غَرْفَةً غَرْفَةً لِكُلِّ عَضْوٍ -
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ
بِإِسْنَادِهِ وَقَالَ : تَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ - مَرَّةً مَرَّةً -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب : پاکی کا بیان

باب : ایک ایک مرتبہ وضو کرنا

حدیث نمبر : 376

ترجمہ:

(۳۷۷) (سیدنا ابن عباسؓ فرماتے ہیں: کیا میں تم کو رسول اللہ ﷺ کے وضو کے متعلق خبر دوں، پھر انہوں نے پانی کا ایک برتن منگوا دیا اور ہر عضو کے لیے اس سے چلو بھرنا شروع ہوئے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ انہوں نے فرمایا: نبی ﷺ نے ایک ایک مرتبہ وضو کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Performing Ablution Washing Each Part Once

Hadith number: 376

Translation:

(376) Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) said: Shall I inform you about the ablution of the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him)? Then he ordered a jug of water and began to take a handful of water for each organ.

According to another narration, he said: The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) performed ablution washing each part once.

[Sahih. Narrated by Bukhari 157 and Nasai 80 and Abu Dawud 138 and Tirmidhi 42 and Ibn Majah 411 and Ahmad 1/233, 332, 236 and Darimi 724]

Sunan Kubra Bayhaqi 377

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ (٣٧٨)
الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا وَبَيْبُ
:عَنْ عَمْرٍو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
سَمِعْتُ عَمْرٍو بْنَ أَبِي الْحَسَنِ يَسْأَلُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ
عَنْ وَضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَدَعَا بِتَوْرٍ مَائٍ ، فَتَوَضَّأَ لَهُمْ وَضُوءَ
النَّبِيِّ - ﷺ - فَأَكْفَأَ عَلَى يَدِهِ مِنَ التَّوْرِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ
فِي التَّوْرِ فَمَضَمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْشَرَ ثَلَاثَ غَرَفَاتٍ ، ثُمَّ
أَدْخَلَ يَدَهُ فَعَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيْهِ فَعَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ
إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَيْهِ فَمَسَحَ رَأْسَهُ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ
مَرَّةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ -
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَغَيْرِهِ
عَنْ وَبَيْبٍ ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ وَبَيْبٍ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: بعض اعضاء کو تین مرتبہ اور بعض کو دو مرتبہ اور
بعض کو ایک مرتبہ دھونا

حدیث نمبر: 377

:ترجمہ

(۳۷۸) عمرو بن یحییٰ بن عمارہ بن ابو حسن اپنے والد سے
نقل فرماتے ہیں کہ میں نے عمرو بن ابو حسن سے سنا، وہ
عبداللہ بن زید بن عاصم سے رسول اللہ ﷺ کے وضو کے متعلق
پوچھ رہے تھے تو انہوں نے پانی کا ایک برتن منگوا یا اور
لوگوں کے سامنے نبی ﷺ کے وضو کا طریقہ بیان کیا تو انہوں
نے برتن سے تین مرتبہ اپنے ہاتھ پر ڈالا، پھر اپنا ہاتھ برتن
میں داخل کیا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا اور ناک
جھاڑا، یہ سب تین چلووں سے کیا، پھر اپنا ہاتھ (برتن میں)
داخل کیا، پھر اپنا چہرہ تین مرتبہ دھویا، پھر اپنے ہاتھ (برتن
میں) داخل کیے، پھر اپنے ہاتھوں کو دو مرتبہ کہنیوں سمیت
دھویا، پھر اپنے ہاتھوں کو (برتن میں) داخل کیا، پھر اپنے سر
کا مسح کیا، ایک مرتبہ (ہاتھ) آگے سے پیچھے لے گئے اور
پیچھے سے

آگے لے آئے، پھر اپنے پاؤں کو ٹخنوں تک دھویا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Washing some limbs three times
and some twice and some once

Hadith number: 377

Translation:

(377) Amr ibn Yahya ibn Amra ibn Abu Hasan narrates from his father that I heard from Amr ibn Abu Hasan, he was asking Abdullah ibn Zayd ibn Asim about the ablution of the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him). He called for a vessel and explained to the people the method of ablution of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him). He poured the pot on his hand three times, then put his hand in the pot, then rinsed his mouth and put water in

his nose and wiped his nose. He did this both with three strokes. Then inserted his hand (into the vessel) washed his face three times, then inserted his hand (into the vessel), then washed his hands twice including his elbows, then inserted his hand (into the vessel), then wiped his head, once brought his (hands) from forward to back and then from back to forward, then washed his feet up to his ankles. [Sahih. Narrated by Bukhari 185, 186, 191, 192, 197 and Muslim 235 and Nasai 97, 98 and Abu Dawud 118 and Tirmidhi 47 and Malik 2/1 and Ahmad 4/38, 39 and Darimi 721]

Sunan Kubra Bayhaqi 378

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْعَبْدَوِيُّ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ (٣٧٩)
الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ : الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي مَعْشَرٍ السُّلَمِيُّ
بِحَرَّانَ

وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ : يَحْيَى بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الصَّائِعِ بِالرِّيِّ (ح)
: وَأَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَلُوشَا بِأَسْدَابَادَ بِمَدَانَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ

عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي الْجَرَّاحِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ
بْنِ الْأَشْعَثِ قَالَ أَخْبَرَنَا الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِحٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ

مَيْسَرَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : تَوَضَّأَ النَّبِيُّ -

مَرَّةً مَرَّةً ، ثُمَّ قَالَ : بَدَأَ وَضُوءِي مَنْ لَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ إِلَّا بِهِ صلى الله عليه وسلم

- . ثُمَّ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : بَدَأَ وَضُوءِي مَنْ

يُضَاعَفُ لَهُ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ - . ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ : بَدَأَ

وَضُوءِي وَوَضُوءِي الْمُرْسَلِينَ قَبْلِي - .

لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي عَرُوبَةَ وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ : لَا

يُقْبَلُ اللَّهُ لَهُ الصَّلَاةُ إِلَّا بِهِ - . وَقَالَ : يُضَاعَفُ اللَّهُ لَهُ -

وَبَدَأَ الْحَدِيثُ مِنْ بَدَأَ الْوَجْهَ يَتَّفَرَّدُ بِهِ الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِحٍ -

(ج) (وَلَيْسَ بِالْقَوِيَّ-
وَرُوِيَ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: وضو میں تکرار کی فضیلت کا بیان
حدیث نمبر: 378

:ترجمہ

(۳۷۹) (الف) (سیدنا ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ نے ایک ایک مرتبہ وضو کیا، پھر فرمایا " یہ وضو ہے۔ اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ "پھر دو مرتبہ وضو کیا، پھر فرمایا " یہ اس شخص کا وضو ہے جس کو دوہرا اجر دیا جائے گا۔ " پھر تین مرتبہ وضو کیا، پھر فرمایا " یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء کا وضو ہے۔ "

(ب) (عبداللہ بن سلمان کی حدیث میں ہے کہ اس کے بغیر اللہ نماز قبول نہیں کرتا اور فرمایا " :اللہ اس کو دوہرا اجر دے گا۔ "

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Explaining the Virtue of Repetition in Ablution

Hadith number: 378

Translation:

(378) (a) Ibn Umar (may Allah be pleased with him) says that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) performed ablution washing each part once, then he said: "This is ablution. Without it, prayers are not acceptable." Then he performed ablution washing each part twice, then he said: This is the ablution of the person who will be given a double reward. "Then he performed ablution washing each part three times, then said:" This is my ablution and the ablution of

the prophets before me. "

(B) According to the hadith of Abdullah bin Salman, Allah does not accept prayers without this (ablution) and said: "Allah will give him a double reward."

[Daif (Weak). Narrated by Al-Daraqutni 1/30]

Sunan Kubra Bayhaqi 379

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْخَلِيلِ الْمَالِينِيُّ (٣٨٠)
أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي سُوَيْدٍ الدَّرَّاعُ وَمُحَمَّدُ
بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزُّبَيْرَانِيُّ
حَدَّثَنَا سَلَامُ الطَّوِيلُ عَنْ زَيْدِ الْعَمِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : دَعَا النَّبِيَّ ﷺ - بِمَايَ فَتَوَضَّأَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً
فَقَالَ : هَذَا وَضُوءٌ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلَاةَ إِلَّا بِهِ . ثُمَّ دَعَا بِمَايَ
فَتَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ فَقَالَ : هَذَا وَضُوءٌ مَنْ يُوتَى أَجْرَهُ
مَرَّتَيْنِ . ثُمَّ دَعَا بِمَايَ فَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا فَقَالَ : هَذَا وَضُوءِي
وَوَضُوءُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي .) ت (وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ
زَيْدِ الْعَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ وَخَالَفَهُمَا غَيْرُهُمَا وَلَيْسُوا فِي الرَّوَايَةِ بِأَقْوِيَاءَ
وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: وضو میں تکرار کی فضیلت کا بیان

حدیث نمبر: 379

ترجمہ:

(۳۸۰) (سیدنا عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ نے پانی منگوا یا اور ایک مرتبہ وضو کیا، پھر فرمایا " : یہ وضو ہے اس کے بغیر اللہ نماز قبول نہیں کرتے، پھر پانی منگوا یا تو دو مرتبہ وضو کیا اور فرمایا " : یہ اس شخص کا وضو ہے جس کو دوہرا اجر دیا جائے گا " پھر پانی منگوا یا اور تین مرتبہ وضو کیا، پھر فرمایا " : یہ میرا اور مجھ سے پہلے انبیاء کا وضو ہے۔"

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Explaining the Virtue of Repetition in Ablution

Hadith number: 379

Translation:

(379) Abdullah ibn Umar (may Allaah be

pleased with him) said: The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) asked for water and performed ablution washing each part once. Then he said: "This is ablution. Without it, prayers are not acceptable." Then he asked for water and performed ablution washing each part twice. He said: "This is the ablution of the person who will be given double reward." Then he asked for water and performed ablution washing each part three times then he said: "This is the ablution of me and the prophets before me. "

[Daif (Weak). Narrated by Ibn Majah 419]

Sunan Kubra Bayhaqi 380

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا (٣٨١)
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ -
(ح) قَالَا وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ قَالَ قَرِئَ عَلَيَّ ابْنُ
وَهْبٍ أَخْبَرَكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
عَنْ أَبِي بُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ((إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ
الْمُسْلِمُ أَوْ الْمُؤْمِنُ فَعَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ
إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ ، فَإِذَا غَسَلَ
يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ
آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ
مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتَّى يَخْرُجَ
نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ)) -
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: وضو کی فضیلت کا بیان
حدیث نمبر: 380

ترجمہ:

" (۳۸۱:) (سیدنا ابوہریرہ ^{رض} سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا جب مسلمان یا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے ہر گناہ نکل جاتا ہے۔ جس کو کو اپنی آنکھوں سے پانی کی شکل میں دیکھتا ہے یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ) نکل جاتا ہے (اور جب اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے ہر وہ گناہ نکل جاتا ہے جس کو اس کے ہاتھ نے کیا، پانی کے ساتھ یا فرمایا: پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اور جب اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو اس کے پاؤں سے ہر وہ گناہ نکل جاتا ہے جس کو اس کے پاؤں نے کیا، پانی کے آخری قطرے کے ساتھ۔ حتیٰ کہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو کر نکل جاتا ہے۔"

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Explaining the Virtue of Ablution

Hadith number: 380

Translation:

(380) It is narrated from Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said: "When a Muslim or a believer performs ablution and washes his face, every sin comes out of his face. Every sin he contemplated with his eyes, will be washed away from his face along with water, or with the last drop of water and when he washes his hands, every sin that his hands have committed come out of his hands with the water or he said: 'With the last drop of water', and when he washes his feet, every sin that his feet have committed, with the last drop of

water, come out of his feet. The result is that he comes out pure from all sins.

[Sahih. Narrated by Muslim 244]

Sunan Kubra Bayhaqi 381

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ (٣٨٢)
إِسْحَاقَ الْفَقِيهَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ
حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ (ح)
يَعْقُوبَ وَأَبُو عَمْرٍو : حَمْدُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ
بْنِ شَيْرُوَيْهِ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا النَّضْرُ
بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا شَدَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو
عَمَّارٍ وَيَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ قَالَ عَمْرُو
بْنُ عَبْسَةَ السُّلَمِيُّ فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا فِي قُدُومِهِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ -
كَةً ، ثُمَّ قُدُومِهِ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ ، قَالَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا
الْوَضُوءُ ؟ حَدَّثَنِي عَنْهُ . قَالَ : ((مَا مِنْكُمْ مِنْ رَجُلٍ يُقَرِّبُ
وَضُوءٍ هُ فَيَمْضُضُ وَيَسْتَنْشِقُ فَيَسْتَنْثِرُ إِلَّا خَرَجَتْ خَطَايَا
فِيهِ وَخِيَاشِيمِهِ مَعَ الْمَائِ ، ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ إِلَّا
خَرَجَتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَائِ ، ثُمَّ يَغْسِلُ
يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ إِلَّا خَرَجَتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَنْامِلِهِ مَعَ الْمَائِ
ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ إِلَّا خَرَجَتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ ،
شَعْرِهِ مَعَ الْمَائِ ، ثُمَّ يَغْسِلُ

قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلَّا خَرَجَتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنْامِلِهِ مَعَ الْمَائِ
فَإِنْ بُو قَامَ فَصَلَّى فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَمَجَّدَهُ بِالَّذِي بُو لَهُ ،
أَبُلُّ ، وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ إِلَّا أَنْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ
وَلَدَتْهُ أُمُّهُ (-).

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ جَعْفَرِ الْمَعْقَرِيِّ عَنِ
النَّضْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ عِكْرِمَةَ : ثُمَّ يَغْسِلُ
قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ . وَلَمْ يَذْكَرْ فِي إِسْنَادِهِ يَحْيَى
بْنُ أَبِي كَثِيرٍ .

وَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُرَيْمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (ت)
الدُّبَلِيِّ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ وَاحْتَجَّ بِهِ فِي وُجُوبِ غَسْلِ الْقَدَمَيْنِ .

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب : پاکی کا بیان

باب : وضو کی فضیلت کا بیان

حدیث نمبر : 381

ترجمہ:

(۳۸۲) (سیدنا عمرو بن عبسہ سلمی نے نبی ﷺ کے مکہ تشریف لے جانے اور مدینہ واپس تشریف لانے کے متعلق طویل حدیث ذکر کی۔ فرماتے ہیں: میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! وضو کیا ہے؟ مجھے بتلائیے! آپ ﷺ نے فرمایا: جب انسان پانی اپنے قریب کرتا ہے، اس کے بعد کلی کرتا ہے اور ناک میں پانی چڑھاتا ہے۔ پھر ناک جھاڑتا ہے تو پانی کے ساتھ اس کے منہ اور ناک کے بانسے سے گناہ نکل جاتے ہیں، پھر جب اپنا چہرہ دھوتا ہے جس طرح اللہ نے اس کو حکم دیا تو پانی کے ساتھ اس کے چہرے کے اطراف اور داڑھی سے گناہ نکل جاتے ہیں، پھر اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ اس کے انگلیوں کے گناہ نکل جاتے ہیں، پھر سر کا مسح کرتا ہے تو پانی کے ساتھ اس کے بالوں کے اطراف سے سر کے گناہ نکل جاتے ہیں، پھر ٹخنوں تک اپنے قدموں کو دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ اس کے پاؤں کی انگلیوں سے گناہ نکل جاتے ہیں، پھر کھڑا ہو کر نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے تو اس کی بزرگی بیان کرتا ہے جس کے وہ اہل ہیں اور اپنے دل کو اللہ کے لیے فارغ کر دیتا ہے تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی والدہ نے اس کو جنم دیا ہے۔

(ب) (عکرمہ سے روایت ہے کہ پھر آپ نے اپنے قدموں کو ٹخنوں تک دھویا جس طرح اللہ نے اس کو حکم دیا۔ اس کی سند میں یحییٰ بن کثیر کا ذکر نہیں ہے۔
(ج) (ابو ولید نے اس روایت سے پاؤں دھونے کے واجب ہونے کی دلیل لی ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Explaining the Virtue of Ablution

Hadith number: 381

Translation:

(381) Amr ibn Abbas Salmi narrated a long hadith about the Prophet's visit to Mecca and his return to Medina. He said: I said: O Messenger of Allah! What is ablution? Let me know. He said: When a person draws water close to him, then he rinses his mouth and puts water in his nose. Then when he blows his nose, sins come out of his mouth and from the nostrils of his nose with the

water, then when he washes his face as Allah has commanded him, sins come out from the sides of his face and from his beard with the water. Then he washes his hands, including his elbows, then the sins of his fingers come out with water, then he wipes his head, then with the water, the sins of his head come out from the sides of his hair, then his sins up to his ankles. When he washes his feet upto the ankles then, with the water, his sins are removed from his toes. And if he stands to pray and praises Allah, lauds Him and glorifies Him with what becomes Him and shows wholehearted devotion to Allah, his sins would depart leaving him (as innocent) as he was on the day his mother bore him

(B) It is narrated from Ikrimah that then he washed his feet up to the ankles as Allah commanded him. Yahya ibn Katheer is not mentioned in its chain of transmission.

(C) Abu Waleed has taken the argument from this narration that it is obligatory to wash

one's feet (in ablution).

[Sahih]

The full lengthy hadith has been narrated by Muslim 832.

Sunan Kubra Bayhaqi 382

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ (٣٨٣)
وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ الْخَوْلَانِيُّ قَالَ قُرِئَ عَلَيَّ عَبْدُ
اللَّهِ بْنِ وَهَبٍ أَخْبَرَكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ
عَطَائِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -
(قَالَ) : إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ فَمَضَمَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ فِيهِ
فَإِذَا اسْتَنْشَرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتِ
الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ ، فَإِذَا غَسَلَ
يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ الْخَطَايَا مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ
يَدَيْهِ ، فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخْرُجَ
مِنْ أُذُنَيْهِ ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ حَتَّى
تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِ رِجْلَيْهِ ، ثُمَّ كَانَ مَشِيئُهُ إِلَى الْمَسْجِدِ
وَصَلَاتُهُ نَافِلَةً لَهُ (.) .

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ (ج)
بْنُ يَعْقُوبَ يَقُولُ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ الدُّورِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ
يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ يَزُورِي عَنْ عَطَائِ بْنِ

، يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيِّ صَحَابِيٍّ وَيُقَالُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ
، وَالصُّنَابِحِيُّ صَاحِبُ أَبِي بَكْرٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُسَيْلَةَ
وَالصُّنَابِحِيُّ صَاحِبُ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ يُقَالُ لَهُ الصُّنَابِحُ بْنُ
الْأَعْسَرِ - كَذَا قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ -

وَزَعَمَ الْبُخَارِيُّ أَنَّ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ وَبِهِمْ فِي هَذَا ، وَإِنَّمَا هُوَ أَبُو عَبْدِ
اللَّهِ : عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُسَيْلَةَ الصُّنَابِحِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ -
وهذا الحديث مرسل، وعبدالرحمن هو الذي روى عن أبي بكر
الصديق رضى الله عنه -

والصنابح بن الأعسر صاحب النبي ﷺ

قال الإمام أحمد: وقد رواه البخاري في التاريخ من حديث مالك
بن أنس هكذا ثم قال: وتابعه ابن أبي مريم عن أبي غسان عن
زيد -

ورواه إسحاق بن عيسى بن الطباع عن مالك، فقال: عن
الصنابحى أبى عبدالله، واحتج بآثار ذكرها على أن الأمر فيه كما
قال -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاکی کا بیان

باب: وضو کی فضیلت کا بیان

ترجمہ:

(۳۸۳) (عبداللہ صنابحی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " :جب بندہ وضو کرتا ہے اور کلی کرتا ہے تو اس کے منہ سے گناہ نکل جاتے ہیں اور جب ناک جھاڑتا ہے تو اس کے ناک سے گناہ نکل جاتے ہیں، جب اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے اس کے گناہ نکل جاتے ہیں حتیٰ کہ اس کی پلکوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں پھر جب اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ نکل جاتے ہیں، پھر جب اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے گناہ نکل جاتے ہیں حتیٰ کہ اس کے کانوں کے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ پھر جب اپنے پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کے گناہ نکل جاتے ہیں حتیٰ کہ اس کے قدموں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں، پھر اس کا مسجد کی طرف چلنا اور نماز ادا کرنا اس کے لیے اجر و ثواب میں زیادتی کا باعث ہے۔

(ب (یحییٰ بن معین عطاء بن یسار سے نقل فرماتے ہیں کہ عبداللہ صنابحیؒ جو ابو عبداللہ کے نام سے مشہور ہیں، ابوبکر عبدالرحمن بن عسیلہ کے اور قیس بن ابو حازم کے دوست ہیں اور وہ صنابح بن اعرس کے نام سے مشہور ہیں، یہ قول یحییٰ بن معین کا ہے۔ امام بخاری (رح)

فرماتے ہیں کہ مالک بن انس کو ان کے نام کے متعلق وہم ہوا ہے وہ تو ابو عبداللہ کے نام سے مشہور ہیں۔ عبدالرحمن بن عسیلہ کا نبی ﷺ سے سماع ثابت نہیں، یہ حدیث مرسل ہے عبدالرحمن نے سیدنا ابوبکر صدیقؓ سے روایت کیا ہے اور صنابح بن اعسر صحابی رسول ہیں۔ امام احمد (رح) کہتے ہیں کہ امام بخاری (رح) نے تاریخ میں مالک بن انس سے اسی طرح روایت کیا ہے پھر فرمایا: ان کی متابعت ابن ابی مریم عن ابو غسان عن زید کی ہے۔ امام مالک (رح) نے صنابحی ابو عبداللہ نے روایت بیان کی ہے، اس کی رواۃ اور آثار کو قابلِ حجت سمجھتا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Explaining the Virtue of Ablution

Hadith number: 382

Translation:

(382) It is narrated on the authority of Abdullah Sanabhi that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allaah be upon him) said: When a man performs ablution and

rinses his mouth, sins come out of his mouth, and when he blows his nose, sins come out of his nose. When he washes his face, his sins come out of his face, even from under his eyelids. Then when he washes his hands, the sins of his hands come out. Then when he wipes his head, the sins of his head come out, even the sins of his ears, then when he washes his feet, the sins of his feet come out, even the sins under his feet. Then walking towards the mosque and his praying is a cause of excess in his reward.

(B) Yahya ibn Mu'in narrates from Ata ibn Yasar that Abdullah Sanabhi, who is known as Abu Abdullah, is a friend of Abu Bakr Abdul Rahman ibn Asila and Qais ibn Abu Hazem and he is known as Sanabah ibn Asr. This is the saying of Yahya bin Mu'in. Imam Bukhari (may Allah have mercy on him) says that Malik ibn Anas (may Allah have mercy on him) is confused about his name. He is known as Abu Abdullah. Abdur-Rahman ibn

Asila's hearing from the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) is not proven. This hadeeth is mursal. Abdul Rahman narrated it from Abu Bakr Siddiq and Sanabah bin Asr is the companion of the Prophet. Imam Ahmad (may Allah be pleased with him) says that Imam Bukhari (may Allah be pleased with him) narrated the same from Malik ibn Anas (may Allah have mercy on him) in (his book) Tareekh and then he said: He is followed by Ibn Abi Maryam on the authority of Abu Ghassan on the authority of Zayd. Imam Malik (may Allah have mercy on him) has narrated the narration of Sanabahi Abu Abdullah. His narrations and sayings are considered to be justifiable.

[Sahih. Narrated by Ahmad 4/349]

Sunan Kubra Bayhaqi 383

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدٌ (٣٨٤)
بْنُ عَمْرِو الرَّزَّازُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
عُبَيْدِ الطَّنَافِيسِيِّ وَأَبُو بَدْرٍ: شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ
مِهْرَانَ الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -
((قَالَ)): اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا ، وَاعْلَمُوا أَنَّ مِنْ أَفْضَلِ ((. قَالَ أَبُو
بَدْرٍ)): مِنْ خَيْرِ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةَ ، وَلَنْ يُحَافِظَ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا
مُؤْمِنٌ ((.))

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: وضو کی فضیلت کا بیان
حدیث نمبر: 383

:ترجمہ

" (: ۳۸۴ (سیدنا ثوبانؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا سیدھے رہو اور تم شمار نہیں کیے جاؤ گے "جان لو بیشک افضل۔۔۔" ابو بدر نے یہ الفاظ بیان کیے ہیں کہ تمہارے اعمال میں سے بہتر نماز ہے اور وضو پر محافظت صرف مومن کرتا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Explaining the Virtue of Ablution

Hadith number: 383

Translation:

(383) It is narrated from Thawban that the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said: "Stay upright and you will not be counted." Know that it is indeed better ... Abu Badr has narrated the words that the best of your deeds is prayer and only a believer maintains his ablution.

[Hasan (Fair). Narrated by Ibn Majah 277]

Sunan Kubra Bayhaqi 384

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٣٨٥)
وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ قَالُوا أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ -
قَالُوا وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ
نَصْرٍ قَالَ قُرِئَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَكَ عَمْرُو بْنُ
الْحَارِثِ أَنَّ الْحَكَمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ
وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ
عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ قَالَ سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - يَقُولُ ((: مَنْ تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ فَاسْبَغَ الوُضُوءَ
ثُمَّ مَشَى إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَصَلَّاهَا مَعَ النَّاسِ أَوْ مَعَ الْجَمَاعَةِ أَوْ
فِي الْمَسْجِدِ عُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ)) -
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الطَّائِرِ وَغَيْرِهِ
عَنْ ابْنِ وَهْبٍ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: مکمل وضو کرنا
حدیث نمبر: 384

:ترجمہ

(۳۸۵) سیدنا عثمان بن عفانؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا، آپ ﷺ فرماتے تھے " :جس نے نماز کے لیے مکمل وضو کیا، پھر فرض نماز پڑھنے کے لیے چلا اور اس نے لوگوں کے ساتھ یا جماعت کے ساتھ یا مسجد میں نماز ادا کی تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Performing complete ablution

Hadith number: 384

Translation:

(384) Uthman ibn Affan (may Allaah be pleased with him) said: I heard from Messenger of Allah (peace and blessings of

Allah be upon him), he (the Prophet) said:
"Whoever performs complete ablutions for
prayers, then goes to perform the obligatory
prayers and prays with the people or in
congregation or in the mosque, his sins will be
forgiven."

[Sahih. Narrated by Muslim 232 and Nasai
857 Ahmad 1/64, 67, 71]

Sunan Kubra Bayhaqi 385

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَيَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ (٣٨٦)
مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ مَحْبُورِ الدَّهَّانِ قَالُوا أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَخْبَرَنَا ابْنُ

وَهَبٍ

قَالُوا وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ قَالَ قُرِئَ عَلَيَّ (ح)
ابْنِ وَهَبٍ أَخْبَرَكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ الْعَلَاءِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ
أَبِيهِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - أَنَّهُ قَالَ ((: أَلَا أُخْبِرُكُمْ
بِمَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ
عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ
بَعْدَ الصَّلَاةِ فَذَلِكَ الرِّبَاطُ فَذَلِكَ الرِّبَاطُ فَذَلِكَ الرِّبَاطُ))-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان

باب: مکمل وضو کرنا

حدیث نمبر: 385

ترجمہ:

(: ۳۸۶) سیدنا ابوہریرہ ^{رض} سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کیا میں تم کو نہ بتلاؤں کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور درجات بلند کر دیتا ہے ناگواری (یعنی سخت سردی) میں مکمل وضو کرنا، مسجدوں کی طرف زیادہ جانا اور ایک نماز کے بعد دوسری کا انتظار کرنا: یہ رباط ہے، تین مرتبہ فرمایا (رباط کا معنی سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے۔)

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Performing complete ablution

Hadith number: 385

Translation:

(385) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him)

that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: Shall I not tell you that by which Allah forgives sins and raises one's ranks? Performing complete ablution in difficulty (i.e severe cold), going to mosques more and waiting for the next prayer after observing a prayer. That is the Ribat, (he said this) three times (Ribat means guarding the borders).

[Sahih. Narrated by Muslim 251 and Nasai 143 and Tirmidhi 51 and Ahmad 2/277, 303]

Sunan Kubra Bayhaqi 386

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ (۳۸۷)
إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ
وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ الْعَبْدِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا
مَالِكٌ فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ.
رَوَاهُ مُسْلِمٌ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ عَنِ إِسْحَاقَ بْنِ مُوسَى.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: مکمل وضو کرنا
حدیث نمبر: 386

:ترجمہ

(۳۸۷) مالک نے اس حدیث کو پچھلی روایت کی طرح بیان کیا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Performing complete ablution

Hadith number: 386

Translation:

(386) Malik has narrated this hadith like the previous narration.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 387

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ (٣٨٨)
الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ
قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ

وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ :عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ (ح)
الْمِهْرَجَانِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ :مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمُرَكِّي حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنجِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ
:الْعَلَاءِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - خَرَجَ إِلَى الْمَقْبَرَةِ فَقَالَ ((:السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ
قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ ، وَدِدْتُ أَنِّي قَدْ
رَأَيْتُ إِخْوَانَنَا)) (- قَالُوا :يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَسْنَا بِإِخْوَانِكَ؟ قَالَ)) :بَلْ
أَنْتُمْ أَصْحَابِي ، وَإِخْوَانُنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى
الْحَوْضِ)) (- قَالُوا :يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ يَأْتِي بَعْدَكَ
مِنْ أُمَّتِكَ؟ قَالَ :أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ فِي
خَيْلٍ دُهُمٍ بِهِمْ ، أَلَا يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟ - قَالُوا :بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ -
:قَالُوا)) :فَأِنَّهُمْ يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْوُضُوءِ ، وَأَنَا
فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ فَلْيُذَادَنَّ رِجَالٌ عَنِ حَوْضِي كَمَا يُذَادُ
الْبَعِيرُ الضَّالُّ أَنْادِيَهُمْ :أَلَا هَلُمَّ أَلَا

بُئِمَّ إِلَّا بُلْمًا ثَلَاثًا فَيُقَالُ إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُوا فَأَقُولُ فَسُخِّقًا فَسُخِّقًا فَسُخِّقًا))۔

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: مکمل وضو کرنا
حدیث نمبر: 387

:ترجمہ

(۳۸۸) (سیدنا ابوہریرہ ^{رض} سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ
مُ قُبْرِسْتَانِ كِي طَرْفِ نَكَلِي تُو يِه دَعَا يَرْهِي " :السَّلَامُ عَلَيْكَ
قَوْمِ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ " میں پسند کرتا
ہوں کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ صحابہ نے عرض کیا
اے اللہ کے رسول! کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ ﷺ نے
فرمایا: تم میرے صحابہ ہو اور میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی
تک نہیں آئے اور میں ان کا حوض پر انتظار کروں گا، صحابہ
نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ ﷺ اپنی امت کے اس
شخص کو کس طرح پہچانو گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "مجھے
بتاؤ، اگر ایک شخص کے پاس انتہائی سیاہ گھوڑوں میں سفید
پیشانی والے ہوں تو

کیا وہ اپنے گھوڑے کو پہچان لے گا؟ انہوں نے کہا: کیوں نہیں، اے اللہ کے رسول! آپ ﷺ نے فرمایا: بیشک وہ قیامت دن آئیں گے اور ان کے وضو کے اعضا چمک رہے ہوں گے اور میں ان کا حوض پر انتظار کروں گا اور کچھ لوگ میرے حوض سے اس طرح ہٹا دیے جائیں گے، جس طرح آوارہ اونٹ ہٹایا جاتا ہے، میں ان کو بلاؤں گا کہ آ جاؤ، آ جاؤ، آ جاؤ تین مرتبہ کہوں گا تو کہا جائے گا: انہوں نے آپ کے بعد دین کو بدل دیا تو میں کہوں گا: دور رہو، دور رہو، دور رہو۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Performing complete ablution

Hadith number: 387

Translation:

(387) It is narrated from Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that when the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) went out to the graveyard, he recited the following supplication:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَآحِقُونَ "

(Peace be upon you! The abode of the believing people and we, if God so wills, are about to join you)

Then he said " I would have loved to see my brothers"

The companions said: O Messenger of Allah! Aren't we your brothers? He said: You are my companions and my brothers are those who have not yet come and I will wait for them at the cistern. The companions said: O

Messenger of Allah! How will you recognize this person of your ummah? He said: Tell me, if a man has a horse with white foreheads among horses who are very black, will he recognize his horse? They said: Why not, O Messenger of Allah! He said: Surely. They will come on the Day of Resurrection and their limbs will be shining brightly (due to ablution) and I will wait for them at the cistern and

some people will be removed from my cistern like a wandering camel is removed, I will call them I will say three times, "Come, come, come." It will be said: They changed the religion after you. Then I will say: "Stay away, stay away, stay away."

[Sahih. Narrated by Muslim 249 and Nasai 150 and Ibn Majah 4306 and Ahmad 2/300, 375, 408]

Sunan Kubra Bayhaqi 388

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ (٣٨٩)
بْنِ مُوسَى حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ يَعْنِي
إِسْحَاقَ بْنَ مُوسَى حَدَّثَنَا مَعْنُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ -
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُوسَى الْأَنْصَارِيِّ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: مکمل وضو کرنا
حدیث نمبر: 388

ترجمہ:

(٣٨٩) (مالک نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Performing complete ablution

Hadith number: 388

Translation:

(388) Malik (may Allah have mercy on him) has (also) narrated this (previous) hadith.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 389

Arabic Text:

:أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (٣٩٠)
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّمِيمِيُّ
أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ
كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ : أَنَّهُ دَفَعَ مَعَ النَّبِيِّ -
عَشِيَّةَ عَرَفَةَ حَتَّى عَدَلَ إِلَى الشَّعْبِ يَقْضِي حَاجَتَهُ فَجَعَلَ
أُسَامَةُ يَصُبُّ عَلَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ فَقَالَ لَهُ أُسَامَةُ : أَلَا تُصَلِّي يَا
رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) : ((:الصَّلَاةُ أَمَامَكَ)) -
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَامٍ عَنْ يَزِيدِ بْنِ
هَارُونَ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب : پاکی کا بیان
باب : اپنے ساتھی کو وضو کرانے کا بیان
حدیث نمبر : 389

ترجمہ:

(۳۹۰) (اسامہ بن زید رض سے روایت ہے کہ وہ نبی ﷺ کے ساتھ عرفہ کی شام لوٹے اور آپ وادی کی طرف چلے گئے، اپنی حاجت کو پورا کیا تو اسامہ رض آپ ﷺ کے لیے پانی ڈالنا شروع ہوئے اور آپ ﷺ وضو کر رہے تھے، آپ ﷺ سے اسامہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا آپ ﷺ نماز ادا نہیں کریں گے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: نماز آگے ہے (یعنی نماز کا وقت ابھی آگے ہے)۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The statement on pouring water for some elses ablution

Hadith number: 389

Translation:

(389) It is narrated from Usama bin Zayd (may Allah be pleased with him) that he returned to the evening of 'Arafah with the Prophet (peace and blessings of Allaah be

upon him) and he went to the valley. After fulfilling his need, Usama started pouring water for him and he was performing ablution. Usama said to him: O Messenger of Allah Won't you pray? So he said: The prayer is ahead (i.e the time for prayer is still ahead). [Sahih]

The full and lengthy hadith was narrated by Bukhari 139 and Muslim 1280 and Abu Dawud 1921 and Ibn Majah 3019 and Ahmad 5/200, 202, 208, 210 and Darimi 1922.

Sunan Kubra Bayhaqi 390

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ (٣٩١)
الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو
الْأَحْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ بِلَالٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -ذَاتَ لَيْلَةٍ إِذْ نَزَلَ فَقَضَى حَاجَتَهُ
ثُمَّ جَاءَ ، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنْ إِدَاوَةٍ كَانَتْ مَعِيَ ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ
عَلَى خُفَيْهِ-

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ
مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاکی کا بیان

باب: اپنے ساتھی کو وضو کرانے کا بیان

حدیث نمبر: 390

:ترجمہ

(۳۹۱) (مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھا۔ اچانک آپ ﷺ اترے اور اپنی حاجت پوری کی، پھر آئے تو میں نے ڈول سے آپ ﷺ کے لیے پانی ڈالا جو میرے پاس تھا، آپ ﷺ نے وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسح کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The statement on pouring water for some elses ablution

Hadith number: 390

Translation:

(390) Mughirah ibn Shu'bah says that I was with the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) one night. Suddenly he came down and fulfilled his need, then when he came I poured water for him from the bucket which I had, he performed ablution and wiped his socks.

[Sahih. Narrated by Bukhari 182, 203 and Muslim 274 and Nasai 124 and Ibn Majah 545]

Sunan Kubra Bayhaqi 391

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ: الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّوْذِبَارِيُّ أَخْبَرَنَا (٣٩٢)
أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا حَيَوَةُ بْنُ شَرِيحٍ
حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ عَنْ بَحِيرٍ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنْ خَالِدٍ يَعْنِي ابْنَ مَعْدَانَ عَنْ
بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - ﷺ - : أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي
وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لَمْعَةٌ قَدَرِ الدِّرْهِمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ -
ﷺ - أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ.
كَذَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَهُوَ مُرْسَلٌ - وَرَوَى فِي حَدِيثٍ مَوْصُولٍ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: وضو میں فرق کرنا
حدیث نمبر: 391

:ترجمہ

(۳۹۲) ابن معدان کسی صحابی سے نقل فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اس کے پاؤں پر درہم کے برابر جگہ تھی جس کو پانی نہیں لگا تھا تو نبی ﷺ نے اس کو وضو اور نماز لوٹانے کا حکم دیا۔
(ب) (اسی طرح مرسل روایت میں ہے اور موصول میں بھی۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Making a difference in ablution

Hadith number: 391

Translation:

(391) Ibn Madan narrates from a Companion that the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) saw a man praying. There was an area, equal to a dirham, on his foot which water did not touch (remained unwashed), so the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) ordered him

to repeat his ablution and prayer.

(B) This is also (narrated) in a mursal hadith and a mawsul hadith.

[Sahih. Narrated by Abu Dawud 175 and Ahmad 1/23]

Sunan Kubra Bayhaqi 392

Arabic Text:

كَمَا أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهْ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ (٣٩٣)
دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا هَارُونَ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ
عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ قَتَادَةَ بْنَ دِعَامَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا
، أَنَسُ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - قَدْ تَوَضَّأَ
وَتَرَكَ عَلَى قَدَمِهِ مِثْلَ مَوْضِعِ الظُّفْرِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -
((ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ)) :- :-
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَلَيْسَ بِذَا الْحَدِيثِ بِمَعْرُوفٍ وَلَمْ يَرَوْهُ عَنْ جَرِيرِ
بْنِ حَازِمٍ إِلَّا ابْنُ وَهْبٍ يَعْنِي بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان
باب: وضو میں فرق کرنا
حدیث نمبر: 392

:ترجمہ

(۳۹۳) سیدنا انسؓ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی ﷺ کے پاس آیا، اس نے وضو کیا ہوا تھا اور اس کے پاؤں پر ناخن کے برابر جگہ خشک رہ گئی تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا : واپس جا اور اچھی طرح وضو کر۔
(ب (امام ابوداؤد) رح (فرماتے ہیں کہ یہ حدیث معروف نہیں ہے اور ابن وہب سے جریر بن حازم نقل کرتا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Making a difference in ablution

Hadith number: 392

Translation:

(392) Anas (may Allah be pleased with him) narrates that a man came to the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him), he had performed ablution left a small part, equal to the space of a nail, on his foot dry. The Prophet (peace and blessings of Allah be

upon him) said: Go back and perform ablution well.

(B) Imam Abu Dawud ((may Allah have mercy on him) says that this hadith is not well known and Jarir bin Hazem quotes from Ibn Wahb. [Sahih. Narrated by Muslim 243 and Abu Dawud 173 and Ibn Majah 665, 666 and Ahmad 3/146]

Sunan Kubra Bayhaqi 393

Arabic Text:

قَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا (٣٩٤)
يُونُسُ وَحُمَيْدٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - بِمَعْنَى حَدِيثِ قَتَادَةَ
وَهَذَا مُرْسَلٌ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَدْ رَوَى عَنْ مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ
الْجَزْرِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -
نَحْوَهُ قَالَ)) : اِرْجِعْ فَأَحْسِنْ وَضَوِّ كَ . فَرَجَعَ ثُمَّ صَلَّى ((-
قَالَ الشَّيْخُ أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ
بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زَكَرِيَّا حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ : أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَةَ الْبَرَّازُ
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ -
رَوَاهُ مُسْلِمٌ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ شَيْبِ
يَعْنَى عَنِ الْحَسَنِ ، وَرَوَاهُ أَبُو سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ بِخِلَافِ مَا رَوَاهُ أَبُو
الزُّبَيْرِ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاكى كا بيان

باب: وضو ميں فرق كرنا

حديث نمبر: 393

:ترجمہ

(: ۳۹۴) سيدنا عمرؓ سے اسى طرح منقول كه آپ ﷺ نے فرمايا
واپس جا اور اچھى طرح وضو كر "وہ واپس گيا، پھر نماز"
ادا كى۔

(ب) شيخ كہتے ہيں كه معقل نے پچھلى حديث كى طرح روايت
بيان كى ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Making a difference in ablution

Hadith number: 393

Translation:

(393) It is narrated from Syeduna Umar (may
Allah be pleased with him) in the same way

that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "Go back and perform ablution properly". He went back, then offered prayer.

(B) The Shaykh says that Ma'qil has narrated the same hadith as in the previous hadith.

[Sahih. Narrated by Muslim 243 and Abu Dawud 173 and Ibn Majah 665, 666 and Ahmad 3/146]

Sunan Kubra Bayhaqi 394

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ: مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ (٣٩٥)
بْنُ عَمْرٍو بْنِ مُحَمَّدٍ الْعِرَاقِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا
عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي عَيْسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ
الْعَدَنِيُّ عَنْ سُفْيَانَ يَعْنِي الثَّوْرِيَّ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَجُلًا يَتَوَضَّأُ
فَبَقِيَ فِي رِجْلِهِ لُمْعَةٌ فَقَالَ: أَعِدِ الْوَضُوءَ -
وَعَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّادِيِّ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ مِثْلَهُ -

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ أَمْرَهُ بِالْوَضُوءِ كَانَ عَلَى (ق)
طَرِيقِ الْإِسْتِحْبَابِ وَإِنَّمَا الْوَاجِبُ غَسْلُ تِلْكَ اللَّمْعَةِ فَقَطُّ

Urdu Translation:

سنن كبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: وضو میں فرق کرنا

حدیث نمبر: 394

ترجمہ:

(۳۹۵) سیدنا جابرؓ فرماتے ہیں کہ عمر بن خطابؓ نے ایک شخص کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، اس کے پاؤں میں ایک جگہ خشک رہ گئی تو سیدنا عمرؓ نے فرمایا: دوبارہ وضو کر۔ (حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ آپ نے وضو کرنے کا جو حکم دیا وہ مستحب ہے اور صرف پاؤں دھونا واجب تھا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Making a difference in ablution

Hadith number: 394

Translation:

(394) Jabir says that Umar ibn al-Khattab (may Allah be pleased with him) saw a man performing ablution, and his foot was dry in one place. Then Umar (may Allah be pleased

with him) said: Perform ablution again.

(B) It is narrated from Hazrat Umar (may Allah be pleased with him) that the command he gave to perform ablution is mustahab (recommended) and it was obligatory to wash only the feet.

[Hasan (Fair)]

Sunan Kubra Bayhaqi 395

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَارِثِ (٣٩٦)
الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنِ الْحَجَّاجِ وَعَبْدِ
الْمَلِكِ عَنْ عَطَائٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ اللَّيْثِيِّ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ
الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَأَى رَجُلًا وَبِظَهْرِ قَدَمِهِ لُمَعَةٌ لَمْ
يُصِيبْهَا الْمَاءُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَبْهَذَا الْوُضُوءُ تَحْضُرُ الصَّلَاةَ؟
فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْبَرْدُ شَدِيدٌ وَمَا مَعِيَ مَا يُدْفِنُنِي. فَرَقَّ لَهُ بَعْدَ
مَا هَمَّ بِهِ فَقَالَ لَهُ: اغْسِلْ مَا تَرَكَتَ مِنْ قَدَمِكَ، وَأَعِدِ الصَّلَاةَ.
وَأَمَرَ لَهُ بِخَمِيصَةٍ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
کتاب: پاکی کا بیان
باب: وضو میں فرق کرنا
حدیث نمبر: 395

ترجمہ:

(۳۹۶) سیدنا عمر بن خطابؓ نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے پاؤں پر کچھ جگہ کو پانی نہیں پہنچا تھا تو آپؓ نے فرمایا: اس وضو کے ساتھ تو نماز میں حاضر ہوگا؟ اس نے عرض کیا: اے امیر المومنین! سخت سردی ہے اور اس کی روک تھام کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپؓ نے اسے باریک چیز دی جب کہ وہ نماز کا ارادہ کرچکا تھا اور فرمایا: اپنے پاؤں کی وہ جگہ دھو جو تو نے چھوڑی ہے اور نماز دوبارہ لوٹا اور اپنی چادر اس کو دینے کا حکم دیا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Making a difference in ablution

Hadith number: 395

Translation:

(395) Umar ibn al-Khattab (may Allah be pleased with him) saw a man, water had not reached some place on his feet, so he said: Will you attend the prayers with this ablution?

He said: O Leader of the Believers! It is very cold and I have nothing to prevent it. He gave him a small thing when he had intended to pray and said: Wash the place of your feet which you have left and repeat the prayer and ordered to give him his chador (sheet).

[Daif (Weak). Narrated by Al-Daraqutni 1/109]

Sunan Kubra Bayhaqi 396

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ حَمِّ الْمِهْرَجَانِيُّ الْفَقِيهُ (٣٩٧)
حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلٍ بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِشْرِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ
الْحُسَيْنِ الْبَيْهَقِيُّ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ
نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَوَضَّأَ فِي السُّوقِ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ
وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ بَعْدَ مَا
جَفَّ وُضُوئُهُ وَصَلَّى.
وَبِذَا صَحِيحٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَمَشْهُورٌ عَنِ قُتَيْبَةَ بِهَذَا اللَّفْظِ
وَكَانَ عَطَائٌ لَا يَرَى بِتَفْرِيقِ الْوُضُوئِ بَأْسًا وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ (ق)
وَالنَّخَعِيِّ وَأَصَحُّ قَوْلِي الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: وضو میں فرق کرنا
حدیث نمبر: 396

ترجمہ:

(۳۹۷) الف (نافع سے روایت ہے کہ ابن عمرؓ نے بازار میں وضو کیا تو اپنے ہاتھ، چہرے اور بازو تین تین مرتبہ دھوئے پھر مسجد میں داخل ہوئے اور اپنے موزوں پر مسح کیا اور ان کا وضو خشک ہو چکا تھا، پھر نماز ادا کی۔

ب (یہ روایت صحیح ہے، اس کے راوی ابن عمرؓ ہیں اور قتیبہ سے ان الفاظ کے ساتھ مشہور ہے۔

ج (عطاء تابعی وضو کی تفریق میں حرج نہیں سمجھتے تھے، یہی قول حسن، نخعی کا ہے اور امام شافعی (رح) کے دو قولوں میں سے زیادہ صحیح یہی ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Making a difference in ablution

Hadith number: 396

Translation:

(396) (a) It is narrated from Nafi 'that Ibn Umar (may Allah be pleased with him)

performed ablution in the bazaar (marketplace) and washed his hands, face and arms three times, then entered the mosque and wiped his socks and his ablution had dried. Then he prayed.

(B) This narration is sahih, its narrator is Ibn Umar (may Allah be pleased with him) and it is known from Qutaybah with these words.

(C) Ata Tabi did not consider it wrong to differentiate between ablutions. This is the view of Hasan and Nakha'i and this is the more correct of the two statements of Imam Shafi'i (may Allah have mercy on him).

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 397

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِيُّ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ (٣٩٨)
بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ لَيْثٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ سَابِطٍ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ أَوْ عَنْ أَخِي أَبِي أَمَامَةَ قَالَ
رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - قَوْمًا عَلَى أَعْقَابِ أَحَدِيهِمْ مِثْلُ مَوْضِعِ الدَّرِيمِ
أَوْ مِثْلُ مَوْضِعِ ظُفْرِ لَمْ يُصِبْهُ الْمَاءُ قَالَ فَجَعَلَ يَقُولُ ((: وَيْلٌ
لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ)) -

قَالَ : وَكَانَ أَحَدُهُمْ يَنْظُرُ فَإِذَا رَأَى بَعْقِيَهُ مَوْضِعًا لَمْ يُصِبْهُ
الْمَاءُ أَعَادَ وَضُوءَهُ هـ

ق (وَبِذَا إِنَّ صَحَّ فَشَيْئٌ اخْتَارُوهُ لِأَنْفُسِهِمْ وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ
أَعَادَ وَضُوءَهُ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ فَقَطُّ

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: وضو میں فرق کرنا

حدیث نمبر: 397

ترجمہ:

(۳۹۸) (سیدنا ابو امامہ رض یا ان کے بھائی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دیکھا، ان کی ایڑیوں پر درہم یا ناخن کے برابر جگہ پر پانی نہیں پہنچا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایڑیوں کے لیے آگ کی ہلاکت ہے۔ راوی کہتا ہے کہ ان میں سے ہر ایک ایڑیوں کی جگہ کو دیکھتا اگر ان کو پانی نہ پہنچا ہوتا تو اپنا وضو دو بارہ کرتا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Making a difference in ablution

Hadith number: 397

Translation:

(397) It is narrated from Abu Umamah or his brother that the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) saw people and water did not reach their heels in a place, equal to the size of a dirham or nail so the

Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "Woe to the heels because of hell-fire." The narrator says that each of them would look at the place of the heels and if water had not reached there, they would have performed their ablution again.

[Daif (Weak). Narrated by Al-Daraqutni 1/108]

Sunan Kubra Bayhaqi 398

Arabic Text:

ق (اِخْتَجَّ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى بِظَاهِرِ الْكِتَابِ ثُمَّ بِحَدِيثِ
عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ فِي صِفَةِ الْوُضُوءِ وَقَدْ مَضَى ذِكْرُهُ. وَاجْتَجَّ
أَيْضًا بِمَا

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْعَنْزِيُّ (٣٩٩)
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ فِيمَا قَرَأَ عَلَيَّ
مَالِكٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ
قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ - حِينَ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ يُرِيدُ
الصَّافَا يَقُولُ: نَبْدًا بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ - فَبَدَأَ بِالصَّافَا.

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ أَخْبَرَنَا
بِشَامُ بْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ حَدَّثَنَا
حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَذَكَرَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ
الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَغَيْرِهِ عَنْ حَاتِمِ
بْنِ إِسْمَاعِيلَ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: ترتیب سے وضو کرنا

حدیث نمبر: 398

ترجمہ:

(۳۹۹) سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی (کا ارادہ رکھتے تھے: ہم وہاں سے شروع کریں گے جہاں سے اللہ نے ابتدا کی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا سے ابتدا کی۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Performing Ablution in Order

Hadith number: 398

Translation:

(398) Jabir bin Abdullah (may Allah be pleased with him) said: I heard the Messenger of Allah (peace and blessings of

Allah be upon him) when he came out of the mosque and he intended to go to Safa (hill): "We will start from where Allah began with." Then he started from Safa (hill).

[Sahih]

The full and lengthy hadith was narrated by Muslim 1218 and Abu Dawud 1905 and Ibn Majah 3074 and Tabarani in Mujam Kabeer 1/264.

Sunan Kubra Bayhaqi 399

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ بْنِ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ (٤٠٠)
أَحْمَدَ الطَّبْرَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا الْفَرْيَابِيُّ - قَالَ
سُلَيْمَانُ وَحَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - : اِبْدِئْ وَا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ {إِنَّ الصَّفَا
وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: ١٥٨] -]

ترجمہ:

(٤٠٠) (سیدنا جابر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا " : اس چیز کے ساتھ شروع کرو جس سے اللہ نے شروع کیا ہے ، {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: ١٥٨] -]

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Performing Wudhu in Order

Hadith number: 399

Translation:

(399) Jabir ibn Abdullah (may Allah be pleased with him) said: The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: “Start with what Allah has started.

{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ}

{Indeed, as-Safa and al-Marwa are among the symbols of Allah}

[Surah Baqarah 2:158]

[Sahih]

The full and lengthy hadith was narrated by Muslim 1218 and Abu Dawud 1905 and Ibn Majah 3074 and Tabarani in Mujam Kabeer 1/264.

Sunan Kubra Bayhaqi 400

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ (٤٠١)
عَلِيِّ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَارِمٍ الْغِفَارِيُّ حَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ
السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ أَتَاهُ رَجُلٌ
فَقَالَ: أَبْدَأُ بِالصَّفَا قَبْلَ الْمَرْوَةِ أَوْ بِالْمَرْوَةِ قَبْلَ الصَّفَا؟ وَأُصَلِّي
قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ أَوْ أَطُوفُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ؟ وَأَخْلِقُ قَبْلَ أَنْ أُذْبِحَ
أَوْ أُذْبِحُ قَبْلَ أَنْ أُخْلِقَ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: خُذْ ذَلِكَ مِنْ كِتَابِ
اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُحْفَظَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {إِنَّ الصَّفَا
وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ {فَالصَّفَا قَبْلَ الْمَرْوَةِ، وَقَالَ تَعَالَى {وَلَا
تَخْلُقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ {الذَّبْحُ قَبْلَ
الْحَلْقِ، وَقَالَ تَعَالَى {وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ
السُّجُودِ {الطُّوَافُ قَبْلَ الصَّلَاةِ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان

باب: ترتیب سے وضو کرنا

حدیث نمبر: 400

ترجمہ:

(۴۰۱) (سیدنا ابن عباسؓ سے منقول ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور عرض کیا: میں صفا سے شروع کروں یا مروہ سے اور میں طواف کرنے سے پہلے نماز پڑھوں یا بعد میں اور ذبح کرنے سے پہلے حلق کروں یا بعد میں؟ سیدنا ابن عباسؓ نے فرمایا: اللہ کی کتاب پر عمل کر بلاشبہ یہ زیادہ لائق ہے کہ یاد کی جائے) یعنی اس کے احکامات پر عمل کیا جائے (اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں): { إِنَّ الصَّافَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ { پس صفا مروہ سے پہلے ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ { (ذبح حلق سے پہلے ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا): { وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ { (طواف نماز سے پہلے ہے) حلق: سر منڈوانا۔)

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Performing ablution in Order

Hadith number: 400

Translation:

(400) It is narrated from Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) that a man came to him and said: Should I start with Safa or Marwah and should I offer prayers before performing Tawaf or after and should I shave before slaughtering or after slaughtering? Ibn Abbas (may Allaah be pleased with him) said: "Follow the Book of Allah, it is certainly more worthy to be remembered (i.e, to follow its commands). Allah says (in the Quran):

{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ}

{Indeed, as-Safa and al-Marwa are among the symbols of Allah}

[Surah Baqarah 2:158]

Safa is before Marwa and Allah says:

{وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ}

{And do not shave your heads until the sacrificial animal has reached its place of slaughter}

[Surah Baqarah 2:196]

And slaughtering is before shaving and Allah says:

{ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ }

{and purify My House for those who perform Tawaf and those who stand [in prayer] and those who bow and prostrate}

[Surah Hajj 22:26]

(And) Tawaf is before praying.

[Daif (Weak). Narrated by Hakim 2/297]

Sunan Kubra Bayhaqi 401

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عُبَيْدِ (٤٠٢)
حَدَّثَنَا تَمْتَمٌ حَدَّثَنَا أَبُو حُدَيْفَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحِ بْنِ أَبِي طَاهِرٍ أَخْبَرَنَا جَدِّي يَحْيَى بْنُ
مَنْصُورِ الْقَاضِي حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ

إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكَيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ
الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرْفَةَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ
خَطَبَ رَجُلٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَقَالَ: مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

: فَقَدْ رَشِدَ، وَمَنْ يَعْصِيهِمَا فَقَدْ غَوَى. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -

((بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ، وَمَنْ يَعْصِي اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَى))-

بَدَأَ لَفْظُ حَدِيثِ وَكَيْعِ وَحَدِيثِ أَبِي حُدَيْفَةَ مُخْتَصَرٌ فَقَالَ: قُمْ، بِئْسَ
الْخَطِيبُ أَنْتَ. وَلَمْ يَذْكُرْ مَا بَعْدَهُ.

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرِهِ
عَنْ وَكَيْعِ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: ترتیب سے وضو کرنا

حدیث نمبر: 401

ترجمہ:

(۴۰۲) (سیدنا عدی بن حاکمؓ فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ کے پاس ایک شخص نے خطبہ دیا اور کہا: جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس نے ہدایت پائی اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہوا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تو برا خطیب ہے اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ گمراہ ہوا۔ یہ لفظ وکیع والی حدیث کے ہیں، حدیث ابو حذیفہ مختصر ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: تو برا خطیب ہے۔ اس کے بعد والے الفاظ ذکر نہیں کیے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Performing Wudhu in Order

Hadith number: 401

Translation:

(401) Uday ibn Hakim (may Allaah be pleased with him) said: A man delivered a sermon to the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) and said: Whoever obeys Allaah and His Messenger has been guided, and whoever disobeys both of them has gone astray. So the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: You are a bad preacher and (say) whoever disobeys Allah and His Messenger has gone astray. These words belong to the hadeeth of Waqi'ah. The hadeeth of Abu Hudhaifah is short that (in it is that) the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "You are a bad preacher." The words after this are not mentioned.

[Sahih. Narrated by Muslim 870 and Nasai 3281 and Abu Dawud 1099, 4981 and Ahmad 4/256, 379]

Sunan Kubra Bayhaqi 402

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ (٤٠٣)
إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا
أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - يُحِبُّ النَّيْمَانَ فِي طُهُورِهِ إِذَا
تَطَهَّرَ ، وَفِي تَرَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلَ ، وَفِي انْتِعَالِهِ إِذَا انْتَعَلَ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: دائیں طرف سے شروع کرنا مسنون ہے

حدیث نمبر: 402

ترجمہ:

(۴۰۳) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی ﷺ اپنے وضو میں دائیں طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے، جس وقت آپ ﷺ وضو کرتے اور جب آپ ﷺ کنگھی کرتے یا جب جوتا پہنتے تو بھی (دائیں جانب کو پسند فرماتے تھے)۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: It is prescribed to start from the right side

Hadith number: 402

Translation:

(402) Ayesha (may Allah be pleased with her) states that the Prophet (peace and

blessings of Allah be upon him) used to like to start from the right side in his ablution, when he used to perform ablution and when he used to comb or when he used to wear shoes (he preferred to start from the right side).

[Sahih. Narrated by Bukhari 168, 426, 5380, 5854, 5926 and Muslim 268 and Nasai 421, 5062, 5242 and Abu Dawud 4140 and Tirmidhi 608 and Ibn Majah 401 and Ahmad 6/94, 130, 187, 188]

Sunan Kubra Bayhaqi 403

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ يُوسُفَ قَالَ (٤٠٤)
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ حَدَّثَنَا
أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ : أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ - كَانَ يُعْجِبُهُ النَّيْمُنُ مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ : فِي
تَرْجُلِهِ وَتَنَعُلِهِ وَوُضُوءِهِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي
الْوَلِيدِ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان

باب :دائیں طرف سے شروع کرنا مسنون ہے

حدیث نمبر :403

ترجمہ:

(۴۰۴) (اسی سند سے روایت ہے کہ نبی ﷺ ہر کام میں جہاں تک ممکن ہوتا دائیں طرف سے شروع کرنے (کو پسند کرنے تھے، جوتا پہننے، کنگھی کرنے اور وضو کرنے میں۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: It is prescribed to start from the right side

Hadith number: 403

Translation:

(403) It is narrated from the same chain of transmission that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) used to like (to start from) the right side in every thing as much as possible, in wearing shoes, combing

and performing ablution.

[Sahih. Narrated by Bukhari 168, 426, 5380, 5854, 5926 and Muslim 268 and Nasai 421, 5062, 5242 and Abu Dawud 4140 and Tirmidhi 608 and Ibn Majah 401 and Ahmad 6/94, 130, 187, 188]

Sunan Kubra Bayhaqi 404

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي (٤٠٥)
:وَأَبُو نَصْرِ: أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْفَامِي قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنْبَاعِ: رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ الْمِصْرِيُّ
حَدَّثَنَا عَمْرُو يَعْنِي ابْنَ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُبَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنِ
الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -
ﷺ - ((: إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَأَبْدِئُوا بِأَيَّامِنِكُمْ)) (-).

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان

باب :دائیں طرف سے شروع کرنا مسنون ہے

حدیث نمبر :404

:ترجمہ

(: ۴۰۵) سیدنا ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا
جب تم لباس پہنو اور جب تم وضو کرو تو دائیں طرف سے "
شروع کرو۔"

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: It is prescribed to start from the right
side

Hadith number: 404

Translation:

(404) It is narrated from Abu Hurayrah (may
Allah be pleased with him) that the Prophet
(peace and blessings of Allah be upon him)

said: “When you wear clothes and when you perform ablution, start from the right side.”
[Sahih. Narrated by Abu Dawud 4141 and Ibn Majah 402 and Ahmad 2/354]

Sunan Kubra Bayhaqi 405

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ (٤٠٦)
بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ
حَدَّثَنَا مَرْوَانُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ أَبِي خَالِدٍ عَنْ زِيَادٍ
يَعْنِي مَوْلَى بَنِي مَخْزُومٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
فَسَأَلَهُ عَنِ الْوُضُوءِ فَقَالَ : أبدأُ بِالْيَمِينِ أَوْ بِالشِّمَالِ ؟ فَأَضْرَطَّ
عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِهِ ثُمَّ دَعَا بِمَائٍ ، فبدأُ بِالشِّمَالِ قَبْلَ
الْيَمِينِ -

وَرَوَاهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ زِيَادٍ قَالَ قَالَ (ت)
عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : مَا أَبَالِي لَوْ بَدَأْتُ بِالشِّمَالِ قَبْلَ الْيَمِينِ إِذَا
تَوَضَّأْتُ -

وَرَوَاهُ عَوْفٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ بِنْدٍ قَالَ قَالَ عَلِيُّ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا أَبَالِي إِذَا أَتَمَمْتُ وُضُوئِي بِأَيِّ أَعْضَائِي بَدَأْتُ-
 وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ بِمَا أُطْلِقَ فِي هَذَا مَا فَسَّرَهُ فِي (ق)
 رَوَايَةِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ عَلَيَّ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ-
 رَوَى أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنِ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ عَوْفٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ
 بْنِ عَمْرٍو بْنِ بِنْدٍ هَذَا الْحَدِيثَ ثُمَّ قَالَ قَالَ عَوْفٌ وَلَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ
 عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: بائیں طرف سے شروع کرنے کی رخصت
 حدیث نمبر: 405

:ترجمہ

(۴۰۶) (الف) (بنی مخزوم کے غلام زیاد فرماتے ہیں: ایک
 شخص سیدنا علیؑ کے پاس آیا اور وضو کے متعلق سوال کیا
 تو سیدنا علیؑ نے فرمایا: دائیں طرف سے یا بائیں طرف سے
 شروع کر، علیؑ نے آواز سے گوز مارا، پھر پانی منگوا یا اور
 دائیں کے بجائے بائیں سے شروع کیا۔
 (ب) (سیدنا علیؑ فرماتے ہیں: میں اس کی پروا نہیں

کرتا، اگر میں دائیں سے پہلے بائیں سے شروع کروں۔
(ج) سیدنا علیؑ فرماتے ہیں: میں پروا نہیں کرتا جب میں
مکمل وضو کروں جس اعضاء سے بھی میں شروع کروں۔
(د) (یہ احتمال ہے کہ اس سے مراد حفص بن غیاث کی حدیث
ہے۔ واللہ اعلم

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Permission to start from the left

Hadith number: 405

Translation:

(405) (a) The slave of Bani Makhzoom, Ziyad say: A man came to Ali (may Allah be pleased with him) and asked him about ablution. Ali (may Allah be pleased with him) said: Start from the right side or the left side, Ali (may Allah be pleased with him) then called for water and started from the left side instead of the right.

(B) Syeduna Ali (may Allah be pleased with him) says: I do not care if I start from the left side before the right.

(C) Syeduna Ali (may Allah be pleased with him) says: I do not care, when I perform complete ablution, with which limb I start.

(D) It is probable that this refers to the hadith of Hafs ibn Ghiyas. Allah knows best [Hasan Li Ghayrihi (Fair due to external evidence). Narrated by Al-Daraqutni 1/88]

Sunan Kubra Bayhaqi 406

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بَشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَعْدَادَ أَخْبَرَنَا أَبُو (٤٠٧)
عَمْرٍو بْنُ السَّمَّكِ حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ
يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ أَبِي
بَحْرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَشْيَاخُنَا الْهَلَالِيُّونَ: سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنِ الرَّجُلِ
يَتَوَضَّأُ فَيَبْدَأُ بِشِمَالِهِ قَبْلَ يَمِينِهِ ، فَرَخَّصَ فِي ذَلِكَ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ سَمِعْتُ وَكَيْعًا يَقُولُ أَبُو بَحْرِ الْهَلَالِيُّ اسْمُهُ
أَحْنَفُ.

قَالَ الشَّيْخُ: وَرَوَاهُ فُرَاتُ بْنُ أَحْنَفَ سَمِعَ أَبَاهُ سَمِعَ عَبْدَ (ت)
اللَّهِ الْهَلَالِيَّ سَمِعَ ابْنَ مَسْعُودٍ: إِنْ شَاءَ بَدَأَ فِي الْوُضُوءِ
بِيسَارِهِ.

وَرَوَى أَبُو الْعُبَيْدِينَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ

رَجُلٍ تَوَضَّأَ فَبَدَأَ بِمَيَاسِرِهِ فَقَالَ: لَا بَأْسَ-

وَرَوَى سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَنْ مُجَابِدٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَا

بَأْسَ أَنْ تَبْدَأَ بِرِجْلَيْكَ قَبْلَ يَدَيْكَ-

قَالَ الدَّارِقُطْنِيُّ: بَدَأَ مُرْسَلٌ وَلَا يَثْبُتُ- (ج) (وَبَدَأَ لِأَنَّ مُجَابِدًا لَمْ

يُذْرِكُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: بائیں طرف سے شروع کرنے کی رخصت

حدیث نمبر: 406

ترجمہ:

(۴۰۷) (الف) (سیدنا ابن مسعود^{رض} سے اس شخص کے متعلق سوال کیا گیا جو وضو دائیں سے پہلے بائیں سے شروع کرتا ہے تو انہوں نے رخصت دی۔

(ب) (عبداللہ ہمدانی نے سیدنا ابن مسعود^{رض} سے سنا، اگر وہ چاہے تو وضو بائیں طرف سے شروع کرے۔

(ج) (عبداللہ بن مسعود^{رض} سے روایت ہے کہ ان سے ایک شخص کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اس نے وضو بائیں طرف سے شروع کیا تو آپ نے فرمایا: کوئی حرج نہیں۔

(د) (عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں: کوئی حرج نہیں ہے کہ تو ہاتھوں کے بجائے پاؤں سے ابتدا کرے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Permission to start from the left

Hadith number: 406

Translation:

(406) (a) Ibn Masud (may Allah be pleased with him) was asked about a person who starts ablution from the left before the right, so he gave him permission.

(B) Abdullah Hamdani heard from Ibn Masud (may Allah be pleased with him) that if he wants to, he can start ablution from the left side.

(C) It is narrated from Abdullah bin Masud (may Allah be pleased with him) that he was asked about a person who started ablution from the left side and he said: There is no problem.

(D) Abdullah ibn Mas'ud says: There is no harm in starting with the feet instead of the hands (in ablution).

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 407

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ (٤٠٨)
الْفَقِيهُ قَالَا أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا
الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ ﷺ - لِعَمْرٍو
(بْنِ حَزْمٍ)) : أَنْ لَا تَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا عَلَى طَهْرٍ ((

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان

باب: بغیر وضو قرآن چھونا منع ہے

حدیث نمبر: 407

ترجمہ:

(۴۰۸) سیدنا عبداللہ بن ابوبکر اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ کا خط جو عمرو بن حزم کے نام تھا اس میں یہ تھا کہ تو قرآن کو باوضو ہو کر ہاتھ لگا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: It is forbidden to touch the Qur'an without ablution

Hadith number: 407

Translation:

(407) Abdullah ibn Abu Bakr narrates from his father that in the letter of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him)

addressed to Amr ibn Hazm was (written) that do not touch the Quran except when you are pure.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence). Narrated by Al-Daraqutni 1/121]

Sunan Kubra Bayhaqi 408

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ: أَحْمَدُ بْنُ (٤٠٩)
سَهْلِ الْفَقِيهِ بِبُخَارَى أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبِ الْحَافِظِ
حَدَّثَنَا الْحَكْمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ
دَاوُدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمِ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - : أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ
بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالذِّيَّاتُ، وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرٍو
بْنِ حَزْمٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ)) : وَلَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ ((-).

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: بغیر وضو قرآن چھونا منع ہے

حدیث نمبر: 408

ترجمہ:

(۴۰۹) (سیدنا ابوبکر بن محمد بن حزم اپنے دادا سے اور وہ نبی ﷺ سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے یمن والوں کو خط لکھا جس میں فرائض، سنن اور دیتوں کا ذکر تھا اور عمرو بن حزم کے ساتھ ان کو بھیجا۔ پھر انہوں نے لمبی حدیث ذکر کی جس میں یہ بھی تھا کہ قرآن کو صرف باوضو شخص چھوئے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: It is forbidden to touch the Qur'an without ablution

Hadith number: 408

Translation:

(408) Abu Bakr ibn Muhammad ibn Hazm narrates from his grandfather and from the Prophet that he wrote a letter to the people of Yemen mentioning the (obligatory) duties, sunnahs and deities and sent it with Amr ibn Hazm...Then he narrated a long hadith in which it was said that the Quran should be touched only by a person who is pure.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence). Narrated by Al-Daraqutni 1/121 and Ibn Hibban 793]

Sunan Kubra Bayhaqi 409

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ (٤١٠)
الْحَافِظُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِي
ابْنَ ثَوَابٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى
قَالَ سَمِعْتُ سَالِمًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ((لَا يَمَسُّ
الْقُرْآنَ إِلَّا طَائِرًا)) (-).

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
کتاب: پاکی کا بیان

باب: بغیر وضو قرآن چھونا منع ہے

حدیث نمبر: 409

ترجمہ:

(۴۱۰) سلیمان بن موسیٰ کہتے ہیں: میں نے سالم سے سنا، وہ اپنے باپ سے نقل فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا " قرآن کو " کو صرف باوضو ہی چھوئے۔"

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: It is forbidden to touch the Qur'an without ablution

Hadith number: 409

Translation:

(409) Sulayman ibn Musa says: I heard from Salem, he narrates from his father that the Prophet (peace and blessings of Allaah be

upon him) said: "Touch the Quran only with ablution."

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence). Narrated by Tabarani 1/322]

Sunan Kubra Bayhaqi 410

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ أَخْبَرَنَا جَدِّي أَبُو عَمْرٍو (٤١١)
بْنُ نُجَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنجِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ
بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي
وَقَّاصٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ أُمْسِكُ الْمُصْحَفَ
عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فَأَخْتَكْتُ فَقَالَ سَعْدٌ: لَعَلَّكَ مَسَسْتَ
ذَكَرَكَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: قُمْ فَتَوَضَّأْ. فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ ثُمَّ
رَجَعْتُ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: بغیر وضو قرآن چھونا منع ہے

حدیث نمبر: 410

ترجمہ:

(۴۱۱) (معصب بن سعد سے روایت ہے کہ میں سیدنا سعد بن ابی وقاصؓ کے سامنے مصحف شریف پڑھتا تھا تو) ایک دن (میں اٹکنے لگا۔ سیدنا سعدؓ نے کہا: شاید تو نے اپنی شرم گاہ کو چھوا ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں! تو انہوں نے کہا: کھڑا ہو اور وضو کر۔ میں کھڑا ہوا میں نے وضو کیا، پھر واپس لوٹا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: It is forbidden to touch the Quran without ablution

Hadith number: 410

Translation:

(410) It is narrated from Musab bin Saad that I used to recite Mushaf (Quran) in front of Saad bin Abi Waqas (may Allah be pleased with him), then (one day) I got stuck. Saad said: Perhaps you have touched your private parts? I said yes! So he said: Stand up and perform ablution. I stood up, performed ablution, then returned.

[Sahih. Narrated by Malik 2/59]

Sunan Kubra Bayhaqi 411

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدٌ (٤١٢)
:بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّقَّارُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ الضَّبِّيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرِ
شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الْأَعْمَشِ
ح (وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ
ي حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَّانُ
عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : كُنَّا مَعَ سَلْمَانَ
فَخَرَجَ فَقَضَى حَاجَتَهُ ، ثُمَّ جَاءَ فَقُلْتُ : يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ لَوْ
تَوَضَّأْتَ لَعَلَّنَا أَنْ نَسْأَلَكَ عَنْ آيَاتِ . قَالَ : إِنِّي لَسْتُ أَمْسُهُ ، إِنَّمَا
لَا يَمْسُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ . فَقَرَأَ عَلَيْنَا مَا سَنِينَا .
لَفْظُ حَدِيثِ وَكَيْعٍ . هَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ الْأَعْمَشِ .
وَرَوَاهُ أَبُو الْأَحْوَصِ فِي إِحْدَى الرَّوَايَتَيْنِ عَنْهُ عَنِ (ت)

الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ سَلْمَانَ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: بغیر وضو قرآن چھونا منع ہے

حدیث نمبر: 411

:ترجمہ

(۴۱۲) (عبد الرحمن بن زید فرماتے ہیں کہ ہم سلیمان کے ساتھ تھے وہ اپنی حاجت پوری کر کے آئے تو میں نے کہا: اے ابو عبد اللہ! کاش آپ وضو کر لیتے شاید ہم آپ سے آیات کے متعلق سوال کرتے۔ انہوں نے فرمایا: میں نے اس شرمگاہ نہیں چھوا، پھر فرمایا: اس قرآن مجید کو صرف پاک لوگ ہی چھوتے ہیں۔ پھر انہوں نے جو چاہا پڑھا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: It is forbidden to touch the Qur'an

without ablution

Hadith number: 411

Translation:

(411) Abd al-Rahman ibn Zayd says that we were with Sulayman when he came to fulfill his need and I said: O Abu Abdullah! I wish you had performed ablution, maybe we would have asked you about the verses. He said: I did not touch this private part. Then he said: Only pure people touch this Quran. Then he read whatever he wanted.

[Sahih. Narrated by Hakim 1/292]

Sunan Kubra Bayhaqi 412

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بَشْرَانَ الْعَدْلُ بِبِعْدَادٍ أَخْبَرَنَا أَبُو (٤١٣)
جَعْفَرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ الْبَخْتَرِيِّ الرَّزَّازُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
عُبَيْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُنَادِي حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ يَعْنِي
الْأَزْرَقَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عُمَانَ الْبَصْرِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ
مَالِكٍ قَالَ: خَرَجَ عُمَرُ مُتَقَلِّدًا بِسَيْفِهِ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ قِيلَ لَهُ
إِنَّ خَتَنَكَ وَأَخْتَكَ قَدْ صَبَبْنَا وَتَرَكَ دِينَكَ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ. فَمَشَى
عُمَرُ حَتَّى أَتَاهُمَا وَعِنْدَهُمَا رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ يُقَالُ لَهُ خَبَابٌ
وَكَانُوا يَقْرَأُونَ وَنَاطَهُ {فَقَالَ عُمَرُ: أَعْطُونِي الْكِتَابَ الَّذِي
يُؤْ عِنْدَكُمْ فَأَقْرَأَهُ. قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ يَقْرَأُ الْكِتَابَ، فَقَالَتْ أُخْتُهُ
إِنَّكَ رَجَسٌ ، وَإِنَّهُ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ، فَقُمْنَا فَغْتَسِلْ أَوْ
تَوَضَّأْ. قَالَ: فَقَامَ عُمَرُ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ أَخَذَ الْكِتَابَ

فَقَرَأَ طَهُ {وَلِهَذَا الْحَدِيثِ شَوَابِدُ كَثِيرَةٌ-
وَبُو قَوْلُ الْفُقَهَائِ السَّبْعَةِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ- (ق)

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: بغیر وضو قرآن چھونا منع ہے
حدیث نمبر: 412

:ترجمہ

(۴۱۳) (سیدنا انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمرؓ اپنی تلوار لٹکا کر نکلے، پھر انہوں نے حدیث بیان کی، اس میں ہے کہ ان سے کہا گیا کہ آپ کا بہنوئی اور بہن بے دین ہو گئے ہیں اور انہوں نے تیرے دین کو چھوڑ دیا ہے تو سیدنا عمرؓ چلے اور یہاں تک ان کے پاس آئے، ان کے پاس مہاجرین میں سے ایک شخص تھا جس کو خواب کہا جاتا تھا، وہ دونوں سورۃ طہ کی تلاوت کر رہے تھے، عمرؓ نے فرمایا: تمہارے پاس جو کتاب ہے وہ مجھے دو، انہوں نے ان کو پڑھ کر سنایا اور سیدنا عمرؓ کتاب پڑھا کرتے تھے۔ ان کی بہن نے کہا: بلاشبہ تم ناپاک ہو اس کو تو صرف پاک لوگ ہی چھوتے ہیں آپ جا کر غسل کریں یا وضو

راوی کہتا ہے: سیدنا عمرؓ کھڑے ہوئے، وضو کیا کتاب پکڑی اور سورۃ طہ کی تلاوت کی۔ اس حدیث کے بہت سے شواہد ہیں۔

(ب (اہل مدینہ کے فقہائے سبعہ کا قول ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: It is forbidden to touch the Quran without ablution

Hadith number: 412

Translation:

(412) Anas ibn Malik (may Allah be pleased with him) says that Umar (may Allah be pleased with him) hung up his sword and went out. Then he narrated the hadeeth, in which he was told that your brother-in-law and sister have become ungodly and they have abandoned your religion. So Umar went

and came to him. He had a man, among the Muhajireen, (visiting him) who was called Khabab. They were both reciting Surah Taha. Umar said: The Book that you have, give it to me, they read it to him and Umar used to read the book. His sister said: Verily you are unclean. Only pure people touch it (the Quran). You should go and do ghusl or perform ablution. The narrator says: Umar stood up, performed ablution and recited Surah Taha. There is a lot of evidence for this hadith.

(B) And it is the saying of the seven jurists of the people of Madinah.

[Daif (Weak). Narrated by Al-Daraqutni 1/133]

Sunan Kubra Bayhaqi 413

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بَشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَعْدَادَ أَخْبَرَنَا أَبُو (٤١٤)
جَعْفَرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّرَّازُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِكَ الْقَرَّازُ
حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ
مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَا وَرَجُلَانِ: رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي وَرَجُلٌ أَحْسَبُهُ مِنْ
بَنِي أَسَدٍ فَبَعَثْتُهُمَا وَجْهًا وَقَالَ: إِنَّكُمَا عِلْجَانِ فَعَالِجَا عَنْ دِينِكُمَا.
ثُمَّ دَخَلَ الْمَخْرَجَ فَقَضَى حَاجَتَهُ ، ثُمَّ خَرَجَ فَأَخَذَ حَفْنَةً مِنْ
مَائٍ فَتَمَسَّحَ بِهَا ، ثُمَّ جَعَلَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَالَ فَكَأَنَّهُ رَأَى أَنَا أَنْكَرْنَا
، ذَلِكَ ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - يَقْضِي حَاجَتَهُ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ
وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ ، وَلَمْ يَكُنْ يَحْجُبُهُ - وَرُبَّمَا قَالَ يَحْجِرُهُ - عَنِ
الْقُرْآنِ شَيْئًا لَيْسَ الْجَنَابَةَ.

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ عَنْ شُعْبَةَ
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوَدْبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا
أَبُو دَاوُدَ فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: جنبی کو قرآن کی قراءت کرنا منع ہے

حدیث نمبر: 413

:ترجمہ

(۴۱۴) (عبداللہ بن سلمہ فرماتے ہیں ہم تین شخص علی بن ابی طالب کے پاس آئے، ایک شخص میری قوم سے تھا اور دوسرا شاید بنی اسد قبیلے سے تھا۔ آپ نے ان کو ایک طرف بھیجا اور فرمایا: شاید تم دونوں مضبوط ہو اور اپنے دین پر پختہ رہنا۔ پھر آپ باہر تشریف لے گئے اور فضائے حاجت کی، پھر باہر آئے اور پانی سے ایک چلو لیا، پھر اس سے مسح کیا اور قرآن پڑھنا شروع ہو گئے۔ راوی کہتا ہے: انہوں نے ہمیں متعجب پایا تو فرمایا: رسول اللہ ﷺ اپنی حاجت پوری کرتے تھے، پھر قرآن پڑھتے تھے اور ہمارے ساتھ گوشت کھاتے تھے اور آپ اس سے رکتے نہیں

تھے، بسا اوقات فرماتے تھے: جنابت کے علاوہ کوئی چیز آپ کو (تلاوت سے) نہیں روکتی تھی۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: It is forbidden for a junub to recite the Quran

Hadith number: 413

Translation:

(413) Abdullah ibn Salma says that three of us came to Ali ibn Abi Talib (may Allah be pleased with him), one was from my people and the other was probably from Bani Asad tribe. He sent them somewhere and said:

Perhaps you are both strong and steadfast in your religion. Then he went outside and

relieved himself, then came back and took a handful of water, then wiped his head with it and started reciting the Quran. The narrator says: When he found us surprised, he said: The Messenger of Allah (may peace be upon him) used to relieve himself, then he used to recite the Quran and eat meat with us.

Nothing prevented him; or the narrator said: Nothing prevented him from (reciting) the Quran except sexual impurity.

[Daif (Weak). Narrated by Abu Dawud 229]

Sunan Kubra Bayhaqi 414

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّيُّ وَأَبُو بَكْرِ: أَحْمَدُ (٤١٥)
بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ -
قَالَ وَحَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ قَالَ قَرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَكَ ابْنُ
لَهِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي الْكَنْوَدِ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ مَالِكِ الْغَافِقِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ لِعُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ ((إِذَا تَوَضَّأْتَ وَأَنَا جُنُبٌ أَكَلْتُ وَشَرِبْتُ ، وَلَا
أُصَلِّي وَلَا أَقْرَأُ حَتَّى أَعْتَسِلَ)) -
قَالَ ابْنُ وَهْبٍ وَقَالَ لِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ مِثْلَهُ (ق)
يَعْنِي مِنْ قَوْلِهِمَا -
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَرَوَاهُ الْوَاقِدِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (ت)

بِنِ سُلَيْمَانَ هَكَذَا

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: جنبی کو قرآن کی قراءت کرنا منع ہے

حدیث نمبر: 414

:ترجمہ

(۴۱۵) (عبداللہ بن مالک غافقی^{رض} نے نبی ﷺ کو عمر بن خطاب سے یہ فرماتے ہوئے سنا: جب میں جنابت کی حالت میں ہوتا ہوں تو وضو کر لیتا ہوں، میں کھاتا اور پیتا ہوں، لیکن نماز نہیں پڑھتا اور نہ قرآن پڑھتا ہوں جب تک غسل نہ کر لوں۔) (ب (شیخ) رح (فرماتے ہیں: یہ روایت واقدی نے عبداللہ بن سلیمان سے اسی طرح نقل کی ہے۔)

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: It is forbidden for a junub to recite

the Qur'an

Hadith number: 414

Translation:

(414) Abdullah ibn Malik al-Ghafqi (may Allaah be pleased with him) heard the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) say to Umar ibn al-Khattab (may Allah be pleased with him): When I am in the state of janabah, I perform ablution, I eat and drink, but I do not offer prayers or recite the Quran until I have done ghusl.

(B) Shaykh (RA) says: This narration has been narrated by Waqidi from Abdullah ibn Sulayman in the this way.

[Narrated by Al-Daraqutni 1/119]

Sunan Kubra Bayhaqi 415

Arabic Text:

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ (٤١٦)
يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ: أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَرِهَ
أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَهُوَ جُنُبٌ.
(ت) (وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنِ
عَبِيدَةَ عَنِ عُمَرَ وَهُوَ الصَّحِيحُ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان

باب: جنبی کو قرآن کی قراءت کرنا منع ہے

حدیث نمبر: 415

ترجمہ:

(۴۱۶) سیدنا ابو وائل سے روایت ہے کہ سیدنا عمرؓ جنابت کی حالت میں قرآن پڑھنا ناپسند سمجھتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: It is forbidden for a junub to recite the Quran

Hadith number: 415

Translation:

(415) It is narrated from Syeduna Abu Wail that Syeduna Umar (may Allah be pleased with him) did not like to recite the Quran in the state of janabah.

[Hasan Li Ghayrihi (Fair due to external evidence). Narrated by Darimi 992]

Sunan Kubra Bayhaqi 416

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ قَتَادَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو (٤١٧)
الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرٍ وَبِهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ عَنْ عَامِرِ بْنِ السَّمْطِ عَنْ أَبِي الْغَرِيفِ
عَنْ عَلِيٍّ فِي الْجُنُبِ قَالَ: لَا يَقْرَأُ وَلَا حَرْفًا.
ت (وَرَوَى أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَقْرَأِ الْقُرْآنَ
عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا.
ق (وَبِهِ قَوْلُ الْحَسَنِ وَالنَّخَعِيِّ وَالزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ.
وَيُذَكَّرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَقْرَأَ الْجُنُبُ الْآيَةَ
وَنَحْوَهَا.
وَرُوي عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: الْآيَةُ وَالْآيَتِينَ. وَمَنْ خَالَفَهُ أَكْثَرُ وَفِيهِمْ
إِمَامَانِ وَمَعَهُمْ ظَاهِرُ الْخَبَرِ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: جنبی کو قرآن کی قراءت کرنا منع ہے

حدیث نمبر: 416

:ترجمہ

(۴۱۷) (الف) ابو غریف حضرت علیؓ سے جنابت سے متعلق

نقل فرماتے ہیں کہ وہ جنابت کی حالت میں قرآن نہیں پڑھتے

تھے بلکہ ایک حرف بھی نہیں پڑھتے تھے۔

(ب) (سیدنا علیؓ فرماتے ہیں: جب تک تو جنبی نہ ہو تو قرآن

کو پڑھتا رہ۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: It is forbidden for a junub to recite the Qur'an

Hadith number: 416

Translation:

(416) (a) Abu Gharif narrates from Hazrat Ali (may Allah be pleased with him) regarding janabat that he did not recite the Quran in the state of janabat infact (he) did not recite a single letter.

(B) Syeduna Ali (may Allah be pleased with him) says: Recite the Quran in all cases, so long as you are not junub.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 417

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : الْحُسَيْنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ بُرْهَانَ وَمُحَمَّدُ (٤١٨)
: بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ
إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّقَّارِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ ابْنِ
عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ ((:لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ شَيْئًا
(مِنَ الْقُرْآنِ))

(ج) قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ فِيمَا بَلَغَنِي عَنْهُ إِنَّمَا رَوَى
بِذَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ وَلَا أَعْرِفُهُ مِنْ
حَدِيثِ غَيْرِهِ ، وَإِسْمَاعِيلُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ عَنْ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ
الْعِرَاقِ-

قَالَ الشَّيْخُ وَقَدْ رَوَى عَنْ غَيْرِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ (ت)

وَأَلَيْسَ بِصَحِيحٍ -
وَرُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ قَوْلِهِ فِي الْجُنُبِ وَالْحَائِضِ
وَالنُّفْسَائِ وَأَلَيْسَ بِقَوِيٍّ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: حائضہ کے قراءت قرآن سے ممانعت والی حدیث کا بیان
اور اشکال
حدیث نمبر: 417

:ترجمہ

(۴۱۸) ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ جنبی اور
حائضہ عورت قرآن میں سے کچھ نہ پڑھے۔
ب (محمد بن اسماعیل بخاری) رح (اس روایت کے متعلق
فرماتے ہیں کہ یہ روایت اسماعیل بن عیاش نے موسیٰ بن عقبہ
سے نقل کی ہے اور میں نے صرف یہی حدیث ان سے سنی
ہے۔ اسماعیل اہل حجاز اور اہل عراق سے نقل کرنے میں
منکر الحدیث ہے۔

ج (شیخ فرماتے ہیں: موسیٰ بن عقبہ سے اسماعیل کے
علاوہ دیگر حضرات نے بھی روایت کیا ہے جو کہ صحیح

نہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement and forms of the hadith forbidding menstruating women from reciting the Quran

Hadith number: 417

Translation:

(417) Ibn Umar (may Allah be pleased with him) narrates from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) that a junub and a menstruating woman should not read any of the Quran.

(B) Muhammad ibn Isma'il Bukhari (may

Allah be pleased with him) says about this narration that this narration was narrated by Isma'il ibn Ayyash from Musa ibn 'Aqaba and I have heard only this hadith from him. Ismail is a munkar hadith in quoting from the people of Hijaz and Iraq.

(C) The Shaykh says: It has been narrated from Musa ibn Aqaba by other people besides Ismail which are not correct.

[Daif (Weak). Narrated by Tirmidhi 131 and Ibn Majah 595, 596]

Sunan Kubra Bayhaqi 418

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَيْهَقِيُّ حَدَّثَنَا (٤١٩)
أَبُو أَحْمَدَ الْغَطْرِيْفِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقْرَأَ
الْجُنُبُ.

قَالَ شُعْبَةُ : وَجَدْتُ فِي صَحِيفَتِي وَالْحَائِضُ وَبَذَا مُرْسَلٌ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاکی کا بیان

باب: حائضہ کے قراءت قرآن سے ممانعت والی حدیث کا

بیان اور اشکال
حدیث نمبر: 418

ترجمہ:

(۴۱۹) (ابراہیم سے روایت ہے کہ سیدنا عمرؓ جنبی کے قرآن پڑھنے کو ناپسند سمجھتے تھے۔
ب) (شعبہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحیفہ میں یہ بات پائی ہے کہ حائضہ کے قرآن پڑھنے کو بھی) ناپسند کرتے تھے (اور یہ مرسل ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement and forms of the hadith forbidding menstruating women from reciting the Quran

Hadith number: 418

Translation:

(418) It is narrated from Ibrahim that Umar (may Allah be pleased with him) disliked the reading of the Qur'an by a (person who is) junub.

(B) Shu'bah says that I have found in the scripture that it is also disliked for menstruating women to read the Quran and this is a mursal (narration).

[Hasan Li Ghayrihi (Fair due to external evidence)]

Sunan Kubra Bayhaqi 419

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ (٤٢٠)
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ
عَلَى مَالِكٍ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ بَاتَ لَيْلَةً عِنْدَ مَيْمُونَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ
وَبِئْسَ خَالَتُهُ قَالَ فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَاضْطَجَعَ رَسُولُ
اللَّهِ - ﷺ - وَأَبْلُهُ فِي طُولِهَا ، فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - حَتَّى إِذَا
- ﷺ - هُوَ بِقَلِيلٍ اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷻ انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَ
- ﷺ - فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِ بِيَدِهِ ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ
الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَيْءٍ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ مِنْهَا
فَأَحْسَنَ وَضُوئَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى - وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ - ،
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى ، وَأَخْرَجَهُ
الْبُخَارِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ مَالِكٍ -

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ (ت)
 أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَرَأَيْتُهُ قَامَ فَاسْتَاكَ ثُمَّ
 تَوَضَّأَ وَهُوَ يَقْرَأُ بِذِهِ الْآيَاتِ {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ} [آل عمران: ١٩٠]
 حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: بے وضو حالت میں قرآن پڑھنا
 حدیث نمبر: 419

ترجمہ:

(٤٢٠) (الف) (سیدنا ابن عباسؓ نے خبر دی کہ میں نے اپنی
 خالہ ام المومنین سیدہ میمونہؓ کے گھر رات گزاری۔ میں تکیہ
 کی چوڑائی کے بل لیٹا اور سول اللہ ﷺ اور آپ کے گھر والے
 لمبائی کے بل لیٹے۔ رسول اللہ ﷺ سو گئے، جب آدھی رات
 ہوئی یا اس سے تھوڑی دیر پہلے یا بعد میں رسول اللہ ﷺ بیدار
 ہوئے اور چہرے پر ہاتھ مل کر نیند دور کرنے لگے
 پھر سو رہے آل عمران کی آخری دس آیات پڑھیں، پھر ایک
 لٹکی ہوئی مشک کی طرف گئے اس سے

اچھی طرح وضو کیا، پھر کھڑے ہوئے اور نماز ادا کی۔۔۔
(ب) (عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ ﷺ کو دیکھا
کہ آپ ﷺ نے کھڑے ہو کر مسواک کی، پھر وضو کیا اور آپ
یہ آیات پڑھ رہے تھے) { إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
:وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ [آل عمران
۱۹۰] یہاں تک سورت ختم کر دی۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Recitation of the Quran without
ablution

Hadith number: 419

Translation:

(419) (a) Syeduna Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) reported that I spent the night at the house of my aunt Umm Al-Mumineen Syeda Maimuna (may Allah be pleased with him). I lied across the pillow and the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) and his family lied on the pillow

length-wise. When it was the middle of the night or shortly before or after, the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) woke up and removed the traces of sleep by rubbing his hands over his face, then he recited the last ten verses of the Surah Al-e-Imran. Then he went towards a hanging water-skin and performed ablution well, then stood up and prayed....

(B) Abdullah Ibn Abbas said that he saw the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) that he stood up and used the miswak, then performed ablution and he was reciting these verses:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ
لِّأُولِي الْأَلْبَابِ }

{Indeed, in the creation of the heavens and the earth and the alternation of the night and the day are signs for those of understanding}
[Surah Al-e-Imran 2:190]

Then he finished the surah.

[Sahih]

The full and lengthy hadith was narrated by Bukhari 138, 183, 992, 1198, 4570, 4571, 4572 and Muslim 763 and Nasai 1621 and Abu Dawud 1364, 1367 and Ibn Majah 1363 and Malik 7/11 and Ahmad 222, 358.

Sunan Kubra Bayhaqi 420

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ مَهْرُويَةَ الْعَدْلُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ (٤٢١)
جَعْفَرِ الْمُزَكِّي أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنجِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى
بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيَّ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ فِي قَوْمٍ
وَهُوَ يَقْرَأُ ، فَقَامَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ رَجَعَ وَهُوَ يَقْرَأُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : لِمَ
تَوْضَأُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْتَ تَقْرَأُ . فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : مَنْ أَفْتَاكَ بِهَذَا أَمْسِيلُهُ؟
وَرَوَاهُ بِشَّامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ : إِيَّاسِ بْنِ (ت)
ضَبِيحٍ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ . فَذَكَرَ مَعْنَاهُ
وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ .

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاكى كا بيان

باب: بے وضو حالت ميں قرآن پڑھنا

حدیث نمبر: 420

:ترجمہ

(۴۲۱) محمد بن سيرين سے روایت ہے کہ سيدنا عمر بن خطابؓ چند لوگوں ميں تلاوت كر رہے تھے اس دوران وہ اپنى حاجت كے ليے كھڑے ہوئے، پھر واپس آ كر پڑھنے لگے، ان سے ايك شخص نے پوچھا اے امير المؤمنين! آپ نے وضو نہيں كيا اور آپ تلاوت كر رہے ہيں؟ تو عمر بن خطابؓ نے فرمایا: آپ كو اس كا كس نے فتوىٰ ديا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Recitation of the Qur'an without
ablution

Hadith number: 420

Translation:

(420) It is narrated from Muhammad ibn Sirin that Umar ibn al-Khattab (may Allah be pleased with him) was reciting in the company of some people. In the meantime, he stood up to relieve himself, then came back and began to recite. A man asked him: O Amir al-Muminin! You did not perform ablution and you are reciting? Umar ibn al-Khattab (may Allah be pleased with him) said: "Who gave you this fatwa?"

[Daif (Weak). Narrated by Malik 15/2]

Sunan Kubra Bayhaqi 421

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنِ قَتَادَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ (٤٢٢)
النَّضْرَوِيُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا
أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ يَزِيدٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ سَلْمَانَ فِي سَفَرٍ فَأَنْطَلِقَ فَقَضَى حَاجَتَهُ
ثُمَّ جَاءَ فَقُلْنَا لَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ تَوَضَّأَ لَعَلَّنَا نَسْأَلُكَ عَنْ آيٍ
مِنَ الْقُرْآنِ. فَقَالَ: سَلُّوا فَإِنِّي لَا أَمْسُهُ، وَإِنَّهُ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا
الْمُطَهَّرُونَ. فَسَأَلْنَاهُ فَقَرَأَ عَلَيْنَا قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: بے وضو حالت میں قرآن پڑھنا

حدیث نمبر: 421

ترجمہ:

(۴۲۲) عبد الرحمن بن یزید فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں سلمان کے ساتھ تھے، وہ لوگوں سے الگ ہوئے اور اپنی حاجت پوری کی، پھر آئے۔ ہم نے ان سے کہا: اے عبداللہ! وضو کر لیں شاید ہم آپ سے قرآن کی آیات کے متعلق سوال کریں تو انہوں نے کہا: سوال کرو، میں نے شرمگاہ کو نہیں چھوا اور اس قرآن پاک کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں تو ہم نے ان سے سوال کیا اور انہوں نے وضو کرنے سے پہلے ہم پر قرآن پڑھا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Recitation of the Qur'an without
ablution

Hadith number: 421

Translation:

(421) Abdul Rahman bin Yazid says that we were with Salman on a journey, he separated from the people and relieved himself, then came (back). We said to him: O Abdullah! Perform ablution. Maybe we (need to) ask you about the verses of the Quran. He said: Ask, I did not touch my private parts and only the pure people can touch this Qur'an. Read the Quran on us before doing. So we asked him a question and he recited the Quran to us before performing ablution.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 422

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنِ قَتَادَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو مَنْصُورٍ (٤٢٣)
النَّضْرَوِيُّ الْهَرَوِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ
مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ السِّمِّطِ عَنْ أَبِي
الْغَرِيفِ قَالَ قَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : لَا بَأْسَ أَنْ تَقْرَأَ الْقُرْآنَ
وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ، فَأَمَّا وَأَنْتَ جُنُبٌ فَلَا وَلَا حَرْفٌ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان
باب: بے وضو حالت میں قرآن پڑھنا

حدیث نمبر: 422

ترجمہ:

(۴۲۳) ابو غریف فرماتے ہیں کہ سیدنا علیؓ نے کہا: اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تو بغیر وضو کے قرآن پڑھے اور اگر تو جنبی ہے تو پھر ایک حرف بھی نہیں پڑھ سکتا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Recitation of the Qur'an without
ablution

Hadith number: 422

Translation:

(422) Abu Gharif says that Syeduna Ali (may Allah be pleased with him) said: There is no harm in reciting the Quran without ablution and if you are junub then you cannot recite a single letter.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 423

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو قَالَا (٤٢٤)
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ
سُوَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
جُبَيْرٍ قَالَ:

كَانَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولَانِ: إِنَّا لَنَقْرَأُ الْجُزْءَ مِنَ
الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثِ-

(ت) (وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ الْعَدَنِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاكى كا بيان

باب: بے وضو حالت ميں قرآن پڑھنا

حدیث نمبر: 423

ترجمہ:

(۴۲۴) سيدنا ابن عمر اور ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ ہم بغیر

وضو کے قرآن کا کچھ پڑھ لیتے ہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Recitation of the Qur'an without
ablution

Hadith number: 423

Translation:

(423) Ibn Umar (may Allah be pleased with him) and Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) say that we can read some of the Quran without ablution.

[Hasan Li Ghayrihi (Fair due to external evidence). Narrated by AbdulRazzaq 1316]

Sunan Kubra Bayhaqi 424

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَالِينِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو (٤٢٥)
أَحْمَدَ بْنَ عَدِيِّ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو عَرُوبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ
الْبَيْهَقِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ - يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى
كُلِّ أَحْيَانِهِ -
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان

باب: بغير وضو الله كا ذكر كرنا

حديث نمبر: 424

ترجمہ:

(۴۲۵) سيدہ عائشہ رض فرماتی ہیں کہ نبی ﷺ ہر حال ميں اللہ كا ذكر كيا کرتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Mentioning Allah without Wudhu

Hadith number: 424

Translation:

(424) Ayesha (may Allah be pleased with her) says that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) used to mention Allah in every situation.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 425

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ (٤٢٦)
يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَايٍ
أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ حُضَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ
أَبِي سَاسَانَ عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ: أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -
وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ قَالَ: ((إِنَّهُ لَمْ
يَمْنَعْنِي أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي كَرِهْتُ أَنْ أذْكَرَ اللَّهَ إِلَّا عَلَى
طَهَارَةٍ)) -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

کتاب: پاکی کا بیان

باب: ذکر اللہ اور قراءت قرآن کے لیے وضو کرنا مستحب ہے
حدیث نمبر: 425

ترجمہ:

(۴۲۶) (مہاجر بن قنفذؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو سلام کیا اور آپ وضو کر رہے تھے، آپ ﷺ نے سلام کا جواب نہیں دیا جب وضو سے فارغ ہوئے تو آپ ﷺ نے فرمایا "مجھے تیرے سلام کا جواب دینے سے کسی چیز نے نہیں روکا مگر میں نے ناپسند کیا کہ میں اللہ کا ذکر بے وضو کروں۔"

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: It is mustahabb (recommended) to perform ablution for the remembrance of Allah and recitation of the Quran

Hadith number: 425

Translation:

(425) It is narrated from Muhajir bin Qanfaz

that he greeted the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) and he was performing ablution. He did not respond to the greeting. When he finished his ablution, he said: "Nothing prevented me from responding to your greeting, but I disliked remembering Allah without ablution."

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence). Narrated by Nasai 38 and Abu Dawud 17 and Ibn Majah 350 and Ahmad 4/340, 5/80 and Darimi 2683]

Sunan Kubra Bayhaqi 426

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ : شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْحَسَنِ (٤٢٧)
الْمِهْرَجَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلٍ : بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ
الْحُسَيْنِ الْبَيْهَقِيُّ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ
ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : لَا يَسْجُدُ الرَّجُلُ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ، وَلَا يَقْرَأُ
إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ، وَلَا يُصَلِّي عَلَى الْجَنَازَةِ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ.
مَوْقُوفٌ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

كتاب: پاکی کا بیان

باب: ذکر اللہ اور قراءت قرآن کے لیے وضو کرنا مستحب ہے

حدیث نمبر: 426

ترجمہ:

(۴۲۷) (سیدنا ابن عمر رضی سے روایت ہے کہ باوضو ہو کر سجدہ کیا جائے اور باوضو ہی قراءت کی جائے اور باوضو ہی نماز جنازہ پڑھا جائے۔ موقوف۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: It is mustahab to perform ablution for the remembrance of Allah and recitation of the Quran

Hadith number: 426

Translation:

(426) It is narrated from Ibn Umar (may Allah be pleased with him) that prostration should be performed with ablution and recitation should be done with ablution and funeral prayers should be offered with ablution.

Mawquf hadith (Mawquf Hadith which are

statements and actions of the sahaba. They are known as mawquf because the isnad (chain of narration) stops at the sahaba and does not go back to the Prophet himself.)
[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 427

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ (٤٢٨)
إِمْلَائِي حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ زِيَادِ الْبَصْرِيُّ
بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَائِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي
أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ ((لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ وَلَا
تَسْتَدْبِرُوهَا)) (وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ) -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
کتاب: پاکی کا بیان

باب: بول و براز کے وقت قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا منع

ہے

حدیث نمبر: 427

ترجمہ:

(۴۲۸) (سیدنا ابو ایوب انصاریؓ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا " :قضائے حاجت یا پیشاب کے لیے تم اپنا منہ اور پیٹھ قبلہ کی طرف نہ کرو اور دوسری مرتبہ نبی ﷺ تک مرفوع بیان کرتے ہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: It is forbidden to face or turn towards the qiblah while defecating or urinating

Hadith number: 427

Translation:

(427) Syeduna Abu Ayyub Ansari (may Allah be pleased with him) says that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him)

said: "Do not turn your face and back towards the qiblah for defecation or urination." And he narrates it a second time from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) as a marfu hadith. (marfu means a hadith attributed to the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) and a companion (sahabi) narrates it).

[Sahih. Narrated by Bukhari 144, 394 and Muslim 264 and Nasai 21, 22 and Abu Dawud 9 and Tirmidhi 8 and Ibn Majah 318 and Ahmad 5/416, 417, 421 and Darimi 692]

Sunan Kubra Bayhaqi 428

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ (٤٢٩)
الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ وَالرَّمَادِيُّ يَعْنِي إِبْرَاهِيمَ بْنَ
بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ - وَزَادَ
فِيهِ ((:وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا)) (قَالَ أَبُو أَيُّوبَ :فَقَدِمْنَا
الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَا حِيضَ قَدْ بُنِيَتْ قَبْلَ الْقِبْلَةِ ، فَكُنَّا نَنْحَرِفُ عَنْهَا
وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى-

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ
عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَغَيْرِهِ كُلِّهِمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: بول و براز کے وقت قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا

منع ہے

حدیث نمبر: 428

ترجمہ:

(۴۲۹) سفیان اسی سند سے نقل فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا:۔۔۔ اس حدیث میں یہ الفاظ زیادہ ہیں " :لیکن مشرق اور مغرب کی طرف (منہ کرلو)۔ "ابو ایوبؓ کہتے ہیں ہم ملک شام آئے تو ہم نے بیت الخلاء دیکھے جو قبلے کی طرف بنائے بنائے گئے تھے۔ ہم ان سے انحراف کرتے تھے اور اللہ کے حضور استغفار کرتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: It is forbidden to face or turn towards the qiblah while defecating and urinating

Hadith number: 428

Translation:

(428) Sufyan narrates from the same chain of transmission that the Prophet (peace and

blessings of Allah be upon him) said:... The additional words in this hadith are: "but (turn your face) either east or west." Abu Ayyub (may Allah be pleased with him) added "When we arrived in Sham we came across some lavatories facing the Qibla; therefore we turned ourselves (away from them) while using them and asked for Allah's forgiveness." [Sahih. Narrated by Bukhari 394 and Muslim 264 and Abu Dawud 9]

Sunan Kubra Bayhaqi 429

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ (٤٣٠)
الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قِيلَ لَهُ: قَدْ
عَلَّمَكُمْ نَبِيِّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةِ. قَالَ فَقَالَ: أَجَلٌ لَقَدْ نَهَانَا
أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ وَأَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ ، أَوْ أَنْ
نَسْتَنْجِيَ بِأَقْلٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ
بِعَظْمٍ-

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: بول و براز کے وقت قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا

منع ہے

حدیث نمبر: 429

ترجمہ:

(۴۳۰) (سیدنا سلیمانؑ سے روایت ہے کہ تحقیق تمہارے نبی ﷺ نے تم کو ہر چیز سکھلائی ہے یہاں تک کہ قضائے حاجت کا طریقہ بھی۔ راوی کہتا ہے: انہوں نے فرمایا: جی ہاں! بلاشبہ ہم کو منع کیا ہے کہ قضائے حاجت یا پیشاب کرتے وقت اپنا منہ قبلہ کی طرف کریں یا دائیں ہاتھ سے استنجا کریں یا تین ڈھیلوں سے کم استنجا کریں یا گوبر اور ہڈی سے استنجا کریں۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: It is forbidden to face or turn towards the qiblah while defecating and urinating

Hadith number: 429

Translation:

(429) It is narrated from Syeduna Salman

that (it was said to him that) your Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) has taught you everything, even the method of using the restroom. The narrator says: He said: Yes! Verily, it is forbidden for us to make our face towards the qiblah when defecating or urinating, or to perform istanja with the right hand, or to perform istanja with less than three pebbles, or to perform istanja with dung and bones.

[Sahih. Narrated by Muslim 262 and Nasai 41 and Abu Dawud 7 and Tirmidhi 16 and Ibn Majah 316 and Ahmad 5/437, 438, 439]

Sunan Kubra Bayhaqi 430

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ بَنِيَسَابُورَ وَأَبُو عَلِيٍّ : الْحَسَنُ (٤٣١)
بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَادَانَ بَبَغْدَادَ قَالَا أَخْبَرَنَا حَمْرَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ
الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ
الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي بُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ - ((: إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ فَإِذَا ذُيِّبَ أَحَدُكُمْ إِلَى
الْغَائِطِ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرُهَا ، وَإِذَا اسْتَطَابَ فَلَا
يَسْتَطِبُ بِيَمِينِهِ)) (وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَيَنْهَى عَنِ الرَّوْثِ
وَالرَّمَّةِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب : پاکی کا بیان

باب : بول و براز کے وقت قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا

منع ہے

حدیث نمبر: 430

ترجمہ:

(: ۴۳۱) سیدنا ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں، جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت کے لیے جائے تو وہ نہ قبلہ کی طرف منہ کرے اور نہ ہی پیٹھ اور جب استنجا کرے تو دائیں ہاتھ سے نہ کرے اور آپ ﷺ تین ڈھیلوں کا حکم دیا کرتے تھے اور گوبر اور بوسیدہ ہڈی سے منع کیا کرتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: It is forbidden to face or turn towards the qiblah while defecating and urinating

Hadith number: 430

Translation:

(430) Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) said: The Messenger of Allah (may

peace be upon him) said: I am like a father to you. When one of you goes for using the restroom, he should not face the qiblah nor turn his back (towards the qiblah), and when he does istanja, he should not do it with his right hand. He (the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him)) also commanded us to use three stones and forbade us to use dung or decayed bone. [Hasan (Fair). Narrated by Nasai 40 and Abu Dawud 8 and Ibn Majah 313 and Ibn Khuzaymah 80 and Ibn Hibban 1431 and Ahmad 2/247, 250]

Sunan Kubra Bayhaqi 431

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِيُّ أَخْبَرَنَا (٤٣٢)
الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ
الْقَاضِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ
عَجْلَانَ قَالَ حَدَّثَنِي الْقَعْقَاعُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَ ((: إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ أَعْلَمُكُمْ ، فَإِذَا
ذُئِبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْخَلَاءِ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرُهَا ، وَلَا
يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ)) (وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَيُنْهَى عَنِ الرَّوْثِ
وَالرَّمَّةِ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
کتاب: پاکی کا بیان

باب: بول و براز کے وقت قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا منع

ہے

حدیث نمبر: 431

ترجمہ:

" (: ۴۳۲) (سیدنا ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا بیشک میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں، میں تم کو سکھلاتا ہوں، تو جب تم سے کوئی بیت الخلا جائے تو وہ قبلہ کی طرف منہ نہ کرے اور نہ ہی پیٹھ کرے اور نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے اور آپ ﷺ تین ڈھیلوں کا حکم دیا کرتے تھے اور گوبر اور بوسیدہ ہڈی سے منع کرتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: It is forbidden to face or turn towards the qiblah while speaking

Hadith number: 431

Translation:

(431) It is narrated on the authority of Abu

Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "I am like a father to you, I will teach you, when any one of you goes to the toilet, let him not face toward the qiblah nor turn his back toward it, and let him not perform istanja with his right hand." And he used to tell us to use three stones, and he forbade using dung or old bones.

[Hasan (Fair). Narrated by Nasai 40 and Abu Dawud 8 and Ibn Majah 313 and Ibn Khuzaymah 80 and Ibn Hibban 1431 and Ahmad 2/247, 250]

Sunan Kubra Bayhaqi 432

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ (٤٣٣)
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَجَلَانَ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ ((:أَعْلَمُكُمْ))
قَالَ ((:فَإِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلَا
يَسْتَدْبِرُهَا لِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ ، وَلَيْسَتْ بِنِثْلَةٍ أَحْجَارٍ)) (وَنَهَى عَنِ
الرَّوْتِ وَالرَّمَةِ-
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ
مُخْتَصَرًا-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاکی کا بیان

باب: بول و براز کے وقت قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا

منع ہے

حدیث نمبر: 432

ترجمہ:

(۴۳۳) محمد بن عجلان اسی سند سے بیان کرتے ہیں مگر انہوں نے (أَعْلَمُكُمْ) کے الفاظ ذکر نہیں کیے، فرمایا: جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت یا پیشاب کے لیے جائے تو وہ قبلہ کی طرف نہ منہ کرے اور نہ ہی پیٹھ اور تین ڈھیلوں سے استنجا کرے اور آپ ﷺ نے گوبر اور بوسیدہ ہڈی سے استنجا کرنے سے (منع فرما دیا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: It is forbidden to face or turn towards the qiblah while defecating and urinating

Hadith number: 432

Translation:

(432) Muhammad ibn Ajlan narrates from the same chain of transmission but he did

not mention the words of (عَلَّمَكُمْ). He said: When one of you defecates or urinates, he should not face the qiblah nor turn his back toward it, and he should perform istanja with three pebbles and he (the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him)) forbade (performing istanja with) dung and rotten bones.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence). Narrated by Ahmad 2/247]

Sunan Kubra Bayhaqi 433

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ أَنْ خَبَرَنَا (٤٣٤)
أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّفَّارِ حَدَّثَنَا تَمْتَامُ حَدَّثَنَا مُوسَى يَعْنِي ابْنَ
إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي زَيْدٍ
عَنْ مَعْقِلِ بْنِ أَبِي مَعْقِلِ الْأَسَدِيِّ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - أَنْ
يُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِبَوْلٍ أَوْ بَغَائِطٍ

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذِبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا
أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ... فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ
هُوَ أَبُو زَيْدٍ مَوْلَى لِبْنِي ثَعْلَبَةَ . :

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب : پاکی کا بیان

باب : بول و براز کے وقت قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا

منع ہے

حدیث نمبر: 433

ترجمہ:

(۴۳۴) معقل بن ابی معقل اسدی کہتے ہیں کہ نبی ﷺ نے قضاے حاجت یا پیشاب کرنے کے لیے دونوں قبلوں کی طرف منہ کرنے سے منع فرمایا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: It is forbidden to face or turn towards the qiblah while defecating and urinating

Hadith number: 433

Translation:

(433) Ma'qil ibn Abi Ma'qil Asadi says that the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) forbade facing the two qiblahs at the time of defecation or urination.

[Daif, Munkar (Weak, Odd). Narrated by Abu Dawud 10 and Ibn Majah 319 and Ahmad 4/210]

Sunan Kubra Bayhaqi 434

Arabic Text:

: أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّيُّ وَأَبُو بَكْرِ (٤٣٥)
أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا مَالِكُ
عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ
عَمْرِئِ : وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِنَّ
أَنَاسًا يَقُولُونَ إِذَا قَعَدْتَ عَلَى حَاجَتِكَ فَلَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا
بَيْتَ الْمَقْدِسِ -

، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ : لَقَدْ ارْتَقَيْتُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ لَنَا
فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - عَلَى لِبْنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلًا بَيْتَ الْمَقْدِسِ لِحَاجَتِهِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: عمارتوں میں اس کی رخصت ہے

حدیث نمبر: 434

ترجمہ:

(۴۳۵) (عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے تھے: جب تم قضائے حاجت کے لیے بیٹھو تو قبلہ اور بیت المقدس کی طرف منہ نہ کرو۔ عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں: میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے رسول اللہ ﷺ کو دو اینٹوں پر دیکھا کہ آپ ﷺ قضائے حاجت کے لیے بیت المقدس کی طرف منہ کیے ہوئے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: It is allowed in buildings (to face or turn towards the qiblah while defecating and urinating)

Hadith number: 434

Translation:

(434) Abdullah bin Umar (may Allah be pleased with him) said: People used to say: When you sit down to perform ablutions, do not face the Qibla and the Holy Mosque of Jerusalem. Abdullah ibn Umar (may Allah be pleased with him) said: I climbed on the roof of my house and I saw Allah's Messenger (peace and blessings of Allah be upon him) answering the call of nature while sitting on two bricks facing the Holy Mosque of Jerusalem (but there was a screen covering him).

[Sahih. Narrated by Bukhari 145, 149 and Muslim 266 and Nasai 23 and Abu Dawud 12 and Tirmidhi 11 and Ibn Majah 322 and Malik 14/3 and Ahmad 2/12, 13 and Darimi 694]

Sunan Kubra Bayhaqi 435

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ (٤٣٦)
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْقَعْنَبِيِّ عَنْ مَالِكِ
فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ.
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مَالِكِ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
کتاب: پاکی کا بیان
باب: عمارتوں میں اس کی رخصت ہے
حدیث نمبر: 435

:ترجمہ

(۴۳۶) مالک اسی سند سے بیان فرماتے ہیں۔ صحیح۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: It is allowed in buildings (to face or turn towards the qiblah while defecating and urinating)

Hadith number: 435

Translation:

(435) Malik narrates from this chain of transmission.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 436

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا (٤٣٧)
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ إِمْلَاءً حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى
بْنَ حَبَّانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمَّهُ : وَاسِعَ بْنَ حَبَّانَ أَخْبَرَهُ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
عُمَرَ : لَقَدْ رَقِيتُ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِ لَنَا ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ قَاعِدًا عَلَى لِبْنَتَيْنِ لِحَاجَتِهِ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ -
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَعْقُوبَ الدَّوْرَقِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ
هَارُونَ ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان

باب : عمارتوں میں اس کی رخصت ہے

حدیث نمبر : 436

ترجمہ:

(۴۳۷) سیدنا عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے گھر کی چھت پر چڑھا تو میں نے رسول اللہ ﷺ کو قضائے حاجت کے لیے دو اینٹوں پر بیٹھے ہوئے دیکھا اور آپ ﷺ نے منہ شام کی طرف اور کمر قبلہ کی طرف کی ہوئی تھی۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: It is allowed in buildings (to face or turn towards the qiblah while defecating and urinating)

Hadith number: 436

Translation:

(436) Abdullah bin Umar (may Allah be pleased with him) said: One day I climbed on the roof of my house and saw the Messenger

of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) sitting on two bricks for defecation while facing Sham, with his back toward the qiblah .
[Sahih. Narrated by Tirmidhi 11]

Sunan Kubra Bayhaqi 437

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ (٤٣٨)
بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِي بِمِصْرَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ
عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ قَالَ : رَأَيْتُ
: ابْنَ عُمَرَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ، ثُمَّ جَلَسَ يَبُولُ إِلَيْهَا فَقُلْتُ
يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هَذَا؟ قَالَ : بَلَى ، إِنَّمَا نُهِيَ
عَنْ ذَلِكَ فِي الْفَضَائِ ، فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْئٌ
يَسْتُرُكَ فَلَا بَأْسَ .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: عمارتوں میں اس کی رخصت ہے

حدیث نمبر: 437

ترجمہ:

(۴۳۸) مروان اصفر کہتے ہیں: میں نے ابن عمرؓ کو دیکھا انہوں نے اپنی سواری قبلہ کی طرف بٹھائی پھر بیٹھ کر پیشاب کیا۔ میں نے کہا: اے ابو عبد الرحمن! کیا اس سے منع نہیں کیا گیا؟ تو انہوں نے فرمایا: کیوں نہیں! کھلی جگہ میں اس سے منع کیا گیا ہے، لیکن جب تیرے اور قبلہ کے درمیان کوئی چیز ہو جو تجھ کو ڈھانپ دے (یعنی کوئی پردہ ہو جائے) تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: It is allowed in buildings (to face or turn towards the qiblah while defecating and urinating)

Hadith number: 437

Translation:

(437) Marwan Asfar says: I saw Ibn Umar, he put his horse towards the qiblah, then sat down and urinated. I said: O Abu Abd al-Rahman! Isn't this forbidden? So he said: Why not! It is forbidden in the open, but when there is something between you and the qiblah that conceals you (i.e a veil), then there is no harm in it.

[Hasan (Fair). Narrated by Abu Dawud 11]

Sunan Kubra Bayhaqi 437

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذُبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ (٤٣٩)
أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا
صَفْوَانُ بْنُ عَيْسَى ... فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى
كتاب: پاکی کا بیان
باب: عمارتوں میں اس کی رخصت ہے
حدیث نمبر: 438

:ترجمہ

(٤٣٩) صفوان بن عيسى اسی طرح بیان کرتے ہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: It is allowed in buildings (to face or turn towards the qiblah while defecating and urinating)

Hadith number: 438

Translation:

(438) Safwan Bin Isa narrates it this way.

[Hasan (Fair). Narrated by Abu Dawud 11]

Sunan Kubra Bayhaqi 439

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنِيُّ (٤٤٠)
بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ (ح)
بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبِرَّازُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
بْنُ شَوْكِرٍ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ ابْنِ
إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُجَابِدٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - قَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ أَوْ نَسْتَدِيرَهَا
بِفُرُوجِنَا إِذَا أَهْرَقْنَا الْمَاءَ ، ثُمَّ قَدْ رَأَيْتُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ يَبُولُ مُسْتَقْبِلَ
الْقِبْلَةِ-

وَأَيْسَ فِي حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بِعَامٍ وَالْبَاقِي بِمَعْنَاهُ
وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ
حَازِمٍ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ وَفِيهِ : فَرَأَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِعَامٍ
يَسْتَقْبِلُهَا-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: عمارتوں میں اس کی رخصت ہے

حدیث نمبر: 439

:ترجمہ

(۴۴۰) (سیدنا جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہم کو منع کیا کرتے تھے کہ ہم قبلہ کی طرف منہ کریں یا اپنی شرمگاہوں کے ساتھ قبلہ کی طرف پشت کریں، جب ہم پانی بہائیں) یعنی پیشاب کریں، پھر میں نے آپ ﷺ کو آپ کی وفات سے ایک سال پہلے قبلہ کی طرف منہ کر کے پیشاب کرتے ہوئے دیکھا۔

ب (سنن ابوداؤد میں یہ الفاظ ہیں کہ میں نے آپ کی روح قبض ہونے سے ایک سال پہلے دیکھا کہ آپ قبلہ کی جانب منہ منہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: It is allowed in buildings (to face or turn towards the qiblah while defecating and urinating)

Hadith number: 439

Translation:

(439) It is narrated on the authority of Jabir (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (may peace be upon him) used to forbid us to face the qiblah or face the qiblah with our private parts when we urinate, then I saw him (the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him)) urinating facing the qiblah a year before his death.

(B) The words in Sunan Abu Dawud are that a year before his soul was seized, I saw him sitting facing the qibla.

[Hasan (Fair). Narrated by Abu Dawud 13 and Tirmidhi 9 and Ibn Majah 325]

Sunan Kubra Bayhaqi 440

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ (٤٤١)
بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ
: عَاصِمٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَدَّائِيُّ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ قَالَ
كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلَافَتِهِ وَعِنْدَهُ عِرَاكُ بْنُ
مَالِكٍ فَقَالَ عُمَرُ : مَا اسْتَقْبَلْتُ الْقِبْلَةَ وَلَا اسْتَدْبَرْتُهَا بِبَوْلٍ وَلَا
غَائِطٍ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا .

: فَقَالَ عِرَاكُ حَدَّثَنِي عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - لَمَّا بَلَغَهُ قَوْلُ النَّاسِ فِي ذَلِكَ أَمَرَ بِمَقْعَدَتِهِ
فَاسْتَقْبَلَ بِهَا الْقِبْلَةَ .

(تَابِعَهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّائِيِّ فِي إِقَامَةِ إِسْنَادِهِ
وَرَوَاهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّائِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ
عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَائِشَةَ . وَرَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ وَغَيْرُهُ عَنْ خَالِدِ
الْحَدَّائِيِّ عَنْ عِرَاكِ بْنِ عَائِشَةَ .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: عمارتوں میں اس کی رخصت ہے

حدیث نمبر: 440

ترجمہ:

(۴۴۱) خالد بن ابو صلت سے روایت ہے کہ میں عمر بن عبد العزیز کے دور خلافت میں ان کے پاس تھا اور ان کے پاس عراق بن مالک بھی تھے، عمر (بن عبدالعزیز رض) نے فرمایا: اتنے عرصہ سے میں نے پیشاب اور قضائے حاجت کرنے کے لیے قبلہ کی طرف نہیں کیا اور نہ ہی پیٹھ عراق کہتے ہیں: مجھ کو سیدہ عائشہ رض نے بیان کیا: کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں لوگوں کی بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ٹیک لگانے کی جگہ کو قبلہ کی طرف کرنے کا حکم دے دیا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: It is allowed in buildings (to face or

turn towards the qiblah while defecating and urinating)

Hadith number: 440

Translation:

(440) It is narrated from Khalid bin Abu Salat that I was with Umar bin Abdul Aziz during his caliphate and he was also with Iraq bin Malik. Umar (bin Abdul Aziz) said: For so long I didn't face the qiblah or turn my back towards it while defecating and urinating. Iraq says: Aisha narrated to me: When the Messenger of Allah (may peace be upon him) heard about it from the people, so he ordered the place of his leaning to be directed towards the qiblah. [Daif (Weak). Narrated by Ahmad 6/184]

Sunan Kubra Bayhaqi 441

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَدِيبُ قَدِمَ عَلَيْنَا (٤٤٢)
قِصْبَةَ خُسْرٍ وَجَرَدَ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ
الْمَلِكِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بِصُورٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ
كَعْبِ الْحَلْبِيِّ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ عَنْ عِيسَى الْحَنَاطِ قَالَ قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ
وَأَنَا أَعْجَبُ مِنْ اخْتِلَافِ أَبِي بُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ قَالَ نَافِعٌ عَنْ :
ابْنِ عُمَرَ : دَخَلْتُ بَيْتَ حَفْصَةَ فَحَانَتْ التِّفَاتُ فَرَأَيْتُ كَنِيفَ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ -
وَقَالَ أَبُو بُرَيْرَةَ : إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْغَائِطَ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا
يَسْتَدِيرُهَا -

قَالَ الشَّعْبِيُّ : صَدَقَا جَمِيعًا ، أَمَّا قَوْلُ أَبِي بُرَيْرَةَ فَهُوَ فِي
الصَّحْرَاءِ ، إِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا مَلَائِكَةً وَجِنٌّ يُصَلُّونَ فَلَا يَسْتَقْبِلُهُمْ
أَحَدٌ بِبَوْلٍ وَلَا غَائِطٍ وَلَا يَسْتَدِيرُهُمْ ، وَأَمَّا كُنْفُهُمْ بِذِهِ فَإِنَّمَا هُوَ

بَيْتٌ يُبْنَى لَهَا قِبْلَةٌ فِيهِ-

وَهَكَذَا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ دَاوُدَ وَغَيْرُهُ عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ- (ت)
(ج) (إِلَّا أَنَّ عَيْسَى بْنَ أَبِي عَيْسَى الْحَنَاطِيَّ بَدَأَ أَبُو عَيْسَى بْنُ مَيْسَرَةَ
ضَعِيفٌ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: عمارتوں میں اس کی رخصت ہے

حدیث نمبر: 441

ترجمہ:

(۴۴۲) (الف) (سیدنا ابن عمر^{رض} سے روایت ہے کہ میں سیدہ حفصہ^{رض} کے گھر میں داخل ہوا، اچانک نظر پڑی تو میں نے رسول اللہ ﷺ کے بیت الخلاء کا منہ قبلہ کی طرف دیکھا۔
(ب) (سیدنا ابوہریرہ^{رض} فرماتے ہیں: جب تم سے کوئی قضائے حاجت کو آئے تو وہ اپنا منہ اور پیٹھ قبلہ کی طرف نہ کرے۔
(ج) (شعبی کہتے ہیں: دونوں نے سچ کہا، ابوہریرہ^{رض} کا قول صحرا کے بارے میں ہے کہ بلاشبہ اللہ کے بندے فرشتے اور جن نماز ادا کرتے ہیں تو صحرا میں قضائے حاجت اور

پیشاب کرتے وقت ان کی طرف منہ نہ کیا کریں اور نہ ہی پیٹھ کریں اور ان کے بیت الخلاء گھر ہیں جن میں قبلہ نہیں ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: It is allowed in buildings (to face or turn towards the qiblah while defecating and urinating)

Hadith number: 441

Translation:

(441) (a) It is narrated from Ibn Umar (may Allah be pleased with him) that I entered the house of Syeda Hafsa (may Allah be pleased with her). Suddenly I saw the face of the toilet of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) facing the qiblah.

(B) Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) said: When one of you goes to the toilet,

he should not turn his face and back towards the qiblah.

(C) Sha'bi says: They both told the truth. Abu Hurayrah's statement is about the desert because certainly the servants of Allah, the angels and Jinn offer prayers, so while defecating and urinating, in the desert, one should not face them nor turn his back toward them and their toilets are houses that do not have a qiblah.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 442

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدٌ (٤٤٣)
بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
قَالَ : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ ، وَكَانَ إِذَا
ذَهَبَ أَبْعَدَ فِي الْمَذْهَبِ .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب : پاکی کا بیان
باب : قضاے حاجت کے وقت (لوگوں سے الگ ہونا)
حدیث نمبر : 442

: ترجمہ

سیدنا مغیرہ بن شعبہؓ سے روایت ہے کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھا، جب آپ ﷺ قضاے حاجت کو جاتے تو بہت دور جاتے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Separating (from the people) at the time of relieving one's self

Hadith number: 442

Translation:

(442) It is narrated on the authority of Mughirah ibn Shu'bah that I was with the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) on a journey. When the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) went (to relieve himself), he went to a far-off place.

[Hasan Sahih (Fair). Narrated by Nasai 17 and Abu Dawud 1 and Tirmidhi 20 and Ibn Majah 331 and Ahmad 4/244 and Darimi 686]

Sunan Kubra Bayhaqi 443

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو قَالَا (٤٤٤)
أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - فِي
سَفَرٍ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - إِذَا أَرَادَ الْبَرَّازَ تَبَاعَدَ حَتَّى لَا يَرَاهُ
أَحَدٌ ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ لَيْسَ فِيهَا

عَلَّمَ وَلَا شَجَرٌ ، فَقَالَ لِي ((يَا جَابِرُ خُذِ الْإِدَاوَةَ وَانْطَلِقْ بِنَا)) (-).
 فَمَلَأْتُ الْإِدَاوَةَ مَائًا ، وَانْطَلَقْنَا فَمَشِينَا حَتَّى لَا نَكَادُ نُرَى ، فَإِذَا
 شَجَرَتَانِ بَيْنَهُمَا أُذْرُعٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (-) ((يَا جَابِرُ
 انْطَلِقْ فَقُلْ لِهَذِهِ الشَّجَرَةِ : يَقُولُ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ الْحَقِي بِصَاحِبَتِكَ
 ، حَتَّى أَجْلِسَ خَلْفَكُمَا)) (-). فَفَعَلْتُ فَرَجَفْتُ حَتَّى لَحِقْتُ بِصَاحِبَتِهَا
 فَجَلَسَ خَلْفَهُمَا حَتَّى قَضَى حَاجَتَهُ (-).
 ت (وَرَوَى فِي إِبْعَادِ الْمَذْهَبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي
 قُرَادٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (-) (-).

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: قضائے حاجت کے وقت (لوگوں سے) الگ ہونا
 حدیث نمبر: 443

ترجمہ:

(۴۴۴) (سیدنا جابر^{رض} سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سفر میں تھا جب آپ ﷺ قضائے حاجت کا ارادہ کرتے تو دور چلے جاتے یہاں تک کہ آپ ﷺ کو کوئی بھی نہ دیکھتا۔ ہم ایک صاف زمین میں اترے جس میں کوئی نشان اور درخت نہ تھا) صحرا وغیرہ (-) آپ ﷺ نے مجھے

فرمایا: اے جابر! برتن پکڑ اور میرے ساتھ چل، میں نے پانی کا برتن بھرا ہم پیدل ہی چلے یہاں تک کہ ہم اتنے قریب نہ رہے کہ دیکھے جائیں۔ دو درخت الگ الگ تھے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے جابر! جا اور اس درخت کو کہہ تم کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ساتھی (درخت سے) مل جاؤ تاکہ میں تم دونوں کے پیچھے بیٹھ جاؤں۔ میں نے ایسے ہی کہا جیسے آپ ﷺ نے فرمایا تھا۔ اس درخت نے حرکت کی اور اپنے ساتھی درخت سے مل گیا۔ آپ ﷺ ان کے پیچھے بیٹھے اور اپنی حاجت کو پورا کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Separating (from the people) at the time of relieving one's self

Hadith number: 443

Translation:

(443) It is narrated from Syeduna Jabir (may Allah be pleased with him) that I was on a journey with the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him). When he

intended to go to relieve himself, he would walk away until no one saw him. We landed in a clear land with no sign and no trees (desert, etc.). He said to me: O Jabir! Grab the vessel and walk with me. I filled the vessel with water. We walked until we weren't able to be seen. There were two trees which were separate (from each other). The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: O Jabir! Go and say to this tree: "The Messenger of Allah is telling you to meet your companion (tree) so that I may sit behind you two." I said (to the tree) as he (the Prophet) said. The tree moved and met its companion (the other tree). He sat behind them and fulfilled his need.

[Sahih. Narrated by Darimi 17]

Sunan Kubra Bayhaqi 444

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو قَالَا (٤٤٥)
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ
حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ
لَمَّا قَدِمَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْبَصْرَةَ سَمِعَ أَهْلَ الْبَصْرَةَ يَتَحَدَّثُونَ عَنْ :
أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - أَحَادِيثَ فَكَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى
-يَسْأَلُهُ عَنْهَا ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو مُوسَى : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
بَيْنَمَا هُوَ يَمْشِي إِذْ مَالَ فَقَعَدَ إِلَى جَنْبِ حَائِطٍ فَبَالَ فَقَالَ ((:إِنَّ بَنِي
إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا بَالَ أَحَدُهُمْ

فَأَصَابَ جَسَدَهُ الْبَوْلُ قَرَضَهُ بِالْمَقَارِيضِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ
يُبُولَ فَلْيُرْتَدْ لِبَوْلِهِ ((-

رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ فِي الْحَدِيثِ : فَأَتَى دِمْنًا
فِي أَصْلِ جِدَارٍ فَبَالَ ثُمَّ قَالَ)) : إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُبُولَ
((فَلْيُرْتَدْ لِبَوْلِهِ))

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذِبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا
أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب : پاکی کا بیان

باب : پیشاب کے لیے جگہ تلاش کرنے کا بیان

حدیث نمبر : 444

:ترجمہ

(۴۴۵) (الف) ابو تیاح ایک شخص سے نقل کرتے ہیں کہ جب
ابن عباسؓ بصرہ تشریف لائے تو انہوں نے بصرہ والوں سے
سنا کہ سیدنا ابو موسیٰؓ نبی ﷺ سے احادیث بیان کرتے ہیں تو
آپ نے ابو موسیٰؓ کی طرف خط لکھ کر اس کے بارے میں
پوچھا۔ ابو موسیٰؓ نے ان کو لکھا کہ

رسول اللہ ﷺ چل رہے تھے اچانک آپ ﷺ ایک جانب مڑ گئے اور دیوار کی ایک جانب بیٹھے اور پیشاب کیا، پھر آپ ﷺ نے فرمایا: نبی اسرائیل والے جب پیشاب کرتے اور ان کے جسم کو پیشاب لگ جاتا تو اس کو قینچیوں کے ساتھ کاٹ دیتے۔ جب تم میں سے کوئی پیشاب کرنے کا ارادہ کرے تو وہ پیشاب کے لیے (نرم جگہ) تلاش کرے۔

(ابو تیحاح ایک حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ آپ ﷺ دیوار کی جڑ میں نرم جگہ پر آئے تو آپ ﷺ نے پیشاب کیا پھر فرمایا: جب تم سے کوئی پیشاب کرنے کا ارادہ کرے تو وہ نرم جگہ تلاش کرے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on finding a place to urinate

Hadith number: 444

Translation:

(444) (a) Abu Tayyah narrates from a man that when Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) came to Basra, he heard from the

people of Basra that Abu Musa (may Allah be pleased with him) narrates ahadith from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him), so he wrote a letter to Abu Musa asking about it. Abu Musa wrote to him that the Messenger of Allah was walking. Suddenly he turned to one side and sat on one side of the wall and urinated. Then he said: When the people of Bani Israel used to urinate and some urine would fall on their body, they would cut that (area) with scissors. When one of you intends to urinate, he should look for a (soft) place to urinate.

(B) Abu Tayyah narrates in a hadith that when he came to a soft place at the root of the wall, he urinated and then said: When one of you intends to urinate, he should look for a soft place.

[Daif (Weak). Narrated by Abu Dawud 3 and Ahmad 4/396, 399, 414]

Sunan Kubra Bayhaqi 445

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمُقْرِي (٤٤٦)
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ
يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ
مَيْمُونٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى
الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: أَرَدَفَنِي رَسُولُ
اللَّهِ - ﷺ - ذَاتَ يَوْمٍ خَلْفَهُ فَأَسْرَّ إِلَيَّ حَدِيثًا لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا مِنَ
النَّاسِ ، وَكَانَ أَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - لِحَاجَتِهِ بِدَفِّ أَوْ
حَائِشِ نَخْلٍ يَعْنِي حَائِطَ نَخْلٍ -

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: قضاے حاجت کے وقت پردہ کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 445

:ترجمہ

(۴۴۶) (سیدنا عبداللہ بن جعفر^{رض} فرماتے ہیں کہ میں ایک رات رسول اللہ ﷺ کے پیچھے سوار تھا، آپ ﷺ نے میرے ساتھ ایک پوشیدہ بات کی، وہ بات میں لوگوں سے بیان نہیں کروں گا اور رسول اللہ ﷺ کو قضاے کے لیے کسی رکاوٹ (پتھر وغیرہ) سے یا کھجوروں کے باغ میں چھپ جانا بہت پسند تھا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement of covering during

defecation

Hadith number: 445

Translation:

(445) Abdullah ibn Jafar (may Allah be pleased with him) said: I was riding behind the Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him) one night. He told me a secret. I won't tell that secret to the people and Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) liked to hide behind an obstacle (stone, etc.) or a stand of date palm trees to when he wanted to defecate.

[Sahih. Narrated by Muslim 342 and Abu Dawud 2549 and Ibn Majah 340 and Ahmad 1/204, 205 and Darimi 690]

Sunan Kubra Bayhaqi 446

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : أَحْمَدُ (٤٤٧)
بْنُ عَثْمَانَ بْنِ يَحْيَى الْأَدْمِيُّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ
مِهْرَانَ السِّمْسَارُ حَدَّثَنَا هَارُونَ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ مُجَابِدِ أَبِي حَزْرَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عِبَادَةَ
بْنِ الصَّامِتِ قَالَ : أَتَيْتَنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فِي مَسْجِدِهِ فَذَكَرَ
قِصَّةً قَالَ فَقَالَ جَابِرٌ : فَذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - يَقْضِي حَاجَتَهُ
فَاتَّبَعْتُهُ بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَائٍ فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - فَلَمْ يَرَ شَيْئًا يَسْتَتِرُ
بِهِ ، فَإِذَا شَجَرَتَانِ بِشَاطِئِ الْوَادِي

فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إِلَى إِحْدَاهُمَا فَأَخَذَ بِغُصْنٍ مِنْ أَغْصَانِهَا فَقَالَ ((:انْقَادِي عَلَيَّ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى)) (فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَالْبَعِيرِ ، الْمَخْشُوشِ الَّذِي يُصَانِعُ قَائِدَهُ حَتَّى آتَى الشَّجَرَةَ الْأُخْرَى ، فَأَخَذَ بِغُصْنٍ مِنْ أَغْصَانِهَا فَقَالَ)) :انْقَادِي عَلَيَّ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى ((. فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَذَلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْمَنْصَفِ فِيمَا بَيْنَهُمَا لَأَمْ بَيْنَهُمَا يَعْنِي جَمَعَهُمَا فَقَالَ)) :الْتِمَا عَلَيَّ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى ((. فَاذْهَبْنَا قَالَ جَابِرٌ فَجَلَسْتُ أَحَدِثُ نَفْسِي فَحَانَتْ مِنِّي لَفْتَةٌ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - مُقْبِلٌ وَإِذَا الشَّجَرَتَانِ قَدْ افْتَرَقَتَا ، فَقَامَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا عَلَى سَاقٍ. وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنِ هَارُونَ بْنِ مَعْرُوفٍ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: قضاے حاجت کے وقت پردہ کرنے کا بیان
 حدیث نمبر: 446

ترجمہ:

(۴۴۷) (سیدنا جابرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ قضاے حاجت کے لیے گئے تو میں آپ ﷺ پیچھے پانی کا ایک

ڈول لے کر گیا۔ رسول اللہ ﷺ نے دیکھا تو رسول اللہ ﷺ نے
 کوئی ایسی چیز نہ دیکھی جس کی اونٹ میں چھپ جائیں، وادی
 کے کنارے پر دو درخت تھے، رسول اللہ ﷺ ان میں سے ایک
 کی طرف گئے اور اس کی ایک ٹہنی پکڑ کر فرمایا " :اللہ
 کے حکم پر میری مطیع بن جا تو وہ آپ ﷺ کے ساتھ ایسے
 مطیع ہوگئی جیسے تابع اونٹ ہوتا ہے جو اپنے قائد کے ساتھ
 چلا کرتا ہے یہاں تک کہ آپ ﷺ دوسرے درخت کے پاس آئے
 اور اس کی ایک ٹہنی کو پکڑ کر فرمایا :اللہ کے حکم کے ساتھ
 میرے لیے مطیع ہو جا تو وہ بھی اسی طرح مطیع ہوگئی۔ آپ
 ﷺ نے ان دونوں کو ملاتے ہوئے ان سے کہا کہ تم دونوں مجھ
 پر اللہ کے حکم سے متحد و متفق ہو جاؤ تو وہ دونوں جڑ گئیں
 سیدنا جابرؓ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھ کر اپنے آپ سے باتیں
 کر رہا تھا، میں ایک نظر دیکھا تو رسول اللہ ﷺ اچانک سامنے
 تھے اور درخت الگ الگ ہو گئے تھے اور ہر ایک اپنی اپنی
 جگہ پر تھا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on covering (one's self)
during defecation

Hadith number: 446

Translation:

(446) Syeduna Jabir (may Allah be pleased with him) said: When the Messenger of Allah (may peace be upon him) went to make up for his needs, I took a bucket of water behind him. When the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) saw around, he did not see anything to hide behind. There were two trees on the bank of the valley. The Messenger of Allaah (peace and blessings of Allah be upon him) went to one of them and grabbed one of its twigs and said "Be obedient to me by the command of Allah", so it (the tree) became obedient to him like a submissive camel that rides with its leader then he came to the other tree and grabbed one of its branches and said: Be obedient to me by the command of Allah, so it became obedient in the same way. The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him)

joined them and said to them, 'Be united by the command of Allaah.' So they both became connected. Syeduna Jabir (may Allah be pleased with him) said: I was sitting and talking to myself. Suddenly I saw the Messenger of Allah (may peace be upon him) in front of me and the trees were separated. Each tree was in its (former) place.

[Sahih]

The full hadith was narrated by Muslim 3012.

Sunan Kubra Bayhaqi 447

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِهْرَجَانِيُّ أَخْبَرَنَا (٤٤٨)
الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ وَعَمْرُو بْنُ الْوَلِيدِ قَالَا
حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ حُصَيْنِ الْحُبْرَانِيِّ عَنْ أَبِي سَعْدِ الْخَيْرِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَ ((: مَنْ أَتَى

الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلَّا كَثِيبًا مِنْ رَمَلٍ يَجْمَعُهُ ثُمَّ يَسْتَدْبِرُهُ
فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ يَلْعَبُونَ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدَمَ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ
لَا فَلَا حَرَجَ))-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: قضائے حاجت کے وقت پردہ کرنے کا بیان
حدیث نمبر: 447

:ترجمہ

(۴۴۸) (سیدنا ابوہریرہؓ، نبی ﷺ سے نقل فرماتے ہیں کہ جو
قضائے حاجت کو جائے تو وہ چھپ جائے۔ اگر کوئی چیز نہ
پائے تو ریت کا ایک ٹیلہ اکٹھا کرے پھر اس کی طرف پیٹھ
کرے؛ اس لیے کہ شیطان بنی آدم کی شرم گاہوں کے ساتھ
کھیلتے ہیں۔ جس نے ایسے کیا اس نے اچھا کیا اور جس نے
نہ کیا تو کوئی حرج نہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on covering (one's self) during defecation

Hadith number: 447

Translation:

(447) Syedna Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) narrates from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) that whoever goes to the toilet should hide himself. If he does not find anything, he should gather a mound of sand and then turn his back towards it. Because Satan plays with the private parts of mankind. He who does so has done well and he who has not done so, there is no harm.

[Daif (Weak)]

The full and lengthy hadith was narrated by Abu Dawud 35.

Sunan Kubra Bayhaqi 448

Arabic Text:

: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ (٤٤٩)
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِالْوَيْهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ
حَدَّثَنَا بُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ -
وَحَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْعَلَوِيُّ رَحِمَهُ (ح)
اللَّهُ تَعَالَى إِمْلَاءً أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ النَّسَوِيُّ
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ فَهْدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا هَمَّامُ صَاحِبُ
الْبَصْرِيِّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَنَسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ - كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ -

خَاتَمَهُ۔ لَفْظُ حَدِيثِ حَجَّاجٍ وَفِي حَدِيثِ بُدْبَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ وَلَا
أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ الزُّبَيْرِيِّ عَنِ أَنَسٍ۔

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان
باب: بیت الخلاء جاتے وقت انگوٹھی اتارنا
حدیث نمبر: 448

:ترجمہ

(۴۴۹) (سیدنا انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب بیت
الخلاء جاتے تو اپنی انگوٹھی اتار دیتے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Taking off the ring when you go to
the toilet

Hadith number: 448

Translation:

(448) It is narrated from Anas (may Allah be pleased with him) that when Allah's Messenger (peace and blessings of Allah be upon him) went to the toilet, he would take off his ring.

[Daif Munkar (Weak, Odd). Narrated by Nasai 5216 and Abu Dawud 19 and Tirmidhi 1746 and Ibn Majah 303 and Ahmad 3/99, 101]

Sunan Kubra Bayhaqi 449

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوَدُبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ (٤٥٠)
قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَإِنَّمَا يُعْرَفُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ

عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - أَخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرَقٍ ثُمَّ أَلْقَاهُ - قَالَ الشَّيْخُ: هَذَا أَبُو الْمَشْهُورُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ دُونَ حَدِيثِ هَمَامٍ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: بیت الخلاء جاتے وقت انگوٹھی اتارنا
حدیث نمبر: 449

ترجمہ:

(۴۵۰) (سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے چاندی کی انگوٹھی بنائی، پھر اس کو پھینک دیا۔ شیخ فرماتے ہیں کہ ابن جریج کی روایت ہمام والی حدیث سے زیادہ مشہور ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Taking off the ring when you go to

the toilet

Hadith number: 449

Translation:

(449) It is narrated from Anas (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) made a silver ring and then threw it away. The Shaykh says that the narration of Ibn Jarir is more famous than the hadith of Hammam.

[Daif, Munkar (Weak, Odd). Narrated by Nasai 5216 and Abu Dawud 19 and Tirmidhi 1746 and Ibn Majah 303 and Ahmad 3/99, 101, 282]

Sunan Kubra Bayhaqi 450

Arabic Text:

وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمَّادٍ (٤٥١)
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبِ الْأَنْطَاقِيِّ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْبَصْرِيُّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ
الزُّبَيْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - لَيْسَ خَاتَمًا نَقَشَهُ مُحَمَّدٌ
رَسُولُ اللَّهِ فَكَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَهُ. وَبِذَا شَابِدٌ ضَعِيفٌ وَاللَّهُ
أَعْلَمُ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان
باب: بیت الخلاء جاتے وقت انگوٹھی اتارنا
حدیث نمبر: 450

ترجمہ:

(۴۵۱) (سیدنا انسؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے انگوٹھی پہنی، اس کا نقش محمد رسول اللہ ﷺ تھا جب آپ ﷺ بیت الخلاء جاتے تو اس کو اتار دیتے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Taking off the ring when you go to the toilet

Hadith number: 450

Translation:

(450) It is narrated from Anas (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) wore a ring on which it was engraved Muhammad, the Messenger of Allah. When he would go to the toilet, he would take it off.

[Daif (Weak). Narrated by Hakim 1/398]

Sunan Kubra Bayhaqi 451

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ: أَحْمَدُ بْنُ (٤٥٢)
إِسْحَاقَ الْفَقِيهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ أَخْبَرَنَا مُوسَى حَدَّثَنَا
حَمَّادٌ-

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (ح)
بْنِ الْحُسَيْنِ الْبَيْهَقِيُّ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى
أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسِ
بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ - إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ قَالَ ((اللَّهُمَّ إِنِّي
أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْتِ وَالْخَبَائِثِ))-

قَالَ الْبُخَارِيُّ قَالَ مُوسَى عَنْ حَمَّادٍ فَذَكَرَهُ. وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ
يَحْيَى بْنِ يَحْيَى قَالَ الْبُخَارِيُّ وَقَالَ عُندَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ
عَبْدِ الْعَزِيزِ: إِذَا أَتَى الْخَلَاءَ -
وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا

حدیث نمبر: 451

ترجمہ:

(۴۵۲) الف (سیدنا انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ جب نبی

عُودٌ ۞ ۞ ۞ بِبَيْتِ الْخَلَاءِ فِيهِمْ (تو کہتے): اللَّهُمَّ إِنِّي أ

مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ (اے اللہ! میں تجھ سے شیطان جنوں اور

جنیوں سے پناہ مانگتا ہوں۔

ب (عبد العزیز یہ الفاظ بیان کرتے ہیں: جب بیت الخلاء

آتے۔

ج (عبد العزیز یہ الفاظ بھی بیان کرتے ہیں: جب بیت الخلاء

میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Supplication when entering the toilet

Hadith number: 451

Translation:

(451) (a) It is narrated from Anas bin Malik (may Allah be pleased with him) that when the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) entered the toilet, he would say:

{اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ}

{Allah-umma inni a`udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith}

{O Allah, I seek refuge with You from male and female devils}

(B) Abdul Aziz utters these words: When he would come to the toilets.

(C) Abdul Aziz also states these words: When he intended to enter the toilet.

[Sahih. Narrated by Bukhari 142, 6322 and Muslim 375 and Nasai 19 and Abu Dawud 4 and Tirmidhi 5 and Ibn Majah 298 and Ahmad 3/101 and Darimi 696]

Sunan Kubra Bayhaqi 452

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي أَخْبَرَنَا أَبُو (٤٥٣)
جَعْفَرِ بْنِ دُحَيْمِ الشَّيْبَانِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي
الْحُنَيْنِ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ
أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - كَانَ إِذَا أَرَادَ الْخَلَاءَ قَالَ ((: أَعُوذُ
بِاللَّهِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ)).

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان
باب: بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا
حدیث نمبر: 452

:ترجمہ

(۴۵۳) (سیدنا انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب بیت الخلاء داخل ہونے کا ارادہ کرتے تو کہتے) (:أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ)

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Supplication when entering the toilet

Hadith number: 452

Translation:

(452) It is narrated from Anas (may Allah be pleased with him) that when the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) intended to enter the toilet, he would say:

{ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ }

{Audhu billahi minal khubuthi wal khaba'ith}

{I seek refuge in Allah from male and female devils}

[Sahih. Narrated by Bukhari 142, 6322 and Muslim 375 and Nasai 19 and Abu Dawud 4 and Tirmidhi 5 and Ibn Majah 298 and Ahmad

Sunan Kubra Bayhaqi 453

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورِكَ أَخْبَرَنَا (٤٥٤)
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ
الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ
أَرْقَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ ((إِنَّ بَدِيَةَ الْحَشُوشِ مُحْتَضِرَةٌ ، فَإِذَا
أَتَى أَحَدَكُمْ الْخَلَاءُ فَلْيَقُلْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ)) (-
ت) (وَبِهَذَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ.
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ عُثَيْبٍ وَأَبُو الْجَمَاهِرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ
عَنْ قَتَادَةَ وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ وَجَمَاعَةٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي
عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفٍ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ
أَرْقَمَ.
قَالَ أَبُو عَيْسَى قُلْتُ لِمُحَمَّدٍ يَعْني الْبُخَارِيُّ أَيُّ الرِّوَايَاتِ عِنْدَكَ
أَصَحُّ فَقَالَ لَعَلَّ قَتَادَةَ سَمِعَ مِنْهُمَا جَمِيعًا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ
وَلَمْ يَقْضِ فِي هَذَا بَشَيْئٍ

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَقِيلَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ
أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ وَبُو وَهُمْ
(ع) قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخُبَيْثُ بِضَمِّ الْبَاءِ جَمَاعَةُ الْخَبِيثِ
وَالْخَبَائِثُ جَمْعُ الْخَبِيثَةِ يُرِيدُ ذُكْرَانَ الشَّيَاطِينِ وَإِنَاثَهُمْ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا
حدیث نمبر: 453

:ترجمہ

(۴۵۴) (سیدنا زید بن ارقم^{رض} سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بیت الخلاء میں شیاطین حاضر ہوتے ہیں۔ لہذا جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء جائے تو وہ) (أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ) کہے۔

(ب) (امام ابو عیسیٰ ترمذی نے اپنے استاد امام اسماعیل بخاری سے پوچھا: تمہارے نزدیک کون سی روایت زیادہ صحیح ہے، انہوں نے فرمایا: شاید قتادہ نے دونوں سے اکٹھے سنا۔ (ج) (امام احمد) رح (فرماتے ہیں کہ ایک سند اس طرح

ہے: عن معمر عن قتادة عن النضر بن انس اور یہ راوی کا وہم ہے۔
د (ابو سلیمان نے باء کے ضمہ کے ساتھ خُبْتُ پڑھا ہے خبیث اور خبائث خبیثہ کی جمع ہے، یعنی ان کی مراد شیاطین مذکر اور مونث ہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Supplication when entering the toilet

Hadith number: 453

Translation:

(453) It is narrated from Zayd ibn Arqam that the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said: The devils are present in the toilet. Therefore, when one of you goes to the toilet, he should say: {أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ} {Audhu billahi minal khubuthi wal khaba'ith} {I seek refuge in Allah from male and female devils}

(B) Imam Abu Isa Tirmidhi asked his teacher Imam Ismail Bukhari (may Allah have mercy on him): Which narration is more correct in your opinion? He said: Qatadah may have heard from both of them together.

(C) Imam Ahmad (may Allah be pleased with him) says that a chain of transmission is as follows: On the authority of Mu'amar on the authority of Qatadah on the authority of Nadr ibn Anas and this is the thinking of the narrator.

[Sahih. Narrated by Abu Dawood 6 and Ibn Majah 296 and Ahmad 4/369, 373]

Sunan Kubra Bayhaqi 454

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ عَلِيٍّ الْمُؤَدِّبُ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ (٢٥٥)
بْنُ حَمْدَانَ الصَّيْرَفِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنَا
خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ بِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ - إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ
غَطَّى رَأْسَهُ وَإِذَا أَتَى أَهْلَهُ غَطَّى رَأْسَهُ -

قَالَ الشَّيْخُ : وَهَذَا الْحَدِيثُ أَحَدُ مَا أَنْكَرَ عَلَيَّ مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ
الْكُذَيْمِيُّ -

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيِّ الْحَافِظُ (ج)
فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَا أَعْلَمُهُ رَوَاهُ غَيْرُ الْكُذَيْمِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
وَالْكُذَيْمِيُّ أَظْهَرَ أَمْرًا مِنْ أَنْ يُحْتَاجَ إِلَى أَنْ يُبَيَّنَ ضَعْفُهُ -

قَالَ الشَّيْخُ : وَرَوَى فِي تَغْطِيَةِ الرَّأْسِ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلَاءِ
عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَهُوَ عَنْهُ صَحِيحٌ - وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ

حَبِيبِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - مُرْسَلًا

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: بیت الخلاء جاتے وقت سر ڈھانپنا اور بائیں پاؤں پر سہارا لگا کر بیٹھنا اگر اس کے بارے میں صحیح روایت ہو

حدیث نمبر: 454

ترجمہ:

(۴۵۵) سیدہ عائشہؓ فرماتی ہیں کہ نبی ﷺ جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو اپنے سر کو ڈھانپ لیتے اور جب اپنی بیوی کے پاس آتے تو بھی اپنے سر کو ڈھانپ لیتے۔

شیخ فرماتے ہیں: یہ حدیث محمد بن یونس کدیمی کی وجہ سے منکر ہے۔

شیخ فرماتے ہیں: بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت سر ڈھانپنا سیدنا ابوبکر صدیقؓ سے صحیح منقول ہے۔ اسی طرح حبیب بن صالح نبی ﷺ سے مرسل روایت نقل کرتے ہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Covering the head when going to the toilet and sitting by leaning on the left foot if there is an authentic narration about it

Hadith number: 454

Translation:

(454) Ayesha (may Allah be pleased with her) says that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) used to cover his head when he entered the toilet and also used to cover his head when he came to his wife.

The Shaykh says: This hadeeth is denied because of Muhammad ibn Yunus Kadimi.

The Shaykh (may Allah have mercy on him) said: The covering one's head while entering the toilet has been authentically narrated from Abu Bakr al-Siddeeq (may Allah be pleased with him). Similarly, Habib ibn Saleh narrates from the Prophet (peace and

blessings of Allah be upon him) in mursal hadith.

[Daif (Weak). Narrated by Abu Nuaym in al-Hilyah 2/182]

Sunan Kubra Bayhaqi 455

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ إِجَازَةً أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ (٤٥٦)
بْنُ إِسْحَاقَ الصَّبَّغِيُّ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
يَحْيَى أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ

عَبْدُ اللَّهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - إِذَا دَخَلَ
الْخَلَاءَ لَيْسَ جِدَائَهُ وَغَطَّى رَأْسَهُ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: بیت الخلاء جاتے وقت سر ڈھانپنا اور بائیں پاؤں پر سہارا

لگا کر بیٹھنا اگر اس کے بارے میں صحیح روایت ہو

حدیث نمبر: 455

ترجمہ:

(۴۵۶) حبیب بن صالح سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب

بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو اپنی جوتے پہن لیتے اور اپنے

سر کو ڈھانپ لیتے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Covering the head when going to
the toilet and sitting while leaning on the left
foot if there is an authentic narration about it

Hadith number: 455

Translation:

(455) It is narrated that Habeeb ibn Saalih said: When the Messenger of Allah (blessings and peace of Allah be upon him) went to the toilet, he would put on his shoes and cover his head.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 456

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ إِجَازَةً أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ (٤٥٧)
إِسْحَاقَ الْفَقِيهِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ
رَجُلٍ مِنْ بَنِي مُدَلِجٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا سُرَاقَةُ بْنُ جُعْشِمٍ
فَقَالَ عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - إِذَا دَخَلَ أَحَدُنَا الْخَلَاءَ أَنْ
يَعْتَمِدَ عَلَى الْيُسْرَى وَيَنْصِبَ الْيُمْنَى -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: بیت الخلاء جاتے وقت سر ڈھانپنا اور بائیں پاؤں پر سہارا
لگا کر بیٹھنا اگر اس کے بارے میں صحیح روایت ہو

حدیث نمبر: 456

:ترجمہ

(457) (سیدنا سراقہ بن جعشم بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول
اللہ ﷺ نے سکھایا جب تم سے کوئی بیت الخلاء میں داخل ہو
تو اپنے بائیں پاؤں پر سہارا دے اور دائیں کو کھڑا رکھے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Covering the head when going to the toilet and sitting while leaning on the left foot if there is an authentic narration about it
Hadith number: 456

Translation:

(456) Saraqah ibn Jashim narrates that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) taught us that when one of you enters the toilet, he should lean on the left foot and hold the right foot straight."

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 457

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوَدْبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ (٤٥٨)
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا زُبَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنِ
الْأَعْمَشِ عَنْ رَجُلٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - كَانَ إِذَا أَرَادَ
حَاجَةً لَا يَرْفَعُ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُو مِنَ الْأَرْضِ -
قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَنَسِ بْنِ
مَالِكٍ

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: قضائے حاجت کے وقت کپڑا کھولنے کا طریقہ

حدیث نمبر: 457

ترجمہ:

(۴۵۸) (سیدنا ابن عمر^{رض} سے روایت ہے کہ نبی ﷺ جب قضائے حاجت کا ارادہ فرماتے تو) اس وقت تک (اپنے کپڑے کو نہیں اٹھاتے تھے جب تک زمین کے قریب نہ ہوجاتے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The way to undress when relieving one's self

Hadith number: 457

Translation:

(457) It is narrated from Ibn Umar (may Allah be pleased with him) that when the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) intended to relieve himself, he would not raise his garment until he was close to the ground. [Sahih. Narrated by Abu Dawud 14 and

Sunan Kubra Bayhaqi 458

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ (٤٥٩)
مَنْصُورٍ الْعَدْلُ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّازِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي
سَهْلُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ كَمَا
قَالَ أَبُو دَاوُدَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : حَتَّى يَبْلُغَ الْأَرْضَ -
(وَرَوَاهُ عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ قَالَ حَتَّى يَدْنُو مِنَ
الْأَرْضِ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاكى كا بيان

باب: قضائے حاجت کے وقت کپڑا کھولنے کا طریقہ

حدیث نمبر: 458

:ترجمہ

(458) (اسی معنی میں دوسری حدیث ہے مگر اس میں یہ الفاظ

ہیں: یہاں تک کہ زمین کے قریب پہنچ جاتے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The way to undress when relieving
one's self

Hadith number: 458

Translation:

(458) There is another hadith in the same
sense, but it contains the following words: Till
he reached near the ground.

[Sahih. Narrated by Abu Dawud 14 and

Sunan Kubra Bayhaqi 459

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُسْرَوِجَرْدِيُّ (٤٦٠)
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ الْإِسْمَاعِيلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ مِنْ
أَصْلِ كِتَابِهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي رَجَائٍ الْمِصْبِيُّ
شَيْخٌ جَلِيلٌ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ
ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ تَنَحَّى وَلَا
يَرْفَعُ ثِيَابَهُ حَتَّى يَدْنُو مِنَ الْأَرْضِ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاكى كا بيان

باب: قضائے حاجت کے وقت كپڑا كھولنے كا طريقہ

حدیث نمبر: 459

:ترجمہ

(۴۶۰) سيدنا ابن عمر^{رض} سے روايت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب قضائے حاجت كا ارادہ فرماتے تو آپ ﷺ دور چلے جاتے اور اپنے كپڑوں كو نہیں اٹھاتے تھے یہاں تک کہ زمین کے قریب ہوجاتے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The way to undress when relieving one's self

Hadith number: 459

Translation:

(459) It is narrated from Ibn Umar (may Allah

be pleased with him) that when the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) intended to relieve himself, he would walk away and would not lift his clothes until he was close to the ground.
[Sahih. Narrated by Abu Dawud 14 and Tirmidhi 14 and Darimi 693]

Sunan Kubra Bayhaqi 460

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَابِرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمَشِ الْفَقِيهِ (٤٦١)
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ
يُوسُفَ حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَامٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ بْنِ عَمْرٍو
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ قَالَ : غُفْرَانِكَ . :

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب : پاکی کا بیان
باب : بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا
حدیث نمبر : 460

:ترجمہ

(٤٦١) (سیدہ عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب بیت
الخلاء سے نکلتے تو یہ کہتے " : غفرانک " اے اللہ ! مجھے
معاف کر دے۔

English Translation:
Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Supplication when leaving the toilet

Hadith number: 460

Translation:

(460) Ayesha (may Allah be pleased with her) says that when the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) used to come out of the toilet, he would say: {غفرانک}

{Ghufranaka}

{Grant me Your forgiveness}

[Sahih. Narrated by Abu Dawud 30 and

Tirmidhi 7 and Ibn Majah 300 and Nasai in

Sunan al-Kubra 9907 and Ibn Sunni in Amal

al-Yawm wal-Laylah 79 and Darimi 707]

Sunan Kubra Bayhaqi 461

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ (٤٦٢)
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ بْنُ
يُونُسَ فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا
حدیث نمبر: 461

:ترجمہ

(٤٦٢) (اسرائیل بن یونس اسی طرح ہی نقل فرماتے ہیں۔)

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Praying to get out of the toilet

Hadith number: 461

Translation:

(461) Israel bin Yunus narrates this (hadith) the same way.

[Hasan (Fair). Narrated by Hakim 1/261]

Sunan Kubra Bayhaqi 462

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدٌ (٤٦٣)
بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرَوْ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ
مُوسَى حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ. وَذَكَرَ فِيهِ سَمَاعُ
أَبِي بُرْدَةَ مِنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا
حدیث نمبر: 462

:ترجمہ

(٤٦٣) (اسرائیل بن یونس اسی طرح بیان فرماتے ہیں اور

اس میں ابو بردہ کے سیدہ عائشہؓ سے سماع کا ذکر ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Supplication when leaving the toilet

Hadith number: 462

Translation:

(462) Israel ibn Yunus narrates in the same way and it mentions the hearing of Abu Barda from Ayesha (may Allah be pleased with her). [Hasan (Fair). Narrated by Hakim 1/261]

Sunan Kubra Bayhaqi 463

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ (٤٦٤)
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى
كتاب: پاکی کا بیان
باب: بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا
حدیث نمبر: 463

:ترجمہ

(٤٦٤) (اسرائیل نے اسی طرح بیان کیا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Supplication when leaving the toilet

Hadith number: 463

Translation:

(463) Israel ibn Yunus narrates in the same way.

[Hasan (Fair). Narrated by Hakim 1/261]

Sunan Kubra Bayhaqi 464

Arabic Text:

وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو (٤٦٥)
إِسْحَاقَ : إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ
بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى : مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَزَادَ عَلَيْهِ : غُفْرَانَكَ رَبَّنَا
وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ -

قَالَ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَسْلَمَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ
بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ
قَالَ الشَّيْخُ : وَبِهِ الزِّيَادَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَمْ أَجِدْهَا إِلَّا فِي رِوَايَةِ
ابْنِ خُزَيْمَةَ وَهُوَ إِمَامٌ ، وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي نُسْخَةٍ قَدِيمَةٍ لِكِتَابِ ابْنِ
، خُزَيْمَةَ لَيْسَ فِيهِ بِهَذِهِ الزِّيَادَةُ ثُمَّ أَلْحَقْتُ بِحَاشِيَتِهِ
فَالْأَشْبَهُ أَنْ تَكُونَ مُلْحَقَةً بِكِتَابِهِ مِنْ غَيْرِ عِلْمِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ -
وَقَدْ أَخْبَرَنَا الْإِمَامُ أَبُو عَثْمَانَ الصَّابُونِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ
مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا
جَدِّي فَذَكَرَهُ دُونَ هَذِهِ الزِّيَادَةِ فَصَحَّ بِذَلِكَ بَطْلَانُ هَذِهِ الزِّيَادَةِ

فِي الْحَدِيثِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا

حدیث نمبر: 464

:ترجمہ

(۴۶۵) یحییٰ بن ابوبکر اسی سند سے بیان کرتے ہیں اور یہ [یرُ] [باطل] اضافہ کرتے ہیں " : غُفْرَانِكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصْرَبُ (امام خزیمہ فرماتے ہیں کہ اسرائیل سے اسی سند کے ساتھ منقول ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ زیادتی صرف امام خزیمہ کی روایت میں ملی ہے۔ پھر میں نے ابن خزیمہ کے قدیم نسخہ کو دیکھا تو اس میں یہ زیادتی نہیں تھی، پھر ایک خط کھینچ کر اس کو حاشیہ میں ملا دیا گیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ الحاق ان کے علم کے بغیر ان کی کتاب میں کر دیا گیا ہو۔ واللہ اعلم۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Supplication when leaving the toilet

Hadith number: 464

Translation:

(464) Yahya ibn Abu Bakr narrates from the same chain of transmission and adds this:

{غُفْرَانِكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ}

{Ghuranaka Rabbana wa ilaikal maseer}

(B) Imam Khuzaymah says that it is narrated from Israel with the same chain of transmission. Sheikh says that I have found this addition only in the narration of Imam Khuzaymah. Then I saw the old version of Ibn Khuzaymah, it did not have this addition, then a letter was drawn and merged in the footnote. It is also possible that this annexation was made in his book without his knowledge. Allah knows best.

[Daif Jiddan (Very Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 465

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ بَنِيَسَابُورَ وَأَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ (٤٦٦)
بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْحَاقَ الْبَرَّازُ بِبَغْدَادَ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَاكِهِيُّ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى بْنُ أَبِي مَسْرَةَ حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِيُّ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ (ح)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ الْإِمَامُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ
سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - : أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَالَ
فِي الْمَائِ الرَّاكِدِ -
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
کتاب: پاکی کا بیان

باب: کھڑے پانی میں پیشاب کرنے کی ممانعت

حدیث نمبر: 465

ترجمہ:

(۴۶۶) (سیدنا جابرؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Prohibition of urinating in standing water

Hadith number: 465

Translation:

(465) It is narrated from Syeduna Jabir (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) forbade urinating in standing water.

[Sahih. Narrated by Muslim 281 and Nasai 35 and Ibn Majah 343 and Ahmad 3/350]

Sunan Kubra Bayhaqi 466

Arabic Text:

حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْعَلَوِيُّ (٤٦٧) رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِمْلَاءً أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ بَالُوَيْهِ الْمُزَكِّي حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو بُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((لَا يُبَالُ فِي الْمَاءِ الرَّائِدِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يُغْتَسَلُ مِنْهُ)) (-).
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: کھڑے پانی میں پیشاب کرنے کی ممانعت
حدیث نمبر: 466

ترجمہ:

(: ۴۶۷) سیدنا ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ایسے کھڑے پانی میں پیشاب نہ کیا جائے جو چلتا نہ ہو، پھر اس سے غسل کرے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Prohibition of urinating in standing water

Hadith number: 466

Translation:

(466) Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) says that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: Do not urinate in standing water which does not move, then bathe with it.

[Sahih. Narrated by Bukhari 239 and Muslim 282 and Nasai 57, 58, 222, 397 and Abu Dawud 69, 70 and Tirmidhi 68 and Ahmad

2/316, 346, 362, 464]

Sunan Kubra Bayhaqi 467

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذِبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ (٤٦٨)
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ
عَنِ الْعَلَاءِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - قَالَ ((اتَّقُوا اللَّاعِنِينَ)) - قَالُوا: وَمَا اللَّاعِنَانِ يَا
النَّاسِ وَظِلْمِهِمْ ((- رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ)): الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ
رِوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: لوگوں کے راستے اور سائے کی جگہ میں پیشاب کرنے
کی ممانعت

حدیث نمبر: 467

ترجمہ:

" (۴۶۸) (سیدنا ابوہریرہ ^{رض} سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا دو لعنت کرنے والی چیزوں سے بچو " !صحابہ ^{رض} نے پوچھا : اے اللہ کے رسول ! دو لعنت والی چیزیں کونسی ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا " : وہ جو لوگوں کے راستے اور ان کے سائے میں پیشاب کرتا ہے۔ "

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Prohibition of urinating in public places and in places of shade

Hadith number: 467

Translation:

(467) It is narrated from Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "Beware of two things which provoke cursing" The Companions asked: "O

Messenger of Allah! what are those two things which provoke cursing? He said: "He who urinates in the way of people and in their shadow."

[Sahih. Narrated by Muslim 269 and Abu Dawud 25 and Ahmad 2/372]

Sunan Kubra Bayhaqi 468

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ (٤٦٩)
مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الشَّعْرَانِيُّ حَدَّثَنَا جَدِّي حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ
أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي حَيَوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ
: -الْحَمِيرِيُّ حَدَّثَهُ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -
اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَ : الْبِرَازَ فِي الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةَ الطَّرِيقِ ((
وَالظِّلَّ)) -)

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: لوگوں کے راستے اور سائے کی جگہ میں پیشاب کرنے
کی ممانعت

حدیث نمبر: 468

ترجمہ:

(۴۶۹) (سیدنا معاذ بن جبل^{رض} فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " تین لعنت والی چیزوں سے بچو، یعنی گھاٹ میں، لوگوں کے راستے میں اور ان کے سائے کی جگہ میں پیشاب کرنے سے۔"

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Prohibition of urinating in public places and in places of shade

Hadith number: 468

Translation:

(468) Muadh ibn Jabal (may Allah be pleased with him) said: The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said:

"Beware of the three cursed things, namely urinating in the pier, in the way of people and in the place of their shade."

[Hasan Li Ghayrihi (Fair due to external

evidence). Narrated by Abu Dawud 26 and Ibn Majah 328]

Sunan Kubra Bayhaqi 469

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ (٤٧٠)
أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
عَمْرِو الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي هُرَيْرَةَ
أَفْتَيْتَنَا فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى يُوشِكَ أَنْ تَفْتِنَنَا فِي الْخَرْيِّ - قَالَ
فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ ((مَنْ سَلَ
سَخِيمَتَهُ عَلَى طَرِيقِ عَامِرٍ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)) -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان
باب: لوگوں کے راستے اور سائے کی جگہ میں پیشاب کرنے
کی ممانعت

حدیث نمبر: 469

ترجمہ:

(۴۷۰) (سیدنا ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا: جس شخص نے مسلمانوں کے راستے میں سے آباد راستوں پر اپنی تلوار کو سونتا تو اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Prohibition of urinating in public places and in places of shade

Hadith number: 469

Translation:

(469) Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) said: I heard from the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him): Whoever wields his sword on the roads inhabited by Muslims, may the curse of Allah, of the angels and of all people be upon him.

[Daif (Weak). Narrated by Hakim 1/296]

Sunan Kubra Bayhaqi 470

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ (٤٧١)
الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا بِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ
حَدَّثَنَا بِقُلُوبٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةٍ قَالَ: يُكْرَهُ
لِلرَّجُلِ أَنْ يَبُولَ فِي هَوَائِي، وَأَنْ يَتَغَوَّطَ عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ
كَأَنَّهُ طَيْرٌ وَقَعَ.
بِهَذَا الرَّوَايَةِ فِيهِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: لوگوں کے راستے اور سائے کی جگہ میں پیشاب کرنے
کی ممانعت

حدیث نمبر: 470

ترجمہ:

(۴۷۱) حسان بن عطیہ کہتے ہیں: آدمی کے لیے ناپسندیدہ ہے کہ وہ کھلی فضا میں پیشاب کرے اور پہاڑ کی چوٹی پر پاخانہ کرے کہ گویا پرندہ واقع ہونے والا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Prohibition of urinating in public places and in places of shade

Hadith number: 470

Translation:

(470) Hasan ibn Atiyah says: It is undesirable for a man to urinate in the open air and defecate on the top of a mountain as if he were a flying bird.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 471

Arabic Text:

وَقَدْ رَوَاهُ يُوسُفُ بْنُ السَّفْرِ - وَهُوَ مَتْرُوكٌ - عَنِ (٤٧٢)
الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ يَحْيَى عَنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - يَكْرَهُ الْبَوْلَ فِي الْهَوَائِ -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ. قَالَ
أَبُو أَحْمَدَ: هُوَ مَوْضُوعٌ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: لوگوں کے راستے اور سائے کی جگہ میں پیشاب کرنے
کی ممانعت
حدیث نمبر: 471

ترجمہ:

(۴۷۲) (سیدنا ابوہریرہ ^{رض} فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ کھلی فضا۔

میں پیشاب کرنے کو ناپسند سمجھتے تھے۔

ابو احمد کہتے ہیں: روایت موضوع ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Prohibition of urinating in public places and in places of shade

Hadith number: 471

Translation:

(471) Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) said: The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) disliked urinating in the open air.

Abu Ahmad says: This narration is fabricated.

[MAUDU (FABRICATED)]

Sunan Kubra Bayhaqi 472

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ (٤٧٣)
الْقَطِيعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - ((لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي
مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ أَوْ يَتَوَضَّأُ فِيهِ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ
مِنْهُ)) -
أُورِدَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: غسل خانے اور وضو کی جگہ پر پیشاب کرنا منع ہے
اس لیے کہ وضو کرتے ہوئے پانی ڈالتے وقت پیشاب لگ

جانے کا اندیشہ ہے

حدیث نمبر: 472

ترجمہ:

(۴۷۳) سیدنا عبداللہ بن مغفل^{رض} فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی بھی اپنے غسل خانے میں پیشاب نہ کرے کہ پھر اسی میں غسل کرے یا وضو کرے اس لیے کہ عموماً اسی سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: It is forbidden to urinate in the showering place and at the place of ablution because there is a risk of urine touching while pouring water or while performing ablution.

Hadith number: 472

Translation:

(472) Syeduna Abdullah ibn Mughaffal (may Allah be pleased with him) says that the Messenger of Allah (peace and blessings of

Allah be upon him) said: None of you should urinate in his bath and then perform ghusl or ablution in it, for evil thoughts come from it. [Sahih. Narrated by Nasai 36 and Abu Dawud 27 and Tirmidhi 21 and Ibn Majah 304 and Ahmad 5/56]

Sunan Kubra Bayhaqi 473

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذُبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ دَاسَةَ (٤٧٤)
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَا
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ فَذَكَرَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ
عَلِيٍّ عَنِ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ-
(ج) وَفِيمَا بَلَغَنِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَا
يُعْرَفُ هَذَا الْحَدِيثُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ-
وَيُرَوَّى أَنَّ أَشْعَثَ هَذَا هُوَ ابْنُ جَابِرِ الْهَدَّانِيِّ-
وَرَوَى مَعْمَرٌ فَقَالَ أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ-
قَالَ الشَّيْخُ وَقَدْ قِيلَ هُوَ أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرٍ وَقَدْ ذَكَرَهُ
الْبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: غسل خانے اور وضو کی جگہ پر پیشاب کرنا منع ہے
اس لیے کہ وضو کرتے ہوئے پانی ڈالتے وقت پیشاب لگ
جانے کا اندیشہ ہے

حدیث نمبر: 473

ترجمہ:

(۴۷۴) (اس حدیث کو حسن بن علی اشعث بن عبداللہ سے نقل
فرماتے ہیں۔

(ب (امام بخاری) رح (فرماتے ہیں: یہ حدیث صرف اسی سند
کے ساتھ ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اشعث، ابن جابر حُدانی
ہے۔ معمر کہتے ہیں کہ اشعث بن عبداللہ نے حسن سے روایت
کیا ہے۔ شیخ کہتے ہیں: ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ اشعث بن
عبداللہ بن جابر ہے اور امام بخاری) رح (نے تاریخ الصغیر
میں اس کو ذکر کیا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: It is forbidden to urinate in the
showering place and at the place of ablution
because there is a risk of urine touching while

pouring water or while performing ablution.

Hadith number: 473

Translation:

(473) This hadith is narrated from Hasan bin Ali Ash'ath bin Abdullah.

(B) Imam Bukhari (may Allah have mercy on him) says: This hadith is only with this chain of transmission and it is also said that Ash'ath is Ibn Jabir Hudani. Muamar says that Ash'ath ibn Abdullah narrated it from Hasan. The Shaykh says: There is also a saying that he is Ashath ibn Abdullah ibn Jabir and Imam Bukhari (may Allah have mercy on him) has mentioned him in Tarikh al-Saghir.

[Sahih. Narrated by Nasai 36 and Abu Dawud 27 and Tirmidhi 21 and Ibn Majah 304 and Ahmad 5/56]

Sunan Kubra Bayhaqi 474

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ عُبَيْدٍ (٤٧٥)
الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا تَمْتَامٌ: مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَمَرَ
الْحَوْضِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَقَّلٍ: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ
الْبَوْلَ فِي الْمَغْتَسَلِ وَقَالَ: إِنَّ مِنْهُ الْوَسْوَسَ - كَذَا رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيُّ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: غسل خانے اور وضو کی جگہ پر پیشاب کرنا منع ہے
اس لیے کہ وضو کرتے ہوئے پانی ڈالتے وقت پیشاب لگ
جانے کا اندیشہ ہے

حدیث نمبر: 474

ترجمہ:

(۴۷۵) سیدنا عبداللہ بن مغفلؓ سے روایت ہے کہ وہ غسل خانے میں پیشاب کرنے کو ناپسند سمجھتے تھے اور کہتے تھے: یہ وسوسے پیدا کرنے کا سبب ہے۔ یہ قول یزید بن ابراہیم تستری کا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: It is forbidden to urinate in the showering place and at the place of ablution because there is a risk of urine touching while pouring water or while performing ablution.

Hadith number: 474

Translation:

(474) It is narrated from Syeduna Abdullah ibn Mughaffal (may Allah be pleased with him) that he disliked urinating in the bathroom and said this is the cause of evil

thoughts.

[Sahih. Narrated by Nasai 36 and Abu Dawud 27 and Tirmidhi 21 and Ibn Majah 304 and Ahmad 5/56]

Sunan Kubra Bayhaqi 475

Arabic Text:

وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهَيْبَانَ (٤٧٦)
عَنْ ابْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: نُهِيَ أَوْ زُجِرَ أَنْ يُبَالَ فِي الْمُغْتَسَلِ -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ
أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
کتاب: پاکی کا بیان

باب: غسل خانے اور وضو کی جگہ پر پیشاب کرنا منع ہے
اس لیے کہ وضو کرتے ہوئے پانی ڈالتے وقت پیشاب لگ
جانے کا اندیشہ ہے
حدیث نمبر: 475

ترجمہ:

(۴۷۶) (سیدنا ابن مغفلؓ سے روایت ہے کہ غسل خانے میں
پیشاب کرنے سے ممانعت اور اس پر ڈانٹ ڈپٹ ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: It is forbidden to urinate in the
showering place and at the place of ablution
because there is a risk of urine touching while
pouring water or while performing ablution.

Hadith number: 475

Translation:

(475) It is narrated from Ibn Mughaffal that it
is forbidden to urinate in the bathroom and it is
reprimanded.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence)]

Sunan Kubra Bayhaqi 476

Arabic Text:

وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ صُهَيْبَانَ عَنْ (٤٧٧)
: عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقَلٍ : أَنَّهُ سَأَلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبُولُ فِي مُغْتَسَلِهِ قَالَ
يُخَافُ مِنْهُ الْوَسْوَاسُ -
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِيُّ الْمِهْرَجَانِيُّ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ
مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ
مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فَذَكَرَهُ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: غسل خانے اور وضو کی جگہ پر پیشاب کرنا منع ہے
اس لیے کہ وضو کرتے ہوئے پانی ڈالتے وقت پیشاب لگ
جانے کا اندیشہ ہے

حدیث نمبر: 476

ترجمہ:

(۴۷۷) سیدنا عبداللہ بن مغفلؓ سے اس شخص کے متعلق میں سوال کیا گیا جو غسل خانے میں پیشاب کرتا ہے۔ فرمایا: مجھے ڈر ہے کہ وہ وساوس میں مبتلا ہو جائے گا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: It is forbidden to urinate in the showering place and at the place of ablution because there is a risk of urine touching while pouring water or while performing ablution.

Hadith number: 476

Translation:

(476) Syeduna Abdullah bin Mughaffal was asked about a person who urinates in the shower room. He said: I am afraid that he will be indulged in waswas (thoughts from satan).

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 477

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذُبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ (٤٧٨)
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُبَيْرٌ عَنْ
: دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حُمَيْدِ الْجَمِيرِيِّ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ
: لَقِيتُ رَجُلًا صَحِبَ النَّبِيَّ - ﷺ - كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ أَوْ يَبُولَ فِي
مُغْتَسَلِهِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: غسل خانے اور وضو کی جگہ پر پیشاب کرنا منع ہے
اس لیے کہ وضو کرتے ہوئے پانی ڈالتے وقت پیشاب لگ
جانے کا اندیشہ ہے

حدیث نمبر: 477

ترجمہ:

۴۷۸ (سیدنا ابن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں ایک صحابی سے ملا جس طرح سیدنا ابوہریرہ رض صحابی ہیں۔ انہوں نے فرمایا: نبی ﷺ نے ہمیں روزانہ کنگھی کرنے اور غسل خانے میں پیشاب کرنے سے منع کیا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: It is forbidden to urinate in the showering place and at the place of ablution because there is a risk of urine touching while pouring water or while performing ablution.

Hadith number: 477

Translation:

(477) Ibn AbdurRahman says that I met a Companion just as Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) is a Companion. He said: The Prophet (peace and blessings of

Allah be upon him) forbade us to comb our hair daily and urinate in the showering place. [Sahih. Narrated by Abu Dawud 28 and Nasai 239 and Ahmad 4/110, 111, 5/369]

Sunan Kubra Bayhaqi 478

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو زَكْرِيَّا : يَحْيَى بْنُ (٤٧٩) مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَعَبَّاسُ الْعَنْبَرِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ بَشَّامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - قَالَ ((لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْجُحْرِ ، وَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ ، فَإِنَّ الْفَأْرَةَ تَأْخُذُ الْفَتِيلَةَ فَتُحْرِقُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ وَأَوْكِنُوا الْأَسْقِيَةَ ، وَخَمِّرُوا الشَّرَابَ ، وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ)) . فَقِيلَ لِقَتَادَةَ : وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ؟ فَقَالَ : إِنَّهَا

مَسَاكِنُ الْجِنِّ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: سوراخ میں پیشاب کرنے کی ممانعت

حدیث نمبر: 478

:ترجمہ

۴۷۹ (سیدنا عبداللہ بن سرجس^{رض} سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے

فرمایا " تم سے کوئی بھی سوراخ میں پیشاب نہ کرے اور

جب تم سوؤ تو اپنے چراغوں کو بجھا دو، بلاشبہ چوہیا بتی کو

پکڑ لیتی ہے اور گھر کو جلا دیتی ہے اور اپنے برتنوں کے

منہ بند کرو اور دروازوں کو بند کرو۔ قتادہ سے پوچھا گیا:

سوراخ میں پیشاب کرنا کیوں منع ہے؟ انہوں نے فرمایا: وہ

جنوں کی رہائش گاہ ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Prohibition of urinating in a hole

Hadith number: 478

Translation:

(478) It is narrated on the authority of Abdullah bin Sarjis that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "Let none of you urinate in a hole, and when you are asleep, turn off your lamps. Verily the rat catches the lamp and burns the house and close the mouths of your pots and close your doors." Qatadah was asked: Why is it forbidden to urinate in a hole? He said: It is the abode of jinn.

[Daif (Weak). Narrated by Nasai 34 and Abu Dawud 29 and Ahmad 5/82]

Sunan Kubra Bayhaqi 479

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدٌ (٤٨٠)
بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا أَرْبَعُ بَنِي
سَعْدِ السَّمَّانِ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ قِيلَ
لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - أَوْصَى إِلَى
عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . فَقَالَتْ : بِمَا أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ ؟ وَقَدْ
رَأَيْتُهُ دَعَا بِطَسْتٍ لِيَبُولَ فِيهَا وَأَنَا مُسْنِدَتُهُ إِلَى صَدْرِي
فَانْخَنَثَ أَوْ قَالَتْ فَانْخَنَثَتْ فَمَاتَ وَمَا شَعَرْتُ فِيْمَ يَقُولُ هَوْلًا إِنَّهُ
أَوْصَى إِلَى عَلِيٍّ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
مُحَمَّدٍ عَنْ أَرْبَعٍ . وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ .
وَإِبْرَاهِيمُ هَذَا يُقَالُ هُوَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ شَرِيكِ النَّيْمِيِّ .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: تھال یا اس کے علاوہ کسی دوسرے برتن میں پیشاب کرنے کی ممانعت

حدیث نمبر: 479

ترجمہ:

(۴۸۰) (اسود کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ^{رض} سے پوچھا گیا: بعض لوگ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ نے علی^{رض} کو وصیت کی ہے۔ سیدہ عائشہ^{رض} نے پوچھا: علی^{رض} کو کس چیز کی وصیت کی ہے؟ میں نے دیکھا کہ آپ ﷺ نے ایک تھال منگوا یا تاکہ اس میں پیشاب کریں اور میں نے آپ ﷺ کے سینے سے ٹیک لگائی ہوئی تھی آپ ﷺ جھکے یا میں جھکی، پھر آپ ﷺ وفات پا گئے اور مجھے معلوم نہیں کس چیز کی وصیت کی، یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے علی^{رض} کو وصیت کی ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Prohibition of urinating on a plate or any other vessel

Hadith number: 479

Translation:

(479) Aswad says that Ayesha (may Allah be pleased with her) was asked: Some people say that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) had bequeathed leadership to Ali (may Allah be pleased with him). Ayesha asked: What was Ali bequeathed? I saw that he (the Prophet) asked for a tray to urinate in and I was leaning against his chest. He bowed down or I bowed down, then he died and I do not know what he bequeathed. These people say that he has bequeathed it to Ali.

[Sahih. Narrated by Bukhari 2741, 4459 and Muslim 1636 and Nasai 33, 3654 and Ibn Majah 1626 and Ahmad 6/22, 32]

Sunan Kubra Bayhaqi 480

Arabic Text:

: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ (٤٨١)
إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْفَقِيهُ بِالرِّيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْفَرَجِ الْأَزْرَقُ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ
حُكَيْمَةَ بِنْتِ أُمَيَّةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ عَنْ أُمِّهَا قَالَتْ: كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ - قَدَحٌ
مِنْ عَيْدَانٍ تَحْتَ سَرِيرِهِ يَبُولُ فِيهِ بِاللَّيْلِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: تھال یا اس کے علاوہ کسی دوسرے برتن میں پیشاب

کرنے کی ممانعت

حدیث نمبر: 480

ترجمہ:

(۴۸۱) حکیمہ بنت امیمہ بنت رقیقہ اپنی والدہ سے نقل فرماتی ہیں کہ نبی ﷺ کا ایک لکڑی کا پیالہ تھا جو آپ ﷺ کی چارپائی کے نیچے ہوتا تھا۔ رات کو آپ ﷺ اس میں پیشاب کر لیا کرتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Prohibition of urinating on a plate or any other vessel

Hadith number: 480

Translation:

(480) Hakim bint Amima bint Raqiqah narrates from her mother that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) had a wooden cup which was under his bed. He used to urinate in it at night.

[Hasan (Fair). Narrated by Abu Dawud 24 and Nasai 32]

Sunan Kubra Bayhaqi 481

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِانَ أَخْبَرَنَا (٤٨٢)
أَبُو الْقَاسِمِ : سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ
حَدَّثَنَا الْفَرِيَابِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ
نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَجُلًا سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ - وَهُوَ
يَبُولُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ -
مُخَرَّجٌ فِي كِتَابِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان
باب: بیت الخلاء میں کلام کرنا مکروہ ہے
حدیث نمبر: 481

ترجمہ:

(۴۸۲) (سیدنا ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی ﷺ کو سلام کیا اور آپ ﷺ اس وقت پیشاب کر رہے تھے آپ ﷺ نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: It is makruh (disliked) to talk in the toilet

Hadith number: 481

Translation:

(481) It is narrated from Ibn Umar (may Allah be pleased with him) that a man greeted the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) and he was urinating at that time. He did not respond to his greeting.

[Sahih. Narrated by Muslim 370 and Nasai 37 and Abu Dawud 16 and Tirmidhi 90, 2720 and Ibn Majah 353]

Sunan Kubra Bayhaqi 482

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذِبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ (٤٨٣)
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ أَخْبَرَنَا
ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا عِكْرَمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ
-بِلَالِ بْنِ عِيَاضٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ -
يَقُولُ ((لَا يَخْرُجُ الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ
عَوْرَتَيْهِمَا يَتَحَدَّثَانِ ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَمُقْتُ عَلَى ذَلِكَ)) -.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: بیت الخلاء میں کلام کرنا مکروہ ہے

حدیث نمبر: 482

:ترجمہ

(۴۸۳) (سیدنا ابو سعیدؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ فرماتے ہوئے سنا: دو شخص قضائے حاجت کو اس طرح نہ جائیں کہ ان کی شرمگاہیں کھلی (ننگی) ہوں اور وہ باتیں کر رہے ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوتے ہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: It is makruh (disliked) to talk in the toilet

Hadith number: 482

Translation:

(482) Abu Said (may Allah be pleased with him) said: I heard the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) say: Two people should not go to the toilet in such a way that their private parts are exposed and they are talking. Allah is very angry with them.

[Daif (Weak). Narrated by Abu Dawud 15 and Ibn Majah 342 and Ahmad 3/36]

Sunan Kubra Bayhaqi 483

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ: مُحَمَّدُ بْنُ (٤٨٤)
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ الْحَفِيدُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَضْلِ الْبَجَلِيُّ
حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ
يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ بِلَالٍ فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ-
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ: أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ (ج)
عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ
عُقَيْبَ هَاتَيْنِ الرَّوَّائِيَيْنِ: هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ هَذَا الشَّيْخُ هُوَ عِيَّاضُ
بْنِ بِلَالٍ رَوَى عَنْهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ غَيْرَ حَدِيثٍ وَأَحْسِبُ
الْوَيْهَمَ مِنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ حِينَ قَالَ عَنْ بِلَالِ بْنِ عِيَّاضٍ-
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوَدْبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ قَالَ
أَبُو دَاوُدَ: وَلَمْ يُسْنِدْهُ إِلَّا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاكى كا بيان

باب: بيت الخلاء ميں كلام كرنا مكروه هے

حدیث نمبر: 483

:ترجمہ

(۴۸۴) عیاض بن ہلال سے پچھلی روایت کی طرح منقول ہے۔
(ابوبکر محمد بن اسحاق بن خزیمہ یہ دو روایات نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہی صحیح ہے اور وہ عیاض بن ہلال ہیں، ان سے یحییٰ بن کثیر نے حدیث نقل کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہلال بن عیاض سے روایت کرنا عکرمہ بن عمار کا وہم ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: It is makruh (disliked) to talk in the toilet

Hadith number: 483

Translation:

(483) It is narrated from Ayyaz bin Hilal like the previous narration.

(B) Abu Bakr Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaymah, after narrating these two narrations, says that this is correct and he is Ayyaz ibn Hilal. Yahya ibn Katheer has narrated a hadith from him. I think that narrating from Hilal bin Ayyaz is an illusion of Ikrimah bin Ammar.

[Daif (Weak). Narrated by Hakim 1/260]

Sunan Kubra Bayhaqi 484

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ حَمَّادٍ (٤٨٥)
يَقُولُ سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ هَارُونَ يَقُولُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - مُرْسَلًا -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: بیت الخلاء میں کلام کرنا مکروہ ہے
حدیث نمبر: 484

ترجمہ:

(٤٨٥) (یحییٰ بن ابوکثیر نبی ﷺ سے مرسل روایت نقل

فرماتے ہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: It is makruh (disliked) to talk in the toilet

Hadith number: 484

Translation:

(484) Yahya ibn Katheer narrates from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) in a mursal hadith.

[Daif (Weak). Narrated by Hakim 1/260]

Sunan Kubra Bayhaqi 485

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا :يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (٤٨٦)
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ :مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو
أَحْمَدَ :مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا
الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ :قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - إِلَى
سُبَّاطَةَ قَوْمِ قَبَالَ قَائِمًا ، فَتَنَحَّيْتُ عَنْهُ فَقَالَ :ادْنُ . فَدَنَوْتُ ثُمَّ
تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ -
مُخْرَجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى
كتاب: پاکی کا بیان
باب: کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا بیان
حدیث نمبر: 485

ترجمہ:

(۴۸۶) سیدنا حذیفہؓ فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ ایک قوم کے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر کھڑے ہوئے تو آپ ﷺ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ میں آپ ﷺ سے دور ہٹ گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا قریب ہو تو میں قریب ہوا، پھر آپ ﷺ نے وضو کیا اور موزوں پر مسح کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on urinating while standing

Hadith number: 485

Translation:

(485) Syeduna Hudhaifah (may Allah be pleased with him) says that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) stood on the rubbish heap of people, he urinated while standing. When I moved away from him, he said: Come near, so I came near.

Then he performed ablution and wiped over the socks.

[Sahih. Narrated by Bukhari 224, 225, 2471 and Muslim 273 and Nasai 18, 26, 27, 28 and Abu Dawud 23 and Tirmidhi 13 and Ibn Majah 305, 306 and Ahmad 5/394 and Darimi 695]

Sunan Kubra Bayhaqi 486

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ (٤٨٧)
 عَيْسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ قَطَنِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
 حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ عَنْ أَبِي
 وَائِلِ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُنِي أَنَا
 وَرَسُولَ اللَّهِ ﷺ - نَتَمَاشَى ، فَأَتَى سُبَاطَةَ قَوْمٍ خَلْفَ الْحَائِطِ فَبَالَ
 كَمَا يَقُومُ أَحَدُكُمْ قَالَ فَانْتَبَذْتُ فَأَشَارَ إِلَيَّ فَجِئْتُ فَقُمْتُ عِنْدَ
 عَقْبِيهِ حَتَّى فَرَغَ -
 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا بیان
 حدیث نمبر: 486

ترجمہ:

(٤٨٧) (سیدنا حذیفہ بن یمانؓ فرماتے ہیں کہ میں اور رسول اللہ ﷺ اکٹھے چل رہے تھے تو آپ ﷺ قوم کے کوزا کرکٹ کے ڈھیر کے پیچھے آئے اور پیشاب کیا جس طرح تم سے کوئی کھڑا ہوتا ہے۔ راوی کہتا ہے: میں پیچھے ہوا تو آپ ﷺ نے مجھے اشارہ کیا اور میں آپ ﷺ کے پیچھے

کھڑا ہو گیا یہاں تک کہ آپ ﷺ فارغ ہو گئے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on urinating while standing

Hadith number: 486

Translation:

(486) Hudhayfah ibn Yaman (may Allah be pleased with him) said: I and the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) were walking together when he came behind a pile of garbage of the people and urinated as any one of you stands. The narrator says: When I moved away, he pointed at me and I stood behind him until he finished.

[Sahih. Narrated by Bukhari 225 and Muslim 273 and Nasai 18]

Sunan Kubra Bayhaqi 487

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ (٤٨٨)
بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ
الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ
عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - أَتَى سُبَّاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ
قَائِمًا . فَلَقِيتُ مَنْصُورًا فَسَأَلْتُهُ فَحَدَّثَنِيهِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُدَيْفَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - أَتَى سُبَّاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا . :
كَذَا رَوَاهُ عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي
وَائِلٍ عَنِ الْمُغِيرَةِ
وَالصَّحِيحَ مَا رَوَى مَنْصُورٌ وَالْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ
حُدَيْفَةَ ، كَذَا قَالَ أَبُو عَيْسَى التِّرْمِذِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْحَفَّازِ
وَقَدْ رُوِيَ فِي الْعِلَّةِ فِي بَوَلِهِ قَائِمًا حَدِيثٌ لَا يَنْبُتُ مِثْلُهُ .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا بیان
حدیث نمبر: 487

ترجمہ:

(۴۸۸) (سیدنا مغیرہ بن شعبہ ^{رض} سے روایت ہے کہ نبی ﷺ قوم کے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر آئے تو آپ ﷺ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، میں منصور سے ملا تو ان سے اس بارے میں سوال کیا تو انہوں نے مجھے ابو وائل سے حضرت حذیفہ کی حدیث سنائی کہ نبی ﷺ قوم کے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر آئے اور آپ ﷺ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on urinating while standing

Hadith number: 487

Translation:

(487) It is narrated on the authority of Mughirah bin Shubah that when the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) came to the rubbish heap of the people, so he urinated while standing. I met Mansoor and asked him about it. So he narrated to me from Abu Wail the hadith of Hazrat Hudhaifah that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) came to the rubbish heap of the people and he urinated while standing. [Sahih. Narrated by Hakim 1/295]

Sunan Kubra Bayhaqi 488

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلٍ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمِهْرَانِيُّ (٤٨٩)
أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُدَكَّرُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ مَاهَانَ الْهَمْدَانِيُّ الْكِرَائِسِيُّ -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عِمْرَانَ مُوسَى بْنُ
سَعِيدِ الْحَنْظَلِيِّ بِهَمْدَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَاهَانَ
الْكَرَائِسِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ غَسَّانَ الْجُعْفِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ
عِيسَى حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ
أَبِي بُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - بَالَ قَائِمًا مِنْ جُرْحٍ كَانَ بِمَا بِيضِهِ -
(قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : وَقَدْ قِيلَ كَانَتْ الْعَرَبُ
تَسْتَشْفِي لَوْجَعِ الصُّلْبِ بِالْبَوْلِ قَائِمًا ، فَلَعَلَّهُ كَانَ بِهِ إِذْ ذَاكَ
وَجَعُ الصُّلْبِ ، وَقَدْ ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِمَعْنَاهُ ، وَقِيلَ
إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمْ يَجِدْ لِلْقُعُودِ مَكَانًا أَوْ مَوْضِعًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ . :

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان

باب: کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 488

ترجمہ:

(۴۸۹) (سیدنا ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے زخم کی وجہ سے کھڑے ہو کر پیشاب کیا جو آپ ﷺ کے گھٹنوں میں تھا۔

(ب (امام احمد) رح (فرماتے ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ اہل عرب کمر کی تکلیف سے شفا کے لیے کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے ممکن ہے کہ آپ ﷺ کو بھی یہ تکلیف ہو۔ امام شافعی) رح (نے اس کے یہی معنی بیان کیے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ ﷺ نے ایسا اس لیے کیا کہ وہاں بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ واللہ اعلم

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on urinating while standing

Hadith number: 488

Translation:

(488) It is narrated from Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) urinated while standing due to a wound which was in his knees.

(B) Imam Ahmad (may Allah have mercy on him) says that there is a saying that the Arabs used to urinate standing as a cure for back pain. It is possible that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) also had this problem. Imam Shafi'i (may Allah have mercy on him) also explained this the same way.

There is also a saying that he did this because there was no place to sit. Allah knows best.

[Sahih. Narrated by Hakim 645]

Sunan Kubra Bayhaqi 489

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُؤَمَّلِ (٤٩٠)
الْمَاسَرَجِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو عَثْمَانَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ
حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ
عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ
حَسَنَةَ قَالَ : كُنْتُ أَنَا وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ جَالِسِينَ ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا
رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - وَفِي يَدِهِ دَرَقَةٌ فَبَالَ وَهُوَ جَالِسٌ ، فَتَكَلَّمْنَا فِيمَا
بَيْنَنَا فَقُلْنَا : يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ ، فَأَتَانَا فَقَالَ (: أَمَا تَدْرُونَ مَا
لَقِيَ صَاحِبُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ؟ كَانَ إِذَا أَصَابَهُمْ بَوْلٌ قَرَضُوهُ - فَنَهَاهُمْ
فَتَرَكَوهُ فَعُذِبَ فِي قَبْرِهِ) -
زَادَ فِيهِ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَغَيْرُهُ : فَاسْتَتَرَ بِهَا فَبَالَ وَهُوَ جَالِسٌ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
کتاب : پاکی کا بیان
باب : بیٹھ کر پیشاب کرنے کا بیان
حدیث نمبر : 489

:ترجمہ

(٤٩٠) (عبد الرحمن بن حسنہ ^{رض} فرماتے ہیں : میں اور عمرو بن

عاصؓ بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے پاس رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور آپ ﷺ کے ہاتھ میں ڈھال تھی۔ آپ ﷺ نے بیٹھ کر پیشاب کیا ہم نے آپس میں بات کی کہ یہ ایسے پیشاب کر رہے ہیں جیسے عورت پیشاب کرتی ہے تو آپ ﷺ ہمارے پاس واپس آئے اور فرمایا: کیا تم جانتے ہو جو آزمائش بنی اسرائیل کو پہنچی تھی جب ان کو پیشاب لگ جاتا تو اس حصے کو کاٹ دیتے تو ان کے ایک شخص نے انہیں (ایسا کرنے سے) منع کیا، پھر انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تو وہ اپنی قبر میں عذاب دیے گئے۔

(ب (ابن عیینہ وغیرہ نے یہ الفاظ مزید بیان کیے ہیں کہ آپ نے اس کے ساتھ پردہ کیا اور بیٹھ کر پیشاب کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on urinating while sitting

Hadith number: 489

Translation:

(489) 'Abd al-Rahman ibn Hasanah (may Allah be pleased with him) said: Amr ibn' Aas and I were sitting when the Messenger of

Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him) came to us and he had a shield in his hand. He sat down and urinated. We said to each other that he was urinating like a woman urinates. He came back to us and said: Do you know what was the trial of the Children of Israel when urine fell on them so they cut off that part, one of their people forbade them (to do this), then they left it and he (that person) was tormented in his grave.

(B) Ibn Ayyina and others have further stated that he covered himself with it (the shield) and sat down to urinate.

[Sahih. Narrated by Nasai 30 and Abu Dawud 22 and Ibn Majah 346 and Ahmad 4/96]

Sunan Kubra Bayhaqi 490

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو قَالَا (٤٩١)
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَسِيدُ بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا
الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصِ عَنِ سُفْيَانَ -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : مُحَمَّدُ (ح)
بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا
أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شَرِيحٍ عَنِ أَبِيهِ عَنِ
عَائِشَةَ قَالَتْ : مَا بَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - قَائِمًا مُذْ أَنْزَلَ عَلَيْهِ
الْفُرْقَانَ -

وَفِي رِوَايَةِ الْحُسَيْنِ بْنِ حَفْصِ : سُورَةُ الْفُرْقَانِ - وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ
فَقَالَ : الْقُرْآنُ أَوْ الْفُرْقَانُ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب : پاکی کا بیان

باب : بیٹھ کر پیشاب کرنے کا بیان

حدیث نمبر : 490

:ترجمہ

(۴۹۱) (سیدہ عائشہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے کبھی بھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا، جب سے آپ ﷺ پر قرآن نازل ہوا ہوا ہے۔

(ب) (حسین بن حفص کی روایت میں ہے کہ جب سے سورۃ الفرقان نازل ہوئی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ قرآن یا فرقان کے الفاظ ہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on urinating while sitting

Hadith number: 490

Translation:

(490) It is narrated from Ayesha (may Allah be pleased with her) that ever since the Quran was revealed to him, the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) never urinated while standing.

(B) According to the narration of Hussain ibn Hafs, ever since the revelation of Surah Al-

Furqan. Some say it is the word 'Furqan' or the 'Quran'.

[Sahih. Narrated by Ahmad 6/113]

Sunan Kubra Bayhaqi 491

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ (٤٩٢)
أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرَوْ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ
بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شَرِيحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
سَمِعْتُ عَائِشَةَ تُقْسِمُ بِاللَّهِ مَا رَأَى أَحَدٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - يَبُولُ :
قَائِمًا مِّنْذُ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْفُرْقَانَ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى
كتاب: پاكى كا بيان
باب: بيٲھ كر پيشاب كرنے كا بيان
حديث نمبر: 491

ترجمہ:

(492) (مقدم بن شريع اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں کہ میں
کہ نے سيدہ عائشہ رض سے سنا، وہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتی تھیں
میں نے رسول اللہ ﷺ کو کبھی کھڑے ہو کر پيشاب کرتے نہیں
ديکھا جب سے آپ ﷺ فرقان نازل ہوئى۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on urinating while sitting

Hadith number: 491

Translation:

(491) Muqaddam ibn Shariah narrates from

his father that I heard from Ayesha, she used to swear by Allah that I have never seen the Messenger of Allah urinating while standing up ever since (Surah) Furqan was revealed to him.

[Sahih. Narrated by Hakim 1/295]

Sunan Kubra Bayhaqi 492

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ (٤٩٣)
السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ
بْنُ مَنْصُورِ الرَّمَادِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ
: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ
رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - أَبُولُ قَائِمًا فَقَالَ ((يَا عُمَرُ لَا

تَبْلُ قَائِمًا)) (۔ قَالَ فَمَا بُلْتُ قَائِمًا بَعْدُ۔

عَبْدُ الْكَرِيمِ هَذَا هُوَ ابْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ عَبْدِ
الرِّزَّاقِ فَنَسَبُوهُ۔

وَعَبْدُ الْكَرِيمِ بِنُ أَبِي الْمُخَارِقِ ضَعِيفٌ۔ (ج)

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: بیٹھ کر پیشاب کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 492

:ترجمہ

(۴۹۳) (سیدنا عمر ^{رض} فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ ^{صلی اللہ علیہ وسلم} نے
کھڑے ہو کر پیشاب کرتے دیکھا تو فرمایا: اے عمر! کھڑے ہو
ہو کر پیشاب نہ کر "تو اس کے بعد میں نے کبھی بھی کھڑے
ہو کر پیشاب نہیں کیا۔
(ب) (عبدالکریم بن ابو مخارق ضعیف ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on urinating while sitting

Hadith number: 492

Translation:

(492) Umar (may Allah be pleased with him) says that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) saw me urinating while standing and said: "O Umar! Don't urinate while standing up." So I never urinated standing up after that.

(B) Abdul Kareem bin Abu Mukhariq is weak. [Daif (Weak). Narrated by Ibn Majah 308]

Sunan Kubra Bayhaqi 493

Arabic Text:

وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو زَكْرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ (٤٩٤)
الْحَسَنِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ
نَصْرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
دِينَارٍ: أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بَالَ قَائِمًا.

وَبَدَا يُضَعِّفُ حَدِيثَ عَبْدِ الْكَرِيمِ
(ت) وَقَدْ رَوَيْنَا الْبَوْلُ قَائِمًا عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: بیٹھ کر پیشاب کرنے کا بیان
حدیث نمبر: 493

:ترجمہ

(۴۹۴) (عبداللہ بن دینار سے روایت ہے کہ انہوں نے سیدنا
عبداللہ بن عمروؓ کو کھڑے ہو کر پیشاب کرتے دیکھا۔
ب) ہم نے سیدنا عمرو، علی، سہل بن سعد اور انس بن مالک
سے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والی روایات یہاں نقل کر دی
ہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on urinating while sitting

Hadith number: 493

Translation:

(493) It is narrated from Abdullah bin Dinar that he saw Abdullah bin Umar (may Allah be pleased with him) urinating while standing.

(B) We have narrated the narrations of Amr, Ali, Sahl ibn Saad and Anas ibn Malik (may Allah be pleased with them) relating to urinating while standing up.

[Sahih. Narrated by Ibn Abi Shaybah 1031]

Sunan Kubra Bayhaqi 494

Arabic Text:

وَأَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ إِجَازَةً أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ (٤٩٥)
إِسْحَاقَ الْفَقِيهَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا
سُفْيَانُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ سَعِيدٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: الْبَوْلُ قَائِمًا أَحْسَنُ لِلدُّبْرِ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان
باب: بیٹھ کر پیشاب کرنے کا بیان
حدیث نمبر: 494

ترجمہ:

(: ٤٩٥) سیدنا عمرو بن سعید فرماتے ہیں کہ عمر^{رض} نے فرمایا

كھڑے ہو كر پيشاب كرنا پيٹھ كے ليے (بيمارى سے) حفاظت كا سبب ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on urinating while sitting

Hadith number: 494

Translation:

(494) Amr ibn Saeed says that Umar (may Allah be pleased with him) said: Standing up to urinate is a means of protection for the back (from disease).

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 495

Arabic Text:

وَرَوَى عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ - وَهُوَ ضَعِيفٌ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ (٤٩٦)
الْحَكَمِ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ
اللَّهِ - ﷺ - أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قَائِمًا.
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدِ الْمَالِينِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ
صَاعِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرَّمِيُّ وَأَبُو الْفَضْلِ الْخَرَقِيُّ
قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ فَذَكَرَهُ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: بیٹھ کر پیشاب کرنے کا بیان
حدیث نمبر: 495

ترجمہ:

(٤٩٦) (سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ) فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ نے

كھڑے ہو كر پيشاپ كرنے سے منع فرمایا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on urinating while sitting

Hadith number: 495

Translation:

(495) Syeduna Jabir bin Abdullah (may Allah be pleased with him) says that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) forbade urinating while standing up.

[Daif Jiddan (Very Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 496

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي حَدَّثَنَا أَبُو (٤٩٧)
الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا
الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ
عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: ((إِنَّمَا أَنَا
لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ ، فَإِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ
وَلَا يَسْتَدْبِرُهَا لِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ ، وَلَيْسَتْ بِنِثْلَةِ أَحْجَارٍ - وَنَهَى عَنِ
الرَّوْثِ وَالرَّمَّةِ وَأَنْ يَسْتَنْجِيَ الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ))-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: تین ڈھیلوں کے ساتھ استنجا کے واجب ہونے کا بیان
حدیث نمبر: 496

:ترجمہ

(: ٤٩٧) (سیدنا ابوہریرہ ^{رض} سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا

میں تمہارے لیے باپ کی مثل ہوں جب تم میں سے کوئی " قضاے حاجت کے لیے جائے تو وہ اپنا منہ اور پیٹھ قبلے کی طرف نہ کرے اور تین پتھروں سے استنجا کرے اور گوبر اور بوسیدہ ہڈی سے منع کیا اور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے بھی منع فرمایا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The statement that performing istanja with three pebbles is obligatory

Hadith number: 496

Translation:

(496) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "I am like a father to you. When one of you goes to the toilet, he should not turn his face or back towards the qiblah and perform istanja with three stones. He forbade (performing istanja with) dung

and rotten bone and also forbade istanja with his right hand.

[Sahih. Narrated by Muslim 262 and Nasai 41 and Abu Dawud 7 and Tirmidhi 16 and Ibn Majah 313 and Ahmad 5/437, 438, 439]

Sunan Kubra Bayhaqi 497

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ (٤٩٨)
سَلْمَانَ الْفَقِيهَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا أُمِيَّةُ
بْنُ بِسْطَامٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَجَلَانَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ مِثْلَ إِسْنَادِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَنَهَى
عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ ، وَأَمَرَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: تین ڈھیلوں کے ساتھ استنجا کے واجب ہونے کا بیان
حدیث نمبر: 497

:ترجمہ

(498) محمد بن عجلان اسی سند سے بیان کرتے ہیں مگر
فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے گوبر اور بوسیدہ ہڈی سے منع کیا
اور تین ڈھیلوں کا حکم دیا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The statement that performing instanja with three pebbles is obligatory

Hadith number: 497

Translation:

(497) Muhammad ibn Ajlan narrates from the same chain of transmission but says that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) forbade (performing instanja) dung and rotten bone and ordered (us to use) three pebbles.

[Sahih. Narrated by Muslim 262 and Nasai 41 and Abu Dawud 7 and Tirmidhi 16 and Ibn Majah 313 and Ahmad 5/437, 438, 439]

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ (٤٩٩)
الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ رَجَائٍ وَالْحَسَنُ بْنُ
سُفْيَانَ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ
وَوَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ
قَالُوا لِسَلْمَانَ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيِّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخَرَاءَةِ. فَقَالَ
أَجَلٌ، قَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، وَنَهَانَا:
أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِأَقْلٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، وَنَهَانَا أَنْ نَسْتَنْجِيَ
بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ.
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ.
وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فَذَكَرَهُ (ت)
وَفِيهِ وَقَالَ: لَا يَسْتَنْجِيَ أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: تین ڈھیلوں کے ساتھ استنجا کے واجب ہونے کا بیان
حدیث نمبر: 498

:ترجمہ

۴۹۹) الف (عبد الرحمن بن یزید نے سلمانؓ سے کہا تمہارا نبی تم کو ہر چیز سکھلاتا ہے یہاں تک قضائے حاجت کا طریقہ بھی؟ انہوں نے فرمایا: جی ہاں! یقیناً نبی ﷺ نے ہم کو منع کیا کہ ہم قضائے حاجت یا پیشاب کرتے وقت اپنا منہ قبلے کی طرف کریں اور تین ڈھیلوں سے کم استعمال کرنے سے بھی منع کیا اور گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنے سے بھی منع فرمایا۔

ب) (ایک روایت میں ہے کہ تم میں سے کوئی تین ڈھیلوں سے کم سے استنجا نہ کرے۔

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The statement that performing instanja with three pebbles is obligatory

Hadith number: 498

Translation:

(498) It is narrated from Syeduna Salman that (it was said to him that) your Prophet (peace and blessings of Allah be upon him)

has taught you everything, even the method of using the restroom. He said: Yes! Verily, it is forbidden for us to make our face towards the qiblah when defecating or urinating, or to perform istanja with less than three pebbles, or to perform istanja with the right hand, or to perform istanja with dung and bones.

(B) There is a tradition that none of you should perform istanja with less than three pebbles.

[Sahih. Narrated by Muslim 262 and Nasai 41 and Abu Dawud 7 and Tirmidhi 16 and Ibn Majah 316 and Ahmad 5/437, 438, 439]

Sunan Kubra Bayhaqi 499

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ أَبِي حَامِدٍ الْمُقْرِيُّ (٥٠٠)
: قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ
الْحَسَنُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَزِيدَ الْعَطَّارُ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ
مَنْصُورٍ بِالْكُوفَةِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي
حَازِمٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قُرْطِبٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ قَالَ: ((إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ فَلْيَذِئْبْ مَعَهُ بِثَلَاثَةِ -
أَحْجَارٍ يَسْتَطِيبُ بِهِنَّ ، فَإِنَّهَا تُجْزِي عَنْهُ)) (-).

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: تین ڈھیلوں کے ساتھ استنجا کے واجب ہونے کا بیان
حدیث نمبر: 499

:ترجمہ

(٥٠٠) (سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: جب تم سے کوئی قضائے حاجت کو جائے تو اپنے ساتھ
تین ڈھیلے لے جائے۔ ان کے ساتھ استنجا کرے تو وہ اسے
کفایت کر جائیں گے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The statement that performing
istanja with three pebbles is obligatory

Hadith number: 499

Translation:

(499) It is narrated from Ayesha (may Allah be pleased with her) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: When one of you goes to the toilet, take three pebbles with you. If he does istanja with them, they will suffice him.

[Sahih. Narrated by Nasai 44 and Abu Dawud 40 and Ahmad 6/108, 133 and Darimi 697]

Sunan Kubra Bayhaqi 500

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذِبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ (٥٠١)
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّفِيلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو
مُعَاوِيَةَ عَنْ بِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خُزَيْمَةَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ
-خُزَيْمَةَ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
عَنِ الْإِسْتِطَابَةِ فَقَالَ ((: بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ)) (-).
ت (قَالَ أَبُو دَاوُدَ كَذَا رَوَاهُ أَبُو أَسَامَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ بِشَامٍ. قَالَ
الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ الْعَبْدِيُّ
وَوَكَيْعٌ وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ بِشَامٍ، وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ بِشَامٍ
: عَنْ أَبِي وَجْزَةَ عَنْ عُمَارَةَ، وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ يَقُولُ
الصَّوَابُ رِوَايَةُ الْجَمَاعَةِ عَنْ بِشَامٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خُزَيْمَةَ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان

باب: تین ڈھیلوں کے ساتھ استنجا کے واجب ہونے کا بیان

حدیث نمبر: 500

ترجمہ:

(۵۰۱) (سیدنا خزیمہ بن ثابتؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے استنجا کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ ﷺ نے تین ڈھیلوں کا فرمایا، لیکن اس میں گوبر سے منع کیا۔

(ب) (شیخ) رح (فرماتے ہیں کہ علی بن مدینی) رح (کہا کرتے تھے: ایک جماعت کا ہشام کا عروہ بن خزیمہ سے روایت کرنا کرنا درست ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The statement that performing instanja with three pebbles is obligatory

Hadith number: 500

Translation:

(500) Syeduna Khuzayma ibn Thabit (may Allah be pleased with him) says that when the Messenger of Allah (peace and blessings

of Allah be upon him) was asked about istanja, he said (to use) three pebbles, but forbade (to use) dung for it.

(B) Shaykh (RA) says that Ali ibn Madini (may Allah have mercy on him) used to say: It is correct for a group to narrate Hisham from Arwa ibn Khuzaymah.

[Sahih. Narrated by Abu Dawud 41 and Ibn Majah 315 and Ahmad 5/213, 214]

Sunan Kubra Bayhaqi 501

Arabic Text:

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى وَرَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ مَرَّةً عَنْ (٥٠٢) بِشَامٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خُزَيْمَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ فَذَكَرَهُ.
قَالَ أَبُو عِيسَى قَالَ الْبُخَارِيُّ: أَخْطَأَ أَبُو مُعَاوِيَةَ فِي هَذَا (ج) الْحَدِيثِ إِذْ زَادَ فِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ.
قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى عَبْدَةُ وَوَكَيْعٌ عَنْ بِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي خُزَيْمَةَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ عَنْ خُزَيْمَةَ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَأَبُو خُزَيْمَةَ هُوَ عَمْرُو بْنُ خُزَيْمَةَ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
کتاب: پاکی کا بیان
باب: تین ڈھیلوں کے ساتھ استنجا کے واجب ہونے کا بیان
حدیث نمبر: 501

:ترجمہ

(۵۰۲) (شیخ) رح (فرماتے ہیں: ابو معاویہ اسی پچھلی روایت کی طرح بیان فرماتے ہیں۔

(ب) (امام ابو عیسیٰ فرماتے ہیں کہ امام بخاری) رح (نے فرمایا: جب ابو معاویہ اس سند میں عبدالرحمن بن سعد کا اضافہ کرتا ہے تو غلطی کرتا ہے۔

(ج) (امام بخاری) رح (فرماتے ہیں کہ صحیح سند یہ ہے عبدة و وکیع عن ہشام بن عروہ عن ابي خزيمه عن عمارة بن خزيمه عن خزيمه۔

(د) (شیخ) رح (فرماتے ہیں کہ ابو خزیمہ عمرو بن خزیمہ ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The statement that performing instanja with three pebbles is obligatory

Hadith number: 501

Translation:

(501) Shaykh (RA) says: Abu Muawiyah narrates like the previous narration.

(B) Imam Abu Isa Tirmidhi says that Imam Bukhari (may Allah have mercy on him) said: When Abu Muawiyah adds Abdul Rahman bin Saad to this chain of transmission, he makes a mistake.

(C) Imam Bukhari (may Allah have mercy on him) says that the authentic chain of transmission is as follows: Abdullah and Waqi on the authority of Hisham ibn Urwah on the authority of Abi Khuzaymah on the authority of Ammarah ibn Khuzaymah on the authority of Khuzaymah.

(D) Shaykh (RA) says that Abu Khuzaymah is Amr bin Khuzaymah.

[Sahih. Narrated by Abu Dawud 41 and Ibn Majah 315 and Ahmad 5/213, 214]

Sunan Kubra Bayhaqi 502

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ (٥٠٣)
الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَيْرُوَيْهِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ يَعْنِي الْحَنْظَلِيَّ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عُلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ ، فَأَتَيْتُهُ
بِحَجَرَيْنِ وَرَوْثَةٍ ، فَأَخَذَ الْحَجَرَيْنِ وَالْقَى الرُّوْثَةَ وَقَالَ ((:إِيتِي
بِحَجَرٍ))-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: تین ڈھیلوں کے ساتھ استنجا کے واجب ہونے کا بیان
حدیث نمبر: 502

ترجمہ:

(٥٠٣) (سیدنا عبداللہ^{رض} سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے تین پتھر لانے کا حکم دیا تو میں دو پتھر اور ایک

گوبر لے آیا، آپ ﷺ نے پتھر لے لیے اور گوبر پھینک دیا اور فرمایا: میرے پاس پتھر لے کر آؤ۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The statement that performing instanja with three pebbles is obligatory

Hadith number: 502

Translation:

(502) It is narrated on the authority of Abdullah that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) ordered me to bring three stones and I brought two stones and one dung. He took the stones and threw the dung and said: Bring me stones.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 503

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ (٥٠٤)
الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ
عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي
، بُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ ((مَنْ تَوَضَّأَ فَلَيْسَتْ تَنْتَرُ
وَمَنْ اسْتَجَمَرَ فَلْيُوتِرْ)) -
رَوَاهُ مُسْلِمٌ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى
وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ -
وَتَبَّتْ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي بُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - مِثْلَهُ - (ت)
وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - مِثْلَهُ فِي الْإِسْتِجْمَارِ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان
باب: ڈھیلہ طاق عدد میں استعمال کرنا

حدیث نمبر: 503

ترجمہ:

(۵۰۴) (سیدنا ابوہریرہ ^{رض} سے روایت ہے کہ رسول اللہ ^{صلی اللہ علیہ وسلم} نے فرمایا " جو وضو کرے تو وہ ناک جھاڑے اور جو ڈھیلہ استعمال کرے تو وہ طاق عدد میں استعمال کرے۔

(ب) (سیدنا ابوہریرہ ^{رض} سے دوسری روایت اسی طرح منقول ہے۔
(ج) (سیدنا جابر ^{رض} سے ڈھیلے استعمال کرنے کے متعلق اسی طرح منقول ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Using pebbles in odd numbers

Hadith number: 503

Translation:

(503) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said:

"Whoever performs ablution should wipe his

nose and whoever uses it pebbles should use them in odd numbers."

(B) The second narration from Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) is narrated like this.

(C) It is similarly narrated from Syeduna Jabir (may Allah be pleased with him) about the usage of pebbles.

[Sahih. Narrated by Bukhari 161 and Muslim 237 and Nasai 86 and Tirmidhi 27 and Ibn Majah 406 and Ahmad 2/242 and Darimi 730]

Sunan Kubra Bayhaqi 504

Arabic Text:

وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - ((إِذَا (٥٠٥)
اسْتَجَمَرَ أَحَدُكُمْ فَلَيْسَتْجَمِرُ ثَلَاثًا)) - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ أَحْمَدُ بْنُ
عَلِيِّ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ
: - الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -
((إِذَا اسْتَجَمَرَ أَحَدُكُمْ فَلَيْسَتْجَمِرُ ثَلَاثًا)) -
(ق (وَفِي هَذَا كَالدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّ أَمْرَهُ بِالِاسْتِجْمَارِ وَثَرًا هُوَ الْوِثْرُ
الَّذِي يَزِيدُ عَلَى الْوَاحِدِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: ڈھیلہ طاق عدد میں استعمال کرنا

حدیث نمبر: 504

:ترجمہ

(: ۵۰۵) سیدنا جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
جب تم سے کوئی ڈھیلے استعمال کرے تو تین استعمال کرے۔"

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Using pebbles in odd numbers

Hadith number: 504

Translation:

(504) It is narrated from Syeduna Jabir (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "When one of you uses pebbles, he should use three."

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence). Narrated by 3/400]

Sunan Kubra Bayhaqi 505

Arabic Text:

حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقْرِيُّ أَخْبَرَنَا (٥٠٦)
الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ وَعَمْرُو بْنُ الْوَلِيدِ
قَالَ حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ حُصَيْنِ الْخُبْرَانِيِّ عَنْ أَبِي سَعْدِ
الْخَيْرِ عَنْ أَبِي بُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَ ((: مَنْ اسْتَجْمَرَ
فَلْيُوتِرْ ، مَنْ فَعَلَ بِذَا فَقَدْ أَحْسَنَ ، وَمَنْ لَأَ فَلَا حَرَجَ)) .
(ق (وَبِذَا إِنْ صَحَّ فَإِنَّمَا أَرَادَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَثَرًا يَكُونُ بَعْدَ الثَّلَاثِ .

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

كتاب : پاکی کا بیان

باب : ڈھیلہ طاق عدد میں استعمال کرنا

حدیث نمبر : 505

ترجمہ:

" (: ۵۰۶ (سیدنا ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا جو ڈھیلہ استعمال کرے وہ طاق عدد میں استعمال کرے جس نے ایسا کیا اس نے اچھا کیا اور جس نے نہ کیا تو (اس پر) کوئی حرج نہیں۔
(ب) اگر یہ روایت صحیح ہو تو تین کے بعد وتر کا اطلاق ہوگا۔ واللہ اعلم

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Using pebbles in odd numbers

Hadith number: 505

Translation:

(505) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "Whoever uses pebbles, let him use it in odd numbers. He who has done so has done well, and he who has not done so, there is no harm in it."

(B) If this narration is sahih, then odd numbers will be used after three. Allah knows best.

[Daif (Weak). Narrated by Abu Dawud 35]

Sunan Kubra Bayhaqi 506

Arabic Text:

فَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : عَبْدُ (٥٠٧)
اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي بِمَرَوْ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ حَدَّثَنَا
رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْخَزَّازُ عَنْ عَطَائٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - قَالَ ((: إِذَا اسْتَجَمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ ، فَإِنَّ اللَّهَ وَثْرٌ
يُحِبُّ الْوَثْرَ - أَمَا تَرَى السَّمَوَاتِ سَبْعًا وَالْأَرْضِ سَبْعًا
وَالطَّوَّافَ)) - وَذَكَرَ أَشْيَاءَ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب : پاکی کا بیان
باب : ڈھیلہ طاق عدد میں استعمال کرنا
حدیث نمبر : 506

: ترجمہ

" (: ٥٠٧) (سیدنا ابوہریرہ رض سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا
جب تم سے کوئی ڈھیلہ استعمال کرے تو وہ طاق عدد

میں استعمال کرو اللہ تعالیٰ طاق ہے اور طاق عدد کو پسند کرتا ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ آسمان سات ہیں زمینیں سات ہیں اور طواف کے چکر (سات ہیں اور ان کے علاوہ چیزوں کا ذکر بھی کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Using pebbles in odd numbers

Hadith number: 506

Translation:

(506) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: When one of you uses pebbles, so he should use them in odd numbers. Allah is odd and likes odd numbers. Did you not see that the heavens are seven, the earth is seven, and the circumambulation is seven? And he also mentioned other things.

[Daif (Weak). Narrated by Ibn Khuzaymah 77]

Sunan Kubra Bayhaqi 507

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ بَنِيَسَابُورَ وَأَبُو الْقَاسِمِ زَيْدُ (٥٠٨)
بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْعَلَوِيُّ بِالْكُوفَةِ قَالَا أَخْبَرَنَا أَبُو
جَعْفَرِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ دُحَيْمِ الشَّيْبَانِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ الْعَبْسِيُّ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ مُجَابِدًا يُحَدِّثُ عَنْ
طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - عَلَى قَبْرَيْنِ
فَقَالَ: إِنَّهُمَا لِيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَا أَحَدُهُمَا فَكَانَ
يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنْ بَوْلِهِ -
وَقَالَ وَكِيعٌ: لَا يَتَوَقَّى - قَالَ: فَدَعَا بِعَسِيبٍ رَطْبٍ فَشَقَّهُ بِإِثْنَيْنِ
ثُمَّ غَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا، ثُمَّ قَالَ: لَعَلَّهُ أَنْ،
يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَبْسَا -
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي مُوسَى وَغَيْرِهِ، وَرَوَاهُ
مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ وَغَيْرِهِ كُلِّهِمْ عَنْ وَكِيعٍ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا بیان

حدیث نمبر: 507

ترجمہ:

(۵۰۸) (سیدنا ابن عباس^{رض} سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ دو قبروں کے پاس سے گزرے تو آپ ﷺ نے فرمایا: بلاشبہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی چیز کی وجہ سے نہیں بلکہ ان میں سے ایک چغل خور تھا اور دوسرا اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ وکیع کہتے ہیں پرہیز نہیں کرتا تھا۔ راوی کہتا ہے: آپ ﷺ نے ایک تر و تازہ ٹہنی منگوائی اور اس کے دو ٹکڑے کیے، پھر ایک کو ایک قبر پر اور دوسری کو دوسری پر گاڑ دیا پھر فرمایا: شاید اللہ تعالیٰ ان دونوں سے عذاب کو ہلکا کر دے جب تک یہ خشک نہ ہوں۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on Taking Caution

Against Urine Splashes

Hadith number: 507

Translation:

(507) It is narrated on the authority of Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) passed by two graves and said: They are both being tormented and not because of anything big but one of them was a slanderer. And the other did not to save himself from being soiled with his urine. Waqi says he did not abstain. The narrator says: He called for a fresh twig and cut it into two pieces, then fixed one on one grave and the other on the other. Then he said: Maybe Allah might lighten the torment of both of them until they (the twigs) become dry.

[Sahih. Narrated by Bukhari 216, 218, 1361, 1378, 6052, 6055 and Muslim 292 and Nasai 31, 2068, 2069 and Abu Dawud 20 and Tirmidhi 70 and Ibn Majah 347 and Ahmad

Sunan Kubra Bayhaqi 508

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا (٥٠٩)
أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيَّ بِمَرَوْ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ
مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ-
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ
بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوِيهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ
سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ حَسَنَةَ قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَعَمْرُو بْنُ
، الْعَاصِي فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - وَمَعَهُ دَرَقَةٌ أَوْ شِبْهُ الدَّرَقَةِ
فَجَلَسَ فَاسْتَنْتَرَ بِهَا فَبَالَ وَهُوَ جَالِسٌ ، فَقُلْتُ أَنَا وَصَاحِبِي: انْظُرْ إِلَى
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - كَيْفَ يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ وَهُوَ جَالِسٌ ، فَأَتَانَا
فَقَالَ ((: أَمَا عَلِمْتُمْ مَا لَقِيَ صَاحِبُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، كَانَ إِذَا أَصَابَ
أَحَدًا مِنْهُمْ شَيْئٌ مِنَ الْبَوْلِ

قَرَضَهُ بِالْمَقْرَاضِ - فَنَهَانَهُمْ عَنْ ذَلِكَ فَعُذِبَ فِي قَبْرِهِ (-).

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا بیان

حدیث نمبر: 508

:ترجمہ

(۵۰۹) (عبد الرحمن بن حسنہ فرماتے ہیں کہ میں اور عمرو بن

عاصؓ چلے تو رسول اللہ تشریف لائے اور آپ ﷺ کے پاس

ڈھال یا ڈھال نما کوئی چیز تھی۔ آپ ﷺ بیٹھے اور آپ ﷺ نے

پردہ کیا اور بیٹھنے کی حالت میں پیشاب کیا۔ میں اور میرے

ساتھی نے کہا: رسول اللہ ﷺ کی طرف دیکھو کیسے پیشاب

کرتے ہیں جیسے عورت پیشاب کرتی ہے حالانکہ آپ ﷺ

بیٹھے ہوئے تھے آپ ﷺ ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ ﷺ

نے فرمایا: کیا تمہیں معلوم نہیں ہے جو بنی اسرائیل والوں کو

پہنچا تھا کہ جب ان کو پیشاب وغیرہ لگ جاتا تو اس کو

قینچیوں سے کاٹ دیتے تھے، پھر جب وہ اس کام سے رک

گئے تو اپنی قبر میں عذاب دیے گئے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on Taking Caution
Against Urine Splashes

Hadith number: 508

Translation:

(508) Abd al-Rahman ibn Hasanah said: When I and 'Amr ibn 'Aas (may Allah be pleased with him) were walking, the Messenger of Allah came and he had something like a shield or a shield. He sat down and he covered himself and urinated while sitting. My companion and I said: Look at the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) urinating like a woman urinates while he is sitting. He came to us and said: Do you know what was the trial of the Children of Israel, when urine fell on them so they had to cut off that part

with scissors, then when they stopped doing this, they were tormented in thier grave.

[Sahih. Narrated by Nasai 30 and Abu Dawud 22 and Ibn Majah 346 and Ahmad 4/96]

Sunan Kubra Bayhaqi 509

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورِكَ أَخْبَرَنَا (٥١٠)
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو
دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَائِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ -
قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - يَأْتِي

الْخَلَاءِ فَاتَّبَعُهُ أَنَا وَغُلَامٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِإِدَاوَةٍ مِنْ مَائِي، فَيَسْتَنْجِي
-بِهَا- مُخْرَجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: پانی سے استنجا کرنے کا بیان
حدیث نمبر: 509

:ترجمہ

(۵۱۰) (عطاء بن ابو میمونہ فرماتے ہیں: میں نے سیدنا انس
سے سنا ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب بیت الخلاء آتے تو میں اور
انصار کا ایک لڑکا پانی کا برتن لے کر آپ ﷺ کے پیچھے جاتا
اور آپ ﷺ اس سے استنجا فرماتے۔)

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on performing instanja
with water

Hadith number: 509

Translation:

(509) Ata ibn Abu Maimuna says: I have heard from Anas (may Allah be pleased with him) that when the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) used to come to the toilet, I and a boy of Ansar would go after him with a vessel of water and he would perform istanja.

[Sahih. Narrated by Bukhari 150, 151, 152, 217, 500 and Muslim 271 and Nasai 45 and Abu Dawud 43 and Ahmad 3/112, 171, 209, 259 and Darimi 702, 703]

Sunan Kubra Bayhaqi 510

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوَدْبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ (٥١١)
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِيِّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ
بِشَامٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ
أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ : نَزَلَتْ بِذِهِ الْآيَةِ فِي
: أَهْلِ قُبَايِ { فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا } [التوبة : ١٠٨] قَالَ
كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ فَنَزَلَتْ فِيهِمْ بِذِهِ الْآيَةِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب : پاکی کا بیان
باب : پانی سے استنجا کرنے کا بیان
حدیث نمبر : 510

ترجمہ:

(٥١١) (سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ یہ آیت
اہل قبا کے متعلق نازل ہوئی { فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ }
[التوبة : ١٠٨] قَالَ
كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ فَنَزَلَتْ فِيهِمْ بِذِهِ الْآيَةِ -

يَتَطَهَّرُوا [التوبة: ١٠٨]

اور وہ پانی سے استنجا کرتے تھے اس لیے ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on performing istanja with water

Hadith number: 510

Translation:

(510) Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) narrates from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) that this verse was revealed concerning the people of Qaba:

{ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا }

{Within it are men who love to purify themselves}

[Surah Tawbah 9:108]

And they used to perform istanja with water, that's why this verse was revealed about

them.

[Sahih. Narrated by Abu Dawud 44 and Tirmidhi 3100 and Ibn Majah 357]

Sunan Kubra Bayhaqi 511

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ (٥١٢)
بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ
خَالِدِ الْوَيْبِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَابِدِ
:عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا} [التوبة
١٠٨ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ بِذِهِ آيَةُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - إِلَى
عُوَيْمِ بْنِ سَاعِدَةَ فَقَالَ ((مَا بِذَا الطُّهُورِ الَّذِي أَنْتَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ
بِهِ؟)) (-) فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا خَرَجَ مِنَّا رَجُلٌ وَلَا امْرَأَةٌ مِنْ
الْغَائِطِ إِلَّا غَسَلَ دُبْرَهُ ، أَوْ قَالَ مِقْعَدَتَهُ. فَقَالَ

النَّبِيِّ ﷺ -)) :فِي هَذَا (-).

ت (وَرُوِينَا عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ : أَنَّهُ كَانَ يَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ إِذَا بَالَ- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : مِنَ السُّنَّةِ غَسَلُ الْمَرْأَةِ قُبْلَهَا-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

كتاب: پاکی کا بیان

باب: پانی سے استنجا کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 511

:ترجمہ

(۵۱۲) (الف) (سیدنا ابن عباسؓ فرماتے ہیں: جب یہ آیت {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّطَهَّرُوا} [التوبة: ۱۰۸] نازل ہوئی تو نبی ﷺ نے عویم بن ساعدہ کی طرف پیغام بھیجا اور پوچھا: یہ کون سی طہارت ہے جس پر اللہ نے تمہارے لیے تعریف کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہم میں سے جو مرد یا عورت قضائے حاجت کو نکلتی ہے تو وہ اپنی شرم گاہ کو پانی سے دھوتے ہیں۔ نبی ﷺ نے فرمایا " :اسی کے بارے میں " یہ آیت نازل ہوئی ہے۔

(ب) (سیدنا حذیفہ بن یمانؓ سے روایت ہے کہ جب وہ

پیشاب کرتے تو پانی سے استنجا کرتے اور سیدہ عائشہؓ سے روایت ہے کہ عورت کا اپنی اگلی شرمگاہ کو دھونا سنت ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on performing instanja with water

Hadith number: 511

Translation:

(511) (a) Syeduna Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) says: When this verse {

فِيهِ }
{ رَجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا }

{Within it are men who love to purify themselves}

[Surah Tawbah 9:108] was revealed, the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) sent a message to Awwim ibn Saadah and asked: What is this purification for which Allaah has praised you? He said: O

Messenger of Allah! The man or woman among us who goes to the toilet, washes his private parts with water. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: This verse has been revealed about this.

(B) It is narrated from Hudhayfah ibn Yaman (may Allah be pleased with him) that when he urinated, he performed istanja with water and it is narrated from Ayesha (may Allah be pleased with her) that it is sunnah for a woman to wash her private parts.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence). Narrated by Hakim 1/299]

Sunan Kubra Bayhaqi 512

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو صَادِقٍ : مُحَمَّدٌ (٥١٣)
بْنُ أَبِي الْفَوَارِسِ الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ
أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزِيدِ الْبَيْرُوتِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
شُعَيْبِ بْنِ شَابُورَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ
نَافِعٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ -

قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَنْسُ بْنُ مَالِكِ
الْأَنْصَارِيُّونَ : أَنَّ بَدِيَةَ الْأَيْتَةِ لَمَّا نَزَلَتْ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ
يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ [التوبة: ١٠٨] [فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ - ((يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَتَى عَلَيْكُمْ خَيْرًا فِي -
الطُّهُورِ؟ فَمَا طُهُورُكُمْ هَذَا)) - (قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ نَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ
وَنَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - ((فَهَلْ مَعَ ذَلِكَ
غَيْرُهُ؟)) - (قَالُوا : لَا ، غَيْرَ أَنْ أَحَدَنَا إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَائِطِ أَحَبَّ أَنْ
يَسْتَنْجِيَ بِالْمَاءِ - قَالَ)) : هُوَ ذَاكَ فَعَلَيْكُمْوه)) -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: استنجا میں ڈھیلے اور پانی دونوں استعمال کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 512

ترجمہ:

(۵۱۳) (سیدنا ابو ایوب، جابر بن عبداللہ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہم بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت {فِيهِ رَجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّخِذُوا مِنَ اللَّهِ حُجَّةً} [التوبة: ۱۰۸] نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "اے انصار کی جماعت! اللہ نے تمہاری طہارت کے متعلق بہت اچھی تعریف کی ہے۔ تو وہ تمہاری کیسی طہارت ہے؟" انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اور جنابت سے غسل کرتے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا اس کے علاوہ، انہوں نے کہا: نہیں البتہ ہم سے جب کوئی قضائے حاجت کے لیے نکلتا ہے تو وہ پانی سے استنجا کرنا زیادہ پسند کرتا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا "یہی (وہ کام) ہے اس کو لازم پکڑو۔"

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on using both pebbles and water in istanja

Hadith number: 512

Translation:

(512) Syeduna Abu Ayyub, Jabir bin Abdullah and Anas bin Malik (may Allah be pleased with them) narrate that when this verse **فِيهِ**

{رَجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ}

{Within it are men who love to purify themselves; and Allah loves those who purify themselves}

[Surah Tawbah 9:108] was revealed the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "O people of Ansar! Allah has praised you very well for your cleanliness. What is the nature of your cleanliness?" They said: O Messenger of Allah! We perform ablution for prayers and perform ghusl for janabah. The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: Other

than that? They said: No, although, when one of us goes out to the toilet, he prefers to do istanja with water. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: This is (that thing), hold on to it.

[Hasan (Fair). Narrated by Ibn Majah 355 and Ahmad 6/6]

Sunan Kubra Bayhaqi 513

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ بْنُ أَبِي عَمْرٍو أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ (٥١٤)
بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ
بْنُ عَطَايٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا
قَالَتْ: مُرِّنَ أَرْوَاجِكُنَّ أَنْ يَغْسِلُوا عَنْهُمُ اثْرَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ فَإِنِّي
أَسْتَحْيِيهِمْ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - يَفْعَلُهُ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: استنجا میں ڈھیلے اور پانی دونوں استعمال کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 513

ترجمہ:

(٥١٤) (سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اپنے خاوند کو حکم دو کہ

وہ پاخانے اور پیشاب کے نشان کو دھوئیں، میں ان سے

حیا کرتی ہوں اور رسول اللہ ﷺ بھی ایسے کیا کرتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on using both pebbles
and water in istanja

Hadith number: 513

Translation:

(513) Ayesha (may Allah be pleased with her) says: Order your husband to wash his faeces and urine. I am ashamed of him and the Messenger of Allah used to do the same. [Sahih. Narrated by Ahmad 6/95]

Sunan Kubra Bayhaqi 514

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْمُقْرِي (٥١٥)
بِبَعْدَادَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ
شَاكِرٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ وَأَبُو عَوَانَةَ قَالَا حَدَّثَنَا قَتَادَةُ
فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ.

(ت) (وَرَوَاهُ أَبُو قِلَابَةَ وَغَيْرُهُ عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ فَلَمْ يُسْنِدْهُ إِلَى فِعْلِ
النَّبِيِّ ﷺ) ج (وَقَتَادَةُ حَافِظٌ

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

كتاب: پاکی کا بیان

باب: استنجا میں ڈھیلے اور پانی دونوں استعمال کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 514

ترجمہ:

(٥١٥) (قتادة نے اسی معنی میں روایت ذکر کی ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on using both pebbles
and water in istanja

Hadith number: 514

Translation:

(514) Qatadah has narrated a hadith with the
same meaning.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external
evidence)]

Sunan Kubra Bayhaqi 515

Arabic Text:

وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ (٥١٦)
الْقَاضِي وَإِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ السُّوسِيَّ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو
الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ أَخْبَرَنَا عُقْبَةُ بْنُ
عَلْقَمَةَ حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو عَمَّارٍ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ
نِسْوَةً مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ دَخَلْنَ عَلَيْهَا قَالَتْ فَأَمَرْتُهُنَّ أَنْ يَسْتَنْجِينَ
-بِالْمَاءِ وَقَالَتْ: مُرْنَ أَرْوَاجِكُنَّ بِذَلِكَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
كَانَ يَفْعَلُهُ. قَالَ وَقَالَتْ: هُوَ شِفَاؤُ مِنَ الْبَاسُورِ.
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ: بِذَا مُرْسَلٌ. (ج) (أَبُو عَمَّارٍ: شَدَّادٌ لَا
أُرَاهُ أَدْرَكَ عَائِشَةَ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: استنجا میں ڈھیلے اور پانی دونوں استعمال کرنے کا بیان
حدیث نمبر: 515

ترجمہ:

(۵۱۶) (سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ بصرہ کی عورتیں ان کے پاس آئیں۔ آپ نے ان کو پانی سے استنجا کرنے کا حکم دیا اور یہ بھی کہا کہ اپنے خاوندوں کو بھی اس کا حکم دو، رسول اللہ ﷺ ایسے کرتے تھے اور یہ بواسیر سے شفا کا ذریعہ ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on using both pebbles and water in istanja

Hadith number: 515

Translation:

(515) It is narrated from Ayesha (may Allah be pleased with her) that the women of Basra came to her. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) ordered them to do istanja with water and also told them to order the same to their husbands. The

Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) used to do this and it is a means of healing from hemorrhoids.

[Daif (Weak). Narrated by Ahmad 6/93]

Sunan Kubra Bayhaqi 516

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ الصَّفَّارُ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ الْأَبُوَازِيُّ حَدَّثَنَا
عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ
قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ : إِنَّهُمْ كَانُوا يَبْعَرُونَ بَعْرًا وَأَنْتُمْ
تَتَلَطُّونَ تَلَطًُّا ، فَاتَّبِعُوا الْحِجَارَةَ الْمَائِيَّ-

تَابِعَهُ مِسْعَرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ . قَالَ : لَيْسَ بِذَا مِنْ قَدِيمٍ (ت)
حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ فَإِنَّ عَبْدِ الْمَلِكِ يَرْوِي عَنِ الشَّبَابِ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاكى كا بيان

باب: استنجا ميں ڈھيلے اور پانى دونوں استعمال كرنے كا بيان
حدیث نمبر: 516

ترجمہ:

(517) سيدنا على بن أبى طالبؓ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اونٹوں
كى طرح مينگنیاں كرتے تھے اور تم پتلا پاخانہ كرتے ہو، لہذا
تم پتھروں كے بعد پانى استعمال كرو۔
(ب) عبدالملك كہتے ہیں: یہ حدیث عبدالملك نے شباب سے
روایت كی ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on using both pebbles
and water in istanja

Hadith number: 516

Translation:

(516) Ali ibn Abi Talib (may Allah be pleased with him) says that they used to defecate like camels and you defecate thinly, so use water after (using) pebbles.

(B) Abdul Malik says: This hadith has been narrated by Abdul Malik from Shabab.

[Daif (Weak). Narrated by Ibn Abi Shaybah 1634, 1645 our]

Sunan Kubra Bayhaqi 517

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ (٥١٨)
اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
الْمُخَرَّمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ
بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ قَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِنَّا كُنَّا

نَبَعْرُ بَعْرًا ، وَأَنْتُمْ الْيَوْمَ تَتَلَطُّونَ تَلَطًّا.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: استنجا میں ڈھیلے اور پانی دونوں استعمال کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 517

ترجمہ:

(۵۱۸) عبد الملک بن عمیر سے روایت ہے سیدنا علیؑ نے

فرمایا: ہم تو مینگنیاں کرتے تھے اور تم ان دنوں میں پتلا

پاخانہ کرتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on using both pebbles
and water in istanja

Hadith number: 517

Translation:

(517) AbdulMalik bin Amir narrates that Ali (may Allah be pleased with him) said: We used to defecate like camels and you used to defecate thinly in those days.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 518

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدٍ بْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنَا (٥١٩)
يَحْيَى بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ
: وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ (ح)
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ

اللَّهُ أَبِي دَاوُدَ بْنِ الْمُنَادِي حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
 إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَقَدْ
 رَأَيْتُنِي وَأَنَا سَابِعُ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - مَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا
 وَرَقُ الْحَبْلَةِ أَوْ الْحُبْلَةِ - بَكَدَا حَدَّثَ شُعْبَةُ - حَتَّى إِنْ أَحَدَنَا
 لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ ، ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ تُعَزِّرُنِي عَلَى الْإِسْلَامِ
 لَقَدْ خَسِرْتُ إِذَا وَضَلَّ سَعْيِي - ،

وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ: إِلَّا وَرَقُ الشَّجَرِ أَوْ الْحُبْلَةِ حَتَّى إِنْ
 أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا تَضَعُ الشَّاةُ مَا لَهُ خِلْطٌ وَالْبَاقِي بِمَعْنَاهُ
 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ
 جَرِيرٍ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ
 أَبِي خَالِدٍ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: استنجا میں ڈھیلے اور پانی دونوں استعمال کرنے کا بیان
 حدیث نمبر: 518

ترجمہ:

(۵۱۹) سعید بن ملک سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا: میں

رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ساتواں شخص تھا، ہمارے پاس درختوں کے پتے کھانے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اسی طرح شعبہ نے بیان کیا ہے، اور ہم میں سے ہر شخص بکری کی طرح مینگنیاں کرتا تھا، پھر بنی اسد اسلامی احکام پر عمل میں میرے اندر عیب نکالتے البتہ اس وقت میں خسارہ اٹھاؤں گا جب میری کوشش ضائع ہو جائے۔

ب (ابن عیینہ کی روایت میں ہے کہ درخت کے پتے یا لوبیے جیسی ترکاری استعمال کرتے تھے ہم تمام بکری کی طرح مینگنیاں کرتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on using both pebbles and water in istanja

Hadith number: 518

Translation:

(518) It is narrated from Saeed bin Malik (may Allah be pleased with him) that I saw: I was the seventh person with the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be

upon him), we had nothing to eat except the leaves of the trees. In the same way, Shu'bah has narrated, and each of us used to defecate like a goat (because of eating tree leaves), then Banu Asad started to blame me for (not having understood) Islam. I would be at a loss if my deeds were in vain.

(B) According to the narration of Ibn Ayyina, we used to use vegetables like leaves of trees or beans. We all used to defecate like goats. [Sahih. Narrated by Bukhari 3728, 5412, 6453 and Muslim 2966 and Tirmidhi 2365, 2366 and Ibn Majah 131 and Ahmad 1/174, 181, 186]

Sunan Kubra Bayhaqi 519

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوَدْبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ (٥٢٠)
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ

قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ شَرِيكِ
عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ
النَّبِيُّ ﷺ - إِذَا أَتَى الْخَلَاءَ أَتَيْتُهُ بِمَائٍ فِي تَوْرٍ أَوْ رَكْوَةٍ
فَاسْتَنْجَى، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِإِنَائٍ آخَرَ فَتَوَضَّأَ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَحَدِيثُ الْأَسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ أَتَمُّ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: استنجا کے بعد ہاتھ زمین پر ملنے کا بیان

حدیث نمبر: 519

ترجمہ:

(۵۲۰) سیدنا ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ جب نبی ﷺ بیت الخلا جاتے تو میں ایک برتن میں آپ ﷺ کے پاس پانی لے کر آتا۔ آپ ﷺ استنجا کرتے، پھر اپنا ہاتھ زمین پر ملتے۔ پھر میں آپ ﷺ کے پاس ایک دوسرا برتن لے کر آتا اور آپ ﷺ اس سے وضو کرتے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on rubbing the hands on the ground after istanja

Hadith number: 519

Translation:

(519) Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) says that when the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) went to the toilet, I would bring water to him in a vessel. He would perform istanja, then rub his hand on the ground. Then I would bring another vessel to him and he would perform

ablution with it.

[Hasan (Fair). Narrated by Nasai 50 and Abu Dawud 45 and Ibn Majah 358 and Ahmad 2/311, 454]

Sunan Kubra Bayhaqi 520

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِيُّ أَخْبَرَنَا (٥٢١)
الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو عَثْمَانَ
الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَرِيرِ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -
بَوْضُوءٍ فَاسْتَنْجَى، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ
عَلَى خُفَيْهِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلَيْكَ.

ﷺ

قَالَ: إِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَابِرَتَيْنِ -

هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ وَشُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ أَبِي بَنٍ عَبْدِ (ت)
اللَّهِ-

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ: بَدَأَ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ
شَرِيكِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَدْ قِيلَ عَنْ
أَبَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مَوْلَى لِأَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: استنجا کے بعد ہاتھ زمین پر ملنے کا بیان

حدیث نمبر: 520

:ترجمہ

(۵۲۱) (سیدنا جریر بن عبداللہؓ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس پانی لے کر آیا تو آپ ﷺ نے استنجا کیا پھر اپنا ہاتھ زمین پر ملا، پھر وضو کیا اور موزوں پر مسح کیا، میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ کے پاؤں؟) یعنی پاؤں نہیں دھوئے) آپ ﷺ نے فرمایا: میں نے ان کو وضو کر کے پہنا تھا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on rubbing the hands on the ground after istanja

Hadith number: 520

Translation:

(520) Syeduna Jarir bin Abdullah (may Allah be pleased with him) said: I brought water to the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) and he performed istanja. Then rubbed his hand on the ground, then performed ablution and wiped over his socks. I said: O Messenger of Allah! Your feet? (meaning that he didn't wash his feet).

The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: I performed ablution, then wore them (socks).

[Hasan (Fair). Narrated by Nasai 50 and Abu Dawud 45 and Ibn Majah 358 and Ahmad

Sunan Kubra Bayhaqi 521

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ (٥٢٢)
بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ
حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَوْلَى لَأَبِي بُرَيْرَةَ - قَالَ
وَأُظُنُّهُ قَالَ أَبُو وَهَبٍ - قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ لِي
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - ((وَضِئْنِي)) : ((فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوءٍ فَاسْتَنْجَى ، ثُمَّ
أَدْخَلَ يَدَهُ فِي التُّرَابِ فَمَسَحَهَا بِهِ ثُمَّ غَسَلَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى
: خُفَّيْهِ فَقُلْتُ : إِنَّكَ تَوَضَّأْتَ وَلَمْ تَغْسِلْ رِجْلَيْكَ . قَالَ
((إِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا وَهُمَا طَابِرَتَانِ)) .-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: استنجا کے بعد ہاتھ زمین پر ملنے کا بیان

حدیث نمبر: 521

ترجمہ:

(۵۲۲) ابو وہب کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابوہریرہؓ کو کہتے ہوئے سنا کہ مجھ کو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجھے وضو کراؤ، میں آپ ﷺ کے پاس پانی لے کر آیا آپ ﷺ نے استنجا کیا، پھر اپنا ہاتھ مٹی میں داخل کیا اور اس کو ملا، پھر آپ ﷺ نے اس ہاتھ کو دھویا اور وضو کیا، موزوں پر مسح بھی کیا، میں نے کہا کہ آپ نے وضو کیا اور پاؤں نہیں دھوئے، آپ ﷺ نے فرمایا "میں نے ان کو وضو کر کے پہنا تھا۔"

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on rubbing the hands on the ground after istanja

Hadith number: 521

Translation:

(521) Abu Wahb says that I heard Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) saying: The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said to me: Pour water for my ablution. I brought water to him. He performed istanja, then he entered his hands in the ground and rubbed them, then he washed that hand and performed ablution. He also wiped on his socks. I said that he performed ablution and did not wash his feet. He (the Prophet) said: I performed ablution before wearing them.

[Hasan Li Ghayrihi (Fair due to external evidence). Narrated by Ahmad 2/358]

Sunan Kubra Bayhaqi 522

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ (۵۲۳)
يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا ابْنُ
أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ : أَنَّ أَنَسَ بْنَ
مَالِكٍ كَانَ يُوضَعُ لَهُ الْمَاءُ وَالْأَشْنَانُ ، يَعْنِي لِلِاسْتِنْجَاءِ .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: استنجا کے بعد ہاتھ زمین پر ملنے کا بیان

حدیث نمبر: 522

:ترجمہ

(۵۲۳) انس بن سیرین سے روایت ہے کہ سیدنا انس بن مالک
کے لیے پانی اور اشنان (صابن نما بوٹی) رکھا جاتا یعنی
استنجا کرنے کے لیے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on rubbing the hands on the ground after istanja

Hadith number: 522

Translation:

(522) It is narrated from Anas ibn Sirin that water and ashnan (soap-like herb) were kept for Anas ibn Malik (may Allah be pleased with him), that is, for performing istanja.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 523

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا (٥٢٤)
أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا
سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو
الْقُرَشِيُّ عَنْ جَدِّهِ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ : كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ
يَتَّبِعُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - بِإِدَاوَةِ لَوْضُوئِهِ وَحَاجَّتِهِ قَالَ فَأَدْرَكَهُ يَوْمًا
فَقَالَ ((مَنْ هَذَا؟)) (. قَالَ : أَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ . قَالَ) : ابْغِنِي أَحْجَارًا
أَسْتَنْفِضُ بِهَا وَلَا تَأْتِنِي بَعْظُمٌ وَلَا رَوْتٌ ((. فَأَتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ فِي
: ثَوْبِي ، فَوَضَعْتُهَا إِلَى جَنْبِهِ حَتَّى إِذَا فَرَغَ وَقَامَ تَبِعْتُهُ فَقُلْتُ
يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَالُ الْعَظْمِ وَالرَّوْتِ؟ فَقَالَ) : أَتَانِي وَفُدُّ
نَصِيبِينَ فَسَأَلُونِي الزَّادَ ، فَدَعَوْتُ اللَّهَ لَهُمْ أَنْ لَا يَمْرُؤًا يَمْرُؤًا بِرَوْثَةٍ وَلَا
بِعَظْمٍ إِلَّا وَجَدُوا عَلَيْهِ طَعَامًا)) (.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: پتھر اور اس طرح کی صفائی والی چیزوں سے

استنجا کرنے اور دیگر چیزوں سے ممانعت کا بیان

حدیث نمبر: 523

ترجمہ:

(۵۲۴) (سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو اور قضائے حاجت کے لیے پانی کا برتن آپ کے پیچھے لے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دن پایا تو پوچھا: کون ہے؟ انہوں نے کہا: میں ابو ہریرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے لیے پتھر تلاش کرو تاکہ میں استنجا کروں اور میرے پاس ہڈی اور گوبر نہ لانا۔ میں اپنے کپڑوں میں دو پتھر لایا وہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں رکھ دیے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے اور کھڑے ہوئے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہا۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہڈی اور گوبر کا کیا معاملہ ہے؟

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے پاس نصیبین کا وفد آیا، انہوں نے سے زاد راہ کا سوال کیا، میں نے ان کے لیے اللہ سے دعا کی کہ وہ جس گوبر اور ہڈی کے پاس سے گزریں اس پر کھانا پائیں۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on performing istanja from stones and similar cleaning items and the prohibition of many things

Hadith number: 523

Translation:

(523) Syeduna Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) used to carry a vessel of water behind him for when he went to the toilet and for ablution of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him). When he found them one day, he asked: Who is it? He said: I am Abu Hurayrah. He said: Find a stone for me so that I may perform istanja and do not bring bone and dung to me. I brought two stones in my clothes and I placed them beside him until he finished and stood up and I stayed behind him.

I said: O Messenger of Allah! What about bone and dung?

The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said: A delegation of Jinns from

(the city of) Nasibin came to me, they asked me for provisions, I prayed to Allah for them to find food on the dung and bone they passed by.

[Sahih. Narrated by Bukhari 3860]

Sunan Kubra Bayhaqi 524

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْعَبْدِيُّ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ (٥٢٥)
الْحَسَنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمُقْرِي أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ
حَيَّانَ الْمَازِنِيُّ بِالْبَصْرَةِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ
الْحَجَبِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ
أَبِي بُرَيْرَةَ قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - أَحْمِلُ إِذَا وَتِي
فَأَدْرَكْتُهُ وَهُوَ يُرِيدُ الْحَاجَةَ -

فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ۔

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيِّ عَنْ عَمْرِو
بْنِ يَحْيَى مُخْتَصَرًا دُونَ سُؤَالِ أَبِي بُرَيْرَةَ وَدُونَ ذِكْرِ الْجَنِّ
مِنْ نَصِيبِينَ۔

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: پتھر اور اس طرح کی صفائی والی چیزوں سے استنجا
کرنے اور دیگر چیزوں سے ممانعت کا بیان

حدیث نمبر: 524

ترجمہ:

(525) (سیدنا ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک برتن اٹھائے ہوئے نکلا، تو میں نے آپ ﷺ کو اس حال میں پایا کہ آپ ﷺ قضائے حاجت کا ارادہ رکھتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on performing istanja
from stones and similar cleaning items and the
prohibition of many things

Hadith number: 524

Translation:

(524) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that I went out with the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) carrying a vessel. So I found him in a situation where he intended to go to the toilet.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 525

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ (٥٢٦)
سَلْمَانَ الْفَقِيهَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْقَاضِي حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ : الْفَضْلُ
بْنُ دُكَيْنٍ وَأَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ حَدَّثَنَا زُبَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ قَالَ لَيْسَ أَبُو عُبَيْدَةَ ذَكَرَهُ وَلَكِنْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ
عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ يَقُولُ : أَتَى النَّبِيَّ ﷺ - الْغَائِطَ
فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ قَالَ فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالتَّمَسْتُ
الثَّلَاثَ فَلَمْ أَجِدْهُ ، فَأَخَذْتُ رَوْثَةً وَأَتَيْتُ بِهَا النَّبِيَّ ﷺ - فَأَخَذَ
الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى الرَّوْثَةَ وَقَالَ ((بِذَا رُكْسٌ)) -
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ. وَبِذَا حَدِيثٌ قَدْ
اخْتَلَفَ فِيهِ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ السَّبْعِيُّ فَرَوَاهُ زُبَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ
بِكَذَا وَاعْتَمَدَهُ الْبُخَارِيُّ وَوَضَعَهُ فِي الْجَامِعِ -
وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (ت)
وَزَادَ فِي آخِرِهِ : ائْتَنِي بِحَجَرٍ -
وَرَوَاهُ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ -
وَرَوَاهُ إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ

اللہ۔

قَالَ أَبُو عِيْسَى التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثُ إِسْرَائِيلَ عِنْدِي أَثْبَتٌ وَأَصَحُّ (ج)
لَأَنَّ إِسْرَائِيلَ أَثْبَتٌ فِي أَبِي إِسْحَاقَ مِنْ بَوْلَائِي ، وَتَابَعَهُ
عَلَى ذَلِكَ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ۔

قَالَ : وَزُبَيْرٌ فِي أَبِي إِسْحَاقَ لَيْسَ بِذَلِكَ لِأَنَّ سَمَاعَهُ مِنْ أَبِي
إِسْحَاقَ بِآخِرَةٍ ، وَأَبُو إِسْحَاقَ فِي آخِرِ أَمْرِهِ كَانَ قَدْ سَأَى حِفْظَهُ۔

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب : پاکی کا بیان

باب : پتھر اور اس طرح کی صفائی والی چیزوں سے استنجا
کرنے اور دیگر چیزوں سے ممانعت کا بیان

حدیث نمبر : 525

:ترجمہ

(۵۲۶) (عبد الرحمن بن اسود اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں کہ
انہوں نے عبد اللہؓ کو کہتے ہوئے سنا کہ نبی ﷺ قضائے حاجت
حاجت کو آئے تو آپ ﷺ نے مجھے حکم دیا کہ میں آپ کے
پاس تین پتھر لے کر آؤں مجھے دو پتھر مل گئے اور تیسرے
کو میں نے تلاش کیا تو انہیں نہ ملا۔ پھر میں نے

گوبر لیا اور اس کو نبی ﷺ کے پاس لے آیا، آپ ﷺ نے پتھر لے لیے اور گوبر کو پھینک دیا اور فرمایا یہ پلید ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on performing instanja from stones and similar cleaning items and the prohibition of many things

Hadith number: 525

Translation:

(525) Abdul Rahman bin Aswad narrates from his father that he heard Abdullah saying that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) came to the toilet, so he ordered me to bring him three stones and I found two stones. I went and searched for the third one but couldn't find it. I then took dung and brought it to the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him). He took the stone and threw the dung and said: It is

unclean.

[Sahih. Narrated by Bukhari 156 and Nasai 42 and Tirmidhi 17 and Ibn Majah 314 and Ahmad 1/388, 418, 427]

Sunan Kubra Bayhaqi 526

Arabic Text:

قَالَ الشَّيْخُ وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ (٥٢٧)
الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُوَيْبَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -
ﷺ - لِحَاجَتِهِ فَقَالَ ((:انْتَبِي بِشَيْءٍ أَسْتَنْجِي بِهِ وَلَا تُقَرِّبِي
حَائِلًا وَلَا رَجِيْعًا)) -
وَبِذِهِ الرَّوَايَةُ إِنْ صَحَّتْ تُقَوَّى رِوَايَةُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ - ج (إِلَّا أَنْ لَيْثَ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ ضَعِيفٌ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: پتھر اور اس طرح کی صفائی والی چیزوں سے استنجا کرنے اور دیگر چیزوں سے ممانعت کا بیان

حدیث نمبر: 526

ترجمہ:

(۵۲۷) (سیدنا عبداللہؓ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے نکلا تو آپ ﷺ نے فرمایا " : میرے پاس کوئی چیز لے کر آؤ جس سے میں استنجا کروں " اور میرے پاس گوبر نہ لانا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on performing instanja from stones and similar cleaning items and the prohibition of many things

Hadith number: 526

Translation:

(526) It is narrated from Abdullah that when I went out with the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) to go to the toilet, he said: "Bring me something from which I can perform istanja and do not bring dung to me."

[Daif (Weak). Narrated by Ahmad 1/426]

Sunan Kubra Bayhaqi 527

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ (٥٢٨)
يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ وَمُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ
أَبِي طَالِبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى
بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَامِرٍ قَالَ : سَأَلْتُ عُلْقَمَةَ بِنْتُ
كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - لَيْلَةَ الْجِنِّ؟ قَالَ عُلْقَمَةُ : أَنَا
سَأَلْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقُلْتُ : بَلْ شَهِدَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -
ﷺ - لَيْلَةَ الْجِنِّ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - ذَاتَ لَيْلَةٍ
فَفَقَدْنَاهُ فَالْتَمَسْنَاهُ فِي الْأُودِيَةِ وَالشَّعَابِ فَقُلْنَا : اسْتَطِيرَ أَوْ
اغْتِيلَ فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا هُوَ جَائٍ
مِنْ قِبَلِ حِرَائٍ ، قَالَ فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَدْنَاكَ فَطَلَبْنَاكَ فَلَمْ
نَجِدْكَ ، فَبِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ بِهَا قَوْمٌ - قَالَ ((: أَتَانِي دَاعِيَ الْجِنِّ
فَذَبَبْتُ مَعَهُ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ)) (-. قَالَ : فَانْطَلَقَ بِنَا فَأَرَانَا
آثَارَهُمْ وَأَثَارَ نِيرَانِهِمْ ، وَسَأَلُوهُ الزَّادَ فَقَالَ)) : كُلُّ عَظْمٍ ذَكَرَ اسْمُ
اللَّهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِي أَيْدِيكُمْ أَوْ فَرَّ مَا يَكُونُ لَحْمًا ، وَكُلُّ بَعْرَةٍ عَلَفَ
لِدَوَابِّكُمْ)) (-. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -)) : لَا تَسْتَنْجُوا بِهِمَا فَإِنَّهُمَا
طَعَامُ إِخْوَانِكُمْ)) (-.

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى هَكَذَا.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: پتھر اور اس طرح کی صفائی والی چیزوں سے استنجا

کرنے اور دیگر چیزوں سے ممانعت کا بیان

حدیث نمبر: 527

ترجمہ:

(: ۵۲۸) عامر سے روایت ہے کہ میں نے علقمہ سے سوال کیا کیا ابن مسعود رض جنوں والی رات نبی ﷺ کے ساتھ تھے؟ انہوں نے فرمایا: میں نے ابن مسعود رض سے سوال کیا کہ کیا جنوں والی رات تم میں سے کوئی رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھا؟ انہوں نے کہا: نہیں، لیکن ایک رات ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے ہم نے آپ کو گم پایا تو ہم نے آپ کو وادیوں اور ٹیلوں میں تلاش کیا کیا پھر ہم نے کہا: آپ ﷺ کو اڑا لیا گیا ہے یا اغواء کر لیا ہے، ہم نے وہ رات پریشانی کی حالت میں گذاری، لوگوں نے بھی ہماری طرح رات گذاری۔ جب ہم نے صبح دیکھا تو آپ ﷺ حراء کی طرف سے آ رہے تھے۔ ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم نے آپ ﷺ کو گم

پایا اور آپ کو بہت تلاش کیا، لیکن ہم آپ ﷺ کو ڈھونڈ نہ سکے۔ ہم نے بہت تکلیف میں رات گزاری ہے ایسے ہی دوسرے لوگوں نے بھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میرے پاس جنوں کے داعی آئے تھے، میں ان کے ساتھ چلا گیا اور میں نے ان پر قرآن پڑھا۔ راوی کہتا ہے: آپ ﷺ ہمارے ساتھ چلے اور فرمایا: ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا جائے جو تمہارے ہاتھوں میں ہوتی ہے پھر وہ (جنوں کے لیے) گوشت سے بھر جاتی ہے اور ہر چارے والی میگنی جو تمہارے چوپائے کے لیے ہے، تم ان دونوں سے استنجا نہ کرو کیونکہ یہ دونوں تمہارے (جن) بھائیوں کا کھانا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on performing instanja from stones and similar cleaning items and the prohibition of many things

Hadith number: 527

Translation:

(527) It is narrated from Amir that I asked Alqamah (may Allah have mercy on him):

Was Ibn Masud (may Allah be pleased with him) with the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) on the night of the jinn? He said: I asked Ibn Masud (may Allah be pleased with him) if any of you were with the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) on the night of the jinn. He said: No, but one night we were with the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) and we lost him. We searched for him in the valleys and the hills and said. He has either been taken away (by jinn) or has been secretly killed. We spent that night in a state of anxiety, people also spent the night like us. When we saw him in the morning, he was coming from Hira. We said: O Messenger of Allah! We lost you and searched for you a lot, but we couldn't find you. We have spent the night in great distress, as have other people. He said: The callers of the jinn came to me, I went with them and I recited the Quran to them. The

narrator says: the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) went with us and he said: Every bone on which the name of Allah is mentioned, which is in your hands, then it is filled with flesh (for the jinn) and every dung (of camels) which is for your cattle, do not perform instanja with them, for they are the food of your (jinn) brothers.

[Sahih. Narrated by Muslim 450 and Tirmidhi 3258]

Sunan Kubra Bayhaqi 528

Arabic Text:

وَرَوَاهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُجْرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوُدَ (۵۲۹)
بْنِ أَبِي بِنْدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَى قَوْلِهِ: وَأَثَارَ نِيرَانِهِمْ-
قَالَ الشَّعْبِيُّ: وَسَأَلُوهُ الزَّادَ وَكَانُوا مِنْ جِنِّ الْجَزِيرَةِ- إِلَى
آخِرِ الْحَدِيثِ مِنْ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ مُفَصَّلًا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ-
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ وَجَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرِ قَالَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ
بْنِ حُجْرٍ فَذَكَرَهُ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: پتھر اور اس طرح کی صفائی والی چیزوں سے استنجا
کرنے اور دیگر چیزوں سے ممانعت کا بیان
حدیث نمبر: 528

:ترجمہ

(۵۲۹) (داؤد بن ابو ہند اسی سند سے) (وَآثَارِ نَيْرِ الْهِمِّ) (تک بیان کرتے ہیں۔

(ب) (شعبی کہتے ہیں کہ انہوں نے سوال کیا اور وہ ایک جزیرہ کے جن تھے۔ شعبی کی حدیث عبد اللہ کی حدیث سے مفصل ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on performing instanja from stones and similar cleaning items and the prohibition of many things

Hadith number: 528

Translation:

(528) Dawood bin Abu Hind narrates from the same chain of transmission till (وَآثَارِ نَيْرِ الْهِمِّ).

(B) Shabi says he asked the question and the jinn were from an island. The hadith of Shaabi is detailed from the hadith of Abdullah.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 529

Arabic Text:

وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ إِلَى قَوْلِهِ : وَآثَارَ (٥٣٠)

نِيرَانِهِمْ-

ثُمَّ قَالَ قَالَ دَاوُدُ وَلَا أَذْرِي فِي حَدِيثِ عُلْقَمَةَ أَوْ فِي حَدِيثِ عَامِرٍ
أَنَّهُمْ سَأَلُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - تِلْكَ اللَّيْلَةَ الزَّادَ فَذَكَرَهُ :

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِيُّ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ

إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ فَذَكَرَهُ-

وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ دَاوُدَ مُدْرَجًا فِي الْحَدِيثِ مِنْ غَيْرِ شَكِّ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب : پاکی کا بیان

باب : پتھر اور اس طرح کی صفائی والی چیزوں سے

استنجا کرنے اور دیگر چیزوں سے ممانعت کا بیان

حدیث نمبر: 529

ترجمہ:

(۵۳۰) (محمد بن ابو عدی، داؤد سے) (وَأَثَارَ نَيْرِ الْهِمِّ) (تک بیان کرتے ہیں، پھر فرماتے ہیں کہ داؤد نے کہا: میں علقمہ کی یا عامر کی حدیث کو نہیں جانتا کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے اس رات زاد راہ کا سوال کیا ہو جس کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on performing instanja from stones and similar cleaning items and the prohibition of many things

Hadith number: 529

Translation:

(529) Muhammad ibn Abu Udai narrates from Dawood till (وَأَثَارَ نَيْرِ الْهِمِّ), then he says that Dawood said: I do not know the hadith of

Alqamah or Amir that he asked the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) about the path that he mentioned that night.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 530

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذُبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ دَاسَةَ (٥٣١)
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا حَيَّوَةُ بْنُ شَرِيحِ الْحِمَاصِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ
عِيَّاشٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو السَّيِّبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
الدَّيْلَمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَدِيمٌ وَفُدُّ الْجِنَّ عَلَى النَّبِيِّ -
فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُ أُمَّتَكَ أَنْ يَسْتَنْجُوا بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثَةٍ أَوْ
حُمَمَةٍ ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ لَنَا فِيهَا رِزْقًا. قَالَ

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: پتھر اور اس طرح کی صفائی والی چیزوں سے استنجا کرنے اور دیگر چیزوں سے ممانعت کا بیان

حدیث نمبر: 530

ترجمہ:

(۵۳۱) (عبداللہ بن مسعود^{رض} سے روایت ہے کہ نبی ﷺ کے پاس جنوں کا وفد آیا، انہوں نے کہا: اے محمد! اپنی امت کو منع کرو کہ وہ ہڈی اور گو بر یا کوئلہ سے استنجا نہ کریں، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رزق رکھ دیا ہے۔ راوی کہتا ہے: نبی ﷺ نے اس سے منع کر دیا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on performing instanja from stones and similar cleaning items and

the prohibition of many things

Hadith number: 530

Translation:

(530) It is narrated from Abdullah bin Masud (may Allah be pleased with him) that a delegation of jinn came to the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) and said: O Muhammad! Forbid your ummah not to perform istanja with bone and dung or coal, for Allah has provided for us in it. The narrator says: The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) forbade it.

[Sahih. Narrated by Abu Dawud 39]

Sunan Kubra Bayhaqi 531

Arabic Text:

: وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ (٥٣٢)
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ قَالَ قُرِيَ عَلَيَّ ابْنِ وَهْبٍ
حَدَّثَكَ مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - نَهَى أَنْ يُسْتَنْجَى بِعَظْمٍ حَائِلٍ أَوْ رَوْثَةٍ أَوْ حُمَمَةٍ -
عَلَى بْنِ رَبَاحٍ لَمْ يَثْبُتْ سَمَاعُهُ مِنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَالْأَوَّلُ إِسْنَادٌ (ج)
شَامِيٌّ غَيْرُ قَوِيٍّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ -
وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ بْنِ سَنَّةِ الْخُرَاعِيِّ وَعَبْدِ (ت)
الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعِ التَّنُوخِيِّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ إِلَّا أَنَّهُ لَيْسَ
فِي رِوَايَتِهِمَا ذِكْرُ الْحُمَمَةِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: پتھر اور اس طرح کی صفائی والی چیزوں سے استنجا
کرنے اور دیگر چیزوں سے ممانعت کا بیان

حدیث نمبر: 531

ترجمہ:

(۵۳۲) (سیدنا عبداللہ بن مسعود رض سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسیدہ ہڈی، گوبر اور کوئلہ سے استنجا کرنے سے منع کیا ہے۔) ب (علی بن رباح کا ابن مسعود سے سماع ثابت نہیں۔ پہلی سند جو شافی ہے وہ قوی نہیں۔ واللہ اعلم۔) ج (رافع تنوخی کی روایت جو سیدنا ابن مسعود رض سے ہے اس میں کوئلے کا ذکر نہیں ہے۔)

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on performing instanja from stones and similar cleaning items and the prohibition of many things

Hadith number: 531

Translation:

(531) It is narrated from Abdullah bin Masud (may Allah be pleased with him) that the

Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) forbade istanja with rotten bone, dung and coal.

(B) Ali ibn Rabah's hearing from Ibn Masud (may Allah be pleased with him) is not proven.

(C) The narration of Rafi Tanukhi from Syeduna Ibn Masud (may Allah be pleased with him) does not mention coal.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence). Narrated by Al-Daraqutni 1/55, 56]

Sunan Kubra Bayhaqi 532

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوَدْبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ (٥٣٣)
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ
بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ

حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: نَهَانَا
رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أَنْ نَتَمَسَّحَ بِعَظْمٍ أَوْ بَعْرِ -

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ زُبَيْرِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ رَوْحِ -
ت (وَرَوَيْنَا فِيهِ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: پتھر اور اس طرح کی صفائی والی چیزوں سے استنجا

کرنے اور دیگر چیزوں سے ممانعت کا بیان

حدیث نمبر: 532

ترجمہ:

(۵۳۳) ابو زبیر نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع کیا کہ ہم ہڈی یا اونٹنی کی مینگنی سے استنجا کریں۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on performing istanja from stones and similar cleaning items and the prohibition of many things

Hadith number: 532

Translation:

(532) Abu Zubayr heard from Jabir bin Abdullah (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) forbade us to perform istanja with bones or a camel feaces.

[Sahih. Narrated by Muslim 263 and Abu Dawud 38 and Ahmad 3/343, 384]

Sunan Kubra Bayhaqi 533

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذِبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ (٥٣٤)
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبِ
الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ يَعْنِي ابْنَ فَضَالَةَ الْمِصْرِيَّ عَنْ عِيَّاشِ
بْنِ عَبَّاسِ الْقِتْبَانِيِّ أَنَّ شَيْمَ بْنَ بَيْتَانَ الْقِتْبَانِيَّ أَخْبَرَهُ عَنْ شَيْبَانَ
الْقِتْبَانِيَّ عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : إِنْ كَانَ أَحَدُنَا فِي زَمَانِ
رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - لِيَأْخُذُ نِضْوًا أَخِيهِ عَلَى أَنْ لَهُ النِّصْفَ مِمَّا يَغْنَمُ
وَلَنَا النِّصْفَ ، وَإِنْ كَانَ أَحَدُنَا لِيَطِيرُ لَهُ النِّصْلُ وَالرِّيشُ
وَلِلْآخِرِ الْقَدْحُ ، ثُمَّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - : ((يَا رُوَيْفِعُ لَعَلَّ
الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ بَعْدِي ، فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ
أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًّا ، أَوْ اسْتَنْجَى بِرَجِيْعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ فَإِنَّ مُحَمَّدًا مِنْهُ
بَرِيءٌ)) -
النِّضْوُ الْبَعِيرُ الْمَهْزُولُ - (غ)

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: پتھر اور اس طرح کی صفائی والی چیزوں سے استنجا کرنے اور دیگر چیزوں سے ممانعت کا بیان

حدیث نمبر: 533

ترجمہ:

۵۳۴ (رویف بن ثابت سے روایت ہے کہ ہم سے کوئی نبی ﷺ کے زمانہ میں اپنے بھائی کو تیر پکڑاتا اس شرط پر کہ غنیمت میں سے اس کے لیے آدھا ہے۔ پھر مجھ کو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " : اے رویف! شاید تیری زندگی میرے بعد لمبی ہو جائے، تو لوگوں کو بتادے جس نے داڑھی کی گرہ لگائی یا تندی پہنی یا چوپائے کے گوبر یا ہڈی سے استنجا کیا تو محمد ﷺ اس سے بری ہیں۔"

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on performing instanja from stones and similar cleaning items and

the prohibition of many things

Hadith number: 533

Translation:

(533) It is narrated from Rafi ibn Thabit (may Allah be pleased with him) that one of us used to give an arrow to his brother, in the time of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him), on the condition that half of the booty was for him. Then the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said to me: You may live for a long time after I am gone, Rafi, so, tell people that if anyone ties his beard or wears a necklace (a string to ward off the evil eye), or performs instanja with animal dung or bone, Muhammad has nothing to do with him.

[Sahih. Narrated by Nasai 5070 and Abu Dawud 36 and Ahmad 4/108]

Sunan Kubra Bayhaqi 534

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا أَبُو (٥٣٥)
جَعْفَرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ الْبَخْتَرِيِّ الرَّزَّازُ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ
نَصْرِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ مُرَّةَ
عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ أَخِيهِ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ: إِنَّ دِبَاغَهَا قَدْ
- ذَهَبَ بِخَبَثِهِ أَوْ بِنَجْسِهِ أَوْ رَجَسِهِ

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: رنگے ہوئے چمڑے سے استنجا کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 534

:ترجمہ

(۵۳۵) سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مردار کے چمڑے کے متعلق نقل فرماتے ہیں کہ اس کا رنگ لینا اس کی خباثت، نجاست اور اس کی پلیدی کو ختم کر دیتا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on performing istanja with dyed leather

Hadith number: 534

Translation:

(534) Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) narrates from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) about the skin of a corpse that dyeing it removes its evil, impurity and its filthiness.

[Hasan (Fair). Narrated by Ahmad 1/237]

Sunan Kubra Bayhaqi 535

Arabic Text:

وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مُوسَى بْنِ (٥٣٦)
أَبِي إِسْحَاقَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَجُلٍ
: - مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - ﷺ - مِنَ الْأَنْصَارِ أَخْبَرَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -
أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَسْتَطِيبَ أَحَدٌ بَعْضُ أَوْ رَوْتٍ أَوْ جِلْدٍ -
فَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَارِثِيُّ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ
حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ
حَدَّثَنَا أَبُو طَابِرٍ وَعَمْرُو بْنُ سَوَادٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ
عَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ فَذَكَرَهُ. قَالَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ : هَذَا إِسْنَادٌ غَيْرُ ثَابِتٍ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: رنگے ہوئے چمڑے سے استنجا کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 535

ترجمہ:

(۵۳۶) عبد اللہ بن عبد الرحمن انصاری^{رض} سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے نقل فرمایا کہ "بیشک آپ ﷺ نے ہڈی یا گوبر یا چمڑے سے استنجاء کرنے کو منع کیا ہے۔"

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on performing istanja with dyed leather

Hadith number: 535

Translation:

(535) Abdullah bin AbdulRahman Ansari (may Allah be pleased with him) narrates from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) that verily he forbade performing istanja with bone, dung and dyed leather. [Daif (Weak). Narrated by Tahawi in Sharh

Sunan Kubra Bayhaqi 536

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا (٥٣٧)
الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ
أَخْبَرَنَا أَبُو بَشِيرٍ عَنْ طَاوُسٍ
وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَافِظُ (ح)
أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَمَرِيُّ بِالْكُوفَةِ حَدَّثَنَا أَبُو
كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: الْإِسْتِنْبَاجُ
: ثَلَاثَةٌ أَحْجَارٍ أَوْ ثَلَاثَةٌ أَعْوَادٍ. قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَجِدْ. قَالَ
ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مِنَ الثُّرَابِ. هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عَنْ طَاوُسٍ مِنْ
قَوْلِهِ. (ت) وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامٍ
عَنْ طَاوُسٍ. وَرَوَاهُ زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ فَرَفَعَهُ مُرْسَلًا.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مٹی کے ساتھ استنجا کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 536

ترجمہ:

(۵۳۷) (طاؤس سے روایت ہے کہ تین پتھروں سے یا تین لکڑیوں سے استنجا کرنا) مسنون (ہے، میں نے کہا: اگر نہ: ملیں تو؟ انہوں نے کہا: میں اس کو نہیں پایا، پھر کہتے ہیں: تین چلو مٹی کے۔ طاؤس سے یہی صحیح ثابت ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on performing istanja with dust

Hadith number: 536

Translation:

(536) It is narrated from Tawus that it is prescribed to perform istanja with three

stones or three wooden items. I said: If it is not found? He said: I did not find it, then he said: Three handfuls of dust. This has been authentically proven from Tawus.

[Sahih. Narrated by Ibn Abi Shaybah 1439, 1651 our]

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَارِثِيُّ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ (٥٣٨)
الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ زَمْعَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ
: - سَلَمَةَ بْنِ وَهْرَامٍ قَالَ سَمِعْتُ طَاوُسًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -
إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْبِرَازَ فَلْيُكْرِمِ قِبْلَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، فَلَا
يَسْتَقْبِلُهَا وَلَا يَسْتَدْبِرُهَا ثُمَّ لِيَسْتَطِبْ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ أَوْ ثَلَاثَةِ أَعْوَادٍ
أَوْ ثَلَاثِ حَثِيَّاتٍ مِنْ تُرَابٍ ، ثُمَّ لِيَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَخْرَجَ عَنِّي
مَا يُؤْذِينِي وَأَمْسَكَ عَلَيَّ مَا يَنْفَعُنِي - بِكَذَا رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ وَوَكَيْعٌ
وَغَيْرُهُمْ عَنْ زَمْعَةَ -

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُضَرِّيُّ - وَهُوَ كَذَّابٌ مَثْرُوكٌ - عَنْ
أَبِي عَاصِمٍ عَنْ زَمْعَةَ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ - وَلَا يَصِحُّ وَصْلُهُ وَلَا رَفْعُهُ -
قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قُلْتُ لِسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ : أَكَانَ زَمْعَةُ
يَرْفَعُهُ؟ قَالَ : نَعَمْ - فَسَأَلْتُ سَلَمَةَ عَنْهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ يَعْنِي لَمْ
يَرْفَعُهُ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مٹی کے ساتھ استنجا کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 537

:ترجمہ

(۵۳۸) مسلمہ بن وھرام کہتے ہیں: میں نے طاؤس کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " :جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت کو آئے تو وہ اللہ کے قبلے کی عزت کرے نہ اس کی طرف منہ کرے اور نہ ہی اس کی طرف پیٹھ، پھیر تین، پتھر یا تین لکڑیاں یا مٹی کے تین چلوں کے ساتھ استنجا کرے پھر کہے: سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھ سے تکلیف دہ چیز کو نکال دیا اور نفع والی چیز کو روک لیا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on performing istanja with dust

Hadith number: 537

Translation:

(537) Muslimah ibn Wahram says: I heard Tawus say that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: When one of you goes to the toilet, he should respect the qiblah of Allah and should not turn his face towards it nor turn his back towards it, then perform istanja with three stones or three (wooden) sticks or three handfuls of dust, then say: **الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَخْرَجَ عَنِّي مَا يُؤْذِينِي وَأَمْسَكَ عَلَيَّ مَا يَنْفَعُنِي - بِكَذَا رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ وَوَكَيْعٌ وَغَيْرُهُمْ عَنِ زَمْعَةَ.**

{All praise is due to Allah who removed the painful thing from me and withheld the useful thing}.

[Daif (Weak). Narrated by Al-Daraqutni 1/57]

Sunan Kubra Bayhaqi 538

Arabic Text:

وَقَدْ رَوَى مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنْ بِشَامِ (٥٣٩) بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَدِمَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - فَسَأَلَهُ عَنِ التَّغَوُّطِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَسْتَعْلِيَ الرِّيحَ ، وَأَنْ يَتَنَكَّبَ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَقْبِلَهَا وَلَا يَسْتَدْبِرَهَا ، وَأَنْ يَسْتَنْجِيَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ أَوْ ثَلَاثَةِ أَعْوَادٍ أَوْ ثَلَاثِ حَثِيَّاتٍ مِنْ تُرَابٍ -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ حَدَّثَنَا بِقِيَّةُ حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ فَذَكَرَهُ -

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَارِثِيُّ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارِقُطْنِيُّ (ج) الْحَافِظُ: لَمْ يَزُوهُ غَيْرُ مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ وَهُوَ مَثْرُوكُ الْحَدِيثِ - ، قَالَ الشَّيْخُ: وَرَوَى فِيهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ مَرْفُوعًا (ت) وَذَلِكَ يَرُدُّ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مٹی کے ساتھ استنجا کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 538

ترجمہ:

(۵۳۹) (سیدہ عائشہ ^{رض} سے روایت ہے کہ سراقہ بن مالک نبی ﷺ کے پاس آئے اور پاخانے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے اس کو حکم دیا کہ ہوا بلند کرے اور قبلہ کی جانب نہ منہ کرے اور نہ پیٹھ اور تین پتھروں سے استنجا کرے، لیکن اس میں گوبر نہ ہو یا تین لکڑیوں سے یا مٹی کے تین چلو سے استنجا کرے۔) ب (امام ابوالحسن دارقطنی فرماتے ہیں کہ مبشر بن عبید کے علاوہ اس روایت کو کوئی بیان نہیں کرتا اور وہ متروک الحدیث ہے۔ شیخ کہتے ہیں: سیدنا انس بن مالک ^{رض} سے یہ روایت مرفوعاً منقول ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on performing istanja

with dust

Hadith number: 538

Translation:

(538) It is narrated on the authority of Aisha (may Allah be pleased with her) that Saraqah bin Malik (may Allah be pleased with him) came to the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) and asked him about defecation so he ordered him to raise the wind and not to face the qiblah nor turn your back (towards it) and to perform istanja with three stones, but do not use dung in it or do istanja with three sticks or three handfuls of dust.

(B) Imam Abul Hassan Daraqutni (may Allah have mercy on him) says that no one narrates this hadith except Mubashir bin Ubaid and it is an obsolete hadith. Shaykh says: This narration is narrated from Anas ibn Malik in a marfu hadith.

[Daif Jiddan (Very Weak). Narrated by Al-

Sunan Kubra Bayhaqi 539

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ (٥٤٠)
السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّرْقُمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ
غَيْلَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مَوْلَى عُمَرَ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ
كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا بَالَ قَالَ : نَاوَلَنِي شَيْئًا اسْتَنْجَى بِهِ :
قَالَ : فَأَنَاوَلُهُ الْعُودَ وَالْحَجَرَ أَوْ يَأْتِي حَائِطًا يَتَمَسَّحُ بِهِ أَوْ يُمِسُّهُ
الْأَرْضَ وَلَمْ يَكُنْ يَغْسِلُهُ . وَبَذَا أَصَحُّ مَا رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ
وَأَعْلَاهُ .

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاكى كا بيان

باب: مٹی كے ساتھ استنجا كرنے كا بيان

حدیث نمبر: 539

:ترجمہ

(۵۴۰) (يسار بن نمير كے غلام سے روايت ہے كہ سيدنا عمر جب پيشاب كرتے تو كہتے: مجھے كوئى چيز دو جس سے ميں ميں استنجا كروں راوى كہتا ہے: ميں ان كو لكڑى اور پتھر ديتا يا آپ ديوار كے پاس آتے اور اس سے مسح كرتے يا زمين كو چھوتے اور اس كو دھوتے نہيں تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on performing istanja with dust

Hadith number: 539

Translation:

(539) It is narrated from the slave of Yasar bin Namir that when Umar used to urinate, he

would say: Give me something from which I can perform istanja. The narrator says: I would give him wood and stones or he would come to the wall and wipe it or would touch the ground and would not wash it.
[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 540

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَالِينِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو (٥٤١)
أَحْمَدَ بْنَ عَدِيٍّ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا الْخَضِرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أُمَيَّةَ حَدَّثَنَا
مَخْلَدُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي الطَّرَائِفِيَّ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ سَمِعْتُ

أَنَّسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((:الِاسْتِنْجَاءُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَبِالنُّرَابِ إِذَا لَمْ يَجِدْ حَجْرًا ، وَلَا يُسْتَنْجَى بِشَيْءٍ قَدْ اسْتَنْجَى بِهِ مَرَّةً)) .-
عُثْمَانُ الطَّرَائِفِيُّ تَكَلَّمُوا فِيهِ يَرْوَى عَنْ قَوْمٍ مَجْهُولِينَ وَاللَّهُ (ج) أَعْلَمُ . وَرَوَى مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ أَنَسٍ وَلَا يَصِحُّ .-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب : پاکی کا بیان

باب : کسی چیز سے صرف ایک مرتبہ استنجا جائز ہے

حدیث نمبر : 540

:ترجمہ

(۵۴۱) (عبد الرحمن بن عبد الواحد فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا

انس بن مالکؓ سے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " :تین

پتھروں سے استنجا کرو اور مٹی سے استنجا اس وقت کرنا

جب پتھر نہ پائے اور جس چیز سے ایک مرتبہ استنجا کیا گیا

" ہے اس سے دوبارہ استنجا نہ کیا جائے .-

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Performing istanja with something only once is permissible

Hadith number: 540

Translation:

(540) AbdulRahman ibn Abd al-Wahid said: I heard from Anas ibn Malik (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allaah (peace and blessings of Allah be upon him) said: "Perform istanja with three stones and (only) istanja with dust when stone is not found and do not perform istanja with something that has been used once already for istanja."

[Daif (Weak). Narrated by Ibn Adiy 1/202, 271]

Sunan Kubra Bayhaqi 541

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ (٥٤٢)
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ هَارُونَ بْنِ مُوسَى الْبَلَدِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي
حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُعَانُ بْنُ
رِفَاعَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ بُخْتِ عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ - ﷺ - ((: الإِسْتِنْجَاءُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَبِالثَّرَابِ إِذَا لَمْ يَكُنْ يَجِدُ
حِجَارَةً وَلَا يُسْتَنْجَى بِشَيْءٍ قَدْ اسْتَنْجَى بِهِ مَرَّةً)) (-).
(ج) قَالَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ : عَامَّةٌ مَا رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي
حُمَيْدٍ هَذَا لَا يُتَابَعُهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: کسی چیز سے صرف ایک مرتبہ استنجا جائز ہے

حدیث نمبر: 541

ترجمہ:

" (: ۵۴۲ (سیدنا انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تین پتھروں اور مٹی سے اس وقت استنجا کرنا جب وہ پتھر نہ پائے اور جس چیز سے ایک مرتبہ استنجا کیا جائے اس سے دو بار استنجا نہ کیا جائے۔"

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Performing istanja with something only once is permissible

Hadith number: 541

Translation:

(541) Syeduna Anas (may Allah be pleased with him) says that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "Perform istanja with three stones and with dust when he does not find stones and what is used once for istanja is not to be used again."

[Daif Jiddan (Very Weak). Narrated by Ibn

Sunan Kubra Bayhaqi 542

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ يُوسُفَ (٥٤٣)
السُّوسِيُّ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ التَّوْخِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرِ
حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ - قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ وَأَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ
أَخْبَرَنِي أَبِي حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ وَأَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ حَدَّثَنَا
عُقْبَةُ بْنُ عُلْقَمَةَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ وَالْحَدِيثُ لِلْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنِي
يَحْيَى يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ
حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - يَقُولُ ((إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا
يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ ، وَلَا يَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَائِ ، وَلَا يَسْتَنْجِ
بِيَمِينِهِ)) -

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ عَنِ

الأَوْزَاعِيَّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ أَوْجِهٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ وَفِي
بَعْضِ طُرُقِهِ : لَا يُمَسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: پیشاب کرتے وقت دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کر چھونے کی
ممانعت کا بیان

حدیث نمبر: 542

ترجمہ:

(۵۴۳) (الف) سیدنا ابو قتادہؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے
فرمایا: جب تم سے کوئی پیشاب کرے تو اپنے دائیں ہاتھ سے
شرمگاہ کو نہ چھوئے اور نہ برتن میں سانس لے اور نہ دائیں
ہاتھ سے استنجا کرے۔

(ب) (ایک روایت میں ہے کہ تم میں سے کوئی ہرگز اپنی
شرمگاہ کو پیشاب کرتے ہوئے نہ چھوئے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Prohibition of touching the penis with the right hand while urinating

Hadith number: 542

Translation:

(542) (a) It is narrated from Abu Qatadah (may Allah have mercy on him) that he said: When someone from you urinates, let him not touch the private parts with his right hand, let him not breathe in the vessel and let him not perform istanja with his right hand.

(B) There is a tradition that says that under no circumstances should you touch your private parts while urinating.

[Sahih. Narrated by Bukhari 153, 154, 5630 and Muslim 237 and Nasai 24, 25, 47 and Abu Dawud 31 and Tirmidhi 15, 1889 and Ibn Majah 310 and Ahmad 5/296, 300, 310 and Darimi 13/700]

Sunan Kubra Bayhaqi 543

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورِكَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ (٥٤٤)
بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا بِشَامٌ عَنْ
يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ - قَالَ ((إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْخَلَاءُ فَلَا يَسْتَنْجِينَ بِيَمِينِهِ
وَلَا يَمَسُّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ)) -
مُخْرَجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ بِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ -
وَرُويَاهُ مِنْ حَدِيثِ سَلْمَانَ وَأَبِي بُرَيْرَةَ - (ت)

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: دائیں ہاتھ سے استنجا کی ممانعت کا بیان
حدیث نمبر: 543

ترجمہ:

(۵۴۴) (سیدنا قتادہؓ اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ فرمایا " :جب تم سے کوئی بیت الخلاء میں آئے تو وہ اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے اور نہ ہی دائیں ہاتھ سے " شرمگاہ کو چھوئے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Prohibition of performing istanja with the right hand

Hadith number: 543

Translation:

(543) Qatadah (may Allah have mercy on him) quotes his father as saying that the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said: "When one of you comes to the toilet, he should not perform istanja with his right hand and should not touch the private parts with his right hand."

[Sahih. Narrated by Bukhari 153, 154, 5630

and Muslim 267 and Nasai 47 and Abu Dawud 31 and Ibn Majah 310]

Sunan Kubra Bayhaqi 544

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ (٥٤٥)
بْنُ مُوسَى الصَّيْدَلَانِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ
الْأَعْمَشِ وَمَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ
سَلْمَانَ قَالَ قَالَ لَهُ الْمُشْرِكُونَ : إِنَّا نَرَى صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ حَتَّى
، يُعَلِّمُكُمْ الْخِرَاءَةَ قَالَ أَجَلٌ إِنَّهُ نَهَانَا أَنْ يَسْتَنْجِيَ أَحَدُنَا بِيَمِينِهِ
وَأَنْ يَسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ ، وَنَهَانَا عَنِ الرَّوْثِ

وَالْعِظَامِ وَقَالَ: لَا يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُونِ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ -
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: دائیں ہاتھ سے استنجا کی ممانعت کا بیان

حدیث نمبر: 544

:ترجمہ

(: ۵۴۵) سیدنا سلمان سے روایت ہے کہ ان کو مشرکوں نے کہا بلاشبہ ہم تمہارے ساتھی (نبی ﷺ) (کو دیکھتے ہیں کہ وہ تمہیں قضائے حاجت کے لیے بیٹھنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے " !! انہوں نے کہا: جی ہاں، یقیناً آپ نے ہم کو منع کیا ہے کہ ہم میں سے کوئی اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا کرے اور قبلہ کی طرف منہ کرے اور ہم کو گوبر اور ہڈیوں سے منع کیا اور آپ ﷺ نے فرمایا: تم سے کوئی تین پتھروں سے کم میں بھی استنجا نہ کرے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Prohibition of performing istanja
with the right hand

Hadith number: 544

Translation:

(544) It is narrated from Syeduna Salman (may Allah be pleased with him) that the polytheists said to him: Undoubtedly we see your companion (Prophet) also teaches you how to sit for the toilet !! He said: Yes, surely he forbade us to do istanja with our right hand and face the qiblah and forbade us from dung and bones and you said: "No one should perform istanja in less than three stones. "

[Sahih. Narrated by Muslim 262 and Nasai 41 and Abu Dawud 7 and Tirmidhi 16 and Ibn Majah 316 and Ahmad 5/437, 438, 439]

Sunan Kubra Bayhaqi 545

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِيُّ أَخْبَرَنَا (٥٤٦)
الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ
حَدَّثَنِي الْقَعْقَاعُ بْنُ حَكِيمٍ عَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ أَبِي بُرَيْرَةَ عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ - قَالَ ((: إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ أَعْلَمُكُمْ ، فَإِذَا ذَهَبَ
أَحَدُكُمْ الْخَلَاءِ فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرُهَا ، وَلَا يَسْتَنْجِي
بِيَمِينِهِ)) - وَكَانَ يَأْمُرُ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَيُنْهَى عَنِ الرَّوْثِ وَالرِّمَّةِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: دائیں ہاتھ سے استنجا کی ممانعت کا بیان

حدیث نمبر: 545

ترجمہ:

(۵۴۶) (سیدنا ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ میں تمہارے لیے باپ کی مثل ہوں میں تم کو سکھاتا ہوں جب کوئی بیت الخلا جائے، وہ قبلے کی طرف نہ منہ کرے اور نہ ہی پیٹھ اور نہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرے۔ آپ ﷺ ہم کو تین پتھروں کا حکم دیا کرتے تھے اور گوبر اور بوسیدہ ہڈی سے منع کرتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Prohibition of performing instanja with the right hand

Hadith number: 545

Translation:

(545) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "I am like a father to

you, I will teach you, when any one of you goes to the toilet, let him not face toward the qiblah nor turn his back toward it, and let him not perform istanja with his right hand." And he used to tell us to use three stones, and he forbade using dung or old bones.

[Hasan (Fair). Narrated by Nasai 40 and Abu Dawud 8 and Ibn Majah 313 and Ahmad 2/247, 250]

Sunan Kubra Bayhaqi 546

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي (٥٤٧)
وَأَبُو صَادِقِ بْنِ أَبِي الْفَوَارِسِ الصَّيْدَلَانِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا

أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلَانَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي
زَائِدَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو أَيُّوبَ يَعْنِي الْأَفْرِيقِيَّ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الْمُسَيَّبِ
بْنِ رَافِعٍ وَمَعْبُدٍ عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبِ الْخُزَاعِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي
حَفْصَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ - ﷺ - : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - كَانَ يَجْعَلُ
يَمِينَهُ لَطْعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَثِيَابِهِ، وَيَجْعَلُ يَسَارَهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى
كتاب: پاکی کا بیان
باب: دائیں ہاتھ سے استنجا کی ممانعت کا بیان
حدیث نمبر: 546

:ترجمہ

(547) (سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی ﷺ اپنا دایاں ہاتھ
کھانے اور پینے اور کپڑوں کے لیے رکھا کرتے تھے اور
اپنے بائیں ہاتھ کو اس کے علاوہ کاموں کے لیے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Prohibition of performing instanja
with the right hand

Hadith number: 546

Translation:

(546) Syeda Hafsa (may Allah be pleased with her) narrates that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) used his right hand for eating, drinking and clothing and used his left hand for other purposes.

[Sahih. Narrated by Abu Dawud 32 and Ahmad 6/288]

Sunan Kubra Bayhaqi 547

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيُّ أَخْبَرَنَا (٥٤٨)
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الشَّرْقِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَزْرِيعٍ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَايٍ الْخَفَّافُ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي
عَرُوبَةَ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - الْيُمْنَى لِطُهُورِهِ
وَلِطَعَامِهِ وَكَانَتْ الْيُسْرَى لِخَلَائِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَدَى -
بَكْدًا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي السُّنَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمِ بْنِ بَزْرِيعَ عَنْ
عَبْدِ الْوَهَّابِ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى
کتاب: پاکی کا بیان
باب: دائیں ہاتھ سے استنجا کی ممانعت کا بیان
حدیث نمبر: 547

:ترجمہ

(۸۴۵) حضرت عائشہ فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ اپنا دایاں ہاتھ
کھانے اور پینے کے لیے اور بائیں ہاتھ بیت الخلاء اور

دوسری گندگیوں کے لیے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Prohibition of performing instanja
with the right hand

Hadith number: 547

Translation:

(547) Hazrat Ayesha (may Allah be pleased with her) says: The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) used his right hand to eat and drink and his left hand for toilets and other filth.

[Sahih. Narrated by Abu Dawud 33]

Sunan Kubra Bayhaqi 548

Arabic Text:

وَرَوَاهُ عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ فَلَمْ يُذَكَّرْ فِي (٥٤٩)
إِسْنَادِهِ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوَدْبَارِيُّ أَخْبَرَنَا
أَبُو بَكْرٍ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا عِيسَى
بْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ فَذَكَرَهُ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان
باب: دائیں ہاتھ سے استنجا کی ممانعت کا بیان
حدیث نمبر: 548

:ترجمہ

(۵۴۹) ابن ابی عروبہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Prohibition of performing instanja
with the right hand

Hadith number: 548

Translation:

(548) Ibn Abi Aruba narrated this hadith.

[Sahih. Narrated by Abu Dawud 33]

Sunan Kubra Bayhaqi 549

Arabic Text:

وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ (٥٥٠)
عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا. أَخْبَرَنَا
أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِهْرَجَانِيُّ الْمُقْرِيُّ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ
مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ حَدَّثَنَا
ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ فَذَكَرَهُ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: دائیں ہاتھ سے استنجا کی ممانعت کا بیان
حدیث نمبر: 549

ترجمہ:

(٥٥٠) ابن ابی عدی نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Prohibition of performing instanja

with the right hand
Hadith number: 549

Translation:

(549) Ibn Abi Adiy has also narrated this
hadith.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 550

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ : مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا أَبُو (۵۵۱)
 الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ
 الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ
 بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ
 ح (وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو قَالَا
 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمِ
 حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ حَيَّانَ الْقَيْسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ الضَّبِّيُّ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ
 - بْنُ يَحْيَى عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
 : بَالَ فَاتَاهُ عُمَرُ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ ، فَقَالَ : مَا هَذَا يَا عُمَرُ ؟ . قَالَ
 تَوَضَّأَ بِهِ . قَالَ : لِمَ أُمِرَ كُلَّمَا بُلْتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ ، وَلَوْ فَعَلْتُ
 كَانَتْ سُنَّةً . لَفُظُ حَدِيثِ فَهْدِ بْنِ حَيَّانَ .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب : پاکی کا بیان
 باب : پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا بیان
 حدیث نمبر : 550

ترجمہ:

(۵۵۱) سیدہ عائشہ ^{رض} سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے پیشاب

کیا تو سیدنا عمرؓ پانی کا ایک پیالہ لے کر آئے، آپ ﷺ نے فرمایا " :اے عمر! یہ کیا ہے؟ "سیدنا عمرؓ نے کہا: آپ اس سے وضو کر لیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جب بھی میں پیشاب کروں تو وضو کروں اس کا مجھے حکم نہیں دیا گیا اور اگر میں ایسے کروں تو سنت بن جائے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on taking caution against urine splashes

Hadith number: 550

Translation:

(550) It is narrated from Ayesha (may Allah be pleased with her) that when the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) urinated, Umar (may Allah be pleased with him) brought a cup of water and he said, 'O 'Umar! What is this?' Umar said: "Perform ablution" He said: I am not commanded to perform ablution whenever I urinate, and if I

do so, it becomes Sunnah.

[Daif (Weak). Narrated by Abu Dawud 42 and Ibn Majah 327 and Ahmad 6/95]

Sunan Kubra Bayhaqi 551

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْخَلِيلِ الصُّوفِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ (٥٥٢)
بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمْرَةَ الْأَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ
بْنُ سَهْلٍ بْنِ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ
إِسْحَاقَ وَزَمْعَةُ قَالَا حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يَزْدَادَ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِيَّ -
ﷺ - كَانَ إِذَا بَالَ نَتَرَ ذَكَرَهُ ثَلَاثَ نَتَرَاتٍ .

، (ج) قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيٍّ : عَيْسَى بْنُ يَزْدَادَ عَنْ أَبِيهِ مُرْسَلٌ
ابْنُ حَمَّادٍ يَذْكُرُهُ رُوِيَ عَنْهُ زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ لَا يَصِحُّ ، سَمِعْتُ
يَذْكُرُهُ

عَنْ الْبُخَارِيِّ-

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَقِيلَ عَيْسَى بْنُ أَرْزَادَ لَا يُعْرَفُ إِلَّا بِهَذَا
الْحَدِيثِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا بیان

حدیث نمبر: 551

ترجمہ:

(۵۵۲) عیسیٰ بن یزداد اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ جب پیشاب کرتے تو اپنی شرمگاہ کو تین مرتبہ صاف کرتے۔

(ب) (عبداللہ بن عدی کہتے ہیں کہ عیسیٰ بن یزداد اپنے والد سے مرسل روایت بیان کرتے ہیں۔ عبداللہ کہتے ہیں: عیسیٰ بن یزداد اسی روایت میں ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on taking caution against urine splashes

Hadith number: 551

Translation:

(551) Isa ibn Yazdad narrates from his father that when the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) urinated, he would clean his private parts three times.

(B) Abdullah ibn Adiy says that Isa ibn Yazdad narrates a mursal hadith from his father. Abdullah says: Isa ibn Yazdad is in this tradition.

[Daif (Weak). Narrated by Ibn Adiy 5/254]

Sunan Kubra Bayhaqi 552

Arabic Text:

: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ (۵۵۳)
 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ الْقَطْرِيُّ حَدَّثَنَا
 عَتِيقُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَبِيُّ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ
 السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ
 اللَّهِ ﷺ - عَنِ الْإِسْتِطَابَةِ فَقَالَ: أَوْلَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ ثَلَاثَةَ أَحْجَارٍ
 حَجْرَيْنِ لِلصَّفْحَتَيْنِ وَحَجْرًا لِلْمَسْرَبَةِ - كَذَا كَانَ فِي كِتَابِهِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: استنجا کرنے کا طریقہ
 حدیث نمبر: 552

:ترجمہ

(۵۵۳) (سہل بن سعد ساعدیؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے
 استنجا کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تم میں
 سے کوئی تین پتھر نہیں پاتا۔ دو پتھر سرین کے لیے اور ایک
 پتھر بہنے والی جگہ کے لیے۔ اسی طرح آپ کی کتاب میں
 ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The way to perform istanja

Hadith number: 552

Translation:

(552) Sahl ibn Saad Saadi (may Allah be pleased with him) says that when the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) was asked about istanja, he said: Do you not find three stones? Two stones for the hips and one for the place where liquid flows. This is the way it is in his book.

[Daif (Weak). Narrated by Al-Daraqutni 1/56]

Sunan Kubra Bayhaqi 553

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا (٥٥٤)
أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّفَّارِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْخُلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا
عَتِيقٌ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : حَجْرَانِ لِلصَّفْحَتَيْنِ
وَحَجْرٌ لِلْمَسْرَبَةِ -
:أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَارِثِيُّ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الدَّارِقُطْنِيُّ الْحَافِظُ
إِسْنَادُهُ حَسَنٌ - يَعْنِي إِسْنَادَ هَذَا الْحَدِيثِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب : پاکی کا بیان
باب : استنجا کرنے کا طریقہ
حدیث نمبر : 553

:ترجمہ

(٥٥٤) (شیخ عتیق نے اس سند کے ساتھ اور اس کے ہم معنی
نقل کیا ہے اور فرمایا : دو پتھر سرین کے لیے اور ایک پتھر
بہنے والی جگہ کے لیے۔ ابو حسن دارقطنی کہتے ہیں : اس کی
کی سند حسن ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: The way to perform istanja

Hadith number: 553

Translation:

(553) Shaykh Atiq has narrated with this sanad (chain of transmission) and its synonyms and said: Two stones for the hips and one for the place where liquid flows. Abu Hassan Daraqutni says: This sanad (chain of transmission) is Hasan (Fair).

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 554

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو (٥٥٥)
وغيرُهُمَا قَالُوا أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا
الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا
: الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي عَبَّادُ بْنُ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ : عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ
شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ - الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ الشَّيْءُ فِي
الصَّلَاةِ فَقَالَ ((: لَا يَنْقُتِلُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا))-
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ : فَلَمَّا دَلَّتِ
السُّنَّةُ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ يَنْصَرِفُ مِنَ الصَّلَاةِ بِالرِّيحِ كَانَتْ الرِّيحُ
مِنْ سَبِيلِ الْغَائِطِ وَكَانَ الْغَائِطُ أَكْثَرَ مِنْهَا-
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ وَغَيْرِهِ ، وَرَوَاهُ
مُسْلِمٌ عَنْ عَمْرٍو النَّاقِدِ وَغَيْرِهِ كُلِّهِمْ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى
كتاب : پاکی کا بیان
باب : پیشاب اور قضاے حاجت کے بعد وضو کرنا
حدیث نمبر : 554

:ترجمہ

(۵۵۵) سیدنا عبداللہ بن زیدؓ فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ سے اس شخص کی شکایت کی گئی جسے نماز میں کسی چیز کا خیال آجائے تو آپ ﷺ نے فرمایا: وہ نہ پھرے یہاں تک کہ آواز سن لے یا بدبو پالے۔

(ب) (امام شافعی) رح (فرماتے ہیں کہ جب ہوا خارج ہو جائے تو نماز چھوڑ دینا سنت ہے۔ یہ بھی بول براز کی طرح ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Performing ablution after urinating and defecating

Hadith number: 554

Translation:

(554) Syeduna Abdullah ibn Zayd (may Allah be pleased with him) said: A complaint was made to the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) about a person who imagines something (about passing wind) in

prayer. So the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: He should not turn around until he hears a sound or smells a bad smell.

(B) Imam Shafi'i (may Allah have mercy on him) says that it is Sunnah to stop praying when the wind blows. It's the same with urination and defecation.

[Sahih. Narrated by Bukhari 137,177, 2056 and Muslim 361 and Nasai 160 and Abu Dawud 176 and Ibn Majah 513, 514 and Ahmad 4/39, 40]

Sunan Kubra Bayhaqi 555

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيُّ أَخْبَرَنَا (٥٥٦)

أَبُو حَامِدِ ابْنِ الشَّرْقِيِّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْفَرَّائِيِّ وَقَطْنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالُوا حَدَّثَنَا

حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ

سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ : عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَشْرَانَ بِبَغْدَادَ (ح)

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارِ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا

أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ : بَالَ

جَرِيرٌ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ فَقِيلَ لَهُ : تَفْعَلُ هَذَا وَقَدْ

بُلْتِ؟ قَالَ : نَعَمْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - بَالَ وَتَوَضَّأَ ، وَمَسَحَ

عَلَى خُفَيْهِ -

قَالَ إِبْرَاهِيمُ : فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ هَذَا الْحَدِيثُ لِأَنَّ إِسْلَامَ جَرِيرٍ كَانَ

بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ -

لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ طَهْمَانَ عَنْ جَرِيرٍ

بْنِ عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّهُ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ ، فَقُلْنَا لَهُ : مَا

هَذَا الَّذِي صَنَعْتَ؟ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - صَنَعَ مِثْلَ الَّذِي

صَنَعْتُ -

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي

مُعَاوِيَةَ ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ أَوْجُهٍ آخَرَ عَنِ الْأَعْمَشِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: پیشاب اور قضائے حاجت کے بعد وضو کرنا

حدیث نمبر: 555

ترجمہ:

(۵۵۶) (الف) (ہمام کہتے ہیں: جریر نے پیشاب کیا، پھر وضو

کیا اور اپنے موزوں پر مسح کیا تو ان سے کہا گیا: آپ یہ

کرتے ہیں حالانکہ آپ نے پیشاب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا

، جی ہاں! میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا، آپ ﷺ نے پیشاب کیا

پھر وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسح کیا۔

، (ب) (جریر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ اس نے پیشاب کیا

پھر وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسح کیا۔ ہم نے ان سے کہا:

آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو

دیکھا، آپ ﷺ نے ایسے ہی کیا جیسے میں نے کیا۔

(ج) (امام بخاری) (رح) نے یہ روایت اعمش سے دوسری سند

کے ساتھ نقل کی ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Performing ablution after urinating and defecating

Hadith number: 555

Translation:

(555) (a) Hammam says: Jarir urinated, then performed ablution and wiped over his socks. He was asked: You do do this even though you have urinated? So he said: Yes! I saw that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) urinated, then performed ablution and wiped on his socks.

(B) It is narrated from Jarir bin Abdullah that he urinated, then performed ablution and wiped his socks. We said to him: What have you done? He said: I saw the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) do as I did.

(C) Imam Bukhari (may Allah have mercy on him) has narrated this narration from

Aamash with another chain of transmission.
[Sahih. Narrated by Bukhari 387 and Muslim
272 and Nasai 118, 775 and Tirmidhi 93 and
Ibn Majah 543 and Ahmad 4/358, 361, 364]

Sunan Kubra Bayhaqi 556

Arabic Text:

: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ (٥٥٧)
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الْبَيْرُوتِيُّ أَخْبَرَنَا

ابْنُ شُعَيْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ
بِهْدَلَةَ وَهُوَ ابْنُ أَبِي النَّجُودِ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ عَنْ زُرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ
أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّكَ كُنْتَ أَمْرًا مِنْ :
أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - وَإِنَّهُ قَدْ حَكَ فِي صَدْرِي الْمَسْحَ عَلَى
الْخَفَّيْنِ مِنَ الْبَوْلِ وَالْغَائِطِ ، فَأَخْبَرَنِي بِشَيْءٍ إِنْ كُنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ
رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - . قَالَ : كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَوْ مُسَافِرِينَ
أَنْ لَا نَخْلَعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ ، لَكِنْ مِنْ
بَوْلٍ وَغَائِطٍ وَنَوْمٍ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب : پاکی کا بیان
باب : پیشاب اور قضاے حاجت کے بعد وضو کرنا
حدیث نمبر : 556

:ترجمہ

(۵۵۷) زر بن حبیشؓ فرماتے ہیں کہ میں صفوان بن عسال کے پاس آیا اور ان سے کہا : آپ اصحاب رسول میں سے ہیں، میرے سینے میں یہ بات کھٹکتی ہے کہ قضاے حاجت اور پیشاب کرنے سے موزوں پر مسح درست ہے یا نہ، مجھے اس کے بارے میں خبر دیجیے۔ اگر آپ نے رسول اللہ

سے کچھ سنا ہے۔ انہوں نے فرمایا: آپ ﷺ ہم کو حکم دیا کرتے تھے کہ جب تم سفر میں ہو تو سوائے جنابت کے اپنے موزوں کو تین دن اور تین راتیں نہ اتارو لیکن پیشاب قضائے حاجت اور نیند سے نہ اتارنا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Performing ablution after urinating and defecating

Hadith number: 556

Translation:

(556) Zar ibn Habish (may Allah be pleased with him) said: I came to Safwan ibn Asal and said to him: You are one of the companions of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him). There is some doubt in my chest concerning wiping over the socks after defecation and urination let me know if you have heard anything from the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon

him)? He said: He (the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him)) used to order us, that when we were in travel, to not remove our socks for three days and nights except, from sexual impurity, but not from defecation, urination, and sleep.'

[Hasan (Fair). Narrated by Nasai 126, 158, 159 and Tirmidhi 96, 3535 and Ibn Majah 478 and Ahmad 4/239, 240]

Sunan Kubra Bayhaqi 557

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ (٥٥٨)
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَيْرُوَيْهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَاشِمٍ حَدَّثَنَا

وَكَيْعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ زِرِّ-
 عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ: رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - فِي
 الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثًا إِلَّا مِنْ جُنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ
 غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ أَوْ رِيحٍ. قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ: لَمْ يَقُلْ أَوْ رِيحٍ غَيْرُ
 مِسْعَرٍ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: پیشاب اور قضائے حاجت کے بعد وضو کرنا
 حدیث نمبر: 557

ترجمہ:

(۵۵۸) صفوان بن عسالؓ فرماتے ہیں: ہمیں رسول اللہ ﷺ نے
 مسح کرنے میں رخصت دی، مسافر کے لیے تین دن تک، مگر
 مگر جنابت سے (اتاریں جائیں گے) اور قضائے حاجت، پیشاب
 اور ہوا کے خارج ہونے سے نہیں اتاریں جائیں گے۔
 (ابو ولید کہتے ہیں کہ "أوریح" کے الفاظ مسعر کے
 علاوہ کسی نے نہیں کہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Performing ablution after urinating and defecating

Hadith number: 557

Translation:

(557) Safwan ibn Asal (may Allah be pleased with him) said: The Messenger of Allaah (peace and blessings of Allah be upon him) allowed us to wipe over socks for three days for the traveler, except for janabah (they will be taken off) and they will not be taken off due to defecation, urination and passing of wind.

(B) Abu Waleed says that the words "Aurih" were not uttered by anyone except Masar.

[Hasan (Fair)]

Sunan Kubra Bayhaqi 558

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ (٥٥٩)
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشِّرٍ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو
بْنِ عُثْمَانَ بَوَاسِطَ قَالَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ-
قَالَ عَلِيُّ وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّيِّبِ: يَزِيدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ يَزِيدَ الْبَرَّازُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَسَانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ
فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ- قَالَ عَلِيُّ: لَمْ يَقُلْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَوْ رِيحٍ غَيْرُ وَكِيعٍ
عَنْ مِسْعَرٍ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: پیشاب اور قضاے حاجت کے بعد وضو کرنا

حدیث نمبر: 558

:ترجمہ

(۵۵۹) مسعر نے اسی طرح بیان کیا ہے۔ علی کہتے ہیں کہ اس حدیث میں "أوریح" کے الفاظ وکیع عن مسعر کی روایت سے کسی اور نے نہیں کہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Performing ablution after urinating and defecating

Hadith number: 558

Translation:

(558) Masar has narrated the same way. Ali says that from the narration of Waqi an-Masar. no one else has said the words "أوریح"
[Hasan (Fair)]

Sunan Kubra Bayhaqi 559

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ زَيْدُ بْنُ أَبِي هَاشِمٍ الْعَلَوِيُّ بِالْكُوفَةِ وَأَبُو (٥٦٠)
عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي بَنِي سَابُورَ قَالُوا
حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ دُحَيْمِ الشَّيْبَانِيُّ حَدَّثَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَبْسِيُّ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ
مُنْذِرِ أَبِي يَعْلَى عَنِ ابْنِ الْحَنْفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا
مَذَائِي فَكُنْتُ أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - لِمَكَانِ ابْنَتِهِ
فَأَمَرْتُ الْمُقَدَّادَ بْنَ الْأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ ((يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ،
(وَيَتَوَضَّأُ))

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ وَكِيعٍ
وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ أَوْجُهٍ عَنِ الْأَعْمَشِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مذی اور ودی کے خارج ہونے سے وضو کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 559

ترجمہ:

(۵۶۰) (سیدنا علیؑ سے روایت ہے کہ مجھے بہت زیادہ مذی آتی تھی میں حیا کرتا تھا کہ رسول اللہ سے اس کے متعلق سوال کروں، آپ ﷺ کی بیٹی کی وجہ سے۔ میں نے مقداد بن اسود کو حکم دیا کہ آپ ﷺ سے پوچھے! آپ ﷺ نے فرمایا " :
" اپنی شرمگاہ کو دھولے اور وضو کر لے۔"

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement of performing ablution after the discharge of Madhi and Wadi

Hadith number: 559

Translation:

(559) It is narrated from Syeduna Ali (may Allah be pleased with him) that I used to get emotional urethral discharges frequently and felt shy to ask Allah's Messenger (peace and blessings of Allah be upon him) about it because of his daughter. So I ordered Al-

Miqdad bin Al-Aswad to ask (the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him)) about it. He (the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him)) said: "Wash your private parts and perform ablution."

[Sahih. Narrated by Bukhari 132, 178 and Muslim 303 and Nasai 152, 157 and 438 and Abu Dawud 207, 208, 209 and Ahmad 1/80, 82, 103, 124, 140]

[SHARH] Explanation:

{Wadi is defined as a thick white cloudy secretion that has no smell, and usually follows urination and can sometimes come before it. Whereas madhi is a clear thin secretion that exits in small amounts (when having a lustful thought or when making a lustful glance).

Both of these secretions are considered filth and necessitate wudu without ghusl}

Sunan Kubra Bayhaqi 560

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورِكَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ (٥٦١)
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ مُنْذِرًا التَّوْرِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ
الْحَنْفِيَّةِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: اسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - عَنِ
الْمَدْيِ مِنْ أَجْلِ فَاطِمَةَ فَأَمَرْتُ رَجُلًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ: فِيهِ
الْوَضُوءُ.
مُخْرَجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
کتاب: پاکی کا بیان
باب: پیشاب اور قضاے حاجت کے بعد وضو کرنا

حدیث نمبر: 560

ترجمہ:

(۵۶۱) (سیدنا علیؑ سے روایت ہے کہ میں سیدہ فاطمہؑ کی وجہ سے شرماتا تھا کہ مذی کے متعلق رسول اللہ ﷺ سے سوال کروں، میں نے ایک شخص کو حکم دیا تو اس نے آپ ﷺ سے سوال کیا، آپ ﷺ نے فرمایا " :اس سے وضو ہے۔"

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Performing ablution after urinating and defecating

Hadith number: 560

Translation:

(560) It is narrated from Ali (may Allah be pleased with him) that because of Fatima (may Allah be pleased with her), I was ashamed to ask the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him)

about Madhi. I ordered a man and he asked you. He said: "perform ablution."

[Sahih. Narrated by Bukhari 132, 178 and Muslim 303 and Nasai 152, 157 and 438 and Abu Dawud 207, 208, 209 and Ahmad 1/80, 82, 103, 124, 140]

[SHARH] Explanation:

{Wadi is defined as a thick white cloudy secretion that has no smell, and usually follows urination and can sometimes come before it. Whereas madhi is a clear thin secretion that exits in small amounts (when having a lustful thought or when making a lustful glance).

Both of these secretions are considered filth and necessitate wudu without ghusl}

Sunan Kubra Bayhaqi 561

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكْرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّيَّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ (٥٦٢)
الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. قَالَ وَحَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ قَالَ
قُرِئَ عَلَيَّ ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ الْمُقَدَّادِ بْنِ الْأَسْوَدِ: أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي
طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَمَرَهُ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - عَنْ
أَحَدِنَا إِذَا خَرَجَ مِنْهُ الْمَدْيُ مَاذَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ، فَإِنَّ عِنْدِي
ابْنَتَهُ وَأَنَا أَسْتَجِي أَنْ أَسْأَلَهُ. فَقَالَ الْمُقَدَّادُ: فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: إِذَا
وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدَكُمْ فَلْيَغْسِلْ فَرْجَهُ وَيَتَوَضَّأْ وَضُوئَهُ لِلصَّلَاةِ -
بِهَذَا رَوَاهُ أَبُو النَّضْرِ عَنْ سُلَيْمَانَ -
وَرَوَاهُ بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
مَوْصُولًا -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: پیشاب اور قضا کے بعد وضو کرنا

حدیث نمبر: 561

ترجمہ:

(۵۶۲) (مقداد بن اسود سے روایت ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالبؓ نے مجھے حکم دیا کہ ہم میں سے کسی کے بارے میں رسول اللہ ﷺ سے سوال کروں کہ جب مذی خارج ہو تو اس پر کیا ہے؟ اس لیے کہ میرے پاس آپ ﷺ کی بیٹی ہے اور میں سوال کرنے سے حیا کرتا ہوں۔) مقداد نے کہا: میں نے آپ ﷺ سے سوال کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: "جب کوئی یہ (مذی) پائے تو اپنی شرمگاہ کو دھوئے اور نماز جیسا وضو کر لے۔" (سیدنا ابن عباسؓ سے یہ روایت موصولاً منقول ہے۔)

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Performing ablution after urinating and defecating

Hadith number: 561

Translation:

(561) It is narrated from Miqdad ibn Aswad (may Allah be pleased with him) that Ali ibn Abi Talib (may Allah be pleased with him) ordered me to ask the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him), about one of us, what to do when madhi is discharged? Because I have his daughter and I am ashamed to ask. Miqdad said: I asked him and he said: "When one finds this (madhi), he should wash his private parts and perform ablution like prayer."

(B) This narration is narrated from Syeduna Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) in a mawsul hadith.

[Sahih]

[SHARH] Explanation:

{Wadi is defined as a thick white cloudy secretion that has no smell, and usually follows urination and can sometimes come

before it. Whereas madhi is a clear thin secretion that exits in small amounts (when having a lustful thought or when making a lustful glance).

Both of these secretions are considered filth and necessitate wudu without ghusl}

Sunan Kubra Bayhaqi 562

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ (٥٦٣)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ :
 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
 أَرْسَلْتُ الْمُقَدَّادَ بْنَ الْأَسْوَدِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَسَأَلَهُ عَنْ
 : - الْمَذْيِ يَخْرُجُ مِنَ الْإِنْسَانِ كَيْفَ يَفْعَلُ بِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -
 ((تَوَضَّأَ وَانْضَحَ فَرَجَكَ)) -
 رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى وَغَيْرِهِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: پیشاب اور قضائے حاجت کے بعد وضو کرنا
 حدیث نمبر: 562

ترجمہ:

(563) (سیدنا علیؑ فرماتے ہیں کہ میں نے مقدادؓ کو رسول اللہ ﷺ کی طرف بھیجا تو انہوں نے مذی کے متعلق سوال کیا جو انسان سے خارج ہوتی ہے کہ اس کا کیا حکم ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا " وضو کر اور اپنی شرمگاہ پر چھینٹے مار۔"

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Performing ablution after urinating and defecating

Hadith number: 562

Translation:

(562) Syeduna Ali (may Allah be pleased with him) says that I sent Miqdad (may Allah be pleased with him) to the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him). So he asked about madhi which comes out of man, what is its ruling? He (the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him)) said: Perform ablution and sprinkle (water) on your private parts.

[Sahih. Narrated by Bukhari 132, 178 and Muslim 303 and Nasai 152, 157 and 438 and Abu Dawud 207, 208, 209 and Ahmad 1/80, 82, 103, 124, 140]

[SHARH] Explanation:

{Wadi is defined as a thick white cloudy secretion that has no smell, and usually follows urination and can sometimes come before it. Whereas madhi is a clear thin secretion that exits in small amounts (when having a lustful thought or when making a lustful glance).

Both of these secretions are considered filth and necessitate wudu without ghusl}

Sunan Kubra Bayhaqi 563

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو قَالَا (۵۶۴)
 أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمِ
 حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَابِدِ
 عَنْ مُورِقِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : الْمَنِيُّ وَالْمَذْيُ وَالْوَدْيُ فَالْمَنِيُّ
 مِنْهُ الْغُسْلُ وَمِنْ هَذَيْنِ الْوُضُوءُ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ
 ت (وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : الْوَدْيُ الَّذِي يَكُونُ بَعْدَ
 الْبَوْلِ فِيهِ الْوُضُوءُ .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب : پاکی کا بیان

باب : پیشاب اور قضاے حاجت کے بعد وضو کرنا

حدیث نمبر : 563

:ترجمہ

(۵۶۴) (الف) ابن عباس ^{رض} منی، مذی اور ودی کے متعلق

فرماتے ہیں : منی سے غسل ہے اور مذی اور ودی سے وضو
 ہے۔ (ایسا شخص (اپنی شرمگاہ کو دھوئے گا اور وضو کرے
 گا۔

(ابن مسعودؓ فرماتے ہیں: وادی پیشاب کرنے کے بعد آتی ہے اور اس میں وضو ہے۔)

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Performing ablution after urinating and defecating

Hadith number: 563

Translation:

(563) (a) Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) says about semen, madhi and wadi: ghusl is from semen and ablution is from madhi and wadi. (Such a person) will wash his private parts and perform ablution.

(B) Ibn Masud (may Allah be pleased with him) says: Wadi comes after urinating and there is ablution in it.

[Sahih. Narrated by Ibn Abi Shaybah 973]

[SHARH] Explanation:

{Wadi is defined as a thick white cloudy secretion that has no smell, and usually follows urination and can sometimes come before it. Whereas madhi is a clear thin secretion that exits in small amounts (when having a lustful thought or when making a lustful glance).

Both of these secretions are considered filth and necessitate wudu without ghusl}

Sunan Kubra Bayhaqi 564

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (٥٦٥) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا بِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ اسْتَفْتَتِ النَّبِيَّ - ﷺ - فَقَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ أَفَادَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ: ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلْتِ فِدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرْتِ فَاغْسِلِي عَنْكَ أَثَرَ الدَّمِ وَتَوَضَّئِي وَصَلِّي، فَإِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ -

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ خَلْفِ بْنِ بِشَامٍ عَنْ حَمَّادٍ دُونَ قَوْلِهِ: وَتَوَضَّئِي - ثُمَّ قَالَ مُسْلِمٌ: وَفِي حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ زِيَادَةٌ حَرْفٍ تَرَكَنَا ذِكْرَهُ، وَبِذَا لَأَنَّ بِيْهِ الزِّيَادَةَ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ، إِنَّمَا الْمَحْفُوظُ مَا رَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ وَغَيْرُهُ عَنْ بِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ بِذَا الْحَدِيثِ وَفِي آخِرِهِ قَالَ قَالَ بِشَامٌ قَالَ أَبِي: ثُمَّ تَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيئَ ذَلِكَ الْوَقْتُ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

كتاب: پاکی کا بیان

باب: دو راستوں (شرمگاہوں) سے نکلنے والے خون، کپڑے

اور پتھر وغیرہ سے وضو کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 564

ترجمہ:

(۵۶۵) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت ابی حبیش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ لیا کہ مجھے استحاضہ آتا ہے اور میں پاک نہیں ہوتی تو کیا میں نماز کو چھوڑ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا " یہ رگ سے ہے حیض نہیں ہے، جب یہ آئے تو نماز چھوڑ دے اور جب بند ہو جائے تو خون کے نشان کو دھو اور وضو کر کے نماز ادا کر۔ یہ رگ سے ہے حیض نہیں ہے۔"

ب (صحیح مسلم میں توضی کے الفاظ نہیں ہیں، امام مسلم (فرماتے ہیں کہ حدیث حماد بن زید میں الفاظ زیادہ ہیں ہم نے اس کو روایت نہیں کیا اور یہ زیادتی محفوظ بھی نہیں ہے۔

ج (ہشام کہتے ہیں کہ میرے والد نے کہا: پھر ہر نماز کے لیے وضو کر یہاں تک کہ دوسری کا وقت آجائے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on performing ablution

due to blood, worms and stones, etc. coming out of the two passages (private parts)

Hadith number: 564

Translation:

(564) It is narrated from Ayesha (may Allah be pleased with her) that Fatima bint Abi Habish (may Allah be pleased with her) took a fatwa from the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) that I get persistent bleeding from the uterus and I am not pure, so should I stop praying? The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "It is from a vein, it is not menstruation. So when this (real menses) begins, give up your prayers and when it has finished, perform ablution and offer your prayers. This is from a vein, not from menstruation."

(B) The words 'and perform ablution' are not in Sahih Muslim. Imam Muslim (may Allah be pleased with him) says that there are many

extra words in the hadith of Hammad bin Zayd. We have not narrated it and this addition is not safe.

(C) Hisham says that my father said: Then perform ablution for every prayer until the time of the second comes.

[Sahih. Narrated by Bukharu 228 and Muslim 333 and Nasai 218, 364 and Tirmidhi 125 and Ibn Majah 621]

Sunan Kubra Bayhaqi 565

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : الْعَلَاءِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ (٥٦٦)
 الْإِسْفَرَائِينِيُّ بِهَا أَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلٍ : بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا
 إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ الدُّبَلِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ : قَرَأْتُ
 عَلَى شَرِيكِ عَنْ أَبِي الْيُقْطَانَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
 جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَ ((: الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ
 حَيْضِهَا ، وَتَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَتَصُومُ وَتُصَلِّيُ)) -
 وَبَدَأَ الْحَدِيثُ نَذْرُ بَعْضَ مَا قِيلَ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي
 كِتَابِ الْحَيْضِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: دو راستوں (شرمگاہوں) سے نکلنے والے خون، کپڑے
 اور پتھر وغیرہ سے وضو کرنے کا بیان
 حدیث نمبر: 565

ترجمہ:

(٥٦٦) عدی بن ثابت اپنے دادا سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا " : استحاضہ والی عورت اپنے حیض کے دنوں میں نماز چھوڑ دے، پھر غسل کرے اور ہر نماز کے

" لیے وضو کرے، روزے رکھے اور نماز پڑھے۔"

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on performing ablution due to blood, worms and stones, etc. coming out of the two passages (private parts)

Hadith number: 565

Translation:

(565) Udai ibn Thabit narrates from his grandfather that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "A woman with istihaadah (irregular non-menstrual bleeding) should stop praying during her menstrual period, then perform ghusl and perform ablution for each prayer, fast and pray."

[Sahih. Narrated by Tirmidhi 126 and Ibn Majah 625 and Darimi 820]

Sunan Kubra Bayhaqi 566

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ زَيْدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ (٥٦٧) الْعَلَوِيُّ بِالْكُوفَةِ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ دُحَيْمٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَبْسِيُّ أَخْبَرَنَا وَكَيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ ذَكَرَ عِنْدَهُ الْوُضُوءُ مِنَ الطَّعَامِ - قَالَ الْأَعْمَشُ مَرَّةً: وَالْحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ - فَقَالَ: إِنَّمَا الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ، وَإِنَّمَا الْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ.

وَرُويَ أَيْضًا عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مِنْ قَوْلِهِ - وَرُويَ (ت)

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - وَلَا يَنْبُتُ

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: دو راستوں (شرمگاہوں) سے نکلنے والے خون، کیڑے

اور پتھر وغیرہ سے وضو کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 566

ترجمہ:

(۵۶۷) ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ان کے پاس کھانا کھانے

کے بعد وضو کا ذکر کیا گیا۔ ایک مرتبہ اعمش نے پوچھا:

روزے دار کو سینگھی لگوانا؟ تو انہوں نے فرمایا: وضو

نکلنے والی چیز سے ہے داخل ہونے والی چیز سے نہیں ہے

اور روزے کا ٹوٹنا داخل ہونے والی چیز سے ہے نکلنے والی

چیز سے نہیں ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on performing ablution

due to blood, worms and stones, etc. coming out of the two passages (private parts)

Hadith number: 566

Translation:

(566) It is narrated from Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) that ablution was mentioned to him after eating food. Aamish once asked: Should a fasting person be (treated by) cupping? So he said: Ablution is for the thing that comes out, not from the thing that enters, and the breaking of the fast is from the thing that enters, not from the thing that comes out.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence). Narrated by AbdulRazzaq 653]

Sunan Kubra Bayhaqi 567

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو قَالَا (٥٦٨)
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْقِذِ
حَدَّثَنِي إِدْرِيسُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنِ ابْنِ
أَبِي ذُنُبٍ عَنْ شُعْبَةَ يَعْنِي مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ((:الْوَضُوءُ مِمَّا خَرَجَ وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ))
وَرَوَيْنَا عَنْ عَطَائِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي يَتَوَضَّأُ (ق)
فِيخْرُجُ الدُّودُ مِنْ دُبْرِهِ قَالَ : عَلَيْهِ الْوَضُوءُ . وَكَذَلِكَ قَالَ
الْحَسَنُ وَجَمَاعَةٌ .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: دو راستوں (شرمگاہوں) سے نکلنے والے خون، کیڑے

اور پتھر وغیرہ سے وضو کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 567

ترجمہ:

(567) سیدنا ابن عباس^{رض} سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا: وضو نکلنے والی چیز سے ہے، داخل ہونے والی چیز

سے نہیں ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: The Statement of Purity

Chapter: Statement on performing ablution due to blood, worms and stones, etc. coming out of the two passages (private parts)

Hadith number: 567

Translation:

(567) Syeduna Ibn Abbas (may Allah be

pleased with him) narrates that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: Ablution is for the thing that comes out, not from the thing that enters.

[MAUDU (FABRICATED). Narrated by Abu Nuaym in Hilayah]

Sunan Kubra Bayhaqi 568

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ (٥٦٩)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ الْمَرْوَزِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْعَنْبَرِيُّ
قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ
عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ مَنْ أَحَدَتْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ . قَالَ رَجُلٌ مِنْ -
حَضْرَمَوْتٍ : مَا أَحَدْتُ يَا أَبَا بُرَيْرَةَ؟ قَالَ : فُسَائٍ أَوْ ضُرَاطٌ
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَغَيْرِهِ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ كُلِّهِمْ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب : پاکی کا بیان
باب : دو راستوں میں سے ایک راستے سے نکلنے والی ہوا
نکلنے سے وضو کرنے کا بیان
حدیث نمبر : 568

:ترجمہ

(۵۶۹) (ہمام بن منبہ نے سیدنا ابوہریرہؓ سے سنا کہ رسول اللہ
ﷺ نے فرمایا : بے وضو کی نماز قبول نہیں کی جاتی یہاں تک
کہ وضو کرے۔ حضرت موت کے ایک شخص نے سوال کیا کہ
حدث کیا ہے تو حضرت ابوہریرہؓ نے فرمایا : جب ریح خارج
ہو آواز سے یا بلا آواز۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The statement on performing
ablution from the air that comes out of one of
the two ways

Hadith number: 568

Translation:

(568) Hammam ibn Manbah heard from Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: The prayer of one who does not perform ablution is not accepted until he performs ablution. When a person from Hadaramout asked what is Hadath (passes urine, stool or wind), Hazrat Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) said: When the wind comes out with sound or without sound.

[Sahih. Narrated by Bukhari 135, 6954 and Muslim 225 and Abu Dawud 60 and Tirmidhi 76 and Ahmad 2/318]

Sunan Kubra Bayhaqi 569

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ : عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ (٥٧٠)
بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ الْبَخْتَرِيِّ
الرَّزَّازُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقِ
أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بُرَيْرَةَ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - قَالَ ((:لَا وُضُوئَ إِلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ)) (- وَبِذَا مُخْتَصِرٌ وَتَمَامُهُ فِيمَا -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: دو راستوں میں سے ایک راستے سے نکلنے والی ہوا

نکلنے سے وضو کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 569

ترجمہ:

" (: ۵۷۰) (سیدنا ابوہریرہ ^{رض} سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا وضو (ریح کی (آواز سے یا بدبو سے) فرض (ہوتا ہے۔) یہ (روایت مختصر ہے ")

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The statement on performing ablution from the air that comes out of one of the two ways

Hadith number: 569

Translation:

(569) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said: "Ablution (becomes obligatory) is performed by sound (of wind) or odor (this narration is short)."

[Sahih. Narrated by Tirmidhi 74 and Ibn Majah 515 and Ahmad 2/410, 435, 471]

Sunan Kubra Bayhaqi 570

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ (۵۷۱)
 إِسْحَاقَ الْفَقِيهَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
 أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ ﷺ ((إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخْرَجَ
 حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ مِنْهُ شَيْئًا أَمْ لَا؟ فَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ
 يَجِدُ رِيحًا))-

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ زُبَيْرِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَرِيرٍ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: دو راستوں میں سے ایک راستے سے نکلنے والی ہوا
 نکلنے سے وضو کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 570

:ترجمہ

(۵۷۱) (سیدنا ابوہریرہ ^{رض} سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے
 فرمایا: جب کوئی اپنے پیٹ میں کچھ محسوس کر لیا اس کو
 شبہ ہو جائے کہ اس پیٹ سے کوئی چیز نکلی ہے یا نہیں؟ تو
 وہ مسجد سے نہ نکلے جب تک کہ آواز سن لے یا بدبو
 محسوس کرے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The statement on performing
ablution from the air that comes out of one of
the two ways

Hadith number: 570

Translation:

(570) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: When a person feels something in his stomach, he doubts whether something has come out of his stomach or not. So he should not leave the mosque until he hears a sound or smells something bad.

[Sahih. Narrated by Bukhari 2056 and Muslim 362 and Tirmidhi 75 and Ahmad 2/30, 414 and Darimi 748]

Sunan Kubra Bayhaqi 571

Arabic Text:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة
٦]

قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَسَمِعْتُ بَعْضَ مَنْ أَرْضَى عِلْمَهُ بِالْقُرْآنِ (٥٧٢)
يَزْعُمُ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي الْقَائِمِينَ مِنَ النَّوْمِ-
قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا يَرْوِيهِ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ
ذَلِكَ (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ (مِنَ الْمَضَاجِعِ يَعْنِي النَّوْمِ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: نیند سے وضو کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 571

ترجمہ:

(۵۷۲) (الف) (اللہ تعالیٰ نے فرمایا) { إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ

فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ } [المائدة: ۶]

امام شافعی (رح) فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص سے سنا جس کو قرآن کے بارے میں صحیح علم تھا کہ یہ آیت نیند سے بیدار ہونے والوں کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

ب (شیخ فرماتے ہیں: زید بن اسلم سے روایت ہے کہ یہ آیت نیند سے بیدار ہونے والے کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The statement on performing ablution after sleep

Hadith number: 571

Translation:

(571) (a) Allah says (interpretation of the

meaning): { إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ }

{When you stand up for the prayer, then wash your faces}

[Surah Maidah 5:6]

Imam Shafi'i (may Allah have mercy on him) says that I heard from a person who had correct knowledge about the Qur'an that this verse was revealed about those who wake up from sleep.

(B) Shaykh says: It is narrated from Zayd ibn Aslam that this verse was revealed about the one who wakes up from sleep.

[Quoted by Al-Qurtubi in his Tafseer 6/78]

Sunan Kubra Bayhaqi 572

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ (٥٧٣)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ فَذَكَرَهُ.
وَاجْتَجَّ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ عَلَى أَنَّ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي خَاصِّ بَأَنَّ (ق)
النَّبِيِّ - ﷺ - صَلَّى الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: نیند سے وضو کرنے کا بیان
حدیث نمبر: 572

:ترجمہ

(٥٧٣) مالک نے پچھلی حدیث کی طرح ذکر کیا ہے۔
امام شافعی (رح) فرماتے ہیں کہ یہ آیت خاص طور پر اس
وقت نازل ہوئی جب نبی ﷺ نے ایک وضو سے کئی نمازیں ادا
کیں۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi
Book: Statement of Purity

Chapter: The statement on performing
ablution after sleep

Hadith number: 572

Translation:

(562) Malik (may Allah have mercy on him) has mentioned like the previous hadith.

Imam Shafi'i (may Allah have mercy on him) says that this verse was revealed especially when the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) performed many prayers with one ablution.

[Sahih. Narrated by Malik 39, 2/10]

Sunan Kubra Bayhaqi 573

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بَشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَعْدَادَ أَخْبَرَنَا أَبُو (٥٧٤)
الْحَسَنُ : عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا
الْفَرِيَّابِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاقِمَةَ بِنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ
بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ - يَوْمَ الْفَتْحِ صَلَوَاتَهُ كُلَّهَا
بِوَضُوءٍ وَاحِدٍ ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ : إِنِّي رَأَيْتُكَ صَنَعْتَ الْيَوْمَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ قَبْلَ
الْيَوْمِ قَالَ ((: عَمْدًا فَعَلْتُهُ يَا عُمَرُ)) .-
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ -
قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَفِي السُّنَنِ دَلِيلٌ عَلَى أَنْ يَتَوَضَّأَ مَنْ قَامَ (ش)
مِنْ نَوْمِهِ - يَعْنِي بِهَا -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان
باب: نیند سے وضو کرنے کا بیان
حدیث نمبر: 573

:ترجمہ

(٥٧٤) (سليمان بن بريدة اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں کہ

نبی ﷺ نے فتح مکہ کے دن سب نمازیں ایک وضو سے ادا کیں اور موزوں پر مسح کیا، حضرت عمرؓ نے عرض کیا: میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ ﷺ نے آج ایسا کام کیا ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں کیا؟ آپ ﷺ نے فرمایا " اے عمر! میں نے جان " بوجھ کر ایسا کیا ہے۔"

(ب (امام شافعی) رح (فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ جو شخص نیند سے بیدار ہو وہ وضو کرے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The statement on performing
ablution after sleep

Hadith number: 573

Translation:

(573) Sulaiman ibn Barid narrates from his father that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) performed all the prayers on the day of the conquest of Makkah with one ablution and wiped over the

socks. Umar (may Allah be pleased with him) said to him: You have today done something that you have not been accustomed to before. He (the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him)) said: O Umar, I have done that on purpose.

(B) Imam Shafi'i (may Allah have mercy on him) says that there is evidence in this hadith that a person who awakens from sleep should perform ablution.

[Sahih. Narrated by Muslim 277 and Nasai 133 and Abu Dawud 172 and Tirmidhi 61 and Ibn Majah 510 and Ahmad 5/350, 351, 358]

Sunan Kubra Bayhaqi 574

Arabic Text:

مَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٥٧٥)
بْنِ نُصَيْرِ الْخُلْدِيِّ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ بَارُونَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ
حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ ((إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ
فَلَا يَضَعُ يَدَهُ فِي الْوَضُوءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَحَدُكُمْ
أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ)) (- رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: نیند سے وضو کرنے کا بیان
حدیث نمبر: 574

ترجمہ:

" (: ٥٧٥) سیدنا ابوہریرہ ^{رض} سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا
جب کوئی شخص نیند سے بیدار ہو تو وہ اپنا ہاتھ پانی میں نہ
ڈالے ، جب تک اس کو دھونہ لے کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس
" کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The statement on performing
ablution after sleep

Hadith number: 574

Translation:

(574) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "When a person wakes up, he should not put his hand in the water, unless he washes it, because he does not know where his hand has spent the night."

[Sahih. Narrated by Bukhari 162 and Muslim 278 and Nasai 1, 161, 441 and Abu Dawud 103, 105 and Tirmidhi 24 and Ibn Majah 393 and Ahmad 2/241 and Malik 2/9 and Darimi 793]

Sunan Kubra Bayhaqi 575

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي مَخْلَدُ بْنُ جَعْفَرٍ (٥٧٦)
الْبَاقِرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ
مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا الْعَلَاءِيُّ بْنُ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((إِذَا
قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ النَّوْمِ إِلَى الْوُضُوءِ فَلْيُفْرِغْ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ
الْمَاءِ ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ)) (-)
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: نیند سے وضو کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 575

ترجمہ:

(۵۷۶) (سیدنا ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " :جب کوئی نیند سے (بیدار ہو کر (وضو کرنے کے لیے کھڑا ہو تو وہ اپنے ہاتھوں پر پانی ڈال لے اس لیے کہ وہ " نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گذاری ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The statement on performing
ablution after sleep

Hadith number: 575

Translation:

(574) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: "When a

person stands up to perform ablution (after waking up), he should pour water on his hands because he does not know where his hand has spent the night."

[Sahih. Narrated by Bukhari 162 and Muslim 278 and Nasai 1, 161, 441 and Abu Dawud 103, 105 and Tirmidhi 24 and Ibn Majah 393 and Ahmad 2/241 and Malik 2/9 and Darimi 793]

Sunan Kubra Bayhaqi 576

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ (٥٧٧)
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: أَتَيْتُ
صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ قُلْتُ حَكَ فِي صَدْرِي الْمَسْحُ عَلَى
الْخُفَّيْنِ بَعْدَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ ، وَكُنْتَ امْرَأً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ
ﷺ - فَأَتَيْتُكَ أَسْأَلُكَ بَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - فِي ذَلِكَ -
شَيْئًا؟ فَقَالَ: نَعَمْ كَانَ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفْرًا أَوْ مُسَافِرِينَ أَنْ لَا
نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ لَكِنْ مِنْ غَائِطٍ
وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: نیند سے وضو کرنے کا بیان
حدیث نمبر: 576

:ترجمہ

(۵۷۷) زر بن حبیشؓ فرماتے ہیں کہ میں صفوان بن عسال
مرادی کے پاس آیا، میں نے کہا: قضائے حاجت اور پیشاب
کرنے کے بعد موزوں پر مسح کرنے کے متعلق میرے دل میں
بات کھٹک رہی ہے اور آپ صحابی ہیں، میں آپ کے پاس یہ
پوچھنے آیا ہوں اس بارے میں رسول اللہ ﷺ سے کوئی بات
سنی ہے تو انہوں نے فرمایا: جی ہاں آپ ﷺ

ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ جب ہم مسافر ہوں تو تین دن اور تین راتیں اپنے موزوں کو نہ اتاریں سوائے جنابت کے اور قضائے حاجت، پیشاب اور نیند سے نہ اتاریں۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The statement on performing ablution after sleep

Hadith number: 576

Translation:

(576) Zar ibn Habish (may Allah be pleased with him) said: I came to Safwan ibn Asal Muradi (may Allah be pleased with him). I said: There is doubt in my heart about wiping on socks after defecating and urinating and you are a companion. I have come to you to ask you about this, have you heard something from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) related to this? He said: Yes, he used to command us not to take off

our socks for three days and three nights while we are traveling except for janabah (major impurity) and not to take off for defecation, urination and sleep.

[Hasan (Fair). Narrated by Nasai 126, 158, 159 and Tirmidhi 96, 3535 and Ibn Majah 478 and Ahmad 4/239, 240]

Sunan Kubra Bayhaqi 577

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ قَالَا (٥٧٨)
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ حَدَّثَنَا بِقِيَّةُ
بْنُ الْوَلِيدِ عَنِ الْوَضِيِّ بْنِ عَطَايٍ عَنِ مَحْفُوظِ بْنِ عُلْقَمَةَ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِدِ الْأَزْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي

طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - قَالَ ((إِنَّمَا الْعَيْنُ
وَكَاؤُ السَّهْمِ فَمَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّأْ))-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: نیند سے وضو کرنے کا بیان
حدیث نمبر: 577

ترجمہ:

(578) (سیدنا علی بن ابی طالبؓ نبی ﷺ سے نقل فرماتے ہیں
کہ آنکھیں دبر کا بندھن ہیں، لہذا جو سو جائے وہ وضو کرے۔)

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The statement on performing
ablution after sleep

Hadith number: 577

Translation:

(577) Syeduna Ali ibn Abi Talib (may Allah be pleased with him) narrates from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) that the eyes are the straps to the buttocks, so one who sleeps should perform ablution.

[Hasan (Fair). Narrated by Abu Dawud 203 and Ibn Majah 477 and Ahmad 1/111, 4/97]

Sunan Kubra Bayhaqi 578

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا (٥٧٩)
أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيُّ حَدَّثَنَا
سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْبَهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ
حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَطِيَّةِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ
مُعَاوِيَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - ((: الْعَيْنُ وَكَأَيُّ السِّمِّ فَإِذَا
نَامَتْ

الْعَيْنُ اسْتَطْلَقَ الْوَكَايُ))-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاکی کا بیان

باب: نیند سے وضو کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 578

:ترجمہ

" (: ۵۷۹) سیدنا معاویہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا
آنکھیں دبر کا بندھن ہیں، جب آنکھ سو جائے تو بندھن کھل
جاتا ہے۔"

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The statement on performing
ablution after sleep

Hadith number: 578

Translation:

(578) It is narrated from Muawiyah (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: “The eye is the string that ties the anal sphincter; when the eyes sleep, the string is loosened.” [Hasan Li Ghayrihi (Fair due to external evidence). Narrated by Ahmad 4/96, 97]

Sunan Kubra Bayhaqi 579

Arabic Text:

وَرَوَاهُ مَرْوَانُ بْنُ جَنَاحٍ عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ (٥٨٠)
قَالَ: الْعَيْنُ وَكَأَيُّ السِّمِّ مَوْقُوفٌ
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الصُّوفِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيِّ الْحَافِظُ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ

جَنَاحُ فَذَكَرَهُ مَوْقُوفًا۔

قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ: وَمَرْوَانَ أَنْبَتُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي (ج)
مَرِيْمَ۔

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاکی کا بیان

باب: نیند سے وضو کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 579

:ترجمہ

(580) (سیدنا معاویہؓ سے روایت ہے کہ آنکھ دبر کا بندھن ہے

یہ حدیث موقوف ہے۔

(ب مروان بن جناح نے موقوفا روایت ذکر کی ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The statement on performing
ablution after sleep

Hadith number: 579

Translation:

(579) It is narrated from Syeduna Muawiyah (may Allah be pleased with him) that the eyes are the straps to the buttocks, this hadith is mawquf.

(B) Marwan bin Janah has narrated a mawquf hadith.

[Daif (Weak). Narrated by Malik 38]

Sunan Kubra Bayhaqi 580

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَأَبُو نَصْرِ: عُمَرُ بْنُ (٥٨١)

عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ قَتَادَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو بْنُ نُجَيْدٍ حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ
أَسْلَمَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ مُضْطَجِعًا
فَلْيَتَوَضَّأْ. بِذَا مُرْسَلٌ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: نیند سے وضو کرنے کا بیان
حدیث نمبر: 580

ترجمہ:

(۵۸۱) (زید بن اسلم سے روایت ہے کہ سیدنا عمرؓ بن خطاب نے فرمایا: جب کوئی لیٹ کر سوئے تو وہ وضو کرے، یہ روایت مرسل ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The statement on performing
ablution after sleep

Hadith number: 580

Translation:

(580) Zayd bin Aslam narrates that Umar ibn Khattab (may Allah be pleased with him) said: When someone sleeps lying down, he should perform ablution. This hadith is mursal.

[Daif, Munkar (Weak, Odd). Narrated by Harith in his Musnad 89]

Sunan Kubra Bayhaqi 581

Arabic Text:

وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا أَبُو (٥٨٢)

جَعْفَرُ الرَّزَّازُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْخَلِيلِ حَدَّثَنَا الْوَاقِدِيُّ حَدَّثَنَا
أَسَامَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ قَالَ: إِذَا وَضَعَ أَحَدُكُمْ جَنْبَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان
باب: نیند سے وضو کرنے کا بیان
حدیث نمبر: 581

:ترجمہ

(582) (سیدنا عمرؓ فرماتے ہیں کہ جب کوئی اپنے پہلو پر ٹیک لگا کر سو جائے تو وہ وضو کرے۔)

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The statement on performing
ablution after sleep

Hadith number: 581

Translation:

(581) Umar (may Allah be pleased with him) says that when one falls asleep leaning on his side, he should perform ablution.

[Daif (Weak). Narrated by Ibn Abi Shaybah 1412]

Sunan Kubra Bayhaqi 582

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو قَالَا (٥٨٣)
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَسِيدُ بْنُ

عَاصِمٌ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي
زِيَادٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وَجَبَ الْوُضُوءُ عَلَى كُلِّ
نَائِمٍ إِلَّا مَنْ خَفَقَ خَفَقَةً بِرَأْسِهِ-

هَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ مُوقُوفًا وَرَوَى
ذَلِكَ مَرْفُوعًا وَلَا يَثْبُتُ رَفْعُهُ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: نیند سے وضو کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 582

:ترجمہ

(۵۸۳) (سیدنا ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ہر سونے والے پر
وضو واجب ہے، مگر جس کا صرف سر جھک جائے تو) نیند

(کی وجہ سے اس پر وضو نہیں ہے

ب) (اسے ایک جماعت نے یزید بن ابو زیاد سے موقوفاً نقل کیا

ہے اور ایک مرفوع روایت بھی ہے لیکن اس کا مرفوع ہونا

ثابت نہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The statement on performing
ablution after sleep

Hadith number: 582

Translation:

(582) It is narrated from Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) that ablution is obligatory on every one who sleeps, except one whose head only bowed (due to sleep, ablution is not obligatory on him).

(B) It has been narrated by a group from Yazid ibn Abu Ziyad via a mawquf hadith and there is also an marfu narration but its being marfu has not been proved.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 583

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا (٥٨٤)
أَبُو الْقَاسِمِ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْبَغَوِيُّ بِبَغْدَادَ
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ
خَالِدِ بْنِ غِلَاقٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : مَنْ اسْتَحَقَّ النَّوْمَ فَقَدْ وَجَبَ
عَلَيْهِ الْوُضُوءُ .

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان
باب: نیند سے وضو کرنے کا بیان
حدیث نمبر: 583

:ترجمہ

(۵۸۴) سیدنا ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ جس پر نیند ثابت ہوگئی اس پر وضو کرنا واجب ہوگیا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The statement on performing
ablution after sleep

Hadith number: 583

Translation:

(583) It is narrated from Syeduna Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that it becomes obligatory to perform ablution on the one who has been proven to fall asleep. [Daif (Weak). Narrated by Ibn Jad in his Musnad 1452]

Sunan Kubra Bayhaqi 584

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ (٥٨٥)
حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ
مِثْلَهُ.

قَالَ إِسْمَاعِيلُ قَالَ الْجُرَيْرِيُّ فَسَأَلْنَاهُ عَنِ اسْتِحْقَاقِ النَّوْمِ فَقَالَ
هُوَ أَنْ يَضَعَ جَنْبَهُ. :
وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ مَرْفُوعًا وَلَا يَصِحُّ رَفْعُهُ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: نیند سے وضو کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 584

ترجمہ:

(۵۸۵) ابن علیہ جریری سے اسی سند سے بیان کرتے ہیں۔
(ب) جریری کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا نیند کب ثابت ہوتی ہے
تو انہوں نے فرمایا: جب سونے والا اپنا پہلو زمین پر لگا دے۔
(ج) یہ روایت مرفوعاً ثابت نہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The statement on performing
ablution after sleep

Hadith number: 584

Translation:

(584) Ibn Alayh narrates from Jariri with the
same chain of transmission.

(B) Jariri says that when we asked when sleep
is proven, he said: When the sleeper

puts his side on the ground.

(C) This narration is not proven to be marfu
[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 585

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَارِثِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ (٥٨٦)
: حَيَّانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ
مُوسَى بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرٍو
عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَنَامُ الْيَسِيرَ فِي
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَيَتَوَضَّأُ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى
كتاب: پاكى كا بيان
باب: نيند سے وضو كرنے كا بيان
حدیث نمبر: 585

:ترجمہ

(585) نافع سے روایت ہے کہ سیدنا ابن عمرؓ مسجد حرام میں ہلکی نیند سوتے تو وضو فرماتے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The statement on performing
ablution after sleep

Hadith number: 585

Translation:

(585) Nafi narrates from Ibn Umar (may Allah be pleased with him) used to perform ablution if he slept lightly in Masjid Haram.

[Hasan Li Ghayrihi (Fair due to external

evidence)]

Sunan Kubra Bayhaqi 586

Arabic Text:

وَبِإِسْنَادِهِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ وَأَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ (٥٨٧)
أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا غَلَبَهُ النَّوْمُ
فِي قِيَامِ اللَّيْلِ أَتَى فِرَاشَهُ فَاضْطَجَعَ فَرَقَدَ رُقَادَ الطَّيْرِ ، ثُمَّ
يَثْبُ فَيَتَوَضَّأُ وَيُعَاوِدُ الصَّلَاةَ .

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاكى كا بيان

باب: نيند سے وضو كرنے كا بيان

حديث نمبر: 586

:ترجمہ

(586) سيدنا عبدالله بن عمرؓ سے روايت ہے كه جب ان پر قيام الليل ميں نيند غالب آجاتى تو اپنے بستر پر آتے اور ليٹ جاتى، پھر پرندے كى طرح (تھوڑا سا) سوتے، پھر كو دكر اٹھتے وضو كرتے اور دوباره نماز پڑھنے لگ جاتے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The statement on performing
ablution after sleep

Hadith number: 586

Translation:

(586) It is narrated from Syeduna Abdullah bin Umar (may Allah be pleased with him) that when sleep overtook him during Qiyam-

ul-Layl, he would come to his bed and lie down, then he would sleep (a little) like a bird, then he would wake up, perform ablution and pray again.

[Hasan (Fair)]

Sunan Kubra Bayhaqi 587

Arabic Text:

وَبِإِسْنَادِهِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ وَأَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرٍو عَنْ ابْنِ (۵۸۸)
جُرَيْجٍ عَنْ عَطَائٍ وَمُجَابِدٍ قَالَا: مَنْ نَامَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا
تَوَضَّأَ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: نیند سے وضو کرنے کا بیان
حدیث نمبر: 587

:ترجمہ

(۵۸۸) عطاء اور مجاہد سے روایت ہے کہ جو شخص رکوع اور سجدے کی حالت میں سو جائے وہ وضو کرے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The statement on performing
ablution after sleep

Hadith number: 587

Translation:

(587) It is narrated from Ata and Mujahid (may Allah be pleased with them) that a person who falls asleep while bowing and prostrating should perform ablution.

[Hasan (Fair)]

Sunan Kubra Bayhaqi 588

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ (٥٨٩)
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ
إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ: مَنْ نَامَ جَالِسًا وَضُوءًا أ-

وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ إِسْحَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا نَامَ قَاعِدًا (ت)
أَوْ قَائِمًا فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ -
وَإِلَىٰ هَذَا ذَهَبَ الْمُزَنِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: نیند سے وضو کرنے کا بیان
حدیث نمبر: 588

:ترجمہ

(۵۸۹) (الف) (حسن سے روایت ہے کہ جو بیٹھے بیٹھے سو جائے تو وہ وضو کرے۔
(ب) (حسن سے روایت ہے کہ جو بیٹھا یا کھڑا سو جائے اس پر وضو ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The statement on performing
ablution after sleep

Hadith number: 588

Translation:

(588) (A) It is narrated from Hasan that whoever sleeps while sitting should perform ablution.

(B) It is narrated from Hasan that whoever sleeps while sitting or standing, the ablution is (obligatory) on him.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 589

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذُبَارِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا (٥٩٠)
 أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شَادُّ بْنُ قِيَاضٍ حَدَّثَنَا بِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ
 عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - يَنْتَظِرُونَ
 الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّى تَخْفِقَ رِئُوسُهُمْ ثُمَّ يُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ -
 قَالَ أَبُو دَاوُدَ : زَادَ فِيهِ شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -
 -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: بیٹھ کر سونے سے وضو واجب نہ ہونے کا بیان
 حدیث نمبر: 589

:ترجمہ

(٥٩٠) (سیدنا انسؓ سے روایت ہے کہ صحابہ کرامؓ عشا کی
 نماز کا انتظار کرتے اور نیند سے ان کے سر جھک جاتے پھر
 پھر وہ نماز پڑھتے اور وضو نہیں کرتے تھے۔
 ب (امام ابوداؤد) رح (فرماتے ہیں کہ شعبہ نے قتادہ سے یہ
 الفاظ زائد بیان کیے ہیں کہ یہ رسول اللہ ﷺ کے زمانے کا فعل
 ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The statement that sleeping while sitting does not make ablution obligatory

Hadith number: 589

Translation:

(589) It is narrated from Syeduna Anas (may Allah be pleased with him) that the Companions used to wait for Isha prayers and their heads drooped from sleep then they would offer prayers and would not perform ablution.

(B) Imam Abu Dawud (may Allah have mercy on him) says that Shuba has exaggerated these words from Qatadah that it was an act done during the time of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him).

[Sahih. Narrated by Bukhari 642 and Muslim 376 and Nasai 792 and Abu Dawud 544]

Sunan Kubra Bayhaqi 590

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا (٥٩١)
أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّفَّارِ حَدَّثَنَا تَمْتَامٌ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ
أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - يَنَامُونَ ثُمَّ يَقُومُونَ فَيُصَلُّونَ وَلَا
يَتَوَضَّئُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَبِيبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ
الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ دُونَ قَوْلِهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

کتاب: پاکی کا بیان

باب: بیٹھ کر سونے سے وضو واجب نہ ہونے کا بیان

حدیث نمبر: 590

ترجمہ:

(591) (سیدنا انسؓ سے روایت ہے کہ صحابہ کرامؓ) بیٹھے بیٹھے (سو جاتے، پھر کھڑے ہوتے اور نماز ادا کرتے۔ یہ حضرات نبی ﷺ کے زمانہ میں) بھی اس سے (وضو نہیں کرتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The statement that sleeping while sitting does not make ablution obligatory

Hadith number: 590

Translation:

(590) It is narrated from Syeduna Anas (may Allah be pleased with him) that the Companions would fall asleep (sitting), then stand up and pray. These people did not

perform ablution in the time of the Prophet
(peace and blessings of Allah be upon him).
[Sahih. Narrated by Al-Daraqutni 1/130]

Sunan Kubra Bayhaqi 591

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا (٥٩٢)
أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ حُمَيْدٍ يَعْنِي مُحَمَّدًا

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ - ﷺ - يُوقِظُونَ لِلصَّلَاةِ حَتَّىٰ إِنِّي لِأَسْمَعُ لِأَحَدِهِمْ غَطِيطًا ثُمَّ يَقُومُونَ فَيُصَلُّونَ وَلَا يَتَوَضَّئُونَ. قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: هَذَا عِنْدَنَا وَهُمْ جُلُوسٌ. (ق) وَعَلَىٰ هَذَا حَمَلَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَالشَّافِعِيُّ وَحَدِيثَاهُمَا فِي ذَلِكَ مُخْرَجَانِ فِي الْخِلَافِيَّاتِ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: بیٹھ کر سونے سے وضو واجب نہ ہونے کا بیان
 حدیث نمبر: 591

ترجمہ:

(۵۹۲) (سیدنا انسؓ سے روایت ہے کہ میں نے صحابہ کرام ان کو دیکھا کہ ان کو نماز کے لیے بیدار کیا جاتا تھا اور میں کے خراٹے کی آواز سنتا، پھر وہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے تھے اور وضو نہیں کرتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The statement that sleeping while sitting does not make ablution obligatory

Hadith number: 591

Translation:

(591) It is narrated from Anas (may Allah be pleased with him) that I saw the Companions, they would be woken up for prayer and I heard their snoring, then they would stand up and pray and not perform ablution.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 592

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوَدْبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ (٥٩٣)
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَدَاوُدُ بْنُ شَيْبٍ
قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: أَقِيمَتْ
صَلَاةُ الْعِشَاءِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي حَاجَةً.
فَقَامَ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَعَسَ الْقَوْمُ أَوْ بَعْضُ الْقَوْمِ ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ وَلَمْ
يَذْكُرْ وَضُوءًا. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ
سَلَمَةَ دُونَ قَوْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ وَضُوءًا.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى
كتاب: پاکی کا بیان
باب: بیٹھ کر سونے سے وضو واجب نہ ہونے کا بیان
حدیث نمبر: 592

:ترجمہ

(۵۹۳) (سیدنا انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ عشا کی نماز کھڑی ہوئی تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا: اے اللہ کے رسول! مجھے کام ہے آپ ﷺ کھڑے ہو کر اس سے سرگوشی کرتے رہے اور لوگوں کو یا کسی ایک کو اونگھ آگئی، پھر آپ ﷺ نے ان کو نماز پڑھائی اور وضو نہیں کیا۔)
(ب) (صحیح مسلم میں "لَمْ يَذْكُرْ وَضُوءًا" کے الفاظ ہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The statement that sleeping while sitting does not make ablution obligatory

Hadith number: 592

Translation:

(592) It is narrated from Anas bin Malik (may Allah be pleased with him) that when Isha prayer was offered, a man stood up and said: O Messenger of Allah! I have some matter (to discuss with you), the Prophet (peace and

blessings of Allah be upon him) stood up conversed with him (in a low voice) and the people or one of them fell asleep, then he (the Prophet) led them in prayer and did not perform ablution.

(B) Sahih Muslim has the words "لَمْ يَذْكُرْ وَضُوءًا".

[Sahih. Narrated by Bukhari 642 and Muslim 376 and Nasai 792 and Abu Dawud 544]

Sunan Kubra Bayhaqi 593

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا (٥٩٤)
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَبْدِ الْحَكَمِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ-

قَالَ وَحَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ قَالَ قُرِيَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَكَ
مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ وَاللَّيْثُ بْنُ
سَعْدٍ وَابْنُ سَمْعَانَ عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَنَامُ
وَهُوَ جَالِسٌ ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: بیٹھ کر سونے سے وضو واجب نہ ہونے کا بیان

حدیث نمبر: 593

ترجمہ:

(٥٩٤) نافع سے روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمرؓ بیٹھے
بیٹھے سو جاتے تھے، پھر نماز پڑھتے اور وضو نہ کرتے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The statement that sleeping while sitting does not make ablution obligatory

Hadith number: 593

Translation:

(593) It is narrated from Nafi that Ibn Umar (may Allah be pleased with him) used to sleep while sitting, then would offer prayer and would not perform ablution.

[Hasan (Fair). Narrated by Ibn Abi Shaybah]

Sunan Kubra Bayhaqi 594

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا (٥٩٥)
أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ
عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَطَائٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمْ يَرْفَعُهُ قَالَ
مَنْ نَامَ وَهُوَ جَالِسٌ فَلَا وُضُوئَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ اضْطَجَعَ فَعَلَيْهِ :
الْوُضُوئُ.
ت (وَرَوَيْنَا فِي ذَلِكَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي أَمَامَةَ -
وَاحْتَجَّ بَعْضُ أَصْحَابِنَا بِمَا.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان
باب: بیٹھ کر سونے سے وضو واجب نہ ہونے کا بیان
حدیث نمبر: 594

:ترجمہ

(۵۹۵) سیدنا ابن عباسؓ سے موقوفاً منقول ہے کہ جو شخص بیٹھ کر سو جائے اس کا وضو (باقی) ہے۔ اگر لیٹ جائے تو اس پر وضو ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The statement that sleeping while sitting does not make ablution obligatory

Hadith number: 594

Translation:

(594) It is narrated from Syeduna Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) that the person who sits down and falls asleep has ablution (rest). If he lies down, he has to perform ablution.

[Hasan (Fair)]

Sunan Kubra Bayhaqi 595

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ (٥٩٦)
الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حِسَابٍ حَدَّثَنَا
قَزَعَةُ بْنُ سُؤَيْدٍ حَدَّثَنِي بَحْرُ بْنُ كَنْبِزِ السَّقَائِيُّ عَنْ مَيْمُونِ
الْخَيَّاطِ عَنْ أَبِي عِيَّاضٍ عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ: كُنْتُ فِي
مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ جَالِسًا أَخْفُقُ ، وَاحْتَضَنَنِي رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي فَالْتَفَتُّ
فَإِذَا أَنَا بِالنَّبِيِّ ﷺ - فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ وَجِبَ عَلَيَّ
وَضُؤِي؟ قَالَ: ((لَا حَتَّى تَضَعَ جَنْبَكَ)) -
وَهَذَا الْحَدِيثُ تَفَرَّدَ بِهِ بَحْرُ بْنُ كَنْبِزِ السَّقَائِيُّ - (ج) (وَهُوَ ضَعِيفٌ
لَا يُحْتَجُّ بِرِوَايَتِهِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: بیٹھ کر سونے سے وضو واجب نہ ہونے کا بیان

حدیث نمبر: 595

ترجمہ:

(595) (سیدنا حذیفہ بن یمانؓ سے روایت ہے کہ میں مدینہ کی مسجد میں اس حال میں بیٹھا ہوا تھا کہ میرا سر (نیند کی وجہ سے) جھک جاتا تھا۔ پیچھے سے ایک شخص نے مجھے چوکا مارا تو میں نے مڑ کر دیکھا، وہ نبی ﷺ تھے۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا مجھے پر وضو ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں جب تک تیرا پہلونا جھکے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The Statement that ablution is not obligatory when sleeping while sitting

Hadith number: 595

Translation:

(595) It is narrated from Hudhayfah bin Yaman (may Allah be pleased with him) that I was sitting in the mosque of Madinah with my head drooped (due to sleep). A man hit me from behind and I turned around and saw that he was the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him). I said: O Messenger of Allah! Do I have to perform ablution? He said: No, until your side is not bent.

[Daif (Weak). Narrated by Ibn Adiy 6/54]

Sunan Kubra Bayhaqi 596

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا (٥٩٧)
أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّفَّارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شاذَانَ الْجَوْبَرِيُّ حَدَّثَنَا
زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ يَزِيدَ الدَّالَانِيِّ عَنْ
قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - نَامَ
فِي سُجُودِهِ حَتَّى غَطَّ وَنَفَخَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ نِمْتَ -
فَقَالَ ((: إِنَّمَا يَجِبُ الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ وَضَعَ جَنْبَهُ ، فَإِنَّهُ إِذَا
وَضَعَ جَنْبَهُ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ)) -
هَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ فِي
الْحَدِيثِ : إِنَّمَا الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا ، فَإِنَّهُ إِذَا
اضْطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
کتاب : پاکی کا بیان

باب: سجدے کی حالت میں سو جانے کا بیان

حدیث نمبر: 596

:ترجمہ

(۵۹۷) (الف) (سیدنا ابن عباس ^{رض} سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سجدے میں سو گئے اور نیند نے آپ ﷺ کو ڈھانپ لیا یہاں تک کہ خراٹوں کی آواز آنے لگی، میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ سو گئے تھے، آپ نے فرمایا: جو پہلو کے بل سو جائے اس پر وضو ہے اور جس نے اپنے پہلو رکھ لیے (یعنی لیٹ گیا) (تو اس کے جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔

(ب) (بعض نے حدیث میں بیان کیا ہے کہ لیٹ کر سونے والے پر وضو ہے۔ بلاشبہ جو لیٹ گیا تو اس کے جوڑ ڈھیلے پڑھ جاتے ہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on sleeping while in prostration

Hadith number: 596

Translation:

(596) (a) It is narrated from Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) fell asleep in prostration and sleep overtook him until the sound of snoring started coming. I said: O Messenger of Allah! You had fallen asleep. He said: Ablution is performed on the one who sleeps on his side for he who lies on his side (i.e lies down), his joints become loose.

(B) Some have stated in the hadith that ablution is obligatory on one who sleeps lying down. Of course, if he lies down, his joints become loose.

[Daif (Weak). Narrated by Al-Tabarani in Mujam Kabeer 12748]

Sunan Kubra Bayhaqi 597

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ (٥٩٨)
يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ
السُّلُولِيِّ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - ((لَا يَجِبُ الْوُضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ جَالِسًا أَوْ قَائِمًا
أَوْ سَاجِدًا حَتَّى يَضَعَ جَنْبَهُ ، فَإِنَّهُ إِذَا وَضَعَ جَنْبَهُ اسْتَرَحَثَ
مَفَاصِلَهُ)) -

تَفَرَّدَ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو
خَالِدٍ الدَّالَانِيُّ -

قَالَ أَبُو عِيْسَى التِّرْمِذِيُّ : سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيَّ
عَنْ بَدَأِ الْحَدِيثِ فَقَالَ : بَدَأَ لَا شَيْءَ -

رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (ت)
قَوْلُهُ ، وَلَمْ يَذْكَرْ فِيهِ أَبَا الْعَالِيَةِ - (ج) (وَلَا أَعْرِفُ لِأَبِي خَالِدِ
الدَّالَانِيِّ سَمَاعًا مِنْ قَتَادَةَ -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوَدْبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ قَالَ
أَبُو دَاوُدَ السَّجِسْتَانِيُّ قَوْلُهُ ((:الْوَضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ
مُضْطَجِعًا)) (-. بُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ لَمْ يَرَوْهُ إِلَّا يَزِيدُ الدَّالَّانِيُّ عَنْ
قَتَادَةَ-

وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ شُعْبَةُ :إِنَّمَا سَمِعَ قَتَادَةَ مِنْ أَبِي الْعَالِيَةِ
أَرْبَعَةَ أَحَادِيثَ :حَدِيثُ يُونُسَ بْنِ مَتَّى ، وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي
الصَّلَاةِ ، وَحَدِيثُ :الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ-

وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِي رِجَالٌ مَرْضِيُونَ مِنْهُمْ عُمَرُ
وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ يَعْنِي فِي :لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ-
قَالَ الشَّيْخُ :وَسَمِعَ أَيْضًا حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيمَا يَقُولُ عِنْدَ
الْكَرْبِ ، وَحَدِيثُهُ فِي رُؤْيَةِ النَّبِيِّ ﷺ - لَيْلَةَ أُسْرِي بِهِ
مُوسَى وَغَيْرِهِ-

قَالَ أَبُو دَاوُدَ :وَذَكَرْتُ حَدِيثَ يَزِيدِ الدَّالَّانِيِّ لِأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ
فَقَالَ :مَا لِيَزِيدِ الدَّالَّانِيِّ يُدْخِلُ عَلَى أَصْحَابِ قَتَادَةَ-
قَالَ الشَّيْخُ يَعْنِي بِهِ مَا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ أَنَّهُ لَا يُعْرِفُ لِأَبِي
خَالِدِ الدَّالَّانِيِّ سَمَاعٌ مِنْ قَتَادَةَ-
قَالَ أَبُو دَاوُدَ :وَرَوَى أَوْلَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمْ يَذْكُرُوا شَيْئًا
مِنْ هَذَا-

وَقَالَ عِكْرِمَةُ :كَانَ النَّبِيُّ ﷺ - مَحْفُوظًا- (ت)
وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ - ((:تَنَامُ عَيْنَايَ
وَلَا يَنَامُ قَلْبِي))-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: سجدے کی حالت میں سو جانے کا بیان

حدیث نمبر: 597

ترجمہ:

(الف) (۵۹۸) (عبد السلام بن حرب اسی سند سے بیان کرتے ہیں

کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص بیٹھ کر یا کھڑا ہو کر یا

سجدہ کی حالت میں میں سو جائے اس پر وضو نہیں ہے جب

تک اپنا پہلو نہ رکھ دے) یعنی لیٹ جائے (جب اس نے اپنے

پہلو رکھ دیے تو اس کے جوڑ ڈھیلے پڑ گئے۔

(ب) (سیدہ عائشہؓ فرماتی ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا " :میری

" آنکھیں سوجاتی ہیں، لیکن میرا دل نہیں سوتا۔

(ب) (امام ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے محمد

بن اسماعیل بخاری) رح (سے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو

انہوں نے فرمایا: اس) حدیث (کی کوئی حقیقت نہیں۔

(ج) (امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ راوی کا یہ کہنا اَلْوَضُوءُ

عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا منکر ہے۔

(امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ شعبہ نے ابو عالیہ سے چار احادیث سنی ہیں: حدیث یونس بن متی، حدیث ابن عمر غار کے متعلق، حدیث القضاة ثلاثہ، حدیث ابن عباس لا صلوة بعد العصر۔ شیخ فرماتے ہیں کہ ابن عباسؓ کی روایت کہ مصیبت کے وقت کیا پڑھا جائے اور سفر معراج میں موسیٰ (علیہ السلام) اور دوسرے انبیاء کی روایت وغیرہ کی روایت بھی۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on sleeping while in prostration

Hadith number: 597

Translation:

(597) (a) Abd al-Salam ibn Harb narrates from the same chain of transmission that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: "Whoever falls asleep while sitting or standing or in prostration, there is no ablution on him unless

he rests his side (i.e lie down). When he rests his side, his joints become loose.

(B) Ayesha says that the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said: "My eyes sleep, but my heart does not sleep."

(B) Imam Abu Isa Tirmidhi (may Allah have mercy on him) says that when I asked Muhammad ibn Isma'il Bukhari (may Allah have mercy on him) about this hadith, he said: There is no truth in this (hadith).

(C) Imam Abu Dawud (may Allah have mercy on him) says that this statement 'Performing ablution for one who sleeps lying down' of the narrator is denied.

(D) Imam Abu Dawud (may Allah have mercy on him) says that Shuba has heard four hadiths from Abu Alia: Hadith Yunus bin Mati, Hadith Ibn Umar (may Allah be pleased with him) about the cave, Hadith Al-Qada 3, Hadith Ibn Abbas No prayer after Asr. The Shaykh says that the narration of Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) about what to

recite in times of trouble and also the narration of the seeing of Moses (peace be upon him) and other prophets (peace be upon them) during the Ascension (Israa Miraaaj).

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 598

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا (۵۹۹)
 إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ
 سَلَمَةَ عَنْ أَيُّوبَ وَحُمَيْدٍ وَحَمَّادِ الْكُوفِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ
 ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - نَامَ حَتَّى سَمِعَ لَهُ غَطِيطُ فَقَامَ
 فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. قَالَ عِكْرِمَةُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ - كَانَ
 مَحْفُوظًا.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: سجدے کی حالت میں سو جانے کا بیان
 حدیث نمبر: 598

ترجمہ:

(۵۹۹) (سیدنا ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ سو گئے
 یہاں تک کہ آپ ﷺ کے خراٹوں کی آواز آنے لگی۔ آپ ﷺ
 کھڑے ہوئے پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ عکرمہ کہتے
 ہیں: نبی ﷺ محفوظ تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on sleeping while in prostration

Hadith number: 598

Translation:

(598) It is narrated from Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) fell asleep until the sound of his snoring started coming. He stood up, then offered prayers and did not perform ablution. Ikrimah says: The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) was safe.

[Sahih]

The lengthy hadith was narrated by Bukhari 138, 859 and Muslim 763

Sunan Kubra Bayhaqi 599

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بَشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ (٦٠٠)
بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا الْفَرِيَابِيُّ حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ
ﷺ - نَامَ حَتَّى نَفَخَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ -
مُخْرَجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ دُونَ الزِّيَادَةِ الَّتِي
تَفَرَّدَ بِهَا أَبُو خَالِدٍ الدَّالَانِيُّ -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَغَيْرُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي (ت)
حَدِيثِ الْمَبِيتِ دُونَ تِلْكَ الزِّيَادَةِ -
وَنَوْمُهُ هَذَا كَانَ مُضْطَجِعًا ، وَكَانَ - ﷺ - يَتْرُكُ الْوُضُوءَ مِنْهُ (ق)
مَخْصُوصًا - وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: سجدے کی حالت میں سو جانے کا بیان

حدیث نمبر: 599

ترجمہ:

(۶۰۰) (سیدنا ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ سو گئے یہاں تک کہ آپ ﷺ نے خراٹے لیے، پھر کھڑے ہوئے نماز ادا کی اور وضو نہیں کیا۔

(ب) (اسی طرح ابن عباسؓ کی رات گزارنے والی حدیث ہے جس میں یہ زیادتی نہیں ہے۔

(ج) (آپ ﷺ کی نیند لیٹ کر تھی، آپ ﷺ نے وضو نہیں کیا، یہ آپ کا خاصہ ہے جس پر یہ حدیث دلالت کر رہی ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on sleeping while in prostration

Hadith number: 599

Translation:

(599) It is narrated from Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) fell asleep until he snorred, then stood up and offered prayers and did not perform ablution.

(B) In the same way, there is a hadith of Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) about spending the night in which there is no excess.

(C) He was asleep, he did not perform ablution, this is his special characteristic which this hadith is pointing to.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 600

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ (٦٠١)
أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ وَسِّ حَدَّثَنَا
عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيِّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمَدِينِيِّ
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعَ عَمْرُو كُرَيْبًا يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ : بَيْتٌ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ
- اللَّيْلِ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ - فَتَوَضَّأَ مِنْ شَيْءٍ مُعَلَّقٍ وَضَوَى خَفِيفًا
يُخَفِّفُهُ عَمْرُو وَيَقْلِلُهُ جِدًّا - ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي ، فَقُمْتُ فَتَوَضَّأْتُ
، نَحْوًا مِمَّا تَوَضَّأْتُ ثُمَّ قُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَحَوَّلَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ
ثُمَّ صَلَّى مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ ، ثُمَّ جَاءَهُ
الْمُنَادِي فَأَذَنَهُ بِالصَّلَاةِ -

وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً أُخْرَى : ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى بِنَا وَلَمْ
يَتَوَضَّأْ -

قَالَ سُفْيَانُ قُلْنَا لِعَمْرُو : إِنَّ أَنْاسًا يَقُولُونَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ

تَنَامُ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ۔ قَالَ عَمْرُو سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عَمِيرٍ۔
يَقُولُ: رُؤْيَا الْأَنْبِيَاءِ وَحْيٌ۔ وَقَرَأْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ }
[الصافات: ١٠٢]

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ وَابْنِ أَبِي عُمَرَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ الْأَعْمِيِّ
أَنَّهِمَا قَالَا قَالَ سُفْيَانُ: وَهَذَا لِلنَّبِيِّ ﷺ - خَاصَّةً لِأَنَّهُ بَلَّغْنَا: أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ - تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ۔

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: سجدے کی حالت میں سو جانے کا بیان

حدیث نمبر: 600

ترجمہ:

(601) (سیدنا عبداللہ بن عباس رض فرماتے ہیں کہ میں ایک رات
اپنی خالہ میمونہ رض کے پاس ٹھہرا۔ رات کا کچھ حصہ گزرنے
کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لٹکی ہوئی مشک
مشک سے ہلکا سا وضو کیا) عمرو اس کو ہلکا اور بہت
تھوڑا بیان کرتے ہیں (پھر آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے
ہوئے تو میں بھی کھڑا ہوا۔ میں نے ویسے ہی وضو

کیا جیسے آپ ﷺ نے وضو کیا، پھر میں آپ ﷺ کے بائیں جانب کھڑا ہوا۔ آپ نے نماز پڑھی پھر آپ لیٹ کر سو گئے یہاں تک کہ آپ خراٹے لینے لگے، پھر اعلان کرنے والا آیا۔ اس نے آپ ﷺ کو نماز کے متعلق بتایا۔

اور دوسری مرتبہ سفیان بیان کرتے ہیں کہ پھر آپ ﷺ نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ہم کو نماز پڑھائی لیکن وضو نہیں کیا۔

سفیان کہتے ہیں کہ ہم نے عمرو کو کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل نہیں سوتا۔ عمرو کہتے ہیں: میں نے عبید بن عمیر سے سنا وہ کہتے تھے کہ انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں اور بطور دلیل یہ آیت پڑھی {اِنِّیْ اَرٰی فِی الْمَنَامِ اَنِّیْ اَدْبَحُکَ} [الصافات: ۱۰۲]

(ب بخاری اور مسلم میں ہے کہ سفیان کہتے ہیں: یہ نبی ﷺ کا خاصہ ہے چونکہ آپ ﷺ کا فرمان ہمیں پہنچا ہے جو ہمارے لیے دلیل ہے کہ آپ ﷺ کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل نہیں سوتا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on sleeping while in prostration

Hadith number: 600

Translation:

(600) Syeduna Abdullah bin Abbas (may Allah be pleased with him) says that one night I stayed with my aunt Maimuna (may Allah be pleased with her). After a part of the night, the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) stood up, performed a light ablution with a hanging musk (Amr describes it lightly and very little). Then he stood up to offer prayer so I also stood up. I performed ablution just like he performed ablution, then I stood to his left. He prayed and then he laid down and fell asleep till he started snoring, then the announcer came. He told him (the Prophet) about prayer.

And the second time Sufyan narrates that then he stood up for prayers and led us in prayer but did not perform ablution.

Sufyan says that we told Amr that people say that the Prophet's eyes sleep and his

heart does not sleep. Amr says: I heard Ubayd ibn Umayr say that the dreams of the prophets are revelations and he used to recite this verse as a proof. {إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ} {Indeed I have seen in a dream that I (must) sacrifice you}

[Surah Saffat 37:102]

(B) In Bukhari and Muslim it is said that Sufyan says: This is a special characteristic of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) because the Prophet's (peace and blessings of Allah be upon him) message has reached us which is a proof for us that your eyes sleep and your heart does not sleep.

[Sahih. Narrated by Bukhari 117, 138, 859 and Muslim 763]

Sunan Kubra Bayhaqi 601

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدِ وَاسٍ (٦٠٢)
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ عَنْ
سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ فِي
حَدِيثٍ ذَكَرَهُ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ قَالَتْ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنَامُ قَبْلَ
أَنْ تُوتِرَ؟ فَقَالَ ((يَا عَائِشَةُ إِنَّ عَيْنِي تَنَامَانٍ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي))-
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ
يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ-
وَرَوَيْنَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي بُرَيْرَةَ وَأَنْسِ بْنِ (ت)
مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ - ﷺ - كَانَ تَنَامُ عَيْنَاهُ وَلَا
يَنَامُ قَلْبُهُ-
قَالَ أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ: وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ تَنَامُ
أَعْيُنُهُمْ وَلَا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان

باب: سجدے کی حالت میں سو جانے کا بیان

حدیث نمبر: 601

ترجمہ:

(۶۰۲) (الف) سیدہ عائشہ رض نے رات کی نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عائشہ! میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ (ب) (سیدنا انس بن مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں سوتی تھیں دل نہیں سوتا تھا، اسی طرح تمام انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن ان کے دل نہیں سوتے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on sleeping while in prostration

Hadith number: 601

Translation:

(601) (a) Syeda Ayesha (may Allah be

pleased with her), while mentioning the night prayer, said: I said: O Messenger of Allah! Do you fall asleep before praying Witr? He said: O Ayesha! My eyes sleep but my heart does not sleep.

(B) Anas ibn Malik (may Allah be pleased with him) narrates from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) that his eyes slept and his heart did not sleep. In the same way the eyes of all the prophets sleep but their hearts do not sleep.

[Sahih]

The full and lengthy hadith was narrated by Bukhari 1147, 2013, 3569 and Muslim 738 and Nasai 1698 and Abu Dawud 1341 and Tirmidhi 439 and Malik 7/9 and Ahmad 6/36, 73, 104.

Wudu of the Prophet not nullified by sleep
{<https://www.islamweb.net/en/fatwa/90427/>}

Sunan Kubra Bayhaqi 602

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ (٦٠٣)
اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ
شَقِيقٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا حَيَّوَةُ بْنُ شَرِيحٍ
:أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ قُسَيْطٍ يَقُولُ
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ :لَيْسَ عَلَى الْمُحْتَبَى النَّائِمِ وَلَا عَلَى
الْقَائِمِ النَّائِمِ وَلَا عَلَى السَّاجِدِ النَّائِمِ وَضَوْئُهُ حَتَّى يَضْطَجِعَ ، فَإِذَا
اضْطَجَعَ تَوَضَّأَ. وَهَذَا مَوْقُوفٌ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: سجدے کی حالت میں سو جانے کا بیان

حدیث نمبر: 602

ترجمہ:

(602) سیدنا ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ گوٹھ مار کر سونے والے پر، کھڑے ہو کر سونے والے پر اور سجدے میں سونے والے پر وضو نہیں ہے جب تک لیٹ نہ جائے۔ جب لیٹ گیا تو وضو کرے گا) یہ موقوف روایت ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on sleeping while in prostration

Hadith number: 602

Translation:

(602) Syeduna Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) says that there is no

ablution on the one who sleeps with his head drooped, on the one who sleeps while standing and on the one who sleeps in prostration until he doesn't lie down. When he lies down (and sleeps), then he will perform ablution (this is a mawquf narration).
[Hasan (Fair)]

Sunan Kubra Bayhaqi 603

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ (٤٠٤) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيِّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ -

وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقُلْتُ :

، أَلَا تُحَدِّثِينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - ؟ فَقَالَتْ : بَلَى نَقَلَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فَقَالَ : أَصَلَّى النَّاسُ ؟ - قُلْنَا : لَا يَا رَسُولَ

اللَّهِ ، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ . قَالَ : ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ . : فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنْوِيءَ فَأَغْمَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ :

أَصَلَّى النَّاسُ ؟ - قُلْنَا : لَا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ : ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ . فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ ذَهَبَ :

لِيَنْوِيءَ فَأَغْمَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ : أَصَلَّى النَّاسُ ؟ - قُلْنَا : لَا هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَقَالَ : ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ .

: فَفَعَلْنَا فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ ذَهَبَ لِيَنْوِيءَ فَأَغْمَى عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ : أَصَلَّى النَّاسُ ؟ - قُلْنَا : لَا وَهُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

- قَالَتْ وَالنَّاسُ عُكُوفٌ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُونَ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - لِمَا فِيهِ مِنَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَالَتْ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إِلَى أَبِي

بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ

بِالنَّاسِ-

وَذَكَرَ الْحَدِيثَ لَفْظُهُمَا سِوَايَ وَبَاقِيَ الْحَدِيثِ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ جَمِيعًا فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ -
(ق) وَالْغُسْلُ بِالْإِغْمَاءِ شَيْءٌ اسْتَحَبَّهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - وَالْوُضُوءُ
يَكْفِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: بے ہوشی سے وضو ختم ہوجانے کا بیان

حدیث نمبر: 603

ترجمہ:

(۶۰۴) (عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ فرماتے ہیں کہ میں سیدہ عائشہؓ کے پاس گیا اور عرض کیا: آپ مجھے نبی ﷺ کے مرض کی حدیث بیان نہیں کریں گی! انہوں نے فرمایا: کیوں نہیں! رسول اللہ ﷺ کا بدن مبارک بھاری ہو گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے کہا: نہیں اے اللہ کے رسول! وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: برتن میں میرے لیے پانی رکھو، ہم

نے پانی رکھ دیا تو آپ ﷺ نے غسل کیا، پھر آپ ﷺ اٹھنے لگے تو آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، پھر آپ ﷺ کو افاقہ ہوا: تو آپ نے پوچھا: کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے کہا: نہیں اے اللہ کے رسول! وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا: برتن میں پانی رکھو ہم نے ایسے ہی کیا۔ آپ ﷺ نے غسل کیا، پھر اٹھنے لگے تو آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی پھر آپ کو افاقہ ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا: کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے کہا: نہیں وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں اے اللہ کے رسول! آپ نے فرمایا: میرے لیے برتن میں پانی رکھو ہم نے برتن میں پانی رکھا۔ آپ نے غسل کیا، پھر آپ اٹھنے لگے تو آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی پھر آپ کو افاقہ ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا: کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے کہا: نہیں وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں اے اللہ کے رسول! سیدہ عائشہؓ کہتی ہیں: لوگ مسجد میں (نیند کی وجہ سے) جھکے ہوئے تھے وہ رسول اللہ کے ساتھ عشا کی نماز کا انتظار کر رہے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے سیدنا ابوبکرؓ کو پیغام بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ (بے ہوشی میں غسل کو رسول اللہ ﷺ نے مستحب سمجھا اگرچہ وضو بھی کافی ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement that ablution is rendered invalid due to unconsciousness

Hadith number: 603

Translation:

(603) Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah says that I went to Ayesha (may Allah be pleased with her) and said: Will you not narrate to me the hadith of the Prophet's illness! She said: Why not? The blessed body of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) became heavy and he said: Have the people prayed? We said: No, O Messenger of Allah! They are waiting for you. He said: Put water in the vessel for me. We put water in it, then he took a bath. Then he got up and fainted. When he recovered, he asked: Have the people prayed? We said: No, O Messenger of Allah! They are waiting for you. He said: Put water in the vessel for me. That is what we

did. He took a bath, then got up and fainted. Then he regained consciousness. He said: Have the people prayed? We said: No, they are waiting for you, O Messenger of Allah! He said: Put water in the vessel for me. We put water in the vessel. He took a bath, then he started to get up, then he fainted, then he regained consciousness, then he said: Have the people prayed? We said no, they are waiting for you, O Messenger of Allah! Syeda Ayesha (may Allah be pleased with her) says: People were there with their heads drooped in the mosque (because of sleep) and they were waiting to pray Isha prayer with the Messenger of Allah. So the Messenger of Allah sent a message to Abu Bakr (may Allah be pleased with him) to lead the people in prayer.

(B) Ghusl in unconsciousness was considered mustahab by the Prophet (peace be upon him) even though ablution is sufficient.

[Sahih. Narrated by Bukhari 687 and Muslim 418 and Nasai 835 and Ahmad 2/52, 6/249, 251 and Darimi 1292]

Sunan Kubra Bayhaqi 604

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ (٤٠٥)
مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيِّ حَدَّثَنَا جَدِّي حَدَّثَنَا

إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو بْنِ عُثْمَانَ - عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ الْقُبْلَةَ مِنَ اللَّمَسِ فَتَوَضَّؤُوا مِنْهَا.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: چھونے سے وضو کرنے کا بیان

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں { :أَوْ لَأَمْسْتُمُ النِّسَاءَ } [المائدة: 6] یا تم

نے عورتوں کو چھوا ہو۔ ”اسم لمس“ جماع کے علاوہ بھی

مستعمل ہے جیسے آپ ﷺ نے معز بن مالک سے فرمایا: تو

نے شاید اس کا بوسا لیا ہو یا چھوا ہو اور اسی طرح بیع

ملا مسہ سے ممانعت۔ اس طرح سیدنا ابوہریرہ (رض) کی

روایت کہ ہاتھوں کا زنا لمس ہے۔ سیدہ عائشہ (رض) فرماتی

ہیں کہ کبھی کبھار رسول اللہ ﷺ ہم تمام عورتوں کے پاس ایک

ہی دن میں چکر لگاتے تھے، آپ ہمیں بوس و کنار کرتے

جماع نہیں کرتے تھے۔

حدیث نمبر: 604

:ترجمہ

(۶۰۵) (سیدنا ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ سیدنا عمر بن خطابؓ فرماتے ہیں: بوسہ، چھونے کی طرح ہے، لہذا تم اس سے وضو کرو۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on performing Ablution by touching

Allah says (interpretation of the meaning):

{أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}

{Or the women has (had) contact}

[Surah Maidah 5:6]

The noun 'lamas (touch)' is also used referring to other than intercourse, as the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said to Maaz ibn Malik: Perhaps you kissed her or touched (lamasta) her and similarly forbade the sale of [Al-Mulamasah](#). Thus the narration of Syeduna Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the zina of the hands is touching (al-lams). Ayesha

(may Allah be pleased with her) says that sometimes the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) used to visit all the women on the same day. He would kiss us but not have intercourse.

Hadith number: 604

Translation:

(604) It is narrated from Ibn Umar (may Allah be pleased with him) that Umar ibn al-Khattab (may Allah be pleased with him) says: Kissing is like touching, so perform ablution with it.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence). Narrated by Hakim 1/229]

[Sharh] Imam Abu Eisa Tirmidhi said: And (the meaning of) Al-Mulamasah is that he says:

"When you touch something then the sale is concluded." Even if he did not see it at all, like if it was inside of a bag or something else.

These are merely sales practices of the people of Jahiliyyah so they were prohibited.

Sunan Kubra Bayhaqi 605

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو قَالَا (٦٠٦)
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقِ
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُخَارِقِ عَنْ طَارِقِ بْنِ
شِهَابِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {أَوْ
لَا مَسْتُمْ النَّسَاءَ} قَوْلًا مَعْنَاهُ مَا دُونَ الْجِمَاعِ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

کتاب: پاکی کا بیان

باب: چھونے سے وضو کرنے کا بیان

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں { :أَوْ لَأَمْسُتُمُ النِّسَاءَ [المائدة : 6] یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو۔ ”اسم لمس“ جماع کے علاوہ بھی مستعمل ہے جیسے آپ ﷺ نے ماعز بن مالک سے فرمایا: تو نے شاید اس کا بوسا لیا ہو یا چھوا ہو اور اسی طرح بیع ملامسہ سے ممانعت۔ اس طرح سیدنا ابوہریرہ (رض) کی روایت کہ ہاتھوں کا زنا لمس ہے۔ سیدہ عائشہ (رض) فرماتی ہیں کہ کبھی کبھار رسول اللہ ﷺ ہم تمام عورتوں کے پاس ایک ہی دن میں چکر لگاتے تھے، آپ ہمیں بوس و کنار کرتے جماع نہیں کرتے تھے۔

حدیث نمبر: 605

ترجمہ:

(606) (سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس فرمان { :أَوْ لَأَمْسُتُمُ النِّسَاءَ } کے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ اس کا معنی جماع کے علاوہ ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on performing Ablution

by touching

Allah says (interpretation of the meaning):

{أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}

{Or the women has (had) contact}

[Surah Maidah 5:6]

The noun 'lamas (touch)' is also used referring to other than intercourse, as the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said to Maaz ibn Malik: Perhaps you kissed her or touched (lamasta) her and similarly forbade the sale of [Al-Mulamasah](#). Thus the narration of Syeduna Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the zina of the hands is touching (al-lams). Ayesha (may Allah be pleased with her) says that sometimes the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) used to visit all the women on the same day. He would kiss us but not have intercourse.

Hadith number: 605

Translation:

(605) Syeduna Ibn Masud (may Allah be pleased with him) states regarding this saying of Allah {أَوْ لَأَمَسْتُمُ النِّسَاءَ}

{Or the women has (had) contact}

[Surah Maidah 5:6] means other than intercourse.

[Sahih. Narrated by Hakim 1/221]

Sunan Kubra Bayhaqi 606

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ بِالْوَيْهِ (٦٠٧) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَادَانَ الْجَوْبَرِيُّ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا بُشَيْمٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: الْقُبْلَةُ مِنَ اللَّمَسِ وَفِيهَا الْوُضُوءُ ، وَاللَّمْسُ مَا دُونَ الْجَمَاعِ. :
(ت) (هَكَذَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ).

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: چھونے سے وضو کرنے کا بیان

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں { :أَوْ لَأَمْسْتُمُ النِّسَاءَ } [المائدة : ٦] یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو۔ ”اسم لمس“ جماع کے علاوہ بھی مستعمل ہے جیسے آپ ﷺ نے معاذ بن مالک سے فرمایا: تو نے شاید اس کا بوسا لیا ہو یا چھوا ہو اور اسی طرح بیع ملامسہ سے ممانعت۔ اس طرح سیدنا ابوہریرہ (رض) کی روایت کہ ہاتھوں کا زنا لمس ہے۔ سیدہ عائشہ (رض) (فرماتی ہیں کہ کبھی کبھار رسول اللہ ﷺ ہم تمام عورتوں کے پاس ایک ہی دن میں چکر لگاتے تھے، آپ ہمیں بوس و کنار کرتے جماع نہیں کرتے تھے۔

حدیث نمبر: 606

ترجمہ:

(607) (سیدنا عبداللہ بن مسعود ^{رض} فرماتے ہیں: بوسہ چھونے سے ہے اور اس میں وضو ہے اور "لمس" جماع کے علاوہ ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on performing Ablution by touching

Allah says (interpretation of the meaning):

{أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}

{Or the women has (had) contact}

[Surah Maidah 5:6]

The noun 'lamentas (touch)' is also used referring to other than intercourse, as the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said to Maaz ibn Malik: Perhaps you kissed her or touched (lamasta) her and similarly forbade the sale of [Al-Mulamasah](#).

Thus the narration of Syeduna Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the zina of the hands is touching (al-lams). Ayesha (may Allah be pleased with her) says that sometimes the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) used to visit all the women on the same day. He would kiss us but not have intercourse.

Hadith number: 606

Translation:

(606) Syedna Abdullah bin Masud (may Allah be pleased with him) says: Kissing is by touching and there is ablution after it and “lams (touch)” is other than intercourse.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence)]

Sunan Kubra Bayhaqi 607

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُرَكِّي حَدَّثَنَا أَبُو (٦٠٨)
الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا
الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا مَالِكُ -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْعَدْلُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ جَعْفَرِ الْمُرَكِّي
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا
مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ -
عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُبِلَتْهُ الرَّجُلِ امْرَأَتُهُ وَجَسَّهَا بِيَدِهِ مِنَ
الْمُلَامَسَةِ ، فَمَنْ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ أَوْ جَسَّهَا بِيَدِهِ فَعَلَيْهِ الْوُضُوءُ -
: لَفْظُ حَدِيثِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ بُكَيْرٍ
فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ -

ق (فَهَذَا قَوْلُ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
وَخَالِفُهُمْ ابْنُ عَبَّاسٍ فَحَمَلَ الْمَلَامَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي الْكِتَابِ
الْعَزِيزِ عَلَى الْجَمَاعِ وَلَمْ يَرِ فِي الْقُبْلَةِ وَضُوءًا ا-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: چھونے سے وضو کرنے کا بیان

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں { :أَوْ لَأَمْسْتُمُ النِّسَاءَ [المائدة : 6] یا تم
نے عورتوں کو چھوا ہو۔ ”اسم لمس“ جماع کے علاوہ بھی

مستعمل ہے جیسے آپ ﷺ نے ماعز بن مالک سے فرمایا : تو

نے شاید اس کا بوسا لیا ہو یا چھوا ہو اور اسی طرح بیع

ملامسہ سے ممانعت۔ اس طرح سیدنا ابوہریرہ (رض کی

روایت کہ ہاتھوں کا زنا لمس ہے۔ سیدہ عائشہ (رض (فرماتی

ہیں کہ کبھی کبھار رسول اللہ ﷺ ہم تمام عورتوں کے پاس ایک

ہی دن میں چکر لگاتے تھے، آپ ہمیں بوس و کنار کرتے

جماع نہیں کرتے تھے۔

حدیث نمبر: 607

:ترجمہ

(۶۰۸) (الف) (سالم اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں کہ آدمی

کا اپنی بیوی کو بوسہ دینا اور اس کے جسم کو اپنے ہاتھ سے چھونا اور جو شخص اپنی بیوی کو بوسہ دے یا ہاتھ سے چھوئے تو اس پر وضو ہے۔

(ب) ابن بکیر کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ اس پر وضو واجب ہے۔

(ج) یہ قول سیدنا عمر، عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن عمرؓ کا ہے ابن عباس نے ان کی مخالفت کی ہے۔ انہوں نے کتاب اللہ میں مذکور ملامسہ کو جماع پر محمول کیا ہے اور ان سے بوسہ لینے سے وضو کے متعلق کوئی روایت نہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on performing Ablution by touching

Allah says (interpretation of the meaning):

{أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}

{Or the women has (had) contact}

[Surah Maidah 5:6]

The noun 'lamentas (touch)' is also used referring to other than intercourse, as the

Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said to Maaz ibn Malik: Perhaps you kissed her or touched (lamasta) her and similarly forbade the sale of [Al-Mulamasah](#). Thus the narration of Syeduna Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the zina of the hands is touching (al-lams). Ayesha (may Allah be pleased with her) says that sometimes the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) used to visit all the women on the same day. He would kiss us but not have intercourse.

Hadith number: 607

Translation:

(607) (a) Salem narrates from his father that a man kissing his wife and touching her body with his hand and whoever kisses or touches his wife with his hand, then ablution is (obligatory) on him.

(B) The words in the narration of Ibn Bakir are that ablution is obligatory on him.

(C) This is the opinion of Syeduna Umar, Abdullah bin Masud and Abdullah bin Umar (may Allah be pleased with them). Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) has opposed them. He has used the word malamsa mentioned in the Book of Allah for sexual intercourse and there is no tradition regarding kissing and ablution from him.

[Sahih. Narrated by Malik 95, 2/66]

Sunan Kubra Bayhaqi 608

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدٌ (٤٠٩)
بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ
جَرِيرٍ عَنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي بَشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : تَذَاكَرْنَا
اللَّمْسَ ، فَقَالَ أَنَسٌ مِنَ الْمَوَالِي : لَيْسَ مِنَ الْجَمَاعِ . وَقَالَ
أَنَسٌ مِنَ الْعَرَبِ : بِيَّ مِنَ الْجَمَاعِ . فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ
، فَقَالَ : مَعَ أَيِّهِمْ كُنْتَ؟ قُلْتُ : مَعَ الْمَوَالِي . قَالَ : غَلِبَتِ الْمَوَالِي
إِنَّ اللَّمْسَ وَالْمُبَاشَرَةَ مِنَ الْجَمَاعِ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَكْنَى
مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ ، وَقَوْلُ مَنْ يُوَافِقُ قَوْلَهُ ظَاهِرَ الْكِتَابِ أَوْلَى .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب : پاکی کا بیان
باب : چھونے سے وضو کرنے کا بیان
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں { : أَوْ لَأَمْسْتُمُ النِّسَاءَ } [المائدة : ٦] یا تم
نے عورتوں کو چھوا ہو۔ ”اسم لمس“ جماع کے علاوہ بھی
مستعمل ہے جیسے آپ ﷺ نے ماعز بن مالک سے فرمایا : تو
نے شاید اس کا بوسا لیا ہو یا چھوا ہو اور اسی طرح بیع
ملامسہ سے ممانعت۔ اس طرح سیدنا ابوہریرہ

(رض (کی روایت کہ ہاتھوں کا زنا لمس ہے۔ سیدہ عائشہ
(رض (فرماتی ہیں کہ کبھی کبھار رسول اللہ ﷺ ہم تمام عورتوں
کے پاس ایک ہی دن میں چکر لگاتے تھے، آپ ہمیں بوس و
کنار کرتے جماع نہیں کرتے تھے۔

حدیث نمبر: 608

:ترجمہ

(609) (سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ ہم نے لمس (چھونے) کا
ذکر کیا تو موالی میں سے بعض لوگوں نے کہا: یہ جماع نہیں
ہے اور اہل عرب نے کہا: یہ جماع ہے۔ میں نے ابن عباسؓ
سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا: تم کن کے ساتھ ہو؟ میں نے
کہا: موالی کے ساتھ تو انہوں نے کہا: موالی کی بات ٹھیک
نہیں ہے۔ بیشک چھونا اور مباشرت کرنا جماع میں سے ہے،
لیکن اللہ نے کنایہ ذکر کیا جی سے اس نے چاہا۔ ان کا قول
ظاہری کتاب کے موافق ہونے میں زیادہ اولیٰ ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on performing Ablution by
touching

Allah says (interpretation of the meaning):

{أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}

{Or the women has (had) contact}

[Surah Maidah 5:6]

The noun 'lamas (touch)' is also used referring to other than intercourse, as the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said to Maaz ibn Malik: Perhaps you kissed her or touched (lamasta) her and similarly forbade the sale of **Al-Mulamasah**. Thus the narration of Syeduna Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the zina of the hands is touching (al-lams). Ayesha (may Allah be pleased with her) says that sometimes the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) used to visit all the women on the same day. He would kiss us but not have intercourse.

Hadith number: 608

Translation:

(608) Saeed ibn Jubayr (may Allah have

mercy on him) says that when we mentioned lamas (touch), some of the people of Mawlawi said: This is not intercourse and the Arabs said: This is intercourse. I mentioned it to Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) and he said: Who do you side with? I said: With (the people of) Mawali. He said: (The people of) Mawali are not right. Of course, touching and intimacy is part of intercourse, but Allah wanted to mention it as a metaphor. And the saying of those who agree with the apparent meaning of the Book is first.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 609

Arabic Text:

وَاحْتَجَّ بَعْضُ أَصْحَابِنَا بِمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ (٦١٠) أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى وَيَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ - فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ امْرَأَةٍ لَمْ يَحِلَّ لَهُ، فَلَمْ يَدَعْ شَيْئًا يُصِيبُهُ الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ إِلَّا وَقَدْ أَصَابَهُ مِنْهَا إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُجَامِعْهَا. فَقَالَ ((تَوْضَأُ وَضُؤَى أَحْسَنًا ثُمَّ قُمْ فَصَلِّ)) -

قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِذِهِ الْآيَةِ {أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنَ اللَّيْلِ} [هود: ١١٤] [الآيَةَ فَقَالَ: أَبِي لَهُ خَاصَّةٌ أُمَّ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً. قَالَ ((بَلْ بِي لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً)) -] وَبِهَذَا رَوَاهُ زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ وَأَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ (ت) وَفِيهِ إِرسَالٌ - (ج) (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى لَمْ يُدْرِكْ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: چھونے سے وضو کرنے کا بیان

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں { :أَوْ لَأَمْسْتُمُ النِّسَاءَ [المائدة : ۶] یا تم

نے عورتوں کو چھوا ہو۔ ”اسم لمس“ جماع کے علاوہ بھی مستعمل ہے جیسے آپ ﷺ نے معاذ بن مالک سے فرمایا: تو

نے شاید اس کا بوسا لیا ہو یا چھوا ہو اور اسی طرح بیع

ملا مسہ سے ممانعت۔ اس طرح سیدنا ابو ہریرہ (رض کی

روایت کہ ہاتھوں کا زنا لمس ہے۔ سیدہ عائشہ (رض (فرماتی

ہیں کہ کبھی کبھار رسول اللہ ﷺ ہم تمام عورتوں کے پاس ایک

ہی دن میں چکر لگاتے تھے، آپ ہمیں بوس و کنار کرتے

جماع نہیں کرتے تھے۔

حدیث نمبر: 609

:ترجمہ

(، ۶۱۰) (سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے

ایک شخص نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ اس شخص

کے متعلق کیا فرماتے ہیں جو ایسی عورت پر واقع ہوا جو اس

کے لیے حلال نہیں ہے اور اس نے جماع کے سوا ہر کام کیا۔

آپ ﷺ نے فرمایا: اچھی طرح وضو کرے پھر کھڑا ہو اور

:نماز پڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی

{أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ} [هود: ١١٤] [پوچھا گیا: یہ اس کے لیے خاص ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں بلکہ یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on performing Ablution by touching

Allah says (interpretation of the meaning):

{أَوْ لَأَمَسْتُمُ النِّسَاءَ}

{Or the women has (had) contact}

[Surah Maidah 5:6]

The noun 'lamentas (touch)' is also used referring to other than intercourse, as the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said to Maaz ibn Malik: Perhaps you kissed her or touched (lamasta) her and similarly forbade the sale of [Al-Mulamasah](#). Thus the narration of Syeduna Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the zina

of the hands is touching (al-lams). Ayesha (may Allah be pleased with her) says that sometimes the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) used to visit all the women on the same day. He would kiss us but not have intercourse.

Hadith number: 609

Translation:

(609) Syeduna Muadh bin Jabal (may Allah be pleased with him) was sitting near the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him). A man said: O Messenger of Allah! What do you say about a person who fell for a woman who is not permissible for him and he did everything (with her) except intercourse? He said: Perform ablution properly then stand up and offer prayers. The Almighty revealed the following verse:

{ أَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلْفًا مِنَ اللَّيْلِ }

{Establish prayer at the two ends of the day and at the approach of the night}

[Surah Hud 11:114] It was asked: Is this special to him or is it common to all Muslims? He (the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him)) said: No, it is for all Muslims. [Sahih-Without the command of performing ablution- Narrated by Hakim 1/229]

Sunan Kubra Bayhaqi 610

Arabic Text:

وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ : زَيْدُ بْنُ أَبِي هَاشِمٍ (٦١١)
الْعَلَوِيُّ بِالْكُوفَةِ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ دُحَيْمٍ
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَبْسِيُّ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ
- عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ
قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ (ج)
الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشْرِ
قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ وَذَكَرَ لَهُ حَدِيثُ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ
، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ : أَمَا إِنَّ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ كَانَ أَعْلَمَ النَّاسِ بِهَذَا
زَعَمَ أَنَّ حَبِيبًا لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ شَيْئًا .
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا
صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى
: وَذَكَرَ عِنْدَهُ حَدِيثُ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ
تُصَلِّيَ وَإِنْ قَطَرَ عَلَى الْحَصِيرِ ، وَفِي الْقُبْلَةِ . قَالَ يَحْيَى : أَحْك
عَنِّي أَنَّهُمَا شَبَهُ لَأَ شَيْئًا .
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوَدْبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو
دَاوُدَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَخْلَدٍ الطَّلَقَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
مَعْرَأَى أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ أَخْبَرَنَا أَصْحَابُنَا عَنْ عُرْوَةَ
الْمُزَنِيِّ عَنْ عَائِشَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ .
قَالَ أَبُو دَاوُدَ : رَوَى عَنِ الثَّوْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : مَا حَدَّثَنَا (ج)

حَبِيبٌ إِلَّا عَنْ عُرْوَةَ الْمُزْنِيَّ - يَعْنِي لَمْ يُحَدِّثْهُمْ عَنْ عُرْوَةَ بِنِ
الزُّبَيْرِ بَشِيئًا - قَالَ الشَّيْخُ فَعَادَ الْحَدِيثُ إِلَى رِوَايَةِ عُرْوَةَ الْمُزْنِيَّ
وَهُوَ مَجْهُولٌ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: چھونے سے وضو کرنے کا بیان
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں { :أَوْ لَأَمْسْتُمُ النِّسَاءَ [المائدة : 6] یا تم
نے عورتوں کو چھوا ہو۔ ”اسم لمس“ جماع کے علاوہ بھی
مستعمل ہے جیسے آپ ﷺ نے معز بن مالک سے فرمایا : تو
نے شاید اس کا بوسا لیا ہو یا چھوا ہو اور اسی طرح بیع
ملامسہ سے ممانعت۔ اس طرح سیدنا ابوہریرہ (رض کی
روایت کہ ہاتھوں کا زنا لمس ہے۔ سیدہ عائشہ (رض (فرماتی
ہیں کہ کبھی کبھار رسول اللہ ﷺ ہم تمام عورتوں کے پاس ایک
ہی دن میں چکر لگاتے تھے، آپ ہمیں بوس و کنار کرتے
جماع نہیں کرتے تھے۔
حدیث نمبر: 610

:ترجمہ

(۶۱۱) (سیدہ عائشہ رض سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے اپنی ایک

بیوی کو بوسہ دیا، پھر نماز کے لیے نکلے اور وضو نہیں کیا۔
(ب) سفیان ثوری اس روایت کو زیادہ جانتے ہیں، ان کا
دعویٰ ہے کہ حبیب نے عروہ سے سماع نہیں کیا۔
(ج) سیدہ عائشہؓ سے روایت ہے کہ وہ عورت نماز پڑھے گی
اگرچہ خون کے قطرے چٹائی پر گر رہے ہوں۔
(د) (امام ابوداؤد) رح (فرماتے ہیں کہ سفیان ثوری فرماتے ہیں
حبیب نے ہمیں صرف عروہ مزنی سے روایت کیا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on performing Ablution by touching

Allah says (interpretation of the meaning):

{أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}

{Or the women has (had) contact}

[Surah Maidah 5:6]

The noun 'lamentas (touch)' is also used referring to other than intercourse, as the Prophet (peace and blessings of Allah be

upon him) said to Maaz ibn Malik: Perhaps you kissed her or touched (lamasta) her and similarly forbade the sale of [Al-Mulamasah](#). Thus the narration of Syeduna Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the zina of the hands is touching (al-lams). Ayesha (may Allah be pleased with her) says that sometimes the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) used to visit all the women on the same day. He would kiss us but not have intercourse.

Hadith number: 610

Translation:

(610) It is narrated from Ayesha (may Allah be pleased with her) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) kissed one of his wives, then went out for prayers and did not perform ablution.

(B) Sufyan Thawri (may Allah have mercy on him) is well aware of this tradition, he claims that Habib did not listen Arwa.

(C) It is narrated from Ayesha that she will offer prayers even though drops of blood are falling on the mat.

(D) Imam Abu Dawud (RA) says that Sufyan al-Thawri says: Habib has narrated us only from Urwat Mazni.

[Sahih. Narrated by Nasai 170 and Abu Dawud 178 and Tirmidhi 86 and Ibn Majah 502 and Ahmad 6/207, 210]

Sunan Kubra Bayhaqi 611

Arabic Text:

وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو (٦١٢)
بَكْرُ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي رَوْقٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ - كَانَ يَقِيلُ بَعْدَ الْوُضُوءِ ثُمَّ لَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ
وَقَالَتْ: ثُمَّ يُصَلِّي. فَهَذَا مُرْسَلٌ.
إِبْرَاهِيمُ التَّمِيمِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ (ج)
وَغَيْرُهُ.

وَأَبُو رَوْقٍ لَيْسَ بِقَوِيٍّ ضَعْفُهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ.
وَرَوَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ أَبِي رَوْقٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ حَفْصَةَ. (ت)
(ج) (وَإِبْرَاهِيمُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ وَلَا مِنْ حَفْصَةَ قَالَ الدَّارِقُطْنِيُّ
وَغَيْرُهُ.

وَقَدْ رَوَيْنَا سَائِرَ مَا رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ وَبَيْنَا ضَعْفَهَا فِي
الْخِلَافِيَّاتِ.

وَالْحَدِيثُ الصَّحِيحُ عَنْ عَائِشَةَ فِي قُبْلَةِ الصَّائِمِ فَحَمَلَهُ (ق)
الضُّعْفَاءُ مِنَ الرَّوَاةِ عَلَى تَرْكِ الْوُضُوءِ مِنْهَا وَلَوْ صَحَّ
إِسْنَادُهُ لَقُلْنَا بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: چھونے سے وضو کرنے کا بیان

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں { :أَوْ لَأَمْسُتُمُ النِّسَاءَ [المائدة : ۶] یا تم

نے عورتوں کو چھوا ہو۔ ”اسم لمس“ جماع کے علاوہ بھی مستعمل ہے جیسے آپ ﷺ نے معاذ بن مالک سے فرمایا: تو

نے شاید اس کا بوسا لیا ہو یا چھوا ہو اور اسی طرح بیع

ملا مسہ سے ممانعت۔ اس طرح سیدنا ابو ہریرہ (رض) کی

روایت کہ ہاتھوں کا زنا لمس ہے۔ سیدہ عائشہ (رض) فرماتی

ہیں کہ کبھی کبھار رسول اللہ ﷺ ہم تمام عورتوں کے پاس ایک

ہی دن میں چکر لگاتے تھے، آپ ہمیں بوس و کنار کرتے

جماع نہیں کرتے تھے۔

حدیث نمبر: 611

:ترجمہ

(612) سیدہ عائشہ^{رض} سے روایت ہے کہ نبی ﷺ وضو کے بعد

بوسہ لے لیا کرتے تھے۔ پھر دوبارہ وضو نہیں کرتے تھے

اور سیدہ عائشہ^{رض} فرماتی ہیں: پھر نماز پڑھتے تھے (یہ روایت

مرسل ہے)۔

(ب) یحییٰ بن معین نے ابو روق کو ضعیف قرار دیا ہے۔

(ج) امام دارقطنی (رح) فرماتے ہیں کہ ابراہیم کا سیدہ

عائشہ ^{رض} اور حفصہ ^{رض} سے سماع ثابت نہیں ہے۔
(سیدہ عائشہ ^{رض} سے روزہ کی حالت میں بوسہ لینے والی
روایت صحیح ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو ترک وضو پر
محمول کیا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on performing Ablution by touching

Allah says (interpretation of the meaning):

{أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}

{Or the women has (had) contact}

[Surah Maidah 5:6]

The noun 'lamas (touch)' is also used referring to other than intercourse, as the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said to Maaz ibn Malik: Perhaps you kissed her or touched (lamasta) her and similarly forbade the sale of [Al-Mulamasah](#). Thus the narration of Syeduna Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the zina

of the hands is touching (al-lams). Ayesha (may Allah be pleased with her) says that sometimes the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) used to visit all the women on the same day. He would kiss us but not have intercourse.

Hadith number: 611

Translation:

(611) It is narrated from Ayesha (may Allah be pleased with her) that the Prophet used to kiss her after performing ablution. Then he would not perform ablution again and Ayesha (may Allah be pleased with her) says: Then he used to offer prayers (this narration is Mursal).

(B) Yahya ibn Ma'in has declared Abu Ruq as weak.

(C) Imam Daraqutni (may Allah have mercy on him) says that Ibrahim's hearing from Syeda Ayesha and Hafsa (may Allah be pleased with them) is not proven.

(D) The tradition of kissing Ayesha while fasting is sahih. Some people have attributed it to leaving ablution.

[Hasan Li Ghayrihi (Fair due to external evidence). Narrated by Al-Daraqutni 1/141]

Sunan Kubra Bayhaqi 612

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ (٤١٣)

الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِلْحَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا اللَّيْثُ
وَحَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي عَثْمَانَ الزَّاهِدُ اِمْلَائِيَّ (ح)
وَأَبُو صَالِحٍ بْنُ أَبِي طَائِرٍ الْعَنْبَرِيُّ قَالَا أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ
يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَةَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ
بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ
عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرْقِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ: بَيْنَا نَحْنُ فِي
الْمَسْجِدِ جُلُوسٌ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَحْمِلُ أَمَامَهُ بِنْتَ
أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ وَأُمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - وَبِئْسَ
صَبِيَّةٌ يَحْمِلُهَا عَلَى عَاتِقِهِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - وَبِئْسَ عَلَى عَاتِقِهِ
يَضَعُهَا إِذَا رَكَعَ ، وَيُعِيدُهَا إِذَا قَامَ حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ ، يَفْعَلُ
ذَلِكَ بِهَا. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ قُتَيْبَةَ كِلَابُهَا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: چھوٹی بچیوں اور محرم عورتوں کو چھونے کا حکم

حدیث نمبر: 612

:ترجمہ

(۶۱۳) عمرو بن سلیم زرقی نے ابو قتادہ کو کہتے ہوئے سنا کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے پاس رسول اللہ ﷺ تشریف لائے۔ آپ ﷺ نے امامہ بنت ابی العاص بن ربیع کو اٹھایا ہوا تھا۔ ان کی والدہ نبی ﷺ کی بیٹی زینبؓ تھی اور وہ کم سن تھیں۔ آپ ﷺ نے انہیں اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا اور آپ نماز پڑھا رہے تھے۔ جب آپ رکوع کرتے تو اس کو زمین پر لٹا دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو اٹھالیتے، اسی طرح آپ ﷺ نے نماز پوری کی۔ آپ ﷺ اس بچی کے ساتھ ایسے ہی کرتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on touching pre-pubescent girls and mahram women

Hadith number: 612

Translation:

(612) Amr bin Sulaim Zuraqi heard Abu Qatada saying that we were sitting in the mosque, the Messenger of Allah (peace and

blessings of Allah be upon him) came to us. He was carrying Umamah bint Abi Al-Aas bin Rabi. Her mother was Zainab, the daughter of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) and she was deaf. He was carrying her on his shoulders and he was praying. When he bowed, he would lay her on the ground and when he stood up, he would lift her. This is how he completed the prayer. This is what he used to do with this girl.

[Sahih. Narrated by Bukhari 516, 5996 and Muslim 543 and Nasai 712, 828, 1206 and Abu Dawud 917, 918, 919, 920 and Malik 9/84 and Ahmad 5/295, 296, 303, 304, 310, 311 and Darimi 1399, 1400]

Sunan Kubra Bayhaqi 613

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو عَثْمَانَ : سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٦١٤)
بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِانَ وَأَبُو صَادِقٍ : مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْفَوَارِسِ
الْعَطَّارُ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ
بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ
عَنْ أَبِي بُرَيْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : فَقَدْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - ذَاتَ لَيْلَةٍ
فَالْتَمَسْتُهُ بِيَدِي ، فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى قَدَمَيْهِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ
سَاجِدٌ وَهُوَ يَقُولُ ((:اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ ، وَأَعُوذُ
بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أَحْصِي ثَنَائِي
عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ)) .-

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَبِي
أُسَامَةَ دُونَ قَوْلِهِ : وَهُوَ سَاجِدٌ .) ت (وَرَوَاهُ وَهْبُ

وَمُعْتَمِرٌ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ دُونَ ذِكْرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي
إِسْنَادِهِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: جس چیز کو چھوا گیا ہے
حدیث نمبر: 613

:ترجمہ

(614) (سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک رات میں نے نبی ﷺ کو گم پایا، میں نے آپ کو ہاتھ سے تلاش کیا تو میرے ہاتھ آپ ﷺ کے قدموں پر لگے تو وہ زمین پر کھڑے تھے اور آپ ﷺ سجدے کی حالت میں تھے اور آپ یہ دعا پڑھ رہے تھے):
اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ
سَخَطِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أَحْصِي ثَنَائِي عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا
أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ () -

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi
Book: Statement of Purity

Chapter: What has been touched

Hadith number: 613

Translation:

(613) It is narrated on the authority of Ayesha (may Allah be pleased with her) that one night I couldn't find the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him). I reached out for him with my hand and my hand fell on his feet, and they were held upright on the ground and he was in the state of prostration and he was reciting this dua

dua (supplication):

اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أَحْصِي ثَنَائِي عَلَيْكَ {أَنْتَ كَمَا أَتَنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

{Allahuma a'udhu bimu'afatika min 'uqubatika, wa a'udhu biridaka min sakhatika, wa a'udhu bika minka, la uhsi thana'an 'alaika, Anta kama athnaita 'ala nafsika}

{O Allah, I seek refuge in Your forgiveness from your punishment, I seek refuge in Your

pleasure from Your wrath, and I seek refuge in You from You, I cannot enumerate Your praise, You are as You have praised Yourself} [Sahih. Narrated by Muslim 486 and Nasai 169, 1101, 1131, 1748, 5536 and Abu Dawud 878, 1422 and Tirmidhi 3566 and Ibn Majah 1179, 3841 and Malik 15/31 and Ahmad 6/58]

[SHARH] Explanation:

Ibn al-Qayyim (may Allah have mercy on him) said: “*wa a‘oodhu bika minka* (I seek refuge in You from You)” refers to seeking refuge in the divine attribute of pleasure from the divine attribute of wrath, and in Allah’s protection (against falling into sin) from His punishment; thus it is seeking refuge in Him from Him on two counts. It is as if, when the worshipper seeks refuge in Him from Him, he is referring to what he has mentioned in the two previous sentences, for seeking refuge in Him from Him refers to the words that came before it. Moreover, this points to a great

meaning, which is attaining perfect Tawheed, and acknowledging that what the individual is seeking refuge in and fleeing from is in fact the action, will and decree of Allah, for it is He alone Who has the control and decree; if He wills harm to befall someone, no one could protect him from it except Him, for He is the One Who willed something that could harm him, and He is the One Who willed the warding off of that harm from him. Thus Allah becomes the one with whom and from whom refuge is sought on the count of the two wills. “If Allah afflicts you with harm, none can remove it but He” [al-An‘aam 6:17]. Thus it is He Who afflicts people with calamity and it is He Who relieves them of it; there is no god worthy of worship except Him, so there is no fleeing from Him except to Him, and there is no seeking refuge from Him except in Him, for there is no Lord besides Him and no one who controls people’s affairs except Him; He is the One

Who controls man and directs him however
He wills.

End quote from *Tareeq al-Hijratayn wa Baab
as-Sa'aadatayn* (1/431).

Sunan Kubra Bayhaqi 614

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِيُّ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ (٦١٥)
إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ

قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ
بِنْدَارِ الزَّابِدِ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَجِيرٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو
بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ: بِسْمَا عَدَلْتُمُونَا بِالْكَلبِ وَالْحِمَارِ لَقَدْ رَأَيْتُنِي
، وَرَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يُصَلِّي وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ
فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلِي فَقَبَضْتُهُمَا -
لَفْظُ حَدِيثِ عَمْرُو

وَفِي حَدِيثِ الْمُقَدَّمِيِّ: لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يُصَلِّي وَأَنَا
مُعْتَرِضَةٌ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلِي - رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ عَنْ عَمْرُو بْنِ عَلِيٍّ -
(ت) وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ: حَتَّى إِذَا أَرَادَ
أَنْ يُوتِرَ مَسَّنِي بِرِجْلِهِ -
وَفِي رِوَايَةِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ: فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي
فَقَبَضْتُ رِجْلِي -
وَفِي رِوَايَةِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ: فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي
فَأُوتِرْتُ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان

باب: آدمی کا اپنی بیوی کو بغیر شہوت کے چوکا مارنا یا حائل

چیز کے پیچھے چوکا مارنا

حدیث نمبر: 614

ترجمہ:

(الف) (سیدہ عائشہؓ فرماتی ہیں: برا ہے جو تم نے ہمیں کتے اور گدھے کے ساتھ ملا دیا ہے، میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور میں آپ کے اور قبلہ کی درمیان لیٹی ہوتی تھی، جب آپ ﷺ سجدے کا ارادہ کرتے تو میرے پاؤں کو چوکا مارتے، میں انہیں سمیٹ لیتی۔

(ب) (مقدمی کی حدیث میں اس طرح ہے: میں نے رسول اللہ ﷺ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور میں آپ ﷺ کے سامنے لیٹی ہوئی ہوتی تھی جب آپ تشہد کا ارادہ کرتے میرے پاؤں کو چوکا مارتے اور اپنے پاؤں سمیٹ لیتی۔

(ج) (عبد الرحمن بن قاسم اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں کہ جب آپ ﷺ وتر پڑھنے کا ارادہ کرتے تو میرے پاؤں کو چھوتے۔

(د) (سیدہ عائشہؓ سے روایت ہے کہ جب آپ ﷺ سجدہ کرتے تو مجھے چوکا مارتے اور میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی۔

۵ (سیدہ عائشہؓ سے روایت ہے کہ جب آپ ﷺ وتر پڑھنے کا ارادہ کرتے تو آپ ﷺ مجھے بیدار کر دیتے اور میں بھی وتر پڑھتی۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Chapter: A man striking his wife without lust or striking her behind an obstacle

Hadith number: 614

Translation:

(614) (a) **Ayesha (may Allah be pleased with her) says: It is bad that you have likened us with dogs and donkeys.** I saw that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) was praying and I was lying between him and the qiblah, when he intended to prostrate, he would strike my feet, I would roll them up.

(B) In the hadith of Muqaddami it is as follows: I saw the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) praying

and I used to lie down in front of him when he intended to perform tashahhud, he would strike my feet and I would roll up my legs.

(C) Abd al-Rahman ibn Qasim narrates from his father that when he intended to recite the Witr, he would touch my feet.

(D) It is narrated from Syeda Ayesha (may Allah be pleased with her) that when the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) prostrated, he would strike me and I would roll up my legs.

(E) It is narrated from Ayesha (may Allah be pleased with her) that when the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) intended to recite witr, he would wake me up and I would also recite witr.

[Sahih. Narrated by Bukhari 382, 513, 514 and Muslim 512 and Nasai 168 and Abu Dawud 713, 714 and Malik 7/2 and Ahmad 6/148, 225, 255]

[Sharh] Aa'ishah (may Allah be pleased with

her) did not mean that at all when she heard this hadeeth and said: The things which annul prayer were mentioned before me (and those were): a dog, a donkey and a woman. I said, "You have compared us (women) to donkeys and dogs..." Narrated by Bukhari 514. Aishah (may Allah be pleased with her) did not agree that the passage of a woman (in front of one who is praying) disrupts the humble focus of the worshippers towards Allah but many of the Sahabah disagreed with her on that.

Sunan Kubra Bayhaqi 615

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكْرِيَّا : يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيَى (٦١٦)
الْمُزَكِّي حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ
سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ
بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ
يَقُولُ : دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَتَذَاكَرْنَا مَا يَكُونُ مِنْهُ
الْوَضُوءُ ، فَقَالَ مَرْوَانُ : وَمِنْ مَسِّ الذَّكَرِ الْوَضُوءُ . فَقَالَ
عُرْوَةُ : مَا عَلِمْتُ ذَلِكَ . فَقَالَ مَرْوَانُ أَخْبَرْتَنِي بِسُرَّةِ بِنْتِ
صَفْوَانَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - يَقُولُ ((إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ
ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ)) .

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: شرمگاہ کو چھونے سے وضو کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 615

:ترجمہ

(616) (سیدنا عروہ بن زبیرؓ فرماتے ہیں کہ میں مروان بن حکم کے پاس گیا، ہم نے پوچھا: کس چیز سے وضو واجب ہوتا ہے؟ مروان نے کہا: شرمگاہ کو چھونے سے۔ عروہ کہتے کہتے ہیں: میں یہ نہیں جاننا۔ مروان کہتے ہیں: مجھے بسرہ بنت صفوان نے خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ جب کوئی شرمگاہ کو چھوئے تو وضو کرے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on performing ablution after touching the private parts

Hadith number: 615

Translation:

(615) Syeduna Urwah bin Zubair (may Allah be pleased with him) says that I went to Marwan bin Hukam. We asked: What makes ablution obligatory? Marwan said: By touching the private parts. Arwa says: I do not know this. Marwan says: I was informed

by Basra bint Safwan that she heard from the Messenger of Allah (may Allah be pleased with him) that when someone touches the private parts, he should perform ablution.

[Sahih. Narrated by Nasai 163 and Abu Dawud 181 and Tirmidhi 82 and Ibn Majah 479, 480 and Malik 2/60 and Ahmad 6/406, 407 and Darimi 751, 752]

Sunan Kubra Bayhaqi 616

Arabic Text:

وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ مَالِكٍ وَزَادَ : فَلَيَتَوَضَّأُ وَضُوءَهُ (٦١٧) لِلصَّلَاةِ.

أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدُ الْمِهْرَجَانِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ
الْمُرَكِّي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا
مَالِكٌ فَذَكَرَهُ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: شرمگاہ کو چھونے سے وضو کرنے کا بیان
حدیث نمبر: 616

ترجمہ:
(٦١٧) مالک نے اسی طرح نقل کیا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on performing ablution

after touching the private parts

Hadith number: 616

Translation;

(616) Malik has narrated (the previous hadith) the same way.

[Sahih. Narrated by Ibn Hibban 1116]

Sunan Kubra Bayhaqi 617

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَغَيْرُهُمَا (٦١٨) قَالُوا أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ قَالَ قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَكَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ بِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ قَالَ : وَقَدْ كَانَتْ صَحِبَتِ النَّبِيَّ - ﷺ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ ((إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّيَنَّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ)) (-) ت (وَبَهْكَذَا رَوَاهُ ، يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ بِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بُسْرَةَ وَذَكَرَ سَمَاعٌ بِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: شرمگاہ کو چھونے سے وضو کرنے کا بیان
حدیث نمبر: 617

ترجمہ:

(٦١٨) (بسرہ بنت صفوان سے روایت ہے کہ وہ نبی ﷺ کے ساتھ تھیں، آپ ﷺ نے فرمایا " :جب کوئی اپنی شرمگاہ کو چھوئے تو وہ نماز نہ پڑھے جب تک وضو نہ کرلے۔"

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on performing ablution after touching the private parts

Hadith number: 617

Translation:

(617) It is narrated from Basra bint Safwan (may Allah be pleased with her) that she was with the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him). He said: "When a person touches his private parts, he should not offer prayers until he has performed ablution."

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence). Narrated by Al-Daraqutni 1/46]

Sunan Kubra BAayhaqi 618

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ : أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي أَخْبَرَنَا أَبُو (٦١٩)
سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى : عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّبَيْرِيِّ
أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ
الزُّبَيْرِ يَقُولُ : ذَكَرَ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ فِي إِمَارَتِهِ عَلَى
، الْمَدِينَةِ : أَنَّهُ يُتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذُّكْرِ إِذَا أَفْضَى إِلَيْهِ الرَّجُلُ بِيَدِهِ
فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ وَقُلْتُ : لَا وَضُوءَ عَلَى مَنْ مَسَّهُ - فَقَالَ مَرْوَانُ
أَخْبَرْتَنِي بِسُرَّةِ بِنْتِ صَفْوَانَ أَنَّهَُا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَذْكُرُ
مَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - : وَيُتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ
الذُّكْرِ - فَقَالَ عُرْوَةُ : فَلَمْ أَزَلْ أَمَارِي مَرْوَانَ حَتَّى دَعَا رَجُلًا
، مِنْ حَرَسِهِ فَأَرْسَلَهُ إِلَى بُسْرَةَ يَسْأَلُهَا عَمَّا حَدَّثْتَ مِنْ ذَلِكَ
فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بُسْرَةَ بِمِثْلِ الَّذِي حَدَّثْتَنِي عَنْهَا مَرْوَانَ -
وَرَوَاهُ بِشَّامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ مَرْوَانَ عَنْ بُسْرَةَ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: شرمگاہ کو چھونے سے وضو کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 618

:ترجمہ

(619) مروان بن حکم نے اپنے دور حکومت میں کہا کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو کیا جائے جب کسی کا ہاتھ لگ جائے۔ میں نے اس کا انکار کیا اور کہا: اس پر وضو نہیں ہے جس نے اس کو چھوا۔ مروان کہتے ہیں: مجھ کو بسرہ بنت صفوان نے خبر دی۔ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ کے پاس تذکرہ کیا گیا کہ کس سے وضو کیا جائے گا؟ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: شرمگاہ کو چھونے سے وضو کیا جائے گا۔ عروہ کہتے ہیں: میں ہمیشہ مروان سے جھگڑا کرتا رہا جتنی دیر مروان نے اپنے ایک سپاہی کو بسرہ کی طرف بھیجا تاکہ ان سے پوچھے کہ وہ اس بارے میں کیا فرماتی ہیں۔ بسرہ نے اس کی طرف وہی پیغام بھیجا جو مجھ سے مروان بیان کرتا تھا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on performing ablution after touching the private parts

Hadith number: 618

Translation:

(618) Marwan bin Hukam in his reign said that ablution should be done by touching the private parts when someone touches it with his hand. I denied it and said: There is no ablution on the one who touched it. Busrah bint Safwan told me that she heard the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) mention the things for which ablution should be performed, and the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: Ablution should be performed after touching the private parts. Urwa says: I always quarreled with Marwan until Marwan sent one of his soldiers to

Busra to ask her what she said about it. Busra sent him the same message that Marwan used to tell me.

[Sahih. Narrated by Nasai 164, 445-448 and Abu Dawud 181 and Tirmidhi 82 and Ibn Majah 479 and Malik 2/60 and Ahmad 6/406, 407 and Darimi 751, 752]

Sunan Kubra Bayhaqi 619

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو طَاهِرٍ الْإِمَامُ وَأَبُو زَكْرِيَّا (٦٢٠)
بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا
أَنْسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ بِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَرْوَانَ عَنْ
-بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ وَكَانَتْ صَحْبَتِ النَّبِيِّ - ﷺ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ -
قَالَ ((إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّيَنَّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ)) -
وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ بِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ (ت)
بُسْرَةَ وَذَكَرَ سَمَاعٌ بِشَامٍ مِنْ أَبِيهِ - وَأَمَّا سَمَاعٌ أَبِيهِ مِنْ بُسْرَةَ
وَمُشَافَهَتُهَا إِيَّاهُ بِالْحَدِيثِ بَعْدَ سَمَاعِهِ مِنْ مَرْوَانَ فَفِيمَا -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاکی کا بیان

باب: شرمگاہ کو چھونے سے وضو کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 619

ترجمہ:

(٦٢٠) (بسرہ بنت صفوان سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے

فرمایا " :جب کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو چھوئے تو وہ نماز نہ پڑھے جب تک وضو نہ کرلے۔"

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on performing ablution after touching the private parts

Hadith number: 619

Translation:

(619) It is narrated from Busra bint Safwan (may Allah be pleased with her) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "When a person touches his private parts, he should not offer prayers until he has performed ablution."

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence). Narrated by Al-Daraqutni 1/46]

Sunan Kubra Bayhaqi 620

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ : حَسَّانُ بْنُ (٦٢١)
مُحَمَّدِ الْفَقِيهِ فِي آخِرِينَ قَالُوا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُرَيْمَةَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ
عُثْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ
بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ
فَلْيَتَوَضَّأْ)) (. قَالَ عُرْوَةُ : فَسَأَلْتُ بُسْرَةَ فَصَدَّقْتُهُ .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: شرمگاہ کو چھونے سے وضو کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 620

ترجمہ:

(۶۲۱) بسرہ بنت صفوانؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص اپنی شرمگاہ کو چھوئے تو وہ وضو کرے۔ عروہ کہتے ہیں: میں نے بسرہؓ سے سوال کیا تو انہوں نے اس کی تصدیق کی۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on performing ablution after touching the private parts

Hadith number: 620

Translation:

(620) Busra bint Safwan (may Allah be pleased with her) says that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon

him) said: Whoever touches his private parts, he should perform ablution. Urwa says: I asked Busra and she confirmed it.

[Sahih. Narrated by Nasai 164, 445-448 and Abu Dawud 181 and Tirmidhi 82 and Ibn Majah 479 and Malik 2/60 and Ahmad 6/406, 407 and Darimi 751, 752]

Sunan Kubra Bayhaqi 621

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ جَعْفَرُ (٦٢٢)
 بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرِ الْخَوَّاصِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
 سُلَيْمَانَ الْحَضْرَمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ حَدَّثَنَا
 عَنبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ بِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
 مَرْوَانَ عَنْ بُسْرَةَ أَنَّهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((مَنْ مَسَّ
 فَرْجَهُ فَلَا يُصَلِّي حَتَّى يَتَوَضَّأَ)) (-).
 قَالَ : فَاتَّيْتُ بُسْرَةَ فَحَدَّثْتَنِي كَمَا حَدَّثْتَنِي مَرْوَانُ عَنْهَا أَنَّهَا سَمِعَتْ
 النَّبِيَّ ﷺ - يَقُولُ ذَلِكَ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: شرمگاہ کو چھونے سے وضو کرنے کا بیان
 حدیث نمبر: 621

:ترجمہ

(: 622) (سیدہ بسرہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
 جو شخص اپنی شرمگاہ کو چھوئے تو وہ وضو کر کے نماز "
 پڑھے۔ راوی کہتا ہے: میں بسرہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا۔ آپ نے مجھے
 اس طرح حدیث بیان کی جس طرح مروان نے بیان کی کہ اس
 نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on performing ablution after touching the private parts

Hadith number: 621

Translation:

(621) It is narrated from Syeda Busra (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "Whoever touches his private parts, he should perform ablution and offer prayers."

The narrator says: I came to Busra. She narrated the hadith to me in the same way as Marwan narrated the saying of the Messenger of Allah.

[Sahih. Narrated by Hakim 1/232]

Sunan Kubra Bayhaqi 622

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو زَكْرِيَّا : يَحْيَى (٦٢٣)
بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنِي
إِسْحَاقُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ مَرْوَانَ حَدَّثَهُ عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ
وَكَانَتْ قَدْ صَحِبَتِ النَّبِيَّ - ﷺ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ ((إِذَا مَسَّ
أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّيَنَّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ)) . قَالَ : فَأَنْكَرَ ذَلِكَ
عُرْوَةُ فَسَأَلَ بُسْرَةَ فَصَدَّقَتْهُ بِمَا قَالَ .

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: شرمگاہ کو چھونے سے وضو کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 622

ترجمہ:

(۶۲۳) بسرہ بنت صفوان^{رض} سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا " :جب کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو چھوئے تو وہ نماز نہ پڑھے جب تک وضو نہ کرلے۔ راوی کہتا ہے کہ عروہ نے اس کا انکار کیا، پھر سیدہ بسرہ^{رض} سے پوچھا تو انہوں نے اس کی تصدیق کی۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on performing ablution after touching the private parts

Hadith number: 622

Translation:

(622) It is narrated from Busra bint Safwan (may Allah be pleased with her) that the Prophet (peace and blessings of Allah be

upon him) said: “When a person touches his private parts, he should not offer prayers until he has performed ablution. When asked, he confirmed it. The narrator says that Urwah denied it, then Syeda Busra (may Allah be pleased with her) was asked and she confirmed it.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence)]

Sunan Kubra Bayhaqi 623

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٦٢٤)
السُّلَمِيُّ قَالَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا
شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ.
قَالَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ تَابَعَهُ رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ وَالْمُنْذِرُ (ت)
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَعَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ وَحَمِيدُ بْنُ الْأَسْوَدِ فَرَوَوْهُ
عَنْ بِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَرْوَانَ عَنْ بُسْرَةَ. قَالَ عُرْوَةُ : فَسَأَلْتُ
بُسْرَةَ بَعْدَ ذَلِكَ فَصَدَّقْتُهُ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى
كتاب: پاکی کا بیان
باب: شرمگاہ کو چھونے سے وضو کرنے کا بیان
حدیث نمبر: 623

:ترجمہ

(۶۲۴) (سیدہ بسرہؓ سے روایت ہے کہ عروۃ کہتے ہیں: میں نے اس کے بعد بسرہؓ سے سوال کیا تو انہوں نے اس کی تصدیق کی۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on performing ablution after touching the private parts

Hadith number: 623

Translation:

(623) It is narrated from Syeda Busra (may Allah be pleased with her) that Urwa says: I asked Busra after that and she confirmed it. [Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence)]

Sunan Kubra Bayhaqi 624

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيُّ (٦٢٥)
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ
وَذَكَرَ حَدِيثَ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ إِسْحَاقَ
فِيهِ سَمَاعُ عُرْوَةَ مِنْ بُسْرَةَ فَقَالَ عَلِيُّ: بَدَأَ مِمَّا يَدُلُّكَ أَنَّ يَحْيَى
بْنَ سَعِيدٍ قَدْ حَفِظَ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ إِسْحَاقَ
أَخْبَرْتَنِي بُسْرَةَ.

قَالَ عَلِيُّ فَحَدَّثْتَنِي أَبُو الْأَسْوَدِ: حُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ
عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَرْوَانَ عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ

وَقَدْ كَانَتْ صَحِبتِ النَّبِيِّ - ﷺ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ ((إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّيَنَّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ)) (- فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عُرْوَةَ وَسَأَلَ بُسْرَةَ فَصَدَّقَتْهُ -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خَزِيمَةَ قَالَ: كَانَ الشَّافِعِيُّ يُوجِبُ الوُضُوءَ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ اتِّبَاعًا لِخَبْرِ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ لَا قِيَاسًا. وَيَقُولُ الشَّافِعِيُّ أَقُولُ لِأَنَّ عُرْوَةَ قَدْ سَمِعَ حَدِيثَ بُسْرَةَ مِنْهَا. قَالَ الشَّيْخُ: وَبُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ أَسَدٍ مِنْ (ج) الْمُبَايَعَاتِ ، وَوَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلٍ عَمُّهَا وَبِئْسَ زَوْجَةٌ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ ، قَالَهُ مُصْعَبُ الزُّبَيْرِيُّ ، وَبِئْسَ جَدَّةٌ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ أُمَّ أُمِّهِ ، قَالَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: شرمگاہ کو چھونے سے وضو کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 624

ترجمہ:

(۶۲۵) (الف) ہشام بن عروہ اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں

کہ مجھ کو بسرہ^{رض} نے خبر دی۔

(:ب (بسرۃ بنت صفوان^{رض} سے روایت ہے نبی ﷺ نے فرمایا
جب کوئی اپنی شرمگاہ کو چھوئے تو وہ نماز نہ پڑھے یہاں "
تک کہ وضو کر لے۔ عروہ نے اس کا انکار کیا پھر جب بسرہ
سے سوال کیا تو انہوں نے تصدیق کی۔

(ب (ابن خزیمہ کہتے ہیں کہ امام شافعی (رح (سیدہ بسرہ
بنت صفوان کی حدیث کی وجہ سے شرمگاہ کو چھونے سے
وضو واجب قرار دیتے تھے۔ امام شافعی (رح (فرماتے ہیں کہ
عروہ نے یہ حدیث بسرہ^{رض} سے سنی ہے۔

(ج (شیخ فرماتے ہیں کہ بسرہ بنت صفوان بن نوفل بن اسد
مباہعات میں سے ہیں اور ورقہ بن نوفل ان کے چچا تھے۔ یہ
معاویہ بن مغیرہ بن ابی العاص کی بیوی ہیں۔ یہ مصعب زبیری
کا قول ہے اور مالک بن انس کا کہنا ہے کہ یہ عبد الملک بن
مروان کی نانی ہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on performing ablution
after touching the private parts

Hadith number: 624

Translation:

(624) (a) Hisham ibn Arwa narrates from his father that Busra informed me.

(B) It is narrated from Busra bint Safwan (may Allah be pleased with her) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "When a person touches his private parts, he should not offer prayers until he has performed ablution. When asked, he confirmed it. The narrator says that Urwah denied it, then Syeda Busra (may Allah be pleased with her) was asked and she confirmed it.

(C) Ibn Khuzaymah says that Imam Shafi'i (may Allah be pleased with him) was of the view that ablution becomes obligatory by touching the private parts due to the hadith of Syeda Busra bint Safwan (may Allah be pleased with her). Imam Shafi'i (may Allah be pleased with him) says that Urwa has heard this hadith from Busra.

(D) The Shaykh says that Basra bint Safwan

bin Nawfal bin Asad is one of the Muba'is and Warqa bin Nawfal was her uncle. She is the wife of Mu'awiyah bin Mughira bin Abi Al-Aas. This is the view of Musab Zubair and Malik bin Anas (may Allah be pleased with him) says that she is the grandmother of Abdul Mulk bin Marwan.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence)]

Sunan Kubra Bayhaqi 625

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ (٦٢٦)
الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ السَّلْمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْعَلَاءِيِّ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ
مَكْحُولٍ عَنْ عَنبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ
النَّبِيِّ ﷺ - قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - يَقُولُ ((: مَنْ مَسَّ
فَرْجَهُ فَلَيْتَوْضَأُ)) -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ
: بْنُ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُسَهْرٍ
عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ مُسَهْرٍ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ -
وَبَلَغَنِي عَنْ أَبِي عَيْسَى التِّرْمِذِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا زُرْعَةَ عَنْ
حَدِيثِ أُمِّ حَبِيبَةَ فَاسْتَحْسَنَهُ وَرَأَيْتُهُ كَانَ يَعُدُّهُ مَحْفُوظًا -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: شرمگاہ کو چھونے سے وضو کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 625

ترجمہ:

(۶۲۶) ام المؤمنین حبیبہؓ سے روایت ہے کہ میں نے نبی ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: جو شخص اپنی شرمگاہ کو چھوئے وہ وضو کرے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on performing ablution after touching the private parts

Hadith number: 625

Translation:

(625) It is narrated from Umm Al-Muminin Umm Habiba (may Allah be pleased with her) that I heard the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) saying: Whoever touches his private parts should perform

ablution.

[Hasan (Fair). Narrated by Ibn Majah 481]

Sunan Kubra Bayhaqi 626

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ يُوسُفَ (٤٢٧)
السُّوسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرَوِيُّ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ النَّوْفَلِيُّ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي
بُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَعَلَيْهِ
الْوَضُوءُ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاكى كا بيان

باب: شرمگاه كو چھونے سے وضو کرنے كا بيان

حدیث نمبر: 626

ترجمہ:

(626) سیدنا ابوہریرہ ^{رض} سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص اپنی شرمگاه كو چھوئے اس پر وضو ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on performing ablution after touching the private parts

Hadith number: 626

Translation:

(626) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace and

blessings of Allah be upon him) said: Whoever touches his private parts, ablution is (obligatory) on him.
[Sahih. Narrated by Ibn Adiy 2/413]

Sunan Kubra Bayhaqi 627

Arabic Text:

: أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ الْعَدْلُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ (٦٢٨)
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمُزَكِّي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا
ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي
وَقَّاصٍ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ أُمْسِكُ الْمُصْحَفَ
: عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فَاحْتَكَّتْ فَقَالَ سَعْدٌ

لَعَلَّكَ مَسِسْتَ ذَكَرَكَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: قُمْ فَتَوَضَّأْ. فَقُمْتُ
فَتَوَضَّأْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: شرمگاہ کو چھونے سے وضو کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 627

ترجمہ:

(۶۲۸) (مصعب بن سعد سے روایت ہے کہ میں سیدنا سعد بن
ابی وقاص کو قرآن پکڑاتا تھا۔ میں نے خارش کی تو سیدنا
سعد^{رض} نے کہا: شاید تو نے اپنی شرمگاہ کو چھوا ہے، میں نے
کہا: جی ہاں! انہوں نے کہا: کھڑا ہو وضو کر، میں کھڑا ہوا
میں نے وضو کیا پھر واپس لوٹا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on performing ablution
after touching the private parts

Hadith number: 627

Translation:

(627) It is narrated from Musab bin Saad that I used to hand the Quran to Saad bin Abi Waqas (may Allah be pleased with him). When I itched, Saad said: Perhaps you have touched your private parts. I said: Yes! He said: Stand up and perform ablution. I stood up and performed ablution and then returned. [Sahih. Narrated by Malik 2/59]

Sunan Kubra Bayhaqi 628

Arabic Text:

وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ (٦٢٩)
عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا مَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ
الْوُضُوءُ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: شرمگاہ کو چھونے سے وضو کرنے کا بیان
حدیث نمبر: 628

:ترجمہ

(629) (سیدنا عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ جب کوئی
شخص اپنی شرمگاہ کو چھوئے تو اس پر وضو کرنا واجب
ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on performing ablution
after touching the private parts

Hadith number: 628

Translation:

(628) It is narrated on the authority of Abdullah bin Umar (may Allah be pleased with him) that when a person touches his private parts, it is obligatory to perform ablution on him.

[Sahih. Narrated by Malik 2/60]

Sunan Kubra Bayhaqi 629

Arabic Text:

وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ (٦٣٠)
عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ
: فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَتِ مَا يُجْزِيكَ الْغُسْلُ مِنَ الْوُضُوءِ؟ قَالَ:
بَلَى وَلَكِنِّي أَحْيَانًا أَمَسْتُ ذَكَرِي فَأَتَوَضَّأُ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: شرمگاہ کو چھونے سے وضو کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 629

ترجمہ:

(٦٣٠) سالم بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمرؓ کو دیکھا۔ وہ پہلے غسل کرتے تھے پھر وضو کرتے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا: اے ابا جان! کیا غسل وضو

سے کفایت کر جاتا ہے؟ انہوں نے کہا: کیوں نہیں، لیکن میں کبھی کبھی اپنی شرمگاہ کو چھوتا ہوں تو میں وضو کرتا ہوں۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on performing ablution after touching the private parts

Hadith number: 629

Translation:

(629) It is narrated from Salem bin Abdullah that I saw Abdullah bin Umar (may Allah be pleased with him). He used to do ghusl first and then perform ablution. I asked him: O my father! Is Ghusl Sufficient for ablution? He said: Why not, but sometimes I touch my private parts so I perform ablution.

[Sahih. Narrated by Nalik 2/62]

Sunan Kubra Bayhaqi 630

Arabic Text:

وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ (٦٣١)
اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ
أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ تَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ هَذِهِ صَلَاةٌ مَا
كُنْتَ تُصَلِّي بِهَا . فَقَالَ : إِنِّي بَعْدَ أَنْ تَوَضَّأْتُ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ
مَسِسْتُ ذَكَرِي ثُمَّ نَسِيتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ فَتَوَضَّأْتُ ثُمَّ عُدْتُ لِصَلَاتِي .
[صحيح- أخرجه مالك ٩٤]

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: شرمگاہ کو چھونے سے وضو کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 630

ترجمہ:

(۶۳۱) سالم بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمرؓ کے ساتھ ایک سفر میں تھا، میں نے آپ کو سورج طلوع ہونے کے بعد دیکھا، آپ نے وضو کیا، پھر نماز پڑھی۔ میں نے پوچھا: یہ آپ نے کونسی نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا: میں نے صبح کی نماز کے بعد وضو کیا۔ پھر میں نے اپنی شرمگاہ کو چھوا اور میں بھول گیا، اب پھر میں نے وضو کیا اور اپنی نماز دوبارہ لوٹائی۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on performing ablution after touching the private parts

Hadith number: 630

Translation:

(630) Salem ibn Abdullah says: I was on a journey with Abdullah ibn Umar (may Allah be pleased with him). I saw him after sunrise, he performed ablution and then offered prayers. I asked: Which prayer did you offer? He said: I performed ablution after the morning prayer. Then I touched my private parts and I forgot. Now again I performed ablution and repeated my prayer.

[Sahih. Narrated by Malik 2/63]

Sunan Kubra Bayhaqi 631

Arabic Text:

وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ بِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ (٦٣٢)
كَانَ يَقُولُ: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ.
(ت) (وَرُوِينَا فِي ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَرَوَى
الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ عَنْ مُسْلِمٍ وَسَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ
ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَا هُوَ يَوْمَ النَّاسِ إِذْ
زَلَّتْ يَدُهُ عَلَى ذَكَرِهِ، فَأَشَارَ إِلَى النَّاسِ: أَنْ امْكُثُوا، ثُمَّ خَرَجَ
فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَجَعَ، فَأَتَمَّ بِهِمْ مَا بَقِيَ مِنَ الصَّلَاةِ- [صحيح-
[أخرجه مالك ٩٢]

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: شرمگاہ کو چھونے سے وضو کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 631

ترجمہ:

(٦٣٢) (الف) (عروہ اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں: جس نے

اپنی شرمگاہ کو چھوا اس پر وضو واجب ہو گیا۔
(ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطابؓ ایک
دن لوگوں کو نماز کی امامت کر رہے تھے۔ اس دوران
انہوں نے ہاتھ سے شرمگاہ کو چھواتو لوگوں کو اشارہ کیا کہ
اپنی جگہ ٹھہرے رہیں، پھر وہ گئے وضو کیا پھر واپس لوٹے
اور باقی نماز مکمل کی۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on performing ablution
after touching the private parts

Hadith number: 631

Translation:

(631) (A) Urwah narrates from his father:

Whoever touches his private parts, ablution
has become obligatory on him.

(B) Ibn Abi Malika says that one day Umar bin
Khattab (may Allah be pleased with him) was
leading the people in prayer. During this time,
he touched his private parts with his hand

and signaled the people to stay in their place. Then he went and performed ablution, then returned and completed the rest of the prayers.

[Sahih. Narrated by Malik]

Sunan Kubra Bayhaqi 632

Arabic Text:

: وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ (٦٣٣)
مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُقْرِئِ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنِ

سَلَامَةٌ بُو الطَّحَاوِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ
بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ
: يَقُولَانِ فِي الرَّجُلِ يَمَسُّ ذَكَرَهُ : يَتَوَضَّأُ. قَالَ شُعْبَةُ فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ
عَمَّنْ بَدَأَ؟ فَقَالَ : عَنْ عَطَائٍ . [ضعيف- أخرجه الطحاوى فى
[شرح المعانى ١/٧٦

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى
كتاب: پاکی کا بیان
باب: شرمگاہ کو چھونے سے وضو کرنے کا بیان
حدیث نمبر: 632

:ترجمہ

(633) (سیدنا ابن عمر اور ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ جس
شخص نے اپنی شرمگاہ کو چھوا وہ وضو کرے۔ شعبہ کہتے
ہیں کہ میں نے قتادہ سے پوچھا: یہ روایت کس کی ہے؟ انہوں
نے کہا: عطاء کی۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi
Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on performing ablution
after touching the private parts

Hadith number: 632

Translation:

(632) Ibn Umar and Ibn Abbas (may Allah be pleased with them) say that whoever touches his private parts should perform ablution.

Shuba says that I asked Qatadah: Whose tradition is this? He said: Ata.

[Daif (Weak). Narrated by Tahawi in Sharh Ma'ani 1/76]

Sunan Kubra Bayhaqi 633

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصُّوفِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو (٦٣٤)
أَحْمَدَ بْنَ عَدِيِّ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ اللَّيْثِ وَعَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا بِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرٍ الْيَحْصَبِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ
الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ يَقُولُ أَخْبَرْتَنِي بِسُرَّةِ بِنْتِ
صَفْوَانَ الْأَسَدِيَّةِ : أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - يَأْمُرُ
ذَلِكَ بِالْوَضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ وَالْمَرَأَةِ مِثْلُ
: قَالَ أَبُو أَحْمَدَ بْنَ عَدِيِّ : وَبَذَا الْحَدِيثُ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ فِي مَثْنِهِ
وَالْمَرَأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ. لَا يَرْوِيهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ غَيْرُ ابْنِ نَمِرٍ هَذَا.
(قَالَ الشَّيْخُ : وَكَذَلِكَ رَوَاهُ هَارُونُ بْنُ زِيَادٍ الْحِنَائِيُّ عَنِ
الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَرَوَاهُ أَبُو مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ
مُسْلِمٍ عَلَى الصِّحَّةِ فِي الْإِسْنَادِ وَالْمَثْنِ جَمِيعًا.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: عورت کا اپنی شرمگاہ کو چھونے سے وضو کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 633

ترجمہ:

(۶۳۴) بسرہ بنت صفوان اسدیہ^{رض} نے نبی ﷺ سے سنا کہ آپ ﷺ

شرمگاہ کو چھونے سے وضو کا حکم دیا کرتے تھے اور عورت بھی اسی طرح کرے گی۔

"ب (احمد بن عدی فرماتے ہیں کہ متن حدیث میں یہ زیادتی وَالْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ "امام زہری سے ابن نمیر کے علاوہ کوئی کوئی بیان نہیں کرتا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on a woman performing ablution after touching her private parts

Hadith number: 633

Translation:

(633) Busra bint Safwan Asadiyah (may Allah be pleased with her) heard from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) that he used to order ablution by touching the private parts and a woman would do the same.

(B) Ahmad ibn Udai says that in the text of the hadith no one narrates this excess "وَالْمَرْأَةُ" "مِثْلُ ذَلِكَ" except Imam Zuhri except Ibn Namir.
[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 634

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ (٦٣٥) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنََّّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بْنُ حَزْمٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: ذَكَرَ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ فِي إِمَارَتِهِ عَلَى الْمَدِينَةِ: أَنَّهُ يُتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ إِذَا أَفْضَى إِلَيْهِ بِيَدِهِ. فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ وَقُلْتُ: لَا وَضُوءَ عَلَى مَنْ مَسَّهُ. فَقَالَ مَرْوَانُ: بَلَى أَخْبَرْتَنِي بِسُرَّةِ بِنْتِ صَفْوَانَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - يَذْكُرُ مَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - ((وَيُتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ)) (-) فَقَالَ عُرْوَةُ: فَلَمْ أَزَلْ أُمَارِي مَرْوَانَ حَتَّى دَعَا رَجُلًا مِنْ حَرَسِهِ فَأَرْسَلَهُ إِلَى بُسْرَةَ يَسْأَلُهَا عَمَّا حَدَّثْتَهُ مِنْ ذَلِكَ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بُسْرَةَ بِمِثْلِ مَا حَدَّثْتَنِي عَنْهَا مَرْوَانُ - هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مِنْ حَدِيثِ الزُّبَيْرِيِّ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: عورت کا اپنی شرمگاہ کو چھونے سے وضو کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 634

:ترجمہ

(۶۳۵) حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں: مروان بن حکم نے مدینہ طیبہ میں اپنی امارت کے دوران لکھا کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو کیا جائے جب کسی کا ہاتھ لگ جائے تو میں نے اس کا انکار کیا اور کہا: اس پر وضو نہیں ہے جس نے شرم گاہ کو چھوا۔ مروان کہتے ہیں: مجھ کو بسرہ بنت صفوان نے خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ آپ کے سامنے ذکر کیا گیا کہ کس چیز سے وضو کیا جائے گا؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " :شرمگاہ کو چھونے سے وضو کیا جائے گا۔ عروہ کہتے ہیں: میں ہمیشہ مروان سے بحث و مباحثہ کرتا رہا یہاں تک کہ ایک پہرے دار بسرہ رضی اللہ عنہا کی طرف بھیجا تاکہ ان سے سوال کرے کہ وہ اس کے بارے میں کیا بیان کرتی ہے تو سیدہ بسرہ رضی اللہ عنہا نے اس کی طرف وہی لکھ بھیجا جو مجھ سے مروان بیان کرتا تھا۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on a woman performing
ablution after touching her private parts

Hadith number: 634

Translation:

(634) Hazrat Urwah ibn Zubayr (may Allah be pleased with him) said: Marwan ibn Hukam wrote during his Emirate in Madinah that ablution should be performed after touching the private parts, I denied it and said: There is no ablution on the one who touches his private parts. Marwan says: I was informed by Busra bint Safwan (may Allah be pleased with her) that she had heard from the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) mention the things for which ablution should be performed, and the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: Ablution should be

performed after touching the private parts.
Urwa says: I always quarreled with Marwan until one of the soldiers was sent to Busra to ask her what she said about it. Busra sent him the same message that Marwan used to tell me.

[Sahih. Narrated by Nasai 164, 445-448 and Abu Dawud 181 and Tirmidhi 82 and Ibn Majah 479 and Malik 2/60 and Ahmad 6/406, 407 and Darimi 751, 752]

Sunan Kubra Bayhaqi 635

Arabic Text:

: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ بْنُ أَبِي عَمْرٍو أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (٤٣٦) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيَّ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَعْمٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ مَسِّ الْمَرْأَةِ فَرْجَهَا اتِّتَوْضَأُ؟ فَقَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - قَالَ ((إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ)) - قَالَ: وَالْمَرْأَةُ كَذَلِكَ.

ظَاهِرٌ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ قَالَ: وَالْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَيْهِ أَنَّ سَائِرَ الرُّوَاةِ رَوَوْهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ دُونَ هَذِهِ الزِّيَادَةِ.

(ت (وَرَوَى ذَلِكَ فِي حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيَّاشٍ عَنْ بِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ [صحيح لغيره- اخرجہ النسائی ٤٤٥])

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان

باب : عورت کا اپنی شرمگاہ کو چھونے سے وضو کرنے کا
بیان

حدیث نمبر : 635

:ترجمہ

(۶۳۶) (عبد الرحمن بن نمیر کہتے ہیں کہ میں نے امام زہری سے عورت کے شرمگاہ کو چھونے کے متعلق سوال کیا کہ کیا وہ وضو کرے گی؟ انہوں نے کہا: مجھ کو عبداللہ بن ابوبکر عروہ اور مروان بن حکم سے بسرہ بنت صفوان رضی کی روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب کسی کا ہاتھ اپنی شرمگاہ کو لگ جائے تو وہ وضو کر لے اور عورت بھی اسی طرح کرے گی۔

(ب) (اس حدیث کے ظاہر سے پتا چلتا ہے کہ "وَالْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ" زہری کا قول ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on a woman performing
ablution after touching her private parts

Hadith number: 635

Translation:

(635) Abd al-Rahman ibn Namir says that I asked Imam Zuhri (may Allah have mercy on him) about a woman touching her private part, should she perform ablution? He said: I have been told from Abdullah ibn Abu Bakr Urwah and Marwan ibn Hukam from Busra bint Safwan (may Allah be pleased with her) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: When someone's hand touches his private parts, he should perform ablution and the woman should do the same.

(B) From the appearance of this hadith it is clear that “وَالْمَرْأَةُ مِثْلُ ذَلِكَ” is the saying of Zuhri. [Sahih. Narrated by Nasai 164, 445-448 and Abu Dawud 181 and Tirmidhi 82 and Ibn Majah 479 and Malik 2/60 and Ahmad 6/406, 407 and Darimi 751, 752]

Sunan Kubra Bayhaqi 636

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو (٦٣٧)
وَأَبُو بَكْرِ بْنُ رَجَائِ الْأَيْبِ وَأَبُو بَكْرِ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورِ النَّوْقَانِيِّ بِهَا قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو
الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو عُنْبَةَ: أَحْمَدُ بْنُ الْفَرَجِ
الْحِجَازِيُّ الْحِمَاصِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ
حَدَّثَنِي-

: - عَمْرٍو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -
أَيُّمَا رَجُلٍ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا))
فَلْيَتَوَضَّأْ)) (-) ت (وَرَوَاهُ إِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ عَنْ بَقِيَّةِ

عَنِ الزُّبَيْدِيِّ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ - (ج) (وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ
ثِقَةٌ -

ت) (وَبَكَذَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ عَنْ عَمْرِو ، وَرَوَى مِنْ
وَجْهِ آخَرَ عَنْ عَمْرِو -

[صحيح لغيره۔ أخرجه الدار قطنى ١/١٤٧]

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاکی کا بیان

باب: عورت کا اپنی شرمگاہ کو چھونے سے وضو کرنے کا

بیان

حدیث نمبر: 636

:ترجمہ

(637) (شعیب اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا: جو شخص اپنی شرمگاہ کو چھولے تو وہ وضو

کرے اور جو عورت اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگالے وہ بھی وضو

کرے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on a woman performing
ablution after touching her private parts

Hadith number: 636

Translation:

(636) Shoaib narrates from his grandfather that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: Whoever touches his private parts should perform ablution, and any woman who touches her private parts should also perform ablution.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence). Narrated by Al-Daraqutni 1/147]

Sunan Kubra Bayhaqi 637

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ (٦٣٨)
الْحَافِظُ حَدَّثَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ وَأَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ يَعْنِي
ابْنَ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ رَاشِدٍ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ
فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ.
قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: يُؤْمِنُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَعْرَبٍ.
قَالَ الشَّيْخُ: وَخَالَفَهُمُ الْمُتَنَبِّئِيُّ بْنُ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ إِسْنَادِهِ
وَلَيْسَ بِالْقَوِيٍّ. [صحيح لغيره]

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان

باب : عورت کا اپنی شرمگاہ کو چھونے سے وضو کرنے کا

بیان

حدیث نمبر : 637

:ترجمہ

(۶۳۸) عمرو بن شعیب اپنے دادا سے اسی سند سے اس کے ہم

معنی روایت بیان کرتے ہیں۔

(ب) ابو احمد کہتے ہیں کہ حدیث ابن ثوبان عن ابيہ عن عمرو

غریب ہے۔ (ج) شیخ کہتے ہیں: مثنیٰ بن صباح نے عمرو کی

مخالفت کی ہے اور وہ قوی نہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on a woman performing
ablution after touching her private parts

Hadith number: 637

Translation;

(637) Amr ibn Shu'ayb narrates the same
hadith from his grandfather with the same
chain of transmission.

(B) Abu Ahmad says that the hadith of Ibn Thawban on the authority of Abiha on the authority of Amr is strange.

(C) Shaykh says: Muthanna ibn Sabah has opposed Amr and he is not strong
[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence)]

Sunan Kubra Bayhaqi 638

Arabic Text:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَكَرِيَّا الْأَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا (٦٤٠)

مُحَرِّزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِذَا مَسَّتِ الْمَرْأَةُ فَرْجَهَا تَوَضَّأَتْ. (ت) (وَبَكَذَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ).

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: عورت کا اپنی شرمگاہ کو چھونے سے وضو کرنے کا
بیان
حدیث نمبر: 639

ترجمہ:
(۶۴۰) (سیدہ عائشہؓ سے روایت ہے کہ جب کوئی عورت اپنی شرمگاہ کو چھوئے تو وضو کرے۔)

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on a woman performing
ablution after touching her private parts

Hadith number: 639

Translation:

(639) It is narrated from Ayesha (may Allah be pleased with her) that when a woman touches her private parts, she should perform ablution. [Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence). Narrated by Hakim 1/223]

Sunan Kubra Bayhaqi 640

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ (٦٤١)
حُمَيْدِ الْأَشْنَانِيِّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِوَسِ الطَّرَائِفِيِّ
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيِّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
: -أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -

مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ ((
وُضُوءُ الصَّلَاةِ)) -

وَبَكَذَا رَوَاهُ مَعْنُ بْنُ عَيْسَى وَجَمَاعَةٌ مِنَ الثَّقَاتِ عَنْ يَزِيدَ (ت)

بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنَّ يَزِيدَ تَكَلَّمُوا فِيهِ -

(ج) وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ

اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ النَّحْوِيِّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي

الْفَضْلُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَعْْنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ

يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ النَّوْفَلِيِّ فَقَالَ : شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَيْسَ

بِهِ بَأْسٌ -

قَالَ الشَّيْخُ : وَلَا بِي هُرَيْرَةَ فِيهِ أَصْلٌ فَقَدْ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: ہتھیلی کے شرمگاہ کو لگنے سے وضو نہ کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 640

ترجمہ:

(۶۴۱) (سیدنا ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا " جس کا ہاتھ شرمگاہ کو لگ جائے اس کے درمیان

" پردہ نہ ہو تو اس پر نماز کا وضو واجب ہے۔

(ب) (عبدالمالک نوفلی کہتے ہیں کہ اہل مدینہ کے ایک

شیخ نے کہا: اس میں کوئی حرج نہیں۔

(ج) (اس میں اصل راوی شیخ کہتے ہیں کہ سیدنا ابوہریرہؓ کے

لیے اس میں اصل ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra for Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on not performing ablution after touching the private parts by the palm (of the hand)

Hadith number: 640

Translation:

(640) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "If someone touches his private parts and there is no veil between the private parts and the hand, then ablution, like that done for prayer, is obligatory on him."

(B) Abdul Malik Nawfali says that a sheikh of the people of Madinah said: There is no harm in that.

(C) The original narrator Sheikh says that, its origin is Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him).

[Hasan Li Ghayrihi (Fair due to external evidence). Narrated by Al-Tabarani in Mujam Awsat 110]

Sunan Kubra Bayhaqi 641

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ (٤٢٢)
عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ قَارِسٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنِي ابْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ سَمِعَ
عُمَرَ بْنَ أَبِي وَهْبٍ سَمِعَ جَمِيلَ بْنَ بَشِيرٍ -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ -
هَكَذَا مَوْقُوفٌ وَقِيلَ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي وَهْبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: ہتھیلی کے شرمگاہ کو لگنے سے وضو نہ کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 641

ترجمہ:

(641) سیدنا ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ جس شخص کا ہاتھ

اپنی شرم گاہ کو لگ جائے تو وہ وضو کرے۔ یہ روایت

موقوف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ جمیل ابو وہب سے اور وہ

سیدنا ابوہریرہؓ سے نقل کرتے ہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on not performing ablution after touching the private parts by the palm (of the hand)

Hadith number: 641

Translation:

(641) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him)

that if a person touches his private parts, he should perform ablution. This tradition is mawquf. One view is that Jameel narrates from Abu Wahb and he narrates from Syeduna Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him).

[Daif (Weak). Narrated by Bukhari in Tareekh Kabeer 2/216]

Sunan Kubra Bayhaqi 642

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو قَالَا (٦٤٣)
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سُلَيْمَانَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي وَهْبٍ عَنْ جَمِيلِ
الْعَجَلِيِّ عَنْ أَبِي وَهْبِ الْخَزَاعِيِّ
عَنْ أَبِي بُرَيْرَةَ قَالَ: مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ، وَمَنْ مَسَّهُ يَعْغِي
مِنْ وَرَائِ الثُّوبِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان
باب: ہتھیلی کے شرمگاہ کو لگنے سے وضو نہ کرنے کا بیان
حدیث نمبر: 642

ترجمہ:

(٦٤٣) (سیدنا ابوہریرہ ^{رض} سے روایت ہے کہ جو شخص اپنی
شرمگاہ کو چھوئے تو وہ وضو کرے اور جس نے کپڑے کے
اوپر سے چھوا اس پر وضو نہیں ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on not performing ablution after touching the private parts by the palm (of the hand)

Hadith number: 642

Translation:

(642) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that whoever touches his private parts, he should perform ablution, and whoever touches (the private parts) through a veil does not perform ablution.

[Daif (Weak). Narrated by Abu Nuaym in al-Hilyah 9/44]

Sunan Kubra Bayhaqi 643

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَیْدٍ بْنُ أَبِي عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ (٤٤٤)
بْنُ یَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِیعُ بْنُ سُلَیْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ وَابْنُ أَبِي فُذَیكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذُنَبٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ)) (-)
وَزَادَ ابْنُ نَافِعٍ فَقَالَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ
جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - (-)

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَسَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنَ الْحُفَّاطِ
يُرْوِيهِ لَا يَذْكُرُونَ فِيهِ جَابِرًا- وَزَادَ أَبُو سَعِيدٍ فِي حَدِيثِهِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَالْإِفْضَاءُ بِالْيَدِ إِنَّمَا هُوَ بِبَطْنِهَا ، كَمَا يُقَالُ
أَفْضَى بِيَدِهِ مُبَايَعًا ، وَأَفْضَى بِيَدِهِ إِلَى الْأَرْضِ سَاجِدًا وَإِلَى
رُكْبَتَيْهِ رَاكِعًا-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: ہتھیلی کے شرمگاہ کو لگنے سے وضو نہ کرنے کا بیان
حدیث نمبر: 643

ترجمہ:

(۶۴۴) (الف) محمد بن عبد الرحمن بن ثوبانؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " جب کسی شخص کا ہاتھ شرمگاہ کو لگ جائے تو وہ وضو کر لے۔"

(ب) (دوسری روایت میں سیدنا جابرؓ نبی ﷺ سے نقل فرماتے ہیں۔

(ج) (امام شافعی) رح (فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے حفاظ سے سنا، لیکن انہوں نے سیدنا جابرؓ کا ذکر نہیں کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on not performing ablution after touching the private parts by

the palm (of the hand)

Hadith number: 643

Translation:

(643) (a) Muhammad ibn Abdul Rahman ibn Thawban (may Allah be pleased with him) says that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: "When a person's hand touches the private part, he should perform ablution."

(B) In a second narration, Syeduna Jabir (may Allah be pleased with him) narrates from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) .

(C) Imam Shafi'i (may Allah have mercy on him) says that I heard from many memorizers, but they did not mention Syeduna Jabir.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence). Narrated by Shafi'i in his Musnad 35]

Sunan Kubra Bayhaqi 644

Arabic Text:

وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ (٦٤٥)
الْمُقَرَّبِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا
يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُلَازِمُ
بْنِ عَمْرٍو الْحَنْفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَدْرِ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ عَنْ
أَبِيهِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ : خَرَجْنَا إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ - وَفَدَا حَتَّى
جَاءَ رَجُلٌ كَأَنَّهُ بَدَوِيٌّ فَقَالَ : قَدِمْنَا عَلَيْهِ فَبَايَعَنَاهُ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ ، ف
فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَرَى فِي مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَ مَا
يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ ((: وَهَلْ هُوَ إِلَّا

بَضْعَةٌ أَوْ مُضْغَةٌ مِنْكَ)) -

فَهَذَا حَدِيثٌ رَوَاهُ مُلَازِمٌ بِنُ عَمْرٍو هَكَذَا -

قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّبَّغِيُّ : مُلَازِمٌ فِيهِ نَظْرٌ -

قَالَ الشَّيْخُ : وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ الِیْمَامِيُّ وَأَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ

عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ - وَكِلَاهُمَا ضَعِيفٌ -

وَرَوَاهُ عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ قَيْسٍ : أَنَّ طَلْقًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ -

فَأَرْسَلَهُ -

وَعِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ أَمَثَلُ مَنْ رَوَاهُ عَنْ قَيْسٍ -

وَعِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَدْ اخْتَلَفُوا فِي تَعْدِيلِهِ ، غَمَزَهُ يَحْيَى بْنُ

سَعِيدِ الْقَطَّانِ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَضَعَّفَهُ الْبُخَارِيُّ جَدًّا ، وَأَمَّا قَيْسُ

بْنُ طَلْقٍ فَقَدْ رَوَى الزُّعْفَرَانِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْنَا عَنْ

قَيْسٍ فَلَمْ نَجِدْ مَنْ يَعْرِفُهُ بِمَا يَكُونُ لَنَا قَبُولَ خَبَرِهِ -

وَقَدْ عَارَضَهُ مَنْ وَصَفَنَا ثِقَتَهُ وَرَجَاحَتَهُ فِي الْحَدِيثِ وَثَبَّتِهِ -

وَفِيْمَا أَخْبَرْنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ

عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ النَّقَّاشُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

يَحْيَى الْقَاضِي السَّرْحَسِيُّ حَدَّثَنَا رَجَائُ بْنُ مُرَجَّى

الْحَافِظُ فِي قِصَّةٍ ذَكَرَهَا قَالَ فَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ : قَدْ أَكْثَرَ

النَّاسُ فِي قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ وَلَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ -

وَأَخْبَرْنَا أَبُو بَكْرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرْنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ قَالَ

ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ سَأَلْتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ

بَذَا فَقَالَا : قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ لَيْسَ مِمَّنْ تَقُومُ بِهِ حَاجَةٌ -

وَوَهَبْنَا لَهُ وَلَمْ يُبْتَئَاهُ۔

ثُمَّ إِنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى فِي ابْتِدَائِ الْهَجْرَةِ حِينَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -
ﷺ - يَبْنِي مَسْجِدَهُ. وَسَمَاعُ أَبِي بُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ رَوَيْنَا عَنْهُ فِي
ذَلِكَ كَانَ بَعْدَهُ ، وَهُوَ فِيمَا۔

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: ہتھیلی کے شرمگاہ کو لگنے سے وضو نہ کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 644

ترجمہ:

(645) سیدنا طلق بن علیؓ فرماتے ہیں کہ ہم وفد کی شکل میں

نبی ﷺ کے پاس آئے، ہم نے آپ ﷺ کی بیعت کی اور آپ کے

ساتھ نماز پڑھی، ایک دیہاتی شخص آیا۔ اس نے عرض کیا:

اے اللہ کے رسول! جو شخص وضو کرنے کے بعد اپنی

شرمگاہ کو چھو لیتا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال

ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا " وہ تو اس کے جسم کا ایک حصہ یا

ٹکڑا ہے۔) "ب (شیخ کہتے ہیں کہ محمد بن جابر یمامی اور

ایوب بن عتبہ قیس بن طلق سے روایت کرتے ہیں اور دونوں

ضعیف ہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on not performing ablution after touching the private parts by the palm (of the hand)

Hadith number: 644

Translation:

(644) Syeduna Talq bin Ali (may Allah be pleased with him) says that we came to the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) in the form of a delegation, we gave allegiance to him and offered prayers with him, a villager came. He said: O Messenger of Allah! What do you think about a person who touches his private parts after performing ablution? The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "It is a part or piece of his body."

(B) Shaykh says that Muhammad ibn Jabir

narrates from Yamami and Ayub ibn Utbah
from Qais ibn Talq and both are weak
[Sahih. Narrated by Nasai 165 and Abu
Dawud 182 and Tirmidhi 85 and Ibn Majah
483 and Ahmad 4/22, 23]

Sunan Kubra Bayhaqi 645

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِيُّ الْمِهْرَجَانِيُّ (٦٤٦)
بِهَا أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ

يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ
 مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَدِمْتُ
 عَلَى النَّبِيِّ ﷺ - وَهُوَ يَبْنِي الْمَسْجِدَ فَقَالَ ((: أَخْلِطِ الطِّينَ فَإِنَّكَ أَعْلَمُ
 بِخَلْطِهِ يَا يَمَامِيُّ)) (- فَسَأَلْتُهُ أَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ
 يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَمَسُّ ذَكَرَهُ؟ فَقَالَ ((: إِنَّمَا هُوَ مِنْكَ)) (-
 ثُمَّ قَدْ حَمَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَلَى مَسِّ إِيَّاهُ بِظَهْرِ كَفِّهِ - فَفِيمَا -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: ہتھیلی کے شرمگاہ کو لگنے سے وضو نہ کرنے کا بیان
 حدیث نمبر: 645

ترجمہ:

(646) (سیدنا طلق بن علیؓ اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں کہ
 میں نبی ﷺ کے پاس آیا اور آپ مسجد بنا رہے تھے، آپ ﷺ نے
 میں فرمایا: یمامی! تم مٹی کو ملاؤ، یہ کام تم زیادہ جانتے ہو۔
 نے آپ ﷺ سے پوچھا یا کسی شخص نے پوچھا: آپ ﷺ کا کیا
 خیال ہے اس شخص کے بارے میں

جو وضو کرتا ہے پھر اپنی شرمگاہ کو چھوتا ہے؟ آپ ﷺ نے
" فرمایا " : وہ تیرے بدن ہی کا حصہ ہے۔
پھر ہمارے بعض اصحاب نے اس کو اپنی ہتھیلی کے ظاہری
حصے کے چھونے کو معمول کیا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on not performing ablution
after touching the private parts by the palm (of
the hand)

Hadith number: 645

Translation:

(645) Syedna Talq bin Ali narrates from his
father that I came to the Prophet (peace and
blessings of Allah be upon him) and he was
building a mosque. The Prophet (peace and
blessings of Allah be upon him) said:

Yamami! You mix the clay, you know this work
better. I asked him or someone asked: What
do you think about a person who

performs ablution and then touches his private parts? He said: "It is a part of your body."

Then some of our companions have made it a matter of touching it (the private parts) with the outer part of their palm.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 646

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَائِرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ (٦٤٧)
الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِيُّ
حَدَّثَنَا بِمَامٍ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ قَالَ حَدَّثَنِي شَيْخٌ لَنَا مِنْ أَهْلِ الْيَمَامَةِ
يُقَالُ لَهُ قَيْسُ بْنُ طَلْقٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ - ﷺ - أَوْ سَمِعَ
رَجُلًا يَسْأَلُهُ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا أَصَلِّي فَذَهَبَتْ أَحْكُ فَخِذِي
فَأَصَابَتْ يَدِي ذَكَرِي. فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ - ((إِنَّمَا هُوَ مِنْكَ))-.
وَالظَّائِرُ مِنْ حَالٍ مَنْ يَحْكُ فِخْذَهُ فَأَصَابَتْ يَدَهُ ذَكَرَهُ أَنَّهُ إِنَّمَا
يُصِيبُهُ بِظَهْرِ كَفِّهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: ہتھیلی کے شرمگاہ کو لگنے سے وضو نہ کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 646

:ترجمہ

(٦٤٧) (سیدنا طلق بن علیؓ اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں

کہ انہوں نے نبی ﷺ سے سوال کیا یا کسی شخص نے سوال کیا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اس دوران میں اپنی ران پر خارش کرنا شروع ہوا تو میرا ہاتھ میری شرمگاہ کو لگ گیا، نبی ﷺ نے فرمایا: وہ تیرا ہی حصہ ہے۔

(ب) (اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ اپنی ران پر خارش کرتے ہوئے اس کا ہاتھ شرم گاہ پر پڑ گیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on not performing ablution after touching the private parts by the palm (of the hand)

Hadith number: 646

Translation:

(646) Syedna Talq bin Ali narrates from his father that he asked the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) or someone asked him that I was praying, during which I started scratching my thigh, then my hand reached my private parts. The Prophet (peace

and blessings of Allah be upon him) said: It is part of you.

(B) It is clear from this hadith that while scratching his thigh, his hand fell on the genitals.

[Sahih. Narrated by Nasai 165 and Abu Dawud 182 and Tirmidhi 85 and Ibn Majah 483 and Ahmad 4/22, 23]

Sunan Kubra Bayhaqi 647

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ (٦٤٨)
عَبْدِ اللَّهِ الْجَرَّاحِيُّ الْعَدْلُ الْحَافِظُ بِمَرَوْ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى
الْقَاضِي السَّرْحَسِيُّ حَدَّثَنَا رَجَائُ بْنُ مُرْجَى الْحَافِظُ قَالَ : اجْتَمَعْنَا
فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ أَنَا وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ وَيَحْيَى
: بْنُ مَعِينٍ ، فَتَنَازَرُوا فِي مَسِّ الذَّكْرِ فَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ
يُتَوَضَّأُ مِنْهُ . وَتَقَلَّدَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَوْلَ الْكُوفِيِّينَ وَقَالَ بِهِ .
فَاحْتَجَّ ابْنُ مَعِينٍ بِحَدِيثِ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ وَاحْتَجَّ عَلِيُّ
بْنُ الْمَدِينِيِّ بِحَدِيثِ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ ، وَقَالَ لِيَحْيَى : كَيْفَ تَتَقَلَّدُ
إِسْنَادَ بُسْرَةَ وَمَرْوَانَ بِنِ الْحَكَمِ أَرْسَلَ شَرْطِيًّا حَتَّى رَدَّ جَوَابَهَا
إِلَيْهِ؟ فَقَالَ يَحْيَى : ثُمَّ لَمْ يُقْنِعْ ذَلِكَ عُرْوَةَ حَتَّى أَتَى بُسْرَةَ فَسَأَلَهَا
وَشَافَهَتْهُ بِالْحَدِيثِ . ثُمَّ قَالَ يَحْيَى : وَلَقَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ فِي قَيْسِ
بْنِ طَلْقٍ وَأَنَّهُ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ .
: فَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : كِلَا الْأَمْرَيْنِ عَلَى مَا قُلْتُمَا . فَقَالَ يَحْيَى
مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : يُتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكْرِ .
فَقَالَ عَلِيُّ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ لَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ ، وَإِنَّمَا هُوَ
بَضْعَةٌ مِنْ جَسَدِكَ . فَقَالَ يَحْيَى : بَدَا عَمَّنْ؟ فَقَالَ : عَنْ سُفْيَانَ عَنْ
أَبِي قَيْسٍ عَنْ هُزَيْلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، وَإِذَا اجْتَمَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ
وَابْنُ عُمَرَ وَاخْتَلَفَا قَابِئُ مَسْعُودٍ أَوْلَى أَنْ يُتَّبَعَ .
فَقَالَ لَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : نَعَمْ وَلَكِنْ أَبُو قَيْسٍ الْأَوْدِيُّ لَا يُحْتَجُّ
بِحَدِيثِهِ . فَقَالَ عَلِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ

عُمَيْرُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: مَا أَبَالِي مَسِسْتُهُ أَوْ أَنْفِي. فَقَالَ
يَحْيَى: بَيْنَ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ مَفَازَةٌ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: ہتھیلی کے شرمگاہ کو لگنے سے وضو نہ کرنے کا بیان
حدیث نمبر: 647

ترجمہ:

(۶۴۸) (الف) محدث رجاء بن مرجی فرماتے ہیں کہ ہم احمد بن حنبل، علی بن مدینی اور یحییٰ بن معین مسجد خیف میں جمع ہوئے، وہاں مس ذکر پر بحث و مباحثہ ہوا کہ اس پر وضو ہے یا نہیں (تو یحییٰ بن معین نے کہا: اس سے وضو ہے۔ علی بن مدینی نے کو فیوں کے قول کی تقلید کی۔ ابن معین کی دلیل سیدہ بسرہ بنت صفوانؓ کی حدیث ہے اور علی بن مدینی (رح) کی دلیل سیدنا طلق بن قیس کی روایت ہے اور انہوں نے یحییٰ بن معین سے کہا کہ آپ بسرہ بنت مروانؓ اور مروان بن حکم کی حدیث کو کیسے قبول کریں گے جبکہ مروان نے تو ایک سپاہی بھیجا تھا تو مروان کی طرف سیدہ بسرہؓ نے جواب بھیجا تو

یحییٰ بن معین نے کہا کہ مروان نے اس پر بس نہیں کی وہ سیدہ بسرہؓ کے پاس آئے اور ان سے حدیث سنی، پھر یحییٰ بن معین نے کہا: اکثر لوگ قیس بن طلق والی روایت پر ہیں اور وہ حدیث قابل حجت نہیں۔

(ب) (سیدنا ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ شرمگاہ کو چھونے سے وضو کیا جائے گا۔) ج (سیدنا علیؓ کہتے ہیں کہ ابن مسعودؓ فرماتے تھے: اس سے وضو نہیں ہے وہ تو تیرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ یحییٰ کہتے ہیں کہ پھر حدیث کس سے ہے؟ حنبلؓ تو انہوں نے کہا: سیدنا عبداللہؓ سے ہی۔) د (امام احمد بن فرماتے ہیں کہ عمار کہتے ہیں: مجھے کوئی پروا نہیں کہ میں چھوؤں یا نہ چھوؤں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on not performing ablution after touching the private parts by the palm (of the hand)

Hadith number: 647

Translation:

(647) (a) Muhaddith Raja ibn Marji says that

we Ahmad ibn Hanbal, Ali ibn Madini and Yahya ibn Mu'in (may Allah have mercy on them) gathered in the Kheef Mosque. There was a discussion on the issue of touching the private parts (whether ablution is required after it or not) then Yahya ibn Mu'in said: There is ablution for it. Ali ibn Madini followed the words of the Fayyus. Ibn Mu'in's argument is the hadith of Busra bint Safwan and Ali ibn Madini's argument is the narration of Talq ibn Qays and he said to Yahya ibn Mu'in: How will you accept the hadith of Busra bint Marwan (may Allah be pleased with her) and Marwan bin Hukam when Marwan had sent a soldier, then Busra sent a reply to Marwan then Yahya bin Mu'in said that Marwan did not stop him. He came to Busra and heard the hadith from him. Then Yahya ibn Mu'in said: Most of the people are in agreement with the narration of Qais ibn Talaq and that hadith is not reliable.

(B) It is narrated from Ibn Umar (may Allah

be pleased with him) that ablution will be performed by touching the private parts.

(C) Ali (may Allah be pleased with him) says that Ibn Masud (may Allah be pleased with him) used to say: There is no ablution from it, it is just a part of your body. Yahya says that then the hadith is from whom? So he said: From Syeduna Abdullah.

(D) Imam Ahmad ibn Hanbal (may Allah have mercy on him) says that Ammar says: I do not care whether I touch it or not (the private parts).

[Daif (Weak). Narrated by Hakim 1/234]

Sunan Kubra Bayhaqi 648

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ (٦٤٩)
الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ النَّقَّاشُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى
الْقَاضِي السَّرْحَسِيُّ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَبَعْضِ مَعْنَاهُ.

وَقَالَ فِي آخِرِهِ فِي حَدِيثِ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمَّارٍ فَقَالَ
أَحْمَدُ : عَمَّارُ وَابْنُ عُمَرَ اسْتَوِيَا ، فَمَنْ شَاءَ أَخَذَ بِهِذَا ، وَمَنْ
شَاءَ أَخَذَ بِهِذَا.

قَالَ الشَّيْخُ : قَدْ رَوَيْنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثِ
بُسْرَةَ وَسَمَاعُ عُرْوَةَ مِنْهَا كَمَا قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ - وَكَأَنَّهُ رَجَعَ
فِي ذَلِكَ إِلَى قَوْلِ يَحْيَى وَتَقْلِيدِ حَدِيثِ بُسْرَةَ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب : پاکی کا بیان

باب : ہتھیلی کے شرمگاہ کو لگنے سے وضو نہ کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 648

ترجمہ:

(۶۴۹) (عبداللہ بن یحییٰ قاضی سرخسی نے اسی سند سے اس حدیث کے ہم معنی روایت نقل کی ہے۔) ب (امام احمد) رح (فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے سیدنا عمارؓ اور ابن عمرؓ دونوں صحابی رسول ہیں، جو چاہے عمارؓ کی روایت کو قبول کر لے اور جو چاہے ابن عمرؓ کی روایت پر عمل کر لے۔) ج (شیخ کہتے ہیں: ہمارے اصحاب علی بن مدینی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حدیث بسرہؓ اور عروہ کے سماع کے متعلق کچھ کہا۔ جیسے یحییٰ بن معین نے کہا ہے گویا وہ یحییٰ بن معین اور حدیث بسرہؓ پر عمل پیرا ہیں۔)

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on not performing ablution after touching the private parts by the palm (of the hand)

Hadith number: 648

Translation:

(648) Abdullah bin Yahya Qazi Surakhsi has narrated a synonymous narration of this hadith from the same chain of transmission. (B) Imam Ahmad (may Allah have mercy on him) says that for us, Syeduna Ammar and Ibn Umar (may Allah be pleased with them) are both companions of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him), whoever wants to accept the narration of Ammar, can do so, and whoever wants, he can follow the narration of Ibn Umar (may Allah be pleased with him).

(C) Shaykh says: Our companions narrate from Ali ibn Madini that he said something about hearing the Hadith Busra and Urwa. As Yahya ibn Mu'in has said, it is as if they are following Yahya ibn Mu'in or Hadith of Busra. [Daif (Weak). Narrated by Hakim 1/234]

Sunan Kubra Bayhaqi 649

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ (٦٥٠)
جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ قَالَ
عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ: اجْتَمَعَ سُفْيَانُ وَابْنُ جُرَيْجٍ فَتَذَاكَرَا مَسَّ الذَّكَرِ
فَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: يُتَوَضَّأُ مِنْهُ. ،
وَقَالَ سُفْيَانُ: لَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ. فَقَالَ سُفْيَانُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ
رَجُلًا أَمْسَكَ بِيَدِهِ مَنِيًّا مَا كَانَ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: يَغْسِلُ يَدَهُ.
قَالَ: فَأَيُّهُمَا أَكْبَرُ الْمَنِيُّ أَوْ مَسُّ الذَّكَرِ؟ فَقَالَ: مَا أَلْقَابَا عَلَى
لِسَانِكَ إِلَّا الشَّيْطَانُ.
قَالَ الشَّيْخُ: وَإِنَّمَا أَرَادَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ السُّنَّةَ لَا تُعَارَضُ
بِالْقِيَاسِ.

وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْهُ أَنَّ الَّذِي قَالَ مِنَ الصَّحَابَةِ لَا وُضُوئَ فِيهِ فَإِنَّمَا قَالَهُ بِالرَّأْيِ وَمَنْ أَوْجَبَ الْوُضُوئَ فِيهِ فَلَا يُوجِبُهُ إِلَّا بِالِاتِّبَاعِ. وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: ہتھیلی کے شرمگاہ کو لگنے سے وضو نہ کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 649

:ترجمہ

(۶۵۰) (الف) سفیان اور ابن جریج اکٹھے ہوئے تو انہوں نے مس ذکر پر بحث و مباحثہ کیا۔ ابن جریج کہتے ہیں: اس سے وضو کیا جائے گا اور سفیان کہتے ہیں: وضو نہیں کیا جائے گا۔ سفیان کہتے ہیں: مجھے بتاؤ اگر کوئی آدمی اپنے ہاتھ سے منی پکڑ لیتا ہے تو اس پر کیا ہے؟

ابن جریج کہتے ہیں کہ اپنا ہاتھ دھوئے گا تو انہوں نے پوچھا: کیا منی زیادہ بڑی ہے یا شرمگاہ کو چھونا بڑا ہے؟ تو ابن جریج نے کہا: یہ بات شیطان نے تمہارے دل میں ڈالی ہے۔ (ب) (شیخ کہتے ہیں کہ ابن جریج کی مراد یہ ہے کہ

سنت کا تقابل قیاس سے نہیں کیا جائے گا۔

(ج (امام شافعی) رح (نے زعفرانی والی روایت میں ذکر کیا ہے کہ میں نے صحابہ سے یہ نقل کیا ہے کہ اس میں وضو نہیں ہے یہ اس کی اپنی رائے ہے اور جس نے وضو واجب قرار دیا تو ان کی اتباع کرتے ہوئے واجب قرار دیا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on not performing ablution after touching the private parts by the palm (of the hand)

Hadith number: 649

Translation:

(649) (a) When Sufyan and Ibn Jarir came together, they discussed on the issue of touching the private parts. Ibn Jarir says: Ablution will be performed after it and Sufyan says: Ablution will not be performed. Sufyan says: Tell me, if a man grabs mani (semen)

with his hand, what is the ruling on it?

Ibn Jarir says that he will wash his hands. He asked: Is semen more serious or is touching the private parts more serious? So Ibn Jarir said: Satan has put this in your heart.

(B) The Shaykh says that Ibn Jarir means that the Sunnah will not be compared with Qiyas (analogical deduction).

(C) Imam Shafi'i (may Allah have mercy on him) has mentioned in the zafrani narration that I have narrated from the Companions that there is no ablution on it, this is his own opinion and whoever declared ablution obligatory then following them they declared it obligatory.

[Sahih. Narrated by AbdulRazzaq 439]

Sunan Kubra Bayhaqi 650

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي وَأَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو قَالَا (٦٥١)
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ
عِيسَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كُنَّا
عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ - فَجَاءَ الْحَسَنُ فَأَقْبَلَ يَتَمَرَّغُ عَلَيْهِ ، فَرَفَعَ عَنْ
قَمِيصِهِ وَقَبَّلَ زَبِيئَتَهُ -
فَهَذَا إِسْنَادٌ غَيْرُ قَوِيٍّ وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ مَسَّهُ بِيَدِهِ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ
يَتَوَضَّأْ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: ہتھیلی کے شرمگاہ کو لگنے سے وضو نہ کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 650

ترجمہ:

(650) (ابو لیلیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نبی ﷺ کے پاس تھے، سیدنا

حسنؓ آئے تو آپ ﷺ آگے بڑھے۔ ان کی رال ٹپک رہی تھی۔

آپ نے اپنی قمیض سے صاف کیا اور ان کی پیشانی کے

درمیان بوسہ دیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on not performing ablution after touching the private parts by the palm (of the hand)

Hadith number: 650

Translation:

(650) Abu Laila says that we were with the

Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him). When Syeduna Hassan (may Allah be pleased with him) came, he (the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him)) went forward. He was drooling. He (The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him)) wiped it with his shirt and kissed him in the middle of the forehead.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 651

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ الطُّوسِيُّ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا (٦٥٢)

أَبُو بَشْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَاضِرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ صَاحِبُ أَبِي
صَخْرَةَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ يَعْنَى ابْنِ مُسْلِمٍ
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ (ح)
الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْوَكِيلُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ
مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ بِشَامِ بْنِ
عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ ((: مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ أَوْ أَنْثِيَهُ أَوْ رَفَعَهُ فَلَيْتَوْضَأُ)) -
وَفِي رِوَايَةِ الطُّوسِيِّ: أَوْ رَفَعِيهِ فَلَيْتَوْضَأُ وَضُوئُهُ لِلصَّلَاةِ -
قَالَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ: كَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ
عَنْ بِشَامٍ وَوَبِهِ فِي ذِكْرِهِ الْأَنْثِيَيْنِ وَالرَّفْعِ وَإِدْرَاجِهِ ذَلِكَ فِي
حَدِيثِ بُسْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - وَالْمَحْفُوظُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ
عُرْوَةَ غَيْرَ مَرْفُوعٍ -
كَذَلِكَ رَوَاهُ الثَّقَاتُ عَنْ بِشَامٍ مِنْهُمْ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ وَحَمَّادُ بْنُ
زَيْدٍ وَغَيْرُهُمَا -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
کتاب: پاکی کا بیان
باب: خصیتین کو چھونے کا بیان

حدیث نمبر: 651

ترجمہ:

(651) سیدہ بسرہ بنت صفوانؓ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا " :جو شخص اپنی شرمگاہ یا خصیتین یا میل جمع ہونے کی جگہ کو چھوئے تو وہ وضو کرے۔"

(ب) (طوسی کی روایت میں یہ الفاظ ہیں :یا اپنی بغلوں کو چھوئے تو وہ نماز جیسا وضو کرے۔)

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on touching the testicles

Hadith number: 651

Translation:

(651) Syeda Busra bint Safwan (may Allah be pleased with her) says: I heard the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) say: "If a person touches his private parts or the testicles or the place

where dirt is accumulated, he should perform ablution."

(B) In the narration of Tusi, the following words are present: Or if he touches his armpits, he should perform ablution like, he does for, prayer.

[Daif (Weak). Narrated by Hakim 1/229]

Sunan Kubra Bayhaqi 652

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنِ قَتَادَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ السَّرَّاجُ (٦٥٣)
 حَدَّثَنَا أَبُو شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ
 الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَارِثِيُّ
 أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشَّرٍ
 وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ السَّرَّاجِ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو
 الْأَشْعَثِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ بِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ
 -عَنْ أَبِيهِ عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ -
 يَقُولُ ((مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ)) -
 قَالَ وَكَانَ عُرْوَةُ يَقُولُ : إِذَا مَسَّ رُفْعِيهِ أَوْ أَنْثِيهِ أَوْ ذَكَرَهُ
 فَلْيَتَوَضَّأْ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب : پاکی کا بیان
 باب : خصیتین کو چھونے کا بیان
 حدیث نمبر : 652

ترجمہ:

(٦٥٣) (سیدہ بسرہ بنت صفوانؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے
 رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا " : جو اپنی شرمگاہ کو

" چھوئے تو وہ وضو کرے۔
عروہ کہتے تھے کہ "جو میل والی جگہ کو چھوئے یا
خصیتین یا شرمگاہ کو چھوئے تو وہ وضو کرے۔"

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on touching the testicles

Hadith number: 652

Translation:

(652) It is narrated from Busra bint Safwan (may Allah be pleased with her) that she heard the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) saying: "Whoever touches his private parts should perform ablution."
Urwah used to say, "Whoever touches the place where dirt accumulates or the testicles or the private parts, he should perform ablution."

[Hasan (Fair). Narrated by Al-Daraqutni 1/148]

Sunan Kubra Bayhaqi 653

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ (٦٥٤)
بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ إِسْحَامٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ إِسْحَامِ
بْنِ عُرْوَةَ قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ: إِذَا مَسَّ رُفْعَهُ أَوْ أُنْتَبِيَهُ أَوْ
فَرَجَهُ فَلَا يُصَلِّي حَتَّى يَتَوَضَّأَ.
وَرُويَ ذَلِكَ عَنْ إِسْحَامِ بْنِ عُرْوَةَ مِنْ وَجْهِ آخَرَ مُدْرَجًا فِي الْحَدِيثِ
وَبُيُوتِ وَبِهِمُ وَالصَّوَابُ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ عُرْوَةَ-
وَالْقِيَاسُ أَنَّ لَأَوْضُوءٍ فِي الْمَسِّ وَإِنَّمَا اتَّبَعْنَا السُّنَّةَ فِي إِجَابِهِ-
بِمَسِّ الْفَرْجِ فَلَا يَجِبُ بغيرِهِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: خصیتین کو چھونے کا بیان
حدیث نمبر: 653

ترجمہ:

(۶۵۴) ہشام بن عروہ کے والد فرماتے تھے: جب کوئی شخص اپنی میل والی جگہ کو چھوئے یا خصیتیں یا اپنی شرمگاہ کو چھوئے تو وہ نماز نہ پڑھے یہاں تک کہ وضو کرے۔
(ب) ایک اور سند کے ساتھ ہشام بن عروہ سے مدرج حدیث منقول ہے، یہ کسی راوی کا وہم ہے اور درست بات یہی ہے کہ وہ عروہ کا قول ہے۔
(ج) قیاس یہ ہے کہ مس جب کپڑے کے اوپر سے ہو تو اس سے وضو نہیں ہے اور ہم نے سنت کی اتباع کی ہے کہ شرمگاہ کو چھوئے بغیر وضو واجب نہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on touching the testicles

Hadith number: 653

Translation:

(653) Hisham ibn 'Urwah's father used to say: When a person touches his place where the dirt accumulates (on the private part) or his testicles or his private parts, he should not offer prayers until he performs ablution.

(B) With another chain of transmission, a hadith has been narrated in a madrij hadith from Hisham ibn Urwa. This is the illusion of the narrator and the truth is that it is the saying of Urwa.

(C) The presumption is that there is no ablution when the touch is done through a cloth (a veil) and we have followed the Sunnah that ablution is not obligatory without touching the private parts.

[Hasan (Fair). Narrated by Al-Daraqutni 1/148]

Sunan Kubra Bayhaqi 654

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ (٦٥٥)
اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو
بَكْرِ الْحَمِيدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ الْقَطَّانَ يَسْأَلُ سُفْيَانَ
يَعْنِي ابْنَ عُيَيْنَةَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ : تَيَمَّمْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ - إِلَى
الْمَنَاكِبِ-

: فَقَالَ سُفْيَانُ : حَضَرْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنَ أُمَيَّةَ أَتَى الزُّهْرِيَّ فَقَالَ
يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ النَّاسَ يُنْكِرُونَ عَلَيْكَ حَدِيثَيْنِ- قَالَ : وَمَا
هُمَا؟ فَقَالَ : تَيَمَّمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - إِلَى الْمَنَاكِبِ-
فَقَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

: عَمَّارٍ قَالَ : تَيَمَّمْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ - إِلَى الْمَنَاقِبِ . فَقَالَ إِسْمَاعِيلُ

وَحَدِيثُ عُبَيْدِ اللَّهِ فِي مَسِّ الْإِبْطِ

فَكَانَ الزُّهْرِيُّ كَفَّ عَنْهُ كَالْمُنْكَرِ لَهُ أَوْ أَنْكَرَهُ فَأْتَيْتُ عَمْرَو

بْنَ دِينَارٍ فَأَخْبَرْتُهُ وَقَدْ كُنْتُ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ بِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَقَالَ

عَمْرُو : بَلَى حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ : أَنَّ عُمَرَ أَمَرَ

رَجُلًا أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْ مَسِّ الْإِبْطِ

قَالَ الشَّيْخُ وَحَدِيثُ مَسِّ الْإِبْطِ مُرْسَلٌ . عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

بْنِ عُتْبَةَ لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَقَدْ أَنْكَرَهُ الزُّهْرِيُّ بَعْدَ مَا

حَدَّثَ بِهِ .

وَقَدْ يَكُونُ أَمْرٌ بِغَسْلِ الْيَدِ مِنْهُ تَنْظِيفًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ يُخَالِفُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فِي

ذَلِكَ .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب : پاکی کا بیان

باب : بغلوں کو چھونا

حدیث نمبر : 654

: ترجمہ

(۶۵۵) (ابوبکر حمیدی کہتے ہیں : میں نے یحییٰ بن سعید

قطان سے سنا کہ انہوں نے سفیان بن عیینہ سے اس حدیث کے متعلق سوال کیا، یعنی ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ کندھوں تک تیمم کیا۔ سفیان نے فرمایا: میں اسماعیل بن امیہ کے پاس حاضر ہوا، وہ زہری کے پاس آئے اور عرض کیا: اے ابوبکر! لوگ آپ کی دو حدیثوں کا انکار کرتے ہیں! انہوں نے پوچھا: وہ کونسی ہیں؟ انہوں نے فرمایا: انہوں نے کندھوں تک تیمم کیا۔

زہری کہتے ہیں: عمار سے روایت ہے کہ ہم نے نبی ﷺ کے ساتھ کندھوں تک تیمم کیا۔ اسماعیل کہتے ہیں: عبید اللہ کی حدیث میں بغلوں کو چھونے کا ذکر ہے۔ عبید اللہ سے روایت ہے کہ سیدنا عمرؓ نے ایک آدمی کو بغلیں چھونے کی بنا پر وضو کرنے کا حکم دیا۔ بسا اوقات ہاتھ دھونے کا حکم صفائی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Touching the armpits

Hadith number: 654

Translation:

(654) Abu Bakr Humaydi says: I heard from Yahya bin Saeed Qattan that he asked Sufyan bin Uyaynah (may Allah have mercy on him) about this hadith, that is, we performed tayammum till the shoulders with the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him). Sufyan said: I came to Isma'il ibn Umayyah. He came to Zuhri and said: O Abu Bakr! People deny two of your ahadith! He asked: Which are they? He said: (The hadith which mentions) They performed tayammum up to their shoulders.

Zuhri says: It is narrated from Ammar that we performed tayammum till the shoulders with the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him). Ismail says: In the hadith of Ubaidullah, it is mentioned that (they) touched the armpits.

It is narrated from Ubaidullah that Umar ordered a man to perform ablution because he touched his armpits.

Sometimes washing the hands is ordered

because of cleanliness. Allah knows best.
[Daif (Weak). Narrated by Al-Humaydi 143]

Sunan Kubra Bayhaqi 655

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ (٦٥٦)
الْحَافِظُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا
خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ مُجَابِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ وَمَسَّ إِبْطَهُ أَعَادَ الْوُضُوءَ.
قَالَ وَحَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي سِنَانٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَا يُوَافِقُ ابْنَ عَبَّاسٍ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: بغلوں کو چھونا
حدیث نمبر: 655

:ترجمہ

(656) سیدنا ابن عمر^{رض} سے روایت ہے کہ جب کوئی شخص وضو کرے اور اپنی بغلوں کو چھوئے تو وہ دوبارہ وضو کرے۔

ب (ابن عباس^{رض} سے روایت ہے کہ اس پر اعادہ ضروری نہیں ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Touching the armpits

Hadith number: 655

Translation:

(655) It is narrated from Syeduna Ibn Umar (may Allah be pleased with him) that whoever performs ablution then touches his armpits, then he has to perform ablution again.

(B) It is narrated from Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) that it is not necessary to repeat it.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 656

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ (٦٥٧)
السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ
بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الرَّازِيِّ
عَنْ يَحْيَى الْبَكَّائِيِّ قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي إِبْطِهِ
وَبُؤَ فِي الصَّلَاةِ ، ثُمَّ مَضَى فِي صَلَاتِهِ .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب : پاکی کا بیان
باب : بغلوں کو چھونا
حدیث نمبر : 656

ترجمہ:

(٦٥٧) (یحییٰ بکاء کہتے ہیں : میں نے سیدنا ابن عمرؓ کو دیکھا، انہوں نے اپنا ہاتھ نماز کی حالت میں بغلوں میں داخل کیا، پھر بھی اپنی نماز جاری رکھی۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Touching the armpits

Hadith number: 656

Translation:

(656) Yahya Baqa says: I saw Ibn Umar, he put his hand in his armpit while praying, yet he continued his prayer.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 657

Arabic Text:

: وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكْرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ (٦٥٨)
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَخْبَرَنَا
ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدَ
اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَوَضَّأُ فِي الْحَرِّ وَيُمِرُّ يَدَيْهِ عَلَى إِبْطِيهِ وَلَا
يَنْقُضُ ذَلِكَ وَضُوءَهُ.

وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ وَاللَّيْثِ بْنِ
سَعْدٍ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالُوا : لَيْسَ فِي مَسِّ الْإِبْطِ وَضُوءٌ -
يَقُولُهُ ابْنُ وَهْبٍ -

قَالَ الشَّيْخُ : وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَالْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ مِنَ
التَّابِعِينَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَإِيَّاهُمْ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب : پاکی کا بیان
باب : بغلوں کو چھونا
حدیث نمبر : 657

: ترجمہ

(٦٥٨) (الف) نافع سے روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر
گرمی میں وضو کرتے تھے اور اپنا ہاتھ بغلوں پر پھیرتے
تھے اور اس سے ان کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا۔

(ب) ابن وہب کہتے ہیں: بغلوں کو چھونے سے وضو نہیں ہے۔
(ج) شیخ کہتے ہیں: یہ امام حسن بصری اور حارث عکلی تابعی کا قول ہے۔ یہ مؤقف امام شافعی (رح) کا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Touching the armpits

Hadith number: 657

Translation:

(657) It is narrated from Nafi that Abdullah Ibn Umar (may Allah be pleased with him) performed ablution in the summer and used to pass his hands over his armpits and his ablution wasn't invalidated by that.

(B) Ibn Wahb says: There is no ablution required for touching the armpits

(C) Sheikh says: This is the view of Imam Hasan Basri and Haris Akli Tabi. This is the position of Imam Shafi'i (may Allah have

mercy on him).

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 658

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ وَأَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي (٦٥٩)
عَمْرٍو قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا
الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ بِشَامِ
: عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ قَالَتْ سَمِعْتُ جَدَّتِي أَسْمَاءَ تَقُولُ

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - عَنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ ((:حُتِّيهِ
 ثُمَّ اقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ ، ثُمَّ رُشِّيهِ ثُمَّ صَلِّي فِيهِ)) (-
 زَادَ أَبُو سَعِيدٍ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ فَإِذَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - بِدَمِ
 الْحَيْضِ أَنْ يُغْسَلَ بِالْيَدِ وَلَمْ يَأْمُرْ بِالْوُضُوءِ مِنْهُ ، وَالِدَّمُ أَنْجَسُ
 مِنَ الذَّكَرِ فَكُلُّ مَا مَسَّ مِنْ نَجَسٍ مَا كَانَ قِيَاسُ عَلَيْهِ بِأَنْ لَا
 يَكُونَ مِنْهُ وَضُوءٌ، وَإِذَا كَانَ هَذَا فِي النَّجَسِ فَمَا لَيْسَ بِنَجَسٍ
 أَوْلَى أَنْ لَا يُوجِبَ وَضُوءًا إِلَّا مَا جَاءَ فِيهِ الْخَبَرُ بِعَيْنِهِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: تر نجاستوں کو چھونا
 حدیث نمبر: 658

:ترجمہ

(659) (فاطمہ بنت منذر فرماتی ہیں کہ انہوں نے اپنی دادی
 اسماء سے سنا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے حیض کے خون
 کے متعلق سوال کیا اگر کپڑے کو لگ جائے۔ آپ ﷺ نے
 فرمایا: اس کو کھرچ دو۔ پھر پانی سے مسل کر چھینٹے مارو،
 پھر اس میں نماز پڑھ لو۔) ب (ابو سعید نے

اپنی روایت میں مزید بیان کیا ہے کہ امام شافعی (رح) کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حیض کے خون کو ہاتھ سے دھونے کا حکم دیا، لیکن اس سے وضو کرنے کا حکم نہیں دیا حالانکہ خون ذکر سے زیادہ نجس ہے۔ ہر نجاست جس کو چھوا جاسکتا ہے تو اس سے وضو نہیں ہے، لہذا جو نجاست ہی نہیں ہے اس سے بدرجہ اولیٰ وضو واجب نہیں ہوتا مگر جس میں صریح حدیث آگئی ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Touching wet najasat (impurities)

Hadith number: 658

Translation:

(658) Fatima bint Mundhir says that she heard from her grandmother Asma (may Allah be pleased with her) that I asked the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) about menstrual blood, if it gets on the clothes. He said: Rub it. Then sprinkle it with water, then offer prayers in it.

(B) Abu Sa'eed further states in his narration that Imam Shafi'i (may Allah have mercy on him) says that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) commanded to wash the menstrual blood by hand, but he did not command to perform ablution for it even though (menstrual) blood is more najis than the private parts. Every najasat that can be touched does not make ablution mandatory, therefore what is not najasat does not make ablution obligatory in the first place, except in the case where a clear hadith has been narrated.

[Sahih. Narrated by Bukhari 227, 307 and Muslim 291 and Nasai 294, 350 and Abu Dawud 361 and Tirmidhi 138 and Ibn Majah 629 and Malik 2/105 and Ahmad 6/345, 346, 353 and Darimi 799]

Sunan Kubra Bayhaqi 659

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ (٦٦٠)
إِسْحَاقَ الْفَقِيهَ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا
سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - مَرَّ بِالسُّوقِ دَاخِلًا مِنْ بَعْضِ الْعَالِيَةِ :
وَالنَّاسُ كَنَفْتِيهِ ، فَمَرَّ بِجَدِي أَسْكَ مَيِّتٍ ، فَتَنَاوَلَهُ فَأَخَذَ يَعْغِي
بِأُذُنِهِ ، ثُمَّ قَالَ ((: أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَدَا لَهُ بِدِرِيمٍ؟)) . فَقَالُوا : مَا
نُحِبُّ أَنَّهُ لَنَا بِشَيْءٍ ، وَمَا نَصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ ((: أَتُحِبُّونَ أَنَّهُ لَكُمْ)) .
قَالُوا : وَاللَّهِ لَوْ كَانَ حَيًّا كَانَ عَيْبًا فِيهِ لِأَنَّهُ أَسْكٌ ، فَكَيْفَ وَهُوَ
مَيِّتٌ؟ فَقَالَ ((: فَوَاللَّهِ لِلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ)) .
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: خشک نجاستوں کو چھونا
حدیث نمبر: 659

ترجمہ:

(۶۶۰) (سیدنا جابر بن عبداللہ^{رض} سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ بازار میں بلند جگہ سے داخل ہوئے اور لوگ دونوں طرف تھے۔ آپ ﷺ بکری کے مرے ہوئے بچے کے پاس سے گزرے تو اس کو کان سے پکڑا، پھر فرمایا: تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ اس کو ایک درہم میں لے لے؟ انہوں نے کہا: ہم پسند نہیں کرتے کہ ہم اس میں سے کوئی چیز لیں اور ہم اس کا کیا کریں گے؟ آپ ﷺ فرمایا: "کیا تم پسند کرتے ہو کہ یہ تمہارے لیے ہو؟ انہوں نے کہا: اللہ کی قسم! اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی اس میں عیب تھا اس لیے کہ وہ بچہ ہے تو اب اس کو کس طرح لیں جب کہ وہ مردہ ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ کی قسم! دنیا اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ ذلیل تر ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Touching dry najasat (impurities)

Hadith number: 659

Translation:

(659) It is narrated on the authority of Jabir bin Abdullah (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) entered the marketplace from an elevated place and there were people on both sides. He passed by a dead goat and grabbed it by the ear, then said: Which of you would like to take it for one dirham? He said: We do not like to take anything from it and what will we do with it? He said: Would you like to take it (free of cost)? They said: By Allah! If it had been alive then there would have been a defect in it because it is a child then how can you take it now that it is dead? He said: By Allah, the world is more humiliating in the sight of

Allah.

[Sahih. Narrated by Muslim 2957]

Sunan Kubra Bayhaqi 660

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ (٦٦١)
إِسْحَاقَ الْفَقِيهِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
بْنُ عَبَّادِ الْمَكِّيِّ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عِيسَى
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا
نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ - وَلَا نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِيئٍ -
وَهَكَذَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَشَرِيكَ وَجَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ
إِلَّا أَنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ -
وَرَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ فِي إِحْدَى الرَّوَايَتَيْنِ عَنْهُ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: خشک نجاستوں کو چھونا
حدیث نمبر: 660

ترجمہ:

(۶۶۱) (سیدنا عبداللہؓ سے روایت ہے کہ ہم نبی ﷺ کے ساتھ
نماز پڑھتے اور پاؤں سے روندی ہوئی گندگی سے وضو نہیں
کرتے تھے۔)

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Touching dry najasat (impurities)

Hadith number: 660

Translation:

(660) It is narrated from Syeduna Abdullah ibn Umar (may Allah be pleased with him) that we used to pray with the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) and did not perform ablution for the trampled dirt on our feet.

[Sahih. Narrated by Ibn Khuzaymah 37]

Sunan Kubra Bayhaqi 661

Arabic Text:

كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي أَخْبَرَنَا (٦٦٢)
 حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ الطُّوسِيَّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو
 مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ أَوْ حَدَّثَهُ عَنْهُ قَالَ
 قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا نَصَلِّي لَأَنْ نَكْفُ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا وَلَا نَتَوَضَّأُ مِنْ
 مَوْطِيٍّ-

وَبَكَّا رَوَاهُ هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ
 بْنُ أَبِي مُعَاوِيَةَ كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوَدْبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو
 بَكْرٍ بْنُ دَاسَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ وَإِبْرَاهِيمُ
 بْنُ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ
 مَسْرُوقٍ أَوْ حَدَّثَهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ وَقَالَ هَنَّادُ عَنْ شَقِيقٍ
 أَوْ حَدَّثَهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: خشک نجاستوں کو چھونا
 حدیث نمبر: 661

ترجمہ:

(٦٦٢) (سیدنا عبداللہؓ فرماتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے تھے
 تو اپنے کپڑوں کو درست نہیں کرتے تھے اور نہ ہم

پاؤں سے روندی ہوئی خشک (گندگی سے وضو کرتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Touching dry najasat (impurities)

Hadith number: 661

Translation:

(661) Syeduna Abdullah (may Allah be pleased with him) said that when we used to offer prayers, we did not straighten our clothes nor did we perform ablution after treading on something unclean with our feet.

[Sahih. Narrated by Abu Dawud 204 and Ibn Majah 1041]

Sunan Kubra Bayhaqi 662

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو (٦٦٣)
الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا
يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ
يَسَارٍ عَنْ عَقِيلِ بْنِ جَابِرٍ

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فِي
غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ مِنْ نَخْلٍ ، فَأَصَابَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ امْرَأَةً
رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - قَافِلًا أَتَى
حَلْفًا لَا يَنْتَهِي حَتَّى يُهْرِيقَ زَوْجَهَا وَكَانَ غَائِبًا ، فَلَمَّا أُخْبِرَ الْخَبَرَ
يُهْرِيقُ فِي أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ دَمًا ، فَخَرَجَ يَتَّبِعُ أَثَرَ رَسُولِ اللَّهِ -
ﷺ - فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - مَنزِلًا فَقَالَ ((: مَنْ رَجُلٌ يَكْلُونَا لَيْلَتَنَا
بِذِهِ؟)) . فَانْتَدَبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ
نَحْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : فَكُونَا بِفِمْ الشَّعْبِ . فَلَمَّا أَنْ خَرَجَا إِلَيَّ :
فِمِ الشَّعْبِ قَالَ الْأَنْصَارِيُّ لِلْمُهَاجِرِيِّ : أَيُّ اللَّيْلِ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ
أَكْفِيكَهُ أَوْلَهُ أَوْ آخِرَهُ؟ قَالَ : بَلْ أَكْفِينِي أَوْلَهُ . فَاضْطَجَعَ
، الْمُهَاجِرِيُّ فَنَامَ ، وَقَامَ الْأَنْصَارِيُّ يُصَلِّي

وَأَتَى زَوْجَ الْمَرْأَةِ فَلَمَّا رَأَى شَخْصَ الرَّجُلِ عَرَفَ أَنَّهُ رَبِيبُهُ
الْقَوْمِ فَرَمَاهُ بِسَهْمٍ ، فَوَضَعَهُ فِيهِ فَنَزَعَهُ فَوَضَعَهُ ، وَثَبَتَ قَائِمًا
يُصَلِّي ، ثُمَّ رَمَاهُ بِسَهْمٍ آخَرَ فَوَضَعَهُ فِيهِ ، فَنَزَعَهُ
، فَوَضَعَهُ ، وَثَبَتَ قَائِمًا يُصَلِّي ثُمَّ عَادَ لَهُ الثَّلَاثَةَ فَوَضَعَهُ فِيهِ
فَنَزَعَهُ فَوَضَعَهُ ، ثُمَّ رَكَعَ فَسَجَدَ ثُمَّ أَبَى صَاحِبَهُ فَقَالَ : اجْلِسْ
فَقَدْ أُتَيْتَ. فَوَثَبَ فَلَمَّا رَأَى الرَّجُلُ عَرَفَ أَنَّهُ قَدْ نَذَرَ بِهِ
فَهَرَبَ ، فَلَمَّا رَأَى الْمُهَاجِرِيُّ مَا بِالْأَنْصَارِيِّ مِنَ الدِّمَائِ
قَالَ : سَبْحَانَ اللَّهِ أَفَلَا أُبَيِّنْتَنِي أَوَّلَ مَا رَمَاكَ؟ قَالَ : كُنْتُ فِي
سُورَةٍ أَقْرَأُهَا ، فَلَمْ أَحِبَّ أَنْ أَقْطِعَهَا حَتَّى أَنْفِدَهَا ، فَلَمَّا تَابَعَ
عَلَى الرَّمِيِّ رَكَعْتُ فَأَذْنُوكَ ، وَابْتِغَاءَ اللَّهِ لَوْلَا أَنْ أُضِيعَ ثَغْرًا
أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - بِحِفْظِهِ لَقُطِعَ نَفْسِي قَبْلَ أَنْ أَقْطِعَهَا
أَوْ أَنْفِدَهَا.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: حدث کی جگہ کے علاوہ سے خون نکلنے پر وہ وضو نہ
کرنا

حدیث نمبر: 662

:ترجمہ

(۶۶۳) (سیدنا جابر بن عبد اللہؓ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ غزوہ ذات الرقاع میں کھجوروں کے موسم میں نکلے تو ایک مسلمان کسی مشرکہ عورت پر واقع ہوا، جب رسول اللہ ﷺ واپسی کے لیے چلے تو اس عورت کا خاوند آیا اور وہ صحابی غائب تھا، جب اس کو خبر ہوئی تو اس نے قسم اٹھائی کہ وہ تب تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک اصحاب محمد ﷺ میں خون ریزی نہ کر لے، پھر وہ رسول اللہ ﷺ کے نشانات قدم کے پیچھے پیچھے چلا۔ رسول اللہ ﷺ نے ایک جگہ جگہ پڑاؤ ڈالا اور کہا: آج رات ہماری پہرے داری کون کرے گا؟ ایک مہاجر اور ایک انصار کھڑے ہوئے اور عرض کیا: "اے اللہ کے رسول! ہم یہ کام کریں گے۔) آپ ﷺ نے فرمایا دونوں وادی کے شروع میں چلے جاؤ۔ جب وہ وادی کے شروع والے حصے میں جانے کے لیے نکلے تو ایک انصاری نے مہاجر سے کہا: تجھے رات میں کون سا حصہ پسند ہے، یعنی تو رات کے ابتدائی حصے میں سوئے گا یا آخری میں۔ تاکہ میں تیری طرف سے پہرے داری کروں۔ انصاری نے کہا: رات کے ابتدائی حصے میں۔ مہاجر لیٹ کر سو گیا، انصاری نے کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی۔ اس عورت کا خاوند آیا اس نے دیکھا کہ محافظ ہے تو اس نے تیر پھینکا جو اس کے جسم میں پیوست ہو گیا، انصاری نے کھینچ کر نکل دیا اور اپنی جگہ کھڑے نماز جاری رکھی، اس نے دوسرا تیر

پھینکا، وہ بھی جسم میں پوست ہو گیا، انصاری نے کھینچ کر نکال دیا اور نماز جاری رکھی، تیسری مرتبہ پھر ایسا ہوا پھر اس نے رکوع و سجود کیا، پھر اپنے ساتھی کو بیدار کیا اور کہا: اٹھ بیٹھ اب تیری باری ہے تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ جب آدمی نے دونوں کو دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ وہ چوکنے ہو گئے ہیں تو وہ دوڑ گیا، جب مہاجر نے انصاری کے خون کو دیکھا تو کہا: سبحان اللہ! تو نے مجھے تیر لگنے کے بعد کیوں نہ اٹھا دیا؟ انصاری نے کہا: میں ایسی سورت پڑھ رہا تھا کہ میں نے ناپسند کیا کہ اسے مکمل کرنے سے پہلے روک دوں، جب اس نے مجھ پر مسلسل تیر پھینکے تو میں نے نماز مکمل کی اور تجھے بتلایا۔ اللہ کی قسم! اگر مجھے پھرے کے ضائع ہونے کا ڈر نہ ہوتا جس کی حفاظت کا رسول اللہ ﷺ نے مجھے حکم دیا تھا تو اس سورت کے مکمل کرنے سے پہلے میری جان بھی چلی جاتی تو مجھے پروا نہ تھی۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Not performing ablution if there is bleeding except when it is bleeding from the private parts

Hadith number: 662

Translation:

(662) It is narrated from Syeduna Jabir bin Abdullah (may Allah be pleased with him) that when we went out with the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) in the battle of Dhat ar-Riqa in the season of dates, then a Muslim killed a polytheistic woman. When the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) Sahabi was absent. When he got the news, he swore that he would not rest until the blood of Muhammad's companions was shed, then he followed in the footsteps of the Messenger of Allah. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) encamped at a place and said: Who will keep watch on us tonight? A Muhajir and an Ansar stood up and said: O Messenger of Allah! We (will do it). The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: Go to the beginning of both

the valleys. When they set out to go to the beginning of the valley, an Ansari said to the Muhajir: Which part of the night do you like, that is, will you sleep in the early part of the night or in the last part? So that I may watch over you. Ansari said: In the early part of the night. The Muhajir lied down and fell asleep. The Ansari got up and started praying. The woman's husband came and when he saw that there was a guard, he shot an arrow which attached to his body. The Ansari pulled it out and continued praying standing in his place. He shot a second arrow which also hit the body. The Ansari pulled it out and continued the prayer. This happened again for the third time. Then he bowed and prostrated. Then he woke up his companion and said: Get up. Now it is your turn. When the man saw both of them, he realized that they had become alert, so he ran away. When the Muhajir saw the blood of the Ansari, he said: Subhan Allah! Why didn't you wake me

up after the arrow hit you? The Ansari said: I was reciting such a surah that I disliked to stop before it was completed. When he continued to shoot arrows at me, I completed the prayer and told you. By Allah! If I had not feared the loss of a guard, which the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) had commanded me to protect, I would not have cared if my life had been lost before the completion of this Surah. [Hasan (Fair). Narrated by Abu Dawud 198 and Ahmad 3/343, 359]

Sunan Kubra Bayhaqi 663

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذِبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ (٦٦٤)
 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ : الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ
 الْمُبَارَكِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ
 عَنْ عَقِيلِ بْنِ جَابِرٍ عَنْ جَابِرٍ فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ مُخْتَصِرًا وَفِي
 : آخِرِهِ : فَلَمَّا رَأَى الْمُهَاجِرِيُّ مَا بِالْأَنْصَارِيِّ مِنَ الدِّمَائِ قَالَ
 سُبْحَانَ اللَّهِ أَلَا أَنْبَهْتَنِي أَوْلَ مَا رَمَى؟ قَالَ : كُنْتُ فِي سُورَةٍ
 أَقْرَأُهَا فَلَمْ أَحِبَّ أَنْ أَقْطَعَهَا.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: حدث کی جگہ کے علاوہ سے خون نکلنے پر وہ وضو نہ
 کرنا

حدیث نمبر: 663

:ترجمہ

(٦٦٤) (سیدنا جابرؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے اسی کے ہم
 معنی مختصر روایت بیان کی ہے، اس کے آخر میں ہے: جب
 مہاجر نے انصاری کے خون کو دیکھا تو کہا: سبحان الله! تو
 نے مجھے کیوں نہیں بتایا جب اس نے پہلی دفعہ

(تیر (مارا تھا؟ اس نے کہا: میں ایک سورت پڑھ رہا تھا میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس کو درمیان میں کاٹ دوں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Not performing ablution when bleeding except when bleeding from the private parts

Hadith number: 663

Translation:

(663) It is narrated from Syeduna Jabir (may Allah be pleased with him) that he has narrated a short narration with the same meaning, at the end of which: Subhan Allah! Why didn't you tell me when he first shot (the arrow)? He said: I was reciting a surah. I did not think it proper to cut it in half.

[Hasan (Fair). Narrated by Abu Dawud 198 and Ahmad 3/343, 359]

Sunan Kubra Bayhaqi 664

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرَانَ الْعَدْلُ (٦٦٥)
بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ
عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا اخْتَجَمَ غَسَلَ مَحَاجِمَهُ -
وَرَوَى الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ هَذَا -

: وَعَنْ رَجُلٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
اغْسِلْ أَثَرَ الْمَحَاجِمِ عَنْكَ وَحَسْبُكَ - وَرُوِينَا فِيهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ
مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - إِلَّا أَنَّ فِي إِسْنَادِهِ ضَعْفًا -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: حدث کی جگہ کے علاوہ سے خون نکلنے پر وہ وضو نہ کرنا

حدیث نمبر: 664

:ترجمہ

(664) (سیدنا ابن عمر^{رض} سے روایت ہے کہ وہ جب سینگی

لگواتے تو سینگی والی جگہوں کو دھوتے۔

ب) (سیدنا ابن عباس^{رض} سے روایت ہے کہ تو اپنے جسم سے

سینگی کے نشانات کو دھو ڈال۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Not performing ablution when bleeding except when bleeding from the private parts

Hadith number: 664

Translation:

(664) It is narrated on the authority of Ibn Umar (may Allah be pleased with him) that he used to wash the place where the cups were placed when he would undergo cupping.

(B) It is narrated on the authority of Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) that you should wash the marks of cupping from your body.

[Hasan (Fair)]

Sunan Kubra Bayhaqi 665

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهِ (٦٦٦)
 أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا
 صَالِحُ بْنُ مُقَاتِلٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو أَيُّوبَ
 : الْقُرَشِيُّ بِالرَّقَّةِ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ
 اخْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى غَسْلِ
 مَحَاجِمِهِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: حدت کی جگہ کے علاوہ سے خون نکلنے پر وہ وضو نہ
 کرنا

حدیث نمبر: 665

ترجمہ:

(666) (سیدنا انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ
 رسول اللہ ﷺ نے سینگی لگوائی نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا
 اور نہ ہی سینگی والی جگہوں سے زیادہ کسی عضو کو دھویا۔
 دھویا۔) جہاں سینگی لگی تھی صرف اسی کو دھویا۔)

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Not performing ablution when bleeding except when bleeding from the private parts

Hadith number: 665

Translation:

(665) It is narrated on the authority of Anas ibn Malik (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) used to perform the prayers after cupping and did not perform ablution nor did he wash any of the limbs more than the place where he was cupped. (Only the place where the cup was placed was washed).

[Daif (Weak). Narrated by Al-Daraqutni 1/151]

Sunan Kubra Bayhaqi 666

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ (٦٦٧)
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي شَيْبَةَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنِ النَّيْمِيِّ عَنِ بَكْرِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ
الْمُزَنِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ عَصَرَ بَثْرَةً فِي وَجْهِهِ فَخَرَجَ
شَيْئًا مِنْ دَمٍ فَحَكَّهُ بَيْنَ إصْبَعَيْهِ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
وَرَوَيْنَا فِي مَعْنَى هَذَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ثُمَّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ وَطَاوُسٍ وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ
مُحَمَّدٍ: لَيْسَ عَلَى الْمُحْتَجِمِ وَضُوءٌ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: حدث کی جگہ کے علاوہ سے خون نکلنے پر وہ وضو نہ کرنا

حدیث نمبر: 666

ترجمہ:

(۶۶۷) بکر بن عبداللہ مزنی سے روایت ہے کہ میں نے ابن عمرؓ کو دیکھا، آپ نے اپنے پھوڑے کو دبا یا تو اس سے کچھ کچھ خون نکلا جو انہوں نے اپنی دو انگلیوں کے درمیان کھرچ دیا، پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ (سعید بن مسیب) رح (فرماتے ہیں، :سالم بن عبداللہ، حسن اور طاؤس قاسم بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں :سینگی لگوانے پر وضو نہیں ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Not performing ablution when bleeding except when bleeding from the private parts

Hadith number: 666

Translation:

(666) It is narrated from Bakr bin Abdullah Mazni that I saw Ibn Umar (may Allah be pleased with him), he pressed his boils or some blood came out from it which he rubbed between his two fingers, then he prayed and did not perform ablution.

(B) Saeed bin Musaib (may Allah have mercy on him) says: Salem bin Abdullah, Hasan and Tawus narrated from Qasim bin Abdullah: There is no ablution required for cupping. [Sahih. Narrated by Ibn Abi Shaybah 1469]

Sunan Kubra Bayhaqi 667

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ (٦٦٨)
حَيَّانَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ زَاطِيَا حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ
حَدَّثَنَا مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنٍ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي
الْمُجَالِدِ عَنْ أَبِي الْحَكَمِ الدِّمَشْقِيِّ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ نُسَيْبٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَمِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ
الْوَضُوءُ مِنَ الرَّعَافِ وَالْقَيِّْ وَمَسِّ الذَّكْرِ وَمَا مَسَّتِ النَّارُ
: بِوَاجِبٍ. فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ نَاسًا يَقُولُونَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ
(تَوَضَّؤُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ) (فَقَالَ: إِنَّ قَوْمًا سَمِعُوا وَلَمْ يَعُوا ، كُنَّا
نُسَمِّي غَسَلَ الْيَدِ وَالْفَمِ وَضُوءًا وَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، إِنَّمَا أَمَرَ
رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَغْسِلُوا أَيْدِيَهُمْ وَأَفْوَاهَهُمْ مِمَّا
مَسَّتِ النَّارُ وَ لَيْسَ بِوَاجِبٍ. مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنٍ تَكَلَّمُوا فِيهِ وَاللَّهُ
أَعْلَمُ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: حدث کی جگہ کے علاوہ سے خون نکلنے پر وہ وضو

نہ کرنا

حدیث نمبر: 667

ترجمہ:

(۶۶۸) (سیدنا معاذ بن جبلؓ سے روایت ہے کہ نکسیر، قے شرمگاہ کو چھونے اور جس (چیز) کو آگ نے چھوا ہے اس سے وضو کرنا واجب نہیں ہے۔ ان سے کہا گیا کہ صحابہ کرامؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " : جس چیز کو آگ نے چھوا ہو اس سے وضو کرو۔ انہوں نے کہا : لوگوں نے سنا تو ہے لیکن اس کو یاد نہیں رکھا۔ ہم ہاتھوں کو دھونے اور منہ کے دھونے کا نام وضو رکھا کرتے تھے اور یہ واجب نہیں ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے مومنوں کو حکم دیا کہ آگ پر پکی چیزوں سے اپنے ہاتھ اور منہ دھوئیں اور یہ واجب نہیں ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Not performing ablution when bleeding except when bleeding from the private parts

Hadith number: 667

Translation:

(667) It is narrated from Syeduna Mu'adh bin Jabal (may Allah be pleased with him) that it is not obligatory to perform ablution with hemorrhage, vomiting, touching the private parts and anything which has not been touched by fire. They were told that the Companions (may Allah bless him and grant him peace) said: The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: Perform ablution with that which is touched by the fire. They said: People have heard it but have not remembered. The act of washing and washing of face used to be called ablution and it is not obligatory. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) commanded the believers to wash their hands and face after eating things cooked on fire, and this is not obligatory. [Daif (Weak). Narrated by Al-Tabarani in Mujam Kabeer 134]

Sunan Kubra Bayhaqi 668

Arabic Text:

وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٦٦٩)
الْمَالِينِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا بِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ
عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَ ((إِذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ أَوْ
قَلَسَ أَوْ رَعَفَ فَلْيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيُبَيِّنْ عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلَاتِهِ
مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ)) -

قَالَ أَبُو أَحْمَدَ : بِذَا الْحَدِيثِ رَوَاهُ ابْنُ عَيَّاشٍ مَرَّةً بَعْدَ ، وَمَرَّةً
 قَالَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَكِلَابِمَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ
 وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ
 أَبِي عَصَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو طَالِبٍ : أَحْمَدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ
 أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ مَا رَوَى عَنْ الشَّامِيِّينَ
 صَحِيحٌ ، وَمَا رَوَى عَنْ أَهْلِ الْحِجَازِ فَلَيْسَ بِصَحِيحٍ -
 قَالَ : وَسَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ حَدِيثِ ابْنِ عَيَّاشٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ
 ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - قَالَ : مَنْ قَاءَ أَوْ
 رَعَفَ - الْحَدِيثَ فَقَالَ بَعْدَ رَوَاهُ ابْنُ عَيَّاشٍ ، وَإِنَّمَا رَوَاهُ ابْنُ
 جُرَيْجٍ عَنْ أَبِيهِ وَلَمْ يُسْنِدْهُ عَنْ أَبِيهِ لَيْسَ فِيهِ عَائِشَةَ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب : پاکی کا بیان
 باب : حدث کی جگہ کے علاوہ سے خون نکلنے پر وہ وضو نہ
 کرنا
 حدیث نمبر : 668

:ترجمہ

۶۶۹ (سیدہ عائشہ ^{رض} سے روایت ہے کہ نبی ^ﷺ نے فرمایا: جب کسی کو نماز میں قے، سبز رنگ کا پانی یا نکسیر آئے تو وہ وضو کرے، پھر جو نماز پڑھ لی اسی پر بنیاد رکھے جب تک اس نے بات نہ کی ہو۔

ب (سیدہ عائشہ ^{رض} سے روایت ہے کہ نبی ^ﷺ نے فرمایا: جس نے قے کی یا ڈکار لی۔۔۔ باقی مکمل حدیث ذکر کی۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Not performing ablution when bleeding except when bleeding from the private parts

Hadith number: 668

Translation:

(668) It is narrated on the authority of Ayesha (may Allah be pleased with her) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: When a person vomits, or has green water or hemorrhage in prayers, he should perform ablution, and then complete

his prayer (by continuing from where he had stopped at) on condition that he does not speak in the process.

(B) It is narrated from Ayesha (may Allah be pleased with her) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said:

'Whoever vomits or burps'.... The rest of the complete hadith is mentioned.

[Daif, Munkar (Weak, Odd). Narrated by Ibn Majah 1221]

Sunan Kubra Bayhaqi 669

Arabic Text:

:أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ (٦٧٠)
عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
بْنُ يَحْيَى وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ. قَالَ
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ طَيْفُورٍ
وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ.
قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ وَالْحَسَنُ
بْنُ يَحْيَى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ كُلُّهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِيهِ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - ((إِذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ أَوْ قَلَسَ أَوْ وَجَدَ
مَذْيًا وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيُنْصِرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ ، وَلْيَرْجِعْ فَلْيَبْنِ عَلَى
صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ)) .

: قَالَ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ لَنَا أَبُو بَكْرٍ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى يَقُولُ
بَذَا هُوَ الصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَهُوَ مُرْسَلٌ .
وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ الَّتِي
يَرْوِيهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ .
قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِيهِ : لَيْسَتْ بِذِهِ
الرِّوَايَةُ بِنَائِبَةً عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - .
وَحَمَلُهُ مَعَ مَا رُوِيَ فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِ عَلَى غَسْلِ
بَعْضِ الْأَعْضَاءِ .
قَالَ الشَّيْخُ : وَقَدْ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ مَرَّةً هَكَذَا مُرْسَلًا كَمَا
رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ وَهُوَ الْمَحْفُوظُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَهُوَ مُرْسَلٌ .

قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ: فِيمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ
عُمَرَ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُمَا كَانَا يَرِ عَفَانَ فَيَتَوَضَّانِ وَيَبْنِيَانِ
عَلَى مَا صَلَّيَا ، قَدْ رُوِينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُمَا لَمْ
يَكُونَا يَرِيَانِ فِي الدَّمِ وَضُوءٍ ا وَإِنَّمَا مَعْنَى وَضُوءِهِمَا عِنْدَنَا غَسْلُ
الدَّمِ وَمَا أَصَابَ مِنَ الْجَسَدِ لِأَوْضُوءِ الصَّلَاةِ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ غَسَلَ يَدَيْهِ مِنْ طَعَامٍ ثُمَّ
مَسَحَ بِبَلِّ يَدَيْهِ وَجْهَهُ وَقَالَ: هَذَا وَضُوءٌ مَنْ لَمْ يُحَدِّثْ-
وَهَذَا مَعْرُوفٌ مِنْ كَلَامِ الْعَرَبِ يُسَمَّى وَضُوءًا ا لِعَسَلِ
بَعْضِ الْأَعْضَاءِ لِأَلِكَمَالِ وَضُوءِ الصَّلَاةِ ، هَذَا مَعْنَى مَا
رُوِيَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - فِي الْوَضُوءِ
مِنَ الرَّعَافِ عِنْدَنَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ-

قَالَ الشَّافِعِيُّ وَلَيْسَتْ هَذِهِ الرَّوَايَةُ بِنَائِبَةٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -
- قَالَ الشَّيْخُ: وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا رُوِيَ عَنِ ثَوْبَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -
فِي الْقَيْئِ اِنْ صَحَّتِ الرَّوَايَةُ فِيهِ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: حدث کی جگہ کے علاوہ سے خون نکلنے پر وہ وضو نہ
کرنا

حدیث نمبر: 669

ترجمہ:

(۶۷۰) (ابن جریج اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب کوئی شخص قے، سبز رنگ کا پانی یا مزی مذی پائے اور وہ نماز میں ہو تو وہ پھر جائے، وضو کرے اور واپس آکر اپنی گزشتہ نماز پر بنیاد رکھے۔ جب تک اس نے بات نہ کی ہو۔

(ب) محمد بن یحییٰ کہتے ہیں کہ ابن جریج سے مرسل ہونا صحیح ہے۔

(ج) ابن جریج کی حدیث جو ابن ابی ملیکہ عن عائشہ کی سند سے ہے اور اس کو اسماعیل بن عیاش روایت کرتے ہیں ثابت نہیں۔

(د) (امام شافعی) رح (فرماتے ہیں: ابن جریج جو اپنے والد سے روایت کرتے ہیں یہ بھی نبی ﷺ سے ثابت نہیں ہے اور انہوں نے سیدنا ابن عمرؓ وغیرہ سے جو روایت کی ہے اس کو بعض نے اعضاء کے دھونے پر محمول کیا ہے۔

(ر) (شیخ کہتے ہیں کہ اس کو اسماعیل بن عیاش مرسل بیان کرتا ہے۔ ایک جماعت ابن جریج سے محفوظ بیان کرتی ہے اور وہ مرسل ہی ہے۔

(ز) (امام شافعی) رح (کہتے ہیں کہ ابن عمرؓ اور ابن مسیب سے جو منقول ہے کہ وہ دونوں ڈکار لیتے، پھر وضو کرتے۔ یہ اس وقت ہوتا جب وہ نماز پڑھ چکے ہوتے۔

ہم نے جو ابن عمرؓ اور ابن مسیب سے روایت کیا ہے کہ وہ دونوں خون بہنے میں وضو کے قائل نہیں۔ ہمارے ہاں اس سے مراد خون دھونا ہے اور جو چیز جسم کو لگی ہے نہ کہ نماز والا وضو۔

اس (سیدنا ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے کھانا کھانے کے بعد دونوں ہاتھ دھوئے، پھر اپنے ہاتھوں کی تری کو چہرے پر پھیرا اور فرمایا: یہ اس شخص کا وضو جو بے وضو نہیں ہوا۔ عربوں کے کلام میں معروف ہے کہ وہ بعض اعضا دھونے کو وضو کہتے تھے۔ صرف نماز کے لیے کہے جانے والے کو وضو نہیں کہتے تھے۔ ابن جریج سے جو روایت ڈکار کے متعلق وضو کرنے میں ہے، ہمارے ہاں اس سے یہی مراد ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Not performing ablution when bleeding except when bleeding from the private parts

Hadith number: 669

Translation:

(669) Ibn Jarir narrates from his father that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: When a person finds vomiting, green colored water or madhi and he is in prayer, he should turn around, perform ablution and return to his current prayer. Until he hasn't spoken.

(B) Muhammad ibn Yahya says that it is correct to say that it is narrated from Ibn Jarir.

(C) The hadith of Ibn Jarir which is from the chain of transmission of Ibn Abi Malika on the authority of Ayesha (may Allah be pleased with her) and narrated by Isma'il ibn Ayyash is not proven.

(D) Imam Shafi'i (may Allah be pleased with him) says: The narration of Ibn Jarir from his father is also not proven from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him). And what he has narrated from Ibn Umar, etc., has been used by some for washing the limbs.

(E) Shaykh says that it is narrated by Ismail

bin Ayyash via a Mursal tradition. One group claims to safely narrate from Ibn Jarir and it is mursal.

(F) Imam Shafi'i (may Allah have mercy on him) says that it is narrated from Ibn Umar and Ibn Musaib (may Allah be pleased with them) that they would both burp and then perform ablution. This would have happened when they had prayed. We have narrated from Ibn Umar and Ibn Musaib that they both do not believe in ablution for bleeding. In our case, this means washing the blood and that which is attached to the body and not the ablution for prayers.

(G) It is narrated from Ibn Masud (may Allah be pleased with him) that he washed both his hands after eating, then turned the wetness of his hands over his face and said: This is the ablution of a person whose ablution is still intact. It is well known in the Arab scriptures that they used to wash some organs and call it ablution. Only ablution performed for prayer

was not only called ablution. This is what is meant by the narration from Ibn Jarir about performing ablution on burping.

[Daif (Weak). Narrated by Al-Daraqutni 1/153]

Sunan Kubra Bayhaqi 670

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بَشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَعْدَادَ أَخْبَرَنَا أَبُو (٦٧١)
 جَعْفَرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ
 حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ
 عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيُّ
 عَنْ يَعِيشَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ بِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَعْدَانَ بْنُ
 طَلْحَةَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَائِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - قَائٍ فَأَفْطَرَ - فَلَقِيتُ
 ثَوْبَانَ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: أَنَا صَبَبْتُ لَهُ
 وَضُوئَهُ -

وَإِسْنَادُ هَذَا الْحَدِيثِ مُضْطَرِبٌ وَاخْتَلَفُوا فِيهِ اخْتِلَافًا شَدِيدًا وَاللَّهُ
 أَعْلَمُ وَهُوَ مَذْكُورٌ مَعَ سَائِرِ مَا رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ فِي الْخِلَافِيَّاتِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: حدث کی جگہ کے علاوہ سے خون نکلنے پر وہ وضو نہ
 کرنا

حدیث نمبر: 670

:ترجمہ

(٦٧١) (سیدنا ابو دردائؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ

نے قے کی تو روزے کو چھوڑ دیا۔ میں ثوبانؓ کو دمشق کی مسجد میں ملا اور اس کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا: میں نے آپ ﷺ کے لیے پانی انڈیلا تھا۔ یہ روایت مضطرب ہے، اس میں شدید اختلاف ہے۔ واللہ اعلم۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Not performing ablution when bleeding except when bleeding from the private parts

Hadith number: 670

Translation:

(670) It is narrated on the authority of Abu Darda (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) vomited and stopped fasting. When I met Thawban (may Allah be pleased with him) in the mosque of Damascus and mentioned him, he said: I poured water for him. This tradition is mudtrub, there is strong

disagreement in it. Allah knows best.

[Sahih. Narrated by Abu Dawud 2381 and Tiemidhi 87 and Ahmad 6/443, 449 and Darimi 1769 and Nasai in Kubra 3120]

Sunan Kubra Bayhaqi 671

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ : زَيْدُ بْنُ أَبِي هَاشِمٍ الْحُسَيْنِيُّ (٦٧٢)

بِالْكُوفَةِ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ دُحَيْمٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ
: بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ
: سَأَلَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يَضْحَكُ فِي الصَّلَاةِ قَالَ
يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: نماز میں قہقہہ لگانے سے وضو نہ کرنے کا بیان
حدیث نمبر: 671

ترجمہ:

(672) (سیدنا سفیان فرماتے ہیں: سیدنا جابر بن عبد اللہ ^{رض} سے
اس شخص کے متعلق سوال کیا گیا جو نماز میں ہنستا ہے تو
انہوں نے فرمایا: وہ دوبارہ نماز پڑھے گا لیکن وضو نہیں
کرے گا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on not repeating ablution

after laughing in prayer

Hadith number: 671

Translation:

(671) Syeduna Sufyan says: Syeduna Jabir bin Abdullah (may Allah be pleased with him) was asked about the person who laughs in the prayer, then he said: He will pray again but will not perform ablution.

[Daif (Weak). Narrated by Abu Yala 12313]

Sunan Kubra Bayhaqi 672

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ (٦٧٣)
أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ
أَبِي سُوَيْبَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: إِذَا ضَحِكَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ
أَعَادَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُعِدِ الْوُضُوءَ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: نماز میں قہقہہ لگانے سے وضو نہ کرنے کا بیان
حدیث نمبر: 672

ترجمہ:

(٦٧٣) (سیدنا جابرؓ سے روایت ہے کہ جب آدمی نماز میں
ہنسے تو وہ دوبارہ نماز پڑھے، لیکن وضو دوبارہ نہ کرے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on not repeating ablution

after laughing in prayer

Hadith number: 672

Translation:

(672) It is narrated from Syeduna Jabir (may Allah be pleased with him) that when a person laughs during prayers, he should offer prayer again, but should not perform ablution again.

[Daif (Weak). Narrated by Al-Daraqutni 1/172]

Sunan Kubra Bayhaqi 673

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو قَالَا (٦٧٤)
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا
الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصِ عَنِ سُفْيَانَ بْنِ الثَّوْرِيِّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي
سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ. وَهَكَذَا
رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: نماز میں قہقہہ لگانے سے وضو نہ کرنے کا بیان
حدیث نمبر: 673

ترجمہ:

(٦٧٤) (سیدنا جابرؓ سے روایت ہے کہ وہ دوبارہ نماز پڑھے گا
اور وضو دوبارہ نہیں کرے گا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on not repeating ablution after laughing in prayer

Hadith number: 673

Translation:

(673) It is narrated from Syeduna Jabir (may Allah be pleased with him) that he will offer prayer again and will not perform ablution again.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 674

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ (٦٧٥) السُّلَمِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سُفْيَانَ يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ فِي الضَّحِكِ فِي الصَّلَاةِ: لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ الْوُضُوءِ-

وَعَنْ يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَمُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ شُعْبَةَ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ وَرَوَاهُ أَبُو شَيْبَةَ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ يَزِيدَ أَبِي خَالِدٍ فَرَفَعَهُ. (ج) (وَأَبُو شَيْبَةَ ضَعِيفٌ. ت) وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ. وَرَوَاهُ حَبِيبُ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَطَائٍ عَنْ جَابِرٍ مِنْ قَوْلِهِ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: نماز میں قہقہہ لگانے سے وضو نہ کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 674

ترجمہ:

(۶۷۵) سیدنا جابر بن عبد اللہ ^{رض} فرماتے ہیں کہ نماز میں ہنسنے سے وضو دوبارہ نہیں ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on not repeating ablution after laughing in prayer

Hadith number: 674

Translation:

(674) Syeduna Jabir bin Abdullah (may Allah be pleased with him) says that laughing in prayer does not require repeating ablution.

[Hasan (Fair). Narrated by Al-Daraqutni 1/173]

Sunan Kubra Bayhaqi 675

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ (٦٧٦)
الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَكِيلُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ بِلَالٍ عَنْ أَبِي
مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ : أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَرَأَوْا شَيْئًا
فَضَحِكَ بَعْضُ مَنْ كَانَ مَعَهُ فَقَالَ أَبُو مُوسَى حَيْثُ انصَرَفَ : مَنْ
كَانَ ضَحِكَ مِنْكُمْ فَلْيُعِدْ الصَّلَاةَ -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْهُ
أَنَّهُ أَمَرَ بِالْوُضُوءِ - :

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: نماز میں قہقہہ لگانے سے وضو نہ کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 675

ترجمہ:

(675) (سیدنا ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، لوگوں نے کسی چیز کو دیکھا تو ہنس ہنس پڑے۔ سیدنا ابو موسیٰؓ جب نماز سے پھرے تو فرمایا: جو نماز میں ہنسا ہے وہ نماز دوبارہ پڑھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on not repeating ablution after laughing in prayer

Hadith number: 675

Translation:

(675) It is narrated on the authority of Abu Musa al-Ash'ari that he was leading the

people in prayer. The people saw something and laughed. When Abu Musa turned around (after finishing) prayer, he said: He who laughed during the prayer should repeat the prayer.

[Daif (Weak). Narrated by Al-Daraqutni 1/174]

Sunan Kubra Bayhaqi 676

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو (٦٧٧)

إِسْحَاقَ :إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ فَارِسٍ حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْبُخَارِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي زَكْرِيَّا حَدَّثَنَا
الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ
عَنْ مَوْلَى أَبِي أُمَامَةَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ :الْحَدِيثُ مَا كَانَ مِنَ
النِّصْفِ الْأَسْفَلِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب :پاکی کا بیان
باب :نماز میں قہقہہ لگانے سے وضو نہ کرنے کا بیان
حدیث نمبر :676

:ترجمہ

(677) (سیدنا ابو امامہ فرماتے ہیں کہ وضو کا ٹوٹنا بدن کے
نچلے نصف حصے سے ہے) یعنی سبیلین سے۔)

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on not repeating ablution
after laughing in prayer

Hadith number: 676

Translation:

(676) Syeduna Abu Umamah (may Allah be pleased with him) says that the breaking of ablution is from the lower half of the body (i.e from the two pathways).

Sunan Kubra Bayhaqi 677

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الرَّفَّاءِ (٦٧٨)
أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو : عَثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ
إِسْحَاقَ الْقَاضِي حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ مَنْ
 أَدْرَكَتْ مِنْ فُقَهَائِنَا الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَيْ قَوْلِهِمْ ، مِنْهُمْ سَعِيدُ بْنُ
 الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ
 عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَخَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ
 اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ فِي مَشِيخَةٍ جَلَّةٍ سِوَاهُمْ يَقُولُونَ
 فِيْمَنْ رَعَفَ : غَسَلَ عَنْهُ الدَّمَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ، وَفِيْمَنْ ضَحِكَ فِي
 الصَّلَاةِ : أَعَادَ الصَّلَاةَ وَلَمْ يُعِدْ مِنْهُ وُضُوئَهُ-
 وَرُوِينَا نَحْوَ قَوْلِهِمْ فِي الضَّحِكِ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَعَطَائِي وَالزُّبَيْرِيِّ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
 كتاب: پاکی کا بیان
 باب: نماز میں قہقہہ لگانے سے وضو نہ کرنے کا بیان
 حدیث نمبر: 677

:ترجمہ

(۶۷۸) (أبي زناد اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں کہ میں نے
 فقہاء سے اس شخص کے بارے میں سنا ہے جس کو نکسیر
 آجائے کہ وہ خون کو دھوئے گا اور وضو نہیں کرے گا اور
 اس شخص کے بارے میں جو نماز میں ہنس پڑتا ہے وہ

نماز دوبارہ پڑھے گا اور وضو نہیں لوٹائے گا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on not repeating ablution after laughing in prayer

Hadith number: 677

Translation:

(677) Abi Zinad narrates from his father that I have heard from the jurists about a person who has a hemorrhage, that he will wash his blood and will not perform ablution and about a person who laughs in prayer, he will repeat the prayer and will not repeat his ablution.

[Daif (Weak). Narrated by Al-Daraqutni 1/165]

Sunan Kubra Bayhaqi 678

Arabic Text:

وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٦٧٩)
الصُّوفِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا
عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بِشَّامٌ عَنْ حَفْصَةَ
عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ : أَنَّ رَجُلًا أَعْمَى جَاءَ وَالنَّبِيَّ ﷺ - فِي الصَّلَاةِ
فَتَرَدَّى فِي بَدْرٍ فَضَحِكَ طَوَائِفُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ - فَأَمَرَ
النَّبِيَّ ﷺ - مَنْ ضَحِكَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ -
فَهَذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ - وَمَرَّاسِيلُ أَبِي الْعَالِيَةِ لَيْسَتْ بِشَيْئٍ كَانَ لَا
يُبَالِي عَمَّنْ أَخَذَ حَدِيثَهُ كَذَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ -
وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَالزُّهْرِيِّ
مُرْسَلًا -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاكى كا بيان

باب: نماز ميں قہقہہ لگانے سے وضو نہ کرنے كا بيان

حدیث نمبر: 678

:ترجمہ

(679) سيدنا ابو عاليہ سے روایت ہے کہ ایک نابینا شخص آیا

اور نبی ﷺ حالت نماز ميں تھے، وہ کنويں ميں گرگيا تو كچھ

صحابہ كرام ہنس پڑے۔ نبی ﷺ نے حکم ديا: جو ہنسا تھا وہ

دوبارہ وضو كرے اور نماز دہرائے۔

یہ حدیث مرسل ہے۔ ابو عالیہ کی مراسیل کی کوئی حیثیت

نہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on not repeating ablution after laughing in prayer

Hadith number: 678

Translation:

(678) It is narrated on the authority of Abu Aliya that a blind man came and the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) was in the state of prayer, he fell into a well, some of the companions laughed. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) commanded: He who laughs should perform ablution again and repeat the prayer.

This hadith is mursal. Abu Aliya's correspondence has no value.

[Daif (Weak). Narrated by Al-Daraqutni 162]

Sunan Kubra Bayhaqi 679

Arabic Text:

أَمَّا حَدِيثُ الْحَسَنِ فَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ (٦٨٠)
بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ الْمُقْرِئِ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا بِشَامٌ يَعْنِي ابْنَ
حَسَّانَ

عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - كَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، فَدَخَلَ
أَعْمَى فَتَرَدَّى فِي بئرٍ كَانَتْ فِي الْمَسْجِدِ فَضَحِكَ طَوَائِفُ مِمَّنْ
كَانَ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ - فِي صَلَاتِهِمْ ، فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ - أَمَرَ
مَنْ كَانَ ضَحِكَ أَنْ يُعِيدَ وَضُوءَهُ وَيُعِيدَ صَلَاتَهُ -
وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ
مَعْبَدِ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - مُرْسَلًا -
وَخَالَفَهُ غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ فَرَوَاهُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَادَانَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنِ مَعْبَدِ -
وَمَعْبَدٌ هَذَا لَا صُحْبَةَ لَهُ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي الْقَدْرِ بِالْبَصْرَةِ -
وَرَوَاهُ بُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مُرْسَلًا -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: نماز میں قہقہہ لگانے سے وضو نہ کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 679

ترجمہ:

(۶۸۰) (حسن سے روایت ہے کہ نبی ﷺ لوگوں کو نماز پڑھا

رہے تھے، ایک نابینا شخص آیا تو مسجد کے کنویں میں

گریڑا۔) یہ دیکھ کر (بعض لوگ ہنس پڑے۔ جب نبی ﷺ نے

سلام پھیرا تو حکم دیا کہ وہ دوبارہ وضو کریں اور نماز

لوٹائیں۔

(ب) (معبد جہنی نبی ﷺ سے مرسل نقل فرماتے ہیں۔ معبد

صحابی نہیں ہے بلکہ پہلا شخص تھا جس نے بصرہ میں تقدیر

پر بحث کی۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on not repeating ablution
after laughing in prayer

Hadith number: 679

Translation:

(679) It is narrated from Hasan (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) was leading people in prayer when a blind man came, he fell into the well of the mosque. (Seeing this) some people laughed. When the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) finished his prayer, he ordered them to perform ablution again and repeat the prayer.

(B) Ma'abad Jahni narrates from the Prophet via a mursal hadith. Ma'bad is not a companion of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) but was the first person to argue on qadar (destiny) in Basra.

[Daif (Weak). Narrated by Al-Daraqutni 1/165]

Sunan Kubra Bayhaqi 680

Arabic Text:

وَأَمَّا حَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ فَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ (٦٨١)
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ
النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا
الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ ضَرِيرٌ الْبَصَرِ وَالنَّبِيُّ
- ﷺ - فِي الصَّلَاةِ فَعَثَرَ فَتَرَدَّى فِي بَدْرٍ فَضَحِكُوا ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - ﷺ -
مَنْ ضَحِكَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاكى كا بيان

باب: نماز ميں قهقهه لگانے سے وضو نہ کرنے كا بيان

حديث نمبر: 680

ترجمہ:

(681) ابراهيم کہتے ہیں: ایک نابينا شخص آیا اور نبی ﷺ حالت

نماز ميں تھے وہ لڑکھڑایا اور کنويں ميں گرگيا تو بعض

صحابہ ہنس پڑے۔ نبی ﷺ نے ہنسنے والوں کو حکم ديا کہ وہ

دوبارہ وضو کریں اور نماز دہرائیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on not repeating ablution after laughing in prayer

Hadith number: 680

Translation:

(680) Ibrahim says: A blind man came and

the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) was in the state of prayer. He staggered and fell into a well and some of the companions laughed. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) commanded those who laughed to perform ablution again and repeat the prayer.

[Daif (Weak). Narrated by Al-Daraqutni 1/171]

Sunan Kubra Bayhaqi 681

Arabic Text:

وَأَمَّا حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ فَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو (٦٨٢)
زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّيَّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا الثَّقَفُ عَنْ
ابْنِ أَبِي ذُنُبٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - أَمَرَ رَجُلًا
ة- ضَحِكَ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ
قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَلَمْ نَقْبَلْ بِذَا لِأَنَّهُ مُرْسَلٌ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ ثُمَّ أَخْبَرَنَا الثَّقَفُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - بِهَذَا الْحَدِيثِ -
قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذِهِ الرِّوَايَاتُ كُلُّهَا رَاجِعَةٌ إِلَى أَبِي الْعَالِيَةِ
الرِّيَاحِيِّ.

وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ أَخْبَرَنَا
أَبُو أَحْمَدَ بْنَ عَدِيِّ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ
بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ يَقُولُ قَالَ لِي عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: حَدِيثُ الضَّحِكِ فِي الصَّلَاةِ أَنَّ النَّبِيَّ -
ﷺ - أَمَرَ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ. كُلُّهُ يَدُورُ عَلَى أَبِي
الْعَالِيَةِ. قَالَ عَلِيُّ فَقُلْتُ: قَدْ رَوَاهُ الْحَسَنُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

مُرْسَلًا. فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ حَفْصِ
بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ أَنَا حَدَّثْتُ بِهِ الْحَسَنَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ -
قُلْتُ لَهُ: قَدْ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - فَقَالَ عَبْدُ

الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ قَالَ أَنَا حَدَّثْتُ بِهِ إِبْرَاهِيمَ
عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ. فَقَالَ عَلِيُّ قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ: قَدْ رَوَاهُ
الزُّهْرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - مُرْسَلًا.

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: قَرَأْتُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِ ابْنِ أَخِي
الزُّهْرِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمٍ عَنِ الْحَسَنِ. قَالَ
وَسَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: أَعْلَمُ النَّاسِ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
مَهْدِيٍّ.

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَلَوْ كَانَ عِنْدَ الزُّهْرِيِّ أَوْ
الْحَسَنِ فِيهِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ لَمَا اسْتَجَازَا الْقَوْلَ بِخِلَافِهِ، وَقَدْ صَحَّ عَنْ
قِتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى مِنْ الضَّحِكِ فِي الصَّلَاةِ
وُضُوءًا -

وَعَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَغَيْرِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: مِنْ
الضَّحِكِ يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ.

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ قَالَ قَالَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ وَأَكْثَرُ
مَا نُقِمَ عَلَيَّ أَبِي الْعَالِيَةِ هَذَا الْحَدِيثُ، وَكُلُّ مَنْ رَوَاهُ غَيْرُهُ
فَأَيُّمَا مَدَارِبُهُمْ وَرَجُوعُهُمْ إِلَيَّ أَبِي الْعَالِيَةِ وَالْحَدِيثُ لَهُ وَبِهِ يُعْرَفُ
وَمَنْ أَجَلَ هَذَا الْحَدِيثِ تَكَلَّمُوا فِي أَبِي الْعَالِيَةِ وَسَائِرِ أَحَادِيثِهِ،
مُسْتَقِيمَةً صَالِحَةً.

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ الْفَارِسِيُّ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ
بْنَ حَرْبٍ ذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي الْعَالِيَةِ: أَنَّ رَجُلًا ضَحِكَ فِي
الصَّلَاةِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ - أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ.

فَضَعَفَهُ-

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى
بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ : مُرْسَلَاتُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَحْسَنُ مِنْ مُرْسَلَاتِ
الْحَسَنِ ، وَ مُرْسَلَاتُ إِبْرَاهِيمَ صَحِيحَةٌ إِلَّا حَدِيثَ تاجرِ
الْبَحْرَيْنِ وَ حَدِيثَ الضَّحِكِ فِي الصَّلَاةِ ، وَ مُرْسَلُ الزُّهْرِيِّ لَيْسَ
بِشَيْءٍ-

قَالَ الشَّيْخُ وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ بِأَسَانِيدٍ مَوْصُولَةٍ إِلَّا أَنَّهَا ضَعِيفَةٌ
قَدْ بَيَّنْتُ ضَعْفَهَا فِي الْخِلَافِيَّاتِ-

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمُطَرِّزُ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ
يَحْيَى هُوَ الدُّهْلِيُّ يَقُولُ : لَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - فِي الضَّحِكِ
فِي الصَّلَاةِ خَبْرٌ-

وَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ قَرَأْتُ بِخَطِّ أَبِي عَمْرٍو
الْمُسْتَمْلِي سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ أَبِي
الْعَالِيَةِ وَتَوَابِعِهِ فِي الضَّحِكِ فَقَالَ : وَاهٍ ضَعِيفٌ-
وَ فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْ أَبِي
عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيِّ فِي حَدِيثِ الضَّحِكِ فِي الصَّلَاةِ : لَوْ ثَبَتَ
عِنْدَنَا الْحَدِيثُ بِذَلِكَ لَقُلْنَا بِهِ- وَالَّذِي يَزْعُمُ أَنَّ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ فِي
، الْقَهْقَهَةِ يَزْعُمُ أَنَّ الْقِيَّاسَ أَنْ لَا يَنْتَقِضَ ، وَلَكِنَّهُ تَتَّبَعُ الْآثَارَ
فَلَوْ كَانَ تَتَّبَعُ مِنْهَا الصَّحِيحَ الْمَعْرُوفَ كَانَ بِذَلِكَ عِنْدَنَا حَمِيدًا
وَلَكِنَّهُ يَرُدُّ مِنْهَا الصَّحِيحَ الْمَوْصُولَ الْمَعْرُوفَ ،

وَيَقْبَلُ الضَّعِيفَ الْمُنْقَطِعَ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: نماز میں قہقہہ لگانے سے وضو نہ کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 681

:ترجمہ

(۶۸۲) (الف) ابن شہاب سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے اس شخص کو حکم دیا جو نماز میں ہنس پڑا تھا کہ وہ وضو اور نماز کو دوبارہ لوٹائے۔

(ب) (حسن سے روایت ہے کہ وہ نماز میں ہنسنے سے وضو باقی نہیں سمجھتے تھے۔

(ج) (زہری سے روایت ہے کہ ہنسنے سے نماز دوبارہ پڑھے گا لیکن وضو دوبارہ نہیں کرے گا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on not repeating ablution

after laughing in prayer

Hadith number: 681

Translation:

(681) (a) It is narrated from Ibn Shahab that the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) commanded the person who had laughed during the prayer to repeat the ablution and the prayer.

(B) It is narrated from Hasan that he did not consider it obligatory to repeat ablution after laughing in prayer.

(C) It is narrated from Zuhri that if he laughs, he will perform the prayer again but he will not perform ablution again.

[Daif (Weak). Narrated by Shafi'i in his Musnad 5/12]

Sunan Kubra Bayhaqi 682

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إِسْحَاقُ بْنُ (٦٨٣)
مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ السُّوسِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةَ: عَبْدُ
الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي بُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((مَنْ
، حَلَفَ مِنْكُمْ فَقَالَ فِي حَلْفِهِ بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيُقْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ تَعَالَ أَقَامِرَكَ فَلْيَتَصَدَّقْ))-
، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْمُغِيرَةَ
وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْوَلِيدِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاكى كا بيان

باب: كلام اگرچہ زيادہ ہو پھر بهى ناقض وضو نہيں ہے

حديث نمبر: 682

:ترجمہ

(682) سيدنا ابو ہريره ^{رض} فرماتے ہيں کہ رسول اللہ ﷺ كا طغرى نے فرمايا: جو شخص قسم اٹھائے اور لات اور عزنى كا نام لے تو وہ "لا اله الا الله" پڑھے اور جس نے كسى كو کہا: أو جو اکھيلين تو وہ صدقہ كرے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Even if the deceleration is too much, it does not invalidate ablution

Hadith number: 682

Translation:

(682) Abu Hurayrah (may Allah be pleased

with him) says that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: Whoever swears an oath and takes the name of Lat and Uzza, he should recite “La ilaha illa Allah” (None has the right to be worshipped but Allah) and whoever says to someone: Come along, let us gamble must give alms (as an expiation).

[Sahih. Narrated by Bukhari 4860, 6107, 6301, 6650 and Muslim 1647 and Nasai 3806 and Abu Dawud 3247 and Tirmidhi 1545 and Ibn Majah 2096 and Ahmad 2/309]

Sunan Kubra Bayhaqi 683

Arabic Text:

: وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ : مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ (٦٨٤)
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي بُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَ ((مَنْ حَلَفَ
بِاللَّاتِ وَالْعُزَّى فَلْيُقْلَلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)) - قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : وَلَمْ
يَبْلُغْنِي أَنَّهُ ذَكَرَ فِي ذَلِكَ وَضُوءًا -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: کلام اگرچہ زیادہ ہو پھر بھی ناقضِ وضو نہیں ہے

حدیث نمبر: 683

ترجمہ:

(٦٨٤) (سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ "جس نے لات اور عزیٰ کی قسم اٹھائی وہ "لا الہ الا اللہ" پڑھے۔" ابن شہاب کہتے ہیں: مجھے یہ بات معلوم نہیں

ہوسکی کہ آپ ﷺ نے وضو کا بھی ذکر کیا ہو۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Even if the deceleration is too much,
it does not invalidate ablution

Hadith number: 683

Translation:

(683) Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) narrates from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) that he who swears by Lat and Uzza should recite "La ilaha illa Allah" (None has the right to be worshipped but Allah). Ibn Shahab says: I could not get to know whether the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) also mentioned ablution or not.

[Sahih. Narrated by Bukhari 4860, 6107, 6301, 6650 and Muslim 1647 and Nasai 3806 and Abu Dawud 3247 and Tirmidhi 1545 and Ibn

Sunan Kubra Bayhaqi 684

Arabic Text:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ} {الآيَةَ-

[البقرة: 124]

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو زَكْرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ (٤٨٥)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ
الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ
بِكَلِمَاتٍ} قَالَ: ابْتَلَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِالطَّهَّارَةِ خَمْسٌ فِي

الرَّأْسِ ، وَخَمْسٌ فِي الْجَسَدِ ، فِي الرَّأْسِ : قَصُّ الشَّارِبِ
: وَالْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ وَالسَّوَاكُ وَفَرْقُ الرَّأْسِ ، وَفِي الْجَسَدِ
تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَالْخِتَانُ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَغَسْلُ مَكَانِ
الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ بِالْمَاءِ .

وَقَدْ مَضَى فِي هَذَا الْكِتَابِ حَدِيثُ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ - : عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ - فَذَكَرَهُنَّ إِلَّا أَنَّهُ ذَكَرَ إِعْفَاءَ
اللِّحْيَةِ وَغَسْلَ الْبَرَاجِمِ وَلَمْ يَذْكَرِ الْخِتَانَ وَفَرْقَ الرَّأْسِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: ناخن اور مونچھیں کاٹنا سنت ہے اور دیگر چیزیں (بغلیں
وغیرہ) (مونڈنے سے وضو نہیں ہے

حدیث نمبر: 684

ترجمہ:

(۶۸۵) (الف) (سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ارشاد {وَإِذِ ابْتَلَى

إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ [البقرة: 124] کے متعلق فرماتے ہیں

کہ اللہ تعالیٰ نے طہارت کے ساتھ آزمایا ہے: پانچ کا تعلق سر

سے ہے اور پانچ کا جسم سے ہے۔ سر والی یہ ہیں " : مونچھیں

کاٹنا 'کلی کرنا' ناک میں پانی چڑھانا 'مسواک

کرنا 'مانگ نکالنا اور جسم والی یہ ہیں: ناخن کاٹنا 'زیر ناف
بال مونڈنا 'ختنہ کرنا 'بغلوں کے بال اکھیڑنا 'قضائے حاجت
اور پیشاب کی جگہ کو پانی سے دھونا۔

(ب (سیدہ عائشہؓ نبی ﷺ سے نقل فرماتی ہیں " :دس چیزیں
فطرت میں سے ہیں، پھر ان کا ذکر کیا اور داڑھی بڑھانے اور
اور پوروں کو دھونے کا ذکر بھی کیا، مگر ختنہ کرنے اور
مانگ نکالنے کا ذکر نہیں کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Cutting the nails and the mustache
is Sunnah and shaving other things (armpits
etc.) does not invalidate ablution

Hadith number: 684

Translation:

(684) (a) Syeduna Ibn Abbas (may Allah be
pleased with him) says about Allah's

instruction: { وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ }

{And [mention, O Muhammad], when Ibrahim
was tried by his Lord with words (i.e.,

commands)}

[Surah Baqarah 2:124]

Allah Almighty tested him with purity: five are related to the head and five are related to the body. The ones relating to the head are:

"Cutting the mustache, rinsing the mouth, putting water in the nose, using the miswak, combing the hair and the ones relating to the body are: Cutting the nails, shaving hair under the navel, circumcision, plucking armpit hair, washing the place of defecation and urination with water.

(B) Syeda Ayesha (may Allah be pleased with her) quotes the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) as saying: "Ten things are part of the **fitrah**, then he mentioned them and also mentioned about growing beard and washing the joints, but he did not mention circumcision and combing the hair.

[Sahih. Narrated by Hakim 2/293]

[Sharh] Explanation:

Imam an-Nawawi (may Allah have mercy on him) said:

With regard to the fitrah, there was a difference of scholarly opinion as to what is meant by it in this case. Abu Sulaymaan al-Khattaabi said: Most of the scholars are of the view that it is the Sunnah (the way). This was also mentioned by a number of scholars other than al-Khattaabi, who said: What it means is that it is part of the ways of the Prophets (blessings and peace of Allah be upon them). And it was said that it is part of the religion.

End quote from Sharh Muslim by an-Nawawi,
3/147

Sunan Kubra Bayhaqi 685

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ (٦٨٦)
الْمُرَكِّيُّ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِيَّ وَأَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ
بْنِ عَلِيٍّ الْإِسْفَرَايِينِيُّ قَالُوا أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى : زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَسَدٍ حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ
يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ - قَالَ ((: الْفِطْرَةُ خَمْسٌ ، أَوْ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ
الْخِتَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ ، وَتَقْلِيمُ
الْأَظْفَارِ)) .-

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ
عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرِهِ كُلِّهِمْ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: ناخن اور مونچھیں کاٹنا سنت ہے اور دیگر چیزیں (بغلیں

وغیرہ) مونڈنے سے وضو نہیں ہے

حدیث نمبر: 685

ترجمہ:

(: ۶۸۶) سیدنا ابوہریرہ ^{رض} سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا

فطرت پانچ چیزیں ہیں یا پانچ چیزیں فطرت میں سے ہیں

(دونوں میں سے ایک بات کہی) (:ختنہ کرنا 'لوہا استعمال کرنا

(زیر ناف بال مونڈنا ' (بغلوں کے بال اکھیڑنا 'مونچھیں کاٹنا

اور ناخن تراشنا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Cutting the nails and the mustache is

Sunnah and shaving other things (armpits

etc.) does not invalidate ablution

Hadith number: 685

Translation:

(685) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said : **Fitrah** is five things or five things are part of the **Fitrah** (he said one of the two) Circumcision, Using metal (for shaving pubic hair), cutting the armpit hair, cutting the moustache and clipping the nails.

[Sahih. Narrated by Bukhari 5889, 5891, 6297 and Muslim 257 and Nasai 9, 10, 11, 5227 and Abu Dawud 4198 and Tirmidhi 2756 and Ibn Majah 292 and Malik 49/3 and Ahmad 2/239]

Sunan Kubra Bayhaqi 686

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدٌ (٦٨٧)
بْنُ يَعْقُوبَ إِمْلاَئِ حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ أَبِي حَامِدٍ الْمُقْرِي حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ
بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَ ((: مِنَ السُّنَّةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ
وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ)) -
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي رَجَائٍ عَنْ
إِسْحَاقَ بْنِ سُلَيْمَانَ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: ناخن اور مونچھیں کاٹنا سنت ہے اور دیگر چیزیں

(بغلیں و غیرہ (مونڈنے سے وضو نہیں ہے

حدیث نمبر: 686

ترجمہ:

" (: ۶۸۷ (سیدنا ابن عمر رض سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا " مونچھیں کاٹنا 'بغلوں کے بال اکھیڑنا 'ناخن کاٹنا سنت ہے۔"

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Cutting the nails and the mustache is Sunnah and shaving other things (armpits etc.) does not invalidate ablution

Hadith number: 686

Translation:

(686) It is narrated from Ibn Umar (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "It is Sunnah to cut the mustache, to pluck the armpit hair, to cut the nails."

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 687

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِيُّ أَخْبَرَنَا (٦٨٨)
الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ
الْقَاضِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ
اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَ

((أَعْفُوا اللَّحْيَ ، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ)) (-) :
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
وَزَادَ فِيهِ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ : خَالَفُوا
الْمُشْرِكِينَ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: ناخن اور مونچھیں کاٹنا سنت ہے اور دیگر چیزیں (بغلیں
وغیرہ) (موندنے سے وضو نہیں ہے
حدیث نمبر: 687

:ترجمہ

(۶۸۸) (الف) (سیدنا ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے
" فرمایا " : داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کاٹو۔
(ب) (نافع سے روایت ہے کہ مشرکین کی مخالفت کرو۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Cutting the nails and the mustache is Sunnah and shaving other things (armpits etc.) does not invalidate ablution

Hadith number: 687

Translation:

(687) (a) It is narrated from Ibn Umar (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: “Grow the beard and trim the moustache.”

(B) It is narrated from Nafi that he differed from the polytheists.

[Sahih. Narrated by Bukhari 5893 and Muslim 259, 260 and Nasai 15, 5048, 5049, 5228 and Abu Dawud 4199 and Tirmidhi 2763 and Ahmad 2/16, 52, 157]

Sunan Kubra Bayhaqi 688

Arabic Text:

: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ (٦٨٩)
أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَيُّوبَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْمِنْهَالِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ
ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - ((: خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَقَرُّوا
اللِّحَى ، وَأَخْفُوا الشَّوَارِبَ)) (- رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ الْمِنْهَالِ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ سَهْلِ بْنِ عَثْمَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ
زُرَيْعٍ - وَرَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - إِلَّا أَنَّهُ قَالَ
((وَخَالِفُوا الْمَجُوسَ)) (-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: ناخن اور مونچھیں کاٹنا سنت ہے اور دیگر چیزیں (بغلیں وغیرہ) (مونڈنے سے وضو نہیں ہے

حدیث نمبر: 688

:ترجمہ

(۶۸۹) (الف) (سیدنا ابن عمر ^{رض} کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " :مشرکین کی مخالفت کرو اور داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کاٹو۔"

" (:ب) (ابو ہریرہ ^{رض} سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا " :مجوسیوں کی مخالفت کرو۔"

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Cutting the nails and the mustache is

Sunnah and shaving other things (armpits

etc.) does not invalidate ablution

Hadith number: 688

Translation:

(688) (a) Ibn Umar (may Allaah be pleased with him) said: The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: "Be different from the polytheists and grow your beard and cut your mustache."

(B) It is narrated from Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "Be different the Magians"

[Sahih. Narrated by Bukhari 5893 and Muslim 259, 260 and Nasai 15, 5048, 5049, 5228 and Abu Dawud 4199 and Tirmidhi 2763 and Ahmad 2/16, 52, 157]

Sunan Kubra Bayhaqi 689

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ (٦٩٠)
إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا يَحْيَى
بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ أَخْبَرَنَا الْعَلَاءِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ((جُرُّوا
الشَّوَارِبَ ، وَأَرْحُوا اللَّحَى ، وَخَالِفُوا الْمَجُوسَ)) (-)
مُخَرَّجٌ فِي كِتَابِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ
الْعَلَاءِيِّ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: ناخن اور مونچھیں کاٹنا سنت ہے اور دیگر چیزیں (بغلیں
وغیرہ) (مونڈنے سے وضو نہیں ہے
حدیث نمبر: 689

ترجمہ:

(: ۶۹۰) سیدنا ابوہریرہ ^{رض} سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا
مونچھیں کاٹو، داڑھی کو بڑھاؤ اور مجوسیوں کی مخالفت
کرو۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Cutting the nails and the mustache is
Sunnah and shaving other things (armpits
etc.) does not invalidate ablution

Hadith number: 689

Translation:

(689) It is narrated from Abu Hurayrah (may
Allah be pleased with him) that the Prophet
(peace and blessings of Allah be upon him)
said: "Trim your mustache, grow your beard
and be different from the Magians."

[Sahih. Narrated by Bukhari 5893 and Muslim
259, 260 and Nasai 15, 5048, 5049, 5228 and

Abu Dawud 4199 and Tirmidhi 2763 and Ahmad 2/16, 52, 157]

Sunan Kubra Bayhaqi 690

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ (٦٩١)
بْنِ هَانِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ : مُحَمَّدُ بْنُ شَادَانَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ
سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ
أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ
قَالَ أَنْسٌ : وَقَّتْ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ ، وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ

وَتَنْتَفِ الْإِبْطِ ، وَحَلَقِ الْعَانَةَ أَنْ لَا تَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. رَوَاهُ
مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: ناخن اور مونچھیں کاٹنا سنت ہے اور دیگر چیزیں (بغلیں
وغیرہ) (مونڈنے سے وضو نہیں ہے
حدیث نمبر: 690

:ترجمہ

(‘ ۶۹۱) (سیدنا انسؓ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے مونچھیں کاٹنا
ناخن تراشنا ‘بغلوں کے بال اکھیڑنا اور زیر ناف بال مونڈنے
کا وقت مقرر کیا گیا ہے کہ ہم چالیس رات سے زیادہ نہ
چھوڑیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Cutting the nails and the mustache is

Sunnah and shaving other things (armpits

etc.) does not invalidate ablution

Hadith number: 690

Translation:

(690) Syeduna Anas (may Allah be pleased with him) says that a time limit has been prescribed for us for clipping the moustache, cutting the nails, plucking hair under the armpits, shaving the pubes, that it should not be neglected far more than forty nights.

[Sahih. Narrated by Muslim 258 and Nasai 14 and Tirmidhi 2758, 2759 and Ibn Majah 295 and Ahmad 3/122, 203]

Sunan Kubra Bayhaqi 691

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : جَنَاحُ بْنُ نَذِيرِ بْنِ جَنَاحِ الْمُحَارِبِيِّ (٦٩٢)
بِالْكُوفَةِ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنِ دُحَيْمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ
أَبِي الْحُنَيْنِ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ
: مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرَانَ الْجَوْنِيَّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ
، وَقَتْنَا لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فِي حَلَقِ الْعَانَةِ وَقَصِّ الشَّارِبِ
وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَنَتْفِ الْإِبْطِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: ناخن اور مونچھیں کاٹنا سنت ہے اور دیگر چیزیں (بغلیں
وغیرہ) (مونڈنے سے وضو نہیں ہے
حدیث نمبر: 691

ترجمہ:

(٦٩٢) (سیدنا انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے

رسول اللہ ﷺ نے زیر ناف بال مونڈنے، مونچھیں کاٹنے، ناخن تراشنے اور بغلوں کے بال اکھیڑنے کا وقت چالیس دن مقرر کیا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Cutting the nails and the mustache is Sunnah and shaving other things (armpits etc.) does not invalidate ablution

Hadith number: 691

Translation:

(691) Syeduna Anas (may Allah be pleased with him) says that a time limit of forty days has been prescribed for us for shaving the pubes, clipping the moustache, cutting the nails, plucking hair under the armpits.

[Sahih. Narrated by Muslim 258 and Nasai 14 and Tirmidhi 2758, 2759 and Ibn Majah 295 and Ahmad 3/122, 203]

Sunan Kubra Bayhaqi 692

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو قَالَا (٦٩٣)
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ
حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ حَدَّثَنَا عِيسَى عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِي
مِجْلَزٍ قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ قَصَّ أَظْفَارَهُ فَقُلْتُ : أَلَا تَتَوَضَّأُ؟
فَقَالَ : مِمَّ اتَّوَضَّأْتُ لِأَنْتَ أَكْبَسُ فِي نَفْسِكَ مِمَّنْ سَمَّاهُ أَبْلُهُ
كَيْسًا.

وَرَوَيْنَا عَنْ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقْصُ أَظْفَارَهُ بَعْدَ
الْوَضُوءِ : يُؤْطَهُرُهُ.
وَعَنِ الْحَسَنِ : لَيْسَ فِيهِ وُضُوءٌ . وَعَنْ عَطَائٍ : أَمْسِسُهُ الْمَاءَ .
وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ .

وَعَنْ الزُّهْرِيِّ : إِنْ شَاءَ مَسَحَ عَلَيْهِ بِمَائٍ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: ناخن اور مونچھیں کاٹنا سنت ہے اور دیگر چیزیں (بغلیں وغیرہ) (مونڈنے سے وضو نہیں ہے

حدیث نمبر: 692

:ترجمہ

(۶۹۳) (الف) (ابومجلز سے روایت ہے کہ میں نے ابن عمرؓ کو دیکھا، انہوں نے ناخن کاٹے، میں نے کہا: آپ وضو کیوں نہیں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا: کس سے وضو کروں؟ تم خود کو زیادہ عقلمند سمجھتے ہو اس لیے کہ تمہارے خاندان نے تمہارا نام عقلمند رکھا ہے؟

(ب) (شعبی سے روایت ہے: وہ اس شخص کے بارے میں فرماتے ہیں جو اپنے ناخنوں کو وضو کے بعد کاٹتا ہے کہ یہ پاکیزگی) کا باعث ہے۔

(ج) (حسن کہتے ہیں: اس میں وضو نہیں ہے اور عطاء کہتے ہیں: اس کو پانی لگا یعنی وضو کر۔ زہری کہتے ہیں: اگر چاہے تو پانی سے اس پر مسح کر لے اور اگر چاہے تو

چھوڑ دے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Cutting the nails and the mustache is Sunnah and shaving other things (armpits etc.) does not invalidate ablution

Hadith number: 692

Translation:

(692) (A) It is narrated from Abu Majlis that I saw Ibn Umar (may Allah be pleased with him), he cut his nails, I said: Why don't you perform ablution? He said: Why should I perform ablution? Do you consider yourself wiser because your family has named you wise?

(B) There is a narration from Shubi: He says about a person who cuts his nails after ablution that it is a cause of purity.

(C) Hasan says: Ablution is not required for it

and Ata says: Put water on it i.e perform
ablution. Zuhri says: If you want, wipe it with
water and if you want, leave it.
[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 693

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ حَيَّانَ (٦٩٤)
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ : مُوسَى بْنُ
عَامِرٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ : فِيْمَنْ
قَلَّمَ أَظْفَارَهُ أَوْ قَصَّ شَارِبَهُ أَوْ جَزَّ شَعْرَهُ قَالَ : إِنْ شَاءَ مَسَحَ عَلَيْهِ
بِمَاءٍ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: ناخن اور مونچھیں کاٹنا سنت ہے اور دیگر چیزیں (بغلیں وغیرہ) (مونڈنے سے وضو نہیں ہے

حدیث نمبر: 693

:ترجمہ

(، ۶۹۴) (زہری اس شخص کے متعلق جو اپنے ناخن تراشے
مونچھیں کاٹے یا اپنے بال کاٹے فرماتے ہیں: اگر چاہے تو اس
پر پانی سے مسح کرے اور اگر چاہے تو چھوڑ دے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Cutting the nails and the mustache is

Sunnah and shaving other things (armpits

etc.) does not invalidate ablution

Hadith number: 693

Translation:

(693) Zuhri says about a person who cuts his nails, cuts his mustache or cuts his hair: If he wants, he can wipe over them with water and if he wants, he can leave it.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 694

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورِكَ أَخْبَرَنَا (٦٩٥)
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو
: دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ أَخْبَرَنِي أَبُو عَوْنٍ الثَّقَفِيُّ
- مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
رَأَى رَجُلًا طَوِيلَ الشَّارِبِ فَدَعَا بِسِوَاكِ

وَشَفْرَةَ ، فَوَضَعَ السِّوَاكَ تَحْتَ الشَّارِبِ وَقَصَّ عَلَيْهِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: مونچھیں کاٹنے کا طریقہ
حدیث نمبر: 694

:ترجمہ

(695) (سیدنا مغیرہ بن شعبہ رض سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی مونچھیں والے آدمی کو دیکھا تو مسواک اور چھری منگوائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک مونچھوں کے نیچے رکھی اور ان کو کاٹ دیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Method of trimming the moustache

Hadith number: 694

Translation:

(694) It is narrated on the authority of Syedna Mughira bin Shu'bah that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) saw a man with a long moustache and called for a miswak and a knife. Then he placed the miswak under his moustache and cut it.
[Daif (Weak). Narrated by Al-Tayalisi 698]

Sunan Kubra Bayhaqi 695

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ (٦٩٤)

جَعْفَرِ الْمُزَكِّي أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنَجِيُّ حَدَّثَنَا النَّفِيلِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَعْقِلِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - (الْمَجُوسَ فَقَالَ) : إِنَّهُمْ يُؤْفِرُونَ سِبَالَهُمْ وَيَخْلِقُونَ لِحَابِهِمْ فَخَالِفُوهُمْ ((-)) . قَالَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَعْرِضُ سِبَلَتَهُ فَيَجْرُبُهَا كَمَا تُجْرُ الشَّاةُ أَوْ يُجْرُ الْبَعِيرُ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: مونچھیں کاٹنے کا طریقہ
حدیث نمبر: 695

:ترجمہ

(696) (سیدنا عبداللہ بن عمر^{رض} فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک مجوسیوں کا ذکر کیا اور فرمایا " : وہ اپنی چادروں کو لٹکاتے ہیں اور داڑھیوں کو کاٹتے ہیں، تم ان کی مخالفت کرو ۔ راوی کہتا ہے کہ ابن عمر^{رض} اپنی چادر کو چوڑائی کے بل " لیتے تھے اور زائد کو کاٹ دیتے جس طرح بکری یا اونٹ کاٹا جاتا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Method of trimming the moustache

Hadith number: 695

Translation:

(695) Abdullah bin Umar (may Allah be pleased with him) says that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) mentioned one of the Magians and said: "They hang their cloaks and cut their beards. Be different from them." The narrator says that Ibn Umar (may Allah be pleased with him) used to tie his cloak width-wise and cut the excess like a goat or a camel is cut.

[Hasan (Fair). Narrated by Al-Tabarani in Mujam Awsat 1/51]

Sunan Kubra Bayhaqi 696

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَائِرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ (٦٩٧)
بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْفَرِّيَابِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَجَابِرَ
بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَابْنَ عُمَرَ وَرَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ وَأَبَا أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ
وَابْنَ الْأَكْوَعِ وَأَبَا رَافِعٍ يُنْهَكُونَ شَوَارِبَهُمْ حَتَّى الْخَلْقِ-
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: كَذَا وَجَدْتُهُ وَقَالَ غَيْرُهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُبَيْدِ
اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ وَقِيلَ ابْنِ رَافِعٍ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مونچھیں کاٹنے کا طریقہ

حدیث نمبر: 696

ترجمہ:

(696) (سیدنا عبید اللہ بن رافعؓ سے روایت ہے کہ میں نے سیدنا ابو سعید خدری، جابر بن عبد اللہ، ابن عمر، رافع بن خدیج، ابو اُسَید انصاری، ابن اکوع اور ابو رافعؓ کو دیکھا کہ وہ حلق تک مونچھیں بڑھاتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Method of trimming the moustache

Hadith number: 696

Translation:

(696) It is narrated on the authority of Ubaidullah ibn Rafi that I saw Abu Saeed al-Khudri, Jaber ibn' Abdullah, Ibn Umar, Rafi' ibn Khadij, Abu Usaid Ansari, Ibn Aku and Abu Rafiah (may Allah be pleased with them)

extend their mustaches up to till throats.
[Hasan (Fair). Narrated by Al-Tabarani in
Mujam Kabeer 668]

Sunan Kubra Bayhaqi 697

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ أَنْ خَبَرَنَا (٦٩٨)
أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّفَّارِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكِ حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْوَبَّابِ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشِ
حَدَّثَنَا شُرْحَبِيلُ بْنُ مُسْلِمِ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ : رَأَيْتُ خَمْسَةً مِنْ
أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - يَقْصُونَ شَوَارِبَهُمْ وَيُعْفُونَ

لِحَائِمٍ وَيُصَفِّرُونَهَا : أَبُو أَمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَسْرٍ ، وَعُتْبَةُ بْنُ
عَبْدِ السَّلْمِيِّ وَالْحَجَّاجُ بْنُ عَامِرِ الثَّمَالِيِّ وَالْمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِيكَرِبَ
الْكِنْدِيِّ ، كَانُوا يَقْضُونَ شَوَارِبَهُمْ مَعَ طَرَفِ الشَّفَةِ .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب : پاکی کا بیان
باب : مونچھیں کاٹنے کا طریقہ
حدیث نمبر : 697

:ترجمہ

(۶۹۸) (شرحیل بن مسلم خولانی فرماتے ہیں کہ میں نے پانچ
صحابہ کرامؓ کو دیکھا، جو اپنی مونچھوں کو کاٹتے تھے اور
داڑھی کو بڑھاتے تھے اور ان کو رنگ کرتے تھے اور امامہ
باہلی اور عبید اللہ بن بسر اور عتبہ بن عبد سلمیٰ اور حجاج بن
عامر شمالی اور مقدم بن معد یکرِب کندی یہ تمام حضرات
اپنی مونچھوں کو ہونٹ کی طرف سے کاٹتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Method of trimming the moustache

Hadith number: 697

Translation:

(697) Sharjeel bin Muslim Khulani says that I saw five Companions who cut their mustaches and grew their beards and dyed them. Umama Bahli and Ubaidullah bin Basr and Utbah bin Abdul Salmi and Hajjaj ibn Amir Shamali and Muqaddam ibn Ma'ad Yakrab Kundi all used to cut their mustaches towards their lips.

[Hasan (Fair). Narrated by Al-Tabarani in Mujam Kabeer 3218]

Sunan Kubra Bayhaqi 698

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ كَامِلٍ بْنِ (٦٩٩)
خَلْفِ الْقَاضِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْيسِيُّ قَالَ: ذَكَرَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ إِحْفَاءَ
بَعْضِ النَّاسِ شَوَارِبَهُمْ فَقَالَ مَالِكٌ: يَنْبَغِي أَنْ يُضْرَبَ مَنْ صَنَعَ
ذَلِكَ فَلَيْسَ حَدِيثُ النَّبِيِّ - ﷺ - فِي الْإِحْفَاءِ وَلَكِنْ يُبْدَى حَرْفَ
الشَّفَتَيْنِ وَالْفَمِ. قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: حَلَقُ الشَّارِبِ بِدَعَةٍ
ظَهَرَتْ فِي النَّاسِ. كَذَا قَالَ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان
باب: مونچھیں کاٹنے کا طریقہ
حدیث نمبر: 698

ترجمہ:

(698) Syeduna Malik ibn Anas ^{رض} نے بعض لوگوں کا مونچھیں جڑ سے صاف کرنے کا ذکر کیا امام مالک کہتے ہیں: ایسا شخص سرزنش کے لائق ہے جس نے ایسا کام کیا۔ کیونکہ نبی ﷺ سے سے مونچھیں جڑ سے اکھاڑنے کی کوئی حدیث نہیں ہے اور وہ دونوں ہونٹوں اور منہ کی طرف شروع کرے۔ مالک بن انس کہتے ہیں: مونچھوں کو جڑ سے مونڈنا بدعت ہے جو لوگوں میں ظاہر ہو چکی ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Method of trimming the moustache

Hadith number: 698

Translation:

(698) Syeduna Malik ibn Anas (may Allah have mercy on him) mentioned that some people clean their mustaches from the root. Imam Malik (may Allah have mercy on him) says: Such a person deserves to be

reprimanded for doing such a thing. Because there is no hadith from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) to trim the moustache from the roots and he should start towards both the lips and the mouth. Malik ibn Anas says: Shaving the moustache from the root is an innovation which has appeared among the people.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 699

Arabic Text:

وَقَدْ أَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذَبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ (٧٠٠)
دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ عَنْ
مَالِكِ

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ قُرَيْشٍ (ح)
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ
أَنَسٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ -
: أَنَّهُ أَمَرَ بِإِحْفَائِ الشَّوَارِبِ وَإِعْفَائِ اللَّحْيَةِ. لَفْظُ حَدِيثِ قُتَيْبَةَ
وَفِي حَدِيثِ الْقَعْنَبِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - أَمَرَ بِإِحْفَائِ ،

الشَّارِبِ وَإِعْفَائِ اللَّحْيِ -

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ -

وَرُوَيْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَعُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ

عَنْ نَافِعٍ -

وَكَانَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَمَلَ الْإِحْفَائِ الْمَأْمُورَ بِهِ فِي الْخَبْرِ عَلَى

الْأَخْذِ مِنَ الشَّارِبِ بِالْجَزْرِ دُونَ الْحَلْقِ ، وَإِنْكَارُهُ وَقَعَ لِلْحَلْقِ دُونَ

الْإِحْفَائِ ، وَالْوَهْمُ وَقَعَ مِنَ الرَّأْيِ عَنْهُ فِي إِنْكَارِ الْإِحْفَائِ

مُطْلَقًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى الْحَلْقِ زَعَمَ أَنَّهُ دَاخِلٌ فِي جُمْلَةِ

أَمْرِهِ بِالْإِحْفَائِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: مونچھیں کاٹنے کا طریقہ
حدیث نمبر: 699

ترجمہ:

(۷۰۰) (الف) (عبداللہ بن مسلمہ قعنبی مالک) رح (سے نقل فرماتے ہیں۔

ب) (سیدنا ابن عمر رض سے منقول کہ آپ ﷺ نے مونچھوں کو کاٹنے اور داڑھی کو بڑھانے کا حکم دیا اور قعنبی کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مونچھیں کاٹنے اور داڑھی کو بڑھانے کا حکم دیا ہے۔

ب) (گویا امام صاحب نے احفا سے مراد خوب اچھی طرح مونچھیں کاٹنا لیا ہے نہ کہ حلق۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Method of trimming the moustache

Hadith number: 699

Translation:

(699) (A) Abdullah ibn Muslimah Qanabi narrates from Malik (may Allah have mercy on him).

(B) It is narrated from Ibn Umar (may Allah be pleased with him) that he ordered to cut the moustache and grow the beard and there are words in the hadith of Qanabi that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) ordered to cut the moustache and grow the beard.

(B) It is as if the Imam means to cut the moustache very well, not the throat.

[Sahih. Narrated by Bukhari 5893 and Muslim 259, 260 and Nasai 15, 5048, 5049, 5228 and Abu Dawud 4199 and Tirmidhi 2763 and Ahmad 2/16, 52, 157]

Sunan Kubra Bayhaqi 700

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورِكَ أَخْبَرَنَا (٧٠١)
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ
الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا كَامِلٌ أَبُو الْعَلَاءِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ
أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ يَتَنَوَّرُ وَيَلِي عَانَتَهُ بِيَدِهِ -
أَسْنَدَهُ كَامِلٌ أَبُو الْعَلَاءِ وَأَرْسَلَهُ مَنْ هُوَ أَوْثَقُ مِنْهُ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: زائد بال صاف کرنے کا بیان
حدیث نمبر: 700

ترجمہ:

(۷۰۱) (سیدہ ام سلمہؓ سے روایت ہے کہ جب نبی ﷺ بال صاف فرماتے تو زیر ناف بال ہاتھ سے کاٹتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on cleaning the excess hair

Hadith number: 700

Translation:

(700) It is narrated from Syeda Umm Salamah (may Allah be pleased with her) that when the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) used to clean his hair, he used to cut the hair under his navel by hand.

[Daif (Weak). Narrated by Ibn Majah 3752]

Sunan Kubra Bayhaqi 701

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو قَالَا (٧٠٢)
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنِ سَفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ
عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ - يَلِي عَانَتَهُ بِيَدِهِ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: زائد بال صاف کرنے کا بیان
حدیث نمبر: 701

ترجمہ:

(٧٠٢) (حبیب بن ابی ثابتؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ زیر ناف
بال اپنے ہاتھ سے کاٹتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on cleaning the excess hair

Hadith number: 701

Translation:

(701) It is narrated from Habib bin Abi Thabit that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) used to cut the hair under the navel with his hand.

[Daif (Weak). Narrated by AbdulRazzaq 1127]

Sunan Kubra Bayhaqi 702

Arabic Text:

: وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكْرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ (٧٠٣)
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي
سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -
ﷺ - إِذَا تَنَوَّرَ وَلِيَ عَانَتَهُ بِيَدِهِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: زائد بال صاف کرنے کا بیان
حدیث نمبر: 702

:ترجمہ

(٧٠٣) (حبیب بن ابی ثابت سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ
بال صاف فرماتے تو زیر ناف بال اپنے ہاتھ سے کاٹتے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on cleaning the excess

hair

Hadith number: 702

Translation:

(702) It is narrated from Habib ibn Abi Thabit that when the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) used to clean his hair, he would cut the hair under his navel with his hand.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 703

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ (٧٠٤)
 عَبْدُ اللَّهِ الْجَرَّاحِيُّ بِمَرَوْ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ شَاسُوَيْهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ
 الْكَرِيمِ السُّكَّرِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ زَمْعَةَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عَبْدِ
 الْمَلِكِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ: مَا أَدْرِي مَنْ
 أَخْبَرَنِي عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - لَمْ يَتَنَوَّرْ -
 قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَهُوَ أَشْبَهُ الْأَمْرَيْنِ أَنْ لَا يَكُونَ - وَذَكَرَ الْحَدِيثَ
 الْآخَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - وَلِيَ عَانَتَهُ - فَقَالَ: بِذَا ضَعِيفٌ -
 قَالَ الشَّيْخُ الْحَدِيثُ فِيهِ مَا قَدَّمْتُهُ وَقَدْ رُوِيَ بِإِسْنَادٍ آخَرَ لَيْسَ
 بِالْمَعْرُوفِ بَعْضُ رِجَالِهِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: زائد بال صاف کرنے کا بیان
 حدیث نمبر: 703

ترجمہ:

(٧٠٤) (ابن مبارک فرماتے ہیں: میں نہیں جانتا مجھے قتادہ
 سے کس نے خبر دی کہ نبی ﷺ نے بال صفا پاؤڈر استعمال
 نہیں کیا۔

(ب) (اس حدیث کے آخر میں ہے کہ بال لوہے سے مونڈے

اور فرماتے ہیں: یہ روایت ضعیف ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on cleaning the excess hair

Hadith number: 703

Translation:

(703) Ibn Mubarak says: I do not know who informed me from Qatadah that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) did not use hair-cleansing powder.

(B) At the end of this hadith it says that the hair is shaved with iron and he says: This narration is weak

[Daif (Weak). Narrated by Ibn Sa'd in Al-Tabaqat 1/442]

Sunan Kubra Bayhaqi 704

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ (٧٠٥)
اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي
سُلَيْمَانُ بْنُ سَلَمَةَ الْحِمَاصِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ نَاشِرَةَ الْأَلْهَانِيُّ
قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ زِيَادِ الْأَلْهَانِيَّ يَقُولُ : كَانَ ثَوْبَانُ جَارًا
لَنَا ، وَكَانَ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ ، فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ : كَانَ النَّبِيُّ ﷺ - يَدْخُلُ
الْحَمَّامَ وَيَتَنَوَّرُ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان
باب: زائد بال صاف کرنے کا بیان
حدیث نمبر: 704

:ترجمہ

(۷۰۵) سلیمان بن ناشرہ ہانی فرماتے ہیں کہ میں نے محمد بن زیاد ہانی سے سنا کہ ثوبان ہمارا ہمسایہ تھا، وہ حمام جایا کرتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا: نبی اکرم ﷺ بھی حمام میں جایا کرتے تھے اور بال صاف کیا کرتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on cleaning the excess hair

Hadith number: 704

Translation:

(704) Sulaiman bin Nashra Hani says that I heard from Muhammad bin Ziyad Hani that Thawban was our neighbor, he used to go to the toilet. I asked him and he said: The Holy Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) used to go to the toilet and clean his hair.

[MAUDU (FABRICATED)]

Sunan Kubra Bayhaqi 705

Arabic Text:

وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَّاسِيْلِ عَنْ أَبِي كَامِلٍ الْجَحْدِرِيِّ (٧٠٦)
عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ: أَنَّ رَجُلًا
نَوَّرَ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - فَلَمَّا بَلَغَ الْعَانَةَ كَفَّ الرَّجُلُ ، وَنَوَّرَ رَسُولُ اللَّهِ
- ﷺ - نَفْسَهُ -.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان
باب: زائد بال صاف کرنے کا بیان
حدیث نمبر: 705

ترجمہ:

(۷۰۶) (ابو معشر سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ کے بال صاف کیے، جب آپ زیر ناف جگہ پر پہنچے تو شیخ صرک گیا اور رسول اللہ ﷺ نے خود بال صاف کیے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on cleaning the excess hair

Hadith number: 705

Translation:

(705) It is narrated from Abu Mushar that a man cleaned the hair of the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him), when he reached the place under the navel, he slipped away and the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) cleaned his hair himself.

[Daif (Weak). Narrated by Ibn Sa'd in Al-Tabaqat 1/442]

Sunan Kubra Bayhaqi 706

Arabic Text:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الْأَذْرَمِيِّ عَنْ عَبْدِ (٧٠٧)
الْوَهَّابِ بْنِ عَطَايٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - لَمْ
يَتَنَوَّرْ وَلَا أَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ وَلَا عُثْمَانُ -
وَكِلَابُهُمَا مُنْقَطِعٌ أَخْبَرَنَا بِهِمَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ الْفَسَوِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ اللَّوْلُؤِيُّ حَدَّثَنَا
أَبُو دَاوُدَ فَذَكَرَهُمَا.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى
كتاب: پاكى كا بيان
باب: زائد بال صاف كرنے كا بيان
حدیث نمبر: 706

ترجمہ:

(706) قتادة سے روایت ہے کہ نبی ﷺ اور ابو بکر و عمرو
عثمان رضی نے بال صفا پاؤڈر استعمال نہیں کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on cleaning the excess
hair

Hadith number: 706

Translation:

(706) It is narrated from Qatadah that the
Prophet (peace and blessings of Allah be
upon him) and Abu Bakr and Amr and Uthman
(may Allah be pleased with them) did

not use hair-cleansing powder.

[Daif (Weak). Narrated by Ibn Sa'd in Al-Tabaqat 1/442]

Sunan Kubra Bayhaqi 707

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنِ قَتَادَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّقَائِيُّ (٧٠٨)
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الطَّائِيُّ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا أَبُو
عَمَّارٍ : الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثِ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ
بْنِ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ السُّكَّرِيِّ عَنْ مُسْلِمِ الْمَلَائِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ - لَا يَتَنَوَّرُ ، فَإِذَا كَثُرَ شَعْرُهُ :

حَلَقَهُ۔

مُسْلِمُ الْمَلَائِي ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ فَإِنْ كَانَ حَفِظَهُ فَيُحْتَمَلُ
أَنْ يَكُونَ قَتَادَةَ أَخَذَهُ أَيْضًا مِنْ أَنَسٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔ وَقَدْ رُوِيَ
فِي ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ۔

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: زائد بال صاف کرنے کا بیان
حدیث نمبر: 707

ترجمہ:

(۷۰۸) (سیدنا انسؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ بال صفا پاؤڈر استعمال نہیں کرتے تھے، جب آپ ﷺ کے بال زیادہ ہوجاتے تو اس کو منڈوا دیتے۔

ب) (اس حدیث میں مسلم ملائی راوی ضعیف ہے اگر وہ اس کو حفظ کرتا تو احتمال تھا کہ قتادہ نے سیدنا انسؓ سے روایت کیا ہے۔ واللہ اعلم۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on cleaning the excess hair

Hadith number: 707

Translation:

(707) It is narrated from Syeduna Anas that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) did not use hair cleansing powder. When his hair would grow more, he would shave it.

(B) In this hadith, the Muslim Malay narrator is weak. If he had memorized it, it is possible that Qatadah narrated it from Syeduna Anas (may Allah be pleased with him). Allah knows best.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 708

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو (٧٠٩)
الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ
أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ اللَّيْثِيِّ عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
عُمَرَ كَانَ يَطْلِي، فَيَأْمُرُنِي أَطْلِيهِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ سُفْلَتَهُ وَلِيَهَا هُوَ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: زائد بال صاف کرنے کا بیان
حدیث نمبر: 708

ترجمہ:

(٧٠٩) (نافع کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر ^{رض} اپنے بدن کو تیل لگایا کرتے تھے، کبھی کبھار مجھے کہتے تو میں

تیل لگاتا۔ لیکن شرمگاہ پر خود لگاتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on cleaning the excess hair

Hadith number: 708

Translation:

(708) Nafi says that Abdullah ibn Umar (may Allah be pleased with him) used to apply oil on his body some times he would ask me to apply oil on him, so I would do it. But he used to apply it on his private parts himself.

[Hasan (Fair)]

Sunan Kubra Bayhaqi 709

Arabic Text:

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ (٧١٠)
عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَدْخُلُ الْحَمَّامَ ، وَكَانَ يَتَنَوَّرُ
فِي الْبَيْتِ وَيَلْبَسُ إِزَارًا ، وَيَأْمُرُنِي أَطْلِي مَا ظَهَرَ مِنْهُ ، ثُمَّ
يَأْمُرُنِي أَنْ أُؤَخِّرَ عَنْهُ فَيْلِي فَرَجَهُ .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: زائد بال صاف کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 709

ترجمہ:

(٧١٠) (نافع کہتے ہیں کہ سیدنا ابن عمرؓ بال صاف کرنے کے لیے حمام نہ جاتے بلکہ کمرے ہی میں کرلیا کرتے تھے اور ازار باندھتے تھے اور بدن کے ظاہری اعضا کی بابت مجھے حکم کرتے کہ میں صاف کروں تو میں لگاتا پھر حکم دیتے

کہ میں پیچھے ہٹوں تو وہ اپنی شرمگاہ پر خود لگاتے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on cleaning the excess hair

Hadith number: 709

Translation:

(709) Nafi says that Ibn Umar (may Allah be pleased with him) did not go to the toilet to clean his hair, rather he used to do it in his room and he used to tie a waist wrapper and he used to order me to clean the external parts of the body. Then I would apply it (oil) and then he would order me to move back, then would apply it (oil) on his private parts himself.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 710

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ (٧١١)
بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
يُوسُفَ حَدَّثَنَا مَالِكُ

ح (وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ
بْنُ عُبَيْدِ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا
مَالِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَائِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ
يَتَوَضَّأْ .

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ
عَنِ الْقَعْنَبِيِّ .

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاكى كا بيان

باب: آگ پر پكى چيزوں سے وضو نہ کرنے كا بيان

حدیث نمبر: 710

:ترجمہ

(710) (سیدنا عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ

نے بکری کے کندھے کا گوشت کھایا، پھر نماز پڑھی اور

وضو نہیں کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on not performing ablution
after eating things cooked with fire

Hadith number: 710

Translation:

(710) It is narrated on the authority of Abdullah
bin Abbas (may Allah be pleased with him)

that the Prophet (peace and blessings of Allah
be upon him) ate the meat

of a goat's shoulder, then offered prayers and did not perform ablution.

[Sahih. Narrated by Bukhari 207 and Muslim 354 and Nasai 184 and Abu Dawud 187 and Ibn Majah 488 and Malik 2/17 and Ahmad 1/226]

Sunan Kubra Bayhaqi 711

Arabic Text:

: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (٧١٢)

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَائٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -
قَالَ يَعْنِي بِشَامٌ وَحَدَّثَنِي الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ ابْنِ عَبَّاسٍ -

قَالَ يَعْنِي بِشَامٌ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - أَكَلَ كَتِفًا أَوْ لَحْمًا ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ
يُمَضِّضْ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً -
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ زُبَيْرِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ
سَعِيدِ الْقَطَّانِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: آگ پر پکی چیزوں سے وضو نہ کرنے کا بیان
حدیث نمبر: 711

:ترجمہ

(۷۱۲) (سیدنا ابن عباس^{رض} سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے بکری
کے کندھے کا گوشت کھایا پھر کوئی اور گوشت کھایا

نماز پڑھی، نہ کلی کی اور نہ ہی پانی کو چھوا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on not performing ablution after eating things cooked with fire

Hadith number: 711

Translation:

(711) It is narrated on the authority of Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) ate the meat of a goat's shoulder and then ate another piece of meat. He prayed, did not rinse his mouth nor did he touch water.

[Sahih. Narrated by Bukhari 207 and Muslim 354 and Nasai 184 and Abu Dawud 187 and Ibn Majah 488 and Malik 2/17 and Ahmad 1/226]

Sunan Kubra Bayhaqi 712

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو قَالَا (٧١٣)
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ
الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَمْرٍو بْنِ عَطَائٍ قَالَ : كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي بَيْتِ
مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ - فِي الْمَسْجِدِ فَجَعَلَ يَعْجَبُ مِمَّنْ يَزْعُمُ
أَنَّ الْوُضُوءَ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ ، وَيَضْرِبُ فِيهِ الْأَمْثَالَ وَيَقُولُ : إِنَّا
نَسْتَحِمُّ بِالْمَاءِ الْمُسَخَّنِ وَنَتَوَضَّأُ بِهِ ، وَنَدْبِنُ بِالذُّهْنِ الْمَطْبُوعِ -
وَذَكَرَ أَشْيَاءَ مِمَّا يُصِيبُ النَّاسُ مِمَّا

قَدْ مَسَّتِ النَّارُ ، ثُمَّ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُنِي فِي بَدَا الْبَيْتِ عِنْدَ رَسُولِ
اللَّهِ - ﷺ - وَقَدْ تَوَضَّأْتُ ثُمَّ لَبَسْتُ ثِيَابَهُ فَجَاءَهُ الْمُؤَدِّنُ فَخَرَجَ إِلَى
الصَّلَاةِ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي الْحُجْرَةِ خَارِجًا مِنَ الْبَيْتِ لَقِيْتُهُ بِدِيَّةٍ
عُضْوٍ مِنْ شَاةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ ثُمَّ صَلَّى وَمَا مَسَّ :
مَائًا -

، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ
وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ شَهِدَ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: آگ پر پکی چیزوں سے وضو نہ کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 712

:ترجمہ

(۷۱۳) محمد بن عمرو بن عطای فرماتے ہیں: میں سیدنا ابن
عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر مسجد میں تھا۔ لوگ اس
شخص پر حیران ہوئے جو کہتا تھا کہ آگ پر پکی ہوئی چیز
سے وضو ہے، لوگ مثالیں بیان کرنے لگے اور کہنے لگے:
ہم گرم پانی سے نہاتے تھے اور وضو کرتے تھے

اور ہم مطبوخ تیل استعمال کرتے تھے۔
اور چیزوں کا بھی ذکر کیا جن کو لوگ استعمال کرتے تھے
اور وہ آگ پر پکی ہوتی تھیں۔ فرماتی ہیں: میں نے اس گھر
میں رسول اللہ ﷺ کو دیکھا ہے، آپ ﷺ نے وضو کیا، پھر
کپڑے پہنے۔ مؤذن آیا تو آپ ﷺ نماز کے لیے حجرے میں
تشریف لائے جو گھر سے باہر تھا، آپ ﷺ کو بکری کا گوشت
پیش کیا گیا، آپ ﷺ نے اس سے ایک یا دو لقمے کھائے۔ پھر
نماز پڑھی اور پانی کو نہیں چھوا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on not performing ablution
after eating things cooked with fire

Hadith number: 712

Translation:

(712) Muhammad ibn Amr ibn Ata'i says: I
was in the mosque with Ibn Abbas (may Allah
be pleased with him) in the house of Syeda
Maimuna (may Allah be pleased with her).
People were amazed at the person who used

to say that ablution is required after eating something cooked on fire. People started giving examples and saying: We used to bathe in hot water and perform ablutions and we used cooking oil.

He also mentioned the things that people used and they were cooked on fire. She said: I saw the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) in this house. He performed ablution and then dressed himself. When the muezzin came, he went for prayers which was outside the house. He was offered goat meat. He ate one or two bites from it. Then he prayed and did not touch water.

[Sahih. Narrated by Muslim 359]

Sunan Kubra Bayhaqi 713

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ : عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ (٧١٤)
بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ : عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيٍّ
بْنِ مُكْرَمٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي
: جَعْفَرُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ أَبَاهُ عَمْرٍو بْنَ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ
أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ ، فَدُعِيَ
إِلَى الصَّلَاةِ فَأَلْقَابَا وَالسِّكِّينَ الَّتِي كَانَ يَحْتَزُّ بِهَا ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى
وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ .

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: آگ پر پکی چیزوں سے وضو نہ کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 713

ترجمہ:

(۷۱۴) سیدنا عمرو بن امیہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا، آپ ﷺ اپنے ہاتھ سے بکری کے کندھے کو کاٹ رہے تھے۔ پھر نماز کی اقامت کہی گئی تو آپ ﷺ نے اس کو اور چھری کو پھینک دیا اور جاکر نماز پڑھائی، لیکن وضو نہیں کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on not performing ablution after eating things cooked with fire

Hadith number: 713

Translation:

(713) Amr ibn Umayyah says: I saw the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) cutting off the shoulder of

a goat with his hand. Then the iqamah of the prayer was said, he threw it and the knife away and went and offered the prayer, but did not perform the ablution.

[Sahih. Narrated by Bukhari 208, 675, 2923, 5408, 5422, 5462 and Muslim 355 and Tirmidhi 1836 and Ibn Majah 490 and Ahmad 4/139, 179, 5/288]

Sunan Kubra Bayhaqi 714

Arabic Text:

: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (٧١٥)

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى
الْمِصْرِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ
ابْنِ شِهَابٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ
، قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا
فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَامَ وَطَرَحَ السِّكِّينَ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .
قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - بِذَلِكَ .

قَالَ عَمْرُو حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ الْأَشْجِ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ
عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - أَكَلَ عِنْدَهَا كَتِفًا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ
يَتَوَضَّأْ .

قَالَ عَمْرُو وَحَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْأَشْجِ عَنْ
كُرَيْبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - بِذَلِكَ .

قَالَ عَمْرُو وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي بِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ
اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي غَطَفَانَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ : أَشْهَدُ لَكُنْتُ
أَشْوَى لِرَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - بَطْنَ الشَّاةِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِي

حَدِيثِ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ يَعْقُوبَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ مَيْمُونَةَ وَهُوَ
الصَّحِيحُ ، وَذَكَرُ ابْنُ عَبَّاسٍ فِيهِ زِيَادَةٌ وَهِيَ -

وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ حَدِيثَ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشْجِ عَنْ أَصْبَغِ بْنِ الْفَرَجِ
عَنِ ابْنِ وَهْبٍ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: آگ پر پکی چیزوں سے وضو نہ کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 714

:ترجمہ

(الف) (۷۱۵) (جعفر بن عمرو بن امیہ ضمیری اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو) (بھنی ہوئی) (بکری کا کندھا کاٹتے ہوئے دیکھا، پھر آپ ﷺ نے اس کو کھایا، پھر جب نماز کی اقامت کہی گئی تو آپ ﷺ کھڑے ہوئے اور چھری کو پھینک دیا، پھر نماز پڑھائی لیکن وضو نہیں کیا۔)

(ب) (سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنے والد سے اور وہ رسول اللہ ﷺ سے اسی طرح بیان کرتے ہیں۔)

(ج) (سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے بکری کا) (بھنا ہوا) (کندھا کھایا، پھر نماز پڑھی لیکن وضو نہیں کیا۔)

(د) (ابو رافع سے روایت ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے لیے بکری کا پیٹ بھونا تھا، پھر

آپ ﷺ کھڑے ہوئے، نماز پڑھی لیکن وضو نہیں کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on not performing ablution after eating things cooked with fire

Hadith number: 714

Translation:

(714) (a) Jafar ibn Amr ibn Umayyah Zamri narrates from his father that I saw the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) cutting off the shoulder of a (roasted) goat, then he ate it, then the iqamah of prayer was said, he stood up and threw his knife, then led the prayer but did not perform ablution.

(B) Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) narrates the same from his father and from the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him).

(C) It is narrated from Syeda Maimuna (may Allah be pleased with her) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) ate the (roasted) shoulder of a goat, then offered prayer but did not perform ablution.

(D) It is narrated from Abu Rafi that I testify that I roasted a goat's belly for the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him), then he stood up and offered prayer but did not perform ablution.

[Sahih. Narrated by Bukhari 208, 675, 2923, 5408, 5422, 5462 and Muslim 355 and Tirmidhi 1836 and Ibn Majah 490 and Ahmad 4/139, 179, 5/288]

Sunan Kubra Bayhaqi 715

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ (٧١٦)
إِمْلَاءً وَأَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قِرَاءَةً قَالَ حَدَّثَنَا
أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ
الصَّغَانِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ حَدَّثَنَا
زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ عَنْ عِكْرِمَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ
-بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ سَمِعْنَا عَائِشَةَ تَذْكُرُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
كَانَ يَمُرُّ عَلَى الْقَدْرِ فَيَأْخُذُ مِنْهَا الْعَرَقَ فَيَأْكُلُ مِنْهُ ، ثُمَّ يَنْطَلِقُ
إِلَى الصَّلَاةِ وَمَا يَتَوَضَّأُ وَلَا يُمَضِّمُ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى
كتاب: پاکی کا بیان
باب: آگ پر پکی چیزوں سے وضو نہ کرنے کا بیان
حدیث نمبر: 715

ترجمہ:

(۷۱۶) عکرمہ اور عبداللہ بن ابی ملیکہ فرماتے ہیں: ہم نے سیدہ عائشہؓ سے سنا کہ رسول اللہ ﷺ ہانڈی کے پاس سے گزرے اس سے شوربا لے کر کھایا، پھر نماز کے لیے تشریف لے گئے اور نہ وضو کیا، نہ کلی۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on not performing ablution after eating things cooked with fire

Hadith number: 715

Translation:

(715) Ikrimah and Abdullah ibn Abi Malika say: We heard from Ayesha (may Allah be pleased with her) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) passed by a cooking pot and ate some soup from it. Then went for prayer and did not perform ablution nor did he rinse his mouth.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 716

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ (٧١٧)
السُّكْرِيُّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ
بْنُ مَنْصُورِ الرَّمَادِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ
-سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - ﷺ - أَخْبَرَتْهُ : أَنَّهَا قَرَّبَتْ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ -
جَنْبًا مَشْوِيًّا فَأَكَلَهُ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ
وَهَكَذَا رَوَاهُ الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنِ ابْنِ
-جُرَيْجٍ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: آگ پر پکی چیزوں سے وضو نہ کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 716

ترجمہ:

(۷۱۶) سیدہ ام سلمہ ^{رض} نے خبر دی کہ انہوں نے نبی ﷺ کو بھنی ہوئی چانپ پیش کی، آپ ﷺ نے کھایا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے لیکن وضو نہیں کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on not performing ablution after eating things cooked with fire

Hadith number: 716

Translation:

(716) Syeda Umm Salma (may Allah be pleased with her) reported that she offered fried ribs to the Prophet (peace and blessings

of Allah be upon him). He ate, then stood up for prayer but did not perform ablution.

[Sahih. Narrated by Nasai 183 and Tirmidhi 1829]

Sunan Kubra Bayhaqi 717

Arabic Text:

وَرَوَاهُ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ (٧١٨)
يُوسُفَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - بِنَحْوِهِ
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ فَذَكَرَهُ
وَرَوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ وَزَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ
سَلَمَةَ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: آگ پر پکی چیزوں سے وضو نہ کرنے کا بیان
حدیث نمبر: 717

:ترجمہ

(۷۱۸) نبی ﷺ سے اسیسیدہ ام سلمہ^{رض} پچھلی روایت کی طرح
بیان فرماتی ہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on not performing ablution
after eating things cooked with fire

Hadith number: 717

Translation:

(717) Asidah Umm Salma (may Allah be pleased with her) narrates from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) like the previous narration.

[Sahih. Narrated by Abu Yala 6985]

Sunan Kubra Bayhaqi 718

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ مِنْ (٧١٩)
أَصْلِ كِتَابِهِ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ
بْنِ حَرْبِ الطَّائِي حَدَّثَنَا أَبُو جَدِّي عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ

النَّبِيِّ - ﷺ - أَكَلَ لَحْمًا فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَسُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ وَمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ وَأَبِي بُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِي ، وَالْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزِيِّ الزُّبَيْدِيِّ ، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَغَيْرِهِمْ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - .
قَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ : وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - : ((:الْوَضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ)) . (- وَإِنَّمَا أَرَادَ مَا -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: آگ پر پکی چیزوں سے وضو نہ کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 718

:ترجمہ

(۷۱۹) (الف) (سیدنا جابر^{رض} سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے

گوشت کھایا پھر نماز پڑھی لیکن وضو نہیں کیا۔

(ب) (ابو عبد اللہ شافعی) رح (فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ سے

روایت کیا گیا ہے کہ جس چیز کو آگ نے چھوا ہو اس

سے وضو ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on not performing ablution after eating things cooked with fire

Hadith number: 718

Translation:

(718) (A) It is narrated from Syeduna Jabir (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) ate meat and then offered prayer but did not perform ablution.

(B) Abu Abdullah Shafi'i (may Allah be pleased with him) says that it has been narrated from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) that ablution is required after eating anything that is touched by fire.

[Sahih. Narrated by Ahmad 3/307]

Sunan Kubra Bayhaqi 719

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ (٧٢٠)
الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنِي
اللَيْثُ بْنُ سَعْدٍ
ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ وَاللَّفْظُ لَهُ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ
شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ عَقِيلِ قَالَ قَالَ ابْنُ
شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
الْحَارِثِ بْنِ بِشَامٍ أَنَّ خَارِجَةَ بْنَ زَيْدِ الْأَنْصَارِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ
زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - يَقُولُ ((:الْوَضُوءُ
مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ)) -).

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
إِبْرَاهِيمَ بْنَ قَارِظٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ وَجَدَ أَبَا بُرَيْرَةَ يَتَوَضَّأُ عَلَى
الْمَسْجِدِ فَقَالَ : إِنَّمَا اتَّوَضَّأَ مِنْ أَثْوَارِ أَقِطٍ أَكَلْتُهَا ، لِأَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ - ﷺ - قَالَ ((: تَوَضَّأُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ)) -.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عُثْمَانَ
وَأَنَا أَحَدْتُهُ بِذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ سَأَلَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الْوَضُوءِ
مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ قَالَ عُرْوَةُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -
ﷺ - ((: تَوَضَّأُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ)) -.

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ شُعَيْبٍ. وَفِي
-الْبَابِ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - ﷺ - وَأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - ﷺ -
وَأَبِي طَلْحَةَ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَأَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ
وَغَيْرِهِمْ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -.

قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ : وَإِنَّمَا قُلْنَا لَا
يَتَوَضَّأُ مِنْهُ لِأَنَّهُ عِنْدَنَا مَنْسُوخٌ ، الْأَتْرَى أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
عَبَّاسٍ وَإِنَّمَا صَحِبَهُ بَعْدَ الْفَتْحِ يَرَوِي عَنْهُ : أَنَّهُ رَأَاهُ يَأْكُلُ
مِنْ كَتْفِ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. وَبِذَا عِنْدَنَا مِنْ أُبَيِّنِ الدَّلَالَاتِ
عَلَى أَنَّ الْوَضُوءَ مِنْهُ مَنْسُوخٌ ، أَوْ أَنَّ أَمْرَهُ بِالْوَضُوءِ مِنْهُ
بِالْغَسْلِ لِلتَّنْظِيفِ ، وَالتَّابِتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - أَنَّهُ لَمْ
يَتَوَضَّأْ مِنْهُ ، ثُمَّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ
وَعَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ وَأَبِي بَنٍ كَعْبٍ وَأَبِي طَلْحَةَ كُلُّهُ بَوْلًا لَمْ
يَتَوَضَّأُوا مِنْهُ.

قَالَ الشَّيْخُ : أَمَّا الطَّرِيقَةُ الْأُولَى فَالِإِيهَا ذَبَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ

الْعُلَمَاءِ وَاحْتَجُّوا فِيهَا بِمَا احْتَجَّ بِهِ الشَّافِعِيُّ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ
ثُمَّ بِرِوَايَةِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ
وَأَبِي بُرَيْرَةَ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: آگ پر پکی چیزوں سے وضو نہ کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 719

ترجمہ:

(۷۲۰) (الف) (سیدنا زید بن ثابت^{رض} فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس چیز کو آگ نے چھوا ہو اس سے وضو ہے۔

(ب) (عبداللہ بن ابراہیم بن قارظ نے خبر دی کہ سیدنا ابوہریرہ نے مسجد میں وضو کرتے ہوئے فرمایا: میں پنیر کا ٹکڑا کھانے سے وضو کر رہا ہوں، اس لیے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " وضو کرو ہر اس چیز سے جس کو آگ نے چھوا ہو۔

" (: ج) (سیدہ عائشہ^{رض} فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وضو کرو ہر اس چیز سے جس کو آگ نے چھوا

ہو۔ ابو عبد اللہ شافعی (رح) فرماتے ہیں کہ وضو نہیں کیا جائے گا: اس لیے کہ وہ ہمارے نزدیک منسوخ ہے۔ کیا تمہیں علم نہیں کہ عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا کندھا کھایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ یہ ہمارے نزدیک واضح دلیل ہے کہ وضو کرنا منسوخ ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف صفائی کے لیے ہاتھ دھونے کا حکم دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو نہیں کیا، پھر ابوبکر، عمر، عثمان، ابن عباس، عامر بن ربیعہ ابوبن کعب اور ابی طلحہ رضی اللہ عنہم ان تمام حضرات نے بھی وضو نہیں کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on not performing ablution after eating things cooked with fire

Hadith number: 719

Translation:

(719) (A) Zayd ibn Thabit (may Allah be pleased with him) said: I have heard the

Messenger of Allah (may peace be upon him) say that ablution is required from that which is touched by fire.

(B) Abdullah ibn Ibrahim ibn Qariz (may Allah be pleased with him) reported that Syeduna Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) while performing ablution in the mosque said: I am performing ablution because I have eaten a piece of cheese, because the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: "Perform ablution after (eating) anything that has been touched by fire."

(C) Aisha (may Allah be pleased with her) said: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: "Perform ablution after (eating) anything that has been touched by fire." Abu Abdullah Shafi'i (may Allah have mercy on him) says that ablution is not required: because, according to us, this (ruling) is mansukh (abrogated). Do you not know that Abdullah bin Abbas (may Allah be pleased with him) became the Prophet

(peace and blessings of Allah be upon him)'s companion after the conquest of Makkah and narrates from him that he ate the shoulder of a goat, then he prayed and did not perform ablution. This is a clear proof to us that ablution is abrogated or he ordered washing of the hands only for cleaning purposes and what has been proven from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) is that he did not perform ablution, then Abu Bakr, Umar, Uthman, Ibn Abbas, Amir ibn Rabi'ah, Abu ibn Kab and Abi Talhah (may Allah be pleased with them) also did not perform ablution.

[Sahih. Narrated by Muslim 351, 352, 353 and Nasai 171-181 and Abu Dawud 195 and Ibn Majah 485-487 and Ahmad 6/326, 327]

Sunan Kubra Bayhaqi 720

Arabic Text:

أَمَّا حَدِيثُ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدٌ (٧٢١)
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو نَصْرِ : أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْقَاضِي قَالَ أَخْبَرَنَا
أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ
بْنُ عِيَّاشٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : كَانَ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -
ﷺ - تَرَكَ الْوُضُوءَ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: آگ پر پاکی چیزوں سے وضو نہ کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 720

ترجمہ:

(۷۲۱) (سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ) فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا آخری حکم یہ تھا کہ جس چیز کو آگ سے چھوا ہے اس سے وضو نہ کریں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on not performing ablution after eating things cooked with fire

Hadith number: 720

Translation:

(720) Jabir ibn Abdullah (may Allah be pleased with him) said: The last command of the Messenger of Allah (may peace be upon him) was not to perform ablution after (eating) anything that has been touched by fire.

[Sahih. Narrated by Nasai 185 and Abu

Sunan Kubra Bayhaqi 721

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ (٧٢٢)
الْأَصَمُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ
عِيَّاشٍ فَذَكَرَ إِسْنَادَهُ بِنَحْوِهِ قَالَ: كَانَ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - أَنَّهُ أَكَلَ خُبْزًا وَلَحْمًا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاكى كا بيان

باب: آگ پر پكى چيزوں سے وضو نہ کرنے كا بيان

حديث نمبر: 721

:ترجمہ

(721) (علی بن عیاش نے اسی سند سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا آخری حکم کہ آپ ﷺ نے روٹی اور گوشت کھایا پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on not performing ablution after eating things cooked with fire

Hadith number: 721

Translation:

(721) Ali ibn Ayyash has narrated from the same chain of transmission that the last command of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) was that he

ate bread and meat, then offered prayer and did not perform ablution.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 722

Arabic Text:

وَأَمَّا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ فَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ (٧٢٣)
الرُّوَدُبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ : مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ
الْفَقِيهِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ حَيَّانَ الْعَجَلِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي
خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ قَالَ : أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - مِمَّا غَيْرَتِ
النَّارُ ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ، وَكَانَ آخِرَ أَمْرِيهِ -
وَقَالَ غَيْرُهُ يُونُسُ بْنُ أَبِي خَلْدَةَ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ

قال: أكل رسول الله ﷺ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاکی کا بیان

باب: آگ پر پکی چیزوں سے وضو نہ کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 722

:ترجمہ

(۷۲۳) (سیدنا محمد بن مسلمہ رض سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس چیز کو کھایا جس کو آگ نے تبدیل کر دیا تھا۔ پھر آپ ﷺ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا اور یہ آپ ﷺ کا آخری حکم تھا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on not performing ablution after eating things cooked with fire

Hadith number: 722

Translation:

(722) It is narrated on the authority of Muhammad ibn Muslimah that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) ate that which was changed by fire. Then he prayed and did not perform ablution and this was his last command.

[Daif (Weak). Narrated by Al-Tabarani in Mujam Awsat 1208]

Sunan Kubra Bayhaqi 723

Arabic Text:

وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي بُرَيْرَةَ فَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ : أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ (٧٢٤)
 الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ : إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
 إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الضَّيْبِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ
 : الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّرَّاورِدِيُّ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بُرَيْرَةَ
 أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَتَوَضَّأُ مِنْ ثَوْرٍ أَقِطٍ ، ثُمَّ رَأَهُ أَكَلَ
 مِنْ كَتِفِ شَاةٍ ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: آگ پر پکی چیزوں سے وضو نہ کرنے کا بیان
 حدیث نمبر: 723

:ترجمہ

(٧٢٤) (سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ پنیر کے ٹکڑے (کھانے سے) وضو کر رہے ہیں، پھر انہوں نے آپ ﷺ کو دیکھا کہ آپ نے بکری کا کندھا کھایا، پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on not performing ablution after eating things cooked with fire

Hadith number: 723

Translation:

(723) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that he saw the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) performing ablution after (eating) a piece of cheese, then he saw him eating the shoulder of a goat, then praying and not performing ablution.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence). Narrated by Ahmad 1/322]

Sunan Kubra Bayhaqi 724

Arabic Text:

وَرَوَاهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ سُهَيْلٍ فَقَالَ فِي الْحَدِيثِ (٧٢٥)
أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - ثَوْرَ أَقِطٍ فَتَوَضَّأَ ، وَأَكَلَ كَتِفًا وَلَمْ يَتَوَضَّأَ . :
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ فَذَكَرَهُ .
وَذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى الطَّرِيقَةِ الثَّانِيَةِ وَزَعَمُوا أَنَّ حَدِيثَ
، أَبِي بُرَيْرَةَ مَعْلُومٌ وَفُتْوَاهُ بَعْدَ وَفَاةِ النَّبِيِّ ﷺ - بِالْوَضُوءِ مِنْهُ
وَأَنَّ رِوَايَةَ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ
اِخْتِصَارٌ مِنَ الْحَدِيثِ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ
وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ .
قَالَ وَحَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ قَالَ قُرِئَ عَلَيَّ ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَكَ
أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ

بِنِ عَبْدِ اللَّهِ: ذَبَبَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إِلَى امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَمَعَهُ
 أَصْحَابُهُ فَقَرَّبَتْ لَهُ شَاةً مَصْلِيَّةً قَالَ فَأَكَلَ وَأَكَلْنَا ، ثُمَّ حَانَتْ
 الظُّهُرُ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى فَضْلِ طَعَامِهِ ، فَأَكَلَ ثُمَّ
 حَانَتْ الْعَصْرُ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأَ .
 بِكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، وَيَرَوْنَ أَنَّ آخَرَ
 أَمْرِيهِ أُرِيدَ بِهِ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ ، قَالَهُ أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ
 وَغَيْرُهُ ، وَكَذَلِكَ يَرَوْنَ حَدِيثَ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ .
 وَقَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ مَا يُؤَبِّهُمُ أَنْ يَكُونَ النَّاسِخُ إِجَابَ
 الوُضُوءِ مِنْهُ .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: آگ پر پکی چیزوں سے وضو نہ کرنے کا بیان
 حدیث نمبر: 724

ترجمہ:

(الف) (۷۲۵) (سیدنا سہیل سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے پنیر
 کے ٹکڑے کھائے تو وضو کیا اور) بھنا ہوا (کندھا کھایا وضو
 نہیں کیا۔

(ب) (سیدنا جابر بن عبد اللہؓ سے روایت ہے کہ رسول

اللہ ﷺ ایک انصاری عورت کے پاس گئے، آپ ﷺ کے ساتھ صحابہ بھی تھے تو ایک بھونی ہوئی بکری آپ ﷺ کو پیش کی، گئی۔ راوی کہتا ہے: آپ ﷺ نے کھائی اور ہم نے بھی کھائی (پھر) نماز (ظہر کا وقت ہو گیا تو آپ ﷺ نے وضو کیا، پھر نماز پڑھی، پھر بچے ہوئے کھانے کی طرف واپس آئے۔ آپ ﷺ نے کھایا: پھر عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تو آپ ﷺ نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on not performing ablution after eating things cooked with fire

Hadith number: 724

Translation:

(724) (A) It is narrated from Syeduna Sohail that he (the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him)) ate pieces of cheese, he performed ablution and he did not perform ablution after eating (roasted) shoulder.

(B) It is narrated from Syeduna Jabir bin

Abdullah (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) went to an Ansari woman and he was accompanied by his companions, a roasted goat was presented to him. The narrator says: He ate and we ate too, then it was time for Zuhr (prayer), then he performed ablution, then he prayed, then he returned to the leftover food. He ate: Then it was time for Asr prayer, then he offered prayer and did not perform ablution.

[Sahih]

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوَدْبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ (٧٢٦)
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ
سَعْدٍ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ جُبَيْرَةَ بْنِ مَحْمُودِ بْنِ أَبِي جُبَيْرَةَ
الْأَنْصَارِيُّ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ عَنْ أَبِيهِ جُبَيْرَةَ بْنِ مَحْمُودٍ عَنْ
سَلَمَةَ بْنِ سَلَامَةَ بْنِ وَقْشٍ ، وَكَانَ آخِرَ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ -
ﷺ ، لَا يَكُونُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ فَإِنَّهُ بَقِيَ بَعْدَهُ : أَنَّهُمَا دَخَلَا وَلِيْمَةَ
وَسَلَمَةَ عَلَى وُضُوءٍ ، فَأَكَلُوا ثُمَّ خَرَجُوا ، فَتَوَضَّأَ سَلَمَةُ
فَقَالَ لَهُ جُبَيْرَةُ : أَلَمْ تَكُنْ عَلَى وُضُوءٍ ؟ قَالَ : بَلَى وَلَكِنِّي
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - وَخَرَجْنَا مِنْ دَعْوَةٍ دُعِينَا لَهَا ، وَرَسُولُ اللَّهِ -
ﷺ - عَلَى وُضُوءٍ ، فَأَكَلْتُ ثُمَّ تَوَضَّأْتُ ، فَقُلْتُ لَهُ : أَلَمْ تَكُنْ عَلَى
وُضُوءٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ ((: بَلَى وَلَكِنَّ الْأُمُورَ تَحْدُثُ وَهَذَا
مِمَّا حَدَّثَ)) -
وَإِلَى مِثْلِ هَذَا ذَهَبَ الزُّهْرِيُّ وَهُوَ فِيْمَا -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان

باب :آگ پر پکی چیزوں سے وضو نہ کرنے کا بیان

حدیث نمبر :725

:ترجمہ

(۷۲۶) (سیدنا سلمہ بن سلامہ بن وقش رض کا طغری سے روایت ہے اور وہی آخری صحابی ہیں انس بن مالک رض آخری نہیں تھے کیونکہ وہ ان کے بعد بھی زندہ رہے۔ دونوں حضرات، ولیمہ کے لیے گئے۔ سلمہ رض باوضو تھے۔ انہوں نے کھانا کھایا، پھر نکلے تو سیدنا سلمہ رض نے وضو کیا۔ سیدنا جبیرہ نے ان سے کہا :کیا آپ کا وضو نہیں تھا؟ انہوں نے کہا :کیوں نہیں لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا، پھر وضو کیا، میں نے ان سے عرض کیا :اے اللہ کے رسول !کیا آپ کا وضو نہیں تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا " :کیوں نہیں، لیکن " نئے احکام آتے رہتے ہیں اور یہ نیا حکم ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on not performing ablution after eating things cooked with fire

Hadith number: 725

Translation:

(725) It is narrated from Syeduna Salma ibn Salamah ibn Waqsh from Tughri and he is the last companion and Anas ibn Malik (may Allah be pleased with him) was not the last because he lived after him. Both of them went to an event. Salma had ablution. They ate, then went out and Salma performed ablution. Syeduna Jabira said to him: Didn't you have ablution? He said: Why not! But I saw the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) eat, then perform ablution. I said to him: O Messenger of Allah! Didn't you have ablution? He said: "Why not, but new commands keep coming and this is a new command."

[Daif Jiddan (Very Weak). Narrated by Hakim 3/473]

Sunan Kubra Bayhaqi 726

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي أَخْبَرَنَا أَبُو (٧٢٧)
سَهْلٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادِ الْقَطَّانِ أَخْبَرَنَا أَبُو
يَحْيَى: عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنِي شُعَيْبٌ
عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ أَبَاهُ عَمْرُو
بْنَ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - يَحْتَزُّ مِنْ كَتْفِ شَاةٍ فِي
، كَيْنَ الَّتِي كَانَ يَحْتَزُّ بِهَا يَدِهِ ، فَدَعَى إِلَى الصَّلَاةِ ، فَأَلْقَابَا وَالسَّ
ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَذَهَبَتْ تِلْكَ فِي النَّاسِ ، ثُمَّ أَخْبَرَ رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - وَنِسَائٍ مِنْ أَزْوَاجِهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - قَالَ: تَوَضَّأُوا
مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوَدْبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ قَالَ قَالَ أَبُو
سَعِيدٍ يَعْنِي عُثْمَانَ بْنَ سَعِيدٍ الدَّارِمِيَّ -

فَهَذِهِ الْأَحَادِيثُ قَدْ اِخْتَلَفَ فِيهَا وَاجْتَلَفَ فِي الْأَوَّلِ وَالْآخِرِ مِنْهَا
 فَلَمْ نَقِفْ عَلَى النَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ مِنْهَا بَيِّنًا بَيْنَ نَحْكُمُ بِهِ دُونَ
 مَا سِوَاهُ فَانظَرْنَا إِلَى مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ
 وَالْأَعْلَامُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - فَأَخَذْنَا بِاجْتِمَاعِهِمْ فِي
 -الرُّخْصَةِ فِيهِ- وَالْحَدِيثِ الَّذِي يُرْوَى فِيهِ الرُّخْصَةُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: آگ پر پکی چیزوں سے وضو نہ کرنے کا بیان
 حدیث نمبر: 726

ترجمہ:

(۷۲۷) (الف) عمرو بن امیہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا۔ آپ اپنے ہاتھ سے بکری کا کندھا کاٹ رہے تھے، تھے، پھر آپ نماز کی طرف بلائے گئے، آپ ﷺ نے اس کو اور چھری کو پھینک دیا۔ پھر کھڑے ہوئے، نماز پڑھائی لیکن وضو نہیں کیا۔

(ب) (زہری کہتے ہیں: نبی ﷺ نے فرمایا " ہر اس چیز سے وضو کرو جس کو آگ نے چھوا ہو۔"

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on not performing ablution after eating things cooked with fire

Hadith number: 726

Translation:

(726) (a) Amr ibn Umayyah says: I saw the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him). He was cutting the goat's shoulder with his hand, then he was called to prayer, he threw it and the knife away. Then he stood up, led the prayer but did not perform ablution.

(B) Zuhri says: The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "Perform ablution after (eating) anything that has been touched by fire."

[Sahih. Narrated by Bukhari 208, 675, 2923,

5408, 5422, 5462 and Muslim 355 and
Tirmidhi 1836 and Ibn Majah 490 and Ahmad
4/139, 179, 5/288]

Sunan Kubra Bayhaqi 727

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدٌ (٧٢٨)
بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ
حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ : وَهَبُ بْنُ كَيْسَانَ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ
بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَكَلَ
لَحْمًا ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: آگ پر پکی چیزوں سے وضو نہ کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 727

:ترجمہ

(628) سیدنا جابر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں: میں نے ابوبکر صدیقؓ کو دیکھا، انہوں نے گوشت کھایا پھر نماز پڑھی لیکن وضو نہیں کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on not performing ablution after eating things cooked with fire

Hadith number: 727

Translation:

(727) Syeduna Jabir bin Abdullah (may Allah

be pleased with him) says: I saw Abu Bakr Siddiq (may Allah be pleased with him), he ate meat and then offered prayers but did not perform ablution.

[Sahih. Narrated by Malik 2/25]

Sunan Kubra Bayhaqi 728

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا (٧٢٩)
عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ عَائِشَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَأَبِي
الزُّبَيْرِ جَمِيعًا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ أَبَا

بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَكْلًا خُبْرًا وَلَحْمًا فَصَلِّيًا وَلَمْ
يَتَوَضَّأَ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: آگ پر پکی چیزوں سے وضو نہ کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 728

:ترجمہ

(۷۲۹) (سیدنا جابر بن عبداللہ^{رض} سے روایت ہے کہ ابوبکر
صدیق^{رض} اور عمر بن خطاب^{رض} نے روٹی اور گوشت کھایا، پھر
نماز پڑھی لیکن وضو نہیں کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on not performing ablution
after eating things cooked with fire

Hadith number: 728

Translation:

(728) It is narrated from Jabir bin Abdullah (may Allah be pleased with him) that Abu Bakr Siddiq and Umar bin Khattab (may Allah be pleased with them) ate bread and meat, then offered prayer but did not perform ablution. [Sahih. Narrated by Tahawi 1/41]

Sunan Kubra Bayhaqi 729

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوَدْبَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ (٧٣٠)
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا
مَالِكٌ عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدِ الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ : أَنَّ
عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَكَلَ خُبْزًا وَلَحْمًا ثُمَّ مَضَمَضَ وَغَسَلَ يَدَيْهِ
-وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: آگ پر پکی چیزوں سے وضو نہ کرنے کا بیان
حدیث نمبر: 729

ترجمہ:

(٧٣٠) (سیدنا ابان بن عثمان سے روایت ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان نے روٹی اور گوشت کھایا، پھر کلی کی اور ہاتھ دھوئے اور اپنے چہرے پر مسح کیا، پھر نماز پڑھی لیکن وضو نہیں کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi
Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on not performing ablution after eating things cooked with fire

Hadith number: 729

Translation:

(729) It is narrated on the authority of Ibn Uthman that Uthman ibn Affan (may Allah be pleased with him) ate bread and meat, then rinsed his mouth and washed his hands and wiped his face, then offered prayer but did not perform ablution.

[Sahih. Narrated by Malik 2/22]

Sunan Kubra Bayhaqi 730

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذِبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ (٧٣١)
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيِّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ
أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ طَعِمَ خُبْزًا وَلَحْمًا فَقِيلَ لَهُ: أَلَا تَتَوَضَّأُ؟
فَقَالَ: إِنَّ الْوُضُوءَ مِمَّا خَرَجَ وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: آگ پر پکی چیزوں سے وضو نہ کرنے کا بیان
حدیث نمبر: 730

ترجمہ:

(٧٣١) (سیدنا علیؑ سے روایت ہے کہ انہوں نے روٹی اور گوشت کھایا تو ان سے کہا گیا: آپ وضو کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا: وضو نکلنے والی چیز سے داخل ہونے والی

سے نہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on not performing ablution after eating things cooked with fire

Hadith number: 730

Translation:

(730) It is narrated from Syeduna Ali (may Allah be pleased with him) that when he ate bread and meat, he was asked: Why don't you perform ablution? He said: Ablution is not (rendered invalid) from the thing that enters but from the thing that comes out.

[Hasan (Fair)]

Sunan Kubra Bayhaqi 731

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو قَالَا (٧٣٢)
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي ابْنَ عَطَايٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ
: مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ مَوْلَى عُثْمَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ
وَقَفْتُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ إِذْ جَاءَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ يَا
ابْنَ عَبَّاسٍ أَتَدْرِي مِمَّا تَوَضَّأْتُ؟ قَالَ : لَا. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : مِنْ
ثَوْرِ أَقِطٍ أَكَلْتَهُ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : مِمَّا أَبَالِي مِمَّا تَوَضَّأْتُ ، وَاللَّهِ
لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - أَكَلَ خُبْزًا وَلَحْمًا ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ
وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: آگ پر پکی چیزوں سے وضو نہ کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 731

ترجمہ:

(۷۳۲) (سیدنا سلیمان بن یسار سے روایت ہے کہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی کے پاس کھڑا تھا اور وہ وضو کر رہے تھے، اچانک ابن عباس رضی بھی آگئے۔ انہوں نے فرمایا: اے ابن عباس! کیا آپ جانتے ہیں میں نے وضو کیوں کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا: نہیں! ابو ہریرہ رضی نے فرمایا: میں نے پنیر کے ٹکڑے کھائے تھے۔ ابن عباس رضی نے فرمایا: میں پروا نہیں کرتا تم نے کس لیے وضو کیا ہے؟ اللہ کی قسم! میں نے رسول اللہ کو روٹی اور گوشت کھاتے ہوئے دیکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے لیکن وضو نہیں کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on not performing ablution after eating things cooked with fire

Hadith number: 731

Translation:

(731) It is narrated from Syeduna Sulaiman bin Yasar that I was standing next to Syeduna Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) and he was performing ablution, suddenly Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) also came. He said: O Ibn Abbas! Do you know why I performed ablution? He said: No! Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) said: I ate pieces of cheese. Ibn Abbas said: I do not care why you have performed ablution. By Allah! I saw the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) eating bread and meat. Then he stood up for prayer but did not perform ablution.

[Sahih. Narrated by Ahmad 1/361]

Sunan Kubra Bayhaqi 732

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو (٧٣٣)
الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ
عَطَائٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا وُضُوئٌ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، إِنَّمَا
النَّارُ بَرَكَةٌ، وَالنَّارُ مَا تُحِلُّ مِنْ شَيْءٍ وَلَا تُحَرِّمُهُ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان
باب: آگ پر پاکی چیزوں سے وضو نہ کرنے کا بیان
حدیث نمبر: 732

:ترجمہ

(۷۳۳) عطاء سے روایت ہے کہ ابن عباسؓ فرماتے ہیں: جس چیز کو آگ نے چھوا ہے اس سے وضو نہیں ہے، آگ تو برکت والی ہے اور آگ کسی چیز کو نہ حلال کرتی ہے نہ حرام۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on not performing ablution after eating things cooked with fire

Hadith number: 732

Translation:

(732) It is narrated on the authority of Ata that Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) said: Ablution from that which is touched by fire is not required. Fire is blessed and fire does not make anything halal or haram.

[Sahih. Narrated by AbdulRazzaq 653]

Sunan Kubra Bayhaqi 733

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَدْلُ (٧٣٤)
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمُزَكِّي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ مُوسَى
بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ الْأَنْصَارِيِّ : أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ
قَدِمَ مِنَ الْعِرَاقِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو طَلْحَةَ وَأَبِيُّ بَنُ كَعْبٍ ، فَقَرَّبَ
، إِلَيْهِمَا طَعَامًا قَدْ مَسَّتْهُ النَّارُ ، فَأَكَلُوا مِنْهُ ، فَقَامَ أَنَسٌ فَتَوَضَّأَ
فَقَالَ لَهُ أَبُو طَلْحَةَ وَأَبِيُّ بَنُ كَعْبٍ : مَا بَدَا يَا أَنَسُ أَعِرَاقِيَّةٌ؟ فَقَالَ
- أَنَسٌ : لَيْتَنِي لَمْ أَفْعَلْ -
وَقَامَ أَبُو طَلْحَةَ وَأَبِيُّ بَنُ كَعْبٍ فَصَلَّيَا وَلَمْ يَتَوَضَّيَا -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: آگ پر پکی چیزوں سے وضو نہ کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 733

ترجمہ:

(۷۳۴) عبد الرحمن بن زید انصاری سے روایت ہے کہ سیدنا انس بن مالکؓ عراق سے آئے تو ان کے پاس سیدنا ابوطالحہ اور ابی بن کعبؓ تشریف لائے۔ انہوں نے ان کی خدمت میں کھانا پیش کیا جو آگ پر پکا تھا۔ انہوں نے اس سے کھایا، پھر سیدنا انسؓ کھڑے ہوئے اور وضو کیا تو سیدنا ابوطالحہؓ اور سیدنا ابی بن کعبؓ نے کہا: اے انس! یہ کیا عراقیوں جیسا فعل ہے؟ سیدنا انسؓ نے فرمایا: کاش! میں یہ نہ کرتا۔ سیدنا ابوطالحہ اور ابی بن کعبؓ کھڑے ہوئے، نماز ادا کی لیکن وضو نہیں کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on not performing

ablution after eating things cooked with fire
Hadith number: 733

Translation:

(733) It is narrated from Abdul Rahman bin Zayd Ansari that when Anas bin Malik (may Allah be pleased with him) came from Iraq, Abu Talha and Abi bin Ka'b (may Allah be pleased with them) came to him. They served him food which was cooked on fire. They ate from it, then Anas (may Allah be pleased with him) stood up and performed ablution, then Abu Talhah and Abi bin Ka'b said: O Anas! What is this tradition of the Iraqis? Syeduna Anas (may Allah be pleased with him) said: I wish I didn't do this (ablution)! Abu Talhah and Abi Bin Ka'b stood up and offered prayer but did not perform ablution.

[Sahih. Narrated by Malik 2/27]

Sunan Kubra Bayhaqi 734

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ (٧٣٤)
يَعْقُوبَ بْنَ يُوسُفَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ
يَعْنِي ابْنَ عَطَايٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ : أَنَّهُمَا
أَكَلَا مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ خُبْرًا وَلَحْمًا وَلَمْ يَتَوَضَّيَا.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاكى كا بيان

باب: آگ پر پكى چيزوں سے وضو نہ کرنے كا بيان

حدیث نمبر: 735

:ترجمہ

(۷۳۶) (علقمہ اور اسود سے روایت ہے ان دونوں نے سیدنا ابن مسعودؓ کے ساتھ روٹی اور گوشت کھایا اور وضو نہیں کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on not performing ablution after eating things cooked with fire

Hadith number: 735

Translation:

(735) It is narrated from Alqamah and Aswad that they both ate bread and meat with Ibn Masud (may Allah be pleased with him) and did not perform ablution.

[Hasan (Fair)]

Sunan Kubra Bayhaqi 736

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ (٧٣٧)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ وَمُسَدَّدٌ
وَالْحَجَبِيُّ-

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ
بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْبِ بْنِ مَوْبِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ جَابِرِ

بْنِ سَمُرَةَ : أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - أَتَوْضَأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟
: قَالَ ((: إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَتَوَضَّأْ)) . (قَالَ
أَتَوْضَأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ)) : نَعَمْ ، فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ
: الْإِبِلِ ((. قَالَ : أَصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ)) : نَعَمْ ((. قَالَ
أَصَلِّي فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ؟ قَالَ)) : لَا ((.

لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي كَامِلٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي
كَامِلٍ وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَشْعَثِ بْنِ أَبِي الشَّعَثَاءِ
وَسِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ -
وَذَهَبَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ إِلَى أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ أَبِي ثَوْرٍ هَذَا
مَجْهُولٌ

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ
إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَائِينِيَّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْبَرَائِي قَالَ قَالَ
عَلِيٌّ : جَعْفَرُ هَذَا مَجْهُولٌ كَذَا قَالَ عَلِيٌّ . وَقَدْ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ
بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَبُو
أَحْمَدَ بْنُ فَارِسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ قَالَ : جَعْفَرُ
بْنُ أَبِي ثَوْرٍ جَدُّ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ .

قَالَ سُفْيَانُ وَزَكَرِيَّا وَزَائِدَةُ عَنْ سِمَاكِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي
ثَوْرٍ بِنِ جَابِرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - فِي اللَّحُومِ -
قَالَ وَقَالَ أَهْلُ النَّسَبِ : وَلَدُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ : خَالِدٌ وَطَلْحَةُ
وَمَسْلَمَةٌ وَهُوَ أَبُو ثَوْرٍ -

قَالَ وَقَالَ شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ عَنْ أَبِي ثَوْرٍ بِنِ عِكْرَمَةَ بْنِ جَابِرٍ
بِنِ سَمُرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ .

قَالَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ فِيْمَا بَلَغَنِي عَنْهُ : حَدِيثُ الثَّوْرِيِّ أَصَحُّ
 مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ ، وَشُعْبَةُ أَخْطَأَ فِيهِ فَقَالَ عَنْ أَبِي ثَوْرٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ
 جَعْفَرُ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ ، وَجَعْفَرُ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ هُوَ رَجُلٌ مَشْهُورٌ وَهُوَ
 مِنْ وُلْدِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ ، رَوَى عَنْهُ سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ وَعُثْمَانُ
 بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ وَأَشْعَثُ بْنُ أَبِي الشَّعْثَاءِ .
 قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُرَيْمَةَ : وَبِوُلايِ الثَّلَاثَةِ مِنْ أَجَلِّهِ
 رُوَاةُ الْحَدِيثِ .

قَالَ الشَّيْخُ : وَمَنْ رَوَى عَنْهُ مِثْلُ بُوْلَايِ خَرَجَ مِنْ أَنْ يَكُونَ
 مَجْهُولًا ، وَلِهَذَا أُوْدِعَهُ مُسْلِمٌ بْنُ الْحَجَّاجِ كِتَابَهُ الصَّحِيحَ . وَقَدْ
 رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ أَنْبَأَنِي مَنْ سَمِعَ
 جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ : كُنَّا نُمَضِّمُ مِنَ الْبَانَ الْإِبِلِ وَلَا
 نُمَضِّمُ مِنَ الْبَانَ الْغَنَمِ ، وَكُنَّا نَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ ، وَلَا
 نَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ .

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

كتاب: پاکی کا بیان

باب: اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا

حدیث نمبر: 736

:ترجمہ

(۷۳۷) (سیدنا جابر بن سمرہ^{رض} سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا: کیا میں بکری کا گوشت کھا کر وضو کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "اگر تو چاہتا ہی تو کر لے اور اگر تو نہیں چاہتا تو نہ کر۔" پھر اس نے پوچھا: کیا میں اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "ہاں اونٹ کے گوشت سے وضو کر۔" اس نے عرض کیا: میں بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "ہاں" پھر پوچھا: کیا میں اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھ لوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "نہیں۔"

(ب) (سیدنا جابر بن سمرہ^{رض} کہتے ہیں کہ ہم اونٹ کا دودھ پینے کے بعد کلی کرتے تھے اور بکری کا دودھ پی کر کلی نہیں کرتے تھے اور ہم اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرتے تھے اور اور بکری کا گوشت کھانے سے وضو نہیں کرتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Performing ablution after eating camel meat

Hadith number: 736

Translation:

(736) It is narrated from Syeduna Jabir bin Samra (may Allah be pleased with him) that a man asked the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him): Should I perform ablution after eating goat meat? The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: Perform it (ablution) if you so desire, and if you do not wish then do not perform it. Then he asked: Should I perform ablution (after eating) camel meat? He said: "Yes, perform ablution after (eating) camel meat." He said: Yes. Then he said: May I pray in the sheepfolds? He (the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him)) said: Yes. Then he asked: Can I pray in the camel enclosure? He said: "No."

(B) Syeduna Jabir bin Samra (may Allah be pleased with him) said: We used to rinse our mouths after drinking camel's milk and we did not rinse our mouth after drinking goat's

milk and we used to perform ablution after eating camel meat and we would not perform ablution after eating goat's meat.
[Sahih. Narrated by Muslim 360]

Sunan Kubra Bayhaqi 737

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحُسَيْنِ (٧٣٨)
الْكَرَّابِيسِيَّ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ
حَمْدُونَ الْأَعْمَشِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحَسَنِ الْأَفْطَسَ يَقُولُ
رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَسَنِ يَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ. وَقَدْ

رُويَ مِنْ أَوْجِهٍ أُخْرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا

حدیث نمبر: 737

:ترجمہ

(۷۳۸) علی بن حسن افسطس کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن حسن کو دیکھا، وہ اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Performing ablution after eating camel meat

Hadith number: 737

Translation:

(737) Ali ibn Hasan Aftas says that I saw

Muhammad ibn Hasan, he used to perform
ablution after eating camel meat.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 738

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا الْأُسْتَاذُ أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ (٧٣٩)
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو
دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى لِقْرِيشِ
: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ

سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ - عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ فَأَمَرَ بِهِ ، وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ فَنَهَى عَنْهَا.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا

حدیث نمبر: 738

ترجمہ:

(۷۳۹) (سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ سے اونٹ کے گوشت سے وضو کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ ﷺ نے وضو کا حکم دیا اور اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ ﷺ نے منع فرما دیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Performing ablution after eating camel meat

Hadith number: 738

Translation:

(738) Syeduna Bara ibn Azib (may Allah be pleased with him) said: When the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) was asked about ablution from (eating) camel meat, he ordered ablution and when asked about praying in a camel enclosure, he forbade it.

[Sahih. Narrated by Abu Dawud 184, 493 and Tirmidhi 81 and Ibn Majah 494 and Ahmad 4/288]

Sunan Kubra Bayhaqi 739

Arabic Text:

وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ مَوْلَى لِقْرِيشٍ عَنِ ابْنِ أَبِي (٧٤٠)
لَيْلَى عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - سُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ
مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ فَرَخَّصَ فِي الْوُضُوءِ مِنْهَا ، وَسُئِلَ عَنِ
الصَّلَاةِ فِي مَرَابِضِهَا فَرَخَّصَ فِيهَا.

بَكْدًا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
الرَّازِيِّ-

وَرَوَاهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
أَبِي لَيْلَى عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ-

وَالْحَجَّاجُ ضَعِيفٌ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيثُ الْأَعْمَشِ أَصَحُّ.
قَالَ: وَرَوَاهُ عُبَيْدَةُ الضَّبِّيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
أَبِي لَيْلَى عَنْ ذِي الْغُرَّةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - وَلَيْسَ بِشَيْءٍ -
وَذُو الْغُرَّةِ لَا يُدْرَى مَنْ هُوَ ، وَحَدِيثُ الْأَعْمَشِ أَصَحُّ-

قَالَ الشَّيْخُ: وَعُبَيْدَةُ الضَّبِّيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، وَبَلَّغَنِي عَنْ أَحْمَدَ
بْنِ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيِّ أَنَّهُمَا قَالَا: قَدْ صَحَّ فِي
بَدَا الْبَابِ حَدِيثَانِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - حَدِيثُ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ
وَحَدِيثُ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ-

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ: أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ حَزِيمَةَ

لَمْ نَرَ خِلَافًا بَيْنَ عُلَمَائِهِ أَهْلِ الْحَدِيثِ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ صَحِيحٌ مِنْ
جِهَةِ النَّقْلِ لِعَدَالَةِ نَاقِلِيهِ-

: قَالَ الشَّيْخُ : وَرَوَيْنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ
الْوَضُوءُ مِمَّا خَرَجَ وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ- وَإِنَّمَا قَالَا ذَلِكَ فِي تَرْكِ
الْوَضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا

حدیث نمبر: 739

:ترجمہ

(۷۴۰) (سیدنا براء بن عازب^{رض} سے روایت ہے کہ نبی ﷺ سے
بکری کا گوشت کھانے سے وضو کرنے کے متعلق سوال کیا
گیا تو آپ ﷺ وضو کرنے کی رخصت دی اور ان کے باڑے
میں نماز پڑھنے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ ﷺ نے رخصت
دی۔

شیخ کہتے ہیں سیدنا علی اور ابن عباس^{رض} سے روایت کیا گیا
ہے کہ جو چیز نکلے اس سے وضو ہے (بول و براز وغیرہ)
اور جو چیز داخل ہو (کھانا وغیرہ) اس سے وضو

نہیں اور دونوں حضرات فرماتی ہیں کہ جس چیز کو آگ نے
چھوا ہو (یعنی چیز آگ پر پکی ہو (اس کے) کھانے (سے)
وضو نہیں ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Performing ablution after eating
camel meat

Hadith number: 739

Translation:

(739) It is narrated on the authority of Bara ibn
Azib (may Allah be pleased with him) that the
Prophet (peace and blessings of Allah be
upon him) was asked about performing
ablution after eating goat meat, he gave leave
(to not perform ablution) and he was asked
about praying in the sheepfolds and he
allowed it.

Shaykh(may Allah be pleased with him) said:
It was narrated from 'Ali and Ibn' Abbaas

(may Allah be pleased with them) that ablution is required for what comes out (defecation, urination, etc.) and ablution is not rendered invalid for what enters (food etc.) and both of them say if something is touched by fire (i.e. the thing is cooked on fire) then there is no ablution required for (eating) it.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence)]

Sunan Kubra Bayhaqi 740

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ الْمِهْرَجَانِيُّ بِهَا (٧٤١)
 أَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلٍ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُمَانَ الرَّازِيُّ بِهَا حَدَّثَنَا
 مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ أَخْبَرَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ
 عَمْرَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ : أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ بِقِصْعَةٍ
 مِنَ الْكَبِدِ وَالسَّنَامِ لَحْمِ الْجَزُورِ ، فَأَكَلَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ . وَهَذَا مُنْقَطِعٌ
 وَمَوْقُوفٌ .

وَرُوِيَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَأْكُلُ مِنَ
 الْأَوَانِ الطَّعَامِ وَلَا يَتَوَضَّأُ مِنْهُ . وَبِمِثْلِ هَذَا لَا يُتْرَكُ مَا ثَبَتَ عَنْ
 رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .-

وَقَدْ حَمَلَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ الْوُضُوءَ الْمَذْكُورَ فِي الْخَبْرِ عَلَى
 الْوُضُوءِ الَّذِي هُوَ النَّظَافَةُ وَنَفَى الزُّهْمَةَ .-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب : پاکی کا بیان

باب : اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا

حدیث نمبر : 740

:ترجمہ

(٧٤١) (الف) (ابو جعفر فرماتے ہیں کہ ابن مسعودؓ کے پاس
 ، جگر اور کوہان یعنی اونٹ کے گوشت کا پیالہ لایا گیا

انہوں نے کھایا پھر وضو نہیں کیا۔ یہ روایت منقطع اور

موقوف ہے۔

(ب) ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن مسعودؓ مختلف قسم کے کھانے کھاتے تھے اور وضو نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح ہر اسچیز کو نہیں چھوڑا جائے گا جو رسول اللہ ﷺ سے ثابت ہے۔ پچھلی روایات جن میں وضو کا ذکر ہے انہیں فقہاء نے لطافت پر محمول کیا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Performing ablution after eating camel meat

Hadith number: 740

Translation:

(740) (a) Abu Jafar says that Ibn Masud was brought liver and a pot of camel meat, he ate and then did not perform ablution. This tradition is broken and mawquf.

(B) Abu Ubaidah says that Abdullah ibn Masud (may Allah be pleased with him) used

to eat different kinds of food and did not perform ablution. In the same way, nothing that has been proven by the Messenger of Allah will be left out. The previous traditions which mention ablution have been adopted by the jurists for cleanliness purposes.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 741

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِسْحَاقُ بْنُ (٧٤٢)
: مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ السُّوسِيَّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيَّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ
النَّبِيلُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - شَرِبَ لَبَنًا فَمَضْمَضَ وَقَالَ : إِنَّ
لَهُ دَسْمًا -

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهِ
آخَرَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب : پاکی کا بیان

باب : دودھ پینی اور چکناہٹ والی چیز کھانے کے بعد کلی کرنا

حدیث نمبر : 741

:ترجمہ

(٧٤٢) (سیدنا ابن عباس^{رض} سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے دودھ پیا
" تو کلی کی اور فرمایا " : اس میں چکناہٹ ہے -

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Rinsing the mouth after drinking milk and eating something containing grease

Hadith number: 741

Translation:

(741) It is narrated on the authority of Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) drank milk and rinsed his mouth and said: "It contains greasiness."

[Sahih. Narrated by Bukhari 211, 5609 and Muslim 358 and Nasai 187 and Abu Dawud 196 and Tirmidhi 89 and Ibn Majah 498 and Ahmad 1/223, 227, 329, 337, 373]

Sunan Kubra Bayhaqi 742

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ (٧٤٣)
وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ
حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ قَالَ قُرِئَ عَلَيَّ ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَكَ
عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
-عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
شَرِبَ لَبَنًا ، ثُمَّ دَعَا بِمَائٍ فَتَمَضَّمَصَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ : إِنْ لَمْ
دَسَمًا -

وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ وَهْبٍ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: دودھ پینی اور چکناہٹ والی چیز کھانے کے بعد کلی کرنا
حدیث نمبر: 742

:ترجمہ

(۷۴۳) (سیدنا عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے دودھ پیا، پھر پانی منگوا یا اور کلی کی، پھر فرمایا " :اس میں چکناہٹ ہے۔"

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Rinsing the mouth after drinking milk and eating something containing grease

Hadith number: 742

Translation:

(742) It is narrated on the authority of Abdullah bin Abbas (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and

blessings of Allah be upon him) drank milk, then asked for water and rinsed his mouth, then said: "It contains greasiness."
[Sahih. Narrated by Ibn Majah 501]

Sunan Kubra Bayhaqi 743

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَدِيبُ أَخْبَرَنَا (٧٤٤)
أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
الْقَعْنَبِيِّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ

سُوَيْدُ بْنُ النُّعْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - عَامَ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالصَّهْبَائِ مِنْ أَدْنَى خَيْبَرَ صَلَّى الْعَصْرَ ، ثُمَّ دَعَا بِالْأَزْوَاجِ فَلَمْ يُؤْتِ إِلَّا بِالسَّوِيقِ ، فَأَمَرَ بِهِ فَنُزِيَ ، فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - وَأَكَلْنَا مَعَهُ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ وَغَيْرِهِ .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: دودھ پینی اور چکناہٹ والی چیز کھانے کے بعد کلی کرنا
حدیث نمبر: 743

:ترجمہ

(، ۷۴۴) سوید بن نعمانؓ نبی ﷺ کے ساتھ خیبر کے سال نکلے جب آپ ﷺ مقام "صہبائی" جو خیبر کے نیچے جگہ تھی پر پہنچے تو عصر کی نماز ادا کی، پھر آپ ﷺ نے کھانا منگوایا صرف ستو لایا گیا۔ آپ ﷺ نے اس کی ٹرید بنانے کا حکم دیا پھر آپ نے کھایا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ کھایا، پھر آپ ﷺ نے مغرب (کی نماز) کے لیے کھڑے

ہوئے آپ ﷺ نے کلی کی اور ہم نے بھی کلی کی پھر آپ ﷺ نے نماز پڑھائی لیکن وضو نہیں کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Rinsing the mouth after drinking milk and eating something containing grease

Hadith number: 743

Translation:

(743) Suwayd ibn Nu'man went out with the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) in the year of Khaybar. When he reached the place called "Sahbai" which was below Khaybar, he offered Asr prayer. He then ordered food and only saweeq was brought. He ordered tharid to be made from it and ate it and we also ate with him, then he stood for Maghrib (prayer), he rinsed his mouth and we also rinsed our mouth then he led the prayer but did not perform ablution.

[Sahih. Narrated by Bukhari 209, 215, 2981, 4195, 5384, 5454, 5455 and Nasai 186 and Ibn Majah 492 and Malik 2/18 and Ahmad 3/462, 488]

Sunan Kubra Bayhaqi 744

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو طَائِرٍ الْفَقِيهُ وَأَبُو زَكْرِيَّا (٧٤٥)
بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ :
حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ بِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ

وَبْنِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَايٍ يُخْبِرُ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَأْكُلُ عَرَقًا
مِنْ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى ، وَلَمْ يَمْضِمْضْ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً . مُخْرَجٌ فِي
كِتَابِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ بِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: ان (چکناہٹ والی چیزوں) سے کلی نہ کرنے میں رخصت

حدیث نمبر: 744

ترجمہ:

(۷۴۵) (سیدنا عبداللہ بن عباس رض سے روایت ہے کہ میں نے نبی
ﷺ کو بکری کا شوربہ پیتے ہوئے دیکھا پھر آپ ﷺ نے نماز
پڑھی اور کلی نہیں کی اور نہ پانی کو چھوا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Exemption from rinsing the mouth

with these (greasy things)

Hadith number: 744

Translation:

(744) It is narrated on the authority of Abdullah bin Abbas (may Allah be pleased with him) that I saw the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) drinking goat soup then he prayed and didn't rinse his mouth and didn't even touch water.

[Sahih. Narrated by Bukhari 207 and Muslim 354 and Nasai 184 and Abu Dawud 187 and Ibn Majah 488 and Malik 2/17 and Ahmad 1/226]

Sunan Kubra Bayhaqi 745

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذَبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ (٧٤٦)
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ
عَنْ مُطِيعِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ أَنَّهَا سَمِعَتْ أَنَسَ بْنَ
مَالِكٍ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - شَرِبَ لَبَنًا فَلَمْ يَمْضِضْ
وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَصَلَّى -
قَالَ زَيْدٌ: دَلَّنِي شُعْبَةُ عَلَى هَذَا الشَّيْخِ -
وَرُوِينَا عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: لَوْلَا التَّلْمُظُ مَا
بَالَيْتُ أَنْ لَا أَمْضِضَ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
کتاب: پاکی کا بیان
باب: ان (چکناہٹ والی چیزوں سے کلی نہ کرنے میں رخصت
حدیث نمبر: 745

ترجمہ:

(۷۴۶) سیدنا انس بن مالک ^{رض} فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے دودھ پیا، لیکن کلی نہیں کی اور نہ وضو کیا، پھر نماز پڑھی۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Exemption from rinsing the mouth with these (greasy things)

Hadith number: 745

Translation:

(745) Anas ibn Malik (may Allah be pleased with him) said: The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) drank milk, but did not rinse his mouth nor perform ablution, then offered prayer.

[Hasan (Fair). Narrated by Abu Dawud 197]

Sunan Kubra Bayhaqi 746

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ (٧٤٧)
الْحَسَنِ قَرَأْتُ عَلَيْهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ
سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَوْ أَنِّي أَكَلْتُ حُبْرًا وَلَحْمًا وَشَرِبْتُ لَبَنَ
اللَّقَاحِ مَا بَالَيْتُ أَنْ أُصَلِّيَ وَلَا أَتَوَضَّأَ، إِلَّا أَنْ أَمْضِضَ فَمِى
وَأَغْسِلَ أَصَابِعِي مِنْ غَمْرِ اللَّحْمِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: ان (چکناہٹ والی چیزوں سے کلی نہ کرنے میں رخصت

حدیث نمبر: 746

:ترجمہ

(۷۴۷) سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباسؓ کو فرماتے ہوئے سنا: اگر میں روٹی اور گوشت کھاؤں اور اونٹنی کا دودھ پیوں تو میں پروا نہیں کرتا کہ میں نماز پڑھوں اور وضو نہ کروں، مگر کلی کروں گا اور گوشت کی چکناہٹ اپنی انگلیوں سے دھوؤں گا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Exemption from rinsing the mouth with these (greasy things)

Hadith number: 746

Translation:

Saeed ibn Jubayr (may Allah be pleased with

him) said: I heard Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) say: If I eat bread and meat and drink camel's milk, I do not care that I pray without performing ablution but I will rinse my mouth and wash the grease of the meat with my fingers.

[Sahih. Narrated by Ibn Jad in his Musnad 97]

Sunan Kubra Bayhaqi 747

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَائِرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ (٧٤٨)

الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ
الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ بَدَأَ مَا
حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - : لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ
أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ .

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
رَافِعٍ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ .

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاکی کا بیان

باب: وضو ٹوٹنے میں ارادہ اور بھول برابر ہیں

حدیث نمبر: 747

:ترجمہ

(: ۷۴۸) (سیدنا ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
جب تم میں سے کوئی بے وضو ہو جائے تو اس کی نماز قبول
نہیں ہوتی جب تک وضو نہ کر لے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Intention and forgetting are both equal when it comes to breaking ablution
Hadith number: 747

Translation:

(747) Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) said: The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: When one of you breaks ablution, his prayers will not be accepted unless he performs ablution.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 748

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ (٧٤٩)
إِسْحَاقَ الْفَقِيهَ أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْحَمِيدِيُّ حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَبَادُ بْنُ تَمِيمٍ
عَنْ عَمِّهِ :

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: شُكِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - الرَّجُلُ
يُخَيَّلُ إِلَيْهِ الشَّيْءُ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - ((لَا
يَنْقَتِلُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا)) -
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ وَغَيْرِهِ وَرَوَاهُ
مُسْلِمٌ عَنْ عَمْرِو النَّاقِدِ وَغَيْرِهِ كُلِّهِمْ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
کتاب: پاکی کا بیان
باب: یقین شک سے زائل نہیں ہوتا

حدیث نمبر: 748

ترجمہ:

(۷۴۹) عبدالله بن زیدؓ فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ سے ایک شخص کی شکایت کی گئی جس کو نماز میں کسی چیز (خروجِ ریح) کا خیال آجائے، آپ ﷺ نے فرمایا "وہ اپنی نماز سے نہ پھرے جب تک آواز نہ سن لے یا بدبو نہ پالے۔"

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Doubt does not overrule belief

Hadith number: 748

Translation:

(748) Abdullah ibn Zayd (may Allah be pleased with him) said: The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) was complained to about a person who had imagined of something (passing wind) in the prayer. He said: "He should not turn away from his prayers until he hears a sound or

smells something bad."

[Sahih. Narrated by Bukhari 137,177, 2056 and Muslim 361 and Nasai 160 and Abu Dawud 176 and Ibn Majah 513, 514 and Ahmad 4/39,401

Sunan Kubra Bayhaqi 749

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَائِرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَثْمَانَ : عَمْرُو بْنُ عَبْدِ (٧٥٠)
اللَّهِ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

أَبِي بُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ
الرَّيْحَ فَخُيِّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهُ الشَّيْءُ ، فَلَا يَخْرُجُ حَتَّى يَسْمَعَ
صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا)) .
مُخْرَجٌ فِي كِتَابِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ
سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ : فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ
الْمَسْجِدِ .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: یقین شک سے زائل نہیں ہوتا
حدیث نمبر: 749

:ترجمہ

(۷۵۰) (الف) (سیدنا ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے پیٹ میں ہوا محسوس کرے کہ نکلی ہے یا نہیں تو وہ مسجد سے نہ نکلے جب تک اس کی آواز نہ سن لے یا بو نہ پالے۔
(ب) (سہیل بن ابو صالح کہتے ہیں کہ وہ مسجد سے نہ نکلے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Doubt does not overrule belief

Hadith number: 749

Translation:

(749) (a) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that when one of you feels that wind in his stomach has come out or not, he should not leave the mosque until he hears a voice or smells it.

(B) Suhail bin Abu Saleh says that he should not leave the mosque.

Sunan Kubra Bayhaqi 750

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بَشْرَانَ بِنِعْدَادٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ (٧٥١)
بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ
عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا شَكَّكَتَ فِي الْحَدِيثِ وَأَيَّقَنَتَ
الْوَضُوءِ فَأَنْتَ عَلَى وَضُوءٍ، وَإِذَا شَكَّكَتَ فِي الْوَضُوءِ
وَأَيَّقَنَتَ بِالْحَدِيثِ فَتَوَضَّأَ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: یقین شک سے زائل نہیں ہوتا
حدیث نمبر: 750

ترجمہ:

(٧٥١) (حسن سے روایت ہے کہ جب تم بے وضو ہونے کی شکایت محسوس کرو اور وضو کا تم کو یقین ہو تو تمہارا

وضو ہے اور جب وضو میں شک ہو اور بے وضو ہونے کا
یقین ہو تو وضو کرو۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Doubt does not overrule belief

Hadith number: 750

Translation:

(750) It is narrated from Hasan that when you feel that you have broken your ablution and you are sure of performing ablution then your ablution is still intact and when there is doubt about performing ablution and there is certainty that you had broken your ablution, then perform ablution.

[Sahih. Narrated by AbdulRazzaq 540]

Sunan Kubra Bayhaqi 751

Arabic Text:

: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ (٧٥٢)
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَيَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
بْنُ كَثِيرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَابِدٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ
الْحَكَمِ أَوْ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - إِذَا بَالَ
تَوَضَّأَ وَيَنْتَضِحُ - (كَذَا رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَمَعْمَرٌ وَزَائِدَةُ عَنْ
-مَنْصُورٍ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان

باب: وسوسہ دور کرنے کے لیے وضو کے بعد چھینٹے مارنا
حدیث نمبر: 751

ترجمہ:

(۷۵۲) سفیان بن حکم یا حکم بن سفیان فرماتے ہیں: رسول اللہ ﷺ جب پیشاب کرتے تو وضو کرتے اور چھینٹے مارتے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Sprinkling water after performing
ablution to remove waswas (satanic whispers)

Hadith number: 751

Translation:

(751) Sufyan ibn Hukam or Hukam ibn Sufyan
said: When the Messenger of Allah (ﷺ)
urinated, he performed ablution and sprinkled
water (on private parts of the body).

[Sahih. Narrated by Nasai 134 and Abu

Sunan Kubra Bayhaqi 752

Arabic Text:

وَرَوَاهُ شُعْبَةُ كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِيُّ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ (٧٥٣)
بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ
عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَابِدٍ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ الْحَكَمُ
-أَوْ أَبُو الْحَكَمِ مِنْ ثَقِيفٍ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ -
تَوَضَّأَ ثُمَّ أَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَائٍ فَأَنْتَضَحَ بِهَا.
(وَكَذَلِكَ رَوَاهُ وَبَيْبُ عَنْ مَنْصُورٍ وَرَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ وَرَوْحُ بْنُ
الْقَاسِمِ وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَابِدٍ عَنْ
الْحَكَمِ أَوْ أَبِي الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ مُسْنَدًا إِلَّا أَنَّهُمْ لَمْ

يَذْكُرُوا آبَاءَهُ

وَرَوَاهُ إِسْرَائِيلُ وَسَلَامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ وَزَكَرِيَّا عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ
مُجَابِدٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ لَمْ يَشْكُوا أَوْ لَمْ يَذْكُرُوا آبَاءَهُ

قَالَ أَبُو عَيْسَى سَأَلْتُ مُحَمَّدًا يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيَّ عَنْ
بَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: الصَّحِيحُ مَا رَوَى شُعْبَةُ وَوُهَيْبٌ وَقَالَا عَنْ أَبِيهِ
وَرُبَّمَا قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِي بَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَبِيهِ. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ
رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورٍ فَمَرَّةً ذَكَرَ فِيهِ آبَاءَهُ وَمَرَّةً لَمْ يَذْكُرْهُ:

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: سوسہ دور کرنے کے لیے وضو کے بعد چھینٹے مارنا

حدیث نمبر: 752

:ترجمہ

(۷۵۳) (الف) (مجاہد) (رح) (بنو ثقیف کے ایک حکم یا ابو الحکم
نامی شخص سے روایت کرتے ہیں جو اپنے والد سے نقل کرتا
ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا کہ
آپ نے پانی کا ایک چلو لیا اور چھینٹے مارے۔

(ب) (مجاہد حکم یا ابوالحکم بن سفیان ثقفی سے مسند کے ساتھ نقل فرماتے ہیں، لیکن یہاں انہوں نے ان کے والد کا ذکر نہیں کیا۔

(ج) (مجاہد حکم بن سفیان سے نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے ان کے والد کا نام ذکر نہیں کیا۔

(د) (امام ابو عیسیٰ) ترمذی (نے امام محمد بن اسماعیل بخاری سے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا: شعبہ اور وہیب عن ابیہ والی روایت صحیح ہے۔ ابن عیینہ بھی اس حدیث میں عن ابیہ بیان کرتے ہیں۔ امام احمد) رح (فرماتے ہیں ابن عیینہ منصور سے نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے اس میں ان کے والد کا ذکر کیا اور دوسری مرتبہ ذکر نہیں کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Sprinkling water after performing ablution to remove waswas (satanic whispers)

Hadith number: 752

Translation:

(752) (a) Mujahid (may Allah have mercy on him) narrates from a person named Hakam or Abu Al-Hakam from Banu Thaqif who narrates from his father that he saw the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) performing ablution and he took a handful of water and sprinkled it.

(B) Mujahid narrates from Hakam or Abul Hakam bin Sufyan Thaqafi in musnad, but here he does not mention his father.

(C) Mujahid narrates from Hukam bin Sufyan that he did not mention his father's name.

(D) When Imam Abu Isa (Tirmidhi) asked Imam Muhammad ibn Isma'il Bukhari (may Allah have mercy on him) about this hadith, he said: The narration of Shuba and Wahib on Abiyyah is sahih. Ibn Ayyina also narrates on the authority of Abiyyah in this hadith. Imam Ahmad (may Allah have mercy on him) says: Ibn Ayyina narrates from Mansoor that once he mentioned his father in it and the second time he did not mention it.

[Sahih. Narrated by Nasai 134 and Abu Dawud 166-168 and Ibn Majah 461

Sunan Kubra Bayhaqi 753

Arabic Text:

وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى (٧٥٤)
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
: عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَابِدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
رَأَيْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - بَالَ ثُمَّ نَضَحَ فَرَجَهُ -
وَرَوَاهُ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ ابْنِ أَبِي عُمَرَ عَنْ ابْنِ
عُبَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورٍ وَابْنِ أَبِي نَجِيحٍ بِكَذَا وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ : ثُمَّ
تَوَضَّأَ وَنَضَحَ فَرَجَهُ بِالْمَاءِ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاكى كا بيان

باب: وسوسه دور كرنے كے ليے وضو كے بعد چھينٹے مارنا

حديث نمبر: 753

:ترجمہ

(۷۵۴) مجاہد قبیلہ ثقیف كے ايك شخص سے جو اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں کہ میں نے نبی ﷺ كو پیشاب كرتے ہوئے ہوئے ديكھا، پھر آپ ﷺ نے اپنی شرم گاہ پر چھينٹے مارے۔
(ب) امام منصور بن نجیح اس حديث كو بيان كركے فرماتے ہیں: پھر آپ ﷺ نے وضو كيا اور شرم گاہ پر پانی كے چھينٹے مارے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Sprinkling water after performing

ablution to remove waswas (satanic whispers)

Hadith number: 753

Translation:

(753) Mujahid quotes a man from the tribe of Thaqif who narrates from his father that he saw the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) urinating, then he sprinkled water on his private parts.

(B) Imam Mansoor ibn Najih narrates this hadith and says: Then the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) performed ablution and sprinkled water on his private parts.

[Sahih. Narrated by Nasai 134 and Abu Dawud 166-168 and Ibn Majah 461]

Sunan Kubra Bayhaqi 754

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورِكَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ (٧٥٥)
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
مَنْصُورٍ عَنْ مُجَابِدٍ عَنِ الْحَكَمِ أَوْ أَبِي الْحَكَمِ رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفَ عَنْ
أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - تَوَضَّأَ وَنَضَحَ فَرَجَهُ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: وسوسہ دور کرنے کے لیے وضو کے بعد چھینٹے مارنا
حدیث نمبر: 754

:ترجمہ

(٧٥٥) حکم یا ابو الحکم اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں کہ
رسول اللہ ﷺ نے وضو کیا اور اپنی شرم گاہ پر چھینٹے مارے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Sprinkling water after performing
ablution to remove waswas (satanic whispers)

Hadith number: 754

Translation:

(754) Hakam or Abu al-Hakam narrates from his father that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) performed ablution and sprinkled water on his private parts.

[Sahih. Narrated by Nasai 134 and Abu Dawud 166-168 and Ibn Majah 461 and Ahmad 4/179]

Sunan Kubra Bayhaqi 755

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ (٧٥٦)
اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهْيَعَةَ أَخْبَرَنِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ
عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ
جِبْرِيْلَ نَزَلَ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ - فِي أَوَّلِ مَا أَوْحَى إِلَيْهِ فَعَلَّمَهُ
الْوُضُوءَ ، فَتَوَضَّأَ النَّبِيُّ - ﷺ - فَلَمَّا فَرَغَ أَخَذَ النَّبِيُّ - ﷺ - بِيَدِهِ
مَاءً فَنَضَحَ بِهِ فَرَجَّهُ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاکی کا بیان

باب: وسوسہ دور کرنے کے لیے وضو کے بعد چھینٹے مارنا

حدیث نمبر: 755

:ترجمہ

(۷۵۶) سیدنا اسامہ بن زید بن حارثہؓ اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں کہ جبرائیل (علیہ السلام) کا طغری نبی ﷺ کے پاس آئے، جب پہلی دفعہ وحی کی گئی تو انہوں نے آپ ﷺ کو وضو سکھلایا، نبی ﷺ نے وضو کیا جب (وضو سے) فارغ ہوئے تو نبی ﷺ نے اپنے ہاتھ میں پانی لیا اور اپنی شرم گاہ چھینٹے مارے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Sprinkling water after performing
ablution to remove waswas (satanic whispers)

Hadith number: 755

Translation:

(755) Usama bin Zayd bin Harith (may Allah be pleased with him) narrates from his father that Jibreel (AS) came to the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him). When he first received the revelation, he was taught

ablution. The Prophet performed ablution, when he had finished, the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) took water in his hand and sprinkled it on his private parts. [Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence). Narrated by Ahmad 3/2]

Sunan Kubra Bayhaqi 756

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ وَأَبُو (٧٥٧)
سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ
: زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَايِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ

دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - بِمَائٍ وَتَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً وَنَضَحَ -
، قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : قَوْلُهُ : وَنَضَحَ - تَفَرَّدَ بِهِ قَبِيصَةُ عَنْ سُفْيَانَ
وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ سُفْيَانَ دُونَ بَدِهِ الزِّيَادَةَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب : پاکی کا بیان

باب : سوسہ دور کرنے کے لیے وضو کے بعد چھینٹے مارنا

حدیث نمبر : 756

:ترجمہ

(الف) (سیدنا ابن عباسؓ فرماتے ہیں : رسول اللہ ﷺ نے
پانی منگوا یا اور ایک ایک مرتبہ وضو کیا) یعنی اعضاء ایک
ایک مرتبہ دھوئے (اور چھینٹے مارے۔

ب) (امام احمد) رح (فرماتے ہیں کہ نضح کے الفاظ سفیان سے
بیان کرنے میں قبیسہ متفرد ہے ، ایک جماعت نے اس حدیث
کو سفیان سے اس زیادتی کے بغیر روایت کیا ہے۔ واللہ اعلم۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Sprinkling water after performing
ablution to remove waswas (satanic whispers)

Hadith number: 756

Translation:

(756) (a) Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) said: The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) asked for water and performed ablution once (i.e. washed his limbs once) and sprinkled water.

(B) Imam Ahmad (may Allah have mercy on him) says that Qabisa is unique in narrating the words of Nadha from Sufyan, a group has narrated this hadith from Sufyan without this excess wording. Allah knows best.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence). Narrated by Darimi 711]

Sunan Kubra Bayhaqi 757

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحُرْفِيُّ (٧٥٨)
بِبَعْدَادَ أَخْبَرَنَا حَمْرَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ
الْوَلِيدِ الْفَحَّامُ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ بِشَامٍ حَدَّثَنَا الْفُرَاتُ عَنِ الْأَعْمَشِ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : إِنِّي أَجِدُ
بَلَاءً إِذَا قُمْتُ أَصَلِّيَ-

فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : انْضَحْ بِكَأْسٍ مِنْ مَائِي ، وَإِذَا وَجَدْتَ مِنْ ذَلِكَ
شَيْئًا فَقُلْ هُوَ مِنْهُ فَذَهَبَ الرَّجُلُ فَمَكَثَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَتَاهُ بَعْدَ
ذَلِكَ فَرَعَمَ أَنَّهُ ذَهَبَ مَا كَانَ يَجِدُ مِنْ ذَلِكَ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: وسوسہ دور کرنے کے لیے وضو کے بعد چھینٹے مارنا

حدیث نمبر: 757

ترجمہ:

(۷۵۸) (سیدنا سعید بن جبیر) رح (سے روایت ہے کہ ایک شخص ابن عباسؓ کے پاس آیا اور عرض کیا: میں تری کو پاتا پاتا ہوں جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں۔

سیدنا ابن عباسؓ نے فرمایا: پانی کے پیالے سے چھینٹے مار اور جب تو ایسی شکایت پائے تو سمجھ لے وہ اسی سے ہے (یعنی جو چھینے مارے ہیں) وہ شخص چلا گیا جب تک اللہ نے چاہا، پھر کچھ عرصے بعد آیا۔ اس کا گمان یہ تھا کہ وہ چیز چلی گئی ہے جو وہ محسوس کرتا تھا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Sprinkling water after performing
ablution to remove waswas (satanic whispers)

Hadith number: 757

Translation:

(757) It is narrated on the authority of Saeed ibn Jubayr (may Allah be pleased with him) that a man came to Ibn Abbas and said: I get wet when I stand up for prayer.

Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) said: Sprinkle yourself with a cup of water and when you ever feel such a thing again, understand that it is from there (i.e. that water you sprinkled). The man left as long as Allah willed, then came back after a while. He thought that what he was feeling was gone.
[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 758

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ (٧٥٩)
وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالُوا أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَخْبَرَنَا ابْنُ
وَهْبٍ. قَالَ وَحَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ قَالَ قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَكَ
سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عُلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ
أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - : أَنَّهُ صَلَّى يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ
وَاحِدٍ ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : رَأَيْتُكَ
صَنَعْتَ شَيْئًا مَا كُنْتَ تَصْنَعُهُ. قَالَ : عَمَدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ .
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ يَحْيَى الْقَطَّانِ
عَنِ الثَّوْرِيِّ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: ایک وضو سے کئی نمازیں ادا کرنے کا بیان
حدیث نمبر: 758

:ترجمہ

(۷۵۹) سیدنا بریدہؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فتح مکہ کے دن ایک وضو سے کئی نمازیں ادا کیں اور اپنے موزوں پر مسح کیا، سیدنا عمر بن خطابؓ نے عرض کیا: میں نے آپ ﷺ کو ایسا کام کرتے ہوئے دیکھا جو آپ پہلے نہیں کیا کرتے تھے، آپ ﷺ نے فرمایا " :اے عمر! میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے۔"

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on performing multiple prayers with one ablution

Hadith number: 758

Translation:

(758) It is narrated on the authority of Syeduna Buraida (may Allah be pleased with him) that on the day of the conquest of Makkah he performed many prayers with one ablution and wiped over his socks. Umar ibn Khattab (may Allah be pleased with him)

said: I have seen the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) do something today that he is not accustomed to. He (the Prophet) said: O Umar, I have done that on purpose.

[Sahih. Narrated by Muslim 277 and Nasai 133 and Abu Dawud 172 and Tirmidhi 61 and Ibn Majah 510 and Ahmad 5/350, 351, 358 and Darimi 685]

Sunan Kubra Bayhaqi 759

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ : عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ (٧٦٠)
بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِنِعْدَادٍ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ
الْبَخْتَرِيِّ الرَّزَّازُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ
مَخْلَدٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ : أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ - تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ ، وَصَلَّى بِهِمْ خَمْسَ
صَلَوَاتٍ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ - ثُمَّ ذَكَرَ الْبَاقِيَ بِمَعْنَاهُ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب : پاکی کا بیان
باب : ایک وضو سے کئی نمازیں ادا کرنے کا بیان
حدیث نمبر : 759

ترجمہ:

(٧٦٠) سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ نے وضو کیا اور
اپنے موزوں پر مسح کیا اور ایک وضو سے پانچ نمازیں ادا
کیں۔ باقی حدیث اسی طرح ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on performing multiple prayers with one ablution

Hadith number: 759

Translation:

(759) Sufyan al-Thawri (may Allah have mercy on him) says that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) performed ablution and wiped his socks and performed five prayers with one ablution. The rest of the hadith is the same.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 760

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بَشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَعْدَادَ أَخْبَرَنَا أَبُو (٧٦١)
الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا
الْفَرِيَابِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - يَتَوَضَّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ، وَكَانَ
أَحَدُنَا يَكْفِيهِ الْوُضُوءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ -
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفَرِيَابِيِّ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: نیا وضو کرنے کا بیان
حدیث نمبر: 760

ترجمہ:

(٧٦١) (سیدنا انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتے تھے اور ہمیں) پرانا (وضو کفایت کرجاتا تھا جب تک بے وضو نہ ہوتے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on performing a new
ablution (before every prayer)

Hadith number: 760

Translation:

(760) It is narrated on the authority of Anas bin Malik (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) used to perform a new ablution for every prayer and that our (old) ablution would suffice us so long as we didn't break it.

[Sahih. Narrated by Bukhari 214]

Sunan Kubra Bayhaqi 761

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذَبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ دَاسَةَ (٧٦٢)
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
يَزِيدَ الْمُقْرِيُّ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَحَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ
: قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي غُطَيْفِ الْهَذَلِيِّ قَالَ
، كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَلَمَّا نُودِيَ بِالظُّهْرِ تَوَضَّأَ فَصَلَّى
-فَلَمَّا نُودِيَ بِالْعَصْرِ تَوَضَّأَ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
يَقُولُ ((: مَنْ تَوَضَّأَ عَلَى طَهْرٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ))-
قَالَ أَبُو دَاوُدَ : هَذَا حَدِيثٌ مُسَدَّدٌ وَهُوَ أَتَمُّ ، وَأَنَا لِحَدِيثِ ابْنِ
يَحْيَى أَتَقَنَّ-

قَالَ الشَّيْخُ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ الْأَفْرِيقِيُّ غَيْرُ قَوِيٍّ وَهَذَا
حَدِيثٌ مُنْكَرٌ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى
کتاب: پاکی کا بیان

باب :نیا وضو کرنے کا بیان

حدیث نمبر : 761

:ترجمہ

(۷۶۲) (ابو غطفیف ہذلی کہتے ہیں کہ جب میں سیدنا عبداللہ بن عمرؓ کے پاس تھا، ظہر کی اذان ہوئی، انہوں نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ جب عصر کی اذان ہوئی تو انہوں نے (نیا) وضو کیا۔ میں نے ان سے کہا :آپ نے دوبارہ وضو کیوں کیا؟ انہوں نے کہا :رسول اللہ ﷺ فرماتی تھے :جس نے طہارت (وضو) پر وضو کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دس نیکیاں لکھ دیتا ہے۔

(ب) (امام ابوداؤد کہتے ہیں کہ حدیث مسدد مکمل ہے ، لیکن

میرے نزدیک حدیث ابن یحییٰ زیادہ قوی ہے۔

،) ج (شیخ فرماتے ہیں کہ عبدالرحمن بن زیادہ افریقی قوی نہیں

یہ حدیث منکر ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on performing a new
ablution (before every prayer)

Hadith number: 761

Translation:

(761) Abu Ghatif Hudhali says that when I was with Syeduna Abdullah bin Umar (may Allah be pleased with him), the adhan of Zuhr prayer was called, he performed ablution and offered prayer. When the adhan of Asr prayer was called, he performed (a new) ablution. I said to him: Why did you perform ablution again? He said: The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) used to say: For a man who performs ablution in a state of purity, Allah Almighty writes down ten virtues for him.

(B) Imam Abu Dawud (may Allah have mercy on him) says that the hadith of Musadd is complete, but in my opinion the hadith of Ibn Yahya is more strong.

(C) Sheikh says that Abdul Rahman bin Ziyada the African is not strong, this hadith is munkar.

[Daif (Weak). Narrated by Abu Dawud 62 and

Sunan Kubra Bayhaqi 762

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ (٧٦٣)
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْخَطَّابِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا
بِشَامٌ

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْخَيْرِ : جَامِعُ بْنُ أَحْمَدَ الْوَكِيلُ أَخْبَرَنَا أَبُو طَائِرٍ
الْمُحَمَّدَ ابْنِ أَبِي حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
حَدَّثَنَا بِشَامٌ وَشُعْبَةُ قَالَا حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ

أَبِي رَافِعٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَ ((إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا
 الْأَرْبَعِ وَالزَّقِ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ)) (-).
 لَفْظُ حَدِيثِ مُسْلِمِ بْنِ أَبِرَائِيمَ وَفِي حَدِيثِ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ ((إِذَا
 قَعَدَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ ، ثُمَّ اجْتَهَدَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ)) (-). وَفِي
 حَدِيثِ أَبِي نُعَيْمٍ ((ثُمَّ جَهَدَهَا)) (-).
 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ أَبِي نُعَيْمٍ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ
 مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنِ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: شرم گاہ کے باہم مل جانے سے غسل واجب ہونے کا بیان
 حدیث نمبر: 762

:ترجمہ

(۷۶۳) (الف) (سیدنا ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا "جب کوئی شخص چار گھاٹیوں کے درمیان بیٹھے اور " شرمگاہ ہیں آپس میں مل جائیں تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔"
 (ب) (وہب بن جریر کی حدیث میں ہے کہ جب آدمی

چارگھاٹیوں کے درمیان بیٹھے، پھر کوشش کرے تو غسل واجب ہوجاتا ہے اور ابی نعیم کی حدیث میں بھی یہ الفاظ بھی ہیں " پھر کوشش کرے "-

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement that ghusl becomes obligatory after the touching of the private parts

Hadith number: 762

Translation:

(762) (a) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "When a person sits between the four parts (of a woman) and their private parts touch each other, then ghusl becomes obligatory."

(B) In the hadith of Wahab ibn Jarir it is said

that when a person sits between the four parts (arms and legs of his wife), then if he exerts then ghusl becomes obligatory and in the hadith of Abu Naeem there are also these words: "then he exerts".

[Sahih. Narrated by Bukhari 291 and Muslim 349 and Nasai 191, 192 and Abu Dawud 216 and Ibn Majah 610 and Ahmad 2/234, 237, 393, 471, 520 and Darimi 788]

[SHARH] Explanation:

Al-Nawawi said in Sharh Muslim:

With regard to the phrase “and the one circumcised part touches the other, then ghusl is obligatory”: the scholars said: what this means is when your penis disappears into her vagina; it does not mean touching in a real sense. That is because the circumcised part of a woman is above the vagina, and the penis does not touch it during intercourse. The scholars are unanimously agreed that if

he places his penis on the circumcised part and does not enter (the vagina), then no ghusl is required, neither for him nor for her.

The fact that what is meant is what we have mentioned and that what is meant by touching is the two parts coming in line with one another is indicated by the other report, “when the two circumcised parts meet” i.e., coming in line with one another.

Sunan Kubra Bayhaqi 763

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِيُّ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ (٧٦٤)
إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا
مُعَاذُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا قَتَادَةُ وَمَطَرٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي
رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - قَالَ ((إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا
الْأَرْبَعِ ، ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ)) -

وَفِي حَدِيثِ مَطَرٍ ((وَإِنْ لَمْ يُنْزَلْ)) -

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى وَغَيْرِهِ عَنْ
مُعَاذِ بْنِ إِسْحَاقَ ، وَقَدْ ذَكَرَ أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ وَهَمَّامُ بْنُ يَحْيَى وَابْنُ
أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ الزِّيَادَةَ الَّتِي ذَكَرَهَا مَطَرٌ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: شرم گاہ کے باہم مل جانے سے غسل واجب ہونے کا بیان

حدیث نمبر: 763

:ترجمہ

" (: ۷۶۴ (سیدنا ابوہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا جب آدمی چارگھاٹیوں کے درمیان بیٹھے، پھر کوشش کرے تو غسل واجب ہوجاتا اور مطر کی حدیث میں ہے: اگرچہ انزال نہ بھی ہو۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement that ghusl becomes obligatory after the touching of the private parts

Hadith number: 763

Translation:

(763) Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) narrates that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said:

When a man sits between the four parts (of his wife's body) and exerts himself, then ghusl becomes obligatory and in the hadith of Matar it says: Even if there is no

ejaculation.

[Sahih. Narrated by Bukhari 291 and Muslim 349 and Nasai 191, 192 and Abu Dawud 216 and Ibn Majah 610 and Ahmad 2/234, 237, 393, 471, 520 and Darimi 788]

Sunan Kubra Bayhaqi 764

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا أَبُو (٧٦٥)
سَهْلِ بْنِ زِيَادِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرَبِيُّ حَدَّثَنَا
عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ وَهَمَّامُ بْنُ يَحْيَى قَالَا
حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ أَبِي رَافِعٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ

النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ)) : إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ ، ثُمَّ أَجْهَدَ نَفْسَهُ
فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ، أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزَلَ)) .-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: شرم گاہ کے باہم مل جانے سے غسل واجب ہونے کا بیان

حدیث نمبر: 764

ترجمہ:

" (: ۷۶۵) (سیدنا ابوہریرہ ^{رض} سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا
جب آدمی چار گھاٹیوں کے درمیان بیٹھے پھر کوشش کرے تو
تو غسل واجب ہو جاتا ہے اگرچہ انزال نہ ہو ۔"

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement that ghusl becomes
obligatory after the touching of the private
parts

Hadith number: 764

Translation:

(764) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: When a man sits between the four parts (of his wife) and exerts himself, ghusl becomes obligatory even if there is no ejaculation.

[Sahih. Narrated by Bukhari 291 and Muslim 349 and Nasai 191, 192 and Abu Dawud 216 and Ibn Majah 610 and Ahmad 2/234, 237, 393, 471, 520 and Darimi 788]

Sunan Kubra Bayhaqi 765

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا جَامِعُ بْنُ أَحْمَدَ الْوَكِيلُ حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرٍ (٧٦٦)
الْمُحَمَّدَابَادِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ
: -الْحَسَنِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -
((إِذَا التَّقَى الْخِتَانَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزَلْ)) -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: شرم گاہ کے باہم مل جانے سے غسل واجب ہونے کا بیان

حدیث نمبر: 765

ترجمہ:

(766) (سیدنا ابوہریرہ ^{رض} فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا " :جب شرمگاہیں آپس میں مل جائیں تو غسل واجب ہوجاتا ہے اگرچہ انزال نہ ہو ۔"

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement that ghusl becomes obligatory after the touching of the private parts

Hadith number: 765

Translation:

(765) Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) said: The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: Ghusl becomes obligatory when the private parts meet each other even if there is no ejaculation.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence). Narrated by Ahmad 2/347]

Sunan Kubra Bayhaqi 766

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكْرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُرْزُغِيُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ (٧٦٧)
كَامِلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
الْأَنْصَارِيُّ -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ: أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ
إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خَزِيمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو
مُوسَى: مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ
حَدَّثَنَا بِشَامُ بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي
مُوسَى: أَنَّهُمْ كَانُوا جُلُوسًا فَذَكَرُوا مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ -

: زَادَ أَبُو مُوسَى فِي حَدِيثِهِ فَقَالَ مَنْ حَضَرَهُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ
إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ. وَقَالَ مَنْ

حَضْرَهُ مِنَ الْأَنْصَارِ : لَا حَتَّى يَدْفُقَ - ثُمَّ اتَّفَقَا فِي الْمَعْنَى - قَالَ
 أَبُو مُوسَى : أَنَا آتِي بِالْخَبْرِ - فَقَامَ إِلَى عَائِشَةَ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ : إِنِّي
 أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ شَيْءٍ وَأَنَا أَسْتَحْيِيكَ - فَقَالَتْ : لَا تَسْتَحْيِ
 أَنْ تَسْأَلَنِي عَنْ شَيْءٍ كُنْتَ سَائِلًا عَنْهُ أُمَّكَ الَّتِي وَلَدَتْكَ ، إِنَّمَا
 أَنَا أُمَّكَ - قَالَ قُلْتُ : مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ ؟ قَالَتْ : عَلَى الْخَبِيرِ
 سَقَطَتْ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - ((إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ ، وَمَسَّ
 الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ)) -

لَفْظُ حَدِيثِ السُّلَمِيِّ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
 الْمُثَنَّى عَنِ الْأَنْصَارِيِّ -

وَقَدْ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي
 مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَرْفَعْهُ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ - وَإِنَّمَا رَفَعَهُ عَنْ
 سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ -
 وَعَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ وَهَذِهِ الرَّوَايَةُ الَّتِي أَخْرَجَهَا مُسْلِمٌ فِي
 الصَّحِيحِ رَوَايَةً صَحِيحَةً مُسْنَدَةً -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب : پاکی کا بیان

باب : شرم گاہ کے باہم مل جانے سے غسل واجب ہونے کا بیان

حدیث نمبر : 766

:ترجمہ

(۷۶۷) (سیدنا ابو موسیٰ ^{رض} سے روایت ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام ^{رض} نے ذکر کیا کہ کس چیز سے غسل واجب ہوتا ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ ^{رض} نے اپنی حدیث میں یہ الفاظ زائد بیان کیے ہیں کہ جو مہاجرین میں کسی نے سے کہا: جب شرم گاہ شرم گاہ کو چھو لے تو غسل واجب ہوجاتا ہے اور انصار میں سے ایک نیکہا: نہیں جب تک وہ منی نہ ٹپکے۔ مطلب دونوں کا ایک ہی ہے، ابو موسیٰ ^{رض} نے فرمایا: میں خبر لے کر آؤں گا، وہ سیدہ عائشہ ^{رض} کے پاس گئے، سلام کیا پھر عرض کیا: میں کسی چیز کے متعلق آپ سے سوال کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اور مجھے شرم آرہی ہے۔ انہوں نے کہا: تو سوال کرنے میں شرم نہ کر تو گویا اپنی اس ماں سے سوال کر رہا ہے جس نے تجھے جنم دیا ہے 'میں تیری ماں ہوں۔ وہ کہتے ہیں: میں نے کہا: کس چیز سے غسل واجب ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا: تو انتہائی باخبر کے پاس آیا ہے، رسول اللہ ^ﷺ نے فرمایا " :جب آدمی چار گھاٹیوں کے درمیان بیٹھے اور شرم گاہ شرم گاہ سے مل جائے تو غسل واجب ہوجاتا۔"

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement that ghusl becomes obligatory after the touching of the private parts

Hadith number: 766

Translation:

(766) It is narrated from Abu Musa (may Allah be pleased with him) that he was sitting. The Companions mentioned what makes ghusl obligatory. Abu Musa (may Allah be pleased with him) added in his hadith that one of the Muhajireen said: When the private part touches the other private part, ghusl becomes obligatory and one of the Ansar said: No, until mani (semen) doesn't come out (ghusl doesn't become obligatory). The meaning of both is the same. Abu Musa said: I will bring news. He went to Ayesha (may Allah be pleased with her) greeted her and then said: I want to ask you about a matter on which I feel shy. She said: Don't feel shy of

asking me about a thing which you can ask your mother, who gave you birth, for I am too your mother. He says that upon this I said: What makes ghusl obligatory for a person? She replied: You have come across one who is well informed! The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: When anyone sits amidst four parts (of the woman) and the private parts touch each other ghusl becomes obligatory.

[Sahih. Narrated by Muslim 349 and Malik 2/73 and Ibn Khuzaymah 227]

Sunan Kubra Bayhaqi 767

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ (٧٦٨)
وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَخْبَرَنَا ابْنُ
وَهْبٍ. قَالَ وَحَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ قَالَ قُرِيَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ
أَخْبَرَكَ عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ
الْمَكِّيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرْتَنِي أُمُّ كَلْثُومٍ عَنْ عَائِشَةَ
زَوْجِ النَّبِيِّ - ﷺ - : أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ - ﷺ - عَنِ الرَّجُلِ
يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ يُكْسِلُ بِلْ عَلَيْهِ مِنْ غُسْلٍ؟ وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - (: إِنِّي لَأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَبَدِهِ ثُمَّ نَعْتَسِلُ)) (-).
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ هَارُونَ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: شرم گاہ کے باہم مل جانے سے غسل واجب ہونے کا

بیان

حدیث نمبر: 767

ترجمہ:

(۷۶۸) سیدہ عائشہؓ سے روایت ہے ایک شخص نے سوال کیا کہ اگر کوئی اپنی بیوی سے جماع کرتا ہے، پھر ڈھیلا ہوجاتا ہے تو کیا اس پر غسل ہے؟ اور عائشہؓ بیٹھی ہوئی تھی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں اور یہ (عائشہؓ) ایسے ہی کرتے ہیں، پھر ہم غسل کرتے ہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement that ghusl becomes obligatory after the touching of the private parts

Hadith number: 767

Translation:

(767) It is narrated on the authority of Aisha (may Allah be pleased with her) that a man asked if a man has sexual intercourse with

his wife, but leaves her before orgasm, then is ghusl mandatory on him? Aisha (may Allah be pleased with her) was sitting when the Messenger of Allah (may peace be upon him) said: This is what Ayesha and I do, then we take perform ghusl.
[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 768

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ : إِسْحَاقُ بْنُ (٧٦٩) ُ
مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ السُّوسِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدٌ

بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزِيدٍ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ
سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ
مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ
أَبْلَهُ وَلَا يُنْزِلُ الْمَاءَ فَقَالَتْ: فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ - فَاغْتَسَلْنَا
مِنْهُ جَمِيعًا.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: شرم گاہ کے باہم مل جانے سے غسل واجب ہونے کا بیان
حدیث نمبر: 768

ترجمہ:

(۷۶۹) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ ان سے اس شخص کے متعلق سوال کیا گیا جو اپنی بیوی سے جماع کرتا ہے اور انزال نہیں ہوتا تو انہوں نے فرمایا: میں اور رسول اللہ ﷺ نے ایسے کیا تو ہم نے اکٹھے غسل کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement that ghusl becomes obligatory after the touching of the private parts

Hadith number: 768

Translation:

(768) It is narrated from Ayesha (may Allah be pleased with her) that she was asked about a person who has intercourse with his wife and ejaculation does not occur so she said: The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) and I did this, so we performed ghusl together.

[Sahih. Narrated by Al-Daraqutni 1/111]

Sunan Kubra Bayhaqi 769

Arabic Text:

وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ (٧٧٠)
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا
مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ بِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي
أَبِي قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو أَيُّوبَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي بْنُ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يُنْزَلْ- ((قَالَ)) : يَغْسِلُ :
مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي ((-)).
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُسَدَّدٍ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ أَوْجِهِ
أَخْرَجَ عَنْ بِشَامٍ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: شرم گاہ کے باہم مل جانے سے غسل واجب ہونے کا

بیان

حدیث نمبر: 769

ترجمہ:

(! ۷۷۰) سیدنا ابی بن کعبؓ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول جب کوئی شخص اپنی بیوی سے جماع کرے اور انزال نہ ہو (تو غسل کرے؟) (آپ ﷺ نے فرمایا: جو اس نے عورت کو چھوا ہے اس کو دھو ڈالے گا پھر وضو کر کے نماز ادا کرے گا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement that ghusl becomes obligatory after the touching of the private parts

Hadith number: 769

Translation:

(769) Syeduna Ubai bin Kab (may Allah be pleased with him) said: O Messenger of Allah! When a man has intercourse with his

wife and there is no ejaculation (should he do ghusl?) The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "He should wash the parts which comes in contact with (the private parts of) the woman, perform ablution and then pray."

[Sahih. Narrated by Bukhari 293]

Sunan Kubra Bayhaqi 770

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَائِرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو طَائِرٍ الْمُحَمَّدَابَادِيُّ (٧٧١)
حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ : أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ
 اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَيْسَى
 الْبِسْطَامِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي
 الْحُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ
 حَدَّثَهُ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ حَدَّثَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ
 حَدَّثَهُ : أَنَّهُ سَأَلَ عَثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ فَلَا
 يُنْزِلُ ، فَقَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ . ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ
 - قال فسألت بعد ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام -
 وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ وَأَبِيَّ بْنَ كَعْبٍ فَقَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ -
 - قالوا -

لَفْظُ حَدِيثِ الْبِسْطَامِيِّ وَقَالَ أَبُو قِلَابَةَ فِي حَدِيثِهِ : لَيْسَ مِنْهُ
 إِلَّا الطُّهُورُ . وَلَمْ يَذْكُرْ أَبِيًّا وَلَا حَدِيثَ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ .
 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ
 بْنِ سَعِيدٍ
 وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ وَغَيْرِهِ عَنْ
 عَبْدِ الصَّمَدِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَ عَلِيٍّ وَمَنْ مَعَهُ .

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
 كتاب : پاکی کا بیان

باب : شرم گاہ کے باہم مل جانے سے غسل واجب ہونے کا بیان
حدیث نمبر : 770

:ترجمہ

(۷۷۱) (سیدنا زید بن خالد جہنی نے عثمان بن عفانؓ سے اس شخص کے متعلق سوال کیا جو جماع کرتا ہے لیکن انزال نہیں ہوتا تو انہوں نے فرمایا : اس پر غسل نہیں ہے، پھر فرمایا : یہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے پھر فرمایا : میں نے اس کے بعد علی بن ابی طالب، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ اور ابی بن کعبؓ سے سوال کیا تو انہوں نے اس طرح نبی ﷺ سے بیان کیا۔) یہ حکم بعد میں منسوخ ہو گیا اور ایسی (صورتوں میں غسل کرنا واجب ہو گیا (ابو قلابہ کی حدیث میں ہے " : اس سے صرف وضو ہے۔ "

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement that ghusl becomes obligatory after the touching of the private

parts

Hadith number: 770

Translation:

(770) Zayd ibn Khalid al-Jahni asked Uthman ibn Affan (may Allah be pleased with him) about a person who has intercourse but does not ejaculate so he said: There is no ghusl on him. Then said: I heard this from the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him). Then he said: I then asked Ali ibn Abi Talib, Zubair ibn Awwam, Talhah ibn Ubaid Allah and Abi ibn Ka'b (may Allah be pleased with them) and they narrated it the same from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him). (This order was canceled (abrogated) later on and performing ghusl became necessary for such cases)

(B) In the hadith of Abu Qalaba it says: "Only ablution is required for it."

[Sahih. Narrated by Bukhari 179, 292]

Sunan Kubra Bayhaqi 771

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ (٧٧٢)
الْمُقَرِّيُّ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ دُحَيْمِ
الشَّيْبَانِيُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ
اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي
كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدِ
الْجُهَنِيِّ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ سَأَلَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ قُلْتُ : أَرَأَيْتَ
الرَّجُلَ يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُمْنِ قَالَ عُثْمَانُ : يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ
لِلصَّلَاةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ . وَذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .-

فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ
وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ ، فَأَمَرُوهُ بِذَلِكَ -
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ
شَيْبَانَ وَذَكَرَ فِيهِمْ أَبِي بَنٍ كَعْبٍ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: شرم گاہ کے باہم مل جانے سے غسل واجب ہونے کا بیان

حدیث نمبر: 771

ترجمہ:

(۷۷۲) (زید بن خالد جہنی نے سیدنا عثمان بن عفانؓ سے سوال کیا کہ مجھے بتاؤ اگر کوئی اپنی بیوی سے جماع کرتا ہے اور اور اس کو منی نہیں آتی) یعنی انزال نہیں ہوتا (تو وہ کیا کرے؟ سیدنا عثمانؓ نے فرمایا: نماز جیسا وضو کرے گا اور اپنی شرم گاہ کو دھوئے گا۔ انہوں نے بتلایا کہ انہوں نے یہ رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے۔) یہ حکم بعد میں منسوخ ہو گیا اور (ایسی صورتوں میں غسل کرنا واجب ہو گیا

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement that ghusl becomes obligatory after the touching of the private parts

Hadith number: 771

Translation:

(771) Zayd ibn Khalid al-Jahni asked 'Uthman ibn Affan (may Allah be pleased with him), "Tell me, if a man has intercourse with his wife and she does not ejaculate, then what should he do?" Uthman said: He will perform ablution like prayer and wash his private parts. He said that he had heard it from the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him). (This order was canceled (abrogated) later on and performing ghusl became necessary for such cases)

[Sahih. Narrated by Bukhari 179, 292]

Sunan Kubra Bayhaqi 772

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ أَخْبَرَنَا (٧٧٣)
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ
الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ
فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ، فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ فَقَالَ : لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ . قَالَ
نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - ((: إِذَا أُعْجِلْتَ أَوْ :
أَفْحَطْتَ فَلَا غُسْلَ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ الْوُضُوءُ)) (-).
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ
شُمَيْلٍ عَنِ شُعْبَةَ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَغَيْرِهِ عَنْ

عُنْدِرٍ عَنِ شُعْبَةَ- فَهَذَا حُكْمٌ مَنْسُوخٌ بِالْأَخْبَارِ الَّتِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهَا-
وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى نَسْخِهِ مَا-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: شرم گاہ کے باہم مل جانے سے غسل واجب ہونے کا بیان
حدیث نمبر: 772

ترجمہ:

(۷۷۳) (سیدنا ابو سعیدؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ ایک انصاری شخص کے پاس سے گزرے، آپ ﷺ نے اس کی طرف پیغام بھیجا، وہ اس حالت میں نکلا کہ اس کے سر سے پانی کے قطرے بہ رہے تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا " : شاید ہم نے آپ کو جلدی کرا دی " اس نے کہا : ہاں اے اللہ کے رسول ! تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا : جب تمہیں جلدی ہو یا قحط ہو تو تجھ پر غسل نہیں وضو ہے۔) یہ حکم بعد میں منسوخ ہو گیا اور (ایسی صورتوں میں غسل کرنا واجب ہو گیا

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement that ghusl becomes obligatory after the touching of the private parts

Hadith number: 772

Translation:

(772) It is narrated on the authority of Abu Saeed (may Allah be pleased with him) that the Allah's Messenger (peace and blessings of Allah be upon him) sent for an Ansari man who came with water dropping from his head. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said, "Perhaps we have forced you to hurry up?" The Ansari replied, "Yes." Allah's Messenger (peace and blessings of Allah be upon him) further said, "If you are forced to hurry up (during intercourse) then ghusl is not obligatory on you rather only ablution is due. (This order

was canceled (abrogated) later on and performing ghusl became necessary for such cases)

[Sahih. Narrated by Bukhari 180 and Muslim 345 and Ibn Majah 606 and Ahmad 3/21, 26, 94]

Sunan Kubra Bayhaqi 773

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ : الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَاذَانَ (٧٧٤)
بِبَغْدَادَ مِنْ أَصْلِهِ أَخْبَرَنَا حَمْرَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا
الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ عَنْ

يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَيْلِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْأَنْصَارِ فِيهِمْ
أَبُو أَيُّوبَ وَأَبُو سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ كَانُوا يُفْتُونَ الْمَائِ مِنَ الْمَائِ
وَأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُنْزِلْ غُسْلًا. فَلَمَّا ذُكِرَ ذَلِكَ
لِعُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ أَنْكَرُوا ذَلِكَ وَقَالُوا : إِذَا جَاوَزَ
الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ.

فَقَالَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ - ﷺ - فِي زَمَانِهِ وَهُوَ
ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً حَدَّثَنِي أَبِي بْنُ كَعْبٍ : أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي
كَانَتْ الْمَائِ مِنَ الْمَائِ رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فِي أَوَّلِ
الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْغُسْلِ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب : پاکی کا بیان

باب : شرم گاہ کے باہم مل جانے سے غسل واجب ہونے کا بیان

حدیث نمبر : 773

:ترجمہ

(۷۷۴) (امام زہری سے روایت ہے کہ انصار کے کچھ لوگ جن
میں ابو ایوب اور ابو سعید خدریؓ بھی شامل ہیں، یہ فتویٰ
دیتے تھے کہ پانی پانی سے ہے اور جو آدمی اپنی

بیوی کے پاس آئے اور انزال نہ ہو تو اس پر غسل نہیں ہے جب یہ بات سیدنا ابن عمرؓ اور سیدہ عائشہؓ سے ذکر کی گئی تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا اور فرمایا: جب شرمگاہ شرمگاہ سے مل جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ابی بن کعبؓ فرماتے ہیں کہ "پانی پانی سے ہے" کے فتویٰ کی ابتداء اسلام میں رخصت تھی اور یہ رخصت نبی ﷺ نے دی تھی، پھر آپ ﷺ نے غسل کرنے کا حکم دے دیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement that ghusl becomes obligatory after the touching of the private parts

Hadith number: 773

Translation:

(773) It is narrated from Imam Zuhri (may Allah have mercy on him) that some people of Ansar including Abu Ayyub and Abu Saeed Al-Khudri (may Allah be pleased with them)

used to give fatwa that water is from water and if a man comes to his wife and does not ejaculate then there is no ghusl on him. When this matter was mentioned to Ibn Umar and Ayesha (may Allah be pleased with them), they denied it and said: Ghusl becomes obligatory when the private parts touch each other. Ubai ibn Ka'b (may Allah be pleased with him) says that the fatwa of "water is from water" was given allowed in the beginning of Islam and this permission was given by the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him), (but this was abrogated later on and) then the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) gave order to perform ghusl.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence)]

Sunan Kubra Bayhaqi 774

Arabic Text:

: وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذِبَارِيُّ بِنَيْسَابُورَ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ (٧٧٥)
الْحُسَيْنِ بْنِ عُمَرَ بْنِ بُرْبَانَ الْعَزَّالُ وَأَبُو الْحُسَيْنِ: مُحَمَّدُ بْنُ
الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ وَأَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ
عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ
مُحَمَّدِ الصَّفَّارِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ
عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ الْأَيْلِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ
السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ: إِنَّمَا كَانَتِ الْفُتْيَا فِي الْمَائِ
مِنَ الْمَائِ رُخْصَةً فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ نُهِيَ عَنْهَا.
وَبَذَا الْحَدِيثُ لَمْ يَسْمَعْهُ الزُّهْرِيُّ مِنْ سَهْلِ إِنَّمَا سَمِعَهُ عَنْ بَعْضِ
أَصْحَابِهِ عَنْ سَهْلِ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاكى كا بيان

باب: شرم گاه كے باہم مل جانے سے غسل واجب ہونے كا بيان

حدیث نمبر: 774

:ترجمہ

" (774) سيدنا ابى بن كعبؓ فرماتے ہیں "پانى پانى سے ہے
كے فتوے كى ابتدائے اسلام ميں رخصت تھى، پھر اس سے
منع كر ديا گیا۔"

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement that ghusl becomes
obligatory after the touching of the private
parts

Hadith number: 774

Translation:

(774) Syeduna Ubai bin Kab (may Allah be
pleased with him) says: The fatwa of "water

is from water" was initially allowed in Islam, then it was forbidden later on.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence). Narrated by Ibn Hibban 1173]

Sunan Kubra Bayhaqi 775

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذُبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ (٧٧٦)
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي
عَمْرُو يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ مَنْ
أَرْضَى أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبِي بَنَ كَعْبٍ أَخْبَرَهُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - إِنَّمَا جَعَلَ ذَلِكَ رُخْصَةً :

لِلنَّاسِ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ لِقَلَّةِ الثِّيَابِ ، ثُمَّ أَمَرَ بِالْغُسْلِ وَنَهَى عَنْ ذَلِكَ۔

وَقَدْ رُوِيَ بِإِسْنَادٍ آخَرَ مَوْصُولٍ صَحِيحٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ۔

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: شرم گاہ کے باہم مل جانے سے غسل واجب ہونے کا بیان

حدیث نمبر: 775

:ترجمہ

(۷۷۶) (سیدنا ابی بن کعب^{رض} فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے کپڑوں کے کم ہونے کی وجہ سے شروع اسلام میں لوگوں کو رخصت دی تھی، پھر آپ ﷺ نے غسل کرنے کا حکم دیا اور اس سے منع کر دیا۔) ب (صحیح موصول سند کے ساتھ سیدنا سہل بن سعد^{رض} سے بھی روایت ہے۔)

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement that ghusl becomes obligatory after the touching of the private parts

Hadith number: 775

Translation:

(775) Syeduna Ubai ibn Kab (may Allah be pleased with him) says that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) granted a concession to the people (for performing only ablution) in the beginning of Islam due to lack of clothing, then he ordered performing ghusl and forbade it.

(B) There is also a narration from Syeduna Sahl bin Saad (may Allah be pleased with him) with an uninterrupted isnad (chain of transmission).

[Sahih. Narrated by Abu Dawud 214, 215 and Tirmidhi 110 and Ibn Majah 609]

Sunan Kubra Bayhaqi 776

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ (٧٧٧)
الْمُقَرِّيُّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلٍ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الْجَمَّالُ
(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذِبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا
أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ الْحَلَبِيُّ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي غَسَّانَ عَنْ أَبِي حَارِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ
حَدَّثَنِي أَبِي بْنُ كَعْبٍ : أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِي كَانُوا يُفْتُونَ أَنَّ الْمَاءَ
مِنَ الْمَاءِ كَانَتْ رُخْصَةً رَخَّصَهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - فِي بَدْيِ
الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ أَمَرَ بِالِاغْتِسَالِ بَعْدُ. وَفِي حَدِيثِ مُوسَى بْنِ هَارُونَ
ثُمَّ أَمَرْنَا بِالِاغْتِسَالِ بَعْدُ. :

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: شرم گاہ کے باہم مل جانے سے غسل واجب ہونے کا بیان

حدیث نمبر: 776

ترجمہ:

(۷۷۷) سیدنا ابی بن کعب رض فرماتے ہیں کہ "پانی پانی سے ہے
کے فتویٰ کی شروع اسلام میں رخصت تھی اور یہ رخصت "
نبی ﷺ نے دی تھی پھر آپ ﷺ نے اس کے بعد غسل کا حکم
دیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement that ghusl becomes
obligatory after the touching of the private
parts

Hadith number: 776

Translation:

(776) Ubai ibn Kab (may Allah be pleased with him) says that the fatwa of "water is from water" was a concession granted in the beginning of Islam and this concession was given by the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) then later on he ordered ghusl (after sexual intercourse).

[Sahih. Narrated by Abu Dawud 214, 215 and Tirmidhi 110 and Ibn Majah 609]

Sunan Kubra Bayhaqi 777

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَدْلُ (٧٧٨)
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمُزَكِّي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ : أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ
لَبِيدِ الْأَنْصَارِيِّ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ أَهْلَهُ ثُمَّ
: يُكْسِلُ فَلَا يُنْزِلُ ، فَقَالَ زَيْدٌ : يَغْتَسِلُ . فَقَالَ لَهُ مَحْمُودُ بْنُ لَبِيدٍ
إِنَّ أَبِي بْنَ كَعْبٍ كَانَ لَا يَرَى الْغُسْلَ . فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : إِنَّ
أَبِيًّا نَزَعَ عَنْ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ .
قَوْلُ أَبِي بْنِ كَعْبِ الْمَائِ مِنْ الْمَائِ ثُمَّ نَزُوعُهُ عَنْهُ يَدُلُّ عَلَى
أَنَّهُ أُثْبِتَ لَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - قَالَ بَعْدُ مَا نَسَخَهُ ، وَكَذَلِكَ
عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ وَغَيْرُهُمَا .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب : پاکی کا بیان
باب : شرم گاہ کے باہم مل جانے سے غسل واجب ہونے کا بیان

حدیث نمبر: 777

ترجمہ:

(۷۷۸) محمود بن بعید انصاری نے زید بن ثابتؓ سے اس شخص کے متعلق سوال کیا جو اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے پھر ڈھیلا ہو جاتا ہے لیکن انزال نہیں ہوتا۔ سیدنا زیدؓ نے فرمایا: غسل کرے گا تو ان سے محمود بن لبید نے کہا کہ سیدنا ابی بن کعبؓ تو غسل کا نہیں کہتے تھے تو اس کو سیدنا زید بن ثابتؓ نے کہا: ابی بن کعبؓ نے مرنے سے پہلے اس فتویٰ سے رجوع کر لیا تھا۔

ب) (سیدنا ابی بن کعب کا قول "پانی پانی" سے ہے، پھر اس کو ترک کرنا اس پر دلالت ہے کہ یہ بات نبی ﷺ سے ثابت تھی، پھر اس کے بعد دوسرے فرمان نے اس کو منسوخ کر دیا۔ یہی قول سیدنا عثمان بن عفان اور علی بن ابوطالبؓ کا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement that ghusl becomes obligatory after the touching of the private parts

Hadith number: 777

Translation:

(777) (a) Mahmud ibn Baeed Ansari asked Zayd ibn Thabit (may Allah be pleased with him) about a person who goes to his wife and then loosens himself and does not ejaculate. Zayd said: He will do ghusl, then Mahmud ibn Labid said to him: Ubai ibn Kab (may Allah be pleased with him) did not say to perform ghusl, then Zayd ibn Thabit (may Allah be pleased with him) said to him: Ubai bin Kab (may Allah be pleased with him) retracted this fatwa before dying.

(B) Ubai ibn Kab's statement 'water is from water', and then abandoning it indicates that it was proven from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) and then another decree followed it. This is the view of Uthman ibn Affan and Ali ibn Abu Talib (may Allah be pleased with them).

[Sahih. Narrated by Malik 2/74]

Sunan Kubra Bayhaqi 778

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْعَدْلُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا (٧٧٩)
مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ
وَعَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ - كَانُوا يَقُولُونَ : إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ
فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان

باب : شرم گاہ کے باہم مل جانے سے غسل واجب ہونے کا بیان
حدیث نمبر : 778

:ترجمہ

(۷۷۹) (سیدنا عمر بن خطاب، عثمان بن عفانؓ اور سیدہ عائشہؓ کہتے تھے کہ جب شرمگاہ شرمگاہ سے مل جائے تو غسل واجب ہو گیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement that ghusl becomes obligatory after the touching of the private parts

Hadith number: 778

Translation:

(778) Syeduna Umar bin Khattab, Uthman bin Affan and Syeda Ayesha (may Allah be pleased with them) used to say that Ghusl became obligatory when the private parts

meet each other.

[Sahih. Narrated by Malik 2/71]

Sunan Kubra Bayhaqi 779

Arabic Text:

قَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ وَحَدَّثَنِي الدَّرَاوَزِيُّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ (٧٨٠)
عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ: مَا أَوْجَبَ الْحَدَّ أَوْجَبَ الْغُسْلَ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان

باب : شرم گاہ کے باہم مل جانے سے غسل واجب ہونے کا بیان
حدیث نمبر : 779

ترجمہ:

(۷۸۰) (جعفر اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں کہ سیدنا علیؓ کہا کرتے تھے، جس نے حد کو واجب کر دیا اس نے غسل کو بھی واجب کر دیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement that ghusl becomes obligatory after the touching of the private parts

Hadith number: 779

Translation:

(779) Jaffar (may Allah have mercy on him) narrates from his father that Syeduna Ali (may Allah be pleased with him) used to say: He who has made the hadd obligatory has

also made ghusl obligatory.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 780

Arabic Text:

وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ (٧٨١)
مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ قَالَ
سَأَلْتُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ؟ :
فَقَالَتْ : أَتَدْرِي مَا مَثَلُكَ يَا أَبَا سَلَمَةَ ، مَثَلُكَ مَثَلُ الْفَرُّوجِ
يَسْمَعُ الدِّيَكَةَ تَصْرُخُ فَيَصْرُخُ مَعَهَا ، إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانَ الْخِتَانَ
فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: شرم گاہ کے باہم مل جانے سے غسل واجب ہونے کا بیان

حدیث نمبر: 780

ترجمہ:

(۷۸۱) ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ ^{رض} سے سوال کیا: کونسی چیز غسل کو واجب کر دیتی ہے؟ انہوں نے فرمایا: اے ابو سلمہ! کیا تو جانتا ہے تیری مثال کیا ہے؟ تیری مثال مرغی کے بچے کی طرح ہے جو مرغ کو چیختے ہوئے دیکھ کر ساتھ چیختا ہے۔ جب شرمگاہ شرمگاہ سے مل جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement that ghusl becomes obligatory after the touching of the private parts

Hadith number: 780

Translation:

(780) Abu Salama ibn Abd al-Rahman says that I asked Aisha (may Allah be pleased with her): What makes ghusl obligatory? She said: O Abu Salama! Do you know what you are like? Your example is like a baby hen that crows when it sees the rooster crowing. Ghusl becomes obligatory when the private parts meet each other.

[Sahih. Narrated by Malik 2/72]

Sunan Kubra Bayhaqi 781

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بَيْغَدَادَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ (٧٨٢)
بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا ابْنُ
نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا خَالَفَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْغُسْلُ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: شرم گاہ کے باہم مل جانے سے غسل واجب ہونے کا بیان
حدیث نمبر: 781

ترجمہ:

(٧٨٢) (سیدنا ابن عمرؓ فرماتے ہیں: جب شرمگاہ شرمگاہ سے
مل جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔)

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement that ghusl becomes

obligatory after the touching of the private parts

Hadith number: 781

Translation:

(781) Syeduna Ibn Umar (may Allah be pleased with him) said: When the private parts meet each other, ghusl becomes obligatory.

[Hasan (Fair)]

Sunan Kubra Bayhaqi 782

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو قَالَا (٧٨٣)
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمِ
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّائِيِّ وَبِشَامِ
عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَأَلْتُ عُبَيْدَةَ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ؟ قَالَ الدَّفْقُ
وَالْخِلَاطُ

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاکی کا بیان

باب: شرم گاہ کے باہم مل جانے سے غسل واجب ہونے کا بیان

حدیث نمبر: 782

:ترجمہ

(٧٨٣) (ابن سيرين فرماتے ہیں: میں نے عبیدہ سے سوال کیا کہ

کونسی چیز غسل کو واجب کر دیتی ہے؟ انہوں نے فرمایا:

(منی کا (ٹپکنا اور) شرم گاہ کا (ملنا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement that ghusl becomes obligatory after the touching of the private parts

Hadith number: 782

Translation:

(782) Ibn Sirin (may Allah have mercy on him) says: I asked Ubaidah what makes ghusl obligatory? He said: Dripping (of semen) and meeting (of the private parts).

[Hasan (Fair)]

Sunan Kubra Bayhaqi 783

Arabic Text:

وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ عَلْقَمَةَ عَنْ (٧٨٤)
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مِثْلَهُ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: شرم گاہ کے باہم مل جانے سے غسل واجب ہونے کا بیان

حدیث نمبر: 783

:ترجمہ

(٧٨٤) (سیدنا عبداللہ بن مسعود^{رض} اسی طرح بیان کرتے ہیں۔)

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement that ghusl becomes obligatory after the touching of the private

parts

Hadith number: 783

Translation:

(783) Syeduna Abdullah bin Masud (may Allah be pleased with him) narrates the same way.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 784

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ (٧٨٥)
مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ الْخَزَاعِيِّ مِنْ كِتَابِهِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ
الْقَاضِي حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَابِرِ
عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِذَا جَاوَزَ

الْخِتَانُ الْخِتَانُ فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

كتاب: پاکی کا بیان

باب: شرم گاہ کے باہم مل جانے سے غسل واجب ہونے کا بیان

حدیث نمبر: 784

:ترجمہ

(785) (سیدنا عبداللہؓ فرماتے ہیں: جب شرم گاہ شرم گاہ سے مل جائے تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔)

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement that ghusl becomes obligatory after the touching of the private parts

Hadith number: 784

Translation:

(784) Syeduna Abdullah says: Ghusl becomes obligatory when the private parts meet each other.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 785

Arabic Text:

وَبِهِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْمُرِيِّ عَنِ عَلِيِّ نَحْوَهُ. (٧٨٤)

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاكى كا بيان

باب: شرم گاه كے باہم مل جانے سے غسل واجب ہونے كا بيان

حدیث نمبر: 785

ترجمہ:

(785) (سیدنا علیؑ سے بھی اسی طرح روایت ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement that ghusl becomes obligatory after the touching of the private parts

Hadith number: 785

Translation:

(785) It is narrated from Syeduna Ali (may Allah be pleased with him) in the same way.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 786

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذِبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ (٧٨٧)
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ
أَخْبَرَنِي عَمْرُو يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ
: عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - قَالَ
((الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ)) -
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ هَارُونَ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: منی نکلنے سے غسل واجب ہونے کا بیان

حدیث نمبر: 786

ترجمہ:

(۷۸۶) (سیدنا ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "پانی پانی سے ہے۔"

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement that ghusl becomes obligatory when semen is released

Hadith number: 786

Translation:

(786) It is narrated on the authority of Abu Saeed Al-Khudri (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: "Water is from water."

[Sahih. Narrated by Muslim 1/269]

Sunan Kubra Bayhaqi 787

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ (٧٨٨)
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ
عَنْ رُكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ الْفَزَارِيِّ عَنْ عَلِيِّ
قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - عَنِ الْمَدْيِ فَقَالَ ((إِذَا رَأَيْتَ
الْمَدْيَ فَتَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ، وَإِذَا رَأَيْتَ نَضْحَ الْمَائِ
((فَاغْتَسِلْ))

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
کتاب: پاکی کا بیان

باب: منی نکلنے سے غسل واجب ہونے کا بیان

حدیث نمبر: 787

ترجمہ:

(۷۸۸) (سیدنا علیؑ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے مذی کے متعلق سوال کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا " :جب تو مذی دیکھے تو وضو کر اور اپنی شرمگاہ کو دھولے اور جب تو پانی کا ٹپک کر نکلنا دیکھے تو غسل کر ۔"

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement that ghusl becomes obligatory when semen is released

Hadith number: 787

Translation:

(787) Ali (may Allah be pleased with him) said: I asked the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) about madhi. He said: When you see madhi, perform ablution and wash your private parts

and when you see water dripping out, perform ghusl. "

[Sahih. Narrated by Bukhari 178, 269 and Muslim 303 and Nasai 152, 153, 436-438 and Abu Dawud 206 and Tirmidhi 114 and Ibn Majah 504 and Ahmad 1/109, 125, 145]

Sunan Kubra Bayhaqi 788

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ (٧٨٩)
يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْكُوفِيُّ مُطِينٌ
حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الرَّوَّاسِيُّ حَدَّثَنَا حَسَنُ يَعْنِي ابْنَ
صَالِحٍ عَنْ بَيَانَ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ

صَفْوَانَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : كُنْتُ رَجُلًا مَذَائٍ ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - الْمَاءَ قَدْ آذَانِي قَالَ ((:إِنَّمَا الْغُسْلُ مِنَ الْمَاءِ الدَّافِقِ)) (-).

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: منی نکلنے سے غسل واجب ہونے کا بیان

حدیث نمبر: 788

ترجمہ:

(۷۸۹) (سیدنا علیؑ فرماتے ہیں: مجھے بہت زیادہ مزی آتی تھی

تو جب رسول اللہ ﷺ کو پتا چلا کہ پانی نے مجھے تکلیف دی

ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا: غسل تو ٹپک کر نکلنے والے پانی

سے ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement that ghusl becomes

obligatory when semen is released

Hadith number: 788

Translation:

(788) Syeduna Ali (may Allah be pleased with him) said: I used to get emit alot of madhi. When the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) put found out that the water had harmed me, he said: Ghusl is from dripping water.

[Daif (Weak). Narrated by Abu Yala 362]

Sunan Kubra Bayhaqi 789

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْعَبْدَوِيُّ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ (٧٩٠)
 الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَرُوبَةَ: الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي مَعْشَرٍ السُّلَمِيُّ
 بِحَرَّانَ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ
 اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ أَخِيهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ
 عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - عَنِ الرَّجُلِ يَرَى فِي
 الْمَنَامِ الْبَلْلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا ، قَالَ ((:يَغْتَسِلُ ، وَإِنْ رَأَى أَنَّهُ
 احْتَلَمَ وَلَمْ يَرَ بَلْلًا فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ)) (-).

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: خواب میں آدمی کو احتلام ہونے کا بیان
 حدیث نمبر: 789

:ترجمہ

(٧٩٠) (سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے اس شخص کے متعلق سوال کیا گیا جو نیند میں تری کو دیکھتا ہے اور احتلام اسے یاد نہیں رہتا۔ آپ ﷺ نے فرمایا " :غسل کرے گا اور اگر اس نے دیکھا کہ اس کو احتلام ہو گیا اور تری نہیں دیکھی تو اس پر غسل نہیں ہے "۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on a man having wet dreams

Hadith number: 789

Translation:

(789) Ayesha (may Allah be pleased with her) says that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) was asked about a person who sees wetness in his sleep and does not remember having a wet dream. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "He will perform ghusl, and if he knows that he had a wet dream but does not see the wetness, then ghusl is not required for him."

[Hasan Li Ghayrihi (Fair due to external evidence). Narrated by AbdulRazzaq 4694]

Sunan Kubra Bayhaqi 790

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدٌ (٧٩١)
بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا مَالِكُ
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ غَالِبِ الْخَوَارِزْمِيِّ (ح)
بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ يَعْنِي ابْنَ حَمْدَانَ
النَّيْسَابُورِيَّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ
حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ بِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
: زَيْنَبِ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ - أَنَّهَا قَالَتْ
جَاءَتْ أُمَّ سُلَيْمٍ امْرَأَةَ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيِّ إِلَى

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ

: الْحَقِّ ، بَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلِ إِذَا بَيَّ احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ

((نَعَمْ إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ)) (-)

لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ يُوسُفَ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُوَيْسٍ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ أَوْجِهِ
أَخْرَجَ عَنْ بِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ -
:مِنْهَا مَا

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مرد کی طرح عورت کو بھی نیند میں احتلام ممکن ہے

حدیث نمبر: 790

:ترجمہ

(۷۹۱) (سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا جو ابو طلحہ

انصاری کی بیوی تھی رسول اللہ ﷺ کے پاس آئیں اور عرض

کیا: اے اللہ کے رسول! بیشک اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے سے

نہیں شرماتا۔ جب عورت کو احتلام ہو جائے تو کیا اس پر غسل

ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "جی ہاں جب

پانی دیکھے ۔"

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Just like men, women can also experience wet dreams during sleep

Hadith number: 790

Translation:

(790) Umm Salma (may Allah be pleased with her) said: Umm Sulaym, the wife of Abu Talha Ansari, came to the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) and said: O Messenger of Allah! Indeed, Allah is not ashamed to tell the truth. When a woman experiences nocturnal emissions, is ghusl obligatory on her? He said: "Yes, when you see water."

[Sahih. Narrated by Bukhari 130, 282, 3328, 6091, 6121 and Muslim 313 and Nasai 197 and Tirmidhi 122 and Ibn Majah 600 and

Sunan Kubra Bayhaqi 791

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ (٧٩٢)
مُحَمَّدِ الْكَعْبِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
، شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ بِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ
وَزَادَ فَقُلْتُ لَهَا : فَضَحَتْ النِّسَاءُ وَبَلَّ تَحْتَلِمُ الْمَرْأَةُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ -
((صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -)) : تَرَبَّتْ يَمِينُكَ ، فِيمَ يُشْبِهُهَا وَلَذُبَا إِذَا ((-)).
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ كَذَا قَالَ بِشَامٌ ، وَخَالَفَهُ
الزُّهْرِيُّ فَقَالَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاكى كا بيان

باب: مرد كى طرح عورت كو بهى نيند ميں احتلام ممكن هے

حديث نمبر: 791

:ترجمہ

(792) Hisham ibn Urwah has narrated a hadith from his father that the Prophet ﷺ said: "Just like men, women can also experience wet dreams during sleep." (791)

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Just like men, women can also experience wet dreams during sleep

Hadith number: 791

Translation:

(791) Hisham ibn Urwah has narrated a

synonymous narration from the same chain of transmission with an addition which is: I said to him: Does water flow from women, that is, do women have wet dreams? The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: Let your hand be covered with dust, in what way does her child resemble her? (Let your hand be covered with dust is an Arabic expression you say to a person when you contradict his statement meaning "you will not achieve goodness"),

[Sahih. Narrated by Bukhari 130, 282, 3328, 6091, 6121 and Muslim 313 and Nasai 197 and Tirmidhi 122 and Ibn Majah 600 and Malik 2/85 and Ahmad 6/292, 302, 306]

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ أَنْ خَبَرَنَا (٧٩٣)
أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّفَّارِ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ يَعْنِي ابْنَ شَرِيكِ حَدَّثَنَا يَحْيَى
يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ - أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ : أَنَّ أُمَّ
سُلَيْمٍ أُمَّ بَنِي أَبِي طَلْحَةَ ذَهَبَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - فَقَالَتْ : يَا
رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ، أَرَأَيْتَ الْمَرْأَةَ تَرَى فِي
: النَّوْمِ مَا يَرَى الرَّجُلُ أَتَغْتَسِلُ؟ قَالَ ((نَعَمْ)) - قَالَتْ عَائِشَةُ
: أَفَ لَكَ ، أَتَرَى الْمَرْأَةَ ذَلِكَ؟ فَالْتَفَتَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - فَقَالَ
((تَرَبَّتْ يَدَاكِ ، فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟)) -
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ
اللَّيْثِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ وَالزُّبَيْدِيُّ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيُّ عَنْ
الزُّهْرِيِّ وَأَرْسَلَهُ مَالِكٌ عَنْهُ فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ إِلَّا أَنَّ ابْنَ أَبِي
الْوَزِيرِ رَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ فَأَسْنَدَهُ كَذَلِكَ -
وَرَوَاهُ مُسَافِعُ الْحَجَبِيُّ عَنْ عُرْوَةَ نَحْوَ رِوَايَةِ الزُّهْرِيِّ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مرد کی طرح عورت کو بھی نیند میں احتلام ممکن ہے

حدیث نمبر: 792

ترجمہ:

(۷۹۳) ام المؤمنین سیدہ عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ام سلیمؓ جو ابوظلحہ کے بیٹوں کی ماں تھیں رسول اللہ کے پاس آئیں، عرض کیا: اے اللہ کے رسول! بیشک اللہ حق بیان کرنے سے نہیں شرماتا آپ کا کیا خیال ہے اگر عورت نیند میں اس طرح دیکھے جس طرح مرد دیکھتا ہے تو کیا وہ غسل کرے گی؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "ہاں" سیدہ عائشہؓ نے کہا: تیرے لیے افسوس ہو کیا عورت بھی یہ دیکھتی ہے؟ تو رسول اللہ ﷺ نے متوجہ ہو کر فرمایا: "تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں تو مشابہت " کہاں سے ہوتی ہے؟"

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Just like men, women can also

experience wet dreams during sleep

Hadith number: 792

Translation:

(792) Umm Al-Mu'minin Ayesha (may Allah be pleased with her) said: Umm Sulaym, the mother of Abu Talha's sons, came to the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) and said: O Messenger of Allah! Indeed, Allah is not ashamed to tell the truth. What do you say about a woman who sees what a man sees (in dream i.e wet dream), should she perform ghusl. He said: "Yes." She said: Alas for you. Does a woman see this too? The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: "Let your hand be covered with dust, how else would a child resemble her (mother)?

[Sahih. Narrated by Muslim 310, 311]

Sunan Kubra Bayhaqi 793

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ (٧٩٤)
الْأَصَمُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيلٍ حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ

وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرٍو بْنُ (ح)
أَبِي جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا

ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ مُسَافِعِ بْنِ
: عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ

يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ تَغْتَسِلُ الْمَرْأَةُ إِذَا اخْتَلَمَتْ أَوْ أَبْصَرَتْ الْمَاءَ؟
فَقَالَ : نَعَمْ . فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ : تَرَبَّتْ يَدَاكِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -

((: دَعِيهَا ، وَهَلْ يَكُونُ الشَّبَهُ إِلَّا مِنْ قَبْلِ ذَلِكَ ، إِذَا عَلَا مَآؤُهَا
مَاءَ الرَّجُلِ أَشَبَهُ الْوَلَدُ أَخْوَالَهُ ، وَإِذَا عَلَا مَاءُ الرَّجُلِ مَائَهَا

أَشَبَهُ الْوَلَدُ أَعْمَامَهُ)) .

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ وَغَيْرِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ
زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مرد کی طرح عورت کو بھی نیند میں احتلام ممکن ہے

حدیث نمبر: 793

ترجمہ:

(۷۹۴) (سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک عورت نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا عورت غسل کرے گی جب اس کو احتلام ہو جائے یا وہ پانی دیکھے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں تو اس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا: تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس کو چھوڑ۔ مشابہت اسی وجہ سے تو ہوتی ہے۔ جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آجاتا ہے تو بچہ اپنی ماموؤں کے مشابہ ہوتا ہے اور جب آدمی کا پانی غالب آجاتا ہے تو بچہ اپنے چچاؤں کے مشابہ ہوتا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Just like men, women can also experience wet dreams during sleep

Hadith number: 793

Translation:

(793) Aisha (may Allah be pleased with her) said: A woman said: O Messenger of Allah! Will a woman take a bath when she has a wet dream or sees water? He said: Yes, then Ayesha said to him: May your hand be covered with dust. The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: Leave her alone. This is how the child resembles. When the genes contributed by woman prevail upon those of man, the child resembles the maternal family, and when the genes of man prevail upon those of woman the child resembles the paternal family.

[Sahih. Narrated by Muslim 314]

Sunan Kubra Bayhaqi 794

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ (٧٩٥)
يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهَلَالِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ
وَحُصَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالُوا أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا صَالِحُ
: بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ
سَأَلْتُ امْرَأَةً رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى
الرَّجُلُ فِي الْمَنَامِ فَقَالَ ((إِذَا كَانَ مِنْهَا مَا يَكُونُ مِنَ الرَّجُلِ
فَلْتُغْتَسِلْ)) -
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ رُشَيْدٍ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان
باب: مرد کی طرح عورت کو بھی نیند میں احتلام ممکن

ہے
حدیث نمبر: 794

ترجمہ:

(۷۹۵) سیدنا انس بن مالک رض سے روایت ہے کہ ایک عورت نے رسول اللہ ﷺ سے اس عورت کے متعلق سوال کیا جو اپنی نیند میں وہ کچھ دیکھتی ہے جو آدمی دیکھتا ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا " :جو آدمی کو پیش آتا ہے وہ عورت کو بھی پیش آئیتو وہ غسل کرے "-

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Just like men, women can also experience wet dreams during sleep

Hadith number: 794

Translation:

(794) It is narrated on the authority of Anas ibn Malik (may Allah be pleased with him) that a woman asked the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) about a

woman who sees in her sleep what a man sees, so the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "If she experiences what a man experiences, she should take a bath."

[Sahih. Narrated by Muslim 312]

Sunan Kubra Bayhaqi 795

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذِبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ (٧٩٦)
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدِ الْخَيَّاطِ
:حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا
قَالَ :يَغْتَسِلُ- وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنْ قَدْ احْتَلَمَ وَلَا

يَجِدُ الْبَلَّلَ قَالَ)) : لَا غُسْلَ عَلَيْهِ ((. فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ : فَأَلْمَرَأَةُ تَرَى ذَلِكَ أَعْلَيْهَا غُسْلٌ؟ قَالَ)) : نَعَمْ، إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ ((.))

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مرد کی طرح عورت کو بھی نیند میں احتلام ممکن ہے

حدیث نمبر: 795

ترجمہ:

(۷۹۶) (سیدہ عائشہ رض فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے متعلق سوال کیا گیا جو تری پاتا ہے اور احتلام اسے یاد نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: غسل کرے گا اور اس شخص کے متعلق پوچھا گیا جو دیکھتا ہے کہ اس کو احتلام ہو گیا ہے اور وہ تری نہیں پاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اس پر غسل نہیں ہے۔" ام سلیم رض نے عرض کیا: اگر عورت یہ دیکھے تو کیا اس پر غسل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "ہاں عورتیں مردوں کے مشابہ ہوتی ہیں۔"

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Just like men, women can also experience wet dreams during sleep

Hadith number: 795

Translation:

(795) Ayesha says that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) was asked about a person who found moisture (on his body or clothes) but did not remember the wet dream. He replied: He should perform ghusl. He was asked about a person who remembered that he had a wet dream but did not find moisture. He replied: Ghusl is not necessary for him. Umm Salamah (may Allah be pleased with her) then asked: Is ghusl necessary for a woman if she sees that (in her dream)? He replied: Yes. Women are the counterpart of men.

[Sahih. Narrated by Abu Dawud 236 and

Tirmidhi 113 and Ibn Majah 612 and Ahmad
6/256]

Sunan Kubra Bayhaqi 796

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ (٧٩٧)
يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ
أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ

ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا
عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى وَأَحْمَدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا
الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا

سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ حَدَّثَتْ: أَنَّهَا
سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى
الرَّجُلُ فِي مَنَامِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - ((إِذَا رَأَتْ ذَلِكَ
الْمَرْأَةُ فَلْتَغْتَسِلْ)) (- فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ وَاسْتَحَيْتُ مِنْ ذَلِكَ : وَهَلْ
يَكُونُ بَدَأًا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -)) : فَمِنْ أَيَّنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟
إِنَّ مَاءَ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضٌ وَمَاءُ الْمَرْأَةِ رَقِيقٌ أَصْفَرٌ ، فَمِنْ أَيِّهِمَا
عَلَا أَوْ سَبَقَ يَكُونُ مِنْهُ الشَّبَهُ)) (-
لَفْظُ حَدِيثِ الْعَبَّاسِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْوَلِيدِ
النَّرْسِيِّ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: مرد و عورت کے پانی (منی) کا بیان جس سے غسل
واجب ہوتا ہے۔
حدیث نمبر: 796

ترجمہ:

(۷۹۷) (سیدہ ام سلیم^{رض} نے حدیث بیان کی کہ انہوں نے رسول اللہ
ﷺ سے اس عورت کے متعلق سوال کیا جو

" :اپنی نیند میں مرد کی طرح دیکھے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا :
جب عورت یہ دیکھے تو وہ غسل کرے "۔ ام سلیم کہتی ہیں
میں نے شرماتے ہوئے پوچھا :کیا یہ بھی ہوتا ہے؟ رسول اللہ
ﷺ نے فرمایا " :تو مشابہت کہاں سے ہوتی ہے؟ آدمی کا پانی
سفید گاڑھا اور عورت کا پانی پتلا زرد ہوتا ہے اور ان دونوں
میں سے جو غالب آجائے یا سبقت لے جائے اس سے مشابہت
ہوتی ہے "۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the water (semen) of
men and women which makes ghusl
obligatory

Hadith number: 796

Translation:

(796) Syeda Umm Sulaym narrated that she
asked the Messenger of Allah (peace and
blessings of Allah be upon him) about a
woman who sees in a dream what a man sees
(wet dream). The Messenger of Allah

(peace and blessings of Allah be upon him) said: When a woman sees this, she should perform ghusl. Umm Saleem says: I asked shyly: Does this also happen? The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: How else can (a child) resemble her? Man's discharge (i.e. sperm) is thick and white and the discharge of a woman is thin and yellow; so the resemblance comes from the one whose genes prevail or dominate.

[Sahih. Narrated by Muslim 311 and Nasai 195 and Ibn Majah 601 and Ahmad 3/121, 199, 282 and Darimi 791]

Sunan Kubra Bayhaqi 797

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ (٧٩٨) بَبْغَدَادَ أَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلٍ بْنُ زِيَادِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى :عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ الدَّيْرِ عَاقُولِي أَخْبَرَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةَ بْنُ سَلَامٍ

عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أَسْمَاءَ الرَّحْبِيُّ أَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ : كُنْتُ قَائِمًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَجَاءَ حَبْرٌ مِنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ. قَالَ : فَدَفَعْتُهُ دَفْعَةً كَادَ يُصْرَعُ مِنْهَا ، فَقَالَ الْيَهُودِيُّ : لِمَ دَفَعْتَنِي؟ فَقُلْتُ : أَلَا تَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ الْيَهُودِيُّ : إِنَّمَا نَدَعُوهُ بِاسْمِهِ الَّذِي سَمَّاهُ بِهِ أَبُلَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - : ((إِنِّ اسْمِي الَّذِي سَمَّانِي بِهِ أَهْلِي مُحَمَّدٌ)) . (قَالَ الْيَهُودِيُّ جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنْ شَيْءٍ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -) : أَيْنَفَعَكَ شَيْءٌ إِنْ حَدَّثْتُكَ؟ ((قَالَ : أَسْمَعُ بِأُدْنَى . فَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - بِعُودٍ مَعَهُ ثُمَّ قَالَ)) : سَلْ ((. فَقَالَ الْيَهُودِيُّ : أَيْنَ يَكُونُ النَّاسُ يَوْمَ : -تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - : ((إِيَّاهُمْ فِي الظُّلْمَةِ دُونَ الْجِسْرِ)) . قَالَ : فَمَنْ أَوَّلُ النَّاسِ إِجَارَةٌ؟ قَالَ : ((فُقَرَاءُ الْمُهَاجِرِينَ)) . (قَالَ الْيَهُودِيُّ : فَمَا تُحَفَّتُهُمْ حِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ؟ قَالَ)) : زِيَادَةُ كَبِدِ النَّوْنِ ((. قَالَ : فَمَا غِذَاؤُهُمْ عَلَى أَثْرَبًا؟ قَالَ)) : يُنْحَرُ لَهُمْ ثَوْرُ الْجَنَّةِ الَّذِي كَانَ

يَأْكُلُ مِنْ أَطْرَافِهَا)) (۔ قَالَ :فَمَا شَرَابُهُمْ عَلَيْهِ؟ قَالَ)) :مِنْ عَيْنٍ فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا)) (۔ فَقَالَ :صَدَقْتَ۔ قَالَ وَجِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنْ شَيْءٍ لَا يَعْلَمُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ رَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ۔ قَالَ)) :أَيَنْفَعُكَ إِنْ حَدَّثْتُكَ)) (۔ قَالَ :أَسْمَعُ بِأُذُنِي۔ قَالَ :جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنِ الْوَالِدِ۔ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ -)) :مَا يُرَى الرَّجُلُ أَبْيَضُ وَمَا يُرَى الْمَرْأَةُ أَصْفَرُ ، فَإِذَا عَلَا مِنْهُ الرَّجُلُ مِنْهُ الْمَرْأَةُ أَذْكَرًا بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَإِذَا عَلَا مِنْهُ الْمَرْأَةُ مِنْهُ الرَّجُلُ أَنْتَا بِإِذْنِ اللَّهِ)) (۔ فَقَالَ :صَدَقْتَ ، وَإِنَّكَ لِنَبِيٍّ۔ ثُمَّ أَنْصَرَفَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ -)) :لَقَدْ سَأَلَنِي بِذَا عَنِ الَّذِي سَأَلَنِي وَمَا لِي بِشَيْءٍ مِنْهُ عِلْمٌ حَتَّى آتَانِي اللَّهُ بِهِ)) (۔ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْخُلَوَانِيِّ عَنْ أَبِي تَوْبَةَ۔

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مرد و عورت کے پانی (منی) کا بیان جس سے غسل

واجب ہوتا ہے۔

حدیث نمبر: 797

:ترجمہ

(۷۹۸) رسول اللہ ﷺ کے غلام سیدنا ثوبانؓ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس کھڑا تھا، ایک یہودی عالم آیا اور کہا: السلام علیکم یا محمد! راوی کہتا ہے کہ میں نے اس کو زور سے ہٹایا۔ قریب تھا کہ وہ گر جاتا۔ یہودی نے کہا: تو نے مجھے کیوں ہٹایا ہے؟ میں نے کہا: تو یا رسول اللہ کیوں نہیں کہتا؟ یہودی نے کہا: ہم اس کو اسی نام سے پکاریں گے جو نام " :نام ان کے گھر والوں نے رکھا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میرے گھر والوں نے جو میرا نام رکھا ہے وہ محمد (ﷺ) ہے۔ یہودی نے کہا: میں آپ سے کچھ چیزوں کے بارے میں سوال کرنے آیا ہوں تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " :اگر میں تجھ کو کوئی بات بتاؤں تو تجھ کو فائدہ دے گی؟ اس نے کہا: میں اپنے کانوں سے سنوں گا تو رسول اللہ نے لکڑی کے ساتھ کریدا جو آپ ﷺ کے پاس تھی، پھر فرمایا " :سوال کر۔ یہودی نے کہا: لوگ (اس وقت) کہاں ہوں گے جب زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: پل صراط کے علاوہ اندھیرے میں ہوں گے۔ " اس نے کہا: کن لوگوں کو سب سے پہلے (جنت جانے کی) اجازت دی جائے گی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: فقیر مہاجرین کو "۔ یہودی نے کہا: جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کا تحفہ کیا ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: مچھلی کے جگر سے مہمان نوازی۔ اس نے کہا: اس کے بعد ان کی غذا کیا ہوگی؟ آپ ﷺ نے فرمایا " :ان کے

لیے جنت کا بیل ذبح کیا جائے گا۔ جو اس جنت کے مختلف حصوں میں کھاتا پیتا ہے۔ " اس نے کہا: ان کا پینا کیا ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: " ایک چشمہ جس کا نام سبیل ہوگا۔ " اس نے کہا: آپ ﷺ نے سچ کہا۔ پھر اس نے کہا اور میں آپ سے ایسی چیز کے متعلق سوال کرنے آیا ہوں جس کو اہل زمین میں سے کوئی نہیں جانتا، مگر نبی یا ایک یا دو آدمی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر آپ کو کوئی بات بتاؤں کیا آپ کو وہ فائدہ دے گی۔ اس نے کہا: میں اپنے کانوں سے سنوں گا اور کہا: میں آپ سے بچے " کے متعلق سوال کرنے کے لیے آیا ہوں۔ نبی ﷺ نے فرمایا، آدمی کا پانی سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی زرد ہوتا ہے جب آدمی کی منی عورت کی منی پر غالب آجاتی ہے تو دونوں اللہ کے حکم سے لڑکا پیدا کرتے ہیں اور جب عورت کی منی مرد کی منی پر غالب آجاتی ہے تو اللہ کے حکم سے لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ اس نے کہا: آپ نے سچ کہا: بیشک آپ سچے نبی ہیں، پھر وہ واپس چلا گیا۔ نبی ﷺ نے فرمایا: البتہ جن چیزوں کے متعلق اس نے مجھ سے سوال کیا میرے پاس اس کا کوئی علم نہیں تھا، پھر اللہ نے مجھے ان کا علم دے دیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the water (semen) of men and women which makes ghusl obligatory

Hadith number: 797

Translation:

(797) Syeduna Thawban (may Allah be pleased with him), the slave of the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him), says that I was standing next to the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him), a Jewish scholar came and said: Peace be upon you, O Muhammad! The narrator says that I forcibly pushed him. He was about to fall. The Jew said: Why have you pushed me? I said: Why don't you say O Messenger of Allah (instead of O Muhammad)? The Jew said: We will call him by the name given to him by his family. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: My family name is

Muhammad (peace and blessings of Allah be upon him). The Jew said: I have come to ask you about some things. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: Should that thing be of any benefit to you, if I tell you that? He said: I will lend my ears to it. Then the Messenger of Allah (peace be upon him) drew a line with the help of the stick that he had with him, then he said: Ask. The Jew said: Where will the people be (when) the heavens and the earth are changed? The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: The bridges will be in darkness except for the straight ones. He said: Who will be the first to be allowed (to go to Paradise). He said: "The poor emigrants". The Jew said: What will be their gift when they enter Paradise? He said: Hospitality with fish liver. He said: What will be their food after that? He said: A bull of Paradise, who eats and drinks in different parts of paradise, will be slaughtered for them. He said: What

will be their drink? He said: A spring with the name Sabeel. He said: You have told the truth. Then he said: I have come to ask you about a thing which no one amongst the people on the earth knows except an apostle or one or two men besides him. He said: Would it benefit you if I tell you that? He said: I will lend my ears to it and said: I have come to ask you about the child. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: The water of man is white and that of woman is yellow, and when the male's substance (chromosomes and genes) prevails upon the female's substance (chromosomes and genes), it is the male child that is created by Allah's Decree, and when the substance of the female prevails upon the substance contributed by the male, a female child is formed by the Decree of Allah. He said: You have told the truth. Surely you are a true prophet. Then he went back. The Prophet (peace and blessings of Allah be

upon him) said: I had no knowledge of the things he asked me about, but then Allah gave me knowledge of them.

[Sahih. Narrated by Muslim 315]

Sunan Kubra Bayhaqi 798

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذُبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ (٧٩٩)
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ الْحَدَّائِيُّ عَنِ
الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ قَبِيصَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كُنْتُ
رَجُلًا مَدَائِيًّا، فَجَعَلْتُ أَعْتَسِلُ حَتَّى تَشَقَّ ظَهْرِي قَالَ فَذَكَرْتُ
:- ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ - أَوْ ذَكَرَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -

لَا تَفْعَلْ، إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ وَضُوءَ كَ))
لِلصَّلَاةِ، فَإِذَا نَضَحْتَ الْمَائَ فَاغْتَسِلْ))-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مذی اور ودی غسل سے واجب نہیں ہوتا

حدیث نمبر: 798

ترجمہ:

(۷۹۹) (سیدنا علیؑ فرماتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ مذی آتی تھی، میں غسل کرتا تھا یہاں تک کہ میری کمر میں زخم ہو گیا۔ ہو گیا۔ راوی کہتا ہے: میں نے یہ بات نبی ﷺ سے ذکر کی یا آپ ﷺ سے ذکر کی گئی تو آپ ﷺ نے فرمایا " :تو ایسے نہ کر جب تو مذی کو دیکھے تو اپنی شرم گاہ کو دھو اور نماز جیسا وضو کر اور جب تو زور سے پانی بہائے (یعنی منی " خارج ہو (تو غسل کر۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Madhi and Wadi does not make ghusl obligatory

Hadith number: 798

Translation:

(798) Syeduna Ali (may Allah be pleased with him) says that I used to emit alot of madhi, I used to (continuously) perform ghusl until I got a wound on my back. The narrator says: I mentioned this to the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) or it was mentioned to him. He said: "Do not do this. When you see madhi, wash your private parts and perform ablution like you do for prayer and when alot of water emits with force (meaning when sperm is released) then perform ghusl"

[Sahih. Narrated by Bukhari 132, 178 and Muslim 303 and Nasai 152, 157 and 438 and Abu Dawud 207, 208, 209 and Ahmad 1/80, 82, 103, 124, 140]

[SHARH] Explanation:

{Wadi is defined as a thick white cloudy secretion that has no smell, and usually follows urination and can sometimes come before it. Whereas madhi is a clear thin secretion that exits in small amounts (when having a lustful thought or when making a lustful glance). Both of these secretions are considered filth and necessitate wudu without ghusl}

Sunan Kubra Bayhaqi 799

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ : عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ (٨٠٠)
 إِسْحَاقَ بْنِ شَيْبَانَ الْبَغْدَادِيَّ الْهَرَوِيَّ أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا
 خَلَادُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ زُرْعَةَ أَبِي عَبْدِ
 الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : الْمَنِيُّ وَالْمَذْيُ وَالْوَدْيُ
 : أَمَّا الْمَنِيُّ فَهُوَ الَّذِي مِنْهُ الْغُسْلُ ، وَأَمَّا الْوَدْيُ وَالْمَذْيُ فَقَالَ ،
 اغْسِلْ ذَكَرَكَ أَوْ مَذَاكِيرَكَ وَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ -
 وَرَوَيْنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي الْمَذْيِ
 بِنَحْوِهِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: مذی اور ودی غسل سے واجب نہیں ہوتا
 حدیث نمبر: 799

:ترجمہ

(٨٠٠) (زرعہ ابو عبدالرحمن کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابن
 عباسؓ کو منی، مذی اور ودی کے متعلق کہتے ہوئے سنا: منی
 منی سے غسل ہے اور ودی اور مذی کے متعلق فرمایا کہ
 اپنی شرمگاہ کو دھو اور نماز جیسا وضو کر۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Madhi and Wadi does not make ghusl obligatory

Hadith number: 799

Translation:

(799) Zara Abu Abd al-Rahman says that I heard Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) talking about semen, madhi and wadi: Semen makes ghusl obligatory and regarding wadi and madhi he said that wash your private parts and perform ablution like prayer.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence). Narrated by Ibn Abi Shaybah 984]

Sunan Kubra Bayhaqi 800

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا (٨٠١)
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَبْدِ الْحَكَمِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَدْلُ حَدَّثَنَا أَبُو
بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمُرَكِّي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ
حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ بِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ زَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ أَنَّهُ قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى
: الْجُرْفِ فَنَظَرُ ، فَإِذَا هُوَ قَدْ اِحْتَلَمَ وَصَلَّى وَلَمْ يَغْتَسِلْ ، فَقَالَ
وَاللَّهِ مَا أَرَانِي إِلَّا قَدْ اِحْتَلَمْتُ وَمَا شَعَرْتُ وَصَلَّيْتُ وَمَا اغْتَسَلْتُ -
فَاغْتَسَلَ وَغَسَلَ مَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ وَنَضَحَ مَا لَمْ يَرِ ، وَأَذَّنَ وَأَقَامَ
ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ ارْتِفَاعِ الضُّحَى مُتَمَكِّنًا. لَفْظُ ابْنِ بُكَيْرٍ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: کپڑوں پر منی ہو لیکن احتلام یاد نہ ہو

حدیث نمبر: 800

ترجمہ:

(۸۰۱) (زبید بن صلت سے روایت ہے کہ میں سیدنا عمر بن خطابؓ کے ساتھ جرف کی طرف نکلا، انہوں نے دیکھا کہ ان کو احتلام ہوا تھا، انہوں نے نماز پڑھی لیکن غسل نہیں کیا اور فرمایا: اللہ کی قسم! مجھے احتلام کا علم نہیں ہوا اور میں نے نماز پڑھ لی جب کہ میں نے غسل نہیں کیا تھا، پھر انہوں نے غسل کیا اور اس جگہ کو دھویا جو انہوں نے اپنے کپڑوں میں دیکھی تھی اور) اس جگہ (چھینٹے مارے جو انہوں نے نہیں دیکھا اور اذان دی اور اقامت کہی، سورج بلند ہونے کے بعد اسی جگہ نماز پڑھی۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: If you do not remember having a wet dream but see wetness on your clothes

Hadith number: 800

Translation:

(800) It is narrated on the authority of Zubayd ibn Salat that I went to Juruf with Umar ibn al-Khattab (may Allah be pleased with him). He noticed that he had had a wet dream and had prayed without doing ghusl and said: By Allah! I did not know about the wet dream and I prayed when I did not do ghusl, then he did ghusl and washed the place which he saw on his clothes and sprinkled water (on that place) which he did not see. Then he gave the azan (for prayers) and said the iqamah, after the sun rose, he offered prayers in the same place.

[Sahih. Narrated by Malik 2/80]

Sunan Kubra Bayhaqi 801

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ جَعْفَرٍ (٨٠٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ صَلَّى الصُّبْحَ بِالنَّاسِ ثُمَّ غَدَا إِلَى أَرْضِهِ بِالْجُرْفِ ، فَوَجَدَ فِي ثَوْبِهِ اِحْتِلَامًا فَقَالَ : إِنَّا لَمَّا أَصَبْنَا الْوَدَكَ لَأَنْتِ الْعُرُوقُ- فَاغْتَسَلَ وَغَسَلَ مَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ مِنَ الْاِحْتِلَامِ وَأَعَادَ الصَّلَاةَ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: کپڑوں پر منی ہو لیکن احتلام یاد نہ ہو

حدیث نمبر: 801

:ترجمہ

(٨٠٢) (سلیمان بن یسار سے روایت ہے کہ سیدنا عمر بن خطابؓ نے لوگوں کو صبح کی نماز پڑھائی، پھر اپنی زمین، جرف کی طرف گئے تو اپنے کپڑوں میں احتلام پایا،

پھر کہا: جب ہمیں احتلام ہوتا ہے تو رگیں نرم ہوجاتی ہیں۔
پھر انہوں نے غسل کیا اور احتلام کو اپنے کپڑوں سے دھویا
اور نماز دوبارہ لوٹائی۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: If you do not remember having a wet
dream but see wetness on your clothes

Hadith number: 801

Translation:

(801) It is narrated on the authority of Sulayman ibn Yasar that Umar ibn al-Khattab (may Allah be pleased with him) led the people in the morning prayer and then went out to his land in Juruf and found semen on his clothes. He said, "When we experience wet dreams, the veins become soft." Then he did ghusl, washed the semen from his clothing, and did his prayer again.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence). Narrated by Malik 2/82]

Sunan Kubra Bayhaqi 802

Arabic Text:

: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ (٨٠٣) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي ذُنُبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ وَكَانَتْ امْرَأَةً عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - عَنِ ذَلِكَ فَقَالَ ((إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي)) . فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ . مُخْرَجٌ فِي كِتَابِ الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي

ذُنْبٍ

وَفِي كِتَابِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ
عَنْهُمَا.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: حائضہ غسل کرے گی جب وہ پاک ہوگی

حدیث نمبر: 802

:ترجمہ

(۸۰۳) (سیدہ عائشہ رض سے روایت ہے کہ ام حبیبہ بنت جحش
سات سال استحاضہ والی رہیں اور وہ عبد الرحمن بن عوف رض
کی بیوی تھی۔ فرماتی ہیں: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا " :وہ ایک رگ ہے حیض نہیں ہے غسل
" کر اور نماز پڑھ، وہ ہر نماز کے لیے غسل کرتی تھیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The menstruating woman has to perform ghusl when she is pure

Hadith number: 802

Translation:

(802) It is narrated on the authority of Ayesha (may Allah be pleased with her) that Umm Habiba bint Jahsh had been in Istihadah (abnormal vaginal bleeding outside the time of the menstruation) for seven years and she was the wife of Abdul Rahman bin Awf (may Allah be pleased with him). She said: I asked the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) and he said: It is a vein, not menstruation. Perform ghusl and pray, she used to perform ghusl for every prayer. "

[Sahih. Narrated by Bukhari 228 and Muslim 333 and Nasai 218, 364 and Tirmidhi 125 and Ibn Majah 621]

Sunan Kubra Bayhaqi 803

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِسْحَاقُ (٨٠٤)
بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ السُّوسِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزِيدٍ أَخْبَرَنِي أَبِي
حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ
وَعَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَّارَةَ -
أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَتْ : اسْتَحِيضَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ
جَحْشٍ وَبِي تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ سَبْعَ سِنِينَ وَاشْتَكَّتْ
ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - ((: إِنَّهَا
قُبِلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِيَ َ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ ، فَإِذَا
: الصَّلَاةَ ، وَإِذَا أَدْبَرْتَ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي)) . (. قَالَتْ عَائِشَةُ
وَكَانَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ تَقْعُدُ فِي مِرْكَانٍ لِأُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حَتَّى
إِنَّ حُمْرَةَ الدَّمِ لَتَعْلُو الْمَاءِ -
قَالَ الشَّيْخُ : قَوْلُهُ : فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ . فِي هَذَا الْحَدِيثِ

لَمْ يَذْكُرْهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِ الزُّبَيْرِيِّ غَيْرُ الْأَوْزَاعِيِّ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: حائضہ غسل کرے گی جب وہ پاک ہوگی

حدیث نمبر: 803

:ترجمہ

(۸۰۴) سیدہ عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ام حبیبہ بنت جحشؓ سات سال مستحاضہ رہیں اور یہ عبد الرحمن بن عوفؓ کی بیوی تھیں، انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے شکایت کی تو آپ ﷺ نے فرمایا " یہ حیض نہیں ہے بلکہ ایک رگ ہے، جب خون آئے تو نماز چھوڑ دے اور جب رک جائے تو غسل کر، پھر نماز ادا کر۔ " سیدہ عائشہؓ فرماتی ہیں کہ ام حبیبہؓ ایک ٹپ میں بیٹھتی تھی جو ان کی بہن زینب بنت جحش کا تھا اور خون کی زردی پانی کے اوپر آجاتی۔
(ب) (شیخ فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ "فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ" امام زہری کے شاگرد اوزاعی کے علاوہ کوئی بیان نہیں کرتا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The menstruating woman has to perform ghusl when she is pure

Hadith number: 803

Translation:

(803) Syeda Ayesha (may Allah be pleased with her) says that Umm Habiba bint Jahsh (may Allah be pleased with her) was a mustahabb for seven years and she was the wife of Abd al-Rahman ibn Awf (may Allah be pleased with him). She complained to the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) so he said: This is not menstruation rather it is a vein. Syeda Ayesha (may Allah be pleased with her) says that Umm Habiba used to sit in a tub which belonged to her sister Zainab bint Jahsh and the yellowness of the blood would come above the water.

(B) The Shaykh says that these words "فَإِذَا أَقْبَلْتِ" are uttered by no one except Imam Zuhri's disciple Ozai.

[Sahih. Narrated by Bukhari 228 and Muslim 333 and Nasai 218, 364 and Tirmidhi 125 and Ibn Majah 621]

Sunan Kubra Bayhaqi 804

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْعَلَوِيُّ (٨٠٥)
رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدٍ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ
الْحَافِظُ سَنَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى
الدُّبَلِيُّ وَأَبُو الْأَزْبَرِ : أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْبَرِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ
الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ اللَّهِ ابْنَا

عُمَرَ عَنِ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ ثُمَامَةَ الْحَنْفِيَّ
 أُسِرَ ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ - يَغْدُو إِلَيْهِ فَيَقُولُ ((مَا عِنْدَكَ يَا
 ثُمَامَةُ؟)) - فَيَقُولُ : إِنْ تَقُتِلْ تَقُتِلْ ذَا دِمِّ ، وَإِنْ تَمُنَّ تَمُنَّ عَلَيَّ
 شَاكِرٍ ، وَإِنْ تُرِيدِ الْمَالَ نُعْطِكَ مِنْهُ مَا شِئْتَ . وَكَانَ أَصْحَابُ
 رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - يُحِبُّونَ الْفِدَائِيَ وَيَقُولُونَ : مَا نَصْنَعُ بِقَتْلِ هَذَا؟ فَمَرَّ
 عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ - يَوْمًا فَأَسْلَمَ فَحَلَّهُ ، وَبَعَثَ بِهِ إِلَى حَائِطِ أَبِي
 - طَلْحَةَ وَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ ، فَأَغْتَسَلَ وَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ
 النَّبِيُّ ﷺ -)) : لَقَدْ حَسُنَ إِسْلَامُ أَخِيكُمْ ((-)) .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: کافر جب مسلمان ہو تو وہ غسل کرے گا
 حدیث نمبر: 804

ترجمہ:

(۸۰۵) (سیدنا ابو ہریرہ رض سے روایت ہے کہ ثمامہ حنفی قید کیا گیا، نبی ﷺ اس کے پاس جاتے تو فرماتے: اے ثمامہ! تیرے پاس کیا ہے؟ "وہ کہتا: اگر آپ قتل کریں گے تو خون والے (یعنی اس کے قبیلے والے) قتل کریں گے اور آپ احسان کریں گے تو شکر گزار پر احسان کریں گے اور اگر

آپ مال کا ارادہ رکھتے ہیں تو جو چاہیں گے وہی ہم دیں گے اور صحابہ کفدیہ کو پسند کرتے تھے اور کہتے تھے: ہم اس کو قتل کر کے کیا کریں گے۔ نبی ﷺ ایک دن اس کے پاس سے گزرے تو وہ مسلمان ہو گیا۔ آپ ﷺ نے اس کو کھول دیا اور ابو طلحہ کے باغ کی طرف بھیجا اور اس کو حکم دیا کہ غسل کرے۔ اس نے غسل کیا اور دو رکعت نماز ادا کی۔ نبی ﷺ نے فرمایا " تمہارے بھائی کا اسلام بہترین ہے۔"

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: When a disbeliever becomes a muslim, he has to perform ghusl

Hadith number: 804

Translation:

(804) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that Thumaamah Hanafi was captured. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) used to go to him and say: O

Thumaamah! What do you have? He used to say: If you kill (me), you will kill one whose blood will be avenged, if you show favor, you will show it to one who is grateful and if you want property and ask you will be given as much of it as you wish. The Companions liked redemption and said: What will we achieve by killing him? One day the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) passed by him and he became a Muslim. He opened it (the door) and sent him to Abu Talha's garden and ordered him to perform ghusl. He performed ghusl and prayed two rakats. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "Your brother's Islam is the best."

[Sahih]

The full and lengthy hadith was narrated by Bukhari 2422, 4372 and Muslim 1764 and Nasai 189 and Abu Dawud 2679 and Ahmad 2/452

[SHARH] Explanation:

The Maalikis and Hanbalis are of the view that if a kaafir becomes Muslim, ghusl is required, because of the report narrated by Abu Hurayrah (may Allaah be pleased with him) that Thumaamah ibn Athaal (may Allaah be pleased with him) became Muslim, and the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said: “Take him to the garden of Banu So and so and tell him to do ghusl.” And it was narrated that when Qays ibn ‘Aasim became Muslim, the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) told him to do ghusl with water and lotus leaves. And in most cases the new Muslim will not be free of janaabah, so ghusl is required for that reason.

The Hanafis and Shaafa’is are of the view that it is mustahabb for a kaafir to do ghusl when he becomes Muslim even if he is not

junub, because many people became Muslim and the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) did not tell them to do ghusl. If a kaafir becomes Muslim when he is junub, then he has to do ghusl. Al-Nawawi (may Allaah have mercy on him) said: This was stated by al-Shaafa'i, and the majority of our companions are agreed on that. End quote.

Shaykh Ibn Uthaymeen (may Allaah have mercy on him) said in al-Sharh al-Mumtī (1/379): In order to be on the safe side he should do ghusl. End quote.

And Allaah knows best.

Sunan Kubra Bayhaqi 805

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ (٨٠٦)
يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ الخَوْلَانِيُّ قَالَ قُرِئَ عَلَيَّ شُعَيْبِ بْنِ
اللَّيْثِ أَخْبَرَكَ أَبُوكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ
أَبَا بُرَيْرَةَ يَقُولُ : بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - خَيْلًا قَبْلَ نَجْدٍ ، فَجَاءَتْ
، بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثَمَامَةُ بْنُ أَثَالِ سَيِّدِ الْيَمَامَةِ
فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ - وَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -) : أَطْلُقُوا ثَمَامَةَ (.) فَاذْهَبُوا إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ
مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلْ ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ - وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ -
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ عَنِ اللَّيْثِ -
وَفِي هَذِهِ الرَّوَايَةِ الْغُسْلُ قَبْلَ الشَّهَادَةِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ

، أَسْلَمَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ - ثُمَّ اغْتَسَلَ وَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَأُظْهِرَ الشَّهَادَةَ جَمْعًا بَيْنَ الرَّوَائِيَيْنِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: کافر جب مسلمان ہو تو وہ غسل کرے گا

حدیث نمبر: 805

ترجمہ:

(۸۰۶) سعید بن ابوسعید مقبری نے سیدنا ابوہریرہؓ سے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے نجد کی طرف ایک لشکر بھیجا تو وہ بنو حنیفہ قبیلے سے ایک شخص کو لے آئے جو ثمامہ بن اثال یمامہ کا سردار تھا۔ صحابہ نے انہیں مسجد کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔۔۔ اس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " :ثمامہ کو چھوڑ دو تو وہ مسجد کے قریب کھجور کے درخت کی طرف گیا، اس نے غسل کیا پھر مسجد میں داخل ہوا نَ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ اور باقی اور کہا: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأُحَدِّثُكَ حَدِيثَ نَبِيِّكَ ﷺ"۔

(ب) صحیح بخاری میں ہے کہ غسل شہادت سے پہلے ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس نے نبی ﷺ کے پاس

اسلام قبول کیا، پھر غسل کیا اور مسجد میں داخل ہوا اور شہادت کا اقرار کیا۔ یہ بات دونوں روایات میں تطبیق ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: When a disbeliever becomes a muslim, he has to perform ghusl

Hadith number: 805

Translation:

(805) Sa'id ibn Abu Sa'id al-Muqbari heard from Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) sent an army towards Najd and brought a man from the tribe of Banu Hanifah who was the chief of Thumaamah ibn Athal Yamamah. The companions tied him to a pillar of the mosque. It is narrated in this hadith that the Messenger of Allah (peace and blessings of

Allah be upon him) said: “Leave Thumaamah, then he went to the palm tree near the mosque. He performed ghusl and then entered the mosque and said 'I bear testimony (to the truth) that there is no god but Allah and I testify that Muhammad is His bondman and His messenger', and mentioned the rest of the hadith.

(B) In Sahih Bukhari it says that ghusl precedes shahada and it is also possible that he converted to Islam with the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him), then performed ghusl and entered the mosque and declared his shahada. This is present in both traditions.

[Sahih. Narrated by Bukhari 469, 2422, 2423 and Muslim 1764 and Nasai 713 and Abu Dawud 2679 and Ahmad 2/452]

Sunan Kubra Bayhaqi 806

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا (٨٠٧)
أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّقَّارِ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ سَهْلِ الْمُجَوِّزِ حَدَّثَنَا أَبُو
عَاصِمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ قَيْسِ
بْنِ عَاصِمٍ : أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ - فَأَسْلَمَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ - أَنْ يَغْتَسِلَ
بِمَايٍ وَسِدْرٍ -
وَهَكَذَا رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ
سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ - وَرَوَاهُ وَكَيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ كَمَا -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
کتاب: پاکی کا بیان
باب: کافر جب مسلمان ہو تو وہ غسل کرے گا

حدیث نمبر: 806

ترجمہ:

(۸۰۶) (قیس بن عاصم نبی ﷺ کے پاس آیا اور مسلمان ہو گیا تو نبی ﷺ نے اس کو پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل کرنے کا حکم دیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: When a disbeliever becomes a muslim, he has to perform ghusl

Hadith number: 806

Translation:

(806) Qais ibn Asim came to the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) and became a Muslim, so the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) ordered him to perform ghusl with water and berry leaves.

[Sahih. Narrated by Nasai 188 and Abu

Sunan Kubra Bayhaqi 807

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذُبَارِيُّ وَأَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ قَالَا (٨٠٨)
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ
نَصْرِ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ خَلِيفَةَ بْنِ
الْحُسَيْنِ أَنَّ جَدَّهُ قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ: أَتَى النَّبِيَّ ﷺ - يُرِيدُ أَنْ
يُسَلِّمَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ - أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَائِ وَسِدْرٍ -
وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ وَجَمَاعَةٌ إِلَّا أَنَّ أَكْثَرَهُمْ قَالُوا عَنْ
جَدِّهِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ - وَرَوَاهُ قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ فَرَادَ فِي إِسْنَادِهِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: کافر جب مسلمان ہو تو وہ غسل کرے گا

حدیث نمبر: 807

:ترجمہ

(۸۰۸) (قیس بن عاصم نبی ﷺ کے پاس آیا اور مسلمان ہونے کا

ارادہ رکھتا تھا تو نبی ﷺ نے اس کو پانی اور بیری کے پتوں

سے غسل کرنے کا حکم دیا۔

(ب) (اس کے ہم معنی روایت محمد بن کثیر اور ایک جماعت

نے بیان کی ہے۔ ان میں سے اکثر بیان کرتے ہیں کہ اس کے

دادا قیس بن عاصم سے روایت ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: When a disbeliever becomes a muslim, he has to perform ghusl

Hadith number: 807

Translation:

(807) Qais ibn Asim came to the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) and intended to become a Muslim, so the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) ordered him to perform ghusl with water and berry leaves.

[Sahih. Narrated by Nasai 188 and Abu Dawud 355 and Tirmidhi 605 and Ahmad]

Sunan Kubra Bayhaqi 808

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ (٨٠٩)
اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْرَبِيِّ وَهُوَ ابْنُ الصَّبَّاحِ وَهُوَ

مَوْلَى بَنِي مَنقَرٍ عَنِ خَلِيفَةِ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ أَبِيهِ : أَنَّ جَدَّهُ قَيْسَ بْنَ
عَاصِمٍ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ - فَأَسْلَمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَائِ وَسِدْرٍ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: کافر جب مسلمان ہو تو وہ غسل کرے گا

حدیث نمبر: 808

ترجمہ:

(809) قیس بن عاصم نبی ﷺ کے پاس آیا اور مسلمان ہو گیا تو

نبی ﷺ نے اس کو پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ غسل

کرنے کا حکم دیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: When a disbeliever becomes a muslim, he has to perform ghusl

Hadith number: 808

Translation:

(808) Qais ibn Asim came to the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) and became a Muslim, so the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) ordered him to perform ghusl with water and berry leaves.

[Sahih. Narrated by Nasai 188 and Abu Dawud 355 and Tirmidhi 605 and Ahmad]

Sunan Kubra Bayhaqi 809

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ (٨١٠)

حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ نَجْدَةَ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ فَذَكَرَهُ هَكَذَا۔

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاکی کا بیان

باب: کافر جب مسلمان ہو تو وہ غسل کرے گا

حدیث نمبر: 809

:ترجمہ

(810) قبیسہ بن عقبہ نے اسی طرح روایت بیان کی ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: When a disbeliever becomes a muslim, he has to perform ghusl

Hadith number: 809

Translation:

(809) Qabisa ibn Aqaba has narrated this

narration in the same way.

[Daif, Munkar Isnad (Weak, Odd Isnad)]

Sunan Kubra Bayhaqi 810

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْدُبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ (٨١١)
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرْتُ عَنْ عُنَيْمِ بْنِ كَلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
جَدِّهِ : أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ - فَقَالَ : قَدْ أَسْلَمْتُ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ
ﷺ : ((أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ)) (- يَقُولُ أَحَلِقُ. قَالَ وَأَخْبَرَنِي -
أَخْرَأَنَّ النَّبِيُّ ﷺ - قَالَ لِأَخْرَ مَعَهُ)) : أَلْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ
وَاخْتَتِنُ)) (-)

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: کافر جب مسلمان ہو تو وہ غسل کرے گا

حدیث نمبر: 810

ترجمہ:

(۸۱۱) عثیم بن کلیب اپنے والد سے دادا کے واسطے سے بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی ﷺ کے پاس آئے اور کہا: میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اسے نبی ﷺ نے فرمایا: اپنے آپ سے کفر کے بال پھینک دے۔ آپ کی مراد تھی کہ بال منڈوا دے۔ راوی کہتا ہے کہ ایک دوسرے راوی نے مجھے خبر دی کہ نبی ﷺ نے دوسرے سے فرمایا جو اس کے ساتھ تھا: اپنے آپ سے کفر کے بال پھینک دے اور ختنہ کروا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: When a disbeliever becomes a muslim, he has to perform ghusl

Hadith number: 810

Translation:

(810) Uthaim ibn Kulaib narrates from his father on behalf of his grandfather that he came to the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) and said: I have become Muslim. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said to him: Throw away the hair of disbelief from yourself. What he meant by this was for him to shave his hair. The narrator says that another narrator informed me that the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said to another man who was with him: Throw the hair of disbelief from yourself and get circumcised.

[Hasan Li Ghayrihi (Fair due to external evidence). Narrated by Abu Dawud 356 and Ahmad 3/415 and AbdulRazzaq 10/317]

Sunan Kubra Bayhaqi 811

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَائِرٍ الْفَقِيهُ مِنْ أَصْلِهِ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ (٨١٢)
إِسْحَاقَ الْفَقِيهِ إِمْلَائِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ حَدَّثَنَا
مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ بِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَعَسَلَ
يَدَيْهِ مِنَ الْإِنَائِ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَائِ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ مِثْلَ
وَضُوءِهِ لِلصَّلَاةِ -
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَمْرٍو النَّاقِدِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ
عَمْرٍو -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: جنبی غسل شروع کرتے وقت اپنے ہاتھوں کو برتن

میں داخل کرنے سے پہلے دھوئے گا

حدیث نمبر: 811

ترجمہ:

(۸۱۲) (سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب جنابت کا غسل کرتے تھے تو آپ ﷺ برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے، پھر نماز جیسا وضو کرتے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A person who is junub has to wash his hands before starting ghusl before entering them in the vessel

Hadith number: 811

Translation:

(811) It is narrated from Ayesha (may Allah be pleased with her) that when the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) used to perform the ghusl for janabah (major impurity), he would wash his hands before

putting his hands in the vessel and then perform ablution like the one done for prayer. [Sahih. Narrated by Bukhari 248, 262, 272, 273 and Muslim 316 and Nasai 248, 249, 420, 423 and Abu Dawud 242 and Tirmidhi 104 and Malik 2/67 and Ahmad 6/52, 101]

Sunan Kubra Bayhaqi 812

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ (٨١٣)
الْكَعْبِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ بِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَبَدَأَ فغَسَلَ

كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَضُوءٌ هُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فَخَلَّلَ بِهَا
أَصُولَ الشَّعْرِ حَتَّى خُيِّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ اسْتَبْرَأَ الْبَشْرَةَ ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى
رَأْسِهِ الْمَاءَ ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ الْمَاءَ -
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: جنبی غسل شروع کرتے وقت اپنے ہاتھوں کو برتن میں
داخل کرنے سے پہلے دھوئے گا
حدیث نمبر: 812

:ترجمہ

(۸۱۳) (سیدہ عائشہؓ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ غسل
جنابت کرتے تو اپنی ہتھیلیوں کو تین مرتبہ دھونے سے شروع
کرتے، پھر نماز جیسا وضو کرتے، پھر اپنا ہاتھ برتن میں
داخل کرتے تو اپنے بالوں کے درمیان ان کا خلال کرتے، یہاں
تک کہ مجھے یقین ہو جاتا کہ آپ ﷺ چمڑے تک پہنچ گئے ہیں،
پھر اپنے سر پر پانی ڈالتے، پھر سارے جسم پر پانی بہاتے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: When a disbeliever becomes a muslim, he has to perform ghusl

Hadith number: 812

Translation:

(812) Ayesha (may Allah be pleased with her) said: When the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) performed ghusl for janabah (major impurity), he would start by washing his palms three times, then he would perform ablution as is done for prayer, then he would put his hand in the vessel and then he would pierce his hair with his hand to such an extent that I would believe that he has reached the skin, then he would pour water on his head, then he would pour water all over his body.

[Sahih. Narrated by Bukhari 248, 262, 272, 273 and Muslim 316, 318 and Nasai 248, 249,

420, 423 and Abu Dawud 242 and Tirmidhi 104 and Malik 2/67 and Ahmad 6/52, 101]

Sunan Kubra Bayhaqi 813

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ (٨١٤)
وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالُوا أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَخْبَرَنَا ابْنُ
وَهْبٍ. قَالَ وَحَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ قَالَ قُرِيٌّ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَكَ
مَخْرَمَةٌ يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - إِذَا

اغتسلَ بَدَأُ بِيَمِينِهِ فَصَبَّ عَلَيَّهَا مِنَ الْمَائِ ، فَعَسَلَهَا ثُمَّ صَبَّ الْمَائِ عَلَى الْأُذَى الْأُذَى بِهٖ بِيَمِينِهِ ، وَغَسَلَ عَنْهُ بِشِمَالِهِ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ ذَلِكَ. أَظُنُّهُ زَادَ صَبَّ الْمَائِ عَلَى رَأْسِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ هَارُونَ الْأَيْلِيِّ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: جنبی پلیدی کو اپنے دائیں ہاتھ سے دھوئے
حدیث نمبر: 813

ترجمہ:

(۸۱۴) (سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا) فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب غسل کرتے تو پہلے اپنے دائیں ہاتھ پر پانی بہا کر اس کو دھوتے، پھر اس پلیدی پر پانی ڈالتے جو آپ کے دائیں ہاتھ پر ہوتی تھی اور اس سے اپنا بائیں ہاتھ دھوتے، جب آپ ﷺ اس سے فارغ ہو جاتے۔ میرا گمان یہ ہے کہ یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ اپنے سر پر پانی ڈالتے۔

English Translation:
Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The one who is junub should clean the filth with his left hand

Hadith number: 813

Translation:

(813) Ayesha (may Allah be pleased with her) said: When the Messenger of Allah (may peace be upon him) used to do ghusl, he would first wash his right hand with water, and then poured water on the impurity with the right hand and washed it away with the help of the left hand. My opinion is that the words 'would pour water over his head are extra. [Sahih. Narrated by Muslim 321]

Sunan Kubra Bayhaqi 814

Arabic Text:

: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (٨١٥)
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو الْمُسْتَمَلِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ
حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ
: كُرَيْبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِي خَالَتِي مَيْمُونَةُ قَالَتْ
أَدْنَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ - غُسْلُهُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَغَسَلَ كَفَّيْهِ
مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، ثُمَّ ادْخَلَ كَفَّهُ الْيُمْنَى فِي الْإِنَائِ فَأَفْرَغَ بِهَا
عَلَى فَرْجِهِ فَغَسَلَهُ بِشِمَالِهِ ، ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ الْأَرْضَ فَدَلَّكَهَا
دَلَكًا شَدِيدًا ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَضُوءَ هُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى
رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ مَلَأَ كَفَّيْهِ ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ ، ثُمَّ تَنَحَّى
عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ ، فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِالْمِنْدِيلِ فَرَدَّهُ -
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُجْرٍ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: نا پاکی کے بعد ہاتھ کو زمین پر ملنا پھر دھونا

حدیث نمبر: 814

ترجمہ:

(۸۱۵) (سیدنا ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ مجھ کو میری خالہ میمونہؓ نے بیان فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے غسل کا پانی آپ کی قریب رکھا، آپ ﷺ نے اپنی ہتھیلیاں دو یا تین مرتبہ دھوئیں، پھر اپنی دائیں ہتھیلی کو برتن میں داخل کیا اور اس کے ساتھ اپنی شرم گاہ پر پانی ڈالا، پھر اس کو اپنے بائیں ہاتھ سے دھویا، پھر اپنا بائیں ہاتھ زمین پر سختی سے رگڑا پھر نماز جیسا وضو کیا، پھر اپنے سر پر تین چلو بھر کے ڈالے، پھر اپنے سارے جسم کو دھویا، پھر اس جگہ سے الگ ہو گئے تو آپ ﷺ نے اپنے پاؤں کو دھویا، پھر میں آپ ﷺ کے پاس رومال لے کر آئی۔ آپ ﷺ نے اس کو واپس کر دیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Rubbing the hands on the ground and then washing them after impurity

Hadith number: 814

Translation:

(814) Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) said: My aunt Maimuna (may Allah be pleased with her) said to me: I kept the bath water of the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) near him. He washed the palms of his hands twice or thrice and then put his right hand in the basin and poured water over his private parts and washed them with his left hand. He then struck his hand against the earth and rubbed it with force and then performed ablution for the prayer and then poured three handfuls of water on his head and then washed his whole body after which he moved aside from that place and washed his feet, and then I brought a towel (so that he may wipe his body). but he returned it.

[Sahih. Narrated by Bukhari 249, 257, 259, 260, 265, 266, 274, 276, 281 and Muslim 317

and Nasai 254, 408, 418, 419, 428 and Abu Dawud 245 and Tirmidhi 103 and Ibn Majah 573 and Ahmad 6/329, 330, 335, 336 and Darimi 738, 774]

Sunan Kubra Bayhaqi 815

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو قَالَا (٨١٤)
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ
الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ
: كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَتْ

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ - إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَاْفَرَّغَ الْإِنَائِيَّ عَلَى يَدِهِ فَعَسَلَهَا ثَلَاثًا ، ثُمَّ يُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ ثُمَّ عَلَى فَرْجِهِ ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْأَرْضِ فَمَسَحَهَا ، ثُمَّ غَسَلَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ وَسَائِرِ جَسَدِهِ ، ثُمَّ تَنَحَّى فَعَسَلَ رِجْلَيْهِ -

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: نا پاکی کے بعد ہاتھ کو زمین پر ملنا پھر دھونا

حدیث نمبر: 815

:ترجمہ

(816) (سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ جب غسل جنابت کرتے تو برتن کو اپنے ہاتھ پر انڈیلتے، ان کو تین مرتبہ دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے، پھر اپنی شرم گاہ پر، پھر ہاتھ کو زمین پر ملتے، پھر اس کو دھوتے، پھر نماز جیسا وضو کرتے، پھر اپنے سر پر ڈالتے اور اپنے سارے جسم پر، پھر

الگ ہوتے اپنے پاؤں کو دھوتے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Rubbing the hands on the ground and then washing them after impurity

Hadith number: 815

Translation:

(815) Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) narrates from Syeda Maimuna (may Allah be pleased with her) that when the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) performed ghusl for major impurity, he would pour the vessel on his hands, wash them three times, then pour water on his left hand with his right hand, then (he would pour) on his private parts. Then he would rub his hand on the ground and then wash it, then perform ablution like one done for prayer, then would pour (water)

over his head and on his whole body, then he would move aside (from that place) and wash his feet.

[Sahih. Narrated by Bukhari 249, 257, 259, 260, 265, 266, 274, 276, 281 and Muslim 317 and Nasai 254, 408, 418, 419, 428 and Abu Dawud 245 and Tirmidhi 103 and Ibn Majah 573 and Ahmad 6/329, 330, 335, 336 and Darimi 738, 774]

Sunan Kubra Bayhaqi 816

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ (٨١٧)
 إِسْحَاقَ الْفَقِيهَ أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا
 سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ -
 اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ فَغَسَلَ فَرْجَهُ بِيَدِهِ ، ثُمَّ دَلَكَ بِهَا الْحَائِطَ ثُمَّ
 غَسَلَهَا ثُمَّ تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ غَسَلَ
 رِجْلَيْهِ -
 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْحُمَيْدِيِّ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: نا پاکی کے بعد ہاتھ کو زمین پر ملنا پھر دھونا
 حدیث نمبر: 816

:ترجمہ

(٨١٧) (اعمش نے اسی سند سے بیان کیا ہے کہ نبی ﷺ نے
 غسل جنابت کیا، اپنے ہاتھ سے شرم گاہ کو دھویا، پھر اس کو
 دیوار پر ملا پھر دھویا، پھر نماز جیسا وضو کیا، جب غسل
 سے فارغ ہوئے تو اپنے پاؤں دھوئے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Rubbing the hands on the ground and then washing them after impurity

Hadith number: 816

Translation:

(816) Amash has narrated from the same chain of transmission that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) performed ghusl for major impurity, washed the private parts with his hands, then rubbed them on the wall, then washed them, then performed ablution like the one done for prayer, when he would complete his ghusl then he would wash his feet.

[Sahih. Narrated by Bukhari 249, 257, 259, 260, 265, 266, 274, 276, 281 and Muslim 317 and Nasai 254, 408, 418, 419, 428 and Abu Dawud 245 and Tirmidhi 103 and Ibn Majah 573 and Ahmad 6/329, 330, 335, 336 and

Sunan Kubra Bayhaqi 817

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذُبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ (٨١٨)
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ شَوْكِرٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ عُرْوَةَ
الْهَمْدَانِيَّ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ: لَئِنْ شِئْتُمْ لِأُرِيَنَّكُمْ
أَثَرَ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فِي الْحَائِطِ حَيْثُ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: نا پاکی کے بعد ہاتھ کو زمین پر ملنا پھر دھونا

حدیث نمبر: 817

ترجمہ:

(817) شعبی کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ رض فرماتی ہیں: اگر تم

چاہو تو میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا نشان دیوار پر

دکھاؤں جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کیا کرتے تھے۔

English Translation:.

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Rubbing the hands on the ground
and then washing them after impurity

Hadith number: 817

Translation:

(817) Shubi says that Ayesha (may Allah be

pleased with her) said: If you wish, I will show you the handprint of the Messenger of Allah (may peace be upon him) on the wall where he used to perform ghusl for major impurity. [Daif (Weak). Narrated by Abu Dawud 244]

Sunan Kubra Bayhaqi 817

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُرَكِّيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ (٨١٩)
اللَّهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا
جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا بِشَّامٌ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -

يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَضُوءَهُ هِيَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُدْخِلُ كَفَّيْهِ -
فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أَصُولَ شَعْرِهِ حَتَّى إِذَا خُيِّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ
اسْتَبْرَأَ الْبَشْرَةَ غَرَفَ بِيَدِهِ ثَلَاثَ غَرَافَاتٍ فَصَبَّهَا عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ
اغْتَسَلَ.

مُخْرَجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ بِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: غسل سے پہلے وضو کرنا
حدیث نمبر: 818

:ترجمہ

(۸۱۹) (سیدہ عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے، پھر نماز جیسا وضو کرتے، پھر اپنی ہتھیلیوں کو پانی میں داخل کرتے اور بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے، یہاں تک کہ جب آپ ﷺ کو معلوم ہو جاتا کہ پانی چمڑے تک پہنچ گیا ہے تو اپنے ہاتھ سے تین چلو بھرتے، انہیں اپنے سر پر ڈالتے پھر غسل کرتے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Performing ablution before ghusl

Hadith number: 818

Translation:

(818) Ayesha (may Allah be pleased with her) said: The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) used to wash his hands first, then perform ablution like the one done for prayer, then put his palms in the water and wash the roots of his hair, until he knew that the water had reached the skin and then he would take three handfuls of water with his hand and would pour them over his head and then would perform ghusl.

[Sahih. Narrated by Bukhari 248, 272, 273 and Nasai 248, 420, 423 and Malik 2/67]

Sunan Kubra Bayhaqi 819

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ (٨٢٠)
يَعْقُوبَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَا
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ بِشَامِ بْنِ
عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ - إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ يَبْدَأُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ يَفْرِغُ بِيَمِينِهِ
عَلَى شِمَالِهِ ، فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَضُوءَهُ هُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ
يَأْخُذُ الْمَاءَ فَيُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي أُصُولِ الشَّعْرِ حَتَّى إِذَا
رَأَى أَنَّهُ قَدْ اسْتَبْرَأَ حَفَنَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ، ثُمَّ أَفَاضَ
عَلَى سَائِرِ جَسَدِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ -
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَقَوْلُهُ فِي آخِرِ بَدَأَ
الْحَدِيثِ : ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ -

غَرِيبٌ صَحِيحٌ حَفِظَهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ أَصْحَابِ بَشَامِ
النِّقَاتِ-

وَذَلِكَ لِلتَّنْظِيفِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: غسل سے پہلے وضو کرنا

حدیث نمبر: 819

ترجمہ:

(۸۲۰) (سیدہ عائشہ رض فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو پہلے ہاتھوں کو دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر (ڈالتے اور اپنی شرم گاہ کو دھوتے، پھر نماز جیسا وضو کرتے، پھر پانی لے کر انگلیوں کو بالوں کی جڑوں میں داخل کرتے، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ پانی جڑوں تک پہنچ گیا تو اپنے سر پر تین چلو پانی ڈالتے، پھر اپنے سارے جسم پر پانی بہاتے پھر اپنے پاؤں دھوتے۔
(ب) صحیح مسلم میں یحییٰ بن یحییٰ کی روایت کے آخر میں یہ الفاظ ہیں: پھر اپنے پاؤں دھوتے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Performing ablution before ghusl

Hadith number: 819

Translation:

(819) Ayesha (may Allah be pleased with her) said: When the Messenger of Allah (may peace be upon him) performed ghusl for major impurity, he would first wash his hands, then pour (water) on his left hand with his right hand and wash his private parts, then perform ablution like one done for prayer, then he would take water and would insert it into the roots of his hair with his fingers, then when he saw that the water had reached the roots, he would pour three handfuls of water over his head, then he would pour water all over his body and then he would wash his feet.

(B) At the end of the narration of Yahya ibn Yahya in Sahih Muslim are the following words: Then he would wash his feet.

[Sahih. Narrated by Bukhari 248, 262, 272, 273 and Muslim 316 and Nasai 248, 249, 420, 423 and Abu Dawud 242 and Tirmidhi 104 and Malik 2/67 and Ahmad 6/52, 101]

Sunan Kubra Bayhaqi 820

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ (٨٢١)
الْفَضْلِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَسِيدُ
بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصِ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ
سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ

الْحَارِثِ قَالَتْ: سَتَرْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - وَهُوَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَبَدَأَ
فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ
ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْحَائِطِ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ هُ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ ،
قَدَمَيْهِ ، ثُمَّ أَقَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثُمَّ نَحَّى قَدَمَيْهِ فَغَسَلَهُمَا .
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْفَرِيَابِيِّ عَنِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: غسل سے فراغت کے بعد آخر میں پاؤں دھونے کی
رخصت

حدیث نمبر: 820

ترجمہ:

(۸۲۱) (سیدہ میمونہ بنت حارثؓ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی ﷺ کے لیے پردہ کیا اور آپ ﷺ غسل جنابت کر رہے تھے، پہلے آپ ﷺ نے ہاتھ دھوئے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور اپنی شرمگاہ کو دھویا اور جو اس پر لگا تھا، پھر ہاتھ، دیوار پر مارا، پھر نماز جیسا وضو کیا

لیکن پاؤں نہیں دھوئے۔ پھر اپنے اوپر پانی ڈالا، پھر اپنے پاؤں کو الگ جگہ جا کر دھویا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Permission to wash the feet after performing ghusl

Hadith number: 820

Translation:

(820) Syeda Maimuna bint Harith (may Allah be pleased with her) said: I covered the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) and he was performing the ghusl for major impurity. He first washed his hands, then poured (water) on his left hand with his right hand and washed his private parts and what was on it. Then he hit his hand on the wall, then performed ablution like the one done for prayer, but did not wash his feet. Then he poured water over himself, then he

washed his feet in a separate place.

[Sahih. Narrated by Bukhari 249, 257, 259, 260, 265, 266, 274, 276, 281 and Muslim 317 and Nasai 418, 419 and Abu Dawud 245 and Tirmidhi 103 and Ibn Majah 573 and Ahmad 6/329, 330, 335, 336 and Darimi 738, 774]

Sunan Kubra Bayhaqi 821

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورِكَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ (٨٢٢)

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ
 عَطَائِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
 كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأُ فَعَسَلَ يَدَيْهِ :
 ثُمَّ أَخَذَ بِيَمِينِهِ فَصَبَّ عَلَى شِمَالِهِ ، فَعَسَلَ فَرْجَهُ حَتَّى ،
 يُنْقِيَهُ ثُمَّ مَضَمَضَ ثَلَاثًا ، وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا
 وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ وَجَسَدِهِ الْمَائِ ، فَإِذَا
 فَرَغَ غَسَلَ قَدَمَيْهِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: غسل سے فراغت کے بعد آخر میں پاؤں دھونے کی
 رخصت

حدیث نمبر: 821

ترجمہ:

(۸۲۲) (سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب غسل
 جنابت کرتے تو پہلے اپنے ہاتھ دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے
 پانی لیتے اور اپنے بائیں ہاتھ پر ڈال کر اپنی شرم گاہ کو
 دھوتے اور صاف کر لیتے، پھر تین مرتبہ کلی کرتے اور تین
 مرتبہ ناک میں پانی چڑھاتے اور اپنے چہرے کو تین

مرتبہ دھوتے اور اپنے بازوؤں کو تین تین مرتبہ دھوتے، پھر اپنے سر پر پانی ڈالتے اور اپنے جسم پر بھی۔ جب آپ ﷺ (غسل سے) فارغ ہوتے تو اپنے پاؤں کو دھوتے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Permission to wash the feet after performing ghusl

Hadith number: 821

Translation:

(821) Ayesha (may Allah be pleased with her) said: When the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) performed ghusl for major impurity, he would first wash his hands, then take water with his right hand and pour it on his left hand and wash and clean his private parts, then rinse his mouth three times and clean his nose three times and wash his face three times wash his arms three times, then pour water

over his head and also on his body. When he was done (performing ghusl) he would wash his feet.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence). Narrated by Al-Tayalisi 1474]

Sunan Kubra Bayhaqi 822

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكْرِيَّا : يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (٨٢٣)
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ
أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ بِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ
فَغَسَلَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَدْخُلُ أَصَابِعَهُ
فِي الْمَاءِ فَيُخَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعْرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ
غُرْفٍ بِيَدَيْهِ ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ -
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مَالِكٍ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: بالوں کی جڑوں میں پانی سے خلال کرنا اور پانی جلد
تک پہنچانا
حدیث نمبر: 822

:ترجمہ

(۸۲۳) (سیدہ عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب غسل
جنابت کرتے تو پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوتے، پھر نماز والا
وضو کرتے، پھر اپنے ہاتھ سے تین چلو پانی لے کر اپنے سر
پر ڈالتے، پھر اپنے سارے جسم پر پانی بہاتے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Washing the hair till the roots and making the water reach the skin

Hadith number: 822

Translation:

(822) Ayesha (may Allah be pleased with her) said: When the Messenger of Allah (may peace be upon him) performed ghusl for major impurity, he would first wash his hands, then perform ablution like the one done for prayers, then take three handfuls of water with his hand and pour it over his head, then pour water all over his body.

[Sahih. Narrated by Bukhari 248, 262, 272, 273 and Muslim 316 and Nasai 248, 249, 420, 423 and Abu Dawud 242 and Tirmidhi 104 and Malik 2/67 and Ahmad 6/52, 101]

Sunan Kubra Bayhaqi 823

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْقَاسِمُ (٨٢٤)
بْنُ الْقَاسِمِ السِّيَّارِيُّ بِمَرَوْ أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُؤَجِّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو
بْنُ الْمُؤَجِّهِ الْفَزَارِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا
بِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -
، ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ وَتَوَضَّأَ وَضُوءَهُ هُ لِلصَّلَاةِ
ثُمَّ يُخَلِّلُ بِيَدِهِ شَعْرَهُ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ أَرَوَى بَشْرَتَهُ أَفَاضَ
عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ. وَقَالَتْ: كُنْتُ
أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - مِنْ إِنَائِي وَاحِدٍ نَعْرِفُ مِنْهُ
جَمِيعًا.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِانَ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: بالوں کی جڑوں میں پانی سے خلال کرنا اور پانی جلد تک پہنچانا

حدیث نمبر: 823

ترجمہ:

(۸۲۴) سیدہ عائشہ رض فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کرتے تو اپنے ہاتھوں کو دھوتے اور نماز جیسا وضو کرتے، پھر اپنے ہاتھوں سے بالوں کا خلال کرتے جب گمان کر لیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جلد کو تر کر لیا ہے تو اس پر تین مرتبہ پانی بہاتے، پھر سارے جسم کو دھوتے۔ سیدہ عائشہ رض فرماتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے اکٹھے غسل کرتے تھے ہم اکٹھے چلو بھرتے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Washing the hair till the roots and making the water reach the skin

Hadith number: 823

Translation:

(823) Ayesha (may Allah be pleased with her) said: When the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) used to perform ghusl for major impurity, he would wash his hands and perform ablution like the one done for prayers. Then he would wash his hair with his hands and when he thought that he had wet his skin, he would pour water on it three times, then he would wash his whole body. Ayesha (may Allah be pleased with her) said: I and the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) used to bathe together in the same vessel.

[Sahih. Narrated by Bukhari 248, 262, 272, 273 and Muslim 316 and Nasai 248, 249, 420, 423 and Abu Dawud 242 and Tirmidhi 104 and Malik 2/67 and Ahmad 6/52, 101]

Sunan Kubra Bayhaqi 824

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ (٨٢٥)
الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ
يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ بِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - كَانَ يَتَوَضَّأُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، ثُمَّ يُدْخِلُ يَدَهُ الْيُمْنَى
فِي الْمَائِ ، ثُمَّ يُخَلِّلُ بِهَا شِقَّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنَ فَيَتَّبِعُ بِهَا أَصُولَ الشَّعْرِ
ثُمَّ يَفْعَلُ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْسَرَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى كَذَلِكَ حَتَّى ،
يَسْتَبْرِئَ الْبَشْرَةَ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا .

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

کتاب: پاکی کا بیان

باب: بالوں کی جڑوں میں پانی سے خلال کرنا اور پانی جلد تک پہنچانا

حدیث نمبر: 824

:ترجمہ

(۸۲۵) سیدہ عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جنابت سے وضو کرتے، پھر اپنا دایاں ہاتھ پانی میں داخل کرتے، پھر اپنے سر کی دائیں جانب کا خلال کرتے، پھر بالوں کے درمیان داخل کرتے، پھر اپنے بائیں ہاتھ سے بائیں جانب بھی ایسا کرتے یہاں تک پانی جلد تک پہنچ جاتا، پھر اپنے سر پر تین مرتبہ پانی ڈالتے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Washing the hair till the roots and making the water reach the skin

Hadith number: 824

Translation:

(824) Ayesha (may Allah be pleased with her)

said: The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) used to perform ablution for major impurity, then he would insert his right hand into the water, then he would wash the right side of his head, then he would insert it (his hand) between his hair, then he would do the same with his left hand on the left side (of his head) till the water reached the skin, then he would pour water on his head three times.

[Sahih. Narrated by Bukhari 258 and Muslim 318 and Nasai 245, 248, 249, 420, 424 and Abu Dawud 240 and Tirmidhi 104 and Malik 2/67 and Ahmad 6/94, 115, 143, 161, 173 and Darimi 775]

Sunan Kubra Bayhaqi 825

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا أَبُو (٨٢٦)
الْحُسَيْنِ: أَحْمَدُ بْنُ عُمَانَ بْنِ جَعْفَرِ الْمُقْرِي سَنَةَ ثَلَاثِ
وَأَرْبَعِينَ وَثَلَاثِينَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ
حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَعَفَّانُ وَعُبَيْدُ اللَّهِ وَاللَّفْظُ لِعَفَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا
حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ عَنْ زَادَانَ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ
سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ - قَالَ ((: مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَسَدِهِ
مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ فَعِلَ بِهِ كَذَا وَكَذَا مِنَ النَّارِ)) -
قَالَ عَلِيُّ: فَمِنْ تَمَّ عَادِيْتُ رَأْسِي - قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فِي حَدِيثِهِ: وَكَانَ
يَجْرُ شَعْرَهُ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: بالوں کی جڑوں میں پانی سے خلال کرنا اور پانی جلد تک پہنچانا

حدیث نمبر: 825

:ترجمہ

" (: ۸۲۶) سیدنا علیؓ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی ﷺ سے سنا جس شخص نے بال برابر جنابت کی جگہ چھوڑ دی جس کو پانی نہ لگا تو اس کے ساتھ آگ میں ایسے ایسے کیا جائے گا۔ "

سیدنا علیؓ فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے میں نے اپنے سر سے دشمنی مول لے لی ہے۔ عبید اللہ اپنی حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علیؓ اپنے بالوں کو جڑ سے کاٹ دیتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Washing the hair till the roots and making the water reach the skin

Hadith number: 825

Translation:

(825) Syeduna Ali (may Allah be pleased with him) says: I heard from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him): If anyone who is junub leaves a spot equal to the breadth of a hair without washing, such and such an amount of Hell-fire will have to be suffered for it.

Syeduna Ali (may Allah be pleased with him) says that on that account I treated my head (hair) as an enemy (meaning I cut my hair). Ubaidullah narrates in his hadith that Ali (may Allah be pleased with him) used to cut his hair till the roots.

[Daif (Weak). Narrated by Abu Dawud 249 and Ibn Majah 599 and Ahmad 1/101 and Darimi 778]

Sunan Kubra Bayhaqi 826

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِيُّ حَدَّثَنَا (٨٢٧)
الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْحَارِثُ
بْنُ وَجِيهِ الرَّاسِبِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ((تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ
تَفَرَّدَ بِهِ مَوْصُولًا جَنَابَةً ، فَاغْسِلُوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَ))-
الْحَارِثُ بْنُ وَجِيهِ- وَالْحَارِثُ بْنُ وَجِيهِ تَكَلَّمُوا فِيهِ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: بالوں کی جڑوں میں پانی سے خلال کرنا اور پانی جلد تک پہنچانا

حدیث نمبر: 826

ترجمہ:

" (: ۸۲۷) سیدنا ابوہریرہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا ہر بال کے نیچے جنابت ہے بالوں کو دھوؤ اور جلد کو اچھی طرح صاف کرو۔"

اس حدیث کو موصول بیان کرنے میں حارث بن وجیہ متفرد ہے اور اس کے متعلق محدثین نے کلام کیا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Washing the hair till the roots and making the water reach the skin

Hadith number: 826

Translation:

(826) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him)

that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: There is impurity under every hair; so wash the hair and cleanse the skin

Harith ibn Wajih is different in narrating this hadith as a mawsul hadith, and the muhadithun have spoken about it.

[Daif (Weak). Narrated by Abu Dawud 248 and Tirmidhi 106 and Ibn Majah 597]

Sunan Kubra Bayhaqi 827

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِانَ أَخْبَرَنَا (٨٢٨)

أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ الصَّفَّارِ حَدَّثَنَا الْأَسْفَاطِيُّ يَعْنِي الْعَبَّاسَ بْنَ الْفَضْلِ
وَمُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى الْوَاسِطِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ سَهْلٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو
الْوَلِيدِ : بِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا
سُلَيْمَانُ بْنُ فَرُّوخٍ قَالَ : لَقِيتُ أَبَا أَيُّوبَ فَصَافَحْتُهُ ، فَوَجَدَ فِي
أَظْفَارِي طُولاَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ - فَسَأَلَهُ عَنْ خَبَرِ
السَّمَائِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - ((: يَسْأَلُ أَحَدَكُمْ عَنْ خَبَرِ
السَّمَائِ ، وَهُوَ يَدْعُ أَظْفَارَهُ كَأَظْفَارِ الطَّيْرِ يَجْمَعُ فِيهَا الْجَنَابَةَ
وَالنَّفَقَةَ)) -
لَفْظُ الْأَسْفَاطِيِّ بِكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ قُرَيْشٍ - وَرَوَاهُ أَبُو
دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب : پاکی کا بیان
باب : بالوں کی جڑوں میں پانی سے خلال کرنا اور پانی جلد
تک پہنچانا
حدیث نمبر : 827

:ترجمہ

(۸۲۸) (سلیمان بن فروخ کہتے ہیں کہ میں ابو ایوبؓ سے ملا
اور میں نے ان سے مصافحہ کیا۔ انہوں نے میرے

، ناخنوں کو لمبا پایا تو فرمایا: ایک شخص نبی ﷺ کے پاس آیا اس نے آسمان کی خبر (وحی) کے متعلق سوال کیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " تم میں سے کوئی آسمان کی خبر کے متعلق سوال کرتا ہے اور اپنے ناخنوں کو پرندوں کے پنجوں کی طرح چھوڑ دیتا ہے جس میں جنابت اور میل کچیل جمع ہو جاتی ہے۔

(ب) (اسفاطی کے الفاظ اسی طرح ہیں، قریش راوی سے ایک بڑی جماعت بیان کرتی ہے۔ اس حدیث کو ابوداؤد طیالسی نے بھی نقل فرمایا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Washing the hair till the roots and making the water reach the skin

Hadith number: 827

Translation:

(827) Sulaiman ibn Farrukh says: I met Abu Ayyub (may Allah be pleased with him) and I shook his hand. He saw that my fingernails were long and said: A man came to the

Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) and asked about the news (revelation) of the heavens. The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: "One of you asks about the news of the sky and leaves his fingernails like the claws of a bird in which impurity and dirt accumulate."

(B) The words of Asfati are similar to this, a large group narrates from Quraysh narrator. This hadith was also narrated by Abu Dawud Al-Tayalisi.

[Daif (Weak). Narrated by Ahmad 417]

Sunan Kubra Bayhaqi 828

Arabic Text:

كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورِكَ أَخْبَرَنَا (٨٢٩)
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا
قُرَيْشُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ وَائِلِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَزْدِيَّ
فَصَافَحْتُهُ فَرَأَى أَظْفَارِي طَوَالًا ، فَقَالَ : أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ - ﷺ -
يَسْأَلُهُ فَقَالَ : يَسْأَلُنِي أَحَدَكُمْ عَنْ خَبْرِ السَّمَاءِ ، وَيَدْعُ أَظْفَارَهُ
كَأَظْفَارِ الطَّيْرِ يَجْمَعُ فِيهَا الْجَنَابَةَ وَالتَّقِيَّةَ . وَهَذَا مُرْسَلٌ - أَبُو أَيُّوبَ
الْأَزْدِيُّ غَيْرُ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: بالوں کی جڑوں میں پانی سے خلال کرنا اور پانی جلد
تک پہنچانا
حدیث نمبر: 828

:ترجمہ

(٨٢٩) (وائیل بن سلیم کہتے ہیں کہ میں ابو ایوب ازدیؓ کے

پاس آیا، میں نے ان سے مصافحہ کیا تو انہوں نے میرے لمبے ناخنوں کو دیکھا، فرمایا کہ ایک شخص نبی ﷺ کے پاس آیا، وہ کوئی سوال کرتا تھا، آپ ﷺ نے فرمایا " تم سے کوئی مجھ سے آسمان کی خبر (وحی) کے متعلق سوال کرتا ہے اور اپنے ناخنوں کو پرندوں کے پنچوں کی طرح چھوڑ دیتا ہے جس میں جنابت اور میل کچیل جمع ہو جاتی ہے۔ یہ روایت مرسل ہے۔ ابو ایوب ازدی ابو ایوب انصاریؓ کے علاوہ ہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Washing the hair till the roots and making the water reach the skin

Hadith number: 828

Translation:

(828) Wa'il ibn Salim said: I came to Abu Ayyub Azdi. I shook hands with him and he saw my long fingernails. He said: A man came to the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) and he used to ask him a

question. The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said: “Someone asks me about the news (revelation) of the heavens and leaves his fingernails like the claws of a bird in which impurities and dirt are collected. This tradition is mursal. Abu Ayyub Azdi is someone other than Abu Ayyub Ansari (may Allah be pleased with him).

[Daif (Weak). Narrated by Al-Tayalisi 596]

Sunan Kubra Bayhaqi 829

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكْرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ (٨٣٠)

قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ
سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا (ح)
إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ بِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - إِذَا أَرَادَ أَنْ
يَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الْإِنَائِ
ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَضُوءَهُ هُ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ يَشْرِبُ
شَعْرَهُ الْمَائِ ، ثُمَّ يَحْتِي عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ حَتِيَّاتٍ -
وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي إِسْنَادِهِ عَنْ بِشَامٍ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ : فغَسَلَ يَدَهُ
قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا الْإِنَائِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب : پاکی کا بیان
باب : سر پر پانی تکرار سے ڈالنا سنت ہے
حدیث نمبر : 829

: ترجمہ

(۸۳۰) (سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب غسل
جنابت کا ارادہ کرتے تو برتن میں داخل کرنے سے

پہلے ہاتھوں کو دھوتے، پھر شرم گاہ کو دھوتے، پھر نماز
جیسا وضو کرتے، پھر پانی سے بالوں کو تر کرتے، پھر
اپنے سر پر تین چلو پانی ڈالتے۔

امام شافعی (رح) (اپنی سند سے ہشام سے نقل فرماتے ہیں۔ اس
حدیث میں ہے کہ اپنے ہاتھ کو برتن میں داخل کرنے سے
پہلے دھوتے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: It is Sunnah to pour water on the
head repeatedly

Hadith number: 829

Translation:

(829) Ayesha (may Allah be pleased with her)
said: When the Messenger of Allah (peace
and blessings of Allah be upon him) intended
to perform ghusl for major impurity, he would
wash his hands before entering them into the
vessel, then wash his private parts, then
perform ablution like the one done for

prayers, then wet his hair with water, then used to pour three handfuls of water over his head.

Imam Shafi'i (may Allah have mercy on him) quotes from Hisham with his isnad (chain of transmission). According to this hadith, that he would wash his hands before putting them in the vessel.

[Sahih. Narrated by Ibn Khuzaymah 242]

Sunan Kubra Bayhaqi 830

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ : عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَشْرَانَ الْعَدْلُ (٨٣١)
بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو بْنُ السَّمَّكِ حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ : عَبْدُ
الْمَلِكِ بْنِ مُحَمَّدِ الرَّقَاشِيِّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -
إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا. فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ شَعْرِي
كَثِيرٌ.

فَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - أَكْثَرَ مِنْكَ شَعْرًا وَأَطْيَبَ.
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ غُنْدَرٍ عَنْ شُعْبَةَ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: سر پر پانی تکرار سے ڈالنا سنت ہے

حدیث نمبر: 830

ترجمہ:

(۸۳۱) (سیدنا جابرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب غسل جنابت کرتے تو اپنے سر پر تین مرتبہ پانی ڈالتے۔ ایک شخص نے شخص نے کہا: میرے بال بہت گھنے ہیں۔ سیدنا جابرؓ نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ کے بال تجھ سے زیادہ گھنے اور اچھے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: It is Sunnah to pour water on the head repeatedly

Hadith number: 830

Translation:

(830) Syeduna Jabir (may Allah be pleased with him) said: When the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) performed ghusl for major impurity, he would pour water on his head three times. One man said: My hair is very thick. Syeduna Jabir (may Allah be pleased with him) said: The hair of the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) was thicker and better than yours.

[Sahih. Narrated by Bukhari 256 and Muslim 329]

Sunan Kubra Bayhaqi 831

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ (٨٣٢)
قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ
سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ -كَانَ يَغْرِفُ عَلَى رَأْسِهِ
ثَلَاثًا وَهُوَ جُنُبٌ- أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرٍ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى
كتاب: پاکی کا بیان
باب: سر پر پانی تکرار سے ڈالنا سنت ہے

حدیث نمبر: 831

ترجمہ:

(۸۳۲) سیدنا جابر^{رض} فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ اپنے سر پر تین چلو پانی ڈالتے تھے اور آپ جنبی ہوتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: It is Sunnah to pour water on the head repeatedly

Hadith number: 831

Translation:

(831) Syeduna Jabir (may Allah be pleased with him) says that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) used to pour three handfuls of water on his head and he used to be junub.

[Sahih. Narrated by Bukhari 256 and Muslim 329]

Sunan Kubra Bayhaqi 832

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرٍو بْنُ أَبِي (٨٣٣)
جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْوَهَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ :كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةِ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ
حَفَنَاتٍ مِنْ مَائٍ - فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ : إِنَّ شَعْرِي كَثِيرٌ -
قَالَ جَابِرٌ فَقُلْتُ لَهُ : يَا ابْنَ أَخِي كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - أَكْثَرَ
مِنْ شَعْرِكَ وَأَطْيَبَ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
الْمُثَنَّى -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: سر پر پانی تکرار سے ڈالنا سنت ہے

حدیث نمبر: 832

ترجمہ:

(۸۳۳) سیدنا جابرؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب غسل جنابت کرتے تو پانی کے تین چلو اپنے سر پر ڈالتے۔ حسن بن محمد نے کہا: میرے بال گھنے ہیں۔ سیدنا جابرؓ نے فرمایا: میں نے اس سے کہا: اے بھتیجے! رسول اللہ ﷺ کے بال اس سے زیادہ گھنے اور اچھے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: It is Sunnah to pour water on the head repeatedly

Hadith number: 832

Translation:

(832) Syeduna Jabir (may Allah be pleased with him) said: When the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him)

performed ghusl for major impurity, he would pour three handfuls of water on his head. Hasan ibn Muhammad said: My hair is thick. Syeduna Jabir (may Allah be pleased with him) said: I said to him: O nephew! The hair of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) was thicker and better than this. [Sahih. Narrated by Bukhari 256 and Muslim 329]

Sunan Kubra Bayhaqi 833

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ : عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو (٨٣٤)

عَبْدُ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْعَدْلُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الصَّفَّارُ
سَنَةَ سِتِّ وَتِسْعِينَ وَمِائَتَيْنِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو
الْأَخْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ
مُطْعِمٍ قَالَ: تَمَارَوْا فِي الْغُسْلِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَقَالَ
بَعْضُ الْقَوْمِ: أَمَّا أَنَا فَأَغْسِلُ رَأْسِي كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -
((أَمَّا أَنَا فَأَيْبُ أَفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ أَكْفٍ)) (-: -:
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: سر پر پانی تکرار سے ڈالنا سنت ہے
حدیث نمبر: 833

:ترجمہ

(۸۳۴) (سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے رسول
اللہ ﷺ کے پاس غسل کے متعلق جھگڑا کیا۔ بعض نے کہا: میں
اپنے سر کو اس طرح دھوتا ہوں تو رسول اللہ ﷺ نے
" فرمایا " :میں اپنے سر پر تین چلو پانی ڈالتا ہوں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: It is Sunnah to pour water on the head repeatedly

Hadith number: 833

Translation:

(833) Syeduna Jubair ibn Mut'im (may Allah be pleased with him) says that the people disputed with the Messenger of Allah (saw) about ghusl. Some said: I wash my head in this way. The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: I pour three handfuls of water on my head.

[Sahih. Narrated by Bukhari 254 and Muslim 327 and Nasai 251, 425 and Abu Dawud 239 and Ibn Majah 575, 577]

Sunan Kubra Bayhaqi 834

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِيُّ أَخْبَرَنَا (٨٣٥)
الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا زُبَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ
حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ صُرَدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ : ذَكَرْنَا عِنْدَ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - الْغُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - ((: أَمَّا
أَنَا فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ)) .
بَكْدًا وَوَصَفَ زُبَيْرٌ قَالَ : فَجَعَلَ بَاطِنَ كَفَّيْهِ مِمَّا يَلِي
السَّمَاءَ وَظَاهِرَهُمَا مِمَّا يَلِي الْأَرْضَ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ
عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ عَنْ زُبَيْرٍ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان

باب: سر پر پانی تکرار سے ڈالنا سنت ہے

حدیث نمبر: 834

ترجمہ:

(۸۳۵) (سیدنا جبیر بن معطمؓ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کے پاس غسل جنابت کا ذکر کیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

"میں اپنے سر پر تین مرتبہ پانی ڈالتا ہوں۔"

(ب) (جبیر نے ہاتھوں کی کیفیت بیان کی کہ اندرونی حصہ آسمان کی طرف اور بیرونی زمین کی طرف ہوتا) جب چلو بھرتے۔)

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: It is Sunnah to pour water on the head repeatedly

Hadith number: 834

Translation:

(834) Jubair ibn Mutam (may Allah be pleased with him) said: We mentioned the ghusl of major impurity to the Messenger of

Allah (peace and blessings of Allah be upon him) so the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: "I pour water on my head three times."

(B) Zaheer described the way of the hands, that the inner part was towards the sky and the outer part was towards the earth (when he would fill his hand with water).

[Sahih. Narrated by Bukhari 254 and Muslim 327 and Nasai 251, 425 and Abu Dawud 239 and Ibn Majah 575, 577]

Sunan Kubra Bayhaqi 835

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ : عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرَانَ الْعَدْلُ (٨٣٦)
بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ
عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ
عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ : وَضَعْتُ لِرَسُولِ
اللَّهِ ﷺ - غُسْلًا مِنَ الْجَنَابَةِ فَأَفْرَغَ عَلَى يَمِينِهِ فغَسَلَهَا ثُمَّ أَفْرَغَ
بِیْمِینِهِ عَلَى یَسَارِهِ فغَسَلَهَا ، ثُمَّ أَفْرَغَ بِیْمِینِهِ عَلَى یَسَارِهِ فغَسَلَ
فَرْجَهُ ، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْأَرْضِ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ
لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ بِيَدِهِ ثَلَاثًا ثُمَّ سَاطَرَ جَسَدِهِ ، ثُمَّ
تَنَحَّى عَنْ مُغْتَسَلِهِ فغَسَلَ رِجْلَيْهِ ، فَنَاولَتْهُ مِندِيلًا فَلَمْ يَأْخُذْهُ
وَجَعَلَ يَنْفُضُ بِيَدِهِ. قَالَ حَفْصٌ قَالَ الْأَعْمَشُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْرَائِيمَ
فَقَالَ : إِنَّمَا كَرِهُوا ذَلِكَ مَخَافَةَ الْعَادَةِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ
عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِيهِ -
وَرُوِينَا فِي ذَلِكَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان
باب: سارے جسم پر پانی بہانا
حدیث نمبر: 835

:ترجمہ

(۸۳۶) (سیدہ میمونہؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے غسل جنابت کے لیے پانی رکھا، آپ ﷺ نے دائیں ہاتھ پر پانی ڈالا، پھر اس کو دھویا، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر ڈالا اور اس کو دھویا، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں پر ڈالا اور اپنی شرمگاہ کو دھویا، پھر ہاتھ زمین پر مارا، پھر نماز جیسا وضو کیا، پھر اپنے سر پر ہاتھ سے تین مرتبہ پانی ڈالا، پھر اپنے سارے جسم پر ڈالا، پھر غسل خانے سے الگ جگہ پر اپنے پاؤں کو دھویا، میں نے آپ ﷺ کو رومال دیا تو آپ نے نہیں لیا اور اپنے ہاتھ سے جسم صاف فرمایا۔
 ب (حفص کہتے ہیں کہ اعمش نے اپنے استاد ابراہیم سے یہ بات بیان کی تو انہوں نے کہا: اس ڈر سے کہ لوگ اس کو عادت نہ بنالیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Pouring water on the whole body

Hadith number: 835

Translation:

(835) It is narrated on the authority of

Maimuna (may Allah be pleased with her) that I kept water for the ghusl of the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him). He poured water on his right hand and washed it, then he poured water on his left hand with his right hand and washed it, then he poured water on his left hand with his right hand and washed his private parts, then he hit his hand in the ground and performed ablution like the one done for prayers then he poured water over his head three times with the help of his hand then he poured water all over his body, then washed his feet in a separate place from the toilet. I gave him a handkerchief but he did not take it and wiped his body with his hand.

(B) Hafs says that A'mash told this to his teacher Ibrahim and he said: For fear that people will make it a habit.

[Sahih. Narrated by Bukhari 249, 257, 259, 260, 265, 266, 274, 276, 281 and Muslim 317 and Nasai 254, 408, 418, 419, 428 and Abu

Dawud 245 and Tirmidhi 103 and Ibn Majah 573 and Ahmad 6/329, 330, 335, 336 and Darimi 738, 774]

Sunan Kubra Bayhaqi 836

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّغَرِ (٨٣٧)
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْفَسَوِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ
بْنِ إِسْحَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ إِذَا
اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ نَضَحَ الْمَاءَ فِي عَيْنَيْهِ وَأَدْخَلَ أَصْبَعَهُ فِي
سُرَّتِهِ. مَوْقُوفٌ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: پانی کے چھینٹے آنکھوں میں مارنا اور انگلی کو ناف
میں داخل کرنا

حدیث نمبر: 836

:ترجمہ

۸۳۷ (سیدنا ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ جب آپ ﷺ غسل جنات
کرتے تو پانی کے چھینٹے آنکھوں میں مارتے اور اپنی انگلی
ناف میں داخل کرتے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Sprinkling water in the eyes and
inserting the finger into the navel

Hadith number: 836

Translation:

(836) Ibn Umar (may Allah be pleased with him) says that when he used to do ghusl for major impurity, he would sprinkle water in his eyes and put his finger in his navel.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence). Narrated by Al-Tabarani in Mujam Kabeer 7/14]

Sunan Kubra Bayhaqi 837

Arabic Text:

: وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ بْنُ أَبِي عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ (٨٣٨)
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ

الْجَنَابَةِ نَضَحَ فِي عَيْنَيْهِ الْمَاءَ -
قَالَ مَالِكٌ: لَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْضَحَ فِي عَيْنَيْهِ لِأَنَّهُمَا لَيْسَتَا
ظَاهِرَتَيْنِ مِنْ بَدَنِهِ -
قَالَ الشَّيْخُ وَقَدْ رُوِيَ مَرْفُوعًا وَلَا يَصِحُّ سَنَدُهُ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: پانی کے چھینٹے آنکھوں میں مارنا اور انگلی کو ناف
میں داخل کرنا
حدیث نمبر: 837

ترجمہ:

(۸۳۸) (سیدنا ابن عمرؓ جب غسل جنابت کرتے تو اپنی آنکھوں
میں پانی کے چھینٹے مارتے۔
ب) (امام مالک) رح (فرماتے ہیں کہ اس پر عمل نہیں ہے۔) ج)
شافعی) رح (فرماتے ہیں کہ آنکھوں پر چھینٹے مارنا ضروری
نہیں ہے؛ اس لیے کہ یہ بدن میں ظاہر نہیں ہیں۔) د) (شیخ کہتے
کہتے ہیں: یہ روایت مرفوع بھی بیان کی گئی ہے لیکن اس کی
سند صحیح نہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Sprinkling water in the eyes and inserting the finger into the navel

Hadith number: 837

Translation:

(837) Ibn Umar (may Allah be pleased with him) used to splash water in his eyes when he used to perform ghusl for major impurity.

(B) Imam Malik (may Allah have mercy on him) says that it is not obligatory to practice it.

(C) Shafi'i (may Allah have mercy on him) says that it is not necessary to splash water in the eyes, because they are not visible on the body.

(D) Sheikh says: This narration has also been narrated in a Marfu hadith but its chain of transmission is not authentic.

Sunan Kubra Bayhaqi 838

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَدِيبُ أَخْبَرَنَا أَبُو (٨٣٩)
بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ أَخْبَرَنِي أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا زُبَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا
وَكَيْعٌ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ قَالَ
أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ قَالَتْ : وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ -
ﷺ ، -غُسْلًا فَاغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَأَكْفَأَ الْإِنَائِ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ
فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى فَرْجِهِ فَغَسَلَهُ ، ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ
، عَلَى الْحَائِطِ أَوْ عَلَى الْأَرْضِ فَدَلَّكَهَا ، ثُمَّ مَضَمَضَ وَاسْتَنْشَقَ
وَوَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ، وَأَفَاضَ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ
جَسَدِهِ ، ثُمَّ تَحَّى فَغَسَلَ رِجْلَيْهِ ، فَاتَيْتُهُ بِثَوْبٍ فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا
يَعْنِي رَدَّهُ-

، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ مِنْ أَوْجُهٍ عَنِ الْأَعْمَشِ

وَاحْتَجَّ بِهِ فِيمَنْ تَوَضَّأَ مِنَ الْجَنَابَةِ ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ وَلَمْ
يُعِدْ غَسْلَ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ-
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَغَيْرِهِ عَنْ وَكَيْعٍ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: غسل میں کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کی تاکید اور
ترتیب سے وضو کی جگہوں کو دھونے کا بیان

حدیث نمبر: 838

ترجمہ:

(۸۴۹) (الف) (سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما) نے اپنے خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے نقل فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے لیے غسل کا پانی رکھا، آپ ﷺ نے غسل جنابت کیا، پھر آپ ﷺ نے برتن کو بائیں کو ہاتھ کے ساتھ اپنے دائیں ہاتھ پر انڈیلا اور اپنی ہتھیلیوں تین مرتبہ دھویا، پھر شرم گاہ پر پانی بہا کر اس کو دھویا، پھر ہاتھ زمین پر یا دیوار پر مارا، اس کو ملا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا اور اپنا چہرہ اور بازو دھوئے اور اپنے سر پر پانی بہایا، پھر اپنے سارے جسم پر پانی بہایا۔ پھر (اس جگہ سے) (الگ ہوئے، اپنے

پاؤں دھوئے، میں آپ ﷺ کے لیے کپڑا لے کر آئی، آپ ﷺ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا یعنی اس کو واپس کر دیا۔
(ب) (ایک روایت میں ہے کہ پھر اپنے سارے جسم کو دھویا اور وضو کی جگہوں کو دوبارہ نہیں دھویا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Emphasis on rinsing the mouth and rinsing the nose in ghusl and washing the places of ablution in order

Hadith number: 838

Translation:

(838) Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) narrated from his aunt Maimuna (may Allah be pleased with him) that I kept the water of ghusl for the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him). He performed ghusl for major impurity. Then he poured the vessel with his left hand on his right hand and washed his palms three times,

then he washed his private parts by pouring water on it. Then he slapped his hand on the ground or on the wall, met them together, then rinsed his mouth and put water in his nose and washed his face and arm and poured water on his head, then poured water all over his body. Then he separated (from this place), washed his feet, I brought a cloth for him, he gestured with his hand, that is, he returned it.

(B) There is a tradition that he washed his whole body and did not wash the places of ablution again.

[Sahih. Narrated by Bukhari 249, 257, 259, 260, 265, 266, 274, 276, 281 and Muslim 317 and Nasai 254, 408, 418, 419, 428 and Abu Dawud 245 and Tirmidhi 103 and Ibn Majah 573 and Ahmad 6/329, 330, 335, 336 and Darimi 738, 774]

Sunan Kubra Bayhaqi 839

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورِكَ أَخْبَرَنَا (٨٤٠)
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ صُرَدٍ سَمِعْتُ
جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ يَقُولُ : ذُكِرَ غُسْلُ الْجَنَابَةِ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ - فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - ((: أَمَّا أَنَا فَأَفِيضُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثًا)) -
مُخْرَجٌ فِي كِتَابِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان

باب: وضو غسل میں داخل ہے اور کلی اور ناک میں پانی
چڑھانے سے فرض ساقط ہوجاتا ہے
حدیث نمبر: 839

ترجمہ:

(۸۴۰) (سیدنا جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ کے پاس
غسل جنابت کا ذکر کیا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: "میں اپنے سر
پر تین مرتبہ پانی ڈالتا ہوں۔"

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ablution is included in ghusl and the
obligation is abolished by rinsing the mouth
and pouring water in the nose

Hadith number: 839

Translation:

(839) Syedna Jubair ibn Mutam says that
when ghusl for major impurity was mentioned
infront of the Prophet (peace and blessings of
Allah be upon him), he said: "I

pour water over my head three times.”

[Sahih. Narrated by Bukhari 254 and Muslim 327 and Nasai 251, 425 and Abu Dawud 239 and Ibn Majah 575, 577]

Sunan Kubra Bayhaqi 840

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدٌ (٨٤١)
بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ
غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ أَنَسًا قَدِمُوا
عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - فَسَأَلُوهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ وَقَالُوا : إِنَّا
بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ - فَقَالَ ((: إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَخْفِنَ عَلَى رَأْسِهِ
ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ)) - (- مَخْرَجٌ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ

مِنْ حَدِيثِ جَعْفَرٍ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: وضو غسل میں داخل ہے اور کلی اور ناک میں پانی

چڑھانے سے فرض ساقط ہو جاتا ہے

حدیث نمبر: 840

ترجمہ:

(۸۴۱) (سیدنا جابر^{رض} فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ نبی ﷺ کے پاس

آئے، انہوں نے غسل جنابت کے متعلق سوال کیا اور عرض

کیا کہ ہم ٹھنڈے علاقے میں رہتے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا ":

" تمہارا اپنے سر پر تین چلو پانی ڈالنا کافی ہیں۔"

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ablution is included in ghusl and the

obligation is abolished by rinsing the mouth

and pouring water in the nose

Hadith number: 840

Translation:

(840) Syeduna Jabir (may Allah be pleased with him) said that some people came to the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) and asked him about ghusl for major impurity and they said that we live in a cold area. He said: "It is enough for you to pour three handfuls of water on your head."
[Sahih. Narrated by Muslim 328 and Ibn Majah 577]

Sunan Kubra Bayhaqi 841

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورِكَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا (٨٤٢)
يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا بُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَشْرِ عَنْ
أَبِي سَفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ أَهْلَ الطَّائِفِ قَالُوا: يَا
رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ بَارِدَةٌ، فَمَا يُجْزِينَنَا مِنْ غُسْلِ
الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - ((: أَمَا أَنَا فَأُفْرِغْ عَلَيَّ رَأْسِي
ثَلَاثًا)) -

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَغَيْرِهِ عَنْ بُشَيْمٍ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: وضو غسل میں داخل ہے اور کلی اور ناک میں پانی

چڑھانے سے فرض ساقط ہو جاتا ہے

حدیث نمبر: 841

ترجمہ:

(٨٤٢) (سیدنا جابر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں کہ اہل طائف نے

کہا: اے اللہ کے رسول! ہمارا علاقہ بہت ٹھنڈا ہے تو ہمیں جنابت کے غسل سے کیا کفایت کرے گا؟ رسول اللہ ﷺ نے " فرمایا " :میں اپنے سر پر تین مرتبہ پانی ڈالتا ہوں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ablution is included in ghusl and the obligation is abolished by rinsing the mouth and pouring water in the nose

Hadith number: 841

Translation:

(841) Jabir bin Abdullah (may Allah be pleased with him) said: The people of Taif said: O Messenger of Allah! If our area is very cold then what will suffice us with ghusl done due to major impurity? The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said: "I pour water on my head three times."

[Sahih. Narrated by Muslim 328 and Ibn Majah 577]

Sunan Kubra Bayhaqi 842

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : أَحْمَدُ (٨٤٣)
بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِوَسِّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيِّ حَدَّثَنَا
عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ
مُوسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعِ مَوْلَى
أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشَدُّ
ضَفْرَ رَأْسِي أَفَأَنْقِضُهُ لِعُغْسِلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ ((لَا ، إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ
تَحْتِيَ عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَثِيَّاتٍ ، ثُمَّ تُفِيضِي عَلَيْكَ الْمَاءَ فَتَطْهَرِي)) (-)
أَوْ قَالَ ((فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهَّرْتِ)) (-)
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ

وَجَمَاعَةٍ عَنِ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: وضو غسل میں داخل ہے اور کلی اور ناک میں پانی

چڑھانے سے فرض ساقط ہوجاتا ہے

حدیث نمبر: 842

ترجمہ:

(۸۴۳) (سیدہ ام سلمہؓ) فرماتی ہیں کہ میں نے کہا: اے اللہ کے

رسول! میں اپنے سر کی مینڈیوں کو سختی سے باندھتی ہوں،

کیا میں غسل جنابت کے لیے ان کو کھولوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا:

فرمایا "نہیں تجھ کو تین چلو ڈالنا ہی کافی ہیں، پھر تو اس پر

پانی بہالے اور طہارت حاصل کر "یا فرمایا "اس وقت تو

"پاک ہوجائے گی۔"

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ablution is included in ghusl and the

obligation is abolished by rinsing the mouth and pouring water in the nose

Hadith number: 842

Translation:

(842) Syeda Umm Salma (may Allah be pleased with her) says that I said: O Messenger of Allah! I fasten the braids of my head tightly, should I open them for ghusl which is done for major impurity? The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "No, it is enough for you to put three handfuls of water, then pour water over it and attain purity." Or he said: "Then you shall be purified."

[Sahih. Narrated by Muslim 330 and Nasai 242 and Abu Dawud 251 and Tirmidhi 105 and Ibn Majah 603 and 6/289, 315 and Darimi 1196]

[SHARH] Explanation:

Al-Nawawi (may Allah have mercy on him)

said in Sharh Muslim: Our view and that of the majority is that if a woman has her hair in braids and the water reaches all of her hair, inward and outward, without undoing the braids, she does not have to undo her braids, but if the water cannot reach all of her hair without undoing the braids, then she must undo them. The hadeeth of Umm Salamah is to be interpreted as meaning that the water reached all of her hair without her undoing it, because making the water reach all parts is obligatory. It was narrated from al-Nakha'i that it is obligatory to undo (braids) in all cases; it was narrated from al-Hasan and Tawoos that it is obligatory to undo braids when doing ghusl following menses, but not in the case of janaabah. Our evidence is the hadeeth of Umm Salamah. End quote.

Sunan Kubra Bayhaqi 843

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٨٤٤)
الصَّفَّارُ أَخْبَرَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ
: الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ
وَأَيُّ وُضُوءٍ أَتَمَّ مِنَ الْغُسْلِ إِذَا اجْتَنَّبَ الْفَرْجَ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاکی کا بیان

باب: وضو غسل میں داخل ہے اور کلی اور ناک میں پانی

چڑھانے سے فرض ساقط ہوجاتا ہے

حدیث نمبر: 843

:ترجمہ

(۸۴۴) سالم بن عبدالله بن عمرؓ اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں کہ کونسا وضو غسل سے زیادہ مکمل ہے جب کہ عام وضو میں (شرمگاہ دھونے سے پرہیز کیا جاتا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ablution is included in ghusl and the obligation is abolished by rinsing the mouth and pouring water in the nose

Hadith number: 843

Translation:

(843) Salem ibn Abdullah ibn Umar narrates from his father that which ablution is more complete than ghusl, even though washing the private parts (in ablution) is avoided.

[Sahih. Narrated by AbdulRazzaq 1038]

Sunan Kubra Bayhaqi 844

Arabic Text:

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ (٨٤٥)
قَالَ: سَأَلُوا سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ
أَيَكْفِيهِ ذَلِكَ مِنَ الْوَضُوءِ؟ قَالَ: نَعَمْ وَلْيَغْسِلْ قَدَمَيْهِ.
وَرُوَيْنَا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي الَّذِي نَسِيَ الْمَضْمَضَةَ
وَالِاسْتِنْشَاقَ فِي الْجَنَابَةِ قَالَ: لَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان
باب: وضو غسل میں داخل ہے اور کلی اور ناک میں پانی
چڑھانے سے فرض ساقط ہو جاتا ہے
حدیث نمبر: 844

:ترجمہ

(۸۴۵) یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ انہوں نے سعید بن مسیب سے اس شخص کے متعلق سوال کیا جو غسل جنابت کرتا ہے کیا اس کو وضو کفایت کر جائے گا؟ انہوں نے فرمایا: ہاں البتہ۔ وہ اپنے قدم دھولے۔

حسن بصری اس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جو جنابت میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا بھول گیا فرمایا: نماز دوبارہ نہیں لوٹائے گا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ablution is included in ghusl and the obligation is abolished by rinsing the mouth and pouring water in the nose

Hadith number: 844

Translation:

(844) Yahya ibn Sa'id says that he asked Sa'id ibn Musaib about a person who performs ghusl for major impurity. Will ablution be sufficient for him (after ghusl)? He said: Yes,

but he should wash his feet.

Hasan Basri (may Allah have mercy on him) says about the person who forgot to rinse his mouth and put water in his nose in ghusl: He does not have to repeat the prayer.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 845

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ (٨٤٤)
الْعَدْلُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَائٍ
أَخْبَرَنَا عَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي رَجَائٍ الْعُطَارِدِيِّ عَنْ عِمْرَانَ
بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - فَذَكَرَ
الْحَدِيثَ قَالَ: وَنَادَى بِالصَّلَاةِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَلَمَّا

انْفَتَلَ مِنَ الصَّلَاةِ إِذَا رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ لَمْ يُصَلِّ مَعَ الْقَوْمِ قَالَ ((مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ؟)) (- قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَتْنِي الْجَنَابَةُ وَلَا مَاءَ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -)) : عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ (- وَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ : وَكَانَ آخِرَ ذَلِكَ أَنْ أُعْطِيَ الَّذِي أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ إِنَائًا مِنْ مَاءٍ فَقَالَ)) : اذْهَبْ فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ (- مَخْرَجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَوْفِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: غسل کے فرائض اور تکرار کی فرضیت کے ساقط ہونے
 کا بیان
 حدیث نمبر: 845

:ترجمہ

(۸۴۶) (عمران بن حصین فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے۔۔۔ نماز کے لیے اذان کہی گئی تو آپ ﷺ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، جب نماز سے پھرے تو دیکھا ایک شخص الگ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی، آپ ﷺ نے فرمایا " اے فلاں

کس نے تجھے منع کیا کہ تو قوم کے ساتھ نماز ادا کرتا؟ "اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں جنبی ہو گیا اور پانی نہیں تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " :تو مٹی کو لازم پکڑتا، بیشک وہ کفایت کر جاتی ہے اور پھر لمبی حدیث بیان کی۔۔۔ فرماتے ہیں: آپ نے اس کو پانی کا برتن دیا اور فرمایا " :جا اس کو اپنے اوپر ڈال لے۔"

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on obligatory actions in ghusl and repetition not being obligatory

Hadith number: 845

Translation:

(845) Imran ibn Husayn says that we were with the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) on a journey.... When the call to prayer was said, he led the people in prayer. When he turned around after finishing the prayer, he saw a man sitting apart from the people. He did not

pray with the people. He (the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him)) said: "O so and so! Who forbade you to pray with the people?" He said: O Messenger of Allah! I was junub and had no water. The Messenger of Allah (peace and blessings of Allaah be upon him) said: " You should have attained soil (perform tayammum). Verily that would have sufficed you and then he narrates a long hadith ... He says: He (the Prophet) gave him a vessel of water and said: "Go and pour it on yourself."

[Sahih. Narrated by Bukhari 348 and Nasai 322 and Ahmad 4/334]

Sunan Kubra Bayhaqi 846

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورِكَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ (٨٤٧)
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ
وَحَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ
، قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي الْجَنَابَةِ تُصِيبُهُ وَلَا مَاءَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - ((يَا أَبَا ذَرٍّ الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ كَأَفِيكَ
وَإِنْ لَمْ تَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمْسَهُ جِدَكَ)) -
قَالَ يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَفْصٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ
زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّائِيِّ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ
بُجْدَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَعْزِي بِذَلِكَ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: غسل کے فرائض اور تکرار کی فرضیت کے ساقط ہونے

کا بیان

حدیث نمبر: 846

ترجمہ:

(۸۴۶) (قلاہ بنی عامر قبیلے کے ایک شخص سے نقل فرماتے ہیں کہ میں نے ابو ذرؓ کو دیکھا، انہوں نے جنابت والی حدیث بیان کی جس میں ان کے جنبی ہونے کا ذکر ہے اور) ان کے پاس (پانی نہیں تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " : اے ابو ذر! پاک مٹی تجھ کو کافی تھی، اگرچہ دس سال بھی پانی نہ ملے اور جب تو پانی پائے تو اپنے جسم کو لگا (یعنی غسل کر)۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on obligatory actions in ghusl and repetition not being obligatory

Hadith number: 846

Translation:

(846) Qalaba narrates from a man of Bani Amir tribe that I saw Abu Dharr (may Allah be pleased with him), he narrated the hadith of

janabah which mentions that he was junub and (he) did not have water. The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said: “O Abu Dharr! Pure soil was enough for you, even if you do not get water for ten years, and when you get water, you pour it on your body (i.e take a bath).

[Sahih. Narrated by Nasai 323 and Abu Dawud 332, 333 and Tirmidhi 124 and Mishkat al-Masabih 530 and Ahmad 5/150, 180]

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذَبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ دَاسَةَ (٨٤٨)
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِصْمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ
الصَّلَاةُ خَمْسِينَ وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ سَبْعَ مَرَارٍ ، وَغَسَلَ التَّوْبِ
مِنَ الْبَوْلِ سَبْعَ مَرَارٍ ، فَلَمَّ يَزَلُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - يَسْأَلُ حَتَّى جُعِلَ
الصَّلَاةُ خَمْسًا وَغُسْلُ الْجَنَابَةِ مَرَّةً ، وَغَسَلَ التَّوْبِ مِنَ الْبَوْلِ
مَرَّةً.

- قَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا حُكِيَ عَنْهُ: فَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -
تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ ، فَبُلُّوا الشَّعْرَ وَأَنْفُوا الْبَشْرَةَ - فَإِنَّهُ لَيْسَ
بِتَّائِبٍ - يَعْنِي مَا.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: غسل کے فرائض اور تکرار کی فرضیت کے ساقط ہونے

کا بیان

حدیث نمبر: 847

ترجمہ:

(۸۴۸) الف (سیدنا عبداللہ بن عمر رض فرماتے ہیں کہ نمازیں پچاس تھیں اور غسل جنابت سات بار تھا اور پیشاب کو کپڑے سے دھونا سات بار تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے رہے، یہاں تک کہ نمازیں پانچ اور غسل جنابت ایک مرتبہ اور پیشاب کو کپڑے سے دھونا ایک مرتبہ مقرر کر دیا گیا۔

ب (امام شافعی سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا " ہر بال کے نیچے جنابت ہے، لہذا بالوں کو تر کرو اور جلد کو صاف صاف کرو "۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on obligatory actions in ghusl and repetition not being obligatory

Hadith number: 847

Translation:

(847) (a) Abdullah ibn Umar (may Allah be pleased with him) said: The prayers were fifty and the ghusl due to major impurity was

seven times and the washing of urine from the cloth was seven times. The Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him) kept asking, until the prayers were reduced to five times and the ghusl for major impurity was (reduced to) once and the washing of urine from a cloth (was reduced to) only once.

(B) It is narrated on the authority of Imam Shafi'i (may Allah have mercy on him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "There is impurity under every hair, so wet the hair and clean the skin. "
[Daif (Weak). Narrated by Abu Dawud 247 and Ahmad 2/109]

Sunan Kubra Bayhaqi 848

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ (٨٤٩)
عَدِيِّ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ حُبَابٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ حَدَّثَنَا
الْحَارِثُ بْنُ وَجِيهِ عَنِ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنِ أَبِي
، بُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - ((:تَحْتَ كُلِّ شَعْرَةٍ جَنَابَةٌ
فَبَلُّوا الشَّعْرَ وَأَنْقُوا الْبَشْرَةَ)) - .

تَفَرَّدَ بِهِ هَكَذَا الْحَارِثُ بْنُ وَجِيهِ -
وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ
عَنِ الْحَارِثِ بْنِ وَجِيهِ فَقَالَ : لَيْسَ حَدِيثُهُ بِشَيْئٍ -
وَأَنْكَرَهُ غَيْرُهُ أَيْضًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو
دَاوُدَ السَّجِسْتَانِيُّ وَغَيْرُهُمَا ، وَإِنَّمَا يُرَوَى عَنِ الْحَسَنِ عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ - مُرْسَلًا -
وَعَنِ الْحَسَنِ عَنِ أَبِي بُرَيْرَةَ مَوْفُوفًا ، وَعَنِ النَّخَعِيِّ - كَانَ
يُقَالُ -

وَقَدْ حَمَلَهُ الشَّافِعِيُّ فِي رِوَايَةِ الزَّعْفَرَانِيِّ وَغَيْرِهِ عَنْهُ عَلَى مَا
ظَهَرَ وَدَاخِلِ الْأَنْفِ وَالْفَمِ مِمَّا بَطَّنَ ، فَأَشْبَهَ دَاخِلَ الْعَيْنَيْنِ

وَدَاخِلَ الْأُذُنَيْنِ ، فَقَالَ مَنْ تَكَلَّمَ فِيهَا مَعَ الشَّافِعِيِّ : الْقِيَاسُ أَنْ لَا يُعِيدَ وَلَكِنَّا أَخَذْنَا بِالْأَثَرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - يَعْنِي -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: غسل کے فرائض اور تکرار کی فرضیت کے ساقط ہونے کا بیان

حدیث نمبر: 848

ترجمہ:

(: ۸۴۹) سیدنا ابوہریرہ ^{رض} فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر بال کے نیچے جنابت ہے بالوں کو تر کرو اور جلد کو " اچھی طرح صاف کرو۔"

(ب) (حارث بن وجیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی کوئی حیثیت نہیں۔

(ج) (محدثین میں سے امام بخاری (رح)، امام ابوداؤد (رح) اور دوسروں نے اس کا انکار کیا ہے۔ حسن بصری (رح) (نبی ﷺ سے مرسل روایت بیان کرتے ہیں، اسی طرح امام حسن بصری سیدنا ابوہریرہ ^{رض} سے موقوف روایت بیان کرتے ہیں، امام نخعی (رح) (سے بھی اسی طرح نقل کیا گیا

ہے۔
(امام شافعی) رح (نے اس بات پر محمول کیا ہے کہ ناک اور منہ پوشیدہ اعضاء میں داخل ہیں، انہوں نے آنکھوں اور کانوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ شیخ کہتے ہیں کہ جس نے امام شافعی) رح (کے ساتھ اس مسئلہ میں کلام کیا تو قیاس یہ ہے کہ وہ غسل نہیں دہرائے گا لیکن ہم نے سیدنا ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on obligatory actions in ghusl and repetition not being obligatory

Hadith number: 848

Translation:

(848) (a) Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) said: The Messenger of Allah (may peace be upon him) said: There is impurity under every hair. Wet the hair and clean the skin thoroughly.

(B) Harith ibn Wajih says that this hadith has

no value.

(C) Among the muhadithun, Imam Bukhari, Imam Abu Dawud and others (may Allah have mercy on them) have denied this. Hasan Basri (may Allah be pleased with him) narrates from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) in a mursal hadith, in the same way, Imam Hasan Basri narrates from Syeduna Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) in a mawquf hadith. It is also narrated from Imam Nakhai (may Allah have mercy on him) in the same way.

(D) Imam Shafi'i (may Allah have mercy on him) has said that the nose and mouth are considered hidden organs, he has likened them to eyes and ears. The Shaykh says that whoever spoke with Imam Shafi'i (may Allah have mercy on him) on this issue, the presumption is that he will not repeat ghusl, but we have quoted it from Ibn Abbas (may Allah be pleased with him).

Sunan Kubra Bayhaqi 849

Arabic Text:

مَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ الْحَارِثِ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ (٨٥٠)
الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ
حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ
عَجْرَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا يُعِيدُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جُنُبًا يَعْنِي
الْمُضْمَضَةَ وَالْإِسْتِنْشَاقَ-

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عُثْمَانَ- قَالَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ: لَيْسَ
لِعَائِشَةَ بِنْتِ عَجْرَدٍ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثُ-

قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَثَرُهُ الَّذِي يِعْتَمِدُ عَلَيْهِ عُثْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ
عَائِشَةَ بِنْتِ عَجْرَدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَزَعَمَ أَنَّ هَذَا الْأَثَرَ ثَابِتٌ
يُتْرَكُ لَهُ الْقِيَاسُ وَهُوَ يَعْيبُ عَلَيْنَا أَنْ نَأْخُذَ بِحَدِيثِ بُسْرَةَ

بِنْتِ صَفْوَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ --

وَعُثْمَانُ وَعَائِشَةُ غَيْرُ مَعْرُوفِينَ بِبَلَدِيمَا، وَكَيْفَ يَجُوزُ لِأَحَدٍ
يَعْلَمُ أَنَّ يَثْبُتَ ضَعِيفًا مَجْهُولًا وَيُؤَيِّنَ قَوِيًّا مَعْرُوفًا.
قَالَ الشَّيْخُ: وَرَوَاهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ عَجْرَدٍ.
وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ لَيْسَ بِحَجَّةٍ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: غسل کے فرائض اور تکرار کی فرضیت کے ساقط ہونے
کا بیان

حدیث نمبر: 849

ترجمہ:

(الف) (سیدنا ابن عباس رض فرماتے ہیں وہ دوبارہ (غسل) نہیں کرے گا مگر جنبی ہوا تو کرے گا۔ یعنی کلی اور ناک میں پانی چڑھائے گا۔

(ب) (علی بن عمر فرماتے ہیں کہ عائشہ بنت عجرد کی سیدنا ابن عباس رض سے یہی روایت ہے۔

(ج) (امام شافعی) رح (فرماتے ہیں: ان کا اثر وہ ہے جس

گی سند عثمان بن راشد عن عائشہ بنت عجرد عن ابن عباس ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ حدیث ثابت ہے۔ اس کی وجہ سے قیاس کو ترک کر دیا جائے گا اور یہ ہم پر عیب ہے کہ ہم حدیث بسرہ بنت صفوانؓ کو لیں۔

(عثمان اور عائشہ غیر معروف ہیں اور ان کے شہروں کا علم نہیں۔ شیخ کہتے ہیں: اس حدیث کو حجاج بن ارطاة عن عائشہ بنت عجرد روایت کیا گیا ہے۔ حجاج بن ارطاة قابل حجت نہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on obligatory actions in ghusl and repetition not being obligatory

Hadith number: 849

Translation:

(849) (a) Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) said: He will not do ghusl again, but he will do it if he is junub. That is, he will rinse his mouth and pour water in his nose.

(B) Ali ibn Umar says that this is the narration

of Ayesha bint Ajrad from Syeduna Ibn Abbas (may Allah be pleased with him).

(C) Imam Shafi'i (may Allah be pleased with him) said: Their trace is that whose chain of transmission is Uthman bin Rashid from Ayesha bint Ajrad on the authority of Ibn Abbas (may Allah be pleased with him). They claim that this hadith is proven. Because of this, qiyas (analogical deduction) will be abandoned and it is our fault that we take the hadith of Basra bint Safwan (as evidence).

(D) Usman and Ayesha are unknown and we do not know the cities they belong to. Shaykh says: This hadeeth has been narrated from Hajjaj ibn Artta on the authority of Aisha bint Ajrad. Hajjaj bin Artta is not reasonable.

[Daif (Weak). Narrated by Al-Daraqutni 1/115]

Sunan Kubra Bayhaqi 850

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا (٨٥١)
أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّفَّارِ حَدَّثَنَا الْأَسْفَاطِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا
زُبَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -
كَانَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ صَلَاةَ الْفَجْرِ وَلَا أَرَاهُ يُحَدِّثُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَضُوءًا بَعْدَ الْغُسْلِ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان
باب: غسل کے بعد وضو نہ کرنا
حدیث نمبر: 850

:ترجمہ

(۸۵۱) (سیدہ عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ غسل کرتے تھے، پھر صبح کی دو رکعتیں ادا کرتے تھے اور میرا خیال نہیں ہے کہ آپ ﷺ غسل کے بعد نیا وضو کرتے ہوں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Not performing ablution after performing ghusl

Hadith number: 850

Translation:

(850) It is narrated from Ayesha (may Allah be pleased with her) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) used to perform ghusl, then he used to perform two rakahs in the morning and I do not think that he would perform a new ablution after ghusl.

[Sahih. Narrated by Nasai 253 and Abu Dawud 250 and Tirmidhi 107 and Ibn Majah 579 and Ahmad 6/68, 119, 154, 192, 253, 258]

Sunan Kubra Bayhaqi 851

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَائِرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ (٨٥٢)
الصَّيِّدَلَانِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرِ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان
باب: غسل کے بعد وضو نہ کرنا
حدیث نمبر: 851

ترجمہ:

(۸۵۲) سیدہ عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ غسل جنابت کے بعد وضو نہیں کرتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Not performing ablution after performing ghusl

Hadith number: 851

Translation:

(851) Ayesha (may Allah be pleased with her) says that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) would not perform ablution after ghusl.

[Sahih. Narrated by Nasai 253 and Abu Dawud 250 and Tirmidhi 107 and Ibn Majah 579 and Ahmad 6/68, 119, 154, 192, 253, 258]

Sunan Kubra Bayhaqi 852

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوَدْبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ (٨٥٣)
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ
الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو بْنُ مَطَرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ
الْبَخْتَرِيِّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
وَبُورِ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ يَغْنَى
بِنْتَ شَكْلِ سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ - عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْحَيْضِ فَقَالَ : تَأْخُذُ
إِحْدَاكُنَّ مَاءً بِهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ ، فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى
رَأْسِهَا الْمَاءَ وَتَدْلُكُهُ دَلَكًا شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُنُونَ رَأْسِهَا ثُمَّ تَصُبُّ
عَلَيْهَا الْمَاءَ ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً تَطَهَّرُ بِهَا . قَالَتْ : كَيْفَ
أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ قَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ تَطَهَّرِي بِهَا . وَاسْتَنْتَرَ ، قَالَتْ

:عَائِشَةُ: تَتَّبَعِي بِهَا أَثَرَ الدَّمِّ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَ
 تَأْخُذِينَ مَائًا كِ فَتَطْهَرِينَ أَحْسَنَ الطُّهُورِ وَأَبْلَغَهُ ، ثُمَّ تَصْبِيْنِ
 عَلَى رَأْسِكِ الْمَائِ ، ثُمَّ تَذُلْكِيهِ حَتَّى يَبْلُغَ شُنُونََ رَأْسِكِ، ثُمَّ
 تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَائِ. وَقَالَتْ عَائِشَةُ: نِعَمَ النِّسَاءِ نِسَاءُ
 الْأَنْصَارِ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَسْأَلْنَ عَنِ الدِّينِ وَيَتَفَقَّهْنَ
 فِيهِ.

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاذٍ كَذَا فِي
 : كِتَابِنَا : شُنُونََ - وَأَهْلُ اللُّغَةِ يَقُولُونَ سُورَ أَوْ شَوَى وَقَالُوا
 سُورُهُ أَعْلَاهُ ، وَشَوَاهُ جِلْدُهُ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: عورت کا جنابت اور حیض سے غسل کرنا

حدیث نمبر: 852

ترجمہ:

(۸۵۳) (سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ اسماء بنت شکر رضی اللہ عنہا نے
 حیض کے غسل کے متعلق سوال کیا، آپ ﷺ نے فرمایا کہ تو
 پیری کے پتوں اور پانی کے ساتھ اچھی طرح طہارت حاصل
 کر، پھر اپنے سر پر پانی ڈال اور اچھی طرح اس

کو مل یہاں تک کہ بالوں کے اندر پہنچ جائے، پھر اس پر پانی ڈال، پھر خوشبو لگا ہوا روئی کا پھایا لے اس سے طہارت حاصل کر۔ فرماتی ہیں: میں نے کہا: میں اس سے کس طرح طہارت حاصل کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا " :سبحان اللہ! اس سے طہارت حاصل کر اور آپ ﷺ نے پردہ کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: اس کو خون کے نشان پر لگا اور اس نے جنابت کے غسل کے متعلق سوال کیا، آپ ﷺ نے فرمایا: پانی لے اس سے اچھی طرح طہارت حاصل کر اور اس کو (اچھی طرح جلد تک) پہنچا۔ پھر اپنے سر پر پانی ڈال پھر اس کو مل یہاں تک کہ بالوں کے اندر تک پہنچ جائے، پھر اپنے اوپر پانی ڈال لے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: بہترین عورتیں انصار کی عورتیں ہیں ان کو حیا نہیں روکتی کہ وہ دین کے متعلق سوال کریں اور اس کو سمجھیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A woman has to perform ghusl for janabah and menstruation

Hadith number: 852

Translation:

(852) It is narrated from Ayesha (may Allah be pleased with her) that Asma bint Shakal asked about the ghusl of menstruation. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: Purify yourself thoroughly with lote tree leaves and water, then pour water on your head and mix it well until it reaches inside the hair, then pour water on it, then take a scented cotton ball and get purified from it. She said: I (Asma) said: How can I attain purity from it? The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "Subhan Allah!" Purify yourself with it and he covered himself. Aisha (may Allah be pleased with her) said (to Asma): Apply it on the mark of blood and she asked about the ghusl of major impurity. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: Take water, attain purity from it and make it reach (the skin). Then pour water on your head then rub it till it reaches inside the hair,

then pour water on it. Ayesha (may Allah be pleased with her) says: The best women are the women of the Ansar. Shame does not stop them from asking questions about religion and understanding it.

[Sahih. Narrated by Muslim 332]

Sunan Kubra Bayhaqi 853

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو قَالَا (٨٥٤)
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ عَنْ صَدَقَةَ حَدَّثَنَا
جُمَيْعُ بْنُ عُمَيْرٍ أَخُو بَنِي تَيْمِ اللَّهِ بْنِ ثَعْلَبَةَ

قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أُمِّي وَخَالَتِي عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلْتَهَا إِحْدَاهُمَا: كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ عِنْدَ الْغُسْلِ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - تَوَضَّأَ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ مَرَارٍ وَنَحْنُ نُفِيضُ عَلَى رُؤُسِنَا خَمْسًا مِنْ أَجْلِ الضُّفْرِ. ،

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: عورت کا جنابت اور حیض سے غسل کرنا

حدیث نمبر: 853

ترجمہ:

(۸۵۴) (جمیع بن عمیر أخو بنی تیم اللہ بن ثعلبہ کے بھائی ہیں فرماتے ہیں کہ میں اپنی ماں اور خالہ کے ساتھ عائشہؓ کے پاس آئے، ان دونوں میں سے ایک نے سیدہ عائشہؓ سے سوال کیا کہ غسل کے وقت تم کس طرح کرتے تھے؟ عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نماز جیسا وضو کرتے تھے، پھر اپنے سر پر تین مرتبہ پانی بہاتے تھے اور ہم اپنے سروں پر مینڈھیوں کی وجہ سے پانچ مرتبہ پانی ڈالتی تھیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A woman has to perform ghusl for janabah and menstruation

Hadith number: 853

Translation:

(853) Jami ibn Umayr (may Allah be pleased with him) is the brother of Banu Taym Allah ibn Thalabah. He said: I came to Ayesha with my mother and aunt. One of them asked Ayesha (may Allah be pleased with her) that how do you perform ghusl. Ayesha (may Allah be pleased with her) said: The Messenger of Allah (may peace be upon him) used to perform ablution like the one done for prayers. Then he would pour water on his head three times and we would pour water on our heads five times because of our braids.

[Daif Jiddan (Very Weak). Narrated by Abu

Dawud 241 and Ibn Majah 574 and Ahmad 6/188 and Darimi 775]

Sunan Kubra Bayhaqi 854

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ (٨٥٥)
بِالْوَيْهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّهُ قَالَ: خَلَّلَهَا
بِالْمَاءِ لَا تُخَلَّلُهَا نَارٌ قَلِيلٌ بُقْيَابًا.

وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ أَنَّهُ
قَالَ لِامْرَأَتِهِ: خَلِّي رَأْسَكَ بِالْمَاءِ لَا تُخَلِّلِي نَارًا قَلِيلًا بُقْيَابًا عَلَيْهِ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاكى كا بيان

باب: عورت كا جنابت اور حيض سے غسل كرنا

حدیث نمبر: 854

ترجمہ:

(۸۵۵) حذیفہ سے روایت ہے کہ پانی سے خلال کرو۔ اگر خلال نہ کیا تو تھوڑی جگہ بھی آگ میں جانے کا سبب ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A woman has to perform ghusl for janabah and menstruation

Hadith number: 854

Translation:

(854) It is narrated from Hudhayfa that you should wash using water. If left unwashed, even a little part can be a cause of going in

the fire.

[Sahih. Narrated by Darimi 1148]

Sunan Kubra Bayhaqi 855

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ (٨٥٦)
السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا
الثَّوْرِيُّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعِ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا
رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشَدُّ ضَفْرَ رَأْسِي أَوْ قَالَتْ عِقَصَ رَأْسِي
أَفَأَنْقِضُهُ لِلْجَنَابَةِ وَالْحَيْضَةِ؟ قَالَ : لَا ، إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تُفْرِغِي
عَلَيْكَ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ثُمَّ قَدْ طَهَّرْتَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ

عَنْ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: عورت اپنے سر کی مینڈھوں کو نہ کھولے جب اس کو معلوم ہو کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ گیا ہے

حدیث نمبر: 855

ترجمہ:

(۸۵۶) (سیدہ ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں اپنے سر کی مینڈھیوں کو سختی سے باندھتی ہوں یا فرمایا: کیا اپنے سر کی لٹوں کو میں حیض اور جنابت سے غسل (کے لیے کھولوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "نہیں! یہی کافی ہے کہ اپنے اوپر تین چلو پانی ڈال لو پھر یقیناً تو پاک ہو جائے گی۔"

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A woman should not open the the

braids of her head when she knows that the water has reached the roots of her hair

Hadith number: 855

Translation:

(855) Syeda Umm Salma (may Allah be pleased with her) said: I said: O Messenger of Allah! I tie the braids of my hair tightly or said: Shall I untie the locks of my head for (ghusl from) menstruation and janabah? The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: No! It is enough to pour three handfuls of water on yourself, then you will surely become pure. "

[Sahih. Narrated by Muslim 330 and Nasai 242 and Abu Dawud 251 and Tirmidhi 105 and Ibn Majah 603 and 6/289, 315 and Darimi 1196]

Sunan Kubra Bayhaqi 856

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ (٨٥٧)
بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ أَخْبَرَنَا
أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ
قَالَتْ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - وَأَنَا
عِنْدَهُ فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ أَشَدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، فَكَيْفَ أَصْنَعُ حِينَ
أَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: أَحْفِنِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ
اغْمِزِي أَثَرَ كُلِّ حَفْنَةٍ. قَصَّرَ بِإِسْنَادِهِ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فِي رِوَايَةِ ابْنِ
وَهْبٍ عَنْهُ أَنَّ سَعِيدًا سَمِعَهُ مِنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَذَلِكَ فِيمَا.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: عورت کا جنابت اور حیض سے غسل کرنا

حدیث نمبر: 856

ترجمہ:

(۸۵۷) سعید بن ابو سعید مقبری نے سیدہ ام سلمہؓ سے سنا کہ انصار کی ایک عورت رسول اللہ ﷺ کے پاس آئی اور میں بھی آپ ﷺ کے پاس تھی، اس نے کہا: میں اپنے سر کی مینڈھیاں سختی سے باندھتی ہوں، جب میں غسل جنابت کروں تو کیسے کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "اپنے سر پر تین چلو پانی ڈال لے۔ پھر ہر چلو کے نشان پر چھینٹے مار۔"

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A woman has to perform ghusl for janabah and menstruation

Hadith number: 856

Translation:

(856) Saeed bin Abu Saeed Muqbari heard from Syeda Umm Salma (may Allah be pleased with her) that a woman from Ansar came to the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) and I was also with him. She said: I tie the braids of my head tightly, how can I do ghusl for major impurity? The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "Pour three handfuls of water on your head and then sprinkle water on the trace of each handful."

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence). Narrated by Darimi 1157]

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكْرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ (٨٥٨) الْقَاضِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ وَحَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ قَالَ قَرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَكَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدِ اللَّيْثِيِّ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - ﷺ - تَقُولُ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشَدُّ ضَفْرَ رَأْسِي؟ فَكَيْفَ أَصْنَعُ إِذَا اغْتَسَلْتُ؟ قَالَ: ((أَحْفِنِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ، ثُمَّ اغْمِزِيهِ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَفْنَةٍ يَكْفِيكَ)) - .
وَرَوَايَةُ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَقَدْ حَفِظَ فِي إِسْنَادِهِ مَا لَمْ يَحْفَظْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ - .

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: عورت کا جنابت اور حیض سے غسل کرنا

حدیث نمبر: 857

ترجمہ:

(۸۵۸) سعید بن ابو سعید مقبری نے سیدہ ام سلمہؓ سے سنا کہ ایک عورت نبی ﷺ کے پاس آئی اور کہا: اے اللہ کے رسول! میں اپنے سر کی مینڈھیاں سختی سے باندھتی ہوں، جب میں غسل کروں تو کیسے کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "اپنے سر پر تین چلو پانی ڈال لے، پھر ہر چلو کے نشان پر چھینٹے مار، تجھے کفایت کر جائیں گے۔"

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A woman has to perform ghusl for janabah and menstruation

Hadith number: 857

Translation:

(857) Saeed bin Abu Saeed Muqbari heard from Syeda Umm Salma (may Allah be pleased with her) that a woman came to the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) and said: O Messenger of Allah! I

tie the braids (of my hair) tightly around my head, how do I perform ghusl? The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "Pour three handfuls on your head, then sprinkle water on the mark of each handful, this will suffice you."

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence). Narrated by Darimi 1157]

Sunan Kubra Bayhaqi 858

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ (٨٥٩)

إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا

إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عَلِيَّةَ

وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ (ح)

مُحَمَّدِ الْكَعْبِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ

بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ

عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَأْمُرُ

النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُئُوسَهُنَّ فَقَالَتْ: يَا عَجَبًا لِابْنِ عَمْرٍو

بِذَا أَفْلَا يَأْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ رُئُوسَهُنَّ ، لَقَدْ كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ -

نَغْتَسِلُ مِنْ إِنَائٍ وَاحِدٍ ، فَلَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أُفْرِغَ عَلَى رَأْسِي

ثَلَاثَ إِفْرَاغَاتٍ.

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَأَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي

شَيْبَةَ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: عورت کا جنابت اور حیض سے غسل کرنا

حدیث نمبر: 858

:ترجمہ

(۸۵۹) (عبید بن عمیر کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہؓ کو یہ بات

پہنچی کہ عبداللہ بن عمرؓ عورتوں کو حکم دیتے تھے کہ جب وہ غسل کریں تو اپنے سروں کو کھولیں، عائشہؓ نے کہا تعجب ہے ابن عمر کے لیے کہ وہ یہ حکم کیوں نہیں دیتا کہ وہ اپنے سروں کو منڈوا لیں۔ میں اور رسول اللہ ﷺ ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے۔ میں اپنے سر پر تین چلو ڈالنے سے زیادہ نہیں کرتی تھی۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A woman has to perform ghusl for janabah and menstruation

Hadith number: 858

Translation:

(858) Ubaid ibn Umayr (may Allah be pleased with him) said: Aisha (may Allah be pleased with her) was informed that Abdullah ibn Umar (may Allah be pleased with him) used to order women to open their hair when they take perform ghusl. She said: How strange it is for Ibn Umar (that he orders the women to

undo the braids of their head while performing ghusl) why does he not order them to shave their heads? I and the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) used to bathe in the same vessel. I didn't do more than pour three handfuls over my head. [Sahih. Narrated by Muslim 331 and Nasai 416 and Ibn Majah 604 and Ahmad 6/4 and Darimi 776]

[SHARH] Explanation:

Shaykh Muhammad ibn Saalih al-Uthaymeen said in his commentary on Bulugh al-Maraam (p. 406): This hadeeth speaks about women doing ghusl: do they have to undo these braids and wash what is underneath them or not? The Messenger (peace and blessings of Allaah be upon him) explained that it is not obligatory to undo them every time, because this is too difficult, especially in the case of ghusl after intercourse. There

is a difference of scholarly opinion on the matter. Some scholars said that it is obligatory for women to undo their braids when doing ghusl after their periods, but not when doing ghusl after having intercourse. The difference between the two is obviously that ghusl after intercourse is done frequently, and it would be too difficult for a woman to undo her braids in the morning and put them back in the evening or vice versa, but ghusl following ones period is usually done only once a month, so it is easy for a woman to undo her braids for this purpose.

Sunan Kubra Bayhaqi 859

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِيُّ أَخْبَرَنَا (٨٦٠)
الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ
الْقَاضِي حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ عُمَرَ
بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنَّا نَغْتَسِلُ
وَعَلَيْنَا الضَّمَامُ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - مُحَلَّاتٍ وَمُحْرِمَاتٍ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: عورت کا جنابت اور حیض سے غسل کرنا

حدیث نمبر: 859

ترجمہ:

(٨٦٠) (سیدہ عائشہؓ سے روایت ہے کہ جب ہم غسل کرتے تھے اور ہمارے اوپر لیب ہوتا تھا اور ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ حلال اور محرمہ ہوتی تھیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A woman has to perform ghusl for janabah and menstruation

Hadith number: 859

Translation:

(859) It is narrated from Ayesha (may Allah be pleased with her) that when we used to do ghusl, we had adhesive substance over us (our head) and I used to be a mahram and halal for the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him).

[Sahih. Narrated by Abu Dawud 254 and Ahmad 6/79, 138]

Sunan Kubra Bayhaqi 860

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو قَالَا (٨٦١)
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ بَكَّارِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدَّتِهِ قَالَتْ : دَخَلْتُ
عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ . قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : وَأَمَّا
الْمُمْتَشِطَةُ فَكَانَتْ إِحْدَانَا تَكُونُ مُمْتَشِطَةً ، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ لَمْ
تَنْقُضْ ذَلِكَ ، وَلَكِنَّهَا تَحْفِنُ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثَ حَفَنَاتٍ ، فَإِذَا
رَأَتْ الْبَلَلَ عَلَى أَصُولِ الشَّعْرِ دَلَّكَتُهُ ، ثُمَّ أَفَاضَتْ عَلَى سَائِرِ
جَسَدِهَا .

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب : پاکی کا بیان

باب : عورت کا جنابت اور حیض سے غسل کرنا

حدیث نمبر: 860

ترجمہ:

(۸۶۱) یحییٰ بن بکار اپنی دادی سے نقل فرماتے ہیں کہ میں ام سلمہ کے پاس گئی، پھر لمبی حدیث بیان کی، ام سلمہؓ فرماتی ہیں: ہم میں سے کوئی ایک کنگھی کرتی جب غسل کرتی تو اس کو کھولتی نہیں تھی، لیکن اپنے سر میں تین چلو ڈال لیتی تھیں۔ جب بالوں کی جڑوں میں تری کو دیکھتی اس کو مل لیتی، پھر اپنے سارے جسم پر پانی بہا لیتی۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A woman has to perform ghusl for janabah and menstruation

Hadith number: 860

Translation:

(860) Yahya ibn Bakr narrates from his grandmother that I went to Umm Salma (may Allah be pleased with her), then narrated a

long hadith, Umm Salma (may Allah be pleased with her) said: One of us used to comb her hair but when she performed ghusl she did not open it (her braids), but she used to pour three handfuls of water on her head. When she felt the moisture in the roots of her hair, she would rub them, then she would pour water all over her body.

[Daif (Weak). Narrated by Abu Dawud 359]

Sunan Kubra Bayhaqi 861

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ (٨٦٢)
مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ الْبَيْهَقِيِّ حَدَّثَنَا جَدِّي حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
حَمْرَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ: أَتَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ
بِعُمْرَةٍ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي حَيْضِهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا يَوْمٌ
عَرَفَةٌ وَلَمْ أَطْهَرْ بَعْدُ ، وَإِنَّمَا كُنْتُ تَمَتَّعْتُ بِالْعُمْرَةِ - فَقَالَ لَهَا
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - ((: انْقُضِي رَأْسَكَ وَامْتَشِطِي وَأَبْلِي
بِالْحَجِّ وَأَمْسِكِي عَنْ عُمْرَتِكَ)) . قَالَتْ : فَفَعَلْتُ -
وَذَكَرَ الْحَدِيثَ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ -
وَبَيَّ إِنِ اغْتَسَلَتْ لِلْإِبْلَالِ بِالْحَجِّ وَكَانَ غُسْلُهَا غُسْلًا مَسْنُونًا
وَقَدْ أَمَرَتْ فِيهِ بِنَقْضِ رَأْسِهَا وَامْتِشَاطِ شَعْرِهَا ، وَكَانَهَا أَمَرَتْ
بِذَلِكَ اسْتِحْبَابًا كَمَا أَمَرَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِالْغُسْلِ لِلْإِبْلَالِ
عَلَى النَّفَاسِ اسْتِحْبَابًا -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: عورت کا جنابت اور حیض سے غسل کرنا

حدیث نمبر: 861

ترجمہ:

(۸۶۲) (سیدہ عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے حجۃ الوداع میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ عمرے کا احرام باندھا، پھر وہ اپنے حیض والی حدیث بیان کرتی ہیں کہ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! یہ عرفہ کا دن ہے میں اس کے بعد پاک نہیں ہوئی، میں نے عمرے سے فائدہ اٹھایا ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: " اپنا سر کھول دے اور کنگھی کر اور حج کا احرام باندھ اور عمرے سے رک جا۔ انہوں نے کہا: میں نے ایسے ہی کیا۔" (ب) (ان کا غسل حج کے تلبیہ کے لیے تھا اور غسل مسنون تھا، اس میں انہیں سر کھولنے اور کنگھی کرنے کا حکم مستحب تھا۔ جیسے اسماء بنت عمیس کو نفاس میں غسل کا حکم مستحب تھا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A woman has to perform ghusl for janabah and menstruation

Hadith number: 861

Translation:

(861) Ayesha (may Allah be pleased with her) said: I entered ihram for Umrah with the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) in the Farewell Hajj, then she narrates the hadith on menstruation that I said: Oh Prophet of Allah! This is the day of Arafah and I will not be pure till then. I have benefited by performing Umrah. The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: "Undo your hair and comb your hair and enter ihram for Hajj and postpone Umrah." She said: I did that.

(B) Her ghusl was for the talbiyyah of Hajj and the ghusl was prescribed. In it, the command to open and comb the hair was mustahabb (recommended). Just as the command to Asma bint Umayy to perform ghusl in nifas was also mustahabb (recommended).

[Sahih. Narrated by Bukhari 316]

Sunan Kubra Bayhaqi 862

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ (٨٦٣)
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ صُبَيْحٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ
سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - ((إِذَا
اغْتَسَلَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ حَيْضِهَا نَقَضَتْ شَعْرَهَا وَغَسَلَتْ بِالْخِطْمِيِّ
وَالْأَشْنَانِ ، وَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ لَمْ تَنْقُضْ رَأْسَهَا وَلَمْ تَغْسِلْهُ
بِالْخِطْمِيِّ وَالْأَشْنَانِ)) -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاكى كا بيان

باب: عورت كا جنابت اور حيض سے غسل كرنا

حدیث نمبر: 862

:ترجمہ

(۸۶۳) سیدنا انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب عورت اپنے حیض سے غسل کرے تو اپنے بالوں کو کھولے اور خطمی اور اشنان بوٹی سے دھوئے اور جب غسل جنابت کرے تو اپنے سر کو نہ کھولے اور نہ اس کو خطمی اور اشنان بوٹی سے دھوئے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A woman has to perform ghusl for janabah and menstruation

Hadith number: 862

Translation:

(862) Anas (may Allah be pleased with him) said: The Messenger of Allah (peace and

blessings of Allah be upon him) said: When a woman performs ghusl due to her menstrual period, she should untie her hair and wash it with hollyhocks and glasswort herbs and when you perform ghusl for major impurity, do not untie your hair and do not wash it with hibiscus and glasswort herbs.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 863

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوَدْبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ (٨٦٤)
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ حَدَّثَنَا شَرِيكُ
عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ سَوَائِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ -
ﷺ - : أَنَّهُ كَانَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ وَهُوَ جُنْبٌ يَجْتَرِي بِذَلِكَ
(وَلَا يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ)

وَبَدَأَ إِنْ ثَبَتَ فَمَحْمُولٌ عَلَى مَا لَوْ كَانَ الْمَاءُ غَالِبًا عَلَى
الْخِطْمِيِّ ، وَكَانَ غَسْلُ رَأْسِهِ بِنِيَّةِ الطَّهَّارَةِ مِنَ الْجَنَابَةِ. وَكَذَلِكَ مَا.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: جنبی اپنا سر خطمی بوٹی سے دھوئے
حدیث نمبر: 863

ترجمہ:

(٨٦٤) (سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ ﷺ اپنا سر خطمی بوٹی سے دھوتے تھے جب آپ ﷺ جنبی ہوتے تھے تو یہی کفایت کرجاتا تھا اور اس پر پانی نہیں بہاتی تھے۔

(ب) یہ روایت اگر ثابت ہو تو اس پر محمول ہے کہ جب خطمی بوٹی پانی پر غالب ہو اور آپ ﷺ اپنا سر غسل جنابت کی نیت سے دھوتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A person who is junub should wash his head with hollyhocks herb

Hadith number: 863

Translation:

(863) Syeda Ayesha (may Allah be pleased with her) says that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) used to wash his head with hollyhocks herb when he was junub. This would suffice him and he would not pour water on it.

(B) If this narration is proven (to be authentic), then it is applicable to the fact that the hollyhocks herb prevailed over the water and the Prophet (peace and blessings

of Allah be upon him) used to wash his head with the intention of ghusl for major impurity. [Daif (Weak). Narrated by Abu Dawud 256]

Sunan Kubra Bayhaqi 864

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا (٨٦٥)
الرَّبِيعُ قَالَ قَالَ الشَّافِعِيُّ قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ
الْحَارِثِ بْنِ الْأَزْمَعِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : إِذَا
غَسَلَ الْجُنُبُ رَأْسَهُ بِالْخِطْمِيِّ فَلَا يُعَدُّ لَهُ غُسْلًا -
وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاكى كا بيان

باب: جنبى اپنا سر خطمى بوٹى سے دھوئے

حدیث نمبر: 864

:ترجمہ

(۸۶۵) حارث بن ازمع فرماتے ہیں کہ میں نے ابن مسعودؓ کو فرماتے ہوئے سنا: جب جنبى اپنا سر خطمى بوٹى سے دھوئے تو اس کو غسل شمار نہ کرے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A person who is junub should wash his head with hollyhocks herb

Hadith number: 864

Translation:

(864) Harith ibn Izma says: I heard Ibn Masud (may Allah be pleased with him) say: When a junub washes his head with hollyhocks herb,

he should not count it as ghusl.

[Sahih. Narrated by Al-Tabarani in Mujam Kabeer 9257]

Sunan Kubra Bayhaqi 865

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ (٨٦٦)
اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شَيْبَانَ
عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ سَارِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَنْ غَسَلَ رَأْسَهُ بِخَطْمِيَّ وَهُوَ جُنُبٌ فَقَدْ أَجَزَّاهُ
وَلْيَغْسِلْ سَائِرَ جَسَدِهِ-

وَخَالَفَهُ أَبُو عَوَانَةَ فَرَوَاهُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ
قُطَيْبَةَ الثَّقَفِيِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَالصَّحِيحُ رِوَايَةُ شَيْبَانَ

كَذَلِكَ رَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ - قَالَ يَعْقُوبُ قَالَ عَلِيُّ بْنُ
الْمَدِينِيِّ : الْحَدِيثُ حَدِيثُ سُفْيَانَ -
وَرَوَيْنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ : كَانُوا يَغْسِلُونَ رُؤُوسَهُمْ
بِالسِّدْرِ مِنَ الْجَنَابَةِ ، ثُمَّ يَمَكْتُ أَحَدُهُمْ سَاعَةً ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنَ
الْجَنَابَةِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب : پاکی کا بیان
باب : جنبی اپنا سر خطمی بوٹی سے دھوئے
حدیث نمبر : 865

ترجمہ:

(۸۶۶) (عبداللہؓ کہتے ہیں : جو اپنا سر خطمی بوٹی سے دھوئے
اور وہ جنبی ہو تو یہ اس کو کفایت کر جائے گا اور پھر وہ
اپنے سارے جسم کو دھوئے۔
(ب) (علی بن مدینی کہتے ہیں کہ حدیث سفیان سب سے قوی
ہے۔
(ج) (ابراہیم نخعی کہتے ہیں کہ وہ اپنے سروں کو جنابت کی
وجہ سے بیری کے پتوں سے دھوتے تھے، پھر کچھ دیر کے
لیے رک جاتے، پھر غسل جنابت کرتے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A person who is junub should wash his head with hollyhocks herb

Hadith number: 865

Translation:

(865) Abdullah (may Allah be pleased with him) said: Whoever washes his head with hollyhocks herb and he is junub, it will suffice him and then he should wash his whole body.

(B) Ali ibn Madini (may Allah have mercy on him) says that the hadith of Sufyan is the strongest.

(C) Ibrahim Nakhai (may Allah have mercy on him) says that he used to wash his head with berry leaves because of major impurity, then he would stop for a while, then he would do ghusl.

[Daif (Weak). Narrated by Imam Bukhari in his

Sunan Kubra Bayhaqi 866

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ (٨٦٧)
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذِبَارِيُّ
: بَنِيْسَابُورَ وَأَبُو الْحُسَيْنِ : عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرَانَ وَأَبُو مُحَمَّدٍ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى السُّكْرِيُّ بِبَغْدَادَ قَالُوا أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ
مُحَمَّدِ الصَّفَّارُ قَالَا حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ
عَنْ مَنْصُورِ ابْنِ صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ
: النَّبِيَّ ﷺ - عَنْ غُسْلِهَا مِنَ الْحَيْضِ ، فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ وَقَالَ
((خُذِي فِرْصَةً مِنْ مِسْكِ فَتَطَهَّرِي بِهَا)) (-) قَالَتْ : كَيْفَ
: أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ قَالَ)) : تَطَهَّرِي بِهَا)) (-) قَالَتْ : كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا؟ قَالَتْ
فَاسْتَنْتَرَ مِنِّي بَكَدَا وَحَكَى أَبُو عُثْمَانَ يَعْنِي

سَعْدَانَ بِأَصَابِعِهِ الْأَرْبَعِ. قَالَ: وَحَكَى سُفْيَانُ فَقَالَ: ((:سُبْحَانَ اللَّهِ
تَطَهَّرِي بِهَا)) (۔ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَاجْتَذِبْتُهَا إِلَيَّ فَقُلْتُ: تَتَّبَعِينَ بِهَا
أَثَرَ الدَّمِّ-

لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ بَشْرَانَ وَالرُّوَدْبَارِيِّ وَلَمْ يَذْكَرْ غَيْرُهُمَا حِكَايَةَ
أَبِي عُثْمَانَ -

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْفَرٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ
عَنْ عَمْرِو النَّاقِدِ وَابْنِ أَبِي عُمَرَ عَنْ سُفْيَانَ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: عورت حیض کے غسل میں خوشبو استعمال کرے

حدیث نمبر: 866

:ترجمہ

(۸۶۷) (سیدہ عائشہ ^{رض} سے روایت ہے کہ ایک عورت نے حیض

کے غسل کے متعلق سوال کیا تو آپ ﷺ نے اس کو حکم دیا کہ

:کہ تو کس طرح غسل کرے گی، پھر آپ ﷺ نے فرمایا

کستوری کا ایک پھایا لے اس سے طہارت حاصل کر، اس نے

کہا: میں اس سے کیسے طہارت حاصل کروں؟ آپ ﷺ نے

فرمایا " اس سے طہارت حاصل کر۔ " اس نے کہا: میں

اس سے کیسے طہارت حاصل کروں؟ کہتی ہیں: پھر آپ ﷺ نے اس طرح کرنے سے مجھ سے پردہ کیا اور سعد ان نے اس کی وضاحت چار انگلیوں سے بیان کی اور فرمایا کہ آپ ﷺ نے فرمایا: سبحان اللہ اس سے طہارت حاصل کر۔ "سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: میں نے اس کو اپنی طرف کھینچا اور کہا: اس کو خون کے نشان پر رکھ لے۔"

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A woman should use perfume when she performs ghusl for menstruation

Hadith number: 866

Translation:

(866) It is narrated on the authority of Ayesha (may Allah be pleased with her) that when a woman asked about the ghusl of menstruation, the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) told her how she would do ghusl. Then he said: Take a piece of (scented) musk and purify yourself

with it. She said: How can I attain purification from it? He said: "Purify yourself with it." She said: "How can I attain purification from it?" She (Ayesha) said: Then the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) hid from me by doing this and Sa'd explained it (that he hid) with four fingers and said: The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: Glory be to Allah, purify yourself with it. Ayesha (may Allah be pleased with her) says: I pulled her aside and said: Put it on the traces of blood.

[Sahih. Narrated by Bukhari 314, 315, 7357 and Muslim 332 and Nasai 252 and Abu Dawud 314 and Ibn Majah 642 and Ahmad 6/122 and Darimi 800]

[SHARH] Explanation:

There is no difference between ghusl in the case of janaabah and ghusl following menses except that it is more mustahabb (recommended) to rub the hair in the case of

ghusl following menses than in the case of ghusl following janaabah. It is also mustahabb (recommended) for the woman to apply perfume to the site of bleeding, to remove any unpleasant smell.

Sunan Kubra Bayhaqi 867

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَائِرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ (٨٦٨)
الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ حَدَّثَنَا بِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ
بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ -
ﷺ ((: لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا
فَإِنَّهَا تُحِدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا

مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ وَلَا تَكْتَحِلُ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَمَسُّ
طَيِّبًا إِلَىٰ أَدْنَىٰ طُهْرٍ إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ
ظَفَارٍ ((- مَخْرَجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ بِشَامِ بْنِ حَسَّانَ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: عورت حیض کے غسل میں خوشبو استعمال کرے

حدیث نمبر: 867

:ترجمہ

(۸۶۸) ام عطیہ انصار یہ کہتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے
کہا: کوئی عورت میت پر تین دن سے زیادہ سوگ نہ منائے
مگر اپنے خاوند پر چار ماہ دس دن تک سوگ منائے گی اور
رنگا ہوا کپڑا نہ پہنے مگر عام روئی کے کپڑے اور زرد
سرہ نہ لگائے اور مہندی نہ لگائے اور اپنے طہر کے قریب
زمانہ میں خوشبو نہ لگائے۔ جب حیض سے پاک ہو جائے تو
ایک روئی کا ٹکڑا یا ناخن کے برابر خوشبو لگالے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A woman should use perfume when she performs ghusl for menstruation

Hadith number: 867

Translation:

(867) Umm Atiyah Ansar says: The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said to me: No woman should mourn for the dead for more than three days but she should mourn for her husband for four months and ten days and she should not wear dyed cloth but wear ordinary cotton cloth and should not apply kohl nor apply henna and should not apply perfume when she is pure. When her menstruation is complete, she may apply a piece of scented cotton, equal to the size of a nail.

[Sahih. Narrated by Bukhari 313, 1278, 5341, 5342, 5399 and Muslim 938 and Nasai 3564,

3566 and Abu Dawud 2302 and Ibn Majah
2087 and Mishkat al-Masabih 3331 and
Ahmad 5/65 and Darimi 2332]

Sunan Kubra Bayhaqi 868

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو نَصْرِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ (٨٦٩)
بْنِ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهِ الشَّيْرَازِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ
حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ
قَالَتْ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلَّا عَلَى زَوْجِ
أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَلَا نَكْتَحِلَ وَلَا نَتَطَيَّبَ وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا
مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ ، وَقَدْ رُخِّصَ فِي طَهْرِبَا

إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ -
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْحَجَبِيِّ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي
الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيِّ كِلَاهُمَا عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: عورت حیض کے غسل میں خوشبو استعمال کرے

حدیث نمبر: 868

ترجمہ:

(۸۶۹) ام عطیہؓ فرماتی ہیں کہ ہم کو منع کیا جاتا تھا کہ ہم میت پر تین دن سے زیادہ سوگ منائیں، مگر اپنے خاوند پر چار ماہ اور دس دن، اس دوران نہ ہم سرمہ لگاتی تھیں اور نہ خوشبو لگاتی تھیں اور نہ رنگا ہوا کپڑا پہنتی تھیں، مگر عام روئی کا لباس اور طہر میں رخصت دی گئی کہ جب کوئی عورت اپنے حیض سے غسل کرتی تو ایک روئی کا ٹکڑا یا ناخن کے برابر خوشبو لگاتی تھی۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A woman should use perfume when she performs ghusl for menstruation

Hadith number: 868

Translation:

(868) Umm Atiyah says: We were forbidden to mourn the dead for more than three days, but for four months and ten days for our husbands, during which time we would not apply kohl or perfume or wear dyed clothes. But concession was granted for ordinary cotton clothes and, when a woman performs ghusl due to her menstrual period, she used to apply a piece of scented cotton the size of which is equal to a nail.

Sahih. Narrated by Bukhari 313, 1278, 5341, 5342, 5399 and Muslim 938 and Nasai 3564, 3566 and Abu Dawud 2302 and Ibn Majah 2087 and Mishkat al-Masabih 3331 and Ahmad 5/65 and Darimi 2332]

Sunan Kubra Bayhaqi 869

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِيُّ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ (٨٧٠)
إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يَوْسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ
بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَدَّائِيُّ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ بُجْدَانَ
قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي بَدْوِهِ وَجَنَابَتِهِ إِلَى أَنْ قَالَ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - :الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُؤُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ إِلَى عَشْرِ
حِجَجٍ ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّ بَشْرَهُ الْمَاءِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: غسل میں ترتیب فرض نہیں ہے

: اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے { وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [المائدة
۶] ” [اگر تم جنبی ہو جاؤ تو طہارت حاصل کرو۔“ رسول اللہ ﷺ

نے جنبی کے متعلق فرمایا ”تو جا اور اپنے اوپر پانی بہا۔“

اس حدیث کے راوی عمران بن حصین ہیں

سیدنا ابو ذر (رض) کی حدیث میں ہے ” جب تو پانی پالے
تو اس کو اپنے جسم پر بہا اور ترتیب سے کرنے کا حکم نہیں
دیا۔“

حدیث نمبر: 869

ترجمہ:

(: ۸۷۰) سیدنا ابو ذر ^{رض} سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا
پاک مٹی مسلمان کے وضو کا ذریعہ ہے، اگرچہ دس سال کرتا
کرتا رہے اور جب پانی پائے تو اپنے جسم پر پانی بہائے، یہی
بہتر ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Order is not obligatory in ghusl, Allah

Almighty says: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}

{But if you are (in) a state of ritual impurity then purify yourselves}

[Surah Maidah 5:6]. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said about the person who is junub: “Go and pour water on yourself. The narrator of this hadith is Imran ibn Husain. In the hadith of Abu Dharr (may Allah be pleased with him), it says: When you find water, pour it all over your body and he did not order him to perform (ghusl) in order. Hadith number: 869

Translation:

(869) It is narrated on the authority of Abu Dharr (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: Pure soil is the source of ablution for a Muslim, even if he does it for ten years and when he gets water he should pour water on his body, that is better.

Sahih. Narrated by Nasai 323 and Abu Dawud 332, 333 and Tirmidhi 124 and Mishkat al-Masabih 530 and Ahmad 5/150, 180]

Sunan Kubra Bayhaqi 870

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو (٨٧١)
عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّيْدِلَانِيِّ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ
حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنِ عَائِشَةَ

قَالَتْ :كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ دَعَا بِشَيْءٍ نَحْوِ
الْحَلَابِ ، فَأَخَذَهُ بِكَفِّهِ فَبَدَأَ بِشِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ الْأَيْسَرِ ، ثُمَّ
أَخَذَ بِكَفِّهِ الْمَاءَ فَقَالَ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ- رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي
الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى-

وَالْحَلَابُ :الْإِنَائِيُّ وَهُوَ مَا يُحْلَبُ فِيهِ يُسَمَّى حِلَابًا أَخْبَرَنَا
بِذَلِكَ أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ عَنِ الشَّيْخِ أَبِي بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيِّ- وَمِمَّا
يُؤَكِّدُ ذَلِكَ مَا-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: دائیں طرف سے شروع کرنا مستحب ہے

حدیث نمبر: 870

:ترجمہ

(۸۷۱) (سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب غسل
جنابت کرتے تو ایک بڑے پیالے کی طرح کوئی چیز
منگواتے، پھر ایک چلو پانی لیتے اور اپنے سر کے دائیں
طرف سے شروع کرتے، پھر بائیں طرف کرتے، پھر اپنی
دونوں ہتھیلیوں سے پانی لیتے اور اس کو اپنے سر پر ڈالتے۔

(ب) (الحلاب سے مراد وہ برتن ہے جس میں دودھ نکلا جاتا ہے اس کا نام حلاب رکھا جاتا تھا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: It is mustahabb (recommended) to start from the right

Hadith number: 870

Translation:

(870) Ayesha (may Allah be pleased with her) said: When the Messenger of Allah (may peace be upon him) used to perform ghusl for major impurity, he would ask for something like a big bowl, then he would take a handful of water and start from the right side of his head, then on the left side, then he would take water in both his palms and pour it on his head.

(B) Al-Halab refers to the vessel in which milk is extracted. It is called Halab.

[Sahih. Narrated by Bukhari 258 and Muslim 318 and Nasai 245, 248, 249, 420, 424 and Abu Dawud 240 and Tirmidhi 104 and Malik 2/67 and Ahmad 6/94, 115, 143, 161, 173 and Darimi 775]

Sunan Kubra Bayhaqi 871

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي زِيَادَاتِ الْفَوَائِدِ حَدَّثَنَا (٨٧٢)

أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا
 أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ
 عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - كَانَ يَغْتَسِلُ فِي حِلَابٍ قَدْرَ بَدَأِ -
 وَأَرَانَا أَبُو عَاصِمٍ قَدْرَ الْحِلَابِ بِيَدِهِ فَإِذَا هُوَ كَقَدْرِ كُوزٍ يَسَعُ
 ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى شِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ يَصُبُّ
 عَلَى شِقِّ رَأْسِهِ الْأَيْسَرِ ، ثُمَّ يَأْخُذُ كَفَّيْهِ فَيَصُبُّ وَسَطَ رَأْسِهِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: دائیں طرف سے شروع کرنا مستحب ہے
 حدیث نمبر: 871

ترجمہ:

(۸۷۲) (سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ اتنی مقدار
 کے پیالے سے غسل کرتے تھے اور ابو عاصم نے ہم کو
 پیالے کی مقدار اپنے ہاتھ سے بتلائی کہ وہ ایسا پیالہ تھا کہ اس
 میں اٹھ رطل پانی آجاتا تھا، پھر اپنے سر کی دائیں جانب پانی
 ڈالتے، پھر اپنے سر کی بائیں جانب، پھر چلو پانی اور اس کو
 سر کے درمیان میں ڈالتے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: It is mustahabb (recommended) to start from the right

Hadith number: 871

Translation:

(871) It is narrated on the authority of Ayesha (may Allah be pleased with her) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) used to do ghusl with a large bowl and Abu Asim (may Allah be pleased with him) told us about the quantity of the bowl with his hand that it was such a big bowl that it could be filled with 8 pounds of water, then he would pour water on the right side of his head, then on the left side of his head, then he would pour a handful of water in the middle of his head.

[Sahih. Narrated by Ibn Hibban 1197]

Sunan Kubra Bayhaqi 872

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهِ (٨٧٣)
أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ حَيَّانَ
الْمَعْرُوفُ بِأَبِي الشَّيْخِ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَلْفِ الدُّورِيِّ حَدَّثَنَا
إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ قُنْفُذِ السَّهْمِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سِيْلَانَ عَنْ
ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ - عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ
مِنَ الْجَنَابَةِ فَيُخْطِئُ بَعْضَ جَسَدِهِ الْمَائِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -
ﷺ - ((: يَغْسِلُ ذَلِكَ الْمَكَانَ ثُمَّ يُصَلِّي)) -
عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبُو عَبْدِ الْعَزِيزِ الْأَشْجَعِيُّ قَالَ الْبُخَارِيُّ فِيهِ
نَظْرٌ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: جدا جدا غسل کرنا
حدیث نمبر: 872

:ترجمہ

(۸۷۳) (سیدنا ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے سوال کیا کہ کوئی شخص غسل جنابت کرتا ہے اور پانی بعض حصے سے رہ جاتا ہے تو؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس جگہ کو دھوئے گا، پھر نماز پڑھے گا۔
(ب (امام بخاری) رح (فرماتے ہیں: یہ روایت محل نظر ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Performing ghusl in parts

Hadith number: 872

Translation:

(872) It is narrated on the authority of Ibn Masud (may Allah be pleased with him) that a person asked, if a person performs ghusl for major impurity and some parts (of the body) are left unwashed? The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: He will wash that place, then he will offer prayers.

(B) Imam Bukhari (may Allah have mercy on him) says: This hadeeth is subject to further investigation.

[Daif (Weak). Narrated by Al-Tabarani in Mujam Kabeer 1/56]

Sunan Kubra Bayhaqi 873

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدٌ (٨٧٤)
بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ
غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ
مَيْمُونَةَ قَالَتْ : وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - غُسْلًا مِنَ الْجَنَابَةِ - فَذَكَرَ
الْحَدِيثَ فِي غُسْلِ النَّبِيِّ - ﷺ - . قَالَتْ : وَنَاوَلْتُهُ مِنْدِيلًا فَلَمْ يَأْخُذْهُ
: وَجَعَلَ يَنْفُضُ بِيَدَيْهِ - قَالَ الْأَعْمَشُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْرَائِيمَ فَقَالَ
إِنَّمَا كَرِهُوا ذَلِكَ مَخَافَةَ الْعَادَةِ -
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِيهِ دُونَ قَوْلِ الْأَعْمَشِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: رومال سے صاف کرنے کا بیان
حدیث نمبر: 873

ترجمہ:

(۸۷۴) سیدہ میمونہؓ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے غسل جنابت کے لیے پانی رکھا، پھر نبی ﷺ کے غسل کے متعلق لمبی حدیث بیان کی۔ فرماتی ہیں: میں نے آپ ﷺ کو رومال دیا۔ آپ ﷺ نے اس کو نہیں لیا بلکہ آپ اپنے ہاتھ سے (جسم) صاف کرتے تھے۔ اعمش کہتے ہیں: میں نے یہ بات ابراہیم کو ذکر کی تو اس نے کہا: عادت کے پڑ جانے کے ڈر سے اس کو ناپسند سمجھتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on cleaning with a handkerchief

Hadith number: 873

Translation:

(873) Syeda Maimuna (may Allah be pleased with her) says that I kept water for the ghusl of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) and then narrated a long hadith about the ghusl of the Prophet (peace and

blessings of Allah be upon him). She says: I gave him a handkerchief. He did not take it but he used to clean his body with his hands.

A'mash says: I mentioned this to Ibrahim and he said: He disliked it for fear of it becoming a habit.

[Sahih. Narrated by Bukhari 266, 274, 276 and Muslim 317 and Nasai 254, 408 and Abu Dawud 245]

Sunan Kubra Bayhaqi 874

Arabic Text:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورِكَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا (٨٧٥)
يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ
سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ : أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ - اغْتَسَلَ عِنْدَهَا فَاتَتْهُ بِمِنْدِيلٍ فَرَمَى بِهِ. قَالَ
الْأَعْمَشُ فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ الْحَدِيثُ هَكَذَا وَلَا بَأْسَ بِالْمَسْحِ
بِالْمِنْدِيلِ إِنَّمَا هُوَ عَادَةٌ.
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ بِمَعْنَاهُ دُونَ
قَوْلِ الْأَعْمَشِ لِإِبْرَاهِيمَ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: رومال سے صاف کرنے کا بیان
حدیث نمبر: 874

ترجمہ:

(٨٧٥) (سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ان کے پاس غسل کیا، وہ آپ ﷺ کے پاس رومال لے کر آئی تو آپ ﷺ نے اس کو نہ لیا۔ اعمش کہتے ہیں: میں نے ابراہیم سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا: بات اسی طرح ہے اور رومال سے صاف کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، یہ تو ایک عادت



English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on cleaning with a handkerchief

Hadith number: 874

Translation:

(874) It is narrated on the authority of Syeda Maimuna (may Allah be pleased with her) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) performed ghusl at her house. She brought a handkerchief to him and he did not take it. A'mash says: I mentioned it to Ibrahim and he said: The narration is like this and there is no problem in wiping with handkerchief, it is just a habit.

[Sahih. Narrated by Al-Tayalisi 1628]

Sunan Kubra Bayhaqi 875

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ (٨٧٤)
بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ بِلَالٍ يَعْني ابْنَ إِسَافٍ
عَنْ عَطَائٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَا تَمْنَدُ إِذَا تَوَضَّأْتَ.
وَرَوَيْنَا عَنْ عُثْمَانَ وَأَنَسٍ أَنَّهُمَا لَمْ يَرِيَا بِهِ بَأْسًا. وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ
عَلِيٍّ أَنَّهُ فَعَلَهُ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاكى كا بيان

باب: رومال سے صاف کرنے كا بيان

حدیث نمبر: 875

:ترجمہ

(۸۷۶) سیدنا جابرؓ سے روایت ہے کہ جب تو وضو کرے تو

رومال استعمال نہ کر۔

(ب) سیدنا عثمان اور انسؓ سے منقول ہے کہ اس میں کوئی

حرج نہیں۔ سیدنا حسن بن علیؓ سے منقول ہے کہ وہ (رومال)

استعمال کرتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on cleaning with a
handkerchief

Hadith number: 875

Translation:

(875) It is narrated from Syeduna Jabir (may
Allah be pleased with him) that when you

perform ablution, do not use a handkerchief.
(B) It is narrated from Uthman and Anas (may Allah be pleased with them) that there is no harm in this. It is narrated from Hasan ibn Ali (may Allah be pleased with him) that he used to use (a handkerchief).

[Sahih. Narrated by AbdulRazzaq 708]

Sunan Kubra Bayhaqi 876

Arabic Text:

وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكْرِيَّا بْنُ أَبِي (٨٧٧)

: إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ
أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ أَبِي مُعَاذٍ عَنِ ابْنِ
شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - كَانَتْ لَهُ
خِرْقَةٌ يَتَنَشَّفُ بِهَا بَعْدَ الْوُضُوءِ -

أَبُو مُعَاذٍ بَدَا هُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ وَهُوَ مَثْرُوكٌ -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ : عَلِيٌّ بْنُ
عُمَرَ الْحَافِظِ
ح (وَأَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ بْنِ عَدِيِّ
الْحَافِظِ

وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ بِإِسْنَادٍ وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ بِإِسْنَادٍ غَيْرِ قَوِيٍّ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: رومال سے صاف کرنے کا بیان
حدیث نمبر: 876

ترجمہ:

(۸۷۷) (سیدہ عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے لیے
ایک کپڑا ہوتا تھا، آپ وضو کے بعد اس سے) جسم

خشک کرتے تھے۔

(ب) ابو معاذ سلیمان بن ارقم ہے اور وہ متروک الحدیث ہے۔
(ج) ابوالحسن فرماتے ہیں کہ علی بن عمر الحافظ ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on cleaning with a handkerchief

Hadith number: 876

Translation:

(876) It is narrated from Ayesha (may Allah be pleased with her) that there used to be a cloth for the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him), he used it to dry (his body) after ablution.

(B) Abu Mu'adh is Sulayman ibn Arqam and he is matruk (someone who is accused of being a liar).

(C) Abul Hassan says that Ali bin Umar is the

memorizer.

[Hasan Li Ghayrihi (Fair due to external evidence). Narrated by Tirmidhi 53]

Sunan Kubra Bayhaqi 877

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَافِضُ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ (٨٧٨)
الصُّوفِيُّ الْخَافِضُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الشَّيْرَازِيُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ
مُحَمَّدِ النَّحْوِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَيْنَائِيَّ: مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا
أَبُو زَيْدٍ النَّحْوِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو بْنُ الْعَلَائِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ
مَالِكٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - كَانَتْ لَهُ

خِرْقَةً يَتَنَشَّفُ بِهَا بَعْدَ الْوُضُوءِ-

قَالَ الشَّيْخُ: وَإِنَّمَا رَوَاهُ أَبُو عَمْرٍو بْنُ الْعَلَاءِ عَنْ إِيَّاسِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّ رَجُلًا حَدَّثَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ -كَانَتْ لَهُ خِرْقَةٌ أَوْ مِنْدِيلٌ، فَكَانَ إِذَا تَوَضَّأَ مَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

کتاب: پاکی کا بیان

باب: رومال سے صاف کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 877

ترجمہ:

(۸۷۸) سیدنا ابوبکر صدیق^{رض} سے روایت ہے کہ نبی ﷺ کے لیے ایک کپڑا ہوتا تھا، آپ وضو کے بعد اسی سے (جسم) صاف کرتے تھے۔

(ب) (شیخ کہتے ہیں کہ ایاس بن جعفر کو ایک شخص نے حدیث بیان کی کہ نبی ﷺ کا ایک کپڑا یا تولیہ تھا، جس سے آپ اپنا چہرہ اور ہاتھ صاف کرتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on cleaning with a handkerchief

Hadith number: 877

Translation:

(877) It is narrated from Abu Bakr Siddiq (may Allah be pleased with him) that there used to be a cloth for the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him), he used it to dry (his body) after ablution.

(B) The Shaykh says that a man narrated to Iyas ibn Ja'far that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) had a cloth or a towel with which he used to wipe his face and hands.

[Daif Jiddan (Very Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 878

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَبِي الْمَعْرُوفِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو (٨٧٩)
سَهْلٌ: بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ الْإِسْفَرَائِينِيُّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ
عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ
أَبِي عَمْرٍو بْنِ الْعَلَاءِ عَنْ إِيَّاسِ بْنِ جَعْفَرٍ فَذَكَرَهُ.
وَبَدَأَ هُوَ الْمَحْفُوظُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْوَارِثِ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان
باب: رومال سے صاف کرنے کا بیان
حدیث نمبر: 878

:ترجمہ

(۸۷۹ ایاس بن جعفر نے اس کو نقل کیا ہے۔)

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on cleaning with a handkerchief

Hadith number: 878

Translation:

(878) Iyas ibn Ja'far has narrated it.

[Daif (Weak). Narrated by Ibn Sa'd in Al-Tabaqat]

Sunan Kubra Bayhaqi 879

Arabic Text:

وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بَشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا أَبُو (٨٨٠)
عَمْرُو بْنُ السَّمَّاكِ حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا أَبُو مَعْمَرٍ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ الْوَارِثِ عَنْ حَدِيثِ عَبْدِ
الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - كَانَ لَهُ مِنْدِيلٌ أَوْ
خِرْقَةٌ فَإِذَا تَوَضَّأَ مَسَحَ وَجْهَهُ. فَقَالَ: كَانَ فِي قُطَيْبَةٍ فَأَخَذَهُ ابْنُ
عُلَيَّةٍ فَلَسَتْ أَرْوِيهِ.

قَالَ الشَّيْخُ: وَهَذَا لَوْ رَوَاهُ عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ
أَنَسٍ لَكَانَ إِسْنَادًا صَحِيحًا إِلَّا أَنَّهُ امْتَنَعَ مِنْ رِوَايَتِهِ وَيُحْتَمَلُ
أَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ عِنْدَهُ بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
وَرَوَيْنَا عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - إِذَا تَوَضَّأَ
مَسَحَ وَجْهَهُ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ.
وَبُؤْ ضَعِيفٌ قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي بَابِ طَهَارَةِ الْمَائِ الْمُسْتَعْمَلِ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان
باب: رومال سے صاف کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 879

ترجمہ:

(۸۸۰) (الف) (سیدنا انس^{رض} سے روایت ہے کہ نبی ﷺ کے لیے رومال یا کپڑا ہوتا تھا، جب آپ ﷺ وضو کرتے تو اپنا چہرہ صاف کرتے اور وہ روئی کا بنا ہوا تھا۔ اس کو ابن علیہ نے روایت کیا ہے، لیکن میں اس کو روایت نہیں کرتا۔

(ب) (سیدنا معاذ بن جبل^{رض} سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا، جب آپ وضو فرماتے تو کپڑے کے ایک کنارے سے اپنے چہرے کو صاف فرماتے۔

(ج) (شیخ کہتے ہیں کہ اگر اس حدیث کو عبدالوارث عن عبدالعزیز عن انس بیان کرتے تو سند صحیح ہوتی مگر انہوں نے اس طرح بیان نہیں کی، اس بات کا احتمال ہے کہ انہوں نے پہلی سند سے نقل کیا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on cleaning with a handkerchief

Hadith number: 879

Translation:

(879) (a) It is narrated from Anas (may Allah be pleased with him) that there was a handkerchief or cloth for the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him). When he performed ablution, he would clean his face and it was made of cotton. It is narrated by Ibn Alita, but I do not narrate it.

(B) It is narrated on the authority of Mu'adh ibn Jabal (may Allah be pleased with him) that I saw the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him), when he performed ablution, he would wipe his face with one edge of the cloth.

(C) The Shaykh says that if this hadith had been narrated by 'Abd al-Warith on the authority of ' Abd al-'Azeez on the authority of Anas, the chain of transmission would have been valid, but he did not narrate it in this way. It is possible that they narrated it from the first isnad (chain of transmission).

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 880

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ (٨٨١)
الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ
بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَّارَةَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ : أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - زَارَهُمْ ، فَوَضَعُوا لَهُ غُسْلًا فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ
نَاولَهُ مِلْحَفَةً مَصْبُوعَةً بِزَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ فَاشْتَمَلَ بِهَا -
بَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى
وَغَيْرِهِ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ -
وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَسْعَدَ

بْنِ زُرَّارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ شُرْحَبِيلَ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ
أَتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - فَوَضَعْنَا لَهُ غُسْلًا فَأَغْتَسَلَ ، ثُمَّ أَتَيْنَاهُ :
بِمِلْحَفَةٍ وَرَسِيَّةٍ فَالْتَحَفَ بِهَا ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَثْرِ الْوَرَسِ
عَلَى عُنُقِهِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: رومال سے صاف کرنے کا بیان
حدیث نمبر: 880

ترجمہ:

(۸۸۱) الف (سیدنا قیس بن سعد^{رض} سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ان کی ملاقات کے لیے گئے تو انہوں نے آپ ﷺ کے لیے غسل کا پانی رکھا، آپ ﷺ نے غسل کیا، پھر آپ کو ایک کپڑا دیا گیا جو زعفران سے رنگا ہوا تھا، آپ ﷺ نے اس کو لپیٹ لیا۔

ب (سیدنا قیس بن سعد^{رض} فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس آئے، ہم نے آپ کے لیے غسل کا پانی رکھا، آپ نے غسل کیا، ہم آپ کے پاس ایک کپڑا لے کر آئے جس میں ورس بوٹی لگی ہوئی تھی، آپ نے اس کو لپیٹ

لٲا گویا میں آپ کی گردن میں ورس کا نشان دیکھ رہا ہوں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on cleaning with a handkerchief

Hadith number: 880

Translation:

(880) (a) It is narrated on the authority of Qais ibn Sa'd (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) went to meet him and he kept water for him to perform ghusl. He performed ghusl. Then he was given a cloth which was dyed with saffron. He wrapped (himself in) it.

(B) Qais ibn Sa'd (may Allah be pleased with him) said: The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) came to

us. We kept water for him to perform ghusl. He performed ghusl. We brought to him a Warshiyah cloth (yellow dyed cloth). He wrapped it and I saw the traces of Warss (yellow dye) on his neck.

[Daif (Weak). Narrated by Abu Dawud 5185 and Ibn Majah 466, 3604 and Ahmad 3/421, 6/7]

Sunan Kubra Bayhaqi 881

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (٨٨٢)

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ :
 مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ بِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ
 قَالَتْ : كُنْتُ أَرَجُلُ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - وَأَنَا حَائِضٌ - وَرَوَاهُ
 الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ يُونُسَ عَنْ مَالِكٍ ، وَرَوَاهُ
 مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ بِشَامِ -
 وَاجْتَجَّ الشَّافِعِيُّ فِي ذَلِكَ أَيْضًا بِمَا ثَبَتَ مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ ﷺ -
 الْحَائِضُ أَنْ تَغْسِلَ دَمَ الْمَحِيضِ مِنْ ثَوْبِهَا وَلَمْ يَأْمُرْ بِغَسْلِ الثَّوْبِ
 كُلِّهِ ، وَلَا شَكَّ فِي كَثْرَةِ الْعَرَقِ فِيهِ ، وَقَدْ مَضَى ذَلِكَ
 الْحَدِيثُ فِي مَوَاضِعَ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب : پاکی کا بیان
 باب : حائضہ اور جنبی کا پسینہ پاک ہوتا ہے
 حدیث نمبر : 881

ترجمہ:

(۸۸۲) (سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا) فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے سر
 کو کنگھی کرتی تھی حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی۔ (ب (امام
 شافعی) رح (نے نبی ﷺ کے اس حکم سے دلیل لی ہے جو
 حائضہ کے اس خون کے متعلق ہے جو کپڑے کو

لگ جائے تو اس کو دھویا جائے اور آپ ﷺ نے سارا کپڑا دھونے کا حکم نہیں دیا۔ اس میں پسینے کے متعلق کوئی شک نہیں۔ یہ حدیث کئی جگہوں پر گذر چکی ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The sweat of a menstruating woman and a person who is junub is pure

Hadith number: 881

Translation:

(881) Ayesha (may Allah be pleased with her) said: I used to comb the head of the Messenger of Allah (may peace be upon him) even though I was menstruating.

(B) Imam Shafi'i (may Allah be pleased with him) has taken evidence from this command of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) which is related to the blood of menstruation which falls on the clothes and should be washed and the Prophet (peace

and blessings of Allah be upon him) did not order to wash all of the cloth. There is no doubt about sweat in it. This hadith has been narrated in many places.

[Sahih. Narrated by Bukhari 295, 5925 and Muslim 297 and Nasai 278, 386, 389 and Malik 2/101 and Ahmad 6/104, 231, 232 and Darimi 1098, 1099]

Sunan Kubra Bayhaqi 882

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورِكَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ (٨٨٣)
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ

الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد عن عائشة أن
رسول الله - ﷺ - قال لها: ناولينى الخمرة - قالت: إني
حائض - قال: إن حيضتك ليست في يدك - فناولتها إياه.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

کتاب: پاکی کا بیان

باب: حائضہ اور جنبی کا پسینہ پاک ہوتا ہے

حدیث نمبر: 882

:ترجمہ

(۸۸۳) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا "مجھ کو چٹائی پکڑاؤ" انہوں نے عرض کیا: میں حائضہ ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا "تیرا حیض تیرے ہاتھ میں تو نہیں ہے" چنانچہ میں نے آپ ﷺ کو پکڑا دیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The sweat of a menstruating woman and a person who is junub is pure

Hadith number: 882

Translation:

(882) It is narrated on the authority of Ayesha (may Allah be pleased with her) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said to her: "Give me the mat." She said: I am menstruating. He said: "Your menstruation is not in your hands." So I gave him (the mat).

[Sahih. Narrated by Muslim 298 and Nasai 272, 383 and Abu Dawud 261 and Tirmidhi 134 and Ibn Majah 632 and Ahmad 6/45, 101, 112, 141, 173, 214, 229, 245 and Darimi 798 and Al-Tayalisi 1430]

Sunan Kubra Bayhaqi 883

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا (٨٨٤)
إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ
الْأَعْمَشِ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ ((نَأْوَلِيْنِي الْخُمْرَةَ مِنْ
الْمَسْجِدِ)) - وَلَمْ يَقُلْ فَنَأْوَلْتُهَا إِيَّاهُ -
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
کتاب: پاکی کا بیان
باب: حائضہ اور جنبی کا پسینہ پاک ہوتا ہے
حدیث نمبر: 883

ترجمہ:

(٨٨٤) (اعمش سے روایت ہے کہ مجھے چٹائی پکڑا دو اور یہ
الفاظ نہیں فَنَأْوَلْتُهَا إِيَّاهُ کہ میں نے آپ کو پکڑا دی۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The sweat of a menstruating woman and a person who is junub is pure

Hadith number: 883

Translation:

(883) It is narrated from Aamash that give me the mat and the words **فَنَآوَلْتُهَا إِلَيَّ** are not there that I gave him.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 884

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَائِرٍ الْفَقِيهُ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ أَبُو عَبْدِ (٨٨٥)
اللَّهُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ أَبُو طَائِرٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ (ح)
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ (ح)
الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَيْسَى الْبِرْتِيُّ أَخْبَرَنَا الْقَعْنَبِيُّ
أَخْبَرَنَا أَفْلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ
أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ - مِنْ إِنَائِي وَاحِدٍ تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ مِنَ
الْجَنَابَةِ-

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ جَمِيعًا عَنِ الْقَعْنَبِيِّ-
وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ أَفْلَحَ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ: وَتَلْتَقِي- وَقَالَ
إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ عَنْ أَفْلَحَ يَعْنِي وَتَلْتَقِي-
وَعِنْدِي أَنَّ مَعْنَى قَوْلِهِ تَخْتَلِفُ أَيْدِينَا فِيهِ إِدْخَالُهُمَا أَيْدِيَهُمَا فِيهِ لِأَخْذِ
الْمَائِ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان
باب: حائضہ اور جنبی کا پسینہ پاک ہوتا ہے

حدیث نمبر: 884

ترجمہ:

(۸۸۵) سیدہ عائشہ ^{رض} سے روایت ہے کہ میں اور رسول اللہ ﷺ ایک ہی برتن سے غسل جنابت کیا کرتے تھے، ہمارے ہاتھ (پانی لینے میں) مختلف ہوتے تھے۔
ب (امام بخاری و مسلم نے قعنبی سے روایت کیا ہے۔
ج (افلح کی روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ ہمارے ہاتھ ملتے تھے۔ ہمارے نزدیک اس قول تَخْتَلِفُ أَيَّدِينَا فِيهَا كَا مَعْنَى آبِ دُونوں کا پانی لینے کے لیے برتن میں ہاتھ داخل کرنا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The sweat of a menstruating woman and a person who is junub is pure

Hadith number: 884

Translation:

(884) It is narrated on the authority of Ayesha (may Allah be pleased with her) that the

Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) and I used to do ghusl for major impurity from the same vessel. Our hands (in taking water) were different.

(B) Narrated by Imam Bukhari and Muslim from Qanabi.

(C) There is an addition in the tradition of Aflah that our hands used to meet. In our opinion, the meaning of the word **تَخْتَلَفُ ٲُيْدِينَا فِيهَا** means that he put his hand in the vessel to get water for the both of them.

[Sahih. Narrated by Bukhari 250, 261, 299, 5956 and Muslim 319 and Nasai 72, 229, 411 and Abu Dawud 77 and Ibn Majah 376 and Ahmad 6/171, 162, 230, 265 and Darimi 776]

Sunan Kubra Bayhaqi 885

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو قَالَا (٨٨٤)
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ : عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْهَاشِمِيُّ بِحَلَبَ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي
إِيَّاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ الرَّشَكِيِّ عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ عَنْ
عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ : أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ رَجُلٍ يَدْخُلُ يَدَهُ الْإِنَائِ وَهُوَ
، جُنُبٌ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ فَقَالَتْ : إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْئٌ
وَلَكِنْ لِيَبْدَأُ فَيَغْسِلَ يَدَهُ ، قَدْ كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ - نَغْتَسِلُ
مِنْ إِنَائٍ وَاحِدٍ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى
كتاب: پاکی کا بیان
باب: حائضہ اور جنبی کا پسینہ پاک ہوتا ہے
حدیث نمبر: 885

:ترجمہ

۸۸۶ (سیدہ عائشہؓ سے روایت ہے کہ ان سے ایک شخص کے متعلق سوال کیا گیا جو اپنا ہاتھ برتن میں داخل کرتا ہے اور وہ جنبی ہے۔ آپؓ نے فرمایا: پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی اور وہ پہلے اپنا ہاتھ دھوئے، میں اور رسول اللہ ﷺ ایک ہی برتن سے اکٹھے غسل کرتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The sweat of a menstruating woman and a person who is junub is pure

Hadith number: 885

Translation:

(885) It is narrated from Ayesha (may Allah be pleased with her) that she was asked about a person who puts his hand in the pot and he is junub. She said: Nothing defiles water and he should wash his hands first. The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) and I used to bathe together in the same vessel.

[Sahih. Narrated by Ahmad 6/172]

Sunan Kubra Bayhaqi 886

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ (٨٨٧)
الْقَاضِي قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ
مَالِكًا يَقُولُ حَدَّثَنِي نَافِعٌ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْرَقُ فِي
تَوْبِهِ وَهُوَ جُنُبٌ ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان

باب :حائضہ اور جنبی کا پسینہ پاک ہوتا ہے

حدیث نمبر :886

ترجمہ:

(۸۸۷) نافع کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمرؓ کو کپڑوں میں پسینہ آتا تھا اور وہ جنبی ہوتے تھے، پھر اس میں نماز پڑھتے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The sweat of a menstruating woman and a person who is junub is pure

Hadith number: 886

Translation:

(886) Nafi (may Allah have mercy on him) says that Abdullah ibn Umar (may Allah be pleased with him) used to sweat in his clothes and he used to be junub, then he used to offer prayers in those (clothes).

[Sahih. Narrated by Malik 2/87]

Sunan Kubra Bayhaqi 887

Arabic Text:

وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَسْلَمَةَ بِنْتِ عَلِيٍّ (٨٨٨)
وَالْفُضَيْلِ بْنِ عِيَّاضٍ عَنْ بِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ
عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا بَأْسَ بِعَرَقِ الْجُنُبِ
وَالْحَائِضِ فِي التَّوْبِ.
قَالَ ابْنُ وَهْبٍ وَقَالَ لِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ مِثْلَهُ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان

باب :حائضہ اور جنبی کا پسینہ پاک ہوتا ہے

حدیث نمبر :887

ترجمہ:

(۸۸۸) سیدنا عبداللہ بن عباسؓ فرماتے تھے :کپڑوں میں حائضہ اور جنبی آدمی کے پسینے میں کوئی حرج نہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The sweat of a menstruating woman and a person who is junub is pure

Hadith number: 887

Translation:

(887) Syedna Abdullah bin Abbas (may Allah be pleased with him) used to say: There is no harm in (a woman) menstruating in (her) clothes and in the sweat of a person who is junub.

[Sahih. Narrated by Darimi 1031]

Sunan Kubra Bayhaqi 888

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكْرِيَّا وَأَبُو بَكْرِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا (٨٨٩)
مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. قَالَ وَحَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ قَالَ قُرِيٌّ عَلَى
ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَكَ عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ حُرَيْثِ بْنِ أَبِي مَطَرٍ عَنْ
الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -
يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ يَأْتِينِي وَأَنَا جُنُبٌ فَيَسْتَدْفِي بِي -
تَفَرَّدَ بِهِ حُرَيْثُ بْنُ أَبِي مَطَرٍ وَفِيهِ نَظْرٌ -
وَرُويَ مِنْ وَجْهِ آخَرَ ضَعِيفٍ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ
مُخْتَصَرًا -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان

باب :حائضہ اور جنبی کا پسینہ پاک ہوتا ہے

حدیث نمبر :888

ترجمہ:

(۸۸۹) سیدہ عائشہ رض سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کرتے، پھر میرے پاس آتے اور میں جنبی ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ گرمی حاصل کرتے تھے۔

(ب) اس میں حریث بن ابو مطر کا تفرد ہے اور یہ تفرد محل نظر ہے۔

(ج) ایک دوسری ضعیف سند سے سیدہ عائشہ رض سے مختصر روایت منقول ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The sweat of a menstruating woman and a person who is junub is pure

Hadith number: 888

Translation:

(888) It is narrated on the authority of Ayesha (may Allah be pleased with her) that the

Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) used to perform ghusl for major impurity, then he would come to me and I would be junub. He used to get warm with me.

(B) Harith bin Abu Mutar is unique in (narrating) this and this uniqueness is subject to further investigation.

(C) Another weak chain of transmission narrates a shorter (similar) hadith from Syeda Ayesha (may Allah be pleased with her).

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 889

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي آخِرِينَ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو (٨٩٠)
الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا
الشَّافِعِيُّ

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ (ح)
الْكَعْبِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ : أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - كَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْقَدَحِ وَهُوَ الْفَرَقُ ، وَكُنْتُ
أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ مِنْ إِنَائِي وَاحِدٍ -

لَفْظُ حَدِيثِ الشَّافِعِيِّ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرِ
بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

كتاب : پاکی کا بیان

باب : جنبی کا بچا ہوا پانی

حدیث نمبر : 889

:ترجمہ

(۸۹۰) (سیدہ عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک پیالے میں غسل کرتے تھے جس کو فرق کہتے ہیں۔ میں اور رسول اللہ ﷺ ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The water leftover by a junub person

Hadith number: 889

Translation:

(889) It is narrated from Ayesha (may Allah be pleased with her) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) used to do ghusl in a bowl which is called Faraq. I and the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) used to perform ghusl in the same vessel.

[Sahih. Narrated by Bukhari 250, 261, 299, 5956 and Muslim 319, 321 and Nasai 72, 229, 240, 411, 412 and Abu Dawud 77 and Ibn

Majah 376 and Ahmad 6/171, 162, 230, 265
and Darimi 776]

Sunan Kubra Bayhaqi 890

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو طَائِرٍ الْفَقِيهُ قَالَ أَبُو (٨٩١)
طَائِرٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا
أَبُو الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو
الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَعْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ - مِنْ إِنَائِي
وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى
كتاب: پاكى كا بيان
باب: جنبى كا بچا هوا پانى
حديث نمبر: 890

:ترجمہ

(۸۹۱) سیدہ عائشہ ^{رض} سے روایت ہے کہ میں اور رسول اللہ ﷺ غسل جنابت ایک ہی برتن سے کرتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The water leftover by a junub person

Hadith number: 890

Translation:

(890) It is narrated from Ayesha (may Allah be pleased with her) that I and the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) used to perform ghusl for major impurity from the same vessel.

[Sahih. Narrated by Bukhari 250, 261, 299, 5956 and Muslim 319, 321 and Nasai 72, 229, 240, 411, 412 and Abu Dawud 77 and Ibn Majah 376 and Ahmad 6/171, 162, 230, 265 and Darimi 776]

Sunan Kubra Bayhaqi 891

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ (٨٩٢)
أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُتَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ بِمِثْلِهِ -
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ بِإِسْنَادَيْنِ جَمِيعًا.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى
كتاب: پاكى كا بيان
باب: جنبى كا بچا هوا پانى
حدیث نمبر: 891

:ترجمہ

(۸۹۲) سیدہ عائشہؓ اسی (پچھلی روایت کی) طرح نقل فرماتی ہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The water leftover by a junub person

Hadith number: 891

Translation:

(891) Syeda Ayesha (may Allah be pleased with her) narrates in the same way (like the previous narration).

[Sahih. Narrated by Bukhari 250, 261, 299, 5956 and Muslim 319, 321 and Nasai 72, 229, 240, 411, 412 and Abu Dawud 77 and Ibn Majah 376 and Ahmad 6/171, 162, 230, 265 and Darimi 776]

Sunan Kubra Bayhaqi 892

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو طَائِرٍ الْفَقِيهُ قَالَ أَبُو (٨٩٣)
طَائِرٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ
الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو
خَيْثَمَةَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ
أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - مِنْ إِنَائِي

وَاحِدٍ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، فَيُبَادِرُنِي فَأَقُولُ دَع لِي دَع لِي- قَالَتْ :وَهُمَا
جُنُبَانِ-

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب :پاکی کا بیان
باب :جنبی کا بچا ہوا پانی
حدیث نمبر :892

:ترجمہ

(۸۹۳) (سیدہ عائشہ رض سے روایت ہے کہ میں اور رسول اللہ ﷺ ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے جو میرے اور آپ ﷺ کے درمیان ہوتا تھا، آپ ﷺ مجھ سے) پانی لینے میں (جلدی کرتے تھے، میں کہتی :میرے لیے چھوڑ دو، میرے لیے چھوڑ دو اور ہم دونوں جنبی ہوتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The water leftover by a junub person

Hadith number: 892

Translation:

(892) It is narrated on the authority of Ayesha (may Allah be pleased with her) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) and I used to perform ghusl in the same vessel that used to be between him and me and he would get ahead of me, so that I would say: Spare some (water) for me, spare some (water) for me and we both used to be junub.

[Sahih. Narrated by Muslim 321 and Nasai 240, 414 and Ahmad 6/91, 103, 118, 123, 161, 171, 172, 193, 235, 265]

Sunan Kubra Bayhaqi 893

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ (٨٩٤)
يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا
وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ - مِنْ إِنَائِي وَاحِدٍ ، يُبَادِرُنِي وَأُبَادِرُهُ حَتَّى أَقُولَ
دَعْ لِي دَعْ لِي كَذَا قَالَتْ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: جنبی کا بچا ہوا پانی
حدیث نمبر: 893

ترجمہ:

(٨٩٤) (سیدہ عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ ﷺ ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے، آپ ﷺ مجھ سے جلدی کرتے اور میں آپ ﷺ سے جلدی کرتی، میں کہتی:

میرے لیے چھوڑ دو، میرے لیے چھوڑ دو، اسی طرح کہتی۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The water leftover by a junub person

Hadith number: 893

Translation:

(893) Ayesha (may Allah be pleased with her) said: I and the Messenger of Allah (may peace be upon him) used to perform ghusl in the same vessel, he would get ahead of me and I would get ahead of him. I would say: Spare some (water) for me, spare some (water) for me; this is how I would say.

[Sahih. Narrated by Muslim 321 and Nasai 240, 414 and Ahmad 6/91, 103, 118, 123, 161, 171, 172, 193, 235, 265]

Sunan Kubra Bayhaqi 894

Arabic Text:

وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو طَائِرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ (٨٩٥)
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَخْبَرَنَا أَبَانُ
عَنْ بِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّ
ﷺ نَغْتَسِلُ مِنْ إِنَائِي وَاحِدٍ فَيَبْدَأُ قَبْلِي--

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: جنبی کا بچا ہوا پانی
حدیث نمبر: 894

:ترجمہ

(٨٩٥) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے چلو

بھرتے، آپ ﷺ مجھ سے پہلے شروع کرتے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The water leftover by a junub person

Hadith number: 894

Translation:

(894) It is narrated on the authority of Ayesha (may Allah be pleased with her) that I and the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) used to perform ghusl in the same vessel, he would take handfuls (of water) from it, he used to start before me.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 895

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَائِرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ (٨٩٦)
الرَّحْمَنِ بْنُ بَشِيرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ
عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - وَإِيَّابَا كَانَا
هُ وَهَمَا جُنُبٌ - يَغْتَسِلَانِ مِنَ الْإِنَائِ الْوَاحِدِ ، يَغْتَرِفُ مِنْ

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان
باب: جنبی کا بچا ہوا پانی
حدیث نمبر: 895

:ترجمہ

(٨٩٦) (سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں اور رسول اللہ ﷺ
ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے، آپ ﷺ اس سے چلو
بھرتے اور ہم دونوں جنبی ہوتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The water leftover by a junub person

Hadith number: 895

Translation:

(895) It is narrated on the authority of Ayesha (may Allah be pleased with her) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) and I used to bathe in the same vessel. He would take handfuls (of water) from it and we both used to be junub. [Sahih. Narrated by Al-Tahawi in Sharh Kabeer 1/26]

Sunan Kubra Bayhaqi 896

Arabic Text:

وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَايُ عَنْ عَائِشَةَ (٨٩٧)
أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - وَعَنْهَا أَنَّهَا شَرَعَا جَمِيعًا
وَبِمَا جُنِبَ فِي إِنَائِي وَاحِدٍ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: جنبی کا بچا ہوا پانی
حدیث نمبر: 896

:ترجمہ

(٨٩٧) (سیدہ عائشہؓ سے روایت ہے کہ میں اور نبی ﷺ ایک
ہی برتن سے اکٹھے غسل شروع کرتے تھے اور ہم دونوں
جنبی ہوتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The water leftover by a junub person

Hadith number: 896

Translation:

(896) It is narrated from Ayesha (may Allah be pleased with her) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) and I used to start ghusl together from the same vessel and we both used to be junub.

[Sahih. Narrated by Ahmad 6/168]

Sunan Kubra Bayhaqi 897

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَائِرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدٍ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٨٩٨)
 بِنِ يَحْيَى بْنِ بِلَالٍ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَحْمَسِيُّ
 حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ
 ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرْتُهُ مَيْمُونَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - اغْتَسَلَ وَبَيَّ مِنْ إِنَائِي
 وَاحِدٍ -

، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ وَغَيْرِهِ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ
 وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ دُونَ ذِكْرِ مَيْمُونَةَ -
 قَالَ الْبُخَارِيُّ : كَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ أَخِيرًا يَقُولُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ
 مَيْمُونَةَ -
 وَالصَّحِيحُ مَا رَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: جنبی کا بچا ہوا پانی
 حدیث نمبر: 897

:ترجمہ

(٨٩٨) (الف) (سیدنا ابن عباسؓ کو سیدہ میمونہؓ نے خبر

دی کہ میں نے اور نبی ﷺ نے ایک ہی برتن سے غسل کیا۔
(ب) (امام بخاری) رح (فرماتے ہیں کہ ابن عیینہ آخری عمر
میں فرمایا کرتے تھے: عن ابن عباس عن ميمونة۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The water leftover by a junub person

Hadith number: 897

Translation:

(897) (a) Syedna Maimuna (may Allah be pleased with her) informed Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) that she and the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) performed ghusl in the same vessel.

(B) Imam Bukhari (may Allah have mercy on him) says that Ibn Ayyina used to say in the last part of his life: On the authority of Ibn Abbas (may Allah be pleased with him), on the authority of Maimuna (may Allah be

pleased with her).

[Sahih. Narrated by Bukhari 253 and Muslim 322 and Nasai 237 and Tirmidhi 62 and Ibn Majah 377 and Ahmad 6/329]

Sunan Kubra Bayhaqi 898

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدٌ (٨٩٩)
بْنُ عَلِيٍّ الْجَوْبَرِيُّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ابْنِ الطَّبَّاعِ
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ فَذَكَرَهُ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان

باب: جنبی کا بچا ہوا پانی

حدیث نمبر: 898

ترجمہ:

(۸۹۹) ابو نعیم نے اس کو بیان کیا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The water leftover by a junub person

Hadith number: 898

Translation:

(898) Abu Nuaym has narrated this (hadith).

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 899

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو طَائِرٍ الْفَقِيهُ قَالَا (٩٠٠)
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ : أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ
قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ عَلِمِي
وَالَّذِي يَخْطُرُ بِبَالِي أَنَّ أَبَا الشَّعْثَانِي أَخْبَرَنِي أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ
أَخْبَرَهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ -
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَغَيْرِهِ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ بَكْرِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب : پاکی کا بیان
باب : جنبی کا بچا ہوا پانی
حدیث نمبر : 899

ترجمہ:

(٩٠٠) (سیدنا ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سیدہ
میمونہؓ کے بچے ہوئے پانی سے غسل کر لیتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The water leftover by a junub person

Hadith number: 899

Translation:

(899) It is narrated on the authority of Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) used to perform ghusl with the remaining water of Maimuna (may Allah be pleased with her).

[Sahih. Narrated by Muslim 323]

Sunan Kubra Bayhaqi 900

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ (٩٠١)
الْقَاضِي قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ
بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ هُوَ ابْنُ مُوسَى عَنْ
سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : انْتَهَى النَّبِيُّ -
إِلَى بَعْضِ أَرْوَاجِهِ ، وَقَدْ فَضَّلَ مِنْ غُسْلِهَا فَضْلًا ، فَأَرَادَ ^{صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ}
أَنْ يَتَوَضَّأَ بِهِ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي اغْتَسَلْتُ مِنْهُ مِنْ
جَنَابَةٍ - فَقَالَ ((: إِنَّ الْمَاءَ لَا يَنْجُسُ)) -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: جنبی کا بچا ہوا پانی
حدیث نمبر: 900

:ترجمہ

(٩٠١) (سیدنا ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ اپنی بیوی کے پاس پہنچے اور اس کے غسل سے پانی بچا ہوا

تھا، آپ ﷺ نے اس سے وضو کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں نے اس سے غسل جنابت کیا ہے، "آپ ﷺ نے فرمایا " :پانی ناپاک نہیں ہوتا۔"

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The water leftover by a junub person

Hadith number: 900

Translation:

(900) It is narrated on the authority of Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) came to his wife and there was water left over from her ghusl. When he intended to perform ablution with that (water), she said: O Messenger of Allah! I have performed ghusl for major impurity with it. He said: "Water is never impure."

[Sahih. Narrated by Al-Tabarani in Mujam Kabeer 1037]

Sunan Kubra Bayhaqi 901

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوَدُبَارِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو (٩٠٢)
دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ حَدَّثَنَا سِمَاكٌ عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ - فِي جَفْنَةٍ
فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ - لِيَتَوَضَّأَ مِنْهَا أَوْ يَغْتَسِلَ فَقَالَتْ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
اللَّهُ إِنِّي كُنْتُ جُنْبًا. فَقَالَ: إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: جنبی کا بچا ہوا پانی
حدیث نمبر: 901

ترجمہ:

(902) (سیدنا ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ کی کسی بیوی نے ٹپ میں غسل کیا، آپ ﷺ تشریف لائے، تاکہ اس سے وضو یا غسل کریں۔ انہوں نے عرض کیا: اے اللہ

کے رسول! میں جنبی تھی، آپ ﷺ نے فرمایا " :پانی ناپاک نہیں ہوتا۔"

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The water leftover by a junub person

Hadith number: 901

Translation:

(901) It is narrated on the authority of Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) that one of the wives of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) performed ghusl in the tub, the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) came in to perform either ghusl or ablution. She said: O Messenger of Allah! I was junub, he said: "Water is never impure."

[Sahih. Narrated by Nasai 326 and Abu Dawud 68 and Tirmidhi 65 and Ibn Majah 370, 371 and Ahmad 1/235, 248, 308, 337

Sunan Kubra Bayhaqi 902

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِيُّ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ (٩٠٣)
بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ بِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ
قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ
حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا : أَنَّهَا كَانَتْ بِي وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ -
يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَائِي وَاحِدٍ مِنَ الْجَنَابَةِ -
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ مُعَاذٍ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى
كتاب: پاكى كا بيان
باب: جنبى كا بچا هوا پانى
حديث نمبر: 902

ترجمہ:

(۹۰۳) سيدہ ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ ﷺ ایک ہی برتن سے غسل جنابت کر لیا کرتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The water leftover by a junub person

Hadith number: 902

Translation:

(902) Syeda Umm Salma (may Allah be pleased with her) said: I and the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) used to perform ghusl for major impurity from the same vessel.

[Sahih. Narrated by Bukhari 322 and Muslim 324 and Ibn Majah 380 and Ahmad 3/112, 116, 124, 249]

Sunan Kubra Bayhaqi 903

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ (٩٠٤)
إِسْحَاقَ الْفَقِيهَ أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ
: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ
كَانَ النَّبِيُّ ﷺ - وَالْمَرْأَةُ مِنْ نِسَائِهِ يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَائٍ وَاحِدٍ -
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى
كتاب: پاكى كا بيان
باب: جنبى كا بچا هوا پانى
حديث نمبر: 903

ترجمہ:

(903) سيدنا انس بن مالك^{رض} سے روایت ہے کہ نبی ﷺ اور آپ کی ایک بیوی ایک ہی برتن سے غسل کر لیا کرتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The water leftover by a junub person

Hadith number: 903

Translation:

(903) It is narrated on the authority of Anas ibn Malik (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) and his wife used to perform ghusl in the same vessel.

Sunan Kubra Bayhaqi 904

Arabic Text:

: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (٩٠٥)
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى حَدَّثَنَا
مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ حَدَّثَنِي
أَبُو حَازِمٍ قَالَ

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ - فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ
نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ - فَقَالَتْ: إِيَّيَ حَائِضٌ - فَقَالَ ((: إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ
بِيَدِكَ)) - فَنَاوَلْتُهُ إِيَّاهَا -

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي كَامِلٍ وَغَيْرِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ
سَعِيدٍ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: حیض ہاتھ میں نہیں ہوتا اور مومن ناپاک نہیں ہوتا

حدیث نمبر: 904

ترجمہ:

(۹۰۵) (سیدنا ابوہریرہ رض فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا " : اے عائشہ! مجھے چٹائی پکڑاؤ " ! انہوں نے کہا: میں حائضہ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا " : حیض تیرے ہاتھ میں تو نہیں ہے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا دی۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Menstruation is not in the hands and the believer is never impure

Hadith number: 904

Translation:

(904) Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) said: The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) was in the mosque. He said: "O 'Aishah!. Hand me the mat". She said: I am menstruating. He said: "Menstruation is not in your hands, so she handed him (the mat)."

[Sahih. Narrated by Muslim 298 and Nasai 272, 383 and Abu Dawud 261 and Tirmidhi 134 and Ibn Majah 632 and Ahmad 6/45, 101, 112, 141, 173, 214, 229, 245 and Darimi 798 and Al-Tayalisi 1430]

Sunan Kubra Bayhaqi 905

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بَشْرَانَ بِبَعْدَادَ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ (٩٠٦)
الرَّرَّازُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي غَنِيَّةٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - أَنْ أَنْوِلَهُ الْخُمْرَةَ مِنَ
الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَائِضٌ - فَقَالَ ((:نَاوِلِينَهَا فَإِنَّ
الْحَيْضَةَ لَيْسَتْ فِي يَدِكَ)) -
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: حیض ہاتھ میں نہیں ہوتا اور مومن ناپاک نہیں ہوتا
حدیث نمبر: 905

:ترجمہ

(٩٠٦) (سیدہ عائشہ رض سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے
مجھے حکم دیا کہ میں مسجد سے چٹائی پکڑاؤں، میں نے
عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں حائضہ ہوں، آپ ﷺ نے
" فرمایا " :پکڑا دو حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Menstruation is not in the hands and the believer is never impure

Hadith number: 905

Translation:

(905) It is narrated on the authority of Ayesha (may Allah be pleased with her) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) ordered me to grab the mat from the mosque. I said: O Messenger of Allah! I am menstruating, he said: "Give me it, menstruation is not in your hands."

[Sahih. Narrated by Muslim 298 and Nasai 272, 383 and Abu Dawud 261 and Tirmidhi 134 and Ibn Majah 632 and Ahmad 6/45, 101, 112, 141, 173, 214, 229, 245 and Darimi 798 and Al-Tayalisi 1430]

Sunan Kubra Bayhaqi 906

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ (٩٠٧) بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَعْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ - مِنْ إِيَّائِي وَاحِدٍ كِلَانَا جُنْبٍ. وَيُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ وَأَنَا حَائِضٌ فَأَغْسِلُهُ. وَيَأْمُرُنِي فَاتَّزِرُ ثُمَّ يُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ عُفَةَ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: حیض ہاتھ میں نہیں ہوتا اور مومن ناپاک نہیں ہوتا

حدیث نمبر: 906

ترجمہ:

(907) (سیدہ عائشہ رض سے روایت ہے کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن سے غسل کرتے تھے اور ہم دونوں جنبی ہوتے تھے، حالتِ اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مسجد سے نکالتے اور میں حائضہ ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھوتی اور آپ مجھے حکم دیتے تھے، میں لنگوٹھ باندھ لیتی تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ مباشرت کرتے) لیٹ جاتے (اور میں جنبی ہوتی تھی۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Menstruation is not in the hands and the believer is never impure

Hadith number: 906

Translation:

(906) It is narrated on the authority of Ayesha

(may Allah be pleased with her) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) and I used to perform ghusl in the same vessel and we both used to be junub. He used to take his head out of the mosque in the state of I'tikaaf and I used to wash his head even though I was menstruating and you used to order me (to wear waist wrapper). I would tie a waist wrapper, then he would lie down with me and I would be junub.

[Sahih. Narrated by Bukhari 299, 300, 301, 2030, 2031 and Muslim 297 and Nasai 276, 277, 387, 388 and Tirmidhi 804 and Ibn Majah 1778 and Malik 19/1 and Ahmad 6/104, 231, 232 and Darimi 1098, 1099

Sunan Kubra Bayhaqi 907

Arabic Text:

: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (٩٠٨)
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ وَأَخْبَرَنَا أَبُو
الْخَيْرِ : جَامِعُ بْنُ أَحْمَدَ الْوَكِيلُ حَدَّثَنَا أَبُو طَائِرٍ الْمُحَمَّدَابَاذِيُّ
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي
رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّهُ لَقِيَ النَّبِيَّ ﷺ - فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ
الْمَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ ، فَانْسَلَّ فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ ، فَفَقَدَهُ النَّبِيُّ ﷺ - فَلَمْ
فَلَمَّا جَاءَ قَالَ ((: أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟)) (- قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ
لَقَيْتَنِي وَأَنَا جُنُبٌ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَجَالِسَكَ حَتَّى أَعْتَسِلَ - فَقَالَ :
(سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ))
، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ
وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: حیض ہاتھ میں نہیں ہوتا اور مومن ناپاک نہیں ہوتا

حدیث نمبر: 907

ترجمہ:

(۹۰۸) (سیدنا ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ میں نبی ﷺ کو مدینہ کے راستے میں ملا اور میں جنبی تھا، لہذا میں چپکے سے نکل گیا اور غسل کیا۔ نبی ﷺ نے مجھے گم پایا تو واپسی پر فرمایا: ابوہریرہ! تو کہاں تھا؟ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ مجھ کو ملے اور میں جنبی تھا۔ میں نے ناپسند کیا کہ میں آپ کے ساتھ غسل کرنے سے پہلے بیٹھوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا " سبحان اللہ! مومن ناپاک نہیں ہوتا۔"

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Menstruation is not in the hands and the believer is never impure

Hadith number: 907

Translation:

(907) It is narrated from Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that I met the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) on the way to Madinah and I was junub, so I slipped away from him and performed ghusl. When the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) couldn't find me, he said on his way back: Abu Hurayrah! Where were you? I said: O Messenger of Allah! You met me and I was junub. I disliked it to sit with you before performing ghusl. He said: "Praise be to Allah! A believer is never impure."

[Sahih. Narrated by Bukhari 283, 285 and Muslim 371 and Nasai 270 and Abu Dawud 231 and Tirmidbi 121 and Ibn Majah 534 and Ahmad 2/235, 282, 471]

Sunan Kubra Bayhaqi 908

Arabic Text:

: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (٩٠٩)
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْدَلَانِيُّ حَدَّثَنَا
أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ
عَنْ حُدَيْفَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - لَقِيَهُ وَهُوَ جُنُبٌ ، فَحَادَ عَنْهُ
فَاغْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: كُنْتُ جُنُبًا. فَقَالَ ((: إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا
يَنْجُسُ)) -
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ وَغَيْرِهِ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان
باب: حیض ہاتھ میں نہیں ہوتا اور مومن ناپاک نہیں ہوتا
حدیث نمبر: 908

:ترجمہ

(۹۰۹) (سیدنا حذیفہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ ان کو ملے اور وہ جنبی تھے۔ وہ آپ ﷺ سے چھپ گئے، انہوں نے غسل کیا۔ پھر واپس آئے اور عرض کیا: میں جنبی تھا، آپ ﷺ نے فرمایا " :مومن ناپاک نہیں ہوتا۔"

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Menstruation is not in the hands and the believer is never impure

Hadith number: 908

Translation:

(908) It is narrated on the authority of Hudhaifah (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) met him and he was junub. He hid from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him), he performed ghusl. Then he came back and said: I was junub. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: A

believer is never impure.

[Sahih. Narrated by Bukhari 283, 285 and Muslim 371 and Nasai 270 and Abu Dawud 231 and Tirmidbi 121 and Ibn Majah 534 and Ahmad 2/235, 282, 471]

Sunan Kubra Bayhaqi 909

Arabic Text:

: أَخْبَرَنَا أَبُو زَكْرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُرَكِّي وَأَبُو بَكْرِ (٩١٠)
أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ -
قَالَ وَحَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ قَالَ قُرِيٌّ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَكَ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ وَغَيْرُهُمْ

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : إِنَّ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ فِي زَمَانِ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - كَانُوا يَتَوَضَّئُونَ جَمِيعًا فِي الْإِنَائِ الْوَاحِدِ -
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مَالِكِ
بْنِ أَنَسٍ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: بے وضو کا بچا ہوا پانی
حدیث نمبر: 909

:ترجمہ

(910) (سیدنا عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ مرد اور
عورتیں نبی ﷺ کے زمانے میں ایک ہی برتن سے وضو کرتے
تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Water leftover by a person who
doesn't have ablution

Hadith number: 909

Translation:

(909) It is narrated on the authority of Abdullah bin Umar (may Allah be pleased with him) that men and women used to perform ablution from the same vessel at the time of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him).

[Sahih. Narrated by Abu Dawud 80]

Sunan Kubra Bayhaqi 910

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوَدْبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ (٩١١)
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ
حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نَتَوَضَّأُ نَحْنُ
وَالنِّسَاءُ مِنْ إِنَائِي وَاحِدٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - نُذَلِّي فِيهِ
أَيْدِينَا.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: بے وضو کا بچا ہوا پانی
حدیث نمبر: 910

ترجمہ:

(911) (سیدنا عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ ہم اور عورتیں نبی ﷺ کے زمانے میں ایک ہی برتن سے وضو کرتے تھے اور ہم اپنے ہاتھ اس میں ڈالتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Water leftover by a person who doesn't have ablution

Hadith number: 910

Translation:

(910) It is narrated from Abdullah bin Umar (may Allah be pleased with him) that we and the women used to perform ablution from the same vessel in the time of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) and we used to put our hands in it.

[Sahih. Narrated by Abu Dawud 80]

Sunan Kubra Bayhaqi 911

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكْرِيَّا وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا حَدَّثَنَا (٩١٢)
أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. قَالَ وَحَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ قَالَ قُرِيٌّ عَلَى ابْنِ
وَهْبٍ أَخْبَرَكَ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ عَنْ سَالِمِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ
أُمِّ صُبَيْةَ الْجُهَيْنِيَّةِ قَالَتْ: اخْتَلَفَتْ يَدِي وَيَدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -
فِي إِنَائِي وَاحِدٍ فِي الْوَضُوءِ. قَالَ الْبُخَارِيُّ: سَالِمٌ هَذَا هُوَ ابْنُ -
سَرَجٍ وَيُقَالُ ابْنُ خَرَّبُودَ أَبُو النُّعْمَانِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: ابْنُ
النُّعْمَانِ.

قَالَ الْبُخَارِيُّ وَهُوَ مَوْلَى أُمِّ صُبَيْةَ وَاسْمُهَا خَوْلَةُ بِنْتُ قَيْسٍ -
أَخْبَرَنَا بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
الْأَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ فَارِسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ
الْبُخَارِيِّ فَذَكَرَهُ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: بے وضو کا بچا ہوا پانی
حدیث نمبر: 911

ترجمہ:

(۹۱۲) ام صبیہ جہنیہ^{رض} سے روایت ہے کہ میرا اور رسول اللہ ﷺ کا ہاتھ ایک برتن میں وضو کرنے سے مل جاتا تھا۔ امام بخاری (رح) فرماتے ہیں کہ سالم ابن سرج ہے اور اسے ابن خربوذ ابو نعمان کہا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں: یہ ابن نعمان ہے۔ ب (امام بخاری) رح (فرماتے ہیں کہ وہ ام صبیہ کا آزاد کردہ غلام ہے اور اس) ام صبیہ (کا نام خولہ بنت قیس ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Water leftover by a person who doesn't have ablution

Hadith number: 911

Translation:

(911) It is narrated from Umm Sabiya Jahniya that my hand and the hand of the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) used to touch when performing

ablution in one vessel.

Imam Bukhari (may Allah have mercy on him) says that Salem is Ibn Sarj and he is called Ibn Kharbooz Abu Nu'man. Some say: He is Ibn Nu'man.

(B) Imam Bukhari (may Allah have mercy on him) says that he is the freed slave of Umm Sabiya and her (Umm Sabiya) name is Khula bint Qais.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence)]

Sunan Kubra Bayhaqi 912

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ أَخْبَرَنَا (٩١٣) زِيَادُ بْنُ الْخَلِيلِ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَمِيرِيِّ قَالَ: لَقِيتُ رَجُلًا صَحِبَ النَّبِيَّ - ﷺ - كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ أَرْبَعَ سِنِينَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ أَوْ يَبُولَ فِي مُغْتَسَلِهِ أَوْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ ، أَوْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ ، بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذِبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُبَيْرٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ: وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا. وَهَذَا الْحَدِيثُ رُوَاهُ تِقَاتٌ إِلَّا أَنَّ حُمَيْدًا لَمْ يُسَمِّ الصَّحَابِيَّ الَّذِي حَدَّثَهُ فَهُوَ بِمَعْنَى الْمُرْسَلِ إِلَّا أَنَّهُ مُرْسَلٌ جَيِّدٌ ، لَوْلَا مُخَالَفَتُهُ الْأَحَادِيثَ الثَّابِتَةَ الْمَوْصُولَةَ قَبْلَهُ. وَدَاوُدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيُّ لَمْ يَحْتَجَّ بِهِ الشَّيْخَانِ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: اس بارے میں جو نہی وارد ہوئی ہے

حدیث نمبر: 912

ترجمہ:

(۹۱۳) حمید بن عبد الرحمن حمیری کہتے ہیں کہ میں ایک شخص کو ملا، وہ نبی ﷺ کا صحابی تھا جیسے ابوہریرہؓ چار سال نبی ﷺ کے ساتھ رہے، اس نے کہا: رسول اللہ ﷺ نے ہر دن کنگھی کرنے، غسل خانے میں پیشاب کرنے، عورت کے مرد کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرنا یا مرد کے عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل کرنے سے منع کیا انہیں چاہیے کہ وہ اکٹھے چلو بھریں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: What is reported about this

Hadith number: 912

Translation:

(912) Hameed bin Abdul Rahman Humairi says that I met a man who was a companion of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) like Abu Hurayrah who lived with the Prophet (peace and blessings of

Allah be upon him) for four years. He said: The Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) forbade us to comb our hair every day, urinate in the place where a man performs ghusl, or for a woman to perform ghusl with the leftover water of a man or for a man to perform ghusl with the leftover water of a woman.

[Sahih. Narrated by Nasai 239, 5057 and Abu Dawud 28, 81, 82 and Ibn Hibban 5484 and Ahmad 4/110, 111, 5/369]

Sunan Kubra Bayhaqi 913

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورِكَ أَخْبَرَنَا (٩١٤)
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ
الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا
حَاجِبٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - : أَنَّ النَّبِيَّ
ﷺ - نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْ فَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ. قَالَ يُونُسُ هَكَذَا -
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: اس بارے میں جو نہی وارد ہوئی ہے

حدیث نمبر: 913

ترجمہ:

(٩١٤) (عاصم احوول کہتے ہیں: میں نے ابو حاجب سے سنا جو
کسی صحابی رسول سے حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے
عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنے سے منع فرمایا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: What is reported about this

Hadith number: 913

Translation:

(913) Asim Ahul says: I heard Abu Hajib narrate a hadith from one of the companions of the Prophet that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) forbade performing ablution with the water left by a woman.

[Sahih. Narrated by Nasai 344 and Abu Dawud 82 and Tirmidhi 64 and Ibn Majah 373, 374 and Ahmad 4/213, 5/66]

Sunan Kubra Bayhaqi 914

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذَبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ (٩١٥)
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السَّجِسْتَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي الطَّيَالِسِيَّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ
أَبِي حَاجِبٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو وَهُوَ الْأَقْرَعُ : أَنَّ النَّبِيَّ -
ﷺ - نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ -
وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ بِكَذَا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ
أَوْ قَالَ بِسُورِبَا -
وَرَوَاهُ وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ شُعْبَةَ كَمَا -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاكى كا بيان

باب: اس بارے ميں جونہى وارد ہوئى ہے

حديث نمبر: 914

:ترجمہ

(۹۱۵) (الف) (حکم بن عمرو سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ کوئی مرد کسی عورت کے بچے ہوئے پانی سے وضو نہ کرے۔

(ب) (امام ابو داؤد طیالسی سے روایت ہے، اس میں اُنہ قال یا قال بسو رہا کے الفاظ ہیں۔ یعنی اس کے جھوٹے پانی سے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: What is reported about this

Hadith number: 914

Translation:

(914) (a) It is narrated from Hakam bin Amr that the Prophet (peace and blessings of

Allah be upon him) said that a man should not perform ablution with the water left over from a woman.

(B) This is narrated from Imam Abu Dawud Tayalisi. In it the words used are 'أنه قال' or 'قال', meaning with the water used by her. [Sahih. Narrated by Al-Tayalisi 1252]

Sunan Kubra Bayhaqi 915

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدٌ (٩١٤)
بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي حَاجِبٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ
عَمْرِو الْغِفَارِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - نَهَى عَنْ سُورِ الْمَرْأَةِ. وَكَانَ
لَا يَدْرِي عَاصِمٌ فَضَلَ وَضُؤِيهَا أَوْ فَضَلَ شَرَابِهَا.
وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ كَمَا.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: اس بارے میں جو نہی وارد ہوئی ہے

حدیث نمبر: 915

ترجمہ:

۹۱۶ (سیدنا حکم بن عمرو غفاری^{رض} سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے عورت کے جھوٹی سے منع فرمایا اور عاصم نہیں جانتے کہ اس کے وضو کے بچے ہوئے پانی یا اس کے پینے سے بچے ہوئے پانی کے متعلق فرمایا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: What is reported about this

Hadith number: 915

Translation:

(915) It is narrated from Hakam bin Amr Ghaffari that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) forbade using (the water) used by a woman and and Asim does not know whether he (the Prophet) meant the water left over from her ablution or the water left over from her drinking.

[Sahih. Narrated by Ahmad 4/213]

Sunan Kubra Bayhaqi 916

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا أَبُو (٩١٧)
عَمْرٍو بْنُ السَّمَّكِ حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانَ النَّيْمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَاجِبٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ
أَصْحَابِ النَّبِيِّ - ﷺ - : أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ
وَضُوءِ الْمَرْأَةِ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: اس بارے میں جو نہی وارد ہوئی ہے
حدیث نمبر: 916

ترجمہ:

(٩١٧) (سلیمان تیمی فرماتے ہیں: میں نے ابو حاجبؓ سے سنا
کہ آپ ﷺ نے فرمایا: مرد عورت کے بچے ہوئے پانی سے
وضو نہ کرے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: What is reported about this

Hadith number: 916

Translation:

(916) Salman Teemi says: I heard from Abu Hajib that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: A man shouldn't perform ablution from the water leftover by a woman.

[Sahih. Narrated by Nasai 344 and Abu Dawud 82 and Tirmidhi 64 and Ibn Majah 373, 374 and Ahmad 4/213, 5/66]

Sunan Kubra Bayhaqi 917

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ : عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ (٩١٨)
بِشْرَانَ الْعَدْلُ بَبْغَدَادَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارِ
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ
بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَاجِبٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ
أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ - مِنْ بَنِي غِفَارٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ - نَهَى أَنْ
يَتَطَهَّرَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ -

وَبَكَذَا رَوَاهُ هُشَيْمٌ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ -

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ قَالَ قَالَ
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ : سَوَادَةُ بْنُ عَاصِمِ أَبُو حَاجِبٍ
الْعَنْزِيُّ يُعَدُّ فِي الْبَصْرِيِّينَ وَيُقَالُ الْغِفَارِيُّ ، وَلَا أَرَاهُ يَصِحُّ عَنْ
الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو -

وَبَلَّغَنِي عَنْ أَبِي عَيْسَى التِّرْمِذِيِّ أَنَّهُ قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدَ

بْنِ إِسْمَاعِيلَ يَعْنِي الْبُخَارِيَّ عَنْ بَدَا الْحَدِيثِ فَقَالَ : أَيْسَ بِصَحِيحٍ
 يَعْنِي حَدِيثَ أَبِي حَاجِبٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو-
 وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا
 أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ : أَبُو حَاجِبٍ اسْمُهُ سَوَادَةُ
 بْنُ عَاصِمٍ ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ فَرَوَاهُ عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ وَغَزْوَانُ بْنُ
 حُجَيْرٍ السَّدُوسِيُّ عَنْهُ مَوْقُوفًا مِنْ قَوْلِ الْحَكَمِ غَيْرَ مَرْفُوعٍ إِلَى
 النَّبِيِّ ﷺ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: اس بارے میں جو نہی وارد ہوئی ہے
 حدیث نمبر: 917

:ترجمہ

(۹۱۸) ابو حاجب ایک صحابی رسول سے جن کا تعلق بنی
 غفار قبیلے سے ہے نقل فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا :
 کوئی مرد کسی عورت کے بچے ہوئے پانی سے طہارت
 حاصل نہ کرے۔

ب) (امام محمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں کہ ابو حاجب
 سوادہ بن عاصم عنزی کا شمار بصریوں میں ہوتا

ہے اور اسے غفاری بھی کہا جاتا ہے۔ میرے خیال کے مطابق اس کا حکم بن عمرو سے روایت کرنا صحیح نہیں۔ امام بیہقی (رح) فرماتے ہیں کہ مجھے ابو عیسیٰ ترمذی سے روایت پہنچی ہے کہ میں نے محمد بن اسماعیل بخاری (رح) سے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا: ابو حاجب کا حکم بن عمرو سے روایت کرنا صحیح نہیں۔ (ج) علی بن عمر الحافظ کہتے ہیں کہ ابو حاجب کا نام سواد بن عاصم ہے، اس بارے میں اختلاف ہے۔ عمران بن حدیر اور غزوان بن حجیر سدوسی اس سے موقوفاً روایت کرتے ہیں۔ حکم کے قول سے جو نبی ﷺ سے غیر مرفوع منقول ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: What is reported about this

Hadith number: 917

Translation:

(917) Abu Hajib narrates from a Companion of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) who belongs to the tribe of Bani

Ghaffar that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: No man should purify himself from the water leftover by a woman.

(B) Imam Muhammad ibn Isma'il Bukhari (may Allah have mercy on him) says that Abu Hajib Sawada ibn Asim Anzi is counted among the Basri and he is also called Ghaffari. In my opinion, it is not correct to narrate this from Hakam Bin Amr. Imam Bayhaqi (may Allah have mercy on him) says: I have received a narration from Abu Isa Tirmidhi that I asked Muhammad ibn Isma'il Bukhari (may Allah have mercy on him) about this hadith and he said: It is not authentic that Abu Hajib narrated from Hakam bin Amr.

(C) Ali ibn Umar al-Hafiz says that the name of Abu Hajib is Sawad ibn Asim. There is a difference of opinion on this. Imran ibn Hadeer and Ghazwan ibn Hujair Sadusi

narrate from him in a mawquf hadith.

According to Hakam, which is not narrated from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) in a marfu hadith.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 918

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ (٩١٩)
الْأَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ فَارِسٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا عَبْدَانُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُدَيْرٍ عَنِ سَوَادَةَ الْعَنْزِيِّ

قَالَ: اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى الْحَكْمِ بِالْمَرْبِدِ فَتَهَايَمَ عَنْهُ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: اس بارے میں جو نہی وارد ہوئی ہے

حدیث نمبر: 918

:ترجمہ

(918) (سوادہ عنزی سے روایت ہے کہ لوگ مرید جگہ پر حکم کے پاس اکٹھے ہوئے تو اس نے انہیں ایسا کرنی سے منع کر دیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: What is reported about this

Hadith number: 918

Translation:

(918) It is narrated from Sawada Anzi that

when people gathered at the place of Hakam,
he forbade them to do so.

[Hasan (Fair)]

Sunan Kubra Bayhaqi 919

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ: عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ قَتَادَةَ (٩٢٠)
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ السَّرَّاجُ حَدَّثَنَا مُطِينٌ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
سَرْجِسَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - عَنْ فَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ -
وَبَكْدَا رَوَاهُ مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُخْتَارِ

وَخَالَفَهُ شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: اس بارے میں جو نہی وارد ہوئی ہے

حدیث نمبر: 919

:ترجمہ

(920) (سیدنا عبداللہ بن سرجس^{رض} سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے عورت کے وضو سے بچے ہوئے پانی کو استعمال کرنے سے منع فرمایا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: What is reported about this

Hadith number: 919

Translation:

(919) It is narrated on the authority of

Abdullah bin Sarjis that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) forbade using the water left over from a woman's ablution.

[Daif, Shaz (Weak, Irregular)]

[SHARH] Explanation:

The Shaz (irregular) Hadeeth is the Hadeeth narrated by a trustworthy narrator but it differs from the narration of other trustworthy narrators (This difference may be either in Sanad [chain of transmission] or in Matan [text]); Ash-Shaafi'i said: "It is when a trustworthy person narrates a Hadeeth that goes against the narration of others, and it is not that he narrates what others did not narrate."

Sunan Kubra Bayhaqi 920

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ (٩٢١)
الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا
وَيْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ
تَتَوَضَّأُ الْمَرْأَةُ وَتَغْتَسِلُ مِنْ فَضْلِ غُسْلِ الرَّجُلِ وَطَهُورِهِ ، وَلَا :
يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ بِفَضْلِ غُسْلِ الْمَرْأَةِ وَلَا طَهُورِهَا.
قَالَ عَلِيُّ : بَدَأَ مَوْقُوفٌ وَهُوَ أَوْلَى بِالصَّوَابِ -
قَالَ الشَّيْخُ : وَبَلَّغَنِي عَنْ أَبِي عَيْسَى التِّرْمِذِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ فِي بَدَأَ
الْبَابِ الصَّحِيحُ هُوَ مَوْقُوفٌ وَمَنْ رَفَعَهُ فَهُوَ خَطَّاءٌ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: اس بارے میں جو نہی وارد ہوئی ہے

حدیث نمبر: 920

ترجمہ:

(۹۲۱) (سیدنا عبداللہ بن سرجسؓ سے روایت ہے کہ عورت وضو اور غسل، مرد کے وضو اور غسل سے بچے ہوئے پانی سے کر سکتی ہے اور مرد عورت کے غسل اور وضو سے بچے ہوئے پانی سے وضو نہیں کر سکتا۔) (ب) (علی کہتے ہیں کہ اس روایت کا موقوف ہونا زیادہ درست ہے۔

(ج) (شیخ کہتے ہیں کہ مجھے ابو عیسیٰ ترمذی امام محمد بن اسماعیل بخاری) (رح) (سے نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے حدیث عبداللہ بن سرجس کے متعلق فرمایا: اس باب میں اس کا موقوف ہونا صحیح ہے۔ جس نے اس کو مرفوع بیان کیا اس نے غلطی غلطی کی۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: What is reported about this

Hadith number: 920

Translation:

(920) It is narrated on the authority of Abdullah bin Sarjis that a woman can perform ablution and ghusl with water left over from a man's ablution and ghusl, whereas a man cannot perform ablution with water left over from a woman's ghusl and ablution.

(B) Ali says it is more authentic for this narration to be mawquf.

(C) Shaykh says: Abu Isa al-Tirmidhi narred to me from Imam Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari (may Allah have mercy on him) who said about the hadeeth of Abdullah ibn Sarjis: It is authentic for it to be mawquf in this chapter. The one who described it as marfu has made a mistake.

[Sahih Mawquf]

Sunan Kubra Bayhaqi 921

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي آخِرِينَ قَالُوا أَخْبَرَنَا أَبُو (٩٢٢)
الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا
الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ .

وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدٌ (ح)
بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ
عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ
مَالِكٍ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - وَحَانَتْ صَلَاةُ الْعَصْرِ
وَالْتَمَسَ النَّاسُ الْوَضُوءَ فَلَمْ يَجِدُوهُ ، فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -
بِوَضُوءٍ فَوَضَعَ فِي ذَلِكَ الْإِنَائِ يَدَهُ ، وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتَوَضَّؤُوا
مِنْهُ قَالَ فَرَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ

تَحْتَ أَصَابِعِهِ فَتَوَضَّأَ النَّاسُ حَتَّى تَوَضَّؤُوا مِنْ عِنْدِ آخِرِهِمْ -
 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيِّ
 وَغَيْرِهِ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ مَالِكٍ -
 وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ
 عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: وضو اور غسل کرنے والے کے لیے طہارت حاصل
 کرنے کا وقت مقرر نہیں
 حدیث نمبر: 921

ترجمہ:

۹۲۲ (سیدنا انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول
 اللہ ﷺ کو دیکھا جب کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، لوگوں
 نے پانی تلاش کیا تو انہیں پانی نہ ملا، رسول اللہ ﷺ کے پاس
 پانی لایا گیا تو آپ ﷺ نے برتن میں اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور
 لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اس سے وضو کریں۔ راوی کہتا ہے:
 میں نے پانی دیکھا جو آپ ﷺ کی انگلیوں کے نیچے سے
 پھوٹ رہا تھا، لوگوں نے

وضو کیا حتی کہ آخری شخص نے بھی وضو کر لیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: There is no set time for performing
ablution or ghusl

Hadith number: 921

Translation:

(921) It is narrated on the authority of Anas ibn Malik (may Allah be pleased with him) that I saw the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) when it was time for Asr prayer. When the people sought water, they did not find it. When water was brought to the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him), he placed his blessed hand in the vessel and ordered the people to perform ablution with it. The narrator says: I saw water gushing out from under his fingers, everyone till the last

person performed ablution.

[Sahih. Narrated by Bukhari 195, 3575]

Sunan Kubra Bayhaqi 922

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوَدُبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ (٩٢٣)
مَهْرُويِهِ بْنِ عِيَّاشِ الرَّازِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمِ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ
بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا بِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ
أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - مِنْ إِنَائٍ وَاحِدٍ -
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ بِشَامٍ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: وضو اور غسل کرنے والے کے لیے طہارت حاصل کرنے کا وقت مقرر نہیں

حدیث نمبر: 922

ترجمہ:

(۹۲۳) (الف) (سیدہ عائشہؓ سے روایت ہے کہ میں اور رسول

اللہ ﷺ ایک برتن سے غسل کرتے تھے۔

(ب) (امام بخاری) رح (نے ہشام سے ایک دوسری سند سے

روایت کی ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: There is no set time for performing
ablution or ghusl

Hadith number: 922

Translation:

(922) It is narrated on the authority of Ayesha (may Allah be pleased with her) that she and the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) used to perform ghusl in one vessel.

(B) Imam Bukhari (may Allah have mercy on him) has narrated from Hisham with another chain of transmission.

[Sahih. Narrated by Bukhari 299-301 and Muslim 319 and Nasai 72, 345, 411 and Abu Dawud 77 and Ibn Majah 376 and Ahmad 6/37, 173, 189, 191, 199, 210, 230, 231 and Darimi 776]

Sunan Kubra Bayhaqi 923

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورِكَ أَخْبَرَنَا (٩٢٤)
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا
ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ
أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ - نَغْتَسِلُ مِنْ إِنَائٍ وَاحِدٍ ، وَذَلِكَ الْقَدْحُ يَوْمَئِذٍ
يُدْعَى الْفَرْقُ -
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ آدَمَ بْنِ أَبِي إِيَّاسٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ
وَقَالَ: مِنْ قَدْحٍ يُقَالُ لَهُ الْفَرْقُ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: وضو اور غسل کرنے والے کے لیے طہارت حاصل
کرنے کا وقت مقرر نہیں
حدیث نمبر: 923

:ترجمہ

(۹۲۴) (سیدہ عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ ﷺ ایک برتن سے غسل کرتے تھے۔ ان دنوں پیالے کو فرق کہا جاتا تھا۔

(ب) (امام بخاری) رح (اپنی صحیح میں آدم بن ابو ایاس سے ابن ابی ذئب کے واسطے سے روایت کرتے ہیں کہ پیالے کو فرق کہا جاتا تھا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: There is no set time for performing ablution or ghusl

Hadith number: 923

Translation:

(923) Syeda Ayesha says that The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) and I used to perform ghusl from a single pot called 'Faraq'.

(B) Imam Bukhari (may Allah have mercy on him) in his Sahih narrates from Adam bin Abu

Ayas through Ibn Abi Zaib that the pot was called Faraq.

[Sahih. Narrated by Bukhari 250 and Malik 2/68]

Sunan Kubra Bayhaqi 924

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْقُوبَ (٩٢٥)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضْرِ: بِأَسْمِ بْنِ
الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ
، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - يَغْتَسِلُ فِي الْقَدَحِ وَهُوَ الْفَرَقُ :

وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَهُوَ فِي إِنَائِي وَاحِدًا-

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ وَغَيْرِهِ عَنِ
اللَّيْثِ-

وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِكَذَا-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: وضو اور غسل کرنے والے کے لیے طہارت حاصل
کرنے کا وقت مقرر نہیں

حدیث نمبر: 924

:ترجمہ

(۹۲۵) سیدہ عائشہ رض فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پیالے میں
غسل کرتے تھے اسے فرق کہا جاتا تھا، میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ایک برتن سے غسل کرتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: There is no set time for performing

ablution or ghusl

Hadith number: 924

Translation:

(924) Ayesha (may Allah be pleased with her) said: The vessel in which the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) used to perform ghusl was called the Faraq, The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) and I used to perform ghusl in one vessel.

[Sahih. Narrated by Muslim 319]

Sunan Kubra Bayhaqi 925

Arabic Text:

وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَقَالَ فِي الْحَدِيثِ قَالَتْ: كُنْتُ (٩٢٦)
أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ - مِنْ إِنَائِي وَاحِدٍ فِيهِ قَدْرُ الْفَرْقِ -
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ
عَنِ الزُّهْرِيِّ فَذَكَرَهُ.
وَرَوَاهُ مَالِكٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ مُضَافًا إِلَيْهِ دُونَهَا.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: وضو اور غسل کرنے والے کے لیے طہارت حاصل

کرنے کا وقت مقرر نہیں

حدیث نمبر: 925

:ترجمہ

(٩٢٦) (سیدہ عائشہؓ فرماتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ ﷺ ایک

برتن سے غسل کرتے تھے اور اس میں فرق) ایک

برتن کا نام ہے (کے برابر پانی آتا تھا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: There is no set time for performing
ablution or ghusl

Hadith number: 925

Translation:

(925) Ayesha (may Allah be pleased with her) said: I and the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) used to perform ghusl in one vessel and it would be able to hold one Faraq (name of a vessel) of water.

[Sahih. Narrated by Mislīm 319 and Nasai 229]

Sunan Kubra Bayhaqi 926

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ (٩٢٧)
الْقَاضِي إِمْلَاءُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا يَحْيَى
بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ
بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ -كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ
إِنَائِي بُوَ الْفَرَقِ مِنَ الْجَنَابَةِ-
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: وضو اور غسل کرنے والے کے لیے طہارت حاصل
کرنے

کا وقت مقرر نہیں

حدیث نمبر: 926

ترجمہ:

(۹۲۷) سیدہ عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ غسل جنابت ایک برتن سے کرتے تھے، اسے فرق کہا جاتا تھا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: There is no set time for performing
ablution or ghusl

Hadith number: 926

Translation:

(926) It is narrated from Ayesha (may Allah be pleased with her) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) used to perform the ghusl form major impurity in one vessel, it was called Faraq.

[Sahih. Narrated by Bukhari 250 and Malik 2/68]

Sunan Kubra Bayhaqi 927

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا (٩٢٨)
أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّفَّارِ أَخْبَرَنَا أَبُو مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَمَرَ حَدَّثَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يُحَدِّثُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ
مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كُنْتُ أَعْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ -
مِنْ إِنَائِي وَاحِدٍ ، وَهُوَ الْفَرْقُ -
قَالَ فَقَالَ الزُّهْرِيُّ : أَحْسِبُهُ خَمْسَةَ أَقْسَاطٍ
قَالَ أَبُو عَمْرٍو : الْقِسْطُ أَرْبَعَةٌ أَرْطَالٍ -
وَرَوَاهُ غَيْرُهُ أَيْضًا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ هَكَذَا -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ
قَالَ قُتَيْبَةُ قَالَ سُفْيَانُ يَعْنِي ابْنَ عُيَيْنَةَ :الْفَرْقُ ثَلَاثَةٌ أَصْعُ -
وَفِي رِوَايَةٍ حَزْمَلَةٌ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذُبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا
أَبُو دَاوُدَ قَالَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ الْفَرْقُ سِتَّةٌ عَشَرَ رَطْلًا
، قَالَ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ :صَاعُ ابْنِ أَبِي ذُنُبٍ خَمْسَةٌ أَرْطَالٍ وَثُلُثٌ
قِيلَ فَمَنْ قَالَ ثَمَانِيَّةٌ أَرْطَالٍ قَالَ لَيْسَ ذَلِكَ بِمَحْفُوظٍ
قَالَ الشَّافِعِيُّ وَبَلَّغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ -تَوَضَّأَ بِالْمُدِّ وَاعْتَسَلَ بِالصَّاعِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: وضو اور غسل کرنے والے کے لیے طہارت حاصل

کرنے کا وقت مقرر نہیں

حدیث نمبر: 927

:ترجمہ

(۹۲۸) (الف) (سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا) فرماتی ہیں کہ میں اور رسول

اللہ ﷺ ایک برتن سے غسل کرتے تھے اور وہ (برتن) فرق ہوتا تھا۔

(ب) (امام زہری فرماتے ہیں کہ اس کی مقدار پانچ اقساط ہے۔
(ج) (ابو عمرو کہتے ہیں کہ قسط چار رطل کا ہوتا ہے۔
(د) (ابن عیینہ کہتے ہیں: فرق میں تین صاع پانی آتا تھا۔
ر) (امام احمد بن حنبل) رح (فرماتے ہیں کہ فرق سولہ رطل کا ہوتا تھا۔ صاع بن ابوذئب کہتے ہیں: فرق پانچ رطل اور تین پاؤ کا ہوتا ہے۔ جس شخص نے آٹھ رطل کہا، اس کی روایت محفوظ نہیں۔

(س) (امام شافعی) رح (فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ نبی ﷺ نے ایک مد کے ساتھ وضو اور ایک صاع کے ساتھ ساتھ غسل کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: There is no set time for performing ablution or ghusl

Hadith number: 927

Translation:

(927) (a) Ayesha (may Allah be pleased with her) said: I and the Messenger of Allah (may peace be upon him) used to perform ghusl in the same vessel and that (vessel) was Faraq.

(B) Ibn Ayyina says: There are three saa' of water in a Faraq.

(C) Imam Ahmad ibn Hanbal (may Allah have mercy on him) says that a faraq is sixteen rotls. Sa'a ibn Abu Dhaib says: A faraq is five rotls. The tradition of the person who said eight rotls is not safe.

(D) Imam Shafi'i (may Allah have mercy on him) says that it has reached us that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) performed ablution with one Madh and Ghusl with one Saa'.

[Sahih. Narrated by Abu Ya'la 4412]

Sunan Kubra Bayhaqi 928

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قِرَائَةَ عَلَيْهِ وَأَبُو طَابِرٍ الْفَقِيهُ (٩٢٩)
وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ إِمْلَاءً قَالُوا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ
إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا
مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ عَنِ ابْنِ جَبْرِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي حَدِيثِهِ قَالَ
حَدَّثَنِي شَيْخٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ جَبْرِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ
بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ -يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ
أَمْدَادٍ، وَكَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ.
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ
وَكَيَعٍ عَنْ مِسْعَرٍ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: وضو اور غسل کرنے والے کے لیے طہارت حاصل کرنے کا وقت مقرر نہیں

حدیث نمبر: 928

ترجمہ:

(928) انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ ایک صاع سے پانچ مد تک غسل کرتے تھے اور ایک مد سے وضو کرتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: There is no set time for performing ablution or ghusl

Hadith number: 928

Translation:

(928) Anas ibn Malik (may Allah be pleased

with him) said that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) used to perform Ghusl from one Saa to five Madh and perform ablution from one Madh.

[Sahih. Narrated by Bukhari 201 and Muslim 325 and Nasai 73, 230, 346 and Abu Dawud 95 and Mishkat al-Masabih 439 and Ahmad 3/112, 116, 179, 259, 282, 290 and Darimi 716]

Sunan Kubra Bayhaqi 929

Arabic Text:

تجھے پانی مل جائے تو اس کو اپنے جسم پر بہا۔ اس میں وقت کی تعیین نہیں ہے۔
(د) (شیخ کہتے ہیں کہ یہ حدیث گزر چکی ہے اور آگے بھی اس کا ذکر آئے گا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: There is no set time for performing ablution or ghusl

Hadith number: 929

Translation:

(929) (a) It is narrated on the authority of Anas ibn Malik (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) used to perform ablution with one makkuk and perform ghusl with five makkuks.

(B) Imam Shafi'i (may Allah have mercy on him) says that there is no fixed time in this

(hadith).

(C) It has been narrated from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) about a person who is junub that when you get water, pour it on your body. There is no set time mentioned.

(D) Sheikh says that this hadith has been mentioned before and it will be mentioned later.

[Sahih. Narrated by Bukhari 201 and Muslim 325 and Nasai 73, 230, 346 and Abu Dawud 95 and Mishkat al-Masabih 439 and Ahmad 3/112, 116, 179, 259, 282, 290 and Darimi 716]

Sunan Kubra Bayhaqi 930

Arabic Text:

وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَمُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ (٩٣١)
وَعَبْرُهَا عَنْ شُعْبَةَ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثَيْهِمَا عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ -
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَفِي هَذَا مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ لَأَوْقَاتٍ فِيهِ إِلَّا كَمَالَهُ
وَاللَّهُ أَعْلَمُ ، مَعَ أَنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - أَنَّهُ قَالَ فِي
الْجُنُبِ: فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ فَأَمْسَهُ جِلْدَكَ بِغَيْرِ تَوْقِيتِ شَيْءٍ
مِنْهُ - قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ مَضَى هَذَا الْحَدِيثُ وَسِيرِدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
تَعَالَى -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

کتاب: پاکی کا بیان

باب: وضو اور غسل کرنے والے کے لیے طہارت حاصل
کرنے کا وقت مقرر نہیں

حدیث نمبر: 930

ترجمہ:

(۹۳۱) یہ روایت بھی اسی طرح ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: There is no set time for performing
ablution or ghusl

Hadith number: 930

Translation:

(930) This narration is same as the previous
one.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 931

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ (٩٣٢)
مُحَمَّدِ الْكَعْبِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عَلِيَّةَ عَنْ أَبِي رِيحَانَةَ عَنْ سَفِينَةَ
صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يَغْتَسِلُ
بِالصَّاعِ وَيَتَطَهَّرُ بِالْمُدِّ.
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: وضو ایک مد سے کم اور غسل ایک صاع سے کم پانی
میں نہ کرنا مستحب ہے
حدیث نمبر: 931

:ترجمہ

(۹۳۲) سیدنا سفینہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک صاع سے غسل کرتے تھے اور ایک مد سے وضو کرتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: It is mustahabb (recommended) not to perform ablution with less than one mud and ghusl with less than one saa' of water

Hadith number: 931

Translation:

(931) Safina says that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) used to perform ghusl with one saa 'and perform ablution with one mudd.

[Sahih. Narrated by Bukhari 201 and Muslim 325 and Nasai 73, 230, 346 and Abu Dawud 95 and Mishkat al-Masabih 439 and Ahmad 3/112, 116, 179, 259, 282, 290 and Darimi 716]

Sunan Kubra Bayhaqi 932

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ (٩٣٣)
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَمَّادٍ أَبُو النَّضْرِ الْبِرَّازُ حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصِ
الْفَلَّاسُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ حَدَّثَنَا أَبُو رِيحَانَةَ عَنْ سَفِينَةَ
مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - يُوَضِّئُهُ الْمُدَّ وَيُغَسِّلُهُ
الصَّاعُ.

رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ أَبِي حَفْصٍ وَغَيْرِهِ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاكى كا بيان

باب: وضو ايك مد سے كم اور غسل ايك صاع سے كم پانى
میں نہ كرنا مستحب ہے

حدیث نمبر: 932

:ترجمہ

(932) (سیدنا سفینہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے وضو
کے لیے ايك مد كافی ہوتا تھا اور ايك صاع غسل کے لیے
كافی ہوتا تھا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: It is mustahabb (recommended) not
to perform ablution with less than one mud
and ghusl with less than one saa' of water

Hadith number: 932

Translation:

(932) It is narrated on the authority of Safina
that one mudd was sufficient for the ablution

of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) and one saa' was sufficient for his ghusl.

[Sahih. Narrated by Bukhari 201 and Muslim 325 and Nasai 73, 230, 346 and Abu Dawud 95 and Mishkat al-Masabih 439 and Ahmad 3/112, 116, 179, 259, 282, 290 and Darimi 716]

Sunan Kubra Bayhaqi 933

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْمُقْرِيُّ بِبَغْدَادَ (٩٣٤)
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ
حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ حَدَّثَنِي صَفِيَّةُ أَنَّ عَائِشَةَ
قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

کتاب: پاکی کا بیان

باب: وضو ایک مد سے کم اور غسل ایک صاع سے کم پانی
میں نہ کرنا مستحب ہے

حدیث نمبر: 933

ترجمہ:

(٩٣٤) (سیدہ عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک مد سے
وضو کرتے تھے اور ایک صاع سے غسل کرتے تھے۔)

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: It is mustahabb (recommended) not

to perform ablution with less than one mud
and ghusl with less than one saa' of water
Hadith number: 933

Translation:

(933) Ayesha (may Allah be pleased with her) said: The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) used to perform ablution with one mudd and ghusl with one saa'.

[Sahih. Narrated by Bukhari 201 and Muslim 325 and Nasai 73, 230, 346 and Abu Dawud 95 and Mishkat al-Masabih 439 and Ahmad 3/112, 116, 179, 259, 282, 290 and Darimi 716]

Sunan Kubra Bayhaqi 934

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرِ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ (٩٣٥)
الْقَاضِي قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ
عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ عَنْ حَصِينِ وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ
عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ (-): يُجْزَى مِنَ الْوُضُوءِ الْمُدُّ ، وَمِنَ الْجَنَابَةِ صَاعٌ (-).

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: وضو ایک مد سے کم اور غسل ایک صاع سے کم پانی

میں نہ کرنا مستحب ہے

حدیث نمبر: 934

ترجمہ:

(935) (سیدنا جابر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ

ﷺ نے فرمایا " :وضو کے لیے ایک مد (پانی) اور غسل جنابت کے لیے ایک صاع (پانی) کافی رہے گا۔"

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: It is mustahabb (recommended) not to perform ablution with less than one mud and ghusl with less than one saa' of water

Hadith number: 934

Translation:

(934) Jabir ibn Abdullah (may Allah be pleased with him) said: The Messenger of Allaah (peace and blessings of Allah be upon him) said: "One mudd (of water) for ablution and one saa' (of water) for ghusl for major impurity will suffice."

[Sahih. Narrated by Bukhari 201 and Muslim 325 and Nasai 73, 230, 346 and Abu Dawud 95 and Mishkat al-Masabih 439 and Ahmad 3/112, 116, 179, 259, 282, 290 and Darimi

Sunan Kubra Bayhaqi 935

Arabic Text:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: وضو ایک مد سے کم اور غسل ایک صاع سے کم پانی
میں نہ کرنا مستحب ہے

حدیث نمبر: 935

: وَرَوَاهُ أَبُو عَوَانَةَ وَغَيْرُهُ عَنْ يَزِيدَ وَحَدَّثَهُ بِإِسْنَادِهِ قَالَ (۹۳۶)

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ -

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا

يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ فَذَكَرَهُ -

[صحيح لغيره - أخرجه الطيالسي ۱۷۳۲]

ترجمہ:

(۹۳۶) یزید اکیلے اسی سند سے نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک مد (پانی سے وضو کرتے تھے اور ایک صاع) پانی (پانی سے غسل کرتے تھے)۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: It is mustahabb (recommended) not to perform ablution with less than one mud and ghusl with less than one saa' of water

Hadith number: 935

Translation:

(935) Yazid alone narrates from this chain of transmission that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) used to perform ablution with one mudd (of water) and ghusl with one saa' (of water).

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence). Narrated by Al-Tayalisi 1732]

Sunan Kubra Bayhaqi 936

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ (٩٣٧)
الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ
عَمْرٍو حَدَّثَنَا زُبَيْرٌ-

قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ يَعْنِي
الْحَنْظَلِيَّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُبَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا
أَبُو جَعْفَرٍ: أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ جَابِرٍ وَعِنْدَهُ قَوْمٌ فَسَأَلُوهُ عَنِ الْغُسْلِ مِنْ
الْجَنَابَةِ فَقَالَ: يَكْفِيكَ صَاعٌ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: وَاللَّهِ مَا يَكْفِينِي
ذَاكَ وَلَا إِلَيْهِ وَلَا إِلَيْهِ. فَقَالَ جَابِرٌ: قَدْ كَانَ يَكْفِي أَوْفَى مِنْكَ شَعْرًا
أَوْ خَيْرًا مِنْكَ-

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ

يَحْيَىٰ بْنِ آدَمَ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاکی کا بیان

باب: وضو ایک مد سے کم اور غسل ایک صاع سے کم پانی

میں نہ کرنا مستحب ہے

حدیث نمبر: 936

:ترجمہ

(۹۳۷) (ابو جعفر سیدنا جابرؓ کے پاس تھے، ان سے کچھ

لوگوں نے غسل جنابت کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا:

صاع) پانی (کافی ہے۔ ایک شخص نے کہا: اللہ کی قسم! مجھے

نے یہ پانی نا کافی رہے گا اور فلاں فلاں کو بھی۔ سیدنا جابر

فرمایا: یہ اس شخص کو کافی تھا جس کے بال تجھ سے زیادہ

تھے یا فرمایا: جو تجھ سے بہتر تھا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: It is mustahabb (recommended) not to perform ablution with less than one mud and ghusl with less than one saa' of water
Hadith number: 936

Translation:

(936) Abu Ja'far was with Syeduna Jabir (may Allah be pleased with him), some people asked him about ghusl for major impurity so he said: One saa' (of water) is enough. One man said: By Allah! This water will not be enough for me and so and so. Syeduna Jabir (may Allah be pleased with him) said: It was enough for the person whose hair was longer than yours or he said: who was better than you.

[Sahih. Narrated by Bukhari 252 and Nasai 231]

Sunan Kubra Bayhaqi 937

Arabic Text:

: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ (٩٣٨)
بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرَوْ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي
أَسَامَةَ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي
بَكْرِ بْنِ حَفْصِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ سَأَلَهَا أَحْوَبًا
مِنَ الرَّضَاعَةِ عَنْ غُسْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَدَعَتْ بِمَائِ
قَدَرَ الصَّاعِ وَاغْتَسَلَتْ وَصَبَّتْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلَاثًا .
أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الصَّمَدِ عَنْ شُعْبَةَ ثُمَّ قَالَ
وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ شُعْبَةَ : قَدَرَ صَاعٍ .

: وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذٍ عَنْ شُعْبَةَ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ
وَبَيَّنَّا وَبَيْنَهَا سِتْرًا-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: وضو ایک مد سے کم اور غسل ایک صاع سے کم پانی

میں نہ کرنا مستحب ہے

حدیث نمبر: 937

:ترجمہ

(۹۳۸) (الف) (سیدہ عائشہ^{رض} سے روایت ہے کہ ان کے رضاعی

بھائی نے نبی ﷺ کے غسل جنابت کے متعلق سوال کیا تو

انہوں نے ایک صاع کے بقدر پانی منگوا یا اور غسل کیا اور

اپنے سر پر تین مرتبہ پانی ڈالا۔

(ب) (شعبہ کہتے ہیں کہ صاع کی مقدار کے برابر۔

(ج) (صحیح مسلم میں یہ روایت شعبہ سے منقول ہے، اس میں

یہ الفاظ زائد ہیں کہ ہمارے اور ان) (سیدہ عائشہ^{رض} کے درمیان

پردہ تھا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: It is mustahabb (recommended) not to perform ablution with less than one mud and ghusl with less than one saa' of water

Hadith number: 937

Translation:

(937) (a) It is narrated from Ayesha (may Allah be pleased with her) that when her foster brother asked about the ghusl of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him), she asked for water equal to one saa' and took a bath and poured water on her head three times.

(B) Shuba says that it was equal to the amount of a Saa'.

(C) In Sahih Muslim, this narration is narrated from Shuba. There are additional words in it that there was a veil between us and her

(Syeda Ayesha (may Allah be pleased with her)).

[Sahih. Narrated by Bukhari 251 and Muslim 330 and Nasai 228 and Ahmad 6/71, 72, 143, 144, 173]

Sunan Kubra Bayhaqi 938

Arabic Text:

: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (٩٣٩)
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهَلَالِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو
الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ وَأَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرٍو بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ
وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا
شَبَابَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عِرَاكِ عَنْ حَفْصَةَ
بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَكَانَتْ تَحْتَ الْمُنْدِرِ

بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهَا : أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ بِيَّ وَالنَّبِيِّ ﷺ -
يَبًا مِنْ ذَلِكَ - مِنْ إِنَائِي وَاحِدٍ ، يَسَعُ ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ وَقَرَّ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: وضو اور غسل میں مذکورہ مقدار میں کمی جائز ہے اگر
فرائض پورے ہو جائیں

حدیث نمبر: 938

:ترجمہ

(۹۳۹) (سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرماتی ہیں کہ وہ اور رسول اللہ ﷺ
ایک برتن سے غسل کرتے تھے۔ اس میں تین مد یا اس سے
قریب پانی آتا تھا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: It is permissible to reduce the said
amount in ablution and ghusl if the

obligations are fulfilled

Hadith number: 938

Translation:

(938) Ayesha (may Allah be pleased with her) says that she and the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) used to perform ghusl in the same vessel. It contained three or almost three mudds of water.

[Sahih. Narrated by Muslim 321]

Sunan Kubra Bayhaqi 939

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْمُحَمَّدَابَاذِيُّ (٩٤٠)
 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا
 إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ الْمَكِّيُّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ
 الْمَكِّيِّ أَنَّهُ قَالَ: بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يُفْتَى أَنَّ
 الْمَرْأَةَ تَنْقُضُ رَأْسَهَا عِنْدَ غُسْلِ الْجَنَابَةِ ، فَقَالَتْ: لَقَدْ كَلَّفَ
 النِّسَاءَ تَعَبًا ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أُغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ - مِنْ بَدَا
 وَإِذَا تَوُرَّ مَوْضُوعٌ مِثْلُ الصَّاعِ أَوْ دُونَهُ فَأُفِيضُ عَلَى رَأْسِي
 ثَلَاثَ مَرَارٍ جَمِيعًا.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: وضو اور غسل میں مذکورہ مقدار میں کمی جائز ہے اگر
 فرائض پورے ہو جائیں
 حدیث نمبر: 939

:ترجمہ

(٩٤٠) (عبید بن عمیر مکی فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہؓ کو یہ
 بات پہنچی کہ عبداللہ بن عمرؓ فتویٰ دیتے تھے کہ عورت غسل
 جنابت کے وقت سر کھولے گی۔ عائشہؓ نے

فرمایا: انہوں نے عورت کو مشقت میں ڈال دیا ہے جب کہ میں اور رسول اللہ ﷺ اس سے غسل کرتے تھے، ہاں ایک پیالہ صاع کے برابر یا اس سے کم رکھا ہوا تھا، میں اپنے سر پر تین مرتبہ پانی ڈالتی۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: It is permissible to reduce the said amount in ablution and ghusl if the obligations are fulfilled

Hadith number: 939

Translation:

(939) Ubaid ibn Umayr Makki says that it was reported to Ayesha (may Allah be pleased with her) that Abdullah ibn Umar (may Allah be pleased with him) used to give fatwa that a woman should open her hair during ghusl.

Ayesha (may Allah be pleased with her) said: He has put the women in hardship while I and the Messenger of Allah (peace and blessings

of Allah be upon him) used to perform ghusl like this, a vessel like a Saa' or smaller and I would pour water on my head three times. [Sahih. Narrated by Muslim 331 and Nasai 416 and Ibn Majah 604 and Ahmad 6/43]

Sunan Kubra Bayhaqi 940

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذُبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ (٩٤١)
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبَادَ بْنَ تَمِيمٍ عَنْ جَدَّتِي
وَبِيَّ أُمِّ عُمَارَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - تَوَضَّأَ فَأَتَى بَانِيَّ فِيهِ
مَائٌ قَدْرَ ثُلُثِي الْمُدِّ -
هَكَذَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عُنْدَهُ عَنْ شُعْبَةَ وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ
فِي إِسْنَادِهِ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاكى كا بيان

باب: وضو اور غسل ميں مذکورہ مقدار ميں كمى جائز ہے اگر
فرائض پورے ہو جائیں

حدیث نمبر: 940

:ترجمہ

(941) (سیدہ ام عمارةؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے وضو
کیا، آپ ﷺ کے پاس ایک برتن لایا گیا جس میں دو تہائی مد
کے برابر پانی تھا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: It is permissible to reduce the said
amount in ablution and ghusl if the obligations
are fulfilled

Hadith number: 940

Translation:

(940) It is narrated on the authority of Syeda Umm Umara that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) performed ablution, a vessel containing two-thirds of a mudd of water was brought to him.

[Sahih. Narrated by Nasai 73 and Abu Dawud 94]

Sunan Kubra Bayhaqi 941

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ (٩٤٢)
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ زِيَادٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى
الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ

حَبِيبِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ -
أَتَى بِثُلُثِي مَدٍّ مِنْ مَائٍ ، فَتَوَضَّأَ فَجَعَلَ يَذُكُّ ذِرَاعَيْهِ -.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: وضو اور غسل میں مذکورہ مقدار میں کمی جائز ہے اگر

فرائض پورے ہو جائیں

حدیث نمبر: 941

ترجمہ:

(۹۴۲) عبید اللہ بن زید^{رض} سے روایت ہے کہ نبی ﷺ کے پاس دو

تہائی مد پانی لایا گیا، آپ ﷺ نے وضو کیا اور آپ اپنے

بازوؤں کو مل رہے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: It is permissible to reduce the said

amount in ablution and ghusl if the

obligations are fulfilled

Hadith number: 941

Translation:

(941) It is narrated on the authority of Ubaidullah ibn Zayd that two thirds of mudd of water was brought to the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him), he performed ablution and he was rubbing his arms.
[Sahih. Narrated by Ibn Hibban 1082]

Sunan Kubra Bayhaqi 942

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْمُقْرِي (٩٤٣)
بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ
مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
عَنْ حَبِيبِ بْنِ زَيْدِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ ابْنِ زَيْدِ
الْأَنْصَارِيِّ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - تَوَضَّأَ بِنَحْوِ مِنْ ثَلَاثِي الْمُدِّ -
: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ شُعْبَةَ - قَالَ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ
الصَّحِيحُ عِنْدِي حَدِيثٌ غُنْدَرٍ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: وضو اور غسل میں مذکورہ مقدار میں کمی جائز ہے اگر
فرائض پورے ہو جائیں
حدیث نمبر: 942

ترجمہ:

(٩٤٣) (ابن زید انصاری سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے تقریباً
دو تہائی مد (پانی سے وضو کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: It is permissible to reduce the said amount in ablution and ghusl if the obligations are fulfilled

Hadith number: 942

Translation:

(942) It is narrated from Ibn Zayd Ansari that the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) performed ablution with about two-thirds mudd (of water).

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence)]

Sunan Kubra Bayhaqi 943

Arabic Text:

وَرُوِيَ عَنِ الصَّلْتِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ (٩٤٤)
أَبِي أَمَامَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - تَوَضَّأَ بِنِصْفِ مُدٍّ -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا
عَلِيُّ بْنُ ثَابِتِ الْجَزْرِيُّ عَنِ الصَّلْتِ ... فَذَكَرَهُ -
وَالصَّلْتُ بْنُ دِينَارٍ مَثْرُوكٍ لَا يُفْرَحُ بِحَدِيثِهِ -
وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى : يَقْسُطُ مِنْ
مَائٍ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
کتاب: پاکی کا بیان

باب: وضو اور غسل میں مذکورہ مقدار میں کمی جائز ہے اگر
فرائض پورے ہو جائیں
حدیث نمبر: 943

:ترجمہ

(۹۴۴) (الف) (سیدنا ابو امامہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے
آدھے مد (پانی سے وضو کیا۔
ب) (صلت بن دینار کی حدیث قابل حجت نہیں ہوتی۔
ج) (ایک دوسری روایت الفاظ بِقِسْطٍ مِنْ مَّائٍ ہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: It is permissible to reduce the said
amount in ablution and ghusl if the obligations
are fulfilled

Hadith number: 943

Translation:

(943) (a) It is narrated on the authority of Abu
Umama that the Prophet (peace and blessings
of Allah be upon him) performed

ablution with half a mud (of water).

(B) The hadith of Salat bin Dinar is not reliable.

[Daif Jiddan (Very Weak). Narrated by Al-Tabarani in Mujam Kabeer 8071]

Sunan Kubra Bayhaqi 944

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ إِسْحَاقَ (٩٤٥)
الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ
يُونُسَ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَ حَدِيثِ الْمَالِينِيِّ وَزَادَ وَقَالَ مَرَّةً
أُخْرَى : يَقْسُطُ مِنْ مَائٍ -

وَقَدْ قِيلَ عَنْهُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِأَقَلِّ مِنْ مُدٍّ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: وضو اور غسل میں مذکورہ مقدار میں کمی جائز ہے اگر

فرائض پورے ہو جائیں

حدیث نمبر: 944

ترجمہ:

(۹۴۵) (سریج بن یونس نے اسی سند کے ساتھ مالینی کی حدیث

کی طرح بیان کیا ہے اور زیادتی بیان کی ہے اور ایک مرتبہ

فرمایا: پانی کی ایک مقدار سے۔ اس حدیث میں مد سے کم کے

متعلق بھی ذکر کیا گیا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: It is permissible to reduce the said amount in ablution and ghusl if the obligations are fulfilled

Hadith number: 944

Translation:

(944) Suraj ibn Yunus has narrated it with the same chain of transmission like the hadith of Malini and has narrated excessive words and once said: 'From a quantity of water.' This hadith also mentions less than a mudd.

[Daif Jiddan (Very Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 945

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ (٩٤٦)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو
بْنِ أَبِي مَذْعُورٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتِ الْجَزْرِيُّ عَنِ الصَّلْتِ
بْنِ دِينَارٍ ... فَذَكَرَهُ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: وضو اور غسل میں مذکورہ مقدار میں کمی جائز ہے اگر

فرائض پورے ہو جائیں

حدیث نمبر: 945

:ترجمہ

(٩٤٦) (صلت بن دینار نے اسی سند سے نقل کیا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: It is permissible to reduce the said amount in ablution and ghusl if the

obligations are fulfilled

Hadith number: 945

Translation:

(945) Salat ibn Dinar has narrated from this same chain of transmission.

[Daif Jiddan (Very Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 946

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ (٩٤٧)
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ

وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدٍ : أَحْمَدُ بْنُ أَبِي خَلْفٍ الصُّوفِيُّ الْمِهْرَجَانِيُّ (ح)
 بِهَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا
 مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ
 سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَعَامَةَ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغْفَلٍ
 سَمِعَ ابْنَهُ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْقَصْرَ الْأَبْيَضَ عَنْ يَمِينِ
 الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلْتُهَا. فَقَالَ : يَا بُنَيَّ سَلِ اللَّهَ الْجَنَّةَ ، وَتَعَوَّذْ بِهِ مِنَ
 النَّارِ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - يَقُولُ ((: إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ
 الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطُّهُورِ وَالِدُّعَايِ)) (-).

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: وضو میں اسراف کرنا منع ہے
 حدیث نمبر: 946

:ترجمہ

(۹۴۷) (سیدنا عبداللہ بن مغفلؓ نے اپنے بیٹے سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے اللہ! میں آپ سے سفید محل کا سوال کرتا ہوں جو جنت کے دائیں جانب ہے جب میں اس (جنت) میں داخل ہوں۔ آپؐ نے فرمایا: اے میرے بیٹے! اللہ سے

جنت کا سوال کر اور آگ سے پناہ مانگ، میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عنقریب میری امت میں ایسی قوم ہوگی جو وضو اور دعا میں زیادتی کریں گے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: It is forbidden to be extravagant in ablution

Hadith number: 946

Translation:

(946) Abdullah ibn Mughafal heard his son saying: O Allah! I ask you about the white palace which is on the right side of paradise when I enter it (paradise). He said: O my son! Ask Allah for Paradise and seek refuge from the fire. I have heard the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) saying: Soon there will be a nation in my ummah who will exceed the bounds in ablution and supplication.

[Sahih. Narrated by Abu Dawud 96 and Ibn Majah 3864 and Ahmad 4/86]

Sunan Kubra Bayhaqi 947

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورِكَ أَخْبَرَنَا (٩٤٨)
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا
خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُنَيْ
السَّعْدِيِّ عَنْ أَبِي بْنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - أَنَّهُ قَالَ ((: إِنْ
: لِلْوَضُوءِ شَيْطَانًا يُقَالُ لَهُ الْوَلْهَانُ فَاحْذَرُوهُ)) . أَوْ قَالَ
((فَاتَّقُوهُ)) .-

، وَقَالَ غَيْرُهُ عَنْ أَبِي دَاوُدَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ((: فَاحْذَرُوهُ

وَاتَّقُوا وِسْوَاسَ الْمَآءِ))(-.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: وضو میں اسراف کرنا منع ہے

حدیث نمبر: 947

:ترجمہ

(۹۴۸) الف (سیدنا ابی بن کعب سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے

فرمایا: بیشک وضو کا بھی شیطان ہے جس کو ولہان کہا جاتا

" ہے، اس سے بچو یا فرمایا " :اس سے ڈرو۔

ب (ایک روایت میں ہے :اس سے بچو اور پانی کے وسوسہ

سے ڈرو۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: It is forbidden to be extravagant in
ablution

Hadith number: 947

Translation:

(947) (a) It is narrated on the authority of Ubai Bin Kab (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: Surely there is a devil of ablution which is called walahan, avoid it or he said: "Fear it."

(B) There is a narration in which it says: Beware of it and be afraid of the waswas of water.

[Daif Jiddan (Very Weak). Narrated by Tirmidhi 57 and Ibn Majah 421 and Ahmad 5/136]

Sunan Kubra Bayhaqi 948

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى بْنِ (٩٤٩)
إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ جَمِيلٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
الصَّفَّارُ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ... فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ -
وَقَالَ فِي إِسْنَادِهِ عَنْ عُتَيْبِ بْنِ ضَمْرَةَ ، وَبَذَا الْحَدِيثِ مَعْلُومٌ
بِرِوَايَةِ الثَّوْرِيِّ عَنْ بِيَانٍ عَنِ الْحَسَنِ بَعْضَهُ مِنْ قَوْلِهِ غَيْرَ
مَرْفُوعٍ وَبَاقِيهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ مِنْ قَوْلِهِ غَيْرَ مَرْفُوعٍ وَاللَّهُ
أَعْلَمُ - وَذَلِكَ بِمَا -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: وضو میں اسراف کرنا منع ہے
حدیث نمبر: 948

ترجمہ:

(٩٤٩) (أبو داؤد نے اسی طرح بیان کیا ہے۔)

(ب) اور فرمایا: اس کی سند میں عتی بن ضمیر ہے اور یہ حدیث معلول ہے۔ ثوری کے حسن سے روایت کرنے کی وجہ سے اور اس کا بعض حصہ مرفوع نہیں اور باقی حصہ یونس بن عبید سے بھی مرفوع نہیں۔ واللہ اعلم

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: It is forbidden to be extravagant in ablution

Hadith number: 948

Translation:

(948) Abu Dawud has narrated it the same way.

(B) And he (Abu Dawud) said: In its chain of transmission is Ati bin Zamra and this hadith is invalid. Due to the narration of Thawri from Hasan and some part of it is not marfu and the rest is also not marfu from Younis bin Ubaid. Allah knows best.

[Daif Jiddan (Very Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 949

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْأَصْبَهَانِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو (٩٥٠)
نَصْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو الْعِرَاقِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ
بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ بَيَانَ عَنِ الْحَسَنِ
قَالَ : شَيْطَانُ الْوُضُوءِ يُدْعَى الْوَلَهَانُ يَضْحَكُ بِالنَّاسِ فِي
الْوُضُوءِ-

، وَعَنْ سُفْيَانَ عَنْ يُونُسَ قَالَ : كَانَ يُقَالُ إِنَّ لِلْمَاءِ وَسْوَاسًا
فَاتَّقُوا وَسْوَاسَ الْمَاءِ-

وَعَنْ سُفْيَانَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ بِلَالِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ : كَانَ يُقَالُ
فِي كُلِّ شَيْءٍ إِسْرَافٌ حَتَّى فِي الطَّهُّورِ وَإِنْ كَانَ عَلَى

شَاطِئِ النَّهْرِ-

هَكَذَا رَوَاهُ غَيْرُ خَارِجَةٍ بِنِ مُصْعَبٍ عَنِ الْحَسَنِ وَيُونُسَ بِنِ

عُبَيْدٍ-

وَخَارِجَةٌ يَنْفَرِدُ بِرِوَايَتِهِ مُسْنَدًا وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الرِّوَايَةِ وَاللَّهُ

أَعْلَمُ-

وَقَدْ رُوِيَ بِإِسْنَادٍ آخَرَ ضَعِيفٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ مَرْفُوعًا

يَعْنِي مَا رَوَيْنَا عَنْ يُونُسَ بِنِ عُبَيْدٍ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: وضو میں اسراف کرنا منع ہے

حدیث نمبر: 949

:ترجمہ

(۹۵۰) (الف) حسن سے روایت ہے کہ وضو کا شیطان ہے

جس کو ولہان کہا جاتا ہے یہ وضو میں لوگوں کو ہنساتا ہے۔

(ب) یونس کہتے ہیں کہ پانی کیلئے وسوسہ ہے لہذا پانی

کے وسوسہ سے بچو۔

(ج) ہلال بن یساف کہتے ہیں کہ ہر چیز میں اسراف ہے

یہاں تک کہ وضو میں بھی ہے، اگرچہ نہر کے کنارے پر ہو۔
(اسی طرح خارج بن مصعب کے علاوہ بھی دوسروں نے
حسن اور یونس بن عبید سے روایت کیا ہے۔ خارج اپنی سند
سے روایت کرنے میں منفرد ہے وہ روایت کرنے میں مضبوط
راوی نہیں۔ واللہ اعلم

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: It is forbidden to be extravagant in
ablution

Hadith number: 949

Translation:

(949) (a) It is narrated from Hasan that there is
a devil for ablution which is called walahan. It
makes people laugh in ablution.

(B) Yunus says there is a waswas for water,
so beware of the waswas of water.

(C) Hilal ibn Yasaf says that there is

extravagance in everything, even in ablution, even if it is on the bank of a canal.

(D) Similarly, other than Kharij bin Musab, others have also narrated from Hasan and Yunus bin Ubaid. Kharaj is unique in narrating with his sanad. He is not a strong narrator in narrating. Allah knows best.

[Daif (Weak). Narrated by Ibn Abi Dunya in Makaid al Shaitan 69]

Sunan Kubra Bayhaqi 950

Arabic Text:

حَدَّثَنَا أَبُو سَعْدٍ : عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي عُمَانَ الزَّاهِدُ وَأَبُو (٩٥١)
 الْحَسَنُ : الْعَلَاءِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْإِسْفَرَائِينِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو
 سَهْلٍ : بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِشْرِ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ
 بْنُ نَاجِيَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُصَيْنِ الْأَصْبَحِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
 كَثِيرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِيِّ بْنِ الشَّخِيرِ عَنْ
 عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((: اتَّقُوا وَسْوَاسَ
 الْمَائِ فَإِنَّ لِلْمَائِ وَسْوَاسًا وَشَيْطَانًا)) .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب : پاکی کا بیان
 باب : وضو میں اسراف کرنا منع ہے
 حدیث نمبر : 950

: ترجمہ

(٩٥١) (سیدنا عمران بن حصین^{رض} فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا : پانی کے وسوسہ سے بچو، بلاشبہ پانی کے لیے وسوسہ اور شیطان ہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: It is forbidden to be extravagant in
ablution

Hadith number: 950

Translation:

(950) Imran ibn Husayn (may Allaah be pleased with him) said: The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: Beware of the waswas of water, of course there are waswas and devils for water.

[Daif (Weak)]

Arabic Text:

: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ (٩٥٢)
الْقَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السِّيَّارِيُّ بِمَرَوْ أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُؤَجِّهِ أَخْبَرَنَا
عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ
أَبِي الْجَعْدِ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: سَتَرْتُ
النَّبِيَّ - ﷺ - وَهُوَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَبَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ صَبَّ
بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ ، فَغَسَلَ فَرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ ثُمَّ مَسَحَ بِيَدَيْهِ عَلَى
، الْحَائِطِ أَوْ الْأَرْضِ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ وَضُوءَ هِ لِلصَّلَاةِ غَيْرَ رِجْلَيْهِ
ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ الْمَاءَ ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ- رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِانَ-
وَتَابَعَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَزَائِدَةُ وَابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ فِي السِّتْرِ-
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ زَائِدَةَ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان
باب: غسل کرتے وقت لوگوں سے پردہ کرنے کا بیان
حدیث نمبر: 951

ترجمہ:

(۹۵۲) (سیدہ میمونہؓ سے روایت ہے کہ میں نے نبی ﷺ کے لیے پردہ لٹکایا اور آپ ﷺ غسل جنابت فرما رہے تھے، پہلے آپ ﷺ نے ہاتھ دھوئے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا اور اپنی شرمگاہ کو دھویا اور جو اس کو چیز لگی تھی، پھر اپنا ہاتھ دیوار یا زمین پر پھیرا، پھر پاؤں دھونے کے علاوہ نماز جیسا وضو کیا، پھر اپنے جسم پر پانی بہایا، پھر الگ جگہ پر اپنے قدموں کو دھویا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on screening yourself from the people while performing ghusl

Hadith number: 951

Translation:

(951) It is narrated on the authority of Syeda Maimuna (may Allah be pleased with her) that I hung a veil for the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) and he was

performing the ghusl for major impurity, first he washed his hands, then with his right hand he poured water on his left hand and washed his private parts and what was on it, then he rubbed his hand on the wall or on the ground, then performed ablution like the one done for prayers besides washing his feet, then poured water on his body, then washed his feet in a separate place.

[Sahih. Narrated by Bukhari 249, 257, 259, 260, 265, 266, 274, 276, 281 and Muslim 317 and Nasai 254, 408, 418, 419 and Abu Dawud 245 and Tirmidhi 103 and Ibn Majah 573 and Ahmad 6/230, 335, 336 and Darimi 739, 774]

Sunan Kubra Bayhaqi 952

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَائِرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ (٩٥٣)
الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ
عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ قَالَتْ: وَضَعْتُ
لِلنَّبِيِّ ﷺ - مَاءً فَذَكَرَهُ قَالَتْ وَسَتَرْتُهُ حَتَّى اغْتَسَلَ -
رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُوسَى الْقَارِي عَنِ
زَائِدَةَ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: غسل کرتے وقت لوگوں سے پردہ کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 952

ترجمہ:

(۹۵۳) سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: میں نے نبی ﷺ کے لیے پانی رکھا۔۔۔ پھر میں نے آپ ﷺ کے لیے پردہ لٹکایا حتیٰ کہ آپ ﷺ نے غسل فرما لیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on screening yourself from the people while performing ghusl

Hadith number: 952

Translation:

(952) Syeda Maimuna (may Allah be pleased with her) says: I kept water for the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) ... Then I hung the veil for him until he performed ghusl.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 953

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : أَحْمَدُ (٩٥٤)
بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِوَسِّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيِّ حَدَّثَنَا
الْقَعْنَبِيُّ فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ-

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى
مَالِكٍ عَنْ أَبِي النَّضْرِ أَنَّ أَبَا مَرْثَةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِيٍّ بِنْتِ أَبِي
طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِيٍّ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ تَقُولُ : ذَهَبْتُ إِلَى
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - يَوْمَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ بِنْتُهُ تَسْتُرُهُ

بِثُوبٍ-

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى
بْنِ يَحْيَى-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: غسل کرتے وقت لوگوں سے پردہ کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 953

:ترجمہ

(۹۵۴) سیدہ ام ہانی بنت ابو طالب فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ کے پاس فتح مکہ کے دن گئی، میں نے آپ ﷺ کو غسل کرتے ہوئے پایا اور آپ ﷺ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے کپڑے سے پردہ کیے ہوئے تھیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on screening yourself from the people while performing ghusl

Hadith number: 953

Translation:

(953) Syeda Umm Hani bint Abu Talib said: I went to the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) on the day of the conquest of Makkah, I found him performing ghusl and his daughter Fatima (may Allah be pleased with her) was screening him with a cloth.

[Sahih. Narrated by Bukhari 280, 357, 3171, 4292, 6158 and Muslim 336 and Nasai 226 and Abu Dawud 1290 and Tirmidhi 1579, 2734 and Ibn Majah 465 and Malik 9/32 and Ahmad 6/341-343, 423, 425 and Darimi 1493]

Sunan Kubra Bayhaqi 954

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو قَالَا (٩٥٥)
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ
الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ يَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ أَبِي بِنْدٍ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
حَدَّثَهُ أَنَّ أُمَّ هَانِيَةَ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَتْهُ : أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي
طَالِبٍ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ
بِمَكَّةَ . فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَتْ : ثُمَّ سَكِبَ لَهُ غُسْلٌ ، فَسَتَرَتْهُ ابْنَتُهُ
فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي هَانِيَةَ ، فَلَمَّا اغْتَسَلَ أَخَذَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى
ثَمَانَ سَجَدَاتٍ وَذَلِكَ ضَحَى .
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب : پاکی کا بیان

باب : غسل کرتے وقت لوگوں سے پردہ کرنے کا بیان

حدیث نمبر : 954

ترجمہ:

(۹۵۵) سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما ام ہانی رضی اللہ عنہا کے پاس گئے، وہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھی۔۔۔ پھر آپ ﷺ کے لیے غسل کا پانی ڈالا گیا تو آپ ﷺ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آپ ﷺ کو کپڑے سے پردہ کیا ہوا تھا، جب آپ ﷺ نے غسل کر لیا تو آپ نے اس کپڑے کو پکڑا، آپ نے اس کو لپیٹ لیا۔ پھر کھڑے ہوئے اور چاشت کی آٹھ رکعات ادا کیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on screening yourself from the people while performing ghusl

Hadith number: 954

Translation:

(954) Syeduna Ali ibn Abi Talib (may Allah be pleased with him) went to Umm Hani (may Allah be pleased with her). She was with the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) on the day of the

conquest of Makkah..... Then the water for his ghusl was poured for him and his daughter Fatima (may Allah be pleased with her) covered him with a cloth. When he had performed ghusl, he grabbed the cloth and wrapped it around him. Then he stood up and performed eight rak'ats of Duha prayer.

[Sahih. Narrated by Bukhari 280, 357, 3171, 4292, 6158 and Muslim 336 and Nasai 226 and Abu Dawud 1290 and Tirmidhi 1579, 2734 and Ibn Majah 465 and Malik 9/32 and Ahmad 6/341-343, 423, 425 and Darimi 1493]

Sunan Kubra Bayhaqi 955

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوَدْبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ (٩٥٦)
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا ابْنُ نَفِيلٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ
بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ الْعَرَزَمِيِّ عَنْ عَطَائٍ عَنْ يَعْلَى: أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ - ﷺ - رَأَى رَجُلًا يَغْتَسِلُ بِالْبَرَّازِ ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ
وَإِنَّنِي عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ ((إِنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ حَيٌّ سِتِيرٌ يُحِبُّ
الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ ، فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ)) .-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: غسل کرتے وقت لوگوں سے پردہ کرنے کا بیان
حدیث نمبر: 955

ترجمہ:

(956) (سیدنا یعلیٰ رض سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ایک شخص کو کھلی جگہ غسل کرتے ہوئے دیکھا تو آپ ﷺ منبر پر چڑھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا: اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے زندہ ہے، حیادار ہے، پردے اور حیا کو پسند کرتا ہے۔ لہذا جب کوئی غسل کرے تو وہ چھپ جائے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on screening yourself from the people while performing ghusl

Hadith number: 955

Translation:

(955) It is narrated on the authority of Ali (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) saw a man performing ghusl in the open, so he ascended the pulpit and after praising Allah said: Allah Almighty is always alive, is humble, loves concealment and humility. Therefore, when one performs ghusl, he should conceal himself.

[Sahih. Narrated by Nasai 406 and Abu Dawud 4012 and Ahmad 4/224]

Sunan Kubra Bayhaqi 956

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ (٩٥٧)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلْفٍ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ
عَطَائٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - بِهَذَا
الْحَدِيثِ -
قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْأَوَّلُ أُمَّمٌ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى
كتاب: پاکی کا بیان

باب : غسل کرتے وقت لوگوں سے پردہ کرنے کا بیان
حدیث نمبر : 956

ترجمہ:

(۹۵۷) سیدنا یعلیٰ رضی اللہ عنہ کے والد نبی ﷺ سے اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on screening yourself
from the people while performing ghusl

Hadith number: 956

Translation:

(956) Syeduna Yali's father narrates this
hadith from the Prophet (peace and blessings
of Allah be upon him).

[Hasan (Fair). Narrated by Abu Dawyd 4013]

Sunan Kubra Bayhaqi 957

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَائِرٍ الْفَقِيهَ وَأَبُو يَعْلَى : حَمَزَةُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ (٩٥٨)
الْمُهَلَّبِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا
أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ
هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ بَدَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو بُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -
((- ﷺ)) : بَيْنَمَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا خَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ ، فَجَعَلَ
أَيُّوبُ يَحْتَتِي فِي ثَوْبِهِ ، فَنَادَاهُ رَبُّهُ : يَا أَيُّوبُ أَلَمْ أَكُنْ
أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى؟ قَالَ : بَلَى يَا رَبِّ ، وَلَكِنْ لَا غِنَى لِي عَنْ
بَرَكَتِكَ ((-)).

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
کتاب: پاکی کا بیان

باب : اکیلا آدمی ننگا ہوسکتا ہے

حدیث نمبر : 957

ترجمہ:

(: ۹۵۸) سیدنا ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
ایک دفعہ ایوب (علیہ السلام) (اکیلے ننگے غسل کر رہے ")
تھے تو ان پر سونے کی ٹڈیاں گرنے لگیں، ایوب (علیہ السلام)
انہیں اپنے کپڑوں میں ڈالنا شروع ہو گئے۔ رب تعالیٰ نے آواز
دی : اے ایوب ! کیا میں نے آپ کو غنی نہیں کیا اس سے جو تم
دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا : کیوں نہیں، اے میرے رب ! لیکن
میں تیری برکت سے بے نیاز نہیں ہوسکتا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A lone man can be naked

Hadith number: 957

Translation:

(957) Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) said: The Messenger of Allah

(peace and blessings of Allah be upon him) said: "Once Ayyub (peace be upon him) was performing ghusl naked alone, then golden locusts started falling on him. Ayyub started collecting them in his clothes. Allah called out: O Ayyub! Have I not enriched you with what you see? He said: Why not, O my Lord! But I cannot be deprived of Your blessing.
[Sahih. Narrated by Bukhari 279, 3391, 7493 and Nasai 409 and Ahmad 2/314]

Sunan Kubra Bayhaqi 958

Arabic Text:

وَبِإِسْنَادِيْمَا قَالَ وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ - ﷺ - ((:كَانَتْ بَنُو (۹۵۹)
 اِسْرَائِيْلَ يَغْتَسِلُوْنَ عُرَاةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ اِلَى سِوَاةِ بَعْضٍ ، وَكَانَ
 مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ يَغْتَسِلُ وَحَدَّهُ ، فَقَالُوا : وَاللهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى
 اَنْ يَغْتَسِلَ مَعَنَا اِلَّا اَنْهُ اَدْرُ . قَالَ : فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ
 :عَلَى الْحَجْرِ ، فَفَرَّ الْحَجْرُ بِثَوْبِهِ قَالَ فَجَمَحَ مُوسَى فِي اَثَرِهِ
 ثَوْبِي حَجْرٌ ، ثَوْبِي حَجْرٌ . حَتَّى نَظَرْتُ بَنُو اِسْرَائِيْلَ اِلَى سِوَاةِ
 مُوسَى فَقَالُوا : وَاللهِ مَا بِمُوسَى مِنْ بَأْسٍ . قَالَ : فَقَامَ الْحَجْرُ بَعْدَ
 مَا نَظَرُوا اِلَيْهِ فَاَخَذَ ثَوْبَهُ وَطَفِقَ بِالْحَجْرِ ضَرْبًا)) . (فَقَالَ اَبُو
 بُرَيْرَةَ : وَاللهِ اِنَّهُ نَدَبًا بِالْحَجْرِ سِنَّةً اَوْ سَبْعَةَ ضَرْبٍ مُوسَى
 بِالْحَجْرِ . رَوَاهُمَا الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيْحِ عَنْ اِسْحَاقَ بْنِ نَصْرِ
 عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، وَاَخْرَجَ مُسْلِمٌ الْحَدِيْثَ الثَّانِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
 رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ .

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
 كتاب: پاكي كا بيان
 باب: اكيلا آدمي ننگا هوسكتا هے
 حديث نمبر: 958

:ترجمہ

(۹۵۹) (رسول الله ﷺ نے فرمایا " :نبی اسرائیل والے ننگے

غسل کرتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کی شرم گاہ کو دیکھتے تھے، جب کہ موسیٰ (علیہ السلام) (اکیلے غسل کرتے تھے انہوں نے کہا: اللہ کی قسم! موسیٰ) علیہ السلام (ہمارے ساتھ اس لیے غسل نہیں کرتے کہ ان کو کوئی بیماری ہے۔ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ غسل کرنے کے لیے گئے اور اپنے کپڑے پتھر پر رکھے تو پتھر کپڑے لے کر بھاگ پڑا۔ موسیٰ) علیہ السلام (اس کے پیچھے بھاگے اور کہہ رہے تھے: اے پتھر میرے کپڑے، اے پتھر! میرے کپڑے۔ یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ) علیہ السلام (کی شرم گاہ کی طرف دیکھا تو کہنے لگے: اللہ کی قسم! موسیٰ) علیہ السلام (کو کوئی بیماری نہیں ہے۔ ان کے دیکھنے کے بعد پتھر کھڑا ہو گیا تو انہوں نے اپنے کپڑے پکڑے اور پتھر کو مارنا شروع ہوئے۔ سیدنا ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم! پتھر پر موسیٰ) علیہ السلام (کی مار کے چھ یا سات نشان تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A lone man can be naked

Hadith number: 958

Translation:

(958) The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said, 'The (people of) Bani Israel used to bathe naked all together looking at each other's private parts. The Prophet Moses (peace be upon him) used to take a bath alone. They said, 'By Allah! Nothing prevents Moses from taking a bath with us except that he has a disease.' So once Moses went out to take a bath and put his clothes over a stone and then that stone ran away with his clothes. Moses followed that stone saying, "My clothes, O stone! My clothes, O stone! till the people of Bani Israel saw him and said, 'By Allah, Moses has got no defect in his body. Moses took his clothes and began to beat the stone." Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) added, "By Allah! There were six or seven marks present on the stone from that beating."

[Sahih. Narrated by Bukhari 278 and Muslim 339]

Sunan Kubra Bayhaqi 959

Arabic Text:

: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ (٩٦٠)
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ الْبَصْرِيِّ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ
بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ وَإِسْمَاعِيلُ
ابْنُ عَلِيَّةَ عَنْ بَهْرِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ: يَا نَبِيَّ
اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذُرُ. قَالَ ((: أَحْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ
زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ)) (- فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ
بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ - قَالَ)) : إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاكَ أَحَدٌ فَلَا يَرَاكَ ((-
قَالَ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا. قَالَ)) : اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ
يُسْتَخَيَّ مِنَ النَّاسِ ((-
ذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ فِي التَّرْجَمَةِ مُخْتَصِرًا قَالَ وَقَالَ بَهْرٌ عَنْ

أَبِيهِ عَنِ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -)) : اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ مِنَ النَّاسِ (-).

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: تنہائی میں اگر آدمی اکیلا ہو پھر بھی پردہ کرنا افضل ہے

حدیث نمبر: 959

ترجمہ:

(۹۶۰) (الف) بہز بن حکیم اپنے دادا سے نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی! ہم اپنے بدن کے کون سے حصے کو چھپائیں اور کس کو چھوڑیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر مگر اپنی بیوی سے یا اپنی لونڈی سے۔ میں نے کہا: مجھے بتائیں اگر سب ایک جنس سے ہوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "اگر تو طاقت رکھے کہ کوئی بھی نہ دیکھے تو یہ بہت رہے۔ میں نے کہا: مجھے بتلائیں جب کوئی اکیلا ہو؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔"

(ب) (ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتا

ہے کہ لوگوں سے زیادہ اس سے حیا کی جائے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: In solitude, if a man is alone, it is still better to cover one's self

Hadith number: 959

Translation:

(959) (a) Bahz ibn Hakim narrates from his grandfather that he said: O Prophet of Allah! Which part of our body should we hide and which should we leave out? He said: Protect your private parts except from your wife or your slave girl. I said: Tell me if everyone is of the same gender? The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "If you have the power that no one will see it, it will be enough." I said: "Tell me when someone is alone." The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "Allah is more

deserving of being shy from Him than the people."

[Sahih. Narrated by Abu Dawud 4017 and Tirmidhi 2769, 2794 and Ibn Majah 1920 and Ahmad 20054]

Sunan Kubra Bayhaqi 960

Arabic Text:

وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَّاسِيلِ عَنْ قُتَيْبَةَ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ (٩٦١)
عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((: لَا تَغْتَسِلُوا فِي
الصَّحْرَاءِ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدُوا مُتَوَارِي ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا
مُتَوَارِي فَلْيُحِطْ أَحَدُكُمْ خَطًّا كَالدَّارَةِ ، ثُمَّ يُسَمِّي اللَّهَ تَعَالَى
وَيَغْتَسِلُ فِيهَا)) (- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو

... الْحُسَيْنِ الْفَسَوِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ اللَّوْلُؤِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ
فَذَكَرَهُ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: تنہائی میں اگر آدمی اکیلا ہو پھر بھی پردہ کرنا افضل ہے

حدیث نمبر: 960

:ترجمہ

(: ۹۶۱) امام زہری سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

تم کھلی جگہ میں غسل نہ کرو۔ وہاں اگر تم چھپنے کی جگہ "

نہ پاؤ تو گھر کی مانند خط کھینچ لو پھر اللہ کا نام لو اور اس

" میں غسل کرلو۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: In solitude, if a man is alone, it is still better to cover one's self

Hadith number: 960

Translation:

(960) It is narrated on the authority of Imam Zuhri (may Allah have mercy on him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: Do not perform ghusl in the open. If you do not find a place to hide, then draw a line from the house, then take the name of Allah and perform ghusl in it."

[Daif (Weak). Narrated by the Author in Shuab al-Eeman 7785]

Sunan Kubra Bayhaqi 961

Arabic Text:

: وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - قَالَ (۹۶۲)
لَا يَغْتَسِلَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَقُرْبُهُ إِنْسَانٌ لَا يَنْظُرُ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْهُ))
يُكَلِّمُهُ))-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: تنہائی میں اگر آدمی اکیلا ہو پھر بھی پردہ کرنا افضل ہے

حدیث نمبر: 961

ترجمہ:

(: ۹۶۲) امام زہری سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
تم میں سے کوئی اس طرح غسل نہ کرے کہ اس کی پاس
انسان ہو جو اسے دیکھ رہا ہو یا اس سے بات کر رہا ہو۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: In solitude, if a man is alone, it is still better to cover one's self

Hadith number: 961

Translation:

(961) It is narrated on the authority of Imam Zuhri (may Allah have mercy on him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: None of you should perform ghusl in such a way that he has a person who is watching him or talking to him.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 962

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقْرِيُّ (٩٦٣)
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ
يَعْقُوبَ الْقَاضِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ
بُرْدٍ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذِبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ
دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا بُرْدُ بْنُ سِنَانَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيْبٍ عَنْ غُضَيْفِ بْنِ
الْحَارِثِ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ : أَرَأَيْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - كَانَ
يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ أَمْ فِي آخِرِهِ . قَالَتْ : رُبَّمَا اغْتَسَلَ
فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ ، وَرُبَّمَا اغْتَسَلَ فِي آخِرِهِ . قُلْتُ : اللَّهُ أَكْبَرُ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: جنبی غسل کو رات کے آخر تک مؤخر کر سکتا ہے

حدیث نمبر: 962

ترجمہ:

(۹۶۳) (غضیف بن حارثؓ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ سے عرض کیا: مجھے بتائیں کہ رسول اللہ ﷺ غسل جنابت رات کے شروع میں کرتے تھے یا اخیر رات میں؟ انہوں نے فرمایا: بعض اوقات آپ ﷺ رات کے شروع حصے میں فرماتے تھے بعض اوقات رات کے آخری حصے میں۔ میں نے کہا: اللہ اکبر تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے معاملے میں وسعت رکھی ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A person who is junub may delay performing ghusl till late at night

Hadith number: 962

Translation:

(962) Ghudayf ibn Harith (may Allah be pleased with him) said: I asked Aisha (may Allah be pleased with her): Tell me, did the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) perform ghusl for major impurity at the beginning of the night or at the end of the night? She said: Sometimes he used to do it in the early part of the night, sometimes in the last part of the night. I said: Allahu Akbar, all praise is due to the One who made this matter accommodative.

[Sahih. Narrated by Nasai 223, 224, 405 and Abu Dawud 226]

Sunan Kubra Bayhaqi 963

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ (٩٦٤)
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى
مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ
الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ - أَنَّهُ تُصِيبُهُ جَنَابَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ لَهُ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - ((: تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ثُمَّ نَمْ)) -
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَوْسُفَ عَنْ مَالِكٍ
وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى -
: وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
((اغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ)) -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: جنبی اگر سونا چاہے تو شرم گاہ دھو کر وضو کر کے
سو جائے
حدیث نمبر: 963

:ترجمہ

(۹۶۴) (سیدنا ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ عمر بن خطابؓ نے رسول اللہ ﷺ سے ذکر کیا کہ رات کو میں جنبی ہو جاؤں تو کیا کروں؟) رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: وضو کر اور اپنی شرمگاہ کو دھو کر سو جا۔
(ب) (عبداللہ بن دینار سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: اپنے ذکر (شرم گاہ) کو دھو اور وضو کر۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: If the person who is junub wants to sleep, he should wash his private parts and perform ablution and then sleep

Hadith number: 963

Translation:

(963) It is narrated on the authority of Ibn Umar (may Allah be pleased with him) that Umar ibn Khattab (may Allah be pleased with him) said to the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him): What

should I do if I become junub at night? The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: Perform ablution and wash your private parts and go to sleep.

(B) It is narrated from Abdullah bin Dinar that he (the Prophet) said: Wash your zakar (private parts) and perform ablution.

[Sahih. Narrated by Bukhari 290 and Muslim 306 and Nasai 261 and Abu Dawud 221 and Ibn Majah 585 and Malik 2/76 and Ahmad 2/64 and Darimi 783]

Sunan Kubra Bayhaqi 964

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو عَثْمَانَ : سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٩٦٥)
 بَنِي عَبْدِ اللَّهِ وَأَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ أَبِي حَامِدٍ الْمُقْرِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو
 الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا
 مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
 : أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْرُقْدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنْبٌ؟ قَالَ :
 ((نَعَمْ إِذَا تَوَضَّأَ))-.
 مُخْرَجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مَعَ تَسْمِيَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي السُّؤَالِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب : پاکی کا بیان
 باب : جنبی اگر سونا چاہے تو شرم گاہ دھو کر وضو کر کے
 سو جائے
 حدیث نمبر : 964

ترجمہ:

(965) (سیدنا ابن عمر^{رض} سے روایت ہے کہ ایک شخص نے
 عرض کیا : اے اللہ کے رسول! کیا جنابت کی حالت میں کوئی
 " سو سکتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا " : ہاں وضو کر کے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: If the person who is junub wants to sleep, he should wash his private parts and perform ablution and then sleep

Hadith number: 964

Translation:

(964) It is narrated on the authority of Ibn Umar (may Allah be pleased with him) that a man said: O Messenger of Allah! Can one sleep in the state of major impurity? He said: "Yes, by performing ablution."

[Sahih. Narrated by Bukhari 287, 289 and Muslim 306 and Nasai 260 and Tirmidhi 120 and Ibn Majah 585 and Ahmad 2/17, 35, 36, 44, 102]

Sunan Kubra Bayhaqi 965

Arabic Text:

: أَخْبَرَنَا أَبُو زَكْرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي وَأَبُو بَكْرِ (٩٦٦)
أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ -
قَالَ وَحَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ قَالَ قُرِيٌّ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَكَ
يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ - أَنَّهَا
قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ
وَضُوءَهُ هُ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاكى كا بيان

باب: جنبى اكر سونا چاهے تو شرم گاه دھو كر وضو كر كے
سو جائے

حدیث نمبر: 965

:ترجمہ

(۹۶۶) (الف) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ
جب حالت جنابت میں سونے کا ارادہ کرتے تو نماز جیسا وضو
وضو فرماتے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: If the person who is junub wants to
sleep, he should wash his private parts and
perform ablution and then sleep

Hadith number: 965

Translation:

(965) It is narrated from Ayesha rhetoric that
when the Prophet (peace and blessings of

Allah be upon him) intended to sleep in a state of major impurity, he would perform ablutions like the one done for prayer.

[Sahih. Narrated by Bukhari 288 and Muslim 305 and Nasai 256 and Abu Dawud 224 and Ibn Majah 591 and Ahmad 6/126, 143, 191, 192, 235, 260, 273 and Darimi 784, 2123]

Sunan Kubra Bayhaqi 966

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ (٩٦٧)
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى

أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ فَذَكَرَهُ ... بِمِثْلِهِ -
 رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ
 مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ -
 وَفِي رِوَايَةٍ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -
 إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ فَرْجَهُ وَتَوَضَّأَ وَضُوءَهُ هَذَا لِلصَّلَاةِ
 ثُمَّ نَامَ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: جنبی اگر سونا چاہے تو شرم گاہ دھو کر وضو کر کے
 سو جائے
 حدیث نمبر: 966

:ترجمہ

(۹۶۷) (الف) (لیث بن سعد نے اسی طرح بیان کیا ہے۔
 ب) (سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب حالتِ
 جنابت میں سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنی شرم گاہ کو دھوتے
 اور نماز جیسا وضو کرتے، پھر سو جاتے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: If the person who is junub wants to sleep, he should wash his private parts and perform ablution and then sleep

Hadith number: 966

Translation:

(966) (a) Laith ibn Sa'd has narrated this the same way.

(B) It is narrated from Ayesha (may Allah be pleased with her) that when the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) intended to sleep in a state of major impurity, he would wash his private parts and perform ablutions like the one done for prayer, then fall asleep.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 967

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو قَالَا (٩٦٨)
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ الْكَلْبِيُّ حَدَّثَنَا
الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا عَتَّامُ يَعْنِي ابْنَ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ شَامٍ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - إِذَا اجْتَنَبَ
فَأَرَادَ أَنْ يَنَامَ تَوَضَّأَ أَوْ تَيَمَّمَ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى
كتاب: پاکی کا بیان
باب: جنبی اگر سونا چاہے تو شرم گاہ دھو کر وضو کر کے

سو جائے

حدیث نمبر: 967

ترجمہ:

(۹۶۸) سیدہ عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب جنبی ہوتے اور آپ سونے کا ارادہ فرماتے تو آپ وضو کرتے یا تیمم کرتے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: If the person who is junub wants to sleep, he should wash his private parts and perform ablution and then sleep

Hadith number: 967

Translation:

(967) It is narrated from Ayesha (may Allah be pleased with her) that when the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) was junub and he intended to go to bed, he would perform

ablution or perform tayammum.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 968

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَائِرٍ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمَّادٍ الْعَدْلُ (٩٦٩)
حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ
مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ
عَنْ وَثْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - كَيْفَ كَانَ يُوتِرُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ أَوْ
آخِرِهِ؟ قَالَتْ: كُلَّ ذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ، رُبَّمَا أَوْتَرَ وَرُبَّمَا آخَرَهُ.
قُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً. قُلْتُ: كَيْفَ
كَانَتْ قِرَائَتُهُ مِنَ اللَّيْلِ، أَكَانَ يُسِرُّ بِالْقِرَائَةِ مِنَ اللَّيْلِ أَمْ
يَجْهَرُ؟ قَالَتْ: كُلَّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ، رُبَّمَا أَسْرَّ وَرُبَّمَا

جَهَرَ- قَالَ قُلْتُ :الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً- قُلْتُ
 كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ فِي الْجَنَابَةِ ، أَكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ؟ أَوْ يَنَامَ
 قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟ قَالَتْ :كُلَّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ ، رُبَّمَا
 اغْتَسَلَ فَنَامَ ، وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ- قَالَ قُلْتُ :الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
 جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً-
 رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ عَنِ اللَّيْثِ إِلَّا أَنَّهُ اخْتَصَرَ
 الْحَدِيثَ فَذَكَرَ قِصَّةَ الْغُسْلِ دُونَ مَا قَبْلَهُ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: جنبی اگر سونا چاہے تو شرم گاہ دھو کر وضو کر کے
 سو جائے
 حدیث نمبر: 968

ترجمہ:

(969) (سیدنا عبداللہ بن قیس^{رض} فرماتے ہیں کہ میں نے سیدہ
 عائشہ^{رض} سے رسول اللہ ﷺ کے وتر کے متعلق سوال کیا کہ آپ
 وتر اول رات میں پڑھتے تھے یا رات کے آخری حصے میں؟
 فرماتی ہیں: آپ دونوں طرح کرتے تھے بعض اوقات وتر رات
 کے شروع میں پڑھتے اور بعض اوقات رات

کے آخری حصے میں۔ میں نے کہا: تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے معاملے میں وسعت رکھی ہے، میں نے کہا: آپ ﷺ کی رات کی قراءت کیسی تھی؟ کیا آپ ﷺ رات کو قراءت اونچی کرتے تھے یا آہستہ؟ فرماتی ہیں: آپ دونوں طرح کرتے تھے بعض اوقات آپ نے آہستہ کی اور بعض اوقات اونچی آواز سے۔ میں نے کہا: سب تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے معاملے میں وسعت رکھی ہے۔ پھر میں نے کہا: آپ جنابت میں کس طرح کرتے تھے، کیا آپ سونے سے پہلے غسل کرتے تھے یا غسل کرنے سے پہلے سو جاتے تھے؟ فرماتی ہیں: آپ دونوں طرح کرتے تھے بعض اوقات آپ ﷺ نے غسل کیا پھر سو گئے اور بعض اوقات آپ ﷺ نے وضو کیا پھر سو گئے۔ میں نے کہا: سب تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے معاملے میں وسعت رکھی ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: If the person who is junub wants to sleep, he should wash his private parts and perform ablution and then sleep

Hadith number: 968

Translation:

(968) Abdullah ibn Qays (may Allah be pleased with him) said: I asked Ayesha (may Allah be pleased with her) about the witr of the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him), that did he pray it in the first part of the night or in the last part of the night? She says: He used to do both, sometimes praying witr at the beginning of the night and sometimes in the last part of the night. I said: All Praise be to Allah Who made this matter accommodative. I said: How was his recitation at night? Did he recite aloud at night or quietly? She says: He used to do both, sometimes he did it quietly and sometimes loudly. I said: All Praise be to Allah Who made this matter accommodative. Then I said: What did he do when was junub, did he perform ghusl before going to bed or did he go to sleep before performing ghusl? She says: He used to do both. Sometimes he

performed ghusl then fell asleep and sometimes he performed ablution and then fell asleep. I said: All Praise be to Allah Who made this matter accommodative.

[Sahih. Narrated by Nasai 223, 224, 405 and Abu Dawud 226 and Ibn Majah 1354 and Ahmad 6/138]

Sunan Kubra Bayhaqi 969

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ (٩٧٠)
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتَّابِ الْعَبْدِيِّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ :

مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْقَاضِي حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرٍ بْنُ عَفِيرٍ وَيَحْيَى
 بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ
 صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَ
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - يَصْنَعُ فِي الْجَنَابَةِ؟ أَكَانَ يَغْتَسِلُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ
 أَوْ يَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ؟ قَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ، رُبَّمَا
 اغْتَسَلَ فَنَامَ، وَرُبَّمَا تَوَضَّأَ فَنَامَ. قُلْتُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ
 فِي الْأَمْرِ سَعَةً.
 رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ عَنِ اللَّيْثِ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: جنبی اگر سونا چاہے تو شرم گاہ دھو کر وضو کر کے
 سو جائے
 حدیث نمبر: 969

ترجمہ:

(970) (سیدنا عبداللہ بن قیس^{رض} فرماتے ہیں کہ میں نے سیدہ
 عائشہ^{رض} سے سوال کیا کہ رسول اللہ ﷺ جنابت میں کیسے کرتے
 تھے، کیا آپ ﷺ سونے سے پہلے غسل کرتے تھے یا غسل
 کرنے سے پہلے سو جاتے تھے؟ فرماتی ہیں: آپ دونوں

طرح کرتے تھے بعض اوقات آپ ﷺ نے غسل کیا پھر سو گئے اور بعض اوقات آپ ﷺ نے وضو کیا پھر سو گئے، میں نے کہا: سب تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے معاملے میں وسعت رکھی ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: If the person who is junub wants to sleep, he should wash his private parts and perform ablution and then sleep

Hadith number: 969

Translation:

(969) Abdullah ibn Qays (may Allah be pleased with him) said: I asked Ayesha (may Allah be pleased with her) what did the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) do when he was junub. She said: He used to do both. Sometimes he did ghusl then he fell asleep and sometimes he did ablution then he fell asleep. I said: All

Praise be to Allah Who made this matter accommodative.

[Sahih. Narrated by Muslim 307 and Nasai 404 and Abu Dawud 1437 and Tirmidhi 2924]

Sunan Kubra Bayhaqi 970

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَدْلُ (٩٧١)
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمُزَكِّي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
عُمَرَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَطْعَمَ أَوْ يَنَامَ وَهُوَ جُنْبٌ غَسَلَ وَجْهَهُ
وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ طَعِمَ أَوْ نَامَ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاكى كا بيان

باب: جنبى سونا چاہے تو آدھا وضو كر كے سو جائے

حدیث نمبر: 970

:ترجمہ

(971) (سیدنا عبداللہ بن عمرؓ اگر حالت جنابت میں کھانے یا سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنا چہرہ اور ہاتھ کہنیوں تک دھو لیتے اور اپنے سر کا مسح کر لیتے پھر کھاتے یا سو جاتے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: If a person is junub and wants to sleep, he should perform half ablution and go to sleep

Hadith number: 970

Translation:

(970) If Abdullah ibn Umar (may Allah be pleased with him) intended to eat or sleep in the state of major impurity, he would wash his face and hands up to the elbows, wipe his head and then eat or sleep.

[Sahih. Narrated by Malik 2/78]

Sunan Kubra Bayhaqi 971

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (٩٧٢)
الْمُرَكِّي حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ
بْنُ بَشِيرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ
ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ عُمَرَ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ

فَقَالَ: بَلْ يَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ ((نَعَمْ لِيَتَوَضَّأُ ثُمَّ -
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا َلَيْنَمَ حَتَّى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاءَ)) (- قَالَ: وَكَانَ
أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ صَبَّ عَلَى يَدَيْهِ مَاءٌ ثُمَّ غَسَلَ فَرْجَهُ
بِيَدِهِ الشِّمَالِ ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الَّتِي غَسَلَ بِهَا فَرْجَهُ، ثُمَّ
تَمَضَّمَضَ وَاسْتَنَشَقَ، وَنَضَحَ فِي عَيْنَيْهِ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ
إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ نَامَ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَطْعَمَ شَيْئًا
وَهُوَ جُنُبٌ فَعَلَ ذَلِكَ- أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ دُونَ
فِعْلِ ابْنِ عُمَرَ-

وَفِعْلُ ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ الرَّاَوِي لِلْخَبْرِ قَدْ يُشْبَهُ أَنْ يَكُونَ تَفْسِيرًا
لِلْوُضُوءِ الْمَذْكُورِ فِي الْخَبْرِ إِلَّا أَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَدْ
رَوَتْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - أَنَّهُ تَوَضَّأَ وَضُوءٌ هُ لِلصَّلَاةِ ، وَوُضُوءٌ
الصَّلَاةِ يَشْتَمِلُ عَلَى غَسْلِ الرَّجْلَيْنِ مَعَ سَائِرِ الْأَعْضَاءِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ-
أَعْلَمُ- وَالَّذِي رَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - قَامَ مِنَ اللَّيْلِ
فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ نَامَ لَيْسَ يُرِيدُ بِهِ
الْوُطْئَ، وَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ الْحَدَثَ، وَسِيَاقُ الْحَدِيثِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
وَقَدْ مَضَى ذِكْرُهُ ، وَسَيَأْتِي تَمَامُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
کتاب: پاکی کا بیان

باب: جنبی سونا چاہے تو آدھا وضو کر کے سو جائے

حدیث نمبر: 971

ترجمہ:

(۹۷۲) (سیدنا ابن عمر^{رض} سے روایت ہے کہ سیدنا عمر^{رض} نے نبی^{صلی اللہ علیہ وسلم} سے پوچھا: کیا حالتِ جنابت میں ہم میں سے کوئی سو سکتا سکتا ہے؟ آپ^{صلی اللہ علیہ وسلم} نے فرمایا: "ہاں وضو کرے پھر سو جائے جب چاہے۔" جب عبداللہ بن عمر^{رض} حالتِ جنابت میں سونے کا ارادہ کرتے تو اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالتے، پھر اپنی شرمگاہ کو بائیں ہاتھ سے دھوتے، پھر اس ہاتھ کو دھوتے جس سے شرمگاہ دھوئی تھی، پھر کلی کرتے اور ناک میں پانی چڑھاتے اور اپنی آنکھوں میں چھینٹے مارتے اور اپنا چہرہ، اور ہاتھ کہنیوں سمیت دھوتے اور اپنے سر کا مسح کرتے پھر سو جاتے۔ اگر حالتِ جنابت میں کوئی چیز کھانے کا ارادہ کرتے تو اسی طرح کرتے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: If a person is junub and wants to sleep, he should perform half ablution and go to sleep

Hadith number: 971

Translation:

(971) It is narrated on the authority of Ibn Umar (may Allah be pleased with him) that Umar (may Allah be pleased with him) asked the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him): Can any of us sleep in the state of major impurity? The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: “Yes, he should perform ablution and then go to sleep whenever he wants.” When Abdullah ibn Umar (may Allah be pleased with him) intended to sleep in a state of major impurity, he would pour water on his hands, then wash his private parts with his left hand, then wash the hand that he washed his private parts with, then he would rinse his mouth and put water in his nose and sprinkle water in his eyes and wash his face and hands including the elbows and wipe his head, then go to sleep. If he intended to eat something in the state of

major impurity, he would do the same.
[Sahih. Narrated by AbdulRazzaq 1077]

Sunan Kubra Bayhaqi 972

Arabic Text:

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ :عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ إِمْلَأْ وَقِرَائَةَ (٩٧٣)
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ :أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ الْبَصْرِيُّ بِمَكَّةَ
حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ :الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا
يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ
مُذْرِكٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُجَيْيٍّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ

سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (-): لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا جُنُبٌ وَلَا كَلْبٌ (-).

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاکی کا بیان

باب: جنبی آدمی کا بغیر وضو سونا مکروہ ہے

حدیث نمبر: 972

:ترجمہ

"(973:) (سیدنا علیؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں تصویر، جنبی " یا کتا ہو۔"

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: It is makruh (disliked) for a person who is junub to sleep without performing ablution

Hadith number: 972

Translation:

(972) Ali (may Allah be pleased with him) says that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: "Angels do not enter a house in which there is a picture, a person who is junub or a dog."

[Daif (Weak). Narrated by Nasai 262, 4286 and Abu Dawud 227 and Ibn Majah 3650 and Ahmad 1/83, 104 and Darimi 4152]

Sunan Kubra Bayhaqi 973

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورِكَ أَخْبَرَنَا (٩٧٤)
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ - كَانَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ وَلَا يَمَسُّ مَاءً -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: جنبی کے بغیر وضو و غسل کے سوجانے کا بیان
حدیث نمبر: 973

:ترجمہ

(٩٧٤) (سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ) بعض اوقات (آپ ﷺ) حالت جنابت میں سو جاتے تھے اور پانی نہیں چھوتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on a person who is junub

sleeping without performing ablution or ghusl
Hadith number: 973

Translation:

(973) It is narrated from Ayesha (may Allah be pleased with her) that (sometimes) the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) would fall asleep in the state of major impurity without touching water.
[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 974

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ (٩٧٥)
 أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا
 أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ
 بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُبَيْرُ قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ
 بْنُ إِسْحَاقَ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِلْحَانَ
 حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُبَيْرُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَأَلْتُ
 الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ وَكَانَ لِي جَارًا وَصَدِيقًا عَمَّا حَدَّثَنِي عَائِشَةُ
 عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - قَالَتْ: كَانَ يَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَيُحْيِي
 آخِرَهُ، ثُمَّ إِنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى أَبِيهِ حَاجَةٌ قَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَنَامُ
 قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ مَاءً، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ النَّدَائِ الْأَوَّلِ قَالَتْ وَتَبَّ، فَلَا
 وَاللَّهِ مَا قَالَتْ قَامَ وَأَخَذَ الْمَاءَ، وَلَا وَاللَّهِ مَا قَالَتْ اغْتَسَلَ وَأَنَا أَعْلَمُ
 مَا تُرِيدُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَاجَةٌ تَوْضًا وَضُوءًا الرَّجُلِ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ
 صَلَّى الرَّكْعَتَيْنِ -

أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَأَحْمَدَ بْنَ
 يُونُسَ دُونَ قَوْلِهِ: قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ مَاءً - وَذَلِكَ لِأَنَّ الْحَفَاطَ طَعَنُوا
 فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ وَتَوَهَّمُوا مَأْخُودَةً عَنْ غَيْرِ الْأَسْوَدِ وَأَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ
 رُبَّمَا دَلَسَ فَرَأَوْهَا مِنْ تَدْلِيسَاتِهِ وَاحْتَجُّوا عَلَى ذَلِكَ بِرِوَايَةِ
 إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنِ الْأَسْوَدِ بِخِلَافِ
 رِوَايَةِ أَبِي إِسْحَاقَ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: جنبی کے بغیر وضو و غسل کے سوجانے کا بیان

حدیث نمبر: 974

ترجمہ:

(۹۷۵) (سیدہ عائشہ^{رض} فرماتی ہیں کہ آپ ﷺ رات کے اول حصے میں سو جاتے اور رات کے آخری حصے میں بیدار ہو جاتے، پھر اگر آپ ﷺ کو اپنی بیوی کے ساتھ کوئی حاجت ہوتی تو، اس کو پورا کرتے، پھر پانی چھونے سے پہلے سو جاتے! جب پہلی اذان ہوتی تو آپ ﷺ فوراً کھڑے ہوتے۔ اللہ کی قسم عائشہ^{رض} نے نہیں کہا کہ آپ ﷺ کھڑے ہوئے اور پانی لیا اور اللہ کی قسم! عائشہ^{رض} نے نہیں کہا کہ آپ ﷺ نے غسل کیا اور میں جانتا ہوں کہ عائشہ^{رض} کی کیا مراد تھی، اگر آپ ﷺ کو کوئی حاجت نہ ہوتی تو نماز کی طرح وضو کرتے، پھر دو رکعتیں ادا کرتے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on a person who is junub

sleeping without performing ablution or ghusl
Hadith number: 974

Translation:

(974) Syeda Ayesha (may Allah be pleased with her) says that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) would fall asleep in the first part of the night and wake up in the last part of the night. Then if he had any need from his wife, he would fulfill it, then he would fall asleep before touching water. When the first call to prayer would be made, he would immediately get up. By Allah!

Ayesha (may Allah be pleased with her) did not say that he stood up and took water and by Allah! Ayesha (may Allah be pleased with her) did not say that he performed ghusl and I know what Ayesha (may Allah be pleased with her) meant. If he (peace and blessings of Allah be upon him) had no need (from his wife), he would perform ablution like the one done for prayer, then perform two rak'ats.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 975

Arabic Text:

أَمَّا حَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ فَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورِكَ أَخْبَرَنَا (٩٧٤)
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنِ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ
كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - إِذَا كَانَ جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَنَامَ أَوْ يَأْكُلَ
تَوَضَّأَ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ أَوْجِهِ عَنِ شُعْبَةَ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاكى كا بيان

باب: جنبى كے بغیر وضو و غسل كے سوجانے كا بيان

حدیث نمبر: 975

:ترجمہ

(975) سیدہ عائشہ ^{رض} فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ^{صلی اللہ علیہ وسلم} جب حالت جنابت میں ہوتے اور آپ ^{صلی اللہ علیہ وسلم} سونے یا کھانے کا ارادہ رکھتے تو وضو کرتے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on a person who is junub sleeping without performing ablution or ghusl

Hadith number: 975

Translation:

(975) Ayesha (may Allah be pleased with her) says that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) used to

perform ablution when he was in a state of major impurity and he intended to sleep or eat.
[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 976

Arabic Text:

وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ فَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (٩٧٧)
الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنِ
ابْنِ إِسْحَاقَ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ
عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَ وَضُوءُ النَّبِيِّ ﷺ - إِذَا أَرَادَ أَنْ

يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ؟ فَقَالَتْ: كَانَ يَتَوَضَّأُ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَنَامُ.
 قَالَ الشَّيْخُ: وَحَدِيثُ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبَّيْعِيِّ صَحِيحٌ مِنْ جِهَةِ
 الرَّوَايَةِ وَذَلِكَ أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ بَيَّنَّ فِيهِ سَمَاعَهُ مِنَ الْأَسْوَدِ فِي
 رَوَايَةِ زُبَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْهُ وَالْمُدَلِّسُ إِذَا بَيَّنَّ سَمَاعَهُ مِنْ رَوَى
 عَنْهُ وَكَانَ ثِقَةً فَلَا وَجْهَ لِرَدِّهِ. وَوَجْهَ الْجَمْعِ بَيْنَ الرَّوَايَتَيْنِ عَلَى
 وَجْهِ يُحْتَمَلُ، وَقَدْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ سُرَيْجٍ فَأَحْسَنَ
 الْجَمْعَ وَذَلِكَ فِيمَا-

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْوَلِيدِ الْفَقِيهَ فَقُلْتُ
 أَيُّهَا الْأُسْتَاذُ قَدْ صَحَّ عِنْدَنَا حَدِيثُ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ:
 الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ -كَانَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ وَلَا يَمَسُّ
 مَاءً-

وَكَذَلِكَ صَحَّ حَدِيثُ نَافِعٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ
 عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَ ((نَعَمْ إِذَا
 تَوَضَّأَ))-

فَقَالَ لِي أَبُو الْوَلِيدِ: سَأَلْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ بْنَ سُرَيْجٍ عَنِ الْحَدِيثَيْنِ
 فَقَالَ: الْحُكْمُ لِهُمَا جَمِيعًا، أَمَّا حَدِيثُ عَائِشَةَ فَإِنَّمَا أَرَادَتْ أَنَّ
 النَّبِيَّ ﷺ -كَانَ لَا يَمَسُّ مَاءً لِلْغُسْلِ، وَأَمَّا حَدِيثُ عُمَرَ فَمُفَسَّرٌ
 ذَكَرَ فِيهِ الْوُضُوءُ وَبِهِ نَأْخُذُ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: جنبی کے بغیر وضو و غسل کے سوجانے کا بیان

حدیث نمبر: 976

ترجمہ:

(الف) (۹۷۷) (عبد الرحمن بن اسود کے باپ کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا: نبی ﷺ کا وضو کیسے تھا جب آپ آپ حالت جنابت میں سونے کا ارادہ کرتے؟ فرماتی ہیں کہ آپ نماز جیسا وضو کرتے تھے، پھر سو جاتے تھے۔

(ج) (سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ ﷺ حالت جنابت میں سو جاتے تھے اور پانی کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔

(د) (ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا ہم میں سے کوئی حالت جنابت میں سو سکتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "ہاں وضو کر کے سو سکتا ہے۔"

(ر) (شیخ کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو ولید نے بیان کیا۔ میں نے ابوالعباس بن سریج سے ان دونوں حدیثوں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا: دونوں روایات کا ایک ہی حکم ہے۔ حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا میں ان کی مراد یہ تھی کہ نبی ﷺ غسل کے لیے پانی کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ حدیث

عمر مفسر ہے جس میں وضو کا ذکر ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on a person who is junub sleeping without performing ablution or ghusl

Hadith number: 976

Translation:

(976) (a) Abd al-Rahman ibn Aswad's father says: I asked Ayesha (may Allah be pleased with her): How was the ablution of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) when he intended to go to bed in a state of major impurity? She says that he used to perform ablution like the one done for prayers and then fall asleep.

(B) Syeda Ayesha (may Allah be pleased with her) says that the Prophet (peace and

blessings of Allah be upon him) used to sleep in the state of major impurity and would not touch water.

(C) It is narrated on the authority of Ibn Umar (may Allah be pleased with him) that Umar (may Allah be pleased with him) said: O Messenger of Allah! Can any of us sleep in a state of major impurity? He said: "Yes, he can sleep after performing ablution."

(D) Sheikh says that Abu Waleed told me. When I asked Abu al-Abbas ibn Sarij about these two hadiths, he said: Both narrations have the same ruling. In the hadith of Ayesha (may Allah be pleased with her), she meant that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) did not touch water for performing ghusl. The hadith of Umar (may Allah be pleased with him) is explained which mentions ablution and we follow it.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 977

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ (٩٧٨)
يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ. قَالَ وَأَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيٍّ: الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ
وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ وَوَكَيْعٌ وَغُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - إِذَا كَانَ
جُنُبًا فَأَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ تَوَضَّأَ.
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى
كتاب: پاكى كا بيان
باب: جنبى جب كهانے كا اراده كرے
حدیث نمبر: 977

ترجمہ:

(978) سیدہ عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب حالت جنابت میں ہوتے اور آپ کھانے یا سونے کا ارادہ کرتے تو وضو کر لیتے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: When a person who is junub intends to eat

Hadith number: 977

Translation:

(977) Ayesha (may Allah be pleased with her) said: The Messenger of Allah (peace and

blessings of Allah be upon him) used to perform ablution when he was in a state of major impurity and he intended to eat or sleep. [Sahih. Narrated by Muslim 305 and Nasai 256 and Abu Dawud 224 and Ibn Majah 591 and Ahmad 6/126, 143, 191, 192, 235, 260, 273 and Darimi 784, 2123]

Sunan Kubra Bayhaqi 978

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَبُو زَيْدِيُّ (٩٧٩)
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّفَّارِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ
جُنُبٌ غَسَلَ يَدَهُ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: جنبی جب کھانے کا ارادہ کرے
حدیث نمبر: 978

ترجمہ:

(979) (سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی ﷺ جب حالت جنابت میں کھانے کا ارادہ کرتے تو اپنے ہاتھ دھوتے۔)

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: When a person who is junub intends

to eat

Hadith number: 978

Translation:

(978) It is narrated from Ayesha (may Allah be pleased with her) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) used to wash his hands when he intended to eat in the state of major impurity.

[Sahih. Narrated by Abu Dawud 223]

Sunan Kubra Bayhaqi 979

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوَدْبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ (٩٨٠)
... دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبِرَّازُ

فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَقَالَ : غَسَلَ يَدَيْهِ-

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ فَجَعَلَ قِصَّةَ الْأَكْلِ قَوْلَ
عَائِشَةَ مَقْصُورًا-

قَالَ الشَّيْخُ : وَكَذَلِكَ رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب : پاکی کا بیان

باب : جنبی جب کھانے کا ارادہ کرے

حدیث نمبر : 979

:ترجمہ

(٩٨٠) (الف) محمد بن صباح بزاز اسی سند سے بیان کرتے

ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھوں کو دھوتے-

(ب) امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ ابن وہب نے یہ روایت

یونس سے نقل کی ہے جس میں ہے کہ کھانے کا ذکر سیدہ

عائشہؓ کا فرمان ہے-

(ج) (شیخ کہتے ہیں کہ یہ روایت لیث بن سعد نے زہری

سے بیان کی ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: When a person who is junub intends to eat

Hadith number: 979

Translation:

(979) (a) Muhammad ibn Sabah Bazaz narrates with the same sanad and says that he would wash his hands.

(B) Imam Abu Dawud (may Allah have mercy on him) says that Ibn Wahb has narrated this narration from Yunus in which it is said that the mention of eating is the saying of Ayesha (may Allah be pleased with her).

(C) Sheikh says that this narration has been narrated by Layth bin Saad from Zuhri (may

Allah have mercy on them).

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 980

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ (٩٨١)
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْبِ الرَّمْلِيِّ
: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ
وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ -
قَالَتْ عَائِشَةُ : وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثُمَّ
يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ إِنْ شَاءَ -

وَقَدْ قِيلَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرُ هَذَا وَحَدِيثُ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ
أَصَحُّ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: جنبی جب کھانے کا ارادہ کرے
حدیث نمبر: 980

:ترجمہ

(۹۸۱) (سیدہ عائشہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب حالت جنابت میں سونے کا ارادہ فرماتے تو سونے سے پہلے نماز جیسا وضو کرتے اور جب آپ کھانے یا پینے کا ارادہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کو دھوتے، پھر کھاتے اور اگر چاہتے تو پیتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: When a person who is junub intends to eat

Hadith number: 980

Translation:

(980) It is narrated from Ayesha (may Allah be pleased with her) that when the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) intended to go to bed in a state of major impurity, he would perform ablution like the one done for prayers before going to bed, and when he intended to eat or drink, he would wash his hands, then ate and drank if he wished.

[Sahih. Narrated by Ahmad 6/118]

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا الْأُسْتَاذُ أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورِكَ (٩٨٢)
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو
دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَطَائِ الْخُرَّاسَانِيِّ
عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ : قَدِمْتُ عَلَى أَبِي
مِنْ سَفَرٍ فَضَمَّخُونِي بِالزَّعْفَرَانِ ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ - فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يُرَحِّبْ بِي ، وَلَمْ يَبِشَّ بِي وَقَالَ : اذْهَبْ -
فَاغْسِلْ بِذَا عَنكَ . فَغَسَلْتُهُ عَنِّي فَجِئْتُهُ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيَّ مِنْهُ شَيْءٌ
فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَلَمْ يُرَحِّبْ بِي وَلَمْ يَبِشَّ بِي وَقَالَ ((: اذْهَبْ ،
فَاغْسِلْ بِذَا عَنكَ)) . (فَغَسَلْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ
فَرَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ وَرَحَّبَ بِي فَقَالَ ((: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَحْضُرُ
جَنَازَةَ كَافِرٍ بِخَيْرٍ وَلَا الْمُتَضَمِّخَ بِالزَّعْفَرَانِ وَلَا الْجُنُبَ)) .
وَرَحَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَنَامَ أَنْ يَتَوَضَّأَ .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان

باب: جنبی جب کھانے کا ارادہ کرے

حدیث نمبر: 981

ترجمہ:

(۹۸۲) (سیدنا عمار بن یاسرؓ فرماتے ہیں کہ میں سفر سے اپنے گھر والوں کے پاس آیا تو انہوں نے مجھے زعفران لگا دی جب میں نے صبح کی تو میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا، میں آپ کو سلام کیا تو آپ ﷺ نے مجھے مرحبا نہیں کہا اور نہ آپ میرے ساتھ خوش ہوئے اور فرمایا: جا اس کو اپنے آپ سے دھو دے، میں نے اپنے سے اس کو دھویا اور اس کا کچھ نشان باقی تھا۔ میں نے آپ کو سلام کیا، لیکن آپ نے مجھے مرحبا نہیں کہا اور نہ آپ میرے ساتھ خوش ہوئے اور فرمایا: جا اس کو اپنے سے دھو دے۔ میں نے پھر اپنے سے اس کو دھویا پھر میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا، میں آپ کو سلام کیا آپ نے میرے سلام کا جواب دیا اور مجھے مرحبا کہا۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا " فرشتے بھلائی کے ساتھ کافر کے جنازے میں حاضر نہیں ہوتے اور نہ ہی اس کے پاس جس کو زعفران لگی ہو اور نہ جنبی کے پاس اور آپ ﷺ نے جنبی کو یہ رخصت دی ہے کہ جب کھانے یا سونے کا ارادہ کرے تو وضو کر لے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: When a person who is junub intends to eat

Hadith number: 981

Translation:

(981) Ammar ibn Yasir (may Allah be pleased with him) said: I came to my family on a journey and they applied saffron on me. When I got up in the morning I came to the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him). When I greeted him, he did not greet me back and he was not happy with me and said: Go wash it off yourself, I washed it off and some traces of it remained. I greeted him, but he did not greet me back and he was not happy with me and said: Go wash it off yourself. I then washed it off again, then I came to the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him), I greeted him, he responded to my greeting

and greeted me. Then he said: The angels do not attend the funeral of a disbeliever with kindness, nor the one who has saffron on him, nor the person who is junub, and he gave the person who is junub the permission to perform ablution when he intends to eat or sleep.

[Hasan (Fair). Narrated by Abu Dawud 4176 and Ahmad 4/320]

Sunan Kubra Bayhaqi 982

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذِبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ (٩٨٣)
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السَّجِسْتَانِيُّ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا
حَمَّادٌ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - رَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا أَكَلَ أَوْ
شَرِبَ أَوْ نَامَ أَنْ يَتَوَضَّأَ. وَلَمْ يَذْكُرِ الْقِصَّةَ.
وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: بَيْنَ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ فِي هَذَا
الْحَدِيثِ رَجُلٌ.
قَالَ وَقَالَ عَلِيُّ وَابْنُ عُمَرَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو: الْجُنُبُ إِذَا أَرَادَ
أَنْ يَأْكُلَ تَوَضَّأَ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
کتاب: پاکی کا بیان

باب: جنبی جب کھانے کا ارادہ کرے

حدیث نمبر: 982

ترجمہ:

(۹۸۳) حماد نے اسی سند سے بیان کیا ہے کہ نبی ﷺ نے جنبی کو رخصت دی ہے کہ جب وہ کھائے یا پیے یا سوئے تو وضو وضو کرے اور قصہ ذکر نہیں کیا۔

ب (امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن یعمر اور عمار بن یاسر کے درمیان ایک اور شخص ہے۔

ج (علی، ابن عمر اور عبداللہ بن عمروؓ فرماتے ہیں کہ جنبی جب کھانے کا ارادہ کرے تو وضو کر لے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: When a person who is junub intends to eat

Hadith number: 982

Translation:

(982) Hammad has narrated from the same chain of transmission that the Prophet

(peace and blessings of Allah be upon him) allowed the person who is junub to perform ablution when he ate or drank or slept and did not narrate the story.

(B) Imam Abu Dawud (may Allah have mercy on him) says that there is another person between Yahya bin Umar and Ammar bin Yasir (may Allah be pleased with him).

(C) Ali, Ibn Umar and Abdullah ibn Amr (may Allah be pleased with them) say that the person who is junub should perform ablution when he intends to eat.

[Hasan (Fair)]

Sunan Kubra Bayhaqi 983

Arabic Text:

: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (٩٨٤)
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّائِيُّ أَخْبَرَنَا
مُحَاضِرٌ حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْأَخْوَلُ
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَعْبِيُّ وَاللَّفْظُ (ح)
لَهُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا
حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَيْلُهُ مِنَ اللَّيْلِ ثُمَّ أَرَادَ
أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وَضُوءًا))
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: جنبی دوبارہ (بیوی کے پاس (جانے کا ارادہ کرے

حدیث نمبر: 983

ترجمہ:

(۹۸۴) (سیدنا ابوسعیدؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " جب کوئی شخص رات کو اپنی بیوی کے پاس آئے " پھر دوبارہ آنے کا ارادہ کرے تو وہ وضو کر لے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: When a person who is junub intends to go back (to his wife)

Hadith number: 983

Translation:

(983) It is narrated on the authority of Abu Saeed (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: "When a man

comes to his wife at night (and has sexual intercourse) and then intends to go back to her (to do it again), he should perform ablution (in between)."

[Sahih. Narrated by Muslim 308 and Nasai 263 and Abu Dawud 220 and Tirmidhi 141 and Ibn Majah 587 and Ahmad 3/7, 21, 28]

Sunan Kubra Bayhaqi 984

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ (٩٨٥)
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي

سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - قَالَ ((إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ الْعَوْدَ
فَلْيَتَوَضَّأْ فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ)) -
وَرَوَيْنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : أَنَّهُ أَمَرَ بِالْوُضُوءِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: جنبی دوبارہ (بیوی کے پاس (جانے کا ارادہ کرے
حدیث نمبر: 984

ترجمہ:

(۹۸۵) (الف) (سیدنا ابو سعید خدری^{رض} سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: جب تم سے کوئی دوبارہ (اپنی بیوی کے پاس (آنے کا ارادہ کرے تو وہ وضو کر لے، یہ دوبارہ لوٹنے کے لیے زیادہ چستی کا سبب ہے۔
(ب) (عمر بن خطاب^{رض} سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے وضو کا حکم دیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: When a person who is junub intends to go back (to his wife)

Hadith number: 984

Translation:

(984) (a) It is narrated on the authority of Abu Saeed Al-Khudri (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: When one of you intends to go (to his wife to have intercourse) again, he should perform ablution, this makes him more active when he returns.

(B) It is narrated from Umar ibn al-Khattab (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) ordered (performing) ablution. [Sahih. Narrated by Ibn Hibban 1211]

Sunan Kubra Bayhaqi 985

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ (٩٨٦)
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي شُعَيْبٍ
الْحَرَّانِيُّ أَخْبَرَنَا أَبِي أَخْبَرَنَا مَسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ شُعْبَةَ
عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ -كَانَ يَطُوفُ عَلَى
نِسَائِهِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ-
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي شُعَيْبٍ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: متعدد بیویوں یا باندیوں سے جماع کے بعد ایک بار غسل کافی ہے

حدیث نمبر: 985

ترجمہ:

(985) سیدنا انسؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ ایک غسل سے اپنی بیویوں کے پاس جاتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Performing ghusl once after having intercourse with several wives or captives is sufficient

Hadith number: 985

Translation:

(985) It is narrated from Anas (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) used to go around all his wives and perform ghusl

once.

[Sahih. Narrated by Nasai 264 and Abu Dawud 218]

Sunan Kubra Bayhaqi 986

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ أَخْبَرَنَا أَبُو (٩٨٧)
حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيَى بْنِ بِلَالٍ سَنَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ
وَتِلَاثِمِائَةٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا
إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عَلِيَّةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - طَافَ
عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ بِغُسْلِ وَاحِدٍ -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: متعدد بیویوں یا باندیوں سے جماع کے بعد ایک بار غسل

کافی ہے

حدیث نمبر: 986

:ترجمہ

(986) (سیدنا انس^{رض} سے روایت ہے کہ نبی ﷺ ایک رات میں

ایک غسل سے کئی بیویوں کے پاس گئے۔

English Translation:.

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Performing ghusl once after having intercourse with several wives or captives is sufficient

Hadith number: 986

Translation:

(986) It is narrated on the authority of Anas (may Allah be pleased with him) that the

Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) visited several wives in one night with on ghusl.

[Sahih. Narrated by Nasai 264 and Abu Dawud 218]

Sunan Kubra Bayhaqi 987

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ (٩٨٨)
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو زَكْرِيَّا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ.
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذُبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا
أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَمَّتِهِ سَلْمَى عَنْ أَبِي رَافِعٍ : أَنَّ النَّبِيَّ -
 طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ عِنْدَ بَدِهِ وَعِنْدَ بَدِهِ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِدًا؟ قَالَ: ((بَدَا أَرْكَى وَأَطْيَبُ
 وَأَطْهَرُ)) -

قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَحَدِيثُ أَنَسٍ أَصَحُّ مِنْ هَذَا. وَفِي رِوَايَةِ أَبِي
 زَكْرِيَّا السَّيْلَحِيِّ : طَافَ عَلَى نِسَائِهِ أَجْمَعَ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةً
 يَغْتَسِلُ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ غُسْلًا فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَهَلَّا
 غُسْلًا وَاحِدًا؟ قَالَ : بَدَا أَطْيَبُ وَأَرْكَى -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: ہر بیوی کے لیے ایک غسل کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 987

:ترجمہ

(۹۸۸) (سیدنا ابو رافع سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ایک دن
 اپنی بیویوں کے پاس گئے، اس کے پاس غسل کیا اور اس کے
 :پاس غسل کیا) یعنی ہر بیوی کے پاس غسل کیا (میں نے کہا
 اے اللہ کے رسول! آپ نے ایک غسل کیوں نہیں کیا؟ آپ نے
 فرمایا " :یہ زیادہ پاکیزہ اور اچھا اور پاکی کا

" باعث ہے۔"

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on performing ghusl for each wife

Hadith number: 987

Translation:

(987) It is narrated on the authority of Abu Rafi (may Allah be pleased with him) that one day the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) went to his wives, performed ghusl with them (i.e performed ghusl with each wife).

I said: O Messenger of Allah! Why didn't you perform ghusl only once? He said: "It is more pure and good and the cause of purity."

[Hasan (Fair). Narrated by Abu Dawud 219 and Ibn Majah 590 and Ahmad 6/8, 9, 391]

Sunan Kubra Bayhaqi 988

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا (٩٨٩)
أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى
بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ (ح)
إِمْلَاءً حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خَزِيمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ
مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا
قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا
بِالْبَيْدَاءِ أَوْ بِذَاتِ الْجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدُ لِي ، فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -
عَلَى التَّمَاسِيهِ ، وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَائٍ ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ
مَائٌ ، فَاتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي

بَكْرٍ فَقَالُوا أَلَا تَرَى مَا صَنَعْتَ عَائِشَةُ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ -
 بِالنَّاسِ مَعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى مَائٍ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَائٌ فَجَاءَ أَبُو
 بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ - وَاضِعُ رَأْسَهُ
 عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ فَقَالَ : حَبَسَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - وَالنَّاسَ وَلَيْسُوا
 عَلَى مَائٍ ، وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَائٌ - قَالَتْ : فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ
 مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ، وَجَعَلَ يَطْعَنُ بِيَدِهِ عَلَى خَاصِرَتِي ، فَمَا
 يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - عَلَى فَخِذِي ، فَنَامَ
 فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - حَتَّى أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَائٍ
 وَجَلَّ آيَةَ النَّيِّمِ فَتَيَمَّمُوا - فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ ، وَهُوَ أَحَدُ
 : النَّقَبَائِي : مَا بِي بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ - قَالَتْ عَائِشَةُ
 فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتَ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ - لَفْظُ حَدِيثِ
 الْقَعْنَبِيِّ

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ وَغَيْرِهِ عَنْ
 مَالِكٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: تیمم کی رخصت کا سبب نزول
 حدیث نمبر: 988

:ترجمہ

(۹۸۹) سیدہ عائشہؓ سے روایت ہے کہ ہم کسی سفر میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نکلے یہاں تک کہ ہم بیداء یا ذات الجیش جگہ پر پہنچے تو میرا ہار گم ہو گیا، اس کی تلاش میں رسول اللہ ﷺ نے قیام کیا اور لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ قیام کیا اور وہاں پانی نہیں تھا اور نہ ان کے پاس پانی تھا، لوگ سیدنا ابوبکرؓ کے پاس آئے اور عرض کیا: آپ نہیں دیکھتے کہ عائشہؓ نے کیا کیا؟ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو اور لوگوں کے ٹھہرا دیا اور وہ پانی) کے چشمہ وغیرہ (پر نہیں تھے اور ان کے پاس بھی پانی نہیں تھا۔ ابوبکر صدیقؓ آئے اور رسول اللہ ﷺ میرے ران پر اپنا سر رکھے ہوئے تھے، آپ سوئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا: تو نے رسول اللہ ﷺ اور لوگوں کو روک دیا ہے اور وہ پانی پر نہیں تھے اور ان کے پاس بھی پانی نہیں تھا، فرماتی ہیں کہ ابوبکر صدیقؓ نے مجھے ڈانٹا جو اللہ نے چاہا کہا اور وہ میری کھوکھ میں اپنے ہاتھ سے چوکا مارتے تھے اور میں اس وجہ سے حرکت نہیں کرتی تھی کہ رسول اللہ ﷺ اپنا سر میری ران پر رکھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ ﷺ سو گئے یہاں تک کہ لوگوں نے بغیر پانی کے صبح کی۔ اللہ نے تیمم کی آیت نازل کر دی، انہوں نے تیمم کیا۔ اسید بن حضیرؓ جو نقیبوں میں سے تھے فرمانے لگے: اے آل ابوبکر! یہ تمہاری وجہ سے پہلی برکت نہیں ہے۔ عائشہؓ فرماتی

ہیں: ہم نے اونٹ کو اٹھایا جس پر آپ ﷺ تھے تو ہم نے ہار اس کے نیچے پایا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The reason for the leave of tayammum is revelation

Hadith number: 988

Translation:

(988) It is narrated from Ayesha (may Allah be pleased with her) that we set out with the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) a journey till we reached Al- Baida or Dhatul Jayish, a necklace of mine was lost. The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) stayed there to search for it, and so did the people along with him. There was no water at that place nor did they (the people) have water, so the people went to Abu Bakr Siddiq (may Allah be

pleased with him) and said, "Don't you see what Ayesha (may Allah be pleased with her) has done? She has made Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) and the people stay where there is no water and they have no water with them." Abu Bakr came while Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) was sleeping with his head on my thigh, He said, to me: "You have detained the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) and the people where there is no water and they have no water with them. So he admonished me and said what Allah wished him to say and hit me on my flank with his hand. Nothing prevented me from moving (because of pain) but the position of the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) on my thigh. The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) slept and the people woke up from sleep without water. So Allah

revealed the Verses of Tayammum. So they all performed Tayammum. Usaid bin Hudair who was among the Naqibs began to say , "O the family of Abu Bakr! This is not the first blessing of yours." Then the camel on which the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) was riding got up to move from its place and the necklace was found beneath it. [Sahih. Narrated by Bukhari 334, 336, 3672, 3773, 4583, 4607, 5250, 5882, 6844 and Muslim 367 and Nasai 311 and Abu Dawud 317 and Ibn Majah 568 and Malik 2/89 and Ahmad 6/57, 179, 272, 273 and Darimi 773]

Sunan Kubra Bayhaqi 989

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ (٩٩٠)
الْفَقِيهُ وَيَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمُرَكِّي
قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَخْبَرَنَا وَقَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنجِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ
: رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عُمَيْرِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ
أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ - حَتَّى
دَخَلْنَا عَلَى أَبِي الْجُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ فَقَالَ أَبُو الْجُهَيْمِ
، أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - نَحْوَ بئرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ :
فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ، ثُمَّ
رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ -

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ
فَقَالَ وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى
كتاب: پاكى كا بيان
باب: تيمم كا طريقه
حديث نمبر: 989

:ترجمہ

(۹۹۰) ابو جہم کہتے ہیں: رسول اللہ ﷺ جمل کے کنویں کی طرف آئے تو آپ ﷺ کو ایک شخص ملا، اس نے سلام کیا، آپ ﷺ نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا اور آپ ﷺ دیوار کے پاس آئے۔ اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کیا پھر سلام کا جواب دیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Way of (performing) tayammum

Hadith number: 989

Translation:

(989) Abu Jahm says: When the Messenger

of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) came to the well of Jamal, he found a man, he (the man) greeted him, the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) did not respond to his greeting and he went to the wall. He wiped his face and hands and then returned the greeting.

[Sahih. Narrated by Bukhari 337 and Muslim 369 and Nasai 312 and Abu Dawud 329 and Ahmad 4/169]

Sunan Kubra Bayhaqi 990

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ (٩٩١)
الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ : مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ
إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب : پاکی کا بیان
باب : تیمم کا طریقہ
حدیث نمبر : 990

:ترجمہ

(٩٩١) (لیث نے اسی سند سے اور اسی معنی میں بیان کیا ہے
کہ آپ ﷺ نے اپنے چہرے اور بازوؤں کا مسح کیا، پھر اس
کے سلام کا جواب دیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Way of (performing) tayammum

Hadith number: 990

Translation:

(990) Laith narrated from the same chain of transmission and in the same sense that he wiped his face and arms, then responded to his greeting.

[Daif, Munkar (Weak, Odd). Narrated by Al-Daraqutni 1/176]

Sunan Kubra Bayhaqi 991

Arabic Text:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان
باب: تیمم کا طریقہ
حدیث نمبر: 991

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا (٩٩٢)
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ
أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ
عَنِ الْأَعْرَجِ عَنِ ابْنِ الصِّمَّةِ قَالَ: مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -
وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ حَتَّى قَامَ إِلَى جِدَارِ
فَحَتَّهُ بِعَصَا كَانَتْ مَعَهُ ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ
وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيَّ -

وَهَذَا شَاهِدٌ لِرِوَايَةِ أَبِي صَالِحٍ كَاتِبِ اللَّيْثِ إِلَّا أَنَّ هَذَا مُنْقَطِعٌ. (ج)
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بُرْمَزٍ الْأَعْرَجُ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ ابْنِ الصِّمَّةِ إِنَّمَا
سَمِعَهُ مِنْ عُمَيْرِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ الصِّمَّةِ ، وَإِبْرَاهِيمُ
بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَى الْأَسْلَمِيُّ وَأَبُو الْحُوَيْرِثِ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ
بْنُ مُعَاوِيَةَ قَدْ اخْتَلَفَ الْحُفَّاطُ فِي عَدَالَتِهِمَا إِلَّا أَنْ لِرِوَايَتِهِمَا
بِذِكْرِ الذِّرَاعَيْنِ فِيهِ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ. [ضعيف. جدًا
[أخرجه الشافعي ٣١]

:ترجمہ

(۹۹۲) (ابن صمہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس سے گزرا تو آپ ﷺ پیشاب کر رہے تھے۔ میں نے آپ ﷺ کو سلام کیا، آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ پھر آپ دیوار کی طرف کھڑے ہوئے، اس کو لکڑی کے ساتھ کریدا جو آپ کے پاس تھی، پھر اپنے ہاتھ دیوار پر رکھے، اپنے چہرے اور اور بازوؤں کا مسح کیا، پھر سلام کا جواب دیا۔
(ب) (یہ روایت ابو صالح کا تب لیث کی روایت کے لیے شاہد ہے مگر منقطع ہے۔

(ج) (عبدالرحمن بن معاویہ اور ابراہیم بن محمد بن ابو یحییٰ اسلمی ابو حویرث دونوں کے عادل ہونے میں محدثین کا اختلاف ہے؛ کیونکہ ان کی روایات میں کہنیوں کا ذکر ہے اور سیدنا ابن عمرؓ کی حدیث شاہد ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Way of (performing) tayammum

Hadith number: 991

Translation:

(991) It is narrated from Ibn Sama that when I

passed by the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him), he was urinating. I greeted him, he did not respond to my greeting. Then he stood against the wall, rubbed it with the stick he had, then placed his hands on the wall, wiped his face and arms, then answered the greeting.

(B) This narration of Abu Saleh is a witness to the narration of Laith but it is broken.

(C) There is a difference of opinion among the muhaditheen as to whether Abdul Rahman bin Muawiyah and Ibrahim bin Muhammad bin Abu Yahya Aslami Abu Hawarith are both just. Because elbows are mentioned in their narrations and the hadith of Ibn Umar (may Allah be pleased with him) is a witness.

[Daif Jiddan (Very Weak). Narrated by Shafi'i in his Musnad 31]

Sunan Kubra Bayhaqi 992

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ (٩٩٣)
الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتِ الْعَبْدِيُّ وَكَانَ صَدُوقًا وَأَخْبَرَنَا أَبُو
الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِانِ الْأَهْوَازِيِّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ
عُبَيْدِ الصَّفَّارِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَائِمِ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتِ الْعَبْدِيِّ حَدَّثَنَا
 نَافِعٌ قَالَ : انْطَلَقْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي حَاجَةٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَلَمَّا
 أَنَّ قَضَى حَاجَتَهُ كَانَ مِنْ حَدِيثِهِ يَوْمَئِذٍ قَالَ : بَيْنَمَا النَّبِيُّ ﷺ -
 فِي سِكَتٍ مِنْ سِكَكِ الْمَدِينَةِ وَقَدْ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ - مِنْ -
 - رَدَّ عَلَيْهِ ، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَلَمْ ي
 ﷺ - ضَرَبَ بِكَفِّهِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ مَسْحَةً ، ثُمَّ ضَرَبَ بِكَفِّهِ -
 الثَّانِيَةَ فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَقَالَ ((: إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ
 أَرُدَّ عَلَيْكَ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَكُنْ عَلَى وُضُوئٍ أَوْ عَلَى طَهَارَةٍ)) -
 لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ عَبْدِانَ ، وَقَدْ أَنْكَرَ بَعْضُ الْحَفَاطِ رَفَعَ بِذَا
 الْحَدِيثِ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتِ الْعَبْدِيِّ ، فَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ نَافِعٍ
 مِنْ فِعْلِ ابْنِ عُمَرَ ، وَالَّذِي رَوَاهُ غَيْرُهُ عَنْ نَافِعٍ مِنْ فِعْلِ ابْنِ
 عُمَرَ إِنَّمَا هُوَ التَّيْمُمُ فَقَطْ ، فَأَمَّا بِذِهِ الْقِصَّةِ فَهِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -
 مَشْهُورَةٌ بِرِوَايَةِ أَبِي الْجُهَيْمِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ وَغَيْرِهِ -
 وَثَابِتٌ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ
 رَجُلًا مَرَّ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ - يَبُولُ فَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ ، إِلَّا أَنَّهُ
 قَصَرَ بِرِوَايَتِهِ وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ عَنْ نَافِعٍ أْتَمَّ مِنْ ذَلِكَ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

کتاب: پاکی کا بیان
باب: تیمم کا طریقہ
حدیث نمبر: 992

ترجمہ:

(۹۹۳) نافع نے بیان کیا کہ میں ابن عمرؓ کے ساتھ ابن عباس کی طرف کسی کام کے لیے گیا، جب انہوں نے اپنا کام پورا کر لیا تو یہ حدیث بیان کی کہ نبی ﷺ مدینہ کی کسی گلی میں تھے، آپ ﷺ قضائے حاجت یا پیشاب کے لیے نکلے، ایک شخص نے آپ ﷺ کو سلام کیا تو آپ ﷺ نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا، پھر نبی ﷺ نے اپنی ہتھیلیوں کو (زمین پر) مارا، اپنے چہرے کا ایک مرتبہ مسح کیا، پھر دوسری مرتبہ ہتھیلیوں کو مارا اور اپنے بازوؤں کا کہنیوں تک مسح کیا، پھر فرمایا: مجھی کسی نے نہیں روکا تھا کہ میں تیرے سلام کا جواب دیتا، مگر میرا وضو نہیں تھا یا فرمایا: میں پاک نہیں تھا۔

(ب) بعض محدثین نے محمد بن ثابت عبدی پر اس کے مرفوع ہونے کا انکار کیا ہے۔ ایک جماعت کہتی ہے کہ یہ ابن عمرؓ کا فعل ہے اور دوسرے کہتے ہیں کہ ابن عمر کا فعل صرف تیمم ہے۔ یہ واقعہ ابو جہیم بن حارث صمہ وغیرہ بھی نبی ﷺ سے مرفوعاً بیان کرتے ہیں۔

(ج) سیدنا ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی

ﷺ کے پاس سے گزرا اور آپ پیشاب کر رہے تھے۔ مگر یہ روایت مختصر ہے۔ یزید بن ہاد کی روایت مکمل ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Way of (performing) tayammum

Hadith number: 992

Translation:

(992) Nafi narrated that I went to Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) along with Ibn Umar (may Allah be pleased with him) for some work, when he had finished his work, he narrated that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) was in a street in Madinah. He went out to urinate or defecate. A man greeted him, but he did not respond to his greeting. Then the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) struck his palms (on the ground), wiped his face once, then his palms a second time. He

struck him and wiped his arms up to his elbows, then he said: No one stopped me from answering your greetings, but I did not have ablution or he said: I was not pure.

(B) It is narrated from Ibn Umar (may Allah be pleased with him) that a man passed by the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) and he was urinating. But this tradition is short. The tradition of Yazid bin Haad is complete.

[Daif (Weak). Narrated by Abu Dawud 330]

Sunan Kubra Bayhaqi 993

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوَدْبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ (٩٩٤)
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
يَحْيَى يَعْنِي الْبُرُؤْسِيَّ أَخْبَرَنَا حَيَّوَةُ بْنُ شَرِيحٍ عَنِ ابْنِ الْهَادِ أَنَّ
نَافِعًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - مِنْ الْغَائِطِ
فَلَقِيَهِ رَجُلٌ عِنْدَ بئرِ جَمَلٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ -
حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْغَائِطِ ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْغَائِطِ ثُمَّ مَسَحَ
وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - عَلَى الرَّجُلِ السَّلَامَ -

فَهَذِهِ الرَّوَايَةُ شَابِدَةٌ لِرَوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتِ الْعَبْدِيِّ إِلَّا أَنَّهُ
حَفِظَ فِيهَا الذَّرَاعَيْنِ وَلَمْ يُثَبِّتْهَا غَيْرُهُ كَمَا سَاقَ هُوَ وَابْنُ الْهَادِ
الْحَدِيثَ بِذِكْرِ تَيَمُّمِهِ ثُمَّ رَدَّهِ جَوَابَ السَّلَامِ، وَإِنْ كَانَ
الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ قَصَرَ بِهِ، وَفَعَلَ ابْنُ عُمَرَ التَّيَمُّمَ عَلَى
الْوَجْهِ وَالذَّرَاعَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ شَابِدٌ لِصِحَّةِ رَوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ
ثَابِتٍ غَيْرُ مَنْافٍ لَهَا -

وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ
وَأَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَشْنَانِيُّ قَالُوا أَخْبَرَنَا أَبُو
الْحَسَنِ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِوَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ سَعِيدِ
الدَّارِمِيَّ يَقُولُ سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ قُلْتُ: مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ
الْعَبْدِيُّ؟ قَالَ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ - كَذَا قَالَ فِي

رَوَايَةِ الدَّارِمِيِّ عَنْهُ ، وَهُوَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرُ مُسْتَحِقِّ لِلتَّكْبِيرِ
بِالدَّلَائِلِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا ، وَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ عَنِ مُحَمَّدِ
بْنِ ثَابِتٍ مِثْلُ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَمُعَلَّى بْنِ مَنصُورٍ وَسَعِيدِ بْنِ
مَنصُورٍ وَغَيْرِهِمْ وَأَتَنِي عَلَيْهِ مُسْلِمٌ بْنُ إِبرَاهِيمَ وَرَوَاهُ عَنْهُ ، وَهُوَ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَشْهُورٌ۔

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: تیمم کا طریقہ
حدیث نمبر: 993

:ترجمہ

(۹۹۴) (سیدنا ابن عمر^{رض} سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ
قضائے حاجت سے واپس آئے تو جمل کے کنویں کے پاس
ایک شخص نے آپ کو سلام کیا تو آپ ﷺ نے سلام کا جواب
نہیں دیا۔ پھر آپ دیوار کے پاس آئے، آپ نے ہاتھ دیوار پر
رکھا، اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کیا، پھر اس شخص کے
کے سلام کا جواب دیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Way of (performing) tayammum

Hadith number: 993

Translation:

(993) It is narrated on the authority of Ibn Umar (may Allah be pleased with him) that when the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) came back from relieving himself, a person greeted him near the well of Jamal, but he did not respond to the greeting. Then he went to the wall, he put his hand on the wall, wiped his face and hands, then answered the person's greeting.

[Sahih. Narrated by Abu Dawud 331]

Sunan Kubra Bayhaqi 994

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَدْلُ (٩٩٥)
بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمُزَكِّي حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنجِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ
نَافِعِ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ
مِنَ الْجُرْفِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْمَرْبِدِ نَزَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ
فَتَيَمَّمَ صَعِيدًا طَيِّبًا ، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ، ثُمَّ صَلَّى-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان
باب: تیمم کا طریقہ

حدیث نمبر: 994

ترجمہ:

(۹۹۵) عبد اللہ بن عمرؓ کے غلام نافع فرماتے ہیں کہ میں اور عبد اللہ بن عمرؓ جرف سے آئے۔ جب ہم مربد جگہ میں تھے تو سیدنا عبد اللہ بن عمرؓ اترے، پاک مٹی سے تیمم کیا اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کا کہنیوں تک مسح کیا، پھر نماز ادا کی۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Way of (performing) tayammum

Hadith number: 994

Translation:

(994) Abdullah bin Umar's slave Nafi says that I and Abdullah bin Umar (may Allah be pleased with him) came from Jurf. When we reached mirbad, Abdullah bin Umar (may Allah be pleased with him) got down, performed tayammum with pure mud and

wiped his face and hands up to his elbows,
then offered prayers.

[Sahih. Narrated by Malik 2/90]

Sunan Kubra Bayhaqi 995

Arabic Text:

وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ (۹۹۶)
عُمَرَ كَانَ يَتَيَّمُ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان

باب: تیمم کا طریقہ

حدیث نمبر: 995

ترجمہ:

(۹۹۶) نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمرؓ کہنیوں تک مسح کرتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Way of (performing) tayammum

Hadith number: 995

Translation:

(995) It is narrated from Nafi that Abdullah bin Umar (may Allah be pleased with him) used to wipe up to his elbows.

[Sahih. Narrated by Malik 2/91]

Sunan Kubra Bayhaqi 996

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ (٩٩٧)
الْحَافِظُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ
عُمَرَ-

قَالَ وَحَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا بُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَيُونُسُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ
يَقُولُ : التَّيْمُ ضَرْبَتَانِ : ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ ، وَضَرْبَةٌ لِلْكَفَّيْنِ إِلَى
الْمِرْفَقَيْنِ-

، وَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ ظَبْيَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَرَفَعَهُ وَهُوَ خَطَا
وَالصَّوَابُ بِهَذَا اللَّفْظِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفٌ-
وَرَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ عَنْ سَالِمٍ وَنَافِعٍ عَنِ ابْنِ
عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -

وَرَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ التَّيْمِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ

أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

وَسُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ ضَعِيفَانَ لَا يُحْتَجُّ
بِرَوَايَتِهِمَا ، وَالصَّحِيحُ رِوَايَةُ مَعْمَرٍ وَغَيْرِهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ
سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِنْ فِعْلِهِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: تیمم کا طریقہ
حدیث نمبر: 996

:ترجمہ

(: ۹۹۷) ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ تیمم کے لیے دو ضربیں ہیں
ایک ضرب چہرے کے لیے اور ایک ضرب ہتھیلیوں اور
کہنیوں تک کے لیے۔ یہ روایت سیدنا ابن عمرؓ پر موقوف ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Way of (performing) tayammum

Hadith number: 996

Translation:

(996) Ibn Umar (may Allah be pleased with him) says that there are two strikes for tayammum: one strike to the face and one strike to the palms and elbows. This narration is mawquf and is of Ibn Umar (may Allah be pleased with him).

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 997

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمَّشَادٍ الْعَدْلُ (۹۹۸)
 وَأَبُو بَكْرِ بْنُ بَالُوَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ حَدَّثَنَا
 : أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ
 جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ : أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ وَإِنِّي تَمَعَّكْتُ فِي التَّرَابِ -
 فَقَالَ : اضْرِبْ - فَضْرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ ، ثُمَّ ضْرَبَ
 بِيَدَيْهِ فَمَسَحَ بِهِمَا يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ -
 كَذَا قَالَ ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُبَيِّنِ الْأَمْرَ لَهُ بِذَلِكَ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب : پاکی کا بیان
 باب : تیمم کا طریقہ
 حدیث نمبر : 997

: ترجمہ

(۹۹۸) (سیدنا جابر^{رض} فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے آکر عرض
 کیا : میں جنبی ہو گیا تو میں (تیمم کے لیے) مٹی میں لوٹ پوٹ
 ہوا، ابن عمر^{رض} نے فرمایا : تو اپنے ہاتھ مٹی پر مار، اس نے
 اپنے ہاتھ زمین پر مارے اور اپنے چہرے کا

مسح کیا، پھر اپنے ہاتھوں کو (زمین پر) مارا، پھر اپنے ہاتھوں کا کہنیوں تک مسح کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Way of (performing) tayammum

Hadith number: 997

Translation:

(997) Syeduna Jabir (may Allah be pleased with him) says that a man came and said: I became junub, then I tumbled and tossed in dust (for tayammum). Ibn Umar (may Allah be pleased with him) said: Strike your hands on dust. He struck his hands on the ground and wiped his face, then struck his hands (on the ground), then wiped his hands up to his elbows.

[Sahih. Narrated by Al-Daraqutni 1/182]

Sunan Kubra Bayhaqi 998

Arabic Text:

وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمَّادٍ وَأَبُو بَكْرِ (٩٩٩)
بْنُ بَالَوَيْهِ قَالَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ
مُحَمَّدِ الْأَنْمَاطِيِّ حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ عَنْ عَزْرَةَ بْنِ ثَابِتٍ
عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَ)) : التَّيْمُ ضَرْبَةٌ
لِلْوَجْهِ وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ((-).

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان

باب: تیمم کا طریقہ

حدیث نمبر: 998

ترجمہ:

" (: ۹۹۹ (سیدنا جابر^{رض} سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا تیمم کی ایک ضرب چہرے کے لیے اور ایک ضرب دونوں ہاتھوں کے لیے کہنیوں تک ہے۔"

English Translation:.

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Way of (performing) tayammum

Hadith number: 998

Translation:

(998) It is narrated on the authority of Jabir (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "One stroke of tayammum is for the face and one stroke is for both hands up to the elbows."

[Daif, Shaz (Weak, Irregular). Narrated by

Hakim 1/287]

[SHARH] Explanation:

The Shaz (irregular) Hadeeth is the Hadeeth narrated by a trustworthy narrator but it differs from the narration of other trustworthy narrators (This difference may be either in Sanad [chain of transmission] or in Matan [text]); Ash-Shaafi'i said: "It is when a trustworthy person narrates a Hadeeth that goes against the narration of others, and it is not that he narrates what others did not narrate."

Sunan Kubra Bayhaqi 999

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ (١٠٠٠)
الْحَسَنِ الْقَاضِي أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي
إِيَّاسٍ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ
، الْأَسْلَعُ قَالَ: كُنْتُ أَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ - فَأَتَاهُ جَبْرِيْلُ بِآيَةِ النَّيْمِ
فَأَرَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - كَيْفَ الْمَسْحُ لِلنَّيْمِ ، فَضَرَبْتُ
بِيَدِي الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَمَسَحْتُ بِهِمَا وَجْهِي ، ثُمَّ ضَرَبْتُ بِهِمَا
الْأَرْضَ فَمَسَحْتُ يَدَيَّ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ -
الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرِ ضَعِيفٌ إِلَّا أَنَّهُ غَيْرُ مُنْفَرِدٍ - ت (وَقَدْ رُوِيَ بَدَا
الْقَوْلَ مِنَ التَّابِعِينَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَالشَّعْبِيِّ
وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: تیمم کا طریقہ
حدیث نمبر: 999

:ترجمہ

(۱۰۰۰) (ربیع بن بدر کے دادا ایک شخص سے جس کو اسلع کہا جاتا ہے نقل فرماتے ہیں کہ میں نبی ﷺ کی خدمت کرتا تھا، جبرائیل (علیہ السلام) آیت تیمم لے کر آئے تو رسول اللہ ﷺ نے مجھے دکھایا کہ تیمم کے لیے مسح کیسے جاتا ہے، میں نے ایک مرتبہ ہاتھ زمین پر مارا، اپنے چہرے پر مسح کیا پھر ان کو زمین پر مارا اور اپنے ہاتھوں کا کہنیوں سمیت مسح کیا۔
(ب) (ربیع بن بدر ضعیف ہے۔

،) ج (ہم نے یہ قول تابعین یعنی سالم بن عبداللہ، حسن بصری، شعبی اور ابراہیم نخعی سے نقل کیا ہے۔
اس روایت میں ربیع بن بدر ضعیف اور منفرد ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Way of (performing) tayammum

Hadith number: 999

Translation:

(999) Rabi ibn Badr's grandfather narrates from a man called Asla that I used to serve the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him). When Jibreel (AS) brought the verse of tayammum, the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) showed me how to wipe for tayammum. I struck my hand once on the ground, wiped my face then hit them on the ground and wiped my hands including my elbows.

(B) Rabi ibn Badr is weak.

(C) We have quoted this statement from Tabeen i.e Salem bin Abdullah, Hasan Basri, Shaabi and Ibrahim Nakhai (may Allah have mercy on him). In this tradition, Rabi ibn Badr is weak and unique.

[Daif Jiddan (Very Weak). Narrated by Al-

Sunan Kubra Bayhaqi 1000

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا الْأُسْتَاذُ أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورِكَ (١٠٠١)
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ
يَاسِرٍ قَالَ : بَلَكَ عِقْدٌ لِعَائِشَةَ مِنْ جَزَعِ ظَفَارٍ فِي سَفَرٍ مِنْ
أَسْفَارِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - وَعَائِشَةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فِي ذَلِكَ
السَّفَرِ ، فَالْتَمَسَتْ عَائِشَةُ عِقْدَهَا حَتَّى ابْتَهَرَ اللَّيْلُ ، فَجَاءَ أَبُو
بَكْرٍ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهَا وَقَالَ : حَبَسْتَ النَّاسَ بِمَكَانٍ لَيْسَ فِيهِ مَاءٌ -
قَالَ : فَأَنْزَلَتْ آيَةُ الصَّعِيدِ ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ : أَنْتَ وَاللَّهِ يَا
بُنَيَّةُ مَا عَلِمْتُ مُبَارَكَةً - قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ

وَكَانَ عَمَّارٌ يُحَدِّثُ : أَنَّ النَّاسَ طَفِقُوا يَوْمَئِذٍ يَمْسَحُونَ بِأَكْفِهِمْ
 الْأَرْضَ ، فَيَمْسَحُونَ وُجُوهِهُمْ ، ثُمَّ يَعُودُونَ فَيَضْرِبُونَ ضَرْبَةً
 أُخْرَى فَيَمْسَحُونَ بِهَا أَيْدِيَهُمْ إِلَى الْمَنَاكِبِ وَالْأَبَاطِ ثُمَّ يُصَلُّونَ -
 وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَيْلِيُّ وَاللَّيْثُ
 بْنُ سَعْدٍ وَابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ وَجَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ
 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عْتَبَةَ عَنْ عَمَّارٍ ، وَحَفِظَ فِيهِ مَعْمَرٌ
 وَيُونُسُ ضَرْبَتَيْنِ كَمَا حَفِظَهُمَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: سیدنا عمار بن یاسر (رض) سے تیمم کا منقول طریقہ
 حدیث نمبر: 1000

:ترجمہ

(۱۰۰۱) (سیدنا عمار بن یاسر^{رض} فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ کے کسی
 سفر میں سیدہ عائشہ^{رض} کا ظفار کے گھونگوں کا بنا ہوا ہار گم
 ہو گیا اور اس سفر میں سیدہ عائشہ^{رض} رسول اللہ کے ساتھ تھیں
 ، سیدہ عائشہ^{رض} نے اپنا ہار تلاش کیا حتیٰ کہ آدھی رات گزر گئی
 سیدنا ابوبکر^{رض} آئے اور ان سے ناراض

ہوئے اور کہا: تو نے لوگوں کو ایسی جگہ پر روک دیا ہے جہاں پانی بھی نہیں ہے۔ راوی کہتا ہے کہ آیت سعید (تمیم) انازل ہوئی، سیدنا ابوبکر رض آئے اور کہا: اللہ کی قسم! اے بیٹی مجھے علم نہیں تھا کہ اس میں خیر و برکت ہے۔ عبید اللہ کہتے ہیں کہ عمار بیان کرتے ہیں: لوگ اس دن اپنی ہتھیلیوں کو زمین پر مارتے اور اپنے چہروں کا مسح کرتے تھے، پھر دوبارہ مارتے اور اپنے ہاتھوں کا کندھوں اور بغلوں تک مسح کرتے، پھر نماز پڑھتے تھے۔

(ب) ایک دوسری روایت میں معمر اور یونس بھی دو ضربوں کا ذکر کرتے ہیں کہ ابن ابی ذئب نے دو ضربوں کا ذکر کیا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The Narrated Method of Tayammum from Syeduna Ammar bin Yasir (may Allah be pleased with him)

Hadith number: 1000

Translation:

(1000) Ammar ibn Yasir (may Allah be

pleased with him) says that in one of the journeys of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) Ayesha (may Allah be pleased with her) lost her necklace made of onyx of Zifar and in this journey Ayesha (may Allah be pleased with her) was with the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him). Ayesha (may Allah be pleased with her) searched for her necklace till midnight. Abu Bakr (may Allah be pleased with him) came and became angry with her and said: You have stopped the people in a place where there is no water. The narrator says that Ayat Saeed (Tayammum) was revealed, Abu Bakr (may Allah be pleased with him) came and said: By Allah! O daughter! I did not know that this was a blessing. Ubaidullah says that Ammar bin Yasir (may Allah be pleased with him) narrates: On that day people used to strike their palms on the ground and wipe their faces, then they would strike again and wipe

their hands up to their shoulders and armpits, then they would offer prayers.

(B) In another narration, Mu'amar and Yunus also mention two strikes that Ibn Abi Zaib mentions two strikes.

[Sahih. Narrated by Nasai 315 and Abu Dawud 320 and Ahmad 4/263]

Sunan Kubra Bayhaqi 1101

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ (١١٠٢)
الْجَرَّجَانِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَسْقَلَانِيُّ حَدَّثَنَا حَزْمَةُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ عَبْدَ
الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ -
فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَتْ: ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - اسْتَيْقَظَ -
وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَالْتَمَسَ الْمَاءَ فَلَمْ يُوْجَدْ فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيْمَمِ -
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ
وَهْبٍ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: پانی کی تلاش کی حدود کا بیان
حدیث نمبر: 1101

:ترجمہ

(۱۱۰۲) سیدہ عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ بیدار ہوئے اور نماز کا وقت ہوچکا تھا، پانی تلاش کیا گیا مگر نہیں ملا تو تیمم کی آیت نازل ہوئی۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the limits for searching water

Hadith number: 1101

Translation:

(1101) Ayesha (may Allah be pleased with her) says that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) woke up and it was time for prayer, water was sought but wasn't found, so the verse of tayammum was revealed.

[Sahih. Narrated by Bukhari 334]

Sunan Kubra Bayhaqi 1102

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ (١١٠٣)
عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
زُنْبُورٍ حَدَّثَنَا فَضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجَلَانَ عَنْ
نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَيَّمَّ بِمَرْبِدِ النَّعَمِ وَصَلَّى وَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ
أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَدِينَةَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ فَلَمْ
يُعَدِّ-

رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَجَلَانَ

وَرَوَاهُ يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ وَمَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ -
[حسن- أخرجه الشافعى ١١٥]

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى
كتاب: پاكى كا بيان
باب: پانى كى تلاش كى حدود كا بيان
حديث نمبر: 1102

:ترجمہ

(١١٠٣) نافع سے روایت ہے ابن عمرؓ نے مرید النعم جگہ پر تیمم کیا اور نماز پڑھی اور وہ جگہ مدینہ سے تین میل کے فاصلے پر ہے، پھر مدینہ میں داخل ہوئے اور سورج بلند تھا انہوں نے نماز نہیں لوٹائی۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the limits for
searching water

Hadith number: 1102

Translation:

(1102) It is narrated on the authority of Nafi that Ibn Umar (may Allah be pleased with him) performed tayammum and offered prayer at a place called Marbad al-Naam and that place is at a distance of 3 miles from Madinah, then he entered Madinah when the sun was high. He did not repeat the prayer.

[Hasan (Fair). Narrated by Shafi'i in his Musnad 115]

Sunan Kubra Bayhaqi 1103

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ (١١٠٤)
بْنُ حَيَّانَ الْأَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا
أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ قَالَ قِيلَ لِأَبِي
عَمْرٍو يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ: حَضَرْتَ الصَّلَاةَ وَالْمَاءُ جَائِرٌ عَنِ
الطَّرِيقِ، أَيَجِبُ عَلَيَّ أَنْ أَعْدِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ
يَسَارٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَكُونُ فِي السَّفَرِ
فَتَحَضَّرَهُ الصَّلَاةُ وَالْمَاءُ مِنْهُ عَلَى غَلْوَةٍ أَوْ غَلْوَتَيْنِ وَنَحْوِ
ذَلِكَ، ثُمَّ لَا يَعْدِلُ إِلَيْهِ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: پانی کی تلاش کی حدود کا بیان

حدیث نمبر: 1103

:ترجمہ

(۱۱۰۴) (ابن مسلم فرماتے ہیں کہ ابو عمرو اوزاعی سے کہا گیا کہ نماز کا وقت ہو گیا اور پانی راستے سے دور تھا، کیا مجھ پر واجب ہے کہ میں اس کا انتظار کروں؟ انہوں نے کہا: مجھ کو موسیٰ بن یسار نے نافع سے اور نافع نے ابن عمر ^{رض} سے نقل کیا کہ وہ سفر میں تھے اور نماز کا وقت ہو گیا اور پانی ان سے ایک یا دو میل کے فاصلے پر تھا پھر وہ اس کی طرف مائل نہیں ہوئے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the limits for searching water

Hadith number: 1103

Translation:

(1103) Ibn Muslim says that Abu 'Amr al-Awzai (may Allah have mercy on him) was asked that it was time for prayer and water was far away. Is it obligatory on me to wait for it? He said: Musa ibn Yasar narrated to

me from Nafi and Nafi narrated from Ibn Umar (may Allah be pleased with him) that he was on a journey and it was time for prayer and water was one or two miles away from him, so he did not move towards it.
[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1104

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ (١١٠٥)
 حَيَّانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ
 سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُبَارَكِ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِيهِ
 قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَاعٍ فِي غَنَمِهِ أَوْ رَاعٍ
 نُصِيبُهُ جَنَابَةً وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَائِ مِيلَانِ أَوْ ثَلَاثَةً قَالَ: يَتِيمٌ
 صَعِيدًا طَيِّبًا.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: پانی کی تلاش کی حدود کا بیان
 حدیث نمبر: 1104

ترجمہ:

(١١٠٥) (حکیم بن رزیک اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ
 میں نے سعید بن مسیب سے بکریوں کے چرواہے کے متعلق
 یا ایسے چرواہے کے متعلق پوچھا، جو جنبی ہو جاتا ہے اور
 اس کے اور پانی کے درمیان دو یا تین میل کی مسافت ہوتی
 ہی تو وہ کیا کرے؟ ابن مسیب فرماتے ہیں: ایسا شخص پاک
 مٹی سے تیمم کرے گا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the limits for searching water

Hadith number: 1104

Translation:

(1104) Hakim ibn Raziq narrates from his father that I asked Saeed ibn Musaib (may Allah have mercy on him) about a shepherd of goats or any shepherd, who becomes junub and there is a distance of two or three miles between him and water, so what should he do? Ibn Musaib says: Such a person will perform tayammum with pure soil.

[Hasan (Fair)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1105

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ (١١٠٦)
حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ
عُمَرَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ :اطْلُبِ
الْمَاءَ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ الْوَقْتِ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدِ مَاءً تَيْمَمْ ثُمَّ
صَلِّ-

وَبِذَا لَمْ يَصِحَّ عَنْ عَلِيٍّ- وَبِالنَّائِبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَقُولُ وَمَعَهُ
ظَاهِرُ الْقُرْآنِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: پانی کی تلاش کی حدود کا بیان
حدیث نمبر: 1105

:ترجمہ

(1105) (سیدنا علیؓ سے روایت ہے، کہتے ہیں: پانی کو
آخری وقت تک تلاش کیا کرو، اگر تم پانی نہ پاؤ تو تیمم کر
کے نماز پڑھو۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the limits for
searching water

Hadith number: 1105

Translation:

(1105) It is narrated on the authority of

Syeduna Ali (may Allah be pleased with him) that he said: Search for water till the last moment, if you do not get water, then perform tayammum and pray.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1106

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ (١١٠٧)
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي شَيْبَةَ
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَطَائٍ عَنْ زَادَانَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِذَا
أَجْنَبَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ فَلَاةٍ وَمَعَهُ مَاءٌ يَسِيرٌ فَلْيُؤْتِرْ نَفْسَهُ
بِالْمَاءِ وَلْيَتَيْمَّمْ بِالصَّعِيدِ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: جنبی یا بے وضو شخص اگرچہ پانی پر قادر ہو، لیکن
پپاس کی وجہ سے اسے جان کا خطرہ ہے تو وہ تیمم
کر سکتا ہے

حدیث نمبر: 1106

:ترجمہ

(1107) (سیدنا علیؓ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص وسیع
میدان میں جنبی ہو جائے اور اس کے پاس پانی ہو تو اسے
چاہیے کہ وہ اپنے کو ترجیح دے) یعنی پینے

کے لیے رکھ لے (اور مٹی سے تیمم کرے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A person who is junub or without ablution and has water, but is in danger of death due to thirst, can perform tayammum
Hadith number: 1106

Translation:

(1106) Syeduna Ali (may Allah be pleased with him) says that when a person becomes junub in a vast field and he has water, he should give preference to himself (i.e keep it for drinking) and perform tayammum with mud.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence). Narrated by Ibn Abi Shaybah 1118]

Sunan Kubra Bayhaqi 1107

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو بْنُ (١١٠٨)
مَطَرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا
أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَائٍ عَنْ زَادَانَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِذَا
أَصَابَتْكَ جَنَابَةٌ فَأَرَدْتَ أَنْ تَتَوَضَّأَ - أَوْ قَالَ تَغْتَسِلَ - وَلَيْسَ
مَعَكَ مِنَ الْمَائِ إِلَّا مَا تَشْرَبُ وَأَنْتَ تَخَافُ فَتَيَمَّمْ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: جنبی یا بے وضو شخص اگرچہ پانی پر قادر ہو، لیکن پیاس کی وجہ سے اسے جان کا خطرہ ہے تو وہ تیمم کر سکتا ہے

حدیث نمبر: 1107

:ترجمہ

(۱۱۰۸) (سیدنا علیؑ فرماتے ہیں: جب تو جنبی ہو جائے اور وضو یا غسل کرنے کا ارادہ ہو، لیکن تیرے پاس پانی نہ ہو سوائے پینے والے کے پانی کے اور تجھے جان جانے کا ڈر ہو تو تیمم کر لے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A person who is junub or without ablution and has water, but is in danger of death due to thirst, can perform tayammum

Hadith number: 1107

Translation:

(1107) Syeduna Ali (may Allah be pleased with him) says: When you become junub and intend to perform ablution or ghusl, but you do not have water except the water for drinking and you are afraid of losing your life, then perform tayammum.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1108

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ (١١٠٩)
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا
حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَطَائِ بْنِ
السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا كُنْتَ
مُسَافِرًا وَأَنْتَ جُنُبٌ، أَوْ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوئٍ فَخَفْتَ أَنْ
تَوْضَأْتَ أَنْ تَمُوتَ مِنَ الْعَطَشِ، فَلَا تُوضِئْهُ وَاحْسِنْ لِنَفْسِكَ.
وَرُوَيْنَاهُ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَعَطَائِ وَمُجَابِدٍ وَطَاوُسٍ
وَغَيْرِهِمْ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: جنبی یا بے وضو شخص اگرچہ پانی پر قادر ہو، لیکن

پیس کی وجہ سے اسے جان کا خطرہ ہے تو وہ تیمم

کر سکتا ہے

حدیث نمبر: 1108

:ترجمہ

(۱۱۰۹) (سیدنا ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ جب تو مسافر ہو اور جنبی ہو جائے یا تو بغیر وضو کے ہو اور تجھے ڈر ہو کہ اگر تو نے پانی سے وضو کیا تو پیاس سے مر جائے گا تو وضو نہ کر بلکہ اپنی جان بچا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the limits for searching water

Hadith number: 1108

Translation:

(1108) It is narrated on the authority of Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) that when you are a traveler and become junub or you are without ablution and you are afraid that if you perform ablution with water you will die of thirst, then do not perform ablution, rather save your life.

[Daif (Weak). Narrated by Ibn Abi Shaybah
1120]

Sunan Kubra Bayhaqi 1109

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ (١١١٠)
إِسْحَاقَ الْفَقِيهَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى
أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ
ابْنُ عَبَّاسٍ فِي سَفَرٍ مَعَهُ أَنَسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ - فِيهِمْ عَمَّارٌ
فَصَلَّى بِهِمْ وَهُوَ مُتَمِّمٌ -
وَرُوَيْنَاهُ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنِ وَعَطَائٍ وَالزُّهْرِيِّ وَحَدِيثُ
عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَدْ مَضَى فِي هَذَا الْبَابِ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: تیمم والا وضو والوں کی امامت کروا سکتا ہے

حدیث نمبر: 1109

:ترجمہ

(۱۱۱۰) سعید^{رض} سے روایت ہے کہ ابن عباس^{رض} سفر میں تھے اور ان کے ساتھ چند صحابہ کرام^{رض} تھے، ان میں عمار^{رض} بھی تھے انہوں نے ان کو نماز پڑھائی حالانکہ وہ متیم تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The one who has performed tayammum can lead the people who have performed ablution, in prayer

Hadith number: 1109

Translation:

(1109) It is narrated from Saeed that Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) was on a journey and he was accompanied by some of the companions, including Ammar. He led them in prayers even though he was praying with tayammum.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1110

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ (۱۱۱۱)
إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ
عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّهُ كَرِهَ
أَنْ يَوْمَ الْمُتَيْمِمِ الْمُتَوَضِّئِينَ -
وَبَذَا إِسْنَادٌ لَا تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: متیمم کا متوضی کو امامت کروانا مکروہ ہے

حدیث نمبر: 1110

:ترجمہ

(۱۱۱۱) (سیدنا علیؑ سے منقول ہے کہ وہ ناپسند سمجھتے تھے کہ تیمم والا وضو والوں کی امامت کروائے۔

اس سند سے دلیل نہیں لی جاتی۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: It is makruh for the one who has performed tayammum to lead the one who has performed ablution, in prayer

Hadith number: 1110

Translation:

(1110) It is narrated from Syeduna Ali (may Allah be pleased with him) that he disliked for the one who has performed tayammum to lead the one who has performed ablution, in prayer.

No evidence can be taken from this isnad (chain of transmission).

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1111

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ (١١١٢)
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ
الْعَلَاءِيِّ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: أَصَابَ ابْنَ عُمَرَ جَنَابَةٌ فِي
سَفَرٍ فَتَيَّمَمَ، فَأَمَرَنِي فَصَلَّيْتُ بِهِ وَكُنْتُ مُتَوَضِّئًا.
وَبَدَأَ مَحْمُولٌ عَلَى الْإِسْتِحْبَابِ.
وَرُوي فِيهِ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: متیم کا متوضی کو امامت کروانا مکروہ ہے

حدیث نمبر: 1111

ترجمہ:

(۱۱۱۲) نافع فرماتے ہیں: ایک سفر میں ابن عمرؓ جنبی ہو گئے تو انہوں نے تیمم کیا اور مجھے حکم دیا تو میں نے ان کو نماز پڑھائی، اس لیے کہ میں وضو والا تھا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the limits for searching water

Hadith number: 1111

Translation:

(1111) Nafi says: Ibn Umar (may Allah be pleased with him) became junub on a journey so he performed tayammum and ordered me to lead him in prayer, because I

had performed ablution.

[Hasan (Fair)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1112

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ (١١١٣)
عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ رَمِيْسٍ حَدَّثَنَا
عُثْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مَاتِعِ الْحَمِيرِيِّ
حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْكُوفِيُّ : أَسَدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ
- بِيَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -
((لَا يَوْمَ الْمُتَيْمِّمِ الْمُتَوَضِّئِينَ)) (- قَالَ عَلِيُّ : إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ . :

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: متیم کا متوضی کو امامت کروانا مکروہ ہے

حدیث نمبر: 1112

:ترجمہ

(: ۱۱۱۳) (سیدنا جابر^{رض} فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تیمم والا آدمی وضو والوں کی امامت نہ کروائے۔ علی فرماتے ہیں: اس کی سند ضعیف ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: It is makruh for the one who has performed tayammum to lead the one who has performed ablution, in prayer

Hadith number: 1112

Translation:

(1112) Syeduna Jabir (may Allah be pleased with him) says that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: The one who has performed tayammum shouldn't lead the one who has performed ablution, in prayer. Ali says: Its sanad (chain of transmission) is daif.

[MAUDU (FABRICATED). Narrated by Al-Daraqutni 1/185]

Sunan Kubra Bayhaqi 1113

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ (١١١٤)
الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ
الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ بَدَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو
بُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((-)) : لَا يُبَالُ فِي الْمَائِ
- الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يُغْتَسَلُ مِنْهُ ((-)) قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَضَعُ يَدَهُ فِي الْوَضُوءِ حَتَّى ((-)) :
يَغْسِلَهَا ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ ((-)).
رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ-

قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ فَإِنْ عَجَنَ بِهِ يَعْغِي
بِالْمَائِ النَّجِسِ عَجِينًا لَمْ يُوَكَّلْ وَأَطْعَمَهُ الدَّوَابَّ-
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ عَطَائٍ وَمُجَابِدٍ أَنَّهُ يُطْعَمُهُ
الدَّجَاجَ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: کھڑے پانی میں نجاست گرجائے اور وہ دو مٹکوں سے کم ہو

حدیث نمبر: 1113

:ترجمہ

(۱۱۱۴) (سیدنا ابوہریرہ رضی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کیا جائے، یعنی وہ پانی جو جاری نہ ہو کہ پھر اس سے غسل کرے اور فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو وہ اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے جب تک کہ اس کو دھونہ لے اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔

(ب) (زعفرانی کہتے ہیں کہ امام شافعی) رح (نے قدیم کتاب میں لکھا ہے کہ اگر نجس پانی کے ساتھ آٹا مل جائے تو وہ نہیں کھایا جاسکتا بلکہ وہ جانوروں کو کھلا دیا جائے۔

(ج) (امام احمد فرماتے ہیں: عطاء اور مجاہد سے منقول ہے وہ ایسا آٹا مرغیوں کو کھلا دیتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: If impurity falls into standing water and quantity of the water is less than two pots

Hadith number: 1113

Translation:

(1113) Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) says that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: Do not urinate in standing water, meaning, that water which is not flowing and then bathe in it. [1] And the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: When one of you wakes up, he should not put his hand in the vessel until he has washed it, because he does not know where his hand

has spent the night. [2]

(B) Zafarani says that Imam Shafi'i (may Allah have mercy on him) has written in his old book that if flour is mixed with impure water then it cannot be eaten but it should be fed to animals.

(C) Imam Ahmad (may Allah have mercy on him) says: It is narrated from Ata and Mujahid that they used to feed such flour to the chickens.

[1] [Sahih. Narrated by Bukhari 239 and Muslim 281, 282 and Nasai 57 and Abu Dawud 69 and Tirmidhi 68 and Ibn Majah 343 and Ahmad 2/316, 346, 362, 464 and Darimi 757]

[2] [Sahih. Narrated by Bukhari 162 and Muslim 278 and Nasai 1, 161, 441 and Abu Dawud 103, 105 and Tirmidhi 24 and Ibn Majah 393 and Malik 2/6 and Ahmad

Sunan Kubra Bayhaqi 1114

Arabic Text:

: وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ (١١١٥)
مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِيٍّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَنَا
أَبُو مُوسَى : إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ وَهَارُونُ بْنُ مُوسَى
الْفَرَوِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ : أَنَّ النَّاسَ نَزَلُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -
الْحِجْرَ أَرْضَ ثَمُودَ فَاسْتَقَوْا مِنْ بِيَارِهَا وَعَجَنُوا بِهِنَّ ، فَأَمَرَهُمْ
رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أَنْ يَهْرِيقُوا

مَا اسْتَقَوْا وَيُطْعَمُوا الْإِبِلَ الْعَجِينَ ، وَأَمْرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا مِنْ
الْبُرِّ الَّتِي كَانَتْ تَرُدُّهَا النَّاقَةُ-

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُوسَى الْأَنْصَارِيِّ
وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَّاضٍ-
وَبَدَا الْمَاءُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَجَسًا فَحِينَ كَانَ مَمْنُوعًا مِنْ اسْتِعْمَالِهِ
أَمَرَ بِإِرَاقَتِهِ وَأَمَرَ بِإِطْعَامِ مَا عُجِنَ بِهِ الْإِبِلَ فَكَذَلِكَ مَا يَكُونُ
مَمْنُوعًا مِنْهُ لِنَجَاسَتِهِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: کھڑے پانی میں نجاست گرجائے اور وہ دو ٹکوں سے
کم ہو

حدیث نمبر: 1114

:ترجمہ

(۱۱۱۵) (الف) (سیدنا نافع سے روایت ہے کہ ابن عمر^{رض} نے
انہیں خبر دی کہ لوگ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مقام

حجر پر اترے، یہ ثمود کی زمین تھی۔ صحابہ نے ان کے
کنوؤں سے پانی لیا اور آٹا گوندھا تو رسول اللہ ﷺ نے ان کو
حاصل کردہ پانی بہانے کا حکم دیا اور آٹا اونٹوں کو
کھلانے کا حکم دیا اور ساتھ ہی فرمایا: وہ اس پانی کو
استعمال کریں جہاں وہ اونٹنی آتی تھی۔

(ب (انس بن عیاض) رح (سے روایت ہے کہ یہ پانی اگرچہ
نجس نہ تھا لیکن اس کا استعمال ممنوع تھا، اس لیے آپ ﷺ
نے بہانے کا حکم دیا اور آٹا اونٹوں کو کھلانے کا حکم دیا۔
یہ نجاست کی وجہ سے ممنوع نہ تھا۔) بلکہ نبی ﷺ کا حکم
تھا)

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: If impurity falls into standing water
and quantity of the water is less than two
pots

Hadith number: 1114

Translation:

(1114) (a) It is narrated on the authority of

Nafi that Ibn Umar (may Allah be pleased with him) informed him that the people had encamped at Maqam-e-Hijr with the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him), the land of Thamud. The companions took water from the wells and started kneading the dough. The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) ordered them to pour out the water they had obtained and to feed the flour to the camels. And he said: Use the water from (that well) where the camel (of Hazrat Salih) used to come from.

(B) It is narrated on the authority of Anas ibn Ayyaz that although this water was not najis (impure) but its use was forbidden, this is why the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) ordered it and ordered the flour to be fed to the

camels. It was not forbidden because of impurity. (Rather it was the command of the Prophet)

[Sahih. Narrated by Bukhari 3379 and Muslim 2981]

Sunan Kubra Bayhaqi 1115

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصُّوفِيُّ أَخْبَرَنَا (١١١٦)
أَبُو أَحْمَدَ بْنَ عَدِيِّ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا ابْنُ سَلْمٍ حَدَّثَنَا بِشَامُ بْنُ خَالِدٍ
حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ حُمَيْدٍ
عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - سِئِلَ عَنْ عَجِينٍ وَقَعَ فِيهِ قَطْرَاتٌ
مِنْ دَمٍ ، فَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ - عَنْ أَكْلِهِ -

قَالَ الْوَلِيدُ : لِأَنَّ النَّارَ لَا تُنْشِفُ الدَّمَ. قَالَ أَبُو أَحْمَدَ هَكَذَا
حَدَّثَنَا ابْنُ سَلْمٍ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ -
وَإِنَّمَا يَرْوَى هَذَا سُؤَيْدٌ عَنْ نُوحِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسٍ -
قَالَ أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَبِي الْجِنِّ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ
سُلَيْمَانَ الْمَنْبِجِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ
نُوحِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ جَارِيَةً لَهُمْ عَجَنَتْ
لَهُمْ عَجِينًا فِي جَفَنَةٍ فَأَصَابَتْ يَدَهَا حَدِيدَةٌ فِي الْعَجِينِ فَسَأَلَ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - فَقَالَ ((لَا تَأْكُلُوهُ))
قَالَ أَبُو أَحْمَدَ : وَسُؤَيْدُ الَّذِي خَلَطَ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ
فَمَرَّةً رَوَاهُ عَنْ نُوحِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنِ الْحَسَنِ وَمَرَّةً عَنْ حُمَيْدٍ

عَنْ أَنَسٍ-

، قَالَ أَبُو أَحْمَدَ : وَعَامَّةُ حَدِيثِهِ مِمَّا لَا يُتَابَعُهُ الثَّقَاتُ عَلَيْهِ
وَبُو ضَعِيفٌ كَمَا وَصَفُوهُ يَعْنِي أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنَ
مَعِينٍ وَغَيْرَهُمَا مِنَ الْأَيْمَةِ ضَعَّفُوا سُؤْيَدًا-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: کھڑے پانی میں نجاست گرجائے اور وہ دو مٹکوں سے
کم ہو

حدیث نمبر: 1115

:ترجمہ

(۱۱۱۶) (الف) (سیدنا انس^{رض} سے روایت ہے کہ نبی ﷺ سے
آٹے کے متعلق سوال کیا گیا جس میں خون کے قطرے

گریڑے تھے تو نبی ﷺ نے اسے کھانے سے منع فرما دیا۔

(ب) (سیدنا انس^{رض} سے روایت ہے کہ ایک لونڈی نے
کسی برتن میں آٹا گوندھا تو اس کے ہاتھ کو زخم لگا، جس

کی وجہ سے آٹے میں خون کے قطرے گرے، اس نے

:رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا

اسے نہ کھاؤ۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: If impurity falls into standing water and quantity of the water is less than two pots

Hadith number: 1115

Translation:

(1115) (a) It is narrated from Anas (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) was asked about flour in which drops of blood were spilled, so the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) forbade it to be eaten.

(B) It is narrated on the authority of Anas (may Allah be pleased with him) that when

a slave girl was kneading flour in a vessel, her hand got injured due to which drops of blood fell in the flour. She asked the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) about it and he (peace and blessings of Allah be upon him) said: Do not eat it.

[Daif (Weak). Narrated by Al-Tabarani in Mujam Awsat 1/823]

Sunan Kubra Bayhaqi 1116

Arabic Text:

: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (١١١٧) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - بِالْهَاجِرَةِ فَصَلَّى بِالْبَطْحَائِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ، وَنَصَبَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنزَةً وَتَوَضَّأَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَمَسَّحُونَ بِوَضُوئِهِ -
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ عَنْ شُعْبَةَ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهِ آخَرَ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب : پاکی کا بیان
باب : مستعمل پانی پاک ہوتا ہے
حدیث نمبر : 1116

: ترجمہ

(1117) (سیدنا ابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ دوپہر

کو نکلے، آپ ﷺ نے بطحاء نامی جگہ پر ظہر اور عصر کی دو دو رکعتیں ادا کیں اور اپنے آگے نیزہ گاڑا اور وضو کیا اور لوگ آپ ﷺ کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو ملنے لگے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Used water is pure

Hadith number: 1116

Translation:

(1116) Syeduna Abi Juhaifa (may Allah be pleased with him) says that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) went out in the afternoon, he prayed two rak'ats for Zuhr and Asr each at a place called Bath'ha with a spear planted in front of him (as a sutra) and performed ablution and the people started rubbing the leftover water from his ablution (on

their bodies).

[Sahih. Narrated by Bukhari 187, 499, 501, 3553 and Muslim 503 and Nasai 471 and Ahmad 4/307-309 and Darimi 1449]

Sunan Kubra Bayhaqi 1117

Arabic Text:

: وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ (١١١٨)
أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ النَّقْفِيُّ وَأَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ
مُوسَى وَاللَّفْظُ لِلنَّقْفِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ أَخْبَرَنَا
أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ
جَابِرًا يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ لَا
أَعْقِلُ فَتَوَضَّأَ وَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ : يَا
رَسُولَ اللَّهِ لِمَنْ الْمِيرَاتُ إِنَّمَا يَرْتُنِي كِلَالَةٌ ، فَنَزَلَتْ آيَةٌ
الْفَرَائِضِ -
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ
وَجْهِ آخَرَ عَنْ شُعْبَةَ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب : پاکی کا بیان
باب : مستعمل پانی پاک ہوتا ہے
حدیث نمبر : 1117

:ترجمہ

(۱۱۱۸) (سیدنا جابرؓ فرماتے ہیں کہ جب میں مریض تھا تو رسول اللہ ﷺ میری تیمار داری کیا کرتے تھے، اس وقت مجھے ہوش نہیں تھا، آپ ﷺ نے وضو کیا اور اپنے وضو کا بچا ہوا پانی مجھ پر ڈالا تو مجھے ہوش آگیا، میں نیعرض کیا: اے اللہ کے رسول! میری وراثت کس کے لیے ہے، میرا وارث کلالہ ہے؟ تو فرائض کی آیت نازل ہوئی۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Used water is pure

Hadith number: 1117

Translation:

(1117) Syeduna Jabir (may Allah be pleased with him) says that when I was sick, the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) used to take care of me. During this time, I was

unconscious, the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) performed ablution and poured the remaining water of his ablution on me, I then regained consciousness. I said: O Messenger of Allah! Who is my heir, as I have neither ascendants nor descendants? Then the verse of inheritance was revealed.

[Sahih. Narrated by Bukhari 194, 5676, 6743 and Muslim 1616 and Abu Dawud 2886 and Tirmidhi 2097 and Ibn Majah 2728 and Darimi 739]

Sunan Kubra Bayhaqi 1118

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَابِرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ (١١١٩)
الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ
عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ
كُرَيْبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ فَذَكَرَتْ غُسْلَ النَّبِيِّ
ﷺ - قَالَتْ: فَلَمَّا فَرَغَ تَنَحَّى فَعَسَلَ رِجْلَيْهِ، فَأَعْطَيْتُهُ -
مِلْحَفَةً فَأَبَى فَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَائِ بِيَدِهِ -
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ زَائِدَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاکی کا بیان

باب: مستعمل پانی پاک ہوتا ہے

حدیث نمبر: 1118

:ترجمہ

(۱۱۱۹) (سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا آپ ﷺ کے غسل کا تذکرہ فرماتی ہیں کہ جب آپ ﷺ فارغ ہوئے تو الگ ہوئے اور اپنے پاؤں کو دھویا۔ میں نے آپ کو کپڑا دیا تو آپ ﷺ نے انکار کر دیا، آپ اپنے ہاتھ سے پانی صاف کر رہے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Used water is pure

Hadith number: 1118

Translation:

(1118) Syeda Maimuna (may Allah be pleased with her) describes the Prophet's ghusl that when he finished, he moved aside and washed his feet. When I gave him a towel, he refused, he wiped the water with his own hands.

[Sahih. Narrated by Bukhari 249, 257, 259,

260, 265, 266, 274, 276, 281 and Muslim
317 and Nasai 254, 408, 418, 419, 428 and
Abu Dawud 245 and Tirmidhi 103 and Ibn
Majah 573 and Ahmad 6/329, 330, 335, 336
and Darimi 738, 774]

Sunan Kubra Bayhaqi 1119

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ (١١٢٠)
أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّقْفِيُّ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ
سَعِيدٍ حَدَّثَنَا رِشْدِينَ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ
أَنْعُمٍ عَنْ عُنْبَةَ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيِّ عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَمٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -
ﷺ - إِذَا تَوَضَّأَ مَسَحَ وَجْهَهُ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ -
قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ سَمِعْتُ أَبَا رَجَائٍ يَقُولُ سَأَلَنِي أَحْمَدُ بْنُ
حَنْبَلٍ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَكَتَبَهُ - قَالَ الشَّيْخُ : وَاسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ -
وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ : رَبَّمَا لَمْ يَجِدْ مُحَمَّدُ
بْنَ سِيرِينَ الْمُنْدِيلَ فَيَمْسَحُ وَجْهَهُ بِثَوْبِهِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب : پاکی کا بیان
باب : مستعمل پانی پاک ہوتا ہے

حدیث نمبر: 1119

:ترجمہ

(۱۱۲۰) (الف) (سیدنا معاذ بن جبلؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا، جب آپ وضو کرتے تو اپنے چہرے کو کپڑے کے ایک کنارے سے صاف فرماتے۔

(ب) (ابوالعباس فرماتے ہیں کہ میں نے ابورجا سے سنا کہ مجھ سے امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے اس کو لکھ دیا۔ شیخ کہتے ہیں: اس کی سند قوی نہیں۔

(ج) (یونس بن عبید سے روایت ہے کہ بسا اوقات محمد بن سیرین بھی اپنے چہرے کو صاف کرنے کے لیے تولیہ استعمال نہیں کرتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Used water is pure

Hadith number: 1119

Translation:

(1119) (a) Syeduna Mu'adh ibn Jabal (may Allah be pleased with him) says that I saw the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him), when he performed ablution, he would wipe his face with the edge of his garment.

(B) Abul Abbas says that I heard from Abu Raja that Imam Ahmad ibn Hanbal (may Allah have mercy on him) asked me about this hadith and he wrote it down. Sheikh says: Its sanad is not strong.

(C) It is narrated from Yunus bin Ubaid that sometimes Muhammad bin Sirin wouldn't use a towel to clean his face.

[Daif (Weak). Narrated by Tirmidhi 54]

Sunan Kubra Bayhaqi 1120

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ (١١٢١)
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَمِنْ أَيْنَ لَمْ
يَكُنْ نَجَسًا؟ قِيلَ مِنْ قَبْلِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - تَوَضَّأَ وَلَا شَكَّ
أَنَّ مِنَ الْوَضُوءِ مَا يُصِيبُ ثِيَابَهُ وَلَمْ يُعْلَمْ غَسَلَ ثِيَابَهُ مِنْهُ وَلَا
أَبْدَلَهَا وَلَا عَلِمْتُهُ فَعَلَ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَكَانَ
مَعْقُولًا إِذْ لَمْ تَمَسَّ الْمَائِ نَجَاسَةً أَنَّهُ لَا يَنْجُسُ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مستعمل پانی پاک ہوتا ہے

حدیث نمبر: 1120

ترجمہ:

(۱۱۲۱) (امام شافعی) رح (فرماتے ہیں: اگر کہنے والا کہے کہ کہاں سے وہ نجس نہیں ہوا؟ تو اسے کہا جائے گا کہ رسول اللہ ﷺ نے وضو کیا اور کچھ شک نہیں کہ وضو اس (پانی سے) جو کپڑے کو لگا اور اس سے کپڑا دھونے کا علم نہیں اور نہ اس نے اس کو متغیر کیا۔ مجھے معلوم نہیں کہ مسلمانوں میں سے کسی نے بھی اس کو استعمال کیا ہو۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جب پانی کو نجاست نہ لگے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Used water is pure

Hadith number: 1120

Translation:

(1120) Imam Shafi'i (may Allah have mercy on him) says: If the speaker says that from where did it (the water) not become najis (impure)? Then it will be said that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) performed ablution and there is no doubt that ablution was done with the (water) which touched the cloth and it is not known whether it washed the cloth nor did it change it. I don't know of any Muslim who used it. One thing that is understandable is that when something impure doesn't touch the water then it is not impure.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1121

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِانَ أَخْبَرَنَا (١١٢٢)
أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ الصَّفَّارِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكِ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَمَّالِ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : فِي الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ
: فِي الْإِنَائِ فَيَنْتَضِحُ مِنَ الَّذِي يَصُبُّ عَلَيْهِ فِي الْإِنَائِ قَالَ
إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ وَلَا يُطَهِّرُ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب : پاکی کا بیان
باب : مستعمل پانی پاک ہوتا ہے

حدیث نمبر: 1121

ترجمہ:

(سیدنا ابن عباسؓ اس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جو برتن میں غسل کرتا ہے اور اسے اس پانی سے جو برتن میں ڈالا تھا چھینٹے پڑجاتے ہیں وہ پانی پاک ہی لیکن وہ پاک نہیں کرسکتا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Used water is pure

Hadith number: 1121

Translation:

(1121) Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) says about a person who performs ghusl in a vessel and drops of water which fall into the vessel reflect back onto him: That water is pure but it cannot purify.

[Hasan Li Ghayrihi (Fair due to external evidence). Narrated by AbdulRazzaq 256]

Sunan Kubra Bayhaqi 1122

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْوَارِيِّ (١١٢٣)
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّفَّارِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عَجَلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ

عَطَايِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - تَوَضَّأَ فَغَرَفَ غَرْفَةً ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْهَا ، ثُمَّ غَرَفَ - غَرْفَةً فَغَسَلَ وَجْهَهُ ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى ثُمَّ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ مَائٍ فَمَسَحَ بِهِ رَأْسَهُ وَقَالَ بِالْوُسْطِيِّينَ مِنْ أَصَابِعِهِ فِي بَاطِنِ أُذُنَيْهِ وَالْإِبْهَامَيْنِ مِنْ وَرَائِ أُذُنَيْهِ ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: ہر عضو کے لیے نیا پانی لیا جائے گا اور مستعمل پانی سے طہارت درست نہیں

حدیث نمبر: 1122

ترجمہ:

(۱۱۲۳) (سیدنا ابن عباس^{رض} سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے وضو کیا، آپ ﷺ نے چلو بھرا اور کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، پھر چلو بھرا اور اپنا چہرہ

دھویا، پھر چلو بھرا اور دایاں ہاتھ دھویا، پھر چلو بھرا اور اپنا بایاں ہاتھ دھویا، پھر کچھ پانی لیا اور سر کا مسح کیا اپنی درمیان والی انگلیوں سے کانوں کے اندرونی حصہ کا مسح کیا اور انگوٹھوں سے کانوں کے بیرونی حصہ کا بھی پھر چلو بھرا اور اپنا دایاں پاؤں دھویا، پھر چلو بھرا اور اپنا بایاں قدم دھویا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Used water is pure

Hadith number: 1121

Translation:

(1121) It is narrated on the authority of Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) performed ablution, he took a handful (of water) and rinsed his mouth and put water in his nose, then he took a handful and washed his

face, then he took a handful and washed his right hand, then he took a handful and washed his left hand, then he took some water and wiped his head. He wiped the inner part of his ears with his middle fingers and the outer part of the ears with the thumbs, then he took a handful and washed his right foot, then he took a handful and washed his left foot.

[Sahih. Narrated by Bukhari 140 and Nasai 101, 102 and Abu Dawud 137 and Tirmidhi 36 and Ibn Majah 403 and Ahmad 1/268, 365, 703 and Darimi 723, 724]

Sunan Kubra Bayhaqi 1123

Arabic Text:

: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (١١٢٤) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حَسَنِ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ-

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوَدْبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْحَارِثِ-

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُزَكِّي حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٍو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ حَبَّانَ بْنَ وَاسِعٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَاصِمِ الْمَازِنِيِّ يَذْكُرُ : أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - تَوَضَّأَ فَمَضْمَضَ ثُمَّ اسْتَنْشَرَ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا ، وَالْأُخْرَى ثَلَاثًا ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَائٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدِهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى أَنْقَابَهُمَا-

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ بَارُونَ بْنِ سَعِيدٍ وَأَحْمَدَ بْنِ
عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ وَبَارُونَ بْنِ مَعْرُوفٍ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: ہر عضو کے لیے نیا پانی لیا جائے گا اور مستعمل پانی
سے طہارت درست نہیں

حدیث نمبر: 1123

:ترجمہ

(۱۱۲۴) (حبان بن واسع کے باپ نے عبداللہ بن زید بن عاصم
مازنی سے سنا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو وضو کرتے
ہوئے دیکھا، آپ ﷺ نے کلی کی، پھر ناک جھاڑا، پھر تین
مرتبہ چہرا دھویا اور تین مرتبہ دایاں ہاتھ اور تین مرتبہ
بایاں، پھر نئے پانی سے سر کا مسح کیا اور اپنے پاؤں کو
دھو کر صاف کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: New water will be used for each limb and purification from used water is not correct

Hadith number: 1123

Translation:

(1123) Habban ibn Wasi's father heard from Abdullah ibn Zayd ibn Asim Mazni that I saw the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) performing ablution, he rinsed his mouth, then cleaned his nose, then washed his face three times, his right hand three times and his left hand three times, then wiped his head with fresh water and washed his feet till they were clean.

[Sahih. Narrated by Muslim 236 and Abu Dawud 120 and Tirmidhi 35]

Sunan Kubra Bayhaqi 1124

Arabic Text:

: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ (١١٢٥)
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّخَّاسِيُّ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ
بْنُ جَمِيلِ الْأَنْطَاكِيُّ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ الرَّبِيعِ بِنْتِ مَعْوِذِ ابْنِ عَفْرَاءٍ قَالَتْ
: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - بِمِيضَاءٍ تَسَعُ مُدًّا أَوْ مُدًّا وَثُلَاثًا فَقَالَ
اسْكُبِي - قَالَتْ : فَسَكَبْتُ عَلَيْهِ ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ إِلَى
، مِرْفَقَيْهِ ، وَأَخَذَ مَائًا جَدِيدًا فَمَسَحَ رَأْسَهُ مُقَدَّمَهُ وَمُؤَخَّرَهُ
وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلَاثًا -

بَكَا رَوَاهُ شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِلرِّوَايَةِ

الصَّحِيحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ-

وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ مَا يُشْبَهُ خِلَافَهُ
وَيُشْبَهُ مُوَافَقَتَهُ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: ہر عضو کے لیے نیا پانی لیا جائے گا اور مستعمل پانی

سے طہارت درست نہیں

حدیث نمبر: 1124

:ترجمہ

(۱۱۲۵) (سیدنا ربیع بنت معوذ بن عفرائی فرماتی ہیں کہ میں

رسول اللہ ﷺ کے پاس پانی والا برتن لے کر آئی، جس میں

ایک مد یا ایک مد اور تھائی پانی آتا تھا، آپ ﷺ نے فرمایا:

اس کو ڈال، میں نے آپ ﷺ پر پانی بہایا۔ آپ ﷺ نے اپنے

چہرے اور بازوؤں کو کہنیوں تک دھویا اور نیا پانی لیا۔ پھر

اپنے سر کے اگلے اور پچھلے حصہ کا مسح کیا اور تین

مرتبہ اپنے پاؤں کو دھویا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: New water will be used for each limb and purification from used water is not correct

Hadith number: 1124

Translation:

(1124) Rabi'ah bint Mu'adh ibn 'Afra'i says that I came to the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) with a jug of water, which had a capacity of one mudd or one mudd and one-third of water. He said: Pour it on (me), I poured water for him. He washed his face and arms up to his elbows and took fresh water. Then he wiped the front and back of his head and washed his feet three times.

[Hasan (Fair). Narrated by Abu Dawud 126 and Tirmidhi 43 and Ibn Majah 390, 440

Sunan Kubra Bayhaqi 1125

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذُبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ (١١٢٦)
دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ
سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ عَقِيلٍ عَنِ الرَّبِيعِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ -
مَسَحَ بِرَأْسِهِ مِنْ فَضْلِ مَايَ كَانَ فِي يَدِهِ -
هَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَاوُدَ وَغَيْرِهِ عَنْ

التَّوْرِيِّ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بِبَلِّ يَدَيْهِ -
وَكَأَنَّهُ أَرَادَ أَخَذَ مَائًا جَدِيدًا فَصَبَّ بَعْضَهُ وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِبَلِّ
يَدَيْهِ -

وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ لَمْ يَكُنْ بِالْحَافِظِ وَأَهْلُ الْعِلْمِ
بِالْحَدِيثِ مُخْتَلِفُونَ فِي جَوَازِ الْإِحْتِجَاجِ بِرِوَايَاتِهِ -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الدُّورِيُّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ
يَقُولُ : ابْنُ عَقِيلٍ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ -

وَقَالَ أَبُو عَيْسَى : سَأَلْتُ الْبُخَارِيَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
عَقِيلٍ فَقَالَ : رَأَيْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ
وَالْحُمَيْدِيَّ يَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِهِ وَهُوَ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ -
وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَائِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - وَإِسْنَادُهُ

ضَعِيفٌ

وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ وَأَنْسِ
بْنَ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - فِي الْغُسْلِ شَيْئٌ فِي مَعْنَاهُ ، وَلَا
يَصِحُّ شَيْئٌ مِنْ ذَلِكَ لِضَعْفِ أَسَانِيدِهِ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي الْخِلَافِيَّاتِ
وَأَصَحُّ شَيْئٌ فِيهِ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَّاسِيلِ عَنْ
مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ
الْعَلَّائِيِّ بْنِ زِيَادٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - : أَنَّهُ اغْتَسَلَ فَرَأَى لَمْعَةً

عَلَى مَنْكِبِهِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ ، فَأَخَذَ خَصْلَةً مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ
فَعَصَرَ بِهَا عَلَى مَنْكِبِهِ ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى ذَلِكَ الْمَكَانِ . وَبِذَا
مُنْقَطِعٌ .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: ہر عضو کے لیے نیا پانی لیا جائے گا اور مستعمل پانی

سے طہارت درست نہیں

حدیث نمبر: 1125

:ترجمہ

(۱۱۲۶) (الف) (ربیع سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے اپنے ہاتھ

میں بچے ہوئے پانی سے اپنے سر کا مسح کیا۔

(ب) (عبداللہ بن داؤد وغیرہ ثوری سے نقل کرتے ہیں کہ

بعض نے کہا: آپ اپنے ہاتھوں کی تری سے ہی مسح کرتے

تھے، یعنی جب آپ کسی دوسرے عضو کو دھونے کے لیے

پانی لیتے تو اسے اس پر بہاتے اور پھر باقی ماندہ ہاتھوں

کی تری سے مسح کرتے۔ عبداللہ بن محمد بن عقیل حافظ

حدیث نہیں تھے۔ محدثین ان کو

روایات کو قابل حجت کے جواز کو سمجھنے میں مختلف فیہ ہیں۔

(ج) یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ ابن عقیل کی احادیث قابل حجت نہیں۔

(د) (امام ترمذی نے امام بخاری) رح (نے ابن عقیل کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا: میں نے احمد بن حنبل، اسحاق بن ابراہیم اور حمیدی کو دیکھا، وہ اس کی احادیث کو قابل حجت سمجھتے تھے۔

(ر) (ابودرداء عن النبی ﷺ والی روایت کی سند ضعیف ہے۔ (س) (سیدنا علی، ابن عباس، ابن مسعود، عائشہ اور انس بن مالک نبی ﷺ سے غسل کے متعلق اس کے ہم معنی روایت کرتے ہیں لیکن ان کی اسانید ضعیف ہیں۔ خلافت میں اس کی مکمل وضاحت ہے۔

(ط) (امام ابوداؤد مراسیل میں علاء بن زیاد کے واسطے نبی ﷺ سے منقول ہے کہ آپ نے غسل کیا اور کندھے پر تھوڑی تھوڑی سی خشک جگہ تھی جہاں پانی نہیں پہنچا تھا، آپ ﷺ نے اپنے سر کے بالوں سے پانی لے کر وہاں کندھے پر نچوڑ دیا، پھر ہاتھ کے ساتھ اس کو مل دیا۔ یہ روایت منقطع ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: New water will be used for each limb and purification from used water is not correct

Hadith number: 1125

Translation:

(1125) (a) It is narrated from Rabi that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) wiped his head with the water which was left over in his hand.

(B) Abdullah ibn Dawood and others narrate from al-Thawri (may Allah have mercy on him) that some people said: He (the Prophet) used to wipe his head with the wetness of his hands, that is, when he took water to wash another limb, he would pour it on it and then with the wetness of

the rest of his hands he would wipe his head. Abdullah bin Muhammad bin Aqeel was not a memorizer of hadith. The muhadditheen differ in their understanding of the legitimacy of his traditions.

(C) Yahya ibn Mu'in says that the ahadith of Ibn Aqeel are not reliable.

(D) When Imam Tirmidhi asked Imam Bukhari (may Allah have mercy on him) about Ibn Aqeel, he said: I saw Ahmad ibn Hanbal, Ishaq ibn Ibrahim and Humaydi (may Allah have mercy on them), they considered his ahadith to be reliable.

(E) The sanad (chain of transmission) of the hadith of Abu Darda (may Allah be pleased with him) from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) is daif (weak).

(F) Ali, Ibn Abbas, Ibn Masud, Ayesha and Anas ibn Malik (may Allah be pleased with them) narrate the same thing about ghusl from the Prophet, but all of their isnad (chain of transmission) are weak. A complete explanation of this has been done previously.

(G) Imam Abu Dawud (may Allah be pleased with him), in Maraasil, narrates from Ala'a ibn Ziyad on behalf of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) that he performed ghusl and there was a small dry area on his shoulder where water did not reach. He took water from the hair of his head and squeezed it on his shoulder, then rubbed it with his hand. This tradition is disconnected.

[Hasan (Fair). Narrated by Abu Dawud 130 and Tirmidhi 523]

Sunan Kubra Bayhaqi 1126

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ (١١٢٧)
الْمُزَكِّيُّ وَأَبُو بَكْرِ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالَوا أَخْبَرَنَا أَبُو
الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ
الْحَكَمِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ
بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى بِشَامِ بْنِ زُبَيْرَةَ حَدَّثَهُ
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ

: اللهُ - ﷺ -)) : لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ ((. فَقَالَ
كَيْفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا بُرَيْرَةَ؟ قَالَ : يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا.

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ بَارُونَ بْنِ سَعِيدٍ وَابْنِ
الطَّائِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عَيْسَى كُلُّهُمْ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ كَذَا رَوَى بِهِذَا
الْإِسْنَادِ.

وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَاءٍ دَائِمٍ يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ قُلَّتَيْنِ ، فَإِذَا
، اغْتَسَلَ فِيهِ صَارَ مُسْتَعْمَلًا ، فَلَا يُمَكِّنُ غَيْرُهُ أَنْ يَتَطَهَّرَ بِهِ
فَأَمَرَ بِأَنْ يَتَنَاوَلَهُ تَنَاوُلًا لِنَلَا يَصِيرَ مَا بَيَقَى فِيهِ مُسْتَعْمَلًا
وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَهَكَذَا مَعْنَى مَا

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب : پاکی کا بیان

باب : ہر عضو کے لیے نیا پانی لیا جائے گا اور مستعمل پانی
سے طہارت درست نہیں

حدیث نمبر : 1126

:ترجمہ

(۱۱۲۷) (الف) (سیدنا ابوہریرہ ^{رض} فرماتے ہیں کہ رسول اللہ

نے فرمایا: کوئی شخص کھڑے پانی میں غسل جنابت نہ کرے، لوگوں نے کہا: اے ابوہریرہ! کیسے کرے؟ آپ نے فرمایا: اس پانی کو الگ کسی برتن میں لے لے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: New water will be used for each limb and purification from used water is not correct

Hadith number: 1126

Translation:

(1126) Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) says that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: No one should perform ghusl for major impurity in standing water. The people said: O Abu Hurayrah! How to do it (ghusl)? He said: Take this water in a separate vessel.

[Sahih. Narrated by Muslim 283 and Nasai 221, 332, 396 and Ibn Majah 605]

Sunan Kubra Bayhaqi 1127

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوَدْبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ (١١٢٨)
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((: لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ
الدَّائِمِ وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ)) (-. بِكَذَا رَوَاهُ

ابْنُ عَجَلَانَ عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا اللَّفْظِ

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: ہر عضو کے لیے نیا پانی لیا جائے گا اور مستعمل پانی سے طہارت درست نہیں

حدیث نمبر: 1127

:ترجمہ

(۱۱۲۸) (سیدنا ابوہریرہ ^{رض} سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے اور نہ اس میں غسل جنابت کرے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: New water will be used for each limb and purification from used water is not correct

Hadith number: 1127

Translation:

(1127) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: None of you should urinate in standing water nor perform ghusl for major impurity in it.

[Sahih. Narrated by Bukhari 239 and Muslim 282 and Nasai 57, 58, 397 and Abu Dawud 70 and Tirmidhi 68 and Ibn Majah 344 and Ahmad 2/316, 346, 362, 464 and Darimi 757]

Sunan Kubra Bayhaqi 1128

Arabic Text:

وَرُوِيَ عَنْهُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي (١١٢٩)
بُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - : أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ
الدَّائِمِ ، وَأَنْ يُغْتَسَلَ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّغَرِ
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ
ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ فَذَكَرَهُ. وَقَدْ قِيلَ عَنْهُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ
عَلَى لَفْظٍ آخَرَ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: ہر عضو کے لیے نیا پانی لیا جائے گا اور مستعمل

پانی سے طہارت درست نہیں

حدیث نمبر: 1128

ترجمہ:

(۱۱۲۹) (سیدنا ابی ہریرہ ^{رض} سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیا کہ کچھ اس میں جنابت کا غسل کیا جائے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: New water will be used for each limb and purification from used water is not correct

Hadith number: 1128

Translation:

(1128) It is narrated from Syeduna Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) forbade urinating in

standing water and to perform ghusl for major impurity in it.

[Sahih. Narrated by Bukhari 239 and Muslim 282 and Nasai 57, 58, 397 and Abu Dawud 70 and Tirmidhi 68 and Ibn Majah 344 and Ahmad 2/316, 346, 362, 464 and Darimi 757]

Sunan Kubra Bayhaqi 1129

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقْرِيُّ (١١٣٠)
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ
يَعْقُوبَ الْقَاضِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ
عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي
الْمَاءِ الدَّائِمِ ، ثُمَّ يُغْتَسَلُ مِنْهُ لِلْجَنَابَةِ -
: هَذَا اللَّفْظُ هُوَ الَّذِي أُخْرِجَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ
ثُمَّ يُغْتَسَلُ مِنْهُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُخْرَجْ فِيهِ لِلْجَنَابَةِ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب : پاکی کا بیان

باب : ہر عضو کے لیے نیا پانی لیا جائے گا اور مستعمل پانی
سے طہارت درست نہیں

حدیث نمبر : 1129

:ترجمہ

(۱۱۳۰) (الف) (سیدنا ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا کہ پھر اس سے غسل جنابت کیا جائے۔

English Translation:.

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: New water will be used for each limb and purification from used water is not correct

Hadith number: 1129

Translation:

(1129) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) forbade urinating in standing water and then performing ghusl for major impurity in it.

[Sahih. Narrated by Bukhari 239 and

Muslim 282 and Nasai 57, 58, 397 and Abu Dawud 70 and Tirmidhi 68 and Ibn Majah 344 and Ahmad 2/316, 346, 362, 464 and Darimi 757]

Sunan Kubra Bayhaqi 1130

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ : مُحَمَّدٌ (١١٣١)
بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّقْفِيُّ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا أَبُو

الْيَمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ
 الْأَعْرَجَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ -
 يَقُولُ: لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ -
 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ -
 وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
 أَبِي بُرَيْرَةَ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: ہر عضو کے لیے نیا پانی لیا جائے گا اور مستعمل پانی
 سے طہارت درست نہیں
 حدیث نمبر: 1130

:ترجمہ

(۱۱۳۱) (سیدنا ابوہریرہ رضی فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: تم میں سے کوئی بھی کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرے اور اس سے غسل کرے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: New water will be used for each limb and purification from used water is not correct

Hadith number: 1130

Translation:

(1130) Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) says that he heard the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) saying: None of you should urinate in standing water and perform ghusl in it.

[Sahih. Narrated by Bukhari 239 and Muslim 282 and Nasai 57, 58, 397 and Abu Dawud 70 and Tirmidhi 68 and Ibn Majah 344 and Ahmad 2/316, 346, 362, 464 and Darimi 757]

Sunan Kubra Bayhaqi 1131

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بَشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا (١١٣٢)
أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرِ
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي
عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ ((لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ
فِي الْمَائِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ)) (- وَكَذَلِكَ ثَبَتَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاكى كا بيان

باب: ہر عضو كے ليے نيا پانى ليا جائے گا اور مستعمل پانى سے طہارت درست نہيں

حدیث نمبر: 1131

:ترجمہ

(۱۱۳۲) (سیدنا ابوہریرہؓ نے مرفوعاً بیان کیا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے کہ پھر اس سے غسل کرے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: New water will be used for each limb and purification from used water is not correct

Hadith number: 1131

Translation:

(1131) Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) narrated in a marfu hadith that none of you should urinate in standing water and then perform ghusl with it.

[Sahih. Narrated by Bukhari 239 and Muslim 282 and Nasai 57, 58, 397 and Abu Dawud 70 and Tirmidhi 68 and Ibn Majah 344 and Ahmad 2/316, 346, 362, 464 and Darimi 757]

Sunan Kubra Bayhaqi 1132

Arabic Text:

: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ (١١٣٣)
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّاجِرُ أَخْبَرَنَا أَبُو حَاتِمِ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا
الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا بِشَامُ بْنُ حَسَّانَ -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَأَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ بِشَامٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((-)) : لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَائِ الدَّائِمِ ثُمَّ
يَتَوَضَّأُ أَوْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ ((-)).
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ زُبَيْرِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَرِيرٍ
وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ : ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ - لَمْ يَشْكُ - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ
عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ مَرْفُوعًا -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان

باب: ہر عضو کے لیے نیا پانی لیا جائے گا اور مستعمل پانی سے طہارت درست نہیں
حدیث نمبر: 1132

:ترجمہ

(۱۱۳۳) (سیدنا ابوہریرہ رض سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی بھی کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے کہ پھر اس سے وضو یا غسل کرے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: New water will be used for each limb and purification from used water is not correct

Hadith number: 1132

Translation:

(1132) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace

and blessings of Allah be upon him) said:
None of you should urinate in standing water
then perform ablution or ghusl with it.

[Sahih. Narrated by Bukhari 239 and Muslim
282 and Nasai 57, 58, 397 and Abu Dawud
70 and Tirmidhi 68 and Ibn Majah 344 and
Ahmad 2/316, 346, 362, 464 and Darimi
757]

Sunan Kubra Bayhaqi 1133

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِيُّ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١١٣٤)
بْنِ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَوْفٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

: قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَ
((لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَتَطَهَّرُ مِنْهُ)) -
وَخَالَفَهُمَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ فَرَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدٍ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي
هُرَيْرَةَ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: ہر عضو کے لیے نیا پانی لیا جائے گا اور مستعمل پانی
سے طہارت درست نہیں

حدیث نمبر: 1133

:ترجمہ

(١١٣٤) (سیدنا ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے
فرمایا: تم میں سے کوئی شخص کھڑے ہوئے پانی میں
پیشاب نہ کرے کہ پھر اس سے وضو کرے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: New water will be used for each limb and purification from used water is not correct

Hadith number: 1133

Translation:

(1133) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah that Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: None of you should urinate in standing water and then perform ablution with it.

[Sahih. Narrated by Bukhari 239 and Muslim 282 and Nasai 57, 58, 397 and Abu Dawud 70 and Tirmidhi 68 and Ibn Majah 344 and Ahmad 2/316, 346, 362, 464 and Darimi 757]

Sunan Kubra Bayhaqi 1134

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ بَشْرَانَ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا (١١٣٥)
مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ
عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَا
يُبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَائِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ.
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ مَوْفُوقًا.
وَرَوَاهُ هَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاكى كا بيان

باب: ہر عضو کے لیے نیا پانی لیا جائے گا اور مستعمل پانی سے طہارت درست نہیں

حدیث نمبر: 1134

:ترجمہ

(۱۱۳۵) سیدنا ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے، پھر اس سے غسل کرے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: New water will be used for each limb and purification from used water is not correct

Hadith number: 1134

Translation:

(1134) Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) says that none of you should urinate in standing water, then perform ghusl with it.

[Sahih. Narrated by Ibn Abi Shaybah 1/15]

Sunan Kubra Bayhaqi 1135

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَائِرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ الْقَطَّانُ (١١٣٦)
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ
هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو بَرِيرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ ((- : لَا يُبَالُ فِي الْمَائِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يُغْتَسَلُ -
مِنْهُ))-

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ- ت (وَكَذَلِكَ ثَبَتَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي بَرِيرَةَ
وَعَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي بَرِيرَةَ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: ہر عضو کے لیے نیا پانی لیا جائے گا اور مستعمل پانی
سے طہارت درست نہیں

حدیث نمبر: 1135

:ترجمہ

(۱۱۳۶) (سیدنا ابوہریرہ رض فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کیا جائے جو چلتا نہ ہو کہ پھر اس سے غسل کرے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: New water will be used for each limb and purification from used water is not correct

Hadith number: 1135

Translation:

(1135) Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) says that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: Do not urinate in standing water which does not flow and then perform ghusl with it. [Sahih. Narrated by Ahmad 2/494]

Sunan Kubra Bayhaqi 1136

Arabic Text:

وَرُوِيَ عَنْ عَطَائِ بْنِ مِينَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ (١١٣٧)
اللَّهِ - ﷺ - قَالَ ((لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَائِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ
مِنْهُ أَوْ يُشْرَبُ)) -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ قَالَ قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَكَ
أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَطَائِ بْنِ
مِينَا ... فَذَكَرَهُ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: ہر عضو کے لیے نیا پانی لیا جائے گا اور مستعمل پانی سے طہارت درست نہیں

حدیث نمبر: 1136

:ترجمہ

(۱۱۳۷) (سیدنا ابی ہریرہ ^{رض} سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے کہ پھر اس سے وضو کرے یا پیے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: New water will be used for each limb and purification from used water is not correct

Hadith number: 1136

Translation:

(1136) It is narrated on the authority of Abi Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: None of you should urinate in standing water, then perform ablution or drink from it.

[Hasan (Fair). Narrated by Ibn Khuzaymah 66]

Sunan Kubra Bayhaqi 1137

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدٌ (١١٣٨)
بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ
: عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ثَمَانِيَةِ رَهْطٍ اغْتَسَلُوا مِنْ حَوْضٍ وَاحِدٍ ، أَحَدُهُمْ
جُنُبٌ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنْ الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ -
وَهَذَا إِنْ كَانُوا يَتَنَاوَلُونَهُ تَنَاوُلًا فَجَائِزٌ ، وَإِنْ كَانُوا انْغَمَسُوا
فِيهِ وَالْمَاءُ قُلَّتَانِ فَصَاعِدًا فَجَائِزٌ أَيْضًا ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ
فَبِانْغِمَاسٍ جُنُبٍ فِيهِ يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا فَالْأَثَرُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا
يَصِيرُ نَجَسًا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب : پاکی کا بیان

باب : ہر عضو کے لیے نیا پانی لیا جائے گا اور مستعمل پانی
سے طہارت درست نہیں

حدیث نمبر : 1137

ترجمہ:

(۱۱۳۸) (سیدنا ابن عباسؓ سے اٹھ آدمیوں کے متعلق سوال کیا گیا جو ایک حوض میں غسل کرتے ہیں اور ان میں سے ایک جنبی ہے؟ آپؓ نے فرمایا: پانی پاک ہے اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: New water will be used for each limb and purification from used water is not correct

Hadith number: 1137

Translation:

(1137) Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) was asked about eight men who perform ghusl in one pool and one of them is junub. He said: Water is pure and nothing defiles it.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1138

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصُّوفِيُّ أَخْبَرَنَا (١١٣٩)
أَبُو أَحْمَدَ بْنَ عَدِيِّ الْحَافِظُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ
عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ حَدَّثَنِي جَدِّي أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ
عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كَانَ أَحَدُنَا يَأْتِي الْغَدِيرَ
وَهُوَ جُنْبٌ فَيَغْتَسِلُ فِي نَاحِيَةِ مَنْهُ .

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاكى كا بيان

باب: ہر عضو کے لیے نیا پانی لیا جائے گا اور مستعمل پانی

سے طہارت درست نہیں

حدیث نمبر: 1138

:ترجمہ

(۱۱۳۹) (سیدنا جابر^{رض} سے روایت ہے کہ ہم میں سے کوئی

شخص کنویں پر آتا اور وہ جنبی ہوتا تو وہ اس کے ایک

طرف سے غسل کر لیتا تھا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: New water will be used for each limb and purification from used water is not correct

Hadith number: 1138

Translation:

(1138) It is narrated from Syeduna Jabir (may Allah be pleased with him) that one of us used to come to a well and he would be junub so he would perform ghusl on one side of it.

[Daif (Weak). Narrated by Ibn Adiy in Al-Kamil 6/125]

Sunan Kubra Bayhaqi 1139

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ (١١٤٠)
إِسْحَاقَ وَأَبُو النَّضْرِ بْنُ يُونُسَ قَالَا حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ
الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ
أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو رَزِينٍ وَأَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - ((إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَائِي أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ
ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَارٍ)) -
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُجْرٍ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: کتے کا جھوٹا ناپاک ہے
حدیث نمبر: 1139

ترجمہ:

(١١٤٠) (سیدنا ابوہریرہ ^{رض} سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا منہ

ڈال جائے تو اسے انڈیل دو، پھر اس کو سات مرتبہ دھوؤ۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The saliva of a dog is impure

Hadith number: 1139

Translation:

(1139) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: If a dog licks the vessel of any one of you, let him throw (the contents) away and wash it seven times.

[Sahih. Narrated by Muslim 279 and Nasai 66, 336 and Ibn Majah 363 and Ahmad 2/424, 480]

Sunan Kubra Bayhaqi 1140

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّيُّ وَأَبُو نَصْرِ (١١٤١)
: أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ أَحْمَدَ الْفَامِيَّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ :
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ
أَخْبَرَنَا مَالِكٍ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو
الْحَسَنِ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ السَّلِيطِيِّ
أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ : جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ التُّرْكِيُّ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي
: الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - قَالَ
((إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَائِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ)) -
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ

عَنْ مَالِكٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى -
 وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ وَرَوَاهُ عَبْدُ
 الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيَّاشٍ عَنْ بِشَامِ بْنِ
 عُرْوَةَ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ
 النَّبِيِّ ﷺ - فِي الْكَلْبِ يَلْغُ فِي الْإِنَائِ: أَنَّهُ يَغْسِلُهُ ثَلَاثًا أَوْ
 خَمْسًا أَوْ سَبْعًا. وَهَذَا ضَعِيفٌ بِمَرَّةٍ -
 عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ مَثْرُوكٌ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ لَا يُحْتَجُّ
 بِهِ خَاصَّةً إِذَا رَوَى عَنْ أَهْلِ الْحِجَازِ -
 وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ بِشَامِ عَنْ
 أَبِي الزِّنَادِ: فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ - كَمَا رَوَاهُ الثَّقَاتُ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: کتے کی برتن کو چاٹ جانے پر سات مرتبہ دھونا

حدیث نمبر: 1140

:ترجمہ

(۱۱۴۱) (الف) (سیدنا ابوہریرہ ^{رض} سے روایت ہے کہ رسول

اللہ ﷺ نے فرمایا: جب کتا کسی کے برتن سے پی جائے تو اس کو سات مرتبہ دھوؤ۔

ب (ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا " :جب کتا کسی برتن کو چاٹ جائے تو اسے تین، پانچ یا سات مرتبہ " مرتبہ دھویا جائے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔

ج (ابو الزناد کی روایت میں سات مرتبہ دھونے کا ذکر ہے جو ثقات سے منقول ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Washing the vessel seven times when a dog licks it

Hadith number: 1140

Translation:

(1140) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: When a dog drinks from the vessel of any

one of you then wash it seven times.

(B) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "When a dog licks a vessel, it should be washed three, five or seven times." This hadeeth is weak.

(C) Abu al-Zinad's narration mentions washing seven times, which is narrated from Saqqat.

[Sahih. Narrated by Bukhari 172 and Muslim 279 and Nasai 63, 338-340 and Tirmidhi 91 and Ibn Majah 364 and Ahmad 2/245, 265, 271, 314, 360, 398, 424, 427, 460, 480, 482, 508]

Sunan Kubra Bayhaqi 1141

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَائِرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ (١١٤٢)
الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ بَدَأَ مَا
حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((: طُهُورُ إِنَائِي
أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ)) (-)
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ-

وَرُوِينَا فِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ
مُسْنَدًا وَفِيمَا ذَكَرْنَا كِفَايَةً. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي
بُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ فِي غَسْلِ الْإِنَائِ مِنْ وُلُوعِ الْكَلْبِ سَبْعًا مِنْ
فَتْوَاهُمْ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: کتے کی برتن کو چاٹ جانے پر سات مرتبہ دھونا

حدیث نمبر: 1141

:ترجمہ

(۱۱۴۲) (الف) (سیدنا ابوہریرہ ^{رض} سے روایت ہے کہ رسول اللہ ^{صلی اللہ علیہ وسلم} نے فرمایا: تم میں سے کسی کے برتن میں جب کتا منہ ڈال جائے تو وہ سات مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا۔
(ب) (سیدنا ابوہریرہ ^{رض}، ابن عباس ^{رض} اور عائشہ ^{رض} سے کتے کے برتن کو چاٹ جانے پر سات مرتبہ دھونے کا فتویٰ ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Washing the vessel seven times
when a dog licks it

Hadith number: 1141

Translation:

(1141) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: When a dog licks the vessel of any one of you, it will be cleansed by washing it seven times.

(B) There is a fatwa from Abu Hurayrah, Ibn Abbas and Ayesha (may Allah be pleased with them) to wash the vessel seven times after a dog has licked it.

[Sahih. Narrated by Bukhari 172 and

Muslim 279 and Nasai 63, 338-340 and
Tirmidhi 91 and Ibn Majah 364 and Ahmad
2/245, 265, 271, 314, 360, 398, 424, 427,
460, 480, 482, 508]

Sunan Kubra Bayhaqi 1142

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكْرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ (١١٤٣)
الْمُزَكِّيُّ وَأَبُو بَكْرِ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِيُّ وَأَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي
عَمْرٍو الزَّابِدُ قَالُوا أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدٌ

بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقِ الْخَوْلَانِيِّ حَدَّثَنَا بِشْرُ
بُنُ بَكْرِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ ابْنِ سَبْرِينَ عَنْ أَبِي بُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((: طُهُورُ إِنَائِي أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ
أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْ لَابِنًا بِالنُّرَابِ)) (-).

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: دھونے میں ایک مرتبہ مٹی شامل کرنا

حدیث نمبر: 1142

:ترجمہ

(۱۱۴۳) (سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تمہارے برتن میں جب کتا منہ ڈال جائے تو اس کو سات مرتبہ دھوؤ اور پہلی مرتبہ مٹی سے۔)

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Sand is included once in the

washing process

Hadith number: 1142

Translation:

(1142) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: When a dog licks your vessel, wash it seven times and the first time with sand.

[Sahih. Narrated by Bukhari 172 and Muslim 279 and Nasai 63, 338-340 and Abu Dawud 71 and Tirmidhi 91 and Ibn Majah 364 and Ahmad 2/245, 265, 271, 314, 360, 398, 424, 427, 460, 480, 482, 508]

Sunan Kubra Bayhaqi 1143

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ (١١٤٤)
الْقَطِيعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا
إِسْمَاعِيلُ عَنْ بِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ -
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ زُبَيْرِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ إِسْمَاعِيلِ
ابْنِ عَلِيَّةٍ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: دھونے میں ایک مرتبہ مٹی شامل کرنا
حدیث نمبر: 1143

ترجمہ:

(۱۱۴۴) ابن سیرین نے اسی طرح بیان کیا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Sand is included once in the washing process

Hadith number: 1143

Translation:

(1143) Ibn Sirin has also narrated like this.
[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1144

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّيُّ وَأَبُو (١١٤٥)
بَكْرِ بْنِ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ
عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي بُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ((إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَائِ أَحَدِكُمْ
فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْلَاهُنَّ أَوْ أَخْرَاهُنَّ بِتُرَابٍ)) (-).

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: دھونے میں ایک مرتبہ مٹی شامل کرنا

حدیث نمبر: 1144

:ترجمہ

(۱۱۴۵) (سیدنا ابوہریرہ ^{رض} سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب کتا تم میں کسی کے برتن میں منہ ڈال جائے تو اس کو سات مرتبہ دھوؤ اور پہلی یا آخری مرتبہ مٹی سے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Sand is included once in the washing process

Hadith number: 1144

Translation:

(1144) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: When a dog licks the vessel of any one of you, wash it seven times and the first or last time with sand.

[Sahih. Narrated by Bukhari 172 and Muslim 279 and Nasai 63, 338-340 and Tirmidhi 91 and Ibn Majah 364 and Ahmad 2/245, 265, 271, 314, 360, 398, 424, 427, 460, 480, 482, 508]

Sunan Kubra Bayhaqi 1145

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذُبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ (١١٤٦)
دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبَانُ
حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ ((إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَائِ فَاغْسِلُوهُ
سَبْعَ مَرَّاتٍ السَّابِعَةَ بِالتُّرَابِ)) (-)
وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ : الْأُولَى بِالتُّرَابِ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب : پاکی کا بیان

باب : دھونے میں ایک مرتبہ مٹی شامل کرنا

حدیث نمبر : 1145

:ترجمہ

(١١٤٦) (سیدنا ابوہریرہ ^{رض} سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا : جب کتا برتن میں منہ ڈال جائے تو اسے سات مرتبہ دھویا جائے اور ساتویں مرتبہ مٹی سے۔)

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Sand is included once in the washing process

Hadith number: 1145

Translation:

(1145) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: When a dog licks a vessel, it should be washed seven times using sand for the seventh time.

[Sahih. Narrated by Nasai 339 and Abu Dawud 73]

Sunan Kubra Bayhaqi 1146

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ (١١٤٧)
الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِيٍّ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بِشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ
بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: الْأُولَى بِالْثُّرَابِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: دھونے میں ایک مرتبہ مٹی شامل کرنا

حدیث نمبر: 1146

ترجمہ:

(۱۱۴۷) قتادہ نے اسی سند سے اسی طرح بیان کیا ہے مگر وہ کہتے ہیں: پہلی مرتبہ مٹی سے دھویا جائے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Sand is included once in the washing process

Hadith number: 1146

Translation:

(1146) Qatadah has narrated the same from the same sanad, but he says: Using sand for the first time.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence). Narrated by Al-Daraqutni 1/64]

Sunan Kubra Bayhaqi 1147

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ (١١٤٨)
عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانَ حَدَّثَنَا
مُعَاذُ بْنُ إِسْحَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (-) : إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي
الْإِنَائِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، أَوْ لَابِنٍ بِالتُّرَابِ (-).
بِذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ إِنْ كَانَ حَفِظَهُ مُعَاذٌ فَهُوَ حَسَنٌ لِأَنَّ التُّرَابَ
فِي بِذَا الْحَدِيثِ لَمْ يَرَوْهُ ثِقَّةٌ غَيْرُ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
وَإِنَّمَا رَوَاهُ غَيْرُ إِسْحَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ كَمَا سَبَقَ
ذِكْرُهُ.

وَقَدْ ثَبَّتَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَفَّلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - ذِكْرُ
- التُّرَابِ كَمَا

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: دھونے میں ایک مرتبہ مٹی شامل کرنا

حدیث نمبر: 1147

:ترجمہ

(الف) (۱۱۴۸) (سیدنا ابی ہریرہ ^{رض} سے روایت ہے کہ جب کتا
برتن میں منہ ڈال جائے تو اس کو سات مرتبہ دھوؤ اور پہلی
پہلی مرتبہ مٹی سے) دھویا جائے۔
(ب) (عبداللہ بن معفل ^{رض} بھی نبی ﷺ سے مٹی کا ذکر کرتے ہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Sand is included once in the

washing process

Hadith number: 1147

Translation:

(1147) (a) It is narrated from Syeduna Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that when a dog licks a vessel, wash it seven times, the first time with sand.

(B) Abdullah ibn Mughal also mentions sand from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him).

[Sahih. Narrated by Nasai 339, 340]

Sunan Kubra Bayhaqi 1148

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ (١١٤٩)
الْفَضْلِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ
بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو
النَّيَّاحِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - أَمَرَ
بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ ((: مَا بَالِي وَالْكِلابِ)) (- وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ
الرِّعَائِيِّ وَكَلْبِ الصَّيِّدِ، وَقَالَ)) : إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَائِ
فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَارٍ، وَالثَّامِنَةَ عَقِّرُوهُ بِالنَّرابِ)) (-
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ أَوْجِهِ عَنْ شُعْبَةَ -
وَأَبُو هُرَيْرَةَ أَحْفَظُ مَنْ رَوَى الْحَدِيثَ فِي دَهْرِهِ فَرَوَاتُهُ
أُولَى -

وَقَدْ رَوَى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَتَوَاهُ بِالسَّبْعِ كَمَا رَوَاهُ وَفِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى
خَطَا رِوَايَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ

عَطَائٍ عَنِ أَبِي بُرَيْرَةَ فِي الثَّلَاثِ -
وَعَبْدُ الْمَلِكِ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ مَا يُخَالِفُ فِيهِ الثَّقَاتِ وَبِاللَّهِ
التَّوْفِيقُ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: دھونے میں ایک مرتبہ مٹی شامل کرنا
حدیث نمبر: 1148

:ترجمہ

(۱۱۴۹) (عبداللہ بن مغفلؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا، پھر فرمایا: میں کتوں کی پروا نہیں کرتا اور آپ ﷺ نے شکاری کتے اور بکریوں کی حفاظت والے کتے کی رخصت دے دی اور فرمایا: جب کتا برتن میں منہ ڈال جائے تو اس کو سات مرتبہ دھوؤ اور اٹھویں مرتبہ مٹی سے صاف کرو۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Sand is included once in the washing process

Hadith number: 1148

Translation:

(1148) It is narrated on the authority of Abdullah ibn Mughaffal (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) ordered the dogs to be killed, then he said: I do not care for dogs and he granted a concession for hunting dogs and the dogs used for the protection of sheep, and he said: When a dog licks a vessel, wash it seven times and clean it with sand the eighth time.

[Sahih. Narrated by Muslim 280 and Nasai 67, 337, 338 and Abu Dawud 75 and Ibn Majah 365 and Ahmad 4/86, 5/56 and Darimi 2049]

Sunan Kubra Bayhaqi 1149

Arabic Text:

: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ (١١٥٠)
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
وَهْبٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ النَّسَوِيُّ
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا حَزْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ
وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ ابْنِ السَّبَّاقِ أَنَّ عَبْدَ
اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَيْمُونَةُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ -
أَصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمًا ، قَالَتْ مَيْمُونَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ
اسْتَنْكَرْتُ بَيْتَكَ مِنْذُ الْيَوْمِ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - ((: إِنْ جِبْرِيلَ
كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ

فَلَمْ يَلْقَنِي ، أَمَا وَاللَّهِ مَا أَخْلَفَنِي ((. قَالَ : فَظَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -
يَوْمَهُ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ
، فَسَطَّاطٌ لَنَا ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَائًا فَنَضَحَ مَكَانَهُ
فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لَهُ ((: قَدْ كُنْتَ
وَعَدْتَنِي أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَةَ ((. قَالَ : أَجَلٌ وَلَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا
فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ. فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - يَوْمَئِذٍ فَأَمَرَ بِقَتْلِ
الْكِلَابِ حَتَّى إِنَّهُ يَأْمُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ ، وَيَتْرُكُ
كَلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرِ.
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ حَزْمَلَةَ بْنِ يَحْيَى هَكَذَا.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: جس چیز کو کتے نے اپنے سارے بدن سے چھوا ہو وہ
نجس ہے جب ان میں سے کوئی ایک تر ہو
حدیث نمبر: 1149

ترجمہ:

(۱۱۵۰) (سیدنا عبداللہ بن عباس رض فرماتے ہیں کہ مجھ کو
میمونہ رض نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دن غم

گین حالت میں صبح کی۔ میمونہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں نے آج آپ کو جنبی حالت میں پایا ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جبرائیل نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آج رات آپ کو ملوں گا، اللہ کی قسم! وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ ﷺ غم گین تھے، پھر آپ ﷺ کے دل میں کتے کے بچے کا خیال آیا جو ہمارے خیمہ کے نیچے تھا۔ آپ ﷺ نے حکم دیا تو اس کو نکالا گیا، پھر اپنے ہاتھ میں پانی لیا اور اس جگہ پر چھینٹے مارے۔ صبح کو جبرائیل آپ ﷺ کو ملے۔ آپ نے فرمایا: آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ کل آپ مجھے ملو گے! انہوں نے کہا: جی ہاں! لیکن ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو۔ اس دن رسول اللہ ﷺ نے صبح ہی کتوں کو مارنے کا حکم دے دیا، حتیٰ کہ آپ نے چھوٹے باغ کے کتے کو بھی مارنے کا حکم دیا اور بڑے باغ کے کتے کو چھوڑ دیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Anything that a dog touches with

his whole body is najis (impure) when it is wet

Hadith number: 1149

Translation:

(1149) Abdullah ibn Abbas (may Allah be pleased with him) says that I was told by Maimuna (may Allah be pleased with her) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) woke up one morning in a state of grief. Maimuna said: O Messenger of Allah! I find a change in your mood today? The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: Jibreel promised me that I will meet you tonight, by Allah! He does not break promises. This is why the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) was grieving, then it occurred to him that there had been a puppy under our tent. He gave the order and it was taken

out, then he took water in his hand and sprinkled it on the spot. Jibreel met him in the morning. He said: You promised me that you would meet me tomorrow! He said: Yes! But we do not enter a house in which there is a dog or a picture. On that very morning, the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) ordered the dogs to be killed, he even ordered the small garden dogs to be killed and spared the big garden dogs. [Sahih. Narrated by Muslim 2105 and Nasai 4288 and Abu Dawud 4157 and Ahmad 6/330]

Sunan Kubra Bayhaqi 1150

Arabic Text:

وَبِهَكَذَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بِحَدِيثِ بَحْرِ بْنِ نَصْرِ (١١٥١)
مَقْرُونًا بِحَدِيثِ حَزْمَلَةَ. وَقَدْ أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي
فَوَائِدِ الشَّيْخِ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي فِي مُسْنَدِ ابْنِ
وَهْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا
بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقِ الْخَوْلَانِيُّ فِي جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ
سِتِّ وَسِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ بْنُ مُسْلِمٍ
الْقُرَشِيُّ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ الزُّهْرِيِّ
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَيْمُونَةُ زَوْجُ
النَّبِيِّ - ﷺ - : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - أَصْبَحَ يَوْمًا وَجَمًّا ... فَذَكَرَ
الْحَدِيثَ وَفِيهِ: ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ مَكَانَهُ. وَفِي حَدِيثِ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ -
وَرَوَاهُ شَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ

ابن السَّبَّاقِ عَنْ مَيْمُونَةَ

وَرَوَاهُ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ ابْنِ
شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ بِمَعْنَاهُ۔
وَرُوِيَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ۔

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: جس چیز کو کتے نے اپنے سارے بدن سے چھوا ہو وہ
نجس ہے جب ان میں سے کوئی ایک تر ہو

حدیث نمبر: 1150

:ترجمہ

(۱۱۵۱) (سیدنا ابن عباس^{رض}، حضرت مایمونہ^{رض} زوجہ رسول اللہ
ﷺ سے نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک دن غم گین
تھے،۔۔۔ اس میں ہے کہ پھر آپ نے پانی لیا اور اس جگہ پر
چھینٹے مارے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Anything that a dog touches with his whole body is najis (impure) when it is wet

Hadith number: 1150

Translation:

(1150) Syeduna Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) narrates from Hazrat Maimuna, the wife of the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him), that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) was sad one day..... in it (the hadith) is that he took some water and sprinkled it on that spot.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1151

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ (١١٥٢)
الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
عُزَيْرِ الْأَيْلِيِّ حَدَّثَنَا سَلَامَةُ عَنْ عُقَيْلٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ
أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ
... أَنَّ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - ﷺ - أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -
وَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ ((وَعَدَنِي جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّ
، يَلْقَانِي)) (- قَالَتْ مَيْمُونَةُ : وَكَانَ فِي بَيْتِي جَرُؤُ كَلْبٍ
فَأَخْرَجَهُ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - ثُمَّ نَضَحَ مَكَانَهُ بِالْمَاءِ -

وَفِي هَذَا وَفِي الَّذِي قَبْلَهُ مِنْ أَخْبَارِ الْوُلُوعِ دَلَالَةٌ عَلَى نَسْخِ مَا.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: جس چیز کو کتے نے اپنے سارے بدن سے چھوا ہو وہ
نجس ہے جب ان میں سے کوئی ایک تر ہو

حدیث نمبر: 1151

:ترجمہ

(۱۱۵۲) (سیدنا عبداللہ بن عباسؓ کو میمونہؓ نے خبر دی کہ
آپ ﷺ نے فرمایا: جبرائیل نے میرے ساتھ ملنے کا وعدہ کیا
تھا، فرماتی ہیں: گھر میں کتے کا بچہ تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے
اس کو نکال دیا، پھر اس جگہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Anything that a dog touches with his whole body is najis (impure) when it is wet

Hadith number: 1151

Translation:

(1151) Abdullah ibn Abbas (may Allah be pleased with him) was informed by Maimuna that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: Jibreel had promised to meet me. She says: There was a puppy in the house. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) expelled him, then sprinkled water on the spot.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1152

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ (١١٥٣) بِنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ الصَّائِغِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبِ بْنِ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ يُونُسَ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِي حَمْرَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ أَيْتُ فِي الْمَسْجِدِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - وَكُنْتُ فَتَى شَابًّا أَعْرَبَ، وَكَانَتْ الْكِلَابُ تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ فَقَالَ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَيْبِ بْنِ فَذَكَرَهُ مُخْتَصَرًا ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ : تَبُولُ -

وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى نَجَاسَةِ بَوْلِهَا ، وَوُجُوبِ الرَّشِّ عَلَى بَوْلِ الْإِنْسَانِ فَكَيْفَ الْكَلْبُ فَكَأَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ

أَمْرِهِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ وَغَسْلِ الْإِنَائِ مِنْ وُلُوغِهِ ، أَوْ كَانَ عِلْمَ
مَكَانِ بَوْلِهَا يَخْفَى عَلَيْهِمْ فَمَنْ عَلِمَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ غَسْلُهُ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: جس چیز کو کتے نے اپنے سارے بدن سے چھوا ہو وہ
نجس ہے جب ان میں سے کوئی ایک تر ہو

حدیث نمبر: 1152

:ترجمہ

(۱۱۵۳) (سیدنا عبداللہ بن عمر ^{رض} فرماتے ہیں کہ میں نبی ﷺ
کے زمانہ میں رات مسجد میں رہتا تھا اور میں کنوارا
نوجوان تھا، اس زمانے میں کتے پیشاب کرتے تھے اور
مسجد میں آتے جاتے تھے لیکن لوگ اس جگہ پر چھینٹے
نہیں مارتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Anything that a dog touches with his whole body is najis (impure) when it is wet

Hadith number: 1152

Translation:

(1152) Abdullah ibn Umar (may Allah be pleased with him) says that I used to stay in the mosque at night in the time of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) and I was young and single, in those days, dogs would urinate and come and go in the mosque, but people would not splash water on those spots.

[Sahih. Narrated by Bukhari 174 and Abu Dawud 382 and Ahmad 2/71]

Sunan Kubra Bayhaqi 1153

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ أَنْ أَخْبَرَنَا (١١٥٤)
أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّفَّارِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكِ وَابْنُ مِلْحَانَ قَالَا
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ : مُحَمَّدُ بْنُ (ح)
إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ
عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ
يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ
أَنْ يَنْزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا ، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلَ
الْخَنزِيرَ ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ وَيَفِيضَ الْمَالَ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ)) .
لَفْظُ حَدِيثِ قُتَيْبَةَ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ عَبْدِ أَنْ فِي حَدِيثِهِ الْجِزْيَةَ .

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ جَمِيعًا عَنْ قُتَيْبَةَ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: خنزیر کتے سے بھی بدتر ہے

امام شافعی (رح) فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا نام نجس رکھا ہے۔

حدیث نمبر: 1153

ترجمہ:

(۱۱۵۴) (سیدنا ابوہریرہ رض فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہء قدرت میں

میری جان ہے! قریب ہے ابن مریم انصاف کرنے والے حاکم

بن کر اتریں، وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل

کریں گے اور جزیہ کو معاف کریں گے اور مال بہہ پڑے گا

گا یہاں تک کہ اس کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A pig is even worse than a dog.

Imam Shafi'i (may Allah have mercy on him)

says that this is the reason why Allah

Almighty has named it najis (impure) in the

Holy Quran

Hadith number: 1153

Translation:

(1153) Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) says that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: I swear by the One in Whose hand is my soul! Ibn Maryam (Hazrat Isa) is soon about to descend as a just ruler, he will break the cross and kill the pig and abolish the jizya and wealth will be in abundance till no one will accept it (as charitable money).

[Sahih. Narrated by Bukhari 2222, 2476

and Muslim 155 and Ibn Majah 4078 and Ahmad 2/230, 272, 394, 482, 538]

Sunan Kubra Bayhaqi 1154

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ (١١٥٥)

اللَّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ سَلْمَةَ
 قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ
 - الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -
 إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَدْخُلُ يَدَهُ فِي إِيَّائِهِ - أَوْ قَالَ فِي :
 وَضُوئِهِ - حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ
 يَدُهُ)) -

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: تمام نجاستوں کو دھونا سنت ہے

حدیث نمبر: 1154

:ترجمہ

(۱۱۵۵) (سیدنا ابوہریرہ رضی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے
 فرمایا: جب کوئی بیدار ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ہاتھ برتن
 میں نہ ڈالیا فرمایا: پانی میں نہ ڈالے، جب تک اس کو تین
 مرتبہ نہ دھولے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ
 نے رات کہاں گزاری ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: It is Sunnah to wash away all impurities

Hadith number: 1154

Translation:

(1154) Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) says that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: When someone wakes up, he should not put his hand in the vessel. Or he said: Do not put it (hand) in the water until he has washed it three times, because he does not know where his hand has spent the night.

[Sahih. Narrated by Bukhari 162 and Muslim 278 and Nasai 1, 161, 441 and Abu Dawud 103, 105 and Tirmidhi 24 and Ibn

Majah 393 and Malik 2/6 and Ahmad 2/241
and Darimi 793]

Sunan Kubra Bayhaqi 1155

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ (١١٥٦)
السُّوسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو
جَعْفَرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ: عَبْدُ الْقُدُّوسِ

بُنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ الزُّبَيْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ
وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهٗ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -
إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا يَدْخُلُ يَدَهُ فِي الْإِنَائِ حَتَّى) :-
يُفْرِغَ عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَذْرَى أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ) (-).
وَكَذَلِكَ قَالَهُ ابْنُ بَرْمُزٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاکی کا بیان

باب: تمام نجاستوں کو دھونا سنت ہے

حدیث نمبر: 1155

:ترجمہ

(۱۱۵۶) (سیدنا ابوہریرہ ^{رض} فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے
فرمایا: جب کوئی رات کو اٹھے تو وہ اپنا ہاتھ برتن میں
نہڈالے، جب تک اس پر دو یا تین مرتبہ پانی نہ ڈال لے،
کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری
ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: It is Sunnah to wash away all impurities

Hadith number: 1155

Translation:

(1155) Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) says that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: When a person gets up at night, he should not put his hand in the vessel until he has washed it two or three times, because he does not know where his hand has spent the night.

[Sahih. Narrated by Bukhari 162 and Muslim 278 and Nasai 1, 161, 441 and Abu Dawud 103, 105 and Tirmidhi 24 and Ibn Majah 393 and Malik 2/6 and Ahmad 2/241 and Darimi 793]

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: ایک مرتبہ دھونے کا بیان
حدیث نمبر: 1156

ترجمہ:

(۱۱۵۷) سیدنا اسماءؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے ایک عورت نے حیض کے خون کے متعلق سوال کیا جو کپڑے کو لگ جاتا ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا: اس کو کھرچ، پھر پانی سے مل، پھر چھینٹے مار اور اس میں نماز پڑھ لے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on washing it once

Hadith number: 1156

Translation:

(1156) It is narrated on the authority of Asma (may Allah be pleased with him) that a woman asked the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) about the menstrual blood that gets onto clothes and he said: Scrape it, then wash it with water, then sprinkle water on it and pray in it.

[Sahih. Narrated by Bukhari 227 and Muslim 291 and Nasai 294, 350 and Abu Dawud 361 and Tirmidhi 138 and Ibn Majah 629 and Ahmad 6/345, 346, 353 and Darimi 799]

Sunan Kubra Bayhaqi 1157

Arabic Text:

: وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ (١١٥٨)
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ قُدَّامَةَ
حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِصْمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ قَالَ :كَانَتْ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ سَبْعَ
مِرَارٍ ، وَغَسَلَ التَّوْبِ مِنَ الْبَوْلِ سَبْعَ مِرَارٍ ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ -يَسْأَلُ حَتَّى جُعِلَتِ الصَّلَاةُ خَمْسًا ، وَالْغُسْلُ مِنَ
الْجَنَابَةِ مَرَّةً ، وَغَسَلَ التَّوْبِ مِنَ الْبَوْلِ مَرَّةً-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى
كتاب :پاکی کا بیان
باب :ایک مرتبہ دھونے کا بیان

حدیث نمبر: 1157

:ترجمہ

(۱۱۵۸) (سیدنا عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ نمازیں پچاس تھیں اور جنابت کا غسل سات مرتبہ تھا اور پیشاب کو کپڑوں سے دھونا سات مرتبہ تھا، رسول اللہ ﷺ برابر کمی کا سوال کرتے رہیحتی کہ نمازیں پانچ مقرر کی گئی اور جنابت کا غسل ایک مرتبہ اور پیشاب کا کپڑے سے دھونا بھی ایک مرتبہ رہ گیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on washing it once

Hadith number: 1157

Translation:

(1157) Abdullah ibn Umar (may Allah be pleased with him) said that the prayers were fifty and the ghusl due to major impurity was seven times and the washing

of urine from clothes was seven times. The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) kept asking, until the prayers were reduced to five times and the ghusl for major impurity was (reduced to) once and the washing of urine from a cloth was also (reduced to) only once.

[Daif (Weak). Narrated by Abu Dawud 247 and Ahmad 2/109]

Sunan Kubra Bayhaqi 1158

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدٌ (١١٥٩)
بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ قَالَ قَرِيٌّ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ
أَخْبَرَكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ -

قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَفَّانَ
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ

: كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ

أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا ، فَجَاءَتْ بِرَّةٌ

تَشْرَبُ مِنْهُ فَأَصْنَعِي لَهَا أَبُو قَتَادَةَ الْإِنَائِي حَتَّى شَرِبَتْ -

قَالَتْ كَبْشَةَ - فَرَأَيْتِ أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ : أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ

: أَخِي؟ قَالَتْ فَقُلْتُ : نَعَمْ - فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - قَالَ

يَنْ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ ((- إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِ))

بَكْدًا رَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فِي الْمَوْطِئِ ، وَقَدْ قَصَرَ بَعْضُ

الرُّوَاةِ بِرِوَايَتِهِ فَلَمْ يُقِمِ إِسْنَادَهُ -

قَالَ أَبُو عِيسَى: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيَّ
عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: جَوَّدَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ هَذَا الْحَدِيثَ وَرَوَايَتُهُ
أَصَحُّ مِنْ رَوَايَةِ غَيْرِهِ.
قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ رَوَاهُ حُسَيْنُ الْمُعَلِّمِ بِقَرِيبٍ مِنْ رَوَايَةِ مَالِكٍ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: بلی کے جھوٹے کا بیان
حدیث نمبر: 1158

:ترجمہ

(۱۱۵۹) (کبشہ بنت کعب بن مالک جو ابن ابوقتادہ کی بیوی
تھیں، ابوقتادہؓ ان کے پاس آئے تو انہوں نے وضو کا پانی
منگوا یا، اتنے میں بلی آئی اور اس سے پینے لگی۔ ابوقتادہ
نے برتن کو جھکا دیا یہاں تک کہ اس نے خوب پیا۔ کبشہ
کہتی ہیں: قتادہ نے مجھے دیکھا تو میں ان کی طرف تعجب
سے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا: اے بھتیجی! کیا تم تعجب
کرتی ہو؟

میں نے کہا: جی ہاں ابو قتادہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: وہ (بلی) نجس نہیں ہے، وہ تمہارے پاس چکر لگاتی رہتی ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on the saliva of a cat

Hadith number: 1158

Translation:

(1158) Kabshah bint Ka'b bin Malik was the wife of Ibn Abu Qatadah, when Abu Qatadah came to her, he asked for water for performing ablution. Abu Qatada tilted the vessel until it (a cat) drank well. Kabsha says: When Abu Qatadah saw me, I was looking at him in wonder. He said: O niece! Are you surprised? I said: Yes. Abu Qatada said: The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon

him) said: The (cat) is not najis (impure), they are those who roam around among you. [Sahih. Narrated by Nasai 68, 341 and Abu Dawud 75 and Tirmidhi 92 and Ibn Majah 367 and Ahmad 5/296, 303, 309 and Darimi 763]

Sunan Kubra Bayhaqi 1159

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِيُّ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١١٦٠)
بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ الْمُعَلَّمُ
عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أُمِّ يَحْيَى عَنْ
خَالَتِهَا بِنْتُ كَعْبٍ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا أَبُو قَتَادَةَ فَقَرَّبَنَا إِلَيْهِ
وَضُونًا ، فَدَنَا الْهَرُّ فَأَصْغَى إِلَيْهِ الْإِنَائِي فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ تَوَضَّأَ
بِفَضْلِهِ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَالْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ: كَأَنَّكَ تَعْجَبِينَ؟ قُلْتُ
نَعَمْ. قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - يَقُولُ ((لَيْسَ :
بِنَجَسٍ - أَوْ كَلِمَةً أُخْرَى :إِنَّمَا هُنَّ مِنَ الطَّوَافِينِ أَوْ الطَّوَافَاتِ
عَلَيْكُمْ))-

أُمُّ يَحْيَى بِي حُمَيْدَةَ وَابْنَةُ كَعْبٍ بِي كَبْشَةَ بِنْتُ كَعْبٍ -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان
باب: بلی کے جھوٹے کا بیان
حدیث نمبر: 1159

:ترجمہ

(۱۱۶۰) (ام یحییٰ اپنی خالہ بنت کعب سے نقل فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس ابو قتادہ آئے، ہم نے ان کے قریب پانی رکھا، اتنے میں ایک بلی آئی تو انہوں نے برتن جھکا دیا، بلی نے اس سے پیا، پھر وہ اس کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنے لگے، میں نے آپ کی طرف تعجب سے دیکھا، انہوں نے میری طرف جھانکا تو کہنے لگے: تم تعجب کر رہی ہو؟ میں نے کہا: جی ہاں، انہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: یہ (بلی) نجس نہیں ہے یا کوئی دوسرا لفظ کہا، وہ تم پر چکر لگاتی رہتی ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on the saliva of a cat

Hadith number: 1159

Translation:

(1159) Umm Yahya narrates from her aunt Bint Ka'b that Abu Qatadah came to us, we kept water near him, during this, a cat came so he tilted the vessel, the cat drank from it, then he started performing ablution with the remaining water, I looked at him in wonder, he looked at me and said: Are you surprised? I said: Yes. He said: I heard the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) saying: The (cat) is not najis (impure) or he used another word, they are those who roam around among you.

[Sahih. Narrated by Nasai 68, 341 and Abu Dawud 75 and Tirmidhi 92 and Ibn Majah 367 and Ahmad 5/296, 303, 309 and Darimi 763]

Sunan Kubra Bayhaqi 1160

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا (١١٦١)
أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّفَّارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ حَدَّثَنَا
الْحَوْضِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى

قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا
إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أُمُّ يَحْيَى -قَالَ
حَجَّاجٌ فِي رِوَايَتِهِ: يَعْنِي امْرَأَتَهُ- عَنْ خَالَتِهَا وَكَانَتْ عِنْدَ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ فَسَأَلَ
الْوَضُوءَ ، فَمَرَّتْ بِهِ الْهَرَّةُ فَأَصْغَى الْإِنَائِ إِلَىهَا ، فَجَعَلَتْ
أَنْظُرُ كَأَنِّي أَنْكِرُ مَا يَصْنَعُ

فَقَالَ يَا بِنْتَ أَخِي إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - قَالَ لَنَا ((: إِنَّهَا لَيْسَتْ
 بِنَجَسَةٍ إِنَّمَا بِي مِنَ الطَّوَّافِينَ وَالطَّوَّافَاتِ)) -
 وَفِي حَدِيثِ الْحَوْضِيِّ : إِنَّ خَالَتَهَا حَدَّثَتْهَا : أَنَّهَا كَانَتْ
 تَحْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، فَدَخَلَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَيْهَا ، فَدَعَا
 بِوَضُوءٍ فَمَرَّتْ بِهِ الْهَرَّةُ ، فَأَصْغَى الْإِنَائِ إِلَى إِلَيْهَا فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ
 إِلَيْهِ كَأَنَّهَا تُنْكِرُ مَا يَصْنَعُ - ثُمَّ الْبَاقِي مِثْلُهُ -
 وَقَدْ رُوِيَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ
 ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب : پاکی کا بیان
 باب : بلی کے جھوٹے کا بیان
 حدیث نمبر : 1160

:ترجمہ

(۱۱۶۱) (الف) ایک عورت اپنی خالہ سے نقل فرماتی ہے
 وہ عبداللہ بن ابی قتادہؓ کی بیوی تھیں کہ میرے پاس ابوقتادہؓ
 آئے اور انہوں نے پانی مانگا، اتنے میں ان کے پاس سے
 بلی گزری تو آپ نے برتن جھکا دیا، میں نے

انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھا گیا میں اس کا انکار کر رہی تھی تو انہوں نے فرمایا: اے بھتیجی! رسول اللہ ﷺ نے ہمیں فرمایا: وہ نجس نہیں ہے وہ تو تم پر چکر لگاتی رہتی ہے۔

(ب) (حوضی کی حدیث میں ہے کہ اس کی خالہ نے اس حدیث کو بیان کیا اور وہ عبداللہ بن ابی قتادہؓ کی بیوی تھی ان کے پاس ابو قتادہؓ آئے اور پانی منگوا یا، اتنے میں ایک بلی گزری۔ انہوں نے اس کے لیے برتن جھکا دیا، قتادہ کی بیوی ان کی طرف دیکھنا شروع ہوئی گویا جو وہ کر رہے تھے اس کا انکار کر رہی تھی باقی حدیث اس طرح ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on the saliva of a cat

Hadith number: 1160

Translation:

(1160) (a) A woman narrates from her aunt, she was the wife of Abdullah ibn Abi

Qatadah, when Abu Qatadah came to me and asked for water, a cat passed by him, he tilted the vessel. I looked at him with questioning eyes as if I was denying it. He said: O niece! The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said to us: It is not najis (impure), they are those who roam around among you.

(B) According to the hadith of Hudhi, her aunt narrated this hadith and she was the wife of Abdullah ibn Abi Qatadah and he asked for water, and a cat passed by. He tilted the vessel for her. Ibn Abi Qatadah's wife started looking at him as if she was denying what he was doing. The rest of the hadith is as follows.

[Sahih. Narrated by Nasai 68, 341 and Abu Dawud 75 and Tirmidhi 92 and Ibn Majah 367 and Ahmad 5/296, 303, 309 and Darimi 763]

Sunan Kubra Bayhaqi 1161

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ بْنِ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ (١١٦٢)
عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا تَمْتَامٌ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي
كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ
: فَمَرَّتْ بِهِ بِرَّةٌ فَأَصْنَعِيَ إِلَيْهَا وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - قَالَ
((لَيْسَتْ بِنَجِسٍ)) -

وَقَدْ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنِ النَّقَّاعِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ -
وَرُوِيَ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: بلی کے جھوٹے کا بیان
حدیث نمبر: 1161

:ترجمہ

(۱۱۶۲) (سیدنا عبداللہ بن ابی قتادہؓ اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں کہ وہ وضو کر رہے تھے، ایک بلی گزری تو انہوں نے اس کی طرف برتن جھکا دیا اور کہا: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہ نجس نہیں ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on the saliva of a cat

Hadith number: 1161

Translation:

(1161) Abdullah ibn Abi Qatadah narrates from his father that he was performing ablution. When a cat passed by, he tilted the vessel towards it and said: The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: It is not najis (impure). [Hasan Li Ghayrihi (Fair due to external evidence)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1162

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِيُّ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١١٦٣)
بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ
الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ قَتَادَةَ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ أَبُو قَتَادَةَ يُصْنَعِي
: الإِنَاءَ لِلْهَرِّ فَيُشْرَبُ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ بِهِ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ
مَا صَنَعْتُ إِلَّا مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - يَصْنَعُ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: بلی کے جھوٹے کا بیان
حدیث نمبر: 1162

:ترجمہ

(١١٦٣) (عبداللہ بن ابی قتادہ^{رض} اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں
کہ ابو قتادہ^{رض} بلی کے لیے برتن جھکا دیتے تھے، وہ

پی لیتی۔ پھر اس سے وضو کرتے۔ ابو قتادہ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا: یہ جو میں نے کیا ہے یہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on the saliva of a cat

Hadith number: 1162

Translation:

(1162) Abdullah ibn Abi Qatadah narrates from his father that Abu Qatadah used to tilt the vessel for a cat, it would drink (from it). Then he would perform ablution with it. When Abu Qatadah was asked about this, he said: I have seen the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) doing what I did.

[Hasan Li Ghayrihi (Fair due to external

evidence)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1163

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَائِرٍ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا أَبُو عَثْمَانَ الْبَصْرِيُّ (١١٦٤)
حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ
عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ
أَبَا قَتَادَةَ يُقَرِّبُ طَهُورَهُ إِلَى الْهَرَّةِ فَتَشْرَبُ مِنْهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ بِسُورِهَا -
وَكَلُّ ذَلِكَ شَاهِدٌ لِصِحَّةِ رِوَايَةِ مَالِكٍ - وَمِنْ شَوَاهِدِهِ مَا -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: بلی کے جھوٹے کا بیان
حدیث نمبر: 1163

ترجمہ:

(۱۱۶۴) عکرمہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو قتادہؓ کو دیکھا وہ وضو کا پانی بلی کے قریب کرتے، وہ اس سے پیتی اور پھر اس کے جھوٹے سے وضو کرتے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on the saliva of a cat

Hadith number: 1163

Translation:

(1163) Ikrima says that I saw Abu

Qatadah, he used to do place his ablution water near the cat, it (the cat) would drink from it and then he used to perform ablution with the water it (the cat) drank from.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence). Narrated by Ibn Jad in his Musnad 2756]

Sunan Kubra Bayhaqi 1164

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ (١١٦٥)
أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى الْقَاضِي بِخَارِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرِ الرَّازِيِّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ
بْنُ مُسَافِعِ بْنِ شَيْبَةَ الْحَجَبِيُّ قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُورَ ابْنَ صَفِيَّةَ
بِنْتِ شَيْبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ صَفِيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -
ﷺ - قَالَ فِي الْهَرَّةِ ((إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ ، بِي كَبْعُضِ أَهْلِ
الْبَيْتِ)) -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: بلی کے جھوٹے کا بیان
حدیث نمبر: 1164

ترجمہ:

(1165) (سیدہ عائشہ^{رض} سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے
بلی کے متعلق فرمایا: وہ نجس نہیں ہے، وہ بھی

گھر والوں کی طرح ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on the saliva of a cat

Hadith number: 1164

Translation:

(1164) It is narrated on the authority of Ayesha (may Allah be pleased with her) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said about cats: They are not najis (impure), they are like the people in your home.

[Hasan Li Ghayrihi (Fair due to external evidence). Narrated by Ibn Khuzaymah 2/1]

Sunan Kubra Bayhaqi 1165

Arabic Text:

وَمِنْهَا مَا أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيَى (١١٦٦)
الْخَطِيبُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَحْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ كَوْثَرَ حَدَّثَنَا
بِشْرِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْحَمِيدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ
أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ صَالِحِ التَّمَّارِ عَنْ أُمِّهِ: أَنَّ مَوْلَاةً لَهَا
أَبْدَتْ إِلَى عَائِشَةَ صَحْفَةَ هَرَيْسَةَ ، فَجَاءَتْ بِهَا وَعَائِشَةُ قَائِمَةٌ
تُصَلِّي ، فَأَشَارَتْ إِلَيْهَا عَائِشَةُ أَنْ ضَعِيفًا فَوَضَعَتْهَا وَعِنْدَ
عَائِشَةَ نِسْوَةٌ ، فَجَاءَتْ بِهَا الْهَرَّةُ فَأَكَلَتْ مِنْهَا أَكْلَةً - أَوْ قَالَ
لُقْمَةً - فَلَمَّا انْصَرَفَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ لِلنِّسْوَةِ: كُلْنَ - فَجَعَلْنَ يَتَّقِينَ
مَوْضِعَ فَمِ الْهَرَّةِ ، فَأَخَذَتْهَا عَائِشَةُ فَأَدَارَتْهَا ثُمَّ أَكَلَتْهَا وَقَالَتْ إِنَّ
رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ ((إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنْ
الطَّوَّافِينَ

وَالطَّوَّافَاتِ عَلَيْكُمْ ((. وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا -
وَرُويَ مِنْ أَوْجِهٍ أُخَرَ عَنْ عَائِشَةَ فِي مَعْنَاهُ وَفِيمَا ذَكَرْنَا كِفَايَةً.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: بلی کے جھوٹے کا بیان

حدیث نمبر: 1165

:ترجمہ

(۱۱۶۶) (داؤد بن صالح تمار اپنی والدہ سے نقل فرماتے ہیں کہ اس کی لونڈی نے عائشہ^{رض} کی طرف حلوے کا پیالہ بطور ہدیہ بھیجا، وہ لے آئی۔ جبکہ سیدہ عائشہ^{رض} کھڑی نماز پڑھ رہی تھیں، عائشہ^{رض} نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ اسے رکھ دے، اس نے رکھ دیا۔ سیدہ عائشہ^{رض} کے پاس عورتیں تھیں بلی آئی اور اس میں سے ایک بار کھایا یا ایک لقمہ کھایا۔ جب بلی چلی گئی تو سیدہ عائشہ^{رض} نے عورتوں کو کہا: تم بلی کے منہ کی جگہ سے بچتی ہو۔ پھر سیدہ عائشہ^{رض} نے اس کو پکڑا

گر گھمایا پھر کھایا اور کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
یہ نجس نہیں ہے، وہ تو تم پر چکر لگاتی رہتی ہے، نیز
میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا۔ آپ اس کے بچے ہوئے پانی
سے وضو کرتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on the saliva of a cat

Hadith number: 1165

Translation:

(1165) Dawood bin Saleh Tamar narrates from his mother that her slave girl sent a pot of sweets to Ayesha (may Allah be pleased with her) as a gift. She brought it while Ayesha was praying standing up, Ayesha (may Allah be pleased with her) signalled her to put it down, she put it down. Ayesha (may Allah be pleased with her) had women (at her place), a cat came

and ate one of them or ate a bite. When the cat left, Ayesha (may Allah be pleased with her) said to the women: Do you avoid the place where the cat's mouth touched. Then Ayesha grabbed it, turned it around, ate it (from the place where the cat had eaten from) and said that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: They are not najis (impure), also, I saw the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him). He used to perform ablution with the water leftover (by a cat).

[Sahih. Narrated by Abu Dawud 76]

Sunan Kubra Bayhaqi 1166

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخَطِيبُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَحْرٍ (١١٦٧)
الْبَرْبَهَارِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْحَمِيدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
أَخْبَرَنَا الرَّكَّيْنِيُّ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ عَمَّةٍ لَهُ يُقَالُ لَهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ
عَمِيلَةَ: أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ سُئِلَ عَنْ سُورِ الْهَرَّةِ فَلَمْ يَرِ بِهِ
بَأْسًا.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: بلی کے جھوٹے کا بیان
حدیث نمبر: 1166

ترجمہ:

(۱۱۶۷) (سیدنا حسین بن علیؓ سے بلی کے جھوٹے کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے اس میں کوئی حرج بیان نہیں فرمایا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on the saliva of a cat

Hadith number: 1166

Translation:

(1166) When Hussain bin Ali (may Allah be pleased with him) was asked about a cat drinking from a vessel, he did not see any problem with it.

[Daif (Weak). Narrated by AbdulRazzaq 357]

Sunan Kubra Bayhaqi 1167

Arabic Text:

: وَأَمَّا الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرِ (١١٦٨)
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ الْفَقِيهِ حَدَّثَنَا
بَكَّارُ بْنُ قُنَيْبَةَ وَحَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَنبَسَةَ قَالَ حَدَّثَنَا
أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((: طُهورُ الإنائِ إِذَا
وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ الْأُولَى بِالْتَرَابِ ، وَالْهَرَّةُ
مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ)) (- قُرَّةُ يَشْكُ -
وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ -

وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ حُزَيْمَةَ عَنْ بَكَّارِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ
أَبِي عَاصِمٍ وَالْهَرَّةِ مِثْلُ ذَلِكَ.
وَأَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ثِقَةٌ إِلَّا أَنَّهُ أَخْطَأَ فِي إِدْرَاجِ
قَوْلِ أَبِي بُرَيْرَةَ فِي الْهَرَّةِ فِي الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ فِي الْكَلْبِ.
وَقَدْ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ الْجَهْضَمِيُّ عَنْ قُرَّةَ فَبَيَّنَهُ بَيَانًا شَافِيًا.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: بلی کے جھوٹے کا بیان
حدیث نمبر: 1167

:ترجمہ

(۱۱۶۸) (سیدنا ابوہریرہ ^{رض} فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: برتن کی پاکی جب کتا اس میں منہ ڈال جائے یہ ہے کہ اسے سات مرتبہ دھوئے، پہلی مرتبہ مٹی سے اور بلی سے ایک مرتبہ یا دو مرتبہ دھوؤ۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on the saliva of a cat

Hadith number: 1167

Translation:

(1167) Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) says that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: When a dog licks a vessel, its purification is to wash it seven times, the first time with sand and (purification) for the cat is washing (the vessel) once or twice.

[Sahih. Narrated by Al-Daraqutni 1/64]

Sunan Kubra Bayhaqi 1168

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ (١١٦٩)
الْمُزَنِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ: الْحَسَنُ بْنُ سُلَيْمَانَ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا
نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ ((: طُهُورُ
إِنَائِي أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْلَابِنَ
بِالتُّرَابِ)) - ثُمَّ ذَكَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ الْهَرَّ لَا أَدْرِي قَالَهُ مَرَّةً أَوْ
مَرَّتَيْنِ -

قَالَ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ: وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ أَبِي فِي مَوْضِعٍ آخَرَ
، عَنْ قُرَّةَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْكَلْبِ مُسْنَدًا
وَفِي الْهَرِّ مَوْقُوفًا -

قَالَ الشَّيْخُ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ قُرَّةَ مَوْقُوفًا فِي الْهَرَّةِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: بلی کے جھوٹے کا بیان
حدیث نمبر: 1168

:ترجمہ

(۱۱۶۹) (سیدنا ابوہریرہ ^{رض} سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جب کتا کسی برتن میں منہ ڈال جائے تو اس کی پاکی پاکی اس طرح ہے کہ اس کو سات مرتبہ دھوؤ اور پہلی، مرتبہ مٹی سے، پھر ابوہریرہ ^{رض} نے بلی کے متعلق ذکر کیا، میں نہیں جانتا کہ ایک مرتبہ یاد و مرتبہ کہا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on the saliva of a cat

Hadith number: 1168

Translation:

(1168) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: When a dog licks a vessel, its purification is such that it should be washed seven times and the first time with sand, then Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) mentions about the cat, I don't know whether he said (to wash it) once or twice.

[Sahih. Narrated by Hakim 1/365]

Sunan Kubra Bayhaqi 1169

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ (١١٧٠)
الْفَقِيهَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَيْسَى الْبَرْثِيُّ قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ
بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو
مُحَمَّدِ الْمُزَنِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
فِي الْهَرِّ يَلُغُ فِي الْإِنَائِ قَالَ يُغْسَلُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ -
وَرَوَاهُ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ كَذَلِكَ مَوْفُوقًا.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان
باب: بلی کے جھوٹے کا بیان
حدیث نمبر: 1169

:ترجمہ

(۱۱۷۰) (سیدنا ابو ہریرہ ^{رض} ایسی بلی کے متعلق بیان فرماتے ہیں، جو برتن میں منہ ڈال جائے کہ ایک یا دو مرتبہ دھویا جائے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on the saliva of a cat

Hadith number: 1169

Translation:

(1169) Syeduna Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) narrates about a cat which licks a vessel that it should be washed once or twice.

[Sahih. Narrated by Hakim 1/365]

Sunan Kubra Bayhaqi 1170

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذِبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ (١١٧١)
دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ
عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِذَا وَلَغَ الْهَرُّ غُسِلَ مَرَّةً.
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ.
وَغَلَطَ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْقَاصِبِيُّ فَرَوَاهُ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ
عَنْ أَيُّوبَ مُدْرَجًا فِي الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى
كتاب: پاكى كا بيان
باب: بلى كے جھوٹے كا بيان
حدیث نمبر: 1170

:ترجمہ

(۱۱۷۱) ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ جب بلی منہ ڈال جائے تو اس کو ایک مرتبہ دھویا جائے گا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on the saliva of a cat

Hadith number: 1170

Translation:

(1170) Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) says that when a cat licks (a vessel), it should be washed once.

[Sahih. Narrated by Abu Dawud 72 and

Sunan Kubra Bayhaqi 1171

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ وَأَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي (١١٧٢)
عَمْرٍو قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكْرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ بَنِي سَابُورَ وَأَبُو الْقَاسِمِ (ح)
طَلْحَةُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الصَّقْرِ بِبَغْدَادَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ : أَحْمَدُ
بْنُ عُثْمَانَ بْنِ يَحْيَى الْأَدْمِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ
الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْقَصَبِيُّ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي
بُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَائِي
أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْ لَابْنٍ أَوْ أَخْرَابِنٍ بِالتُّرَابِ
(وَالسِّنُّورُ مَرَّةً

وَرَوَاهُ أَيْضًا حَفْصُ بْنُ وَاقِدٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ
أَبِي بُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا مُدْرَجًا فِي الْحَدِيثِ وَرَوَاهُ الْجَمَاعَةُ أَوْلَى-
وَرَوَاهُ بِشَّامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي بُرَيْرَةَ فِي سُورِ
السِّنُّورِ يُهْرَاقُ وَيُغْسَلُ الْإِنَائِيُّ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: بلی کے جھوٹے کا بیان
حدیث نمبر: 1171

:ترجمہ

(۱۱۷۲) (الف) (سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب کتا کسی کے برتن میں منہ ڈال جائے تو اس کو سات مرتبہ دھوؤ۔ پہلی یا آخری مرتبہ

مٹی سے اور بلی سے ایک مرتبہ۔
(ب) (سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ) کے جھوٹے کے متعلق کہتے ہیں کہ
بہایا جائے گا اور برتن ایک یا دو مرتبہ دھویا جائے گا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on the saliva of a cat

Hadith number: 1171

Translation:

(1171) (a) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: When a dog licks someone's vessel, wash it seven times. The first or last time with sand and (wash) once for the cat.

(B) Abu Hurayrah (may Allah be pleased

with him) says about a vessel from which a cat has drunk from that its (contents) will be poured out and the vessel will be washed once or twice.

[Sahih. Narrated by Tirmidhi 91]

Sunan Kubra Bayhaqi 1172

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ (١١٧٣)
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا وَهْبُ
بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا بِشَامٌ فَذَكَرَهُ.
وَرَوَى لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ عَطَائٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِذَا وَلَغَ
السِّنُّورُ فِي الْإِنَائِ غُسِلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ. وَإِنَّمَا رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ
وغيره عَنْ عَطَائٍ مِنْ قَوْلِهِ. وَرَوَى مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: بلی کے جھوٹے کا بیان
حدیث نمبر: 1172

ترجمہ:

(١١٧٣) (سیدنا ابوہریرہ ^{رض} سے روایت ہے کہ جب بلی برتن
میں منہ ڈال جائے تو اسے سات مرتبہ دھویا جائے گا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on the saliva of a cat

Hadith number: 1172

Translation:

(1172) It is narrated from Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that when a cat licks a vessel, it should be washed seven times.

[Sahih. Narrated by Tahawi 1/20]

Sunan Kubra Bayhaqi 1173

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي وَأَبُو (١١٧٤)
عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ
أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: يُغَسَّلُ الْإِنَائِيُّ مِنْ وُلُوعِ الْهَرِّ
كَمَا يُغَسَّلُ مِنَ الْكَلْبِ.
بَكَّدَا رَوَاهُ ابْنُ عَفِيرٍ مَوْقُوفًا.
وَرُوي عَنْ رَوْحِ بْنِ الْفَرَجِ عَنْ ابْنِ عَفِيرٍ مَرْفُوعًا وَلَيْسَ بِشَيْءٍ -
وَقَدْ قِيلَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ قَالَ أَخْبَرَنِي خَيْرُ بْنُ نَعِيمٍ عَنْ
أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: بلی کے جھوٹے کا بیان
حدیث نمبر: 1173

:ترجمہ

(1173) (سیدنا ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ بلی کے منہ ڈالنے سے برتن دھویا جائے گا، جس طرح کتے کے منہ ڈالنے سے دھویا جاتا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on the saliva of a cat

Hadith number: 1173

Translation:

(1173) Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) says that the vessel that is licked by a cat requires it to be washed in the same way (a vessel) is washed

when a dog licks it.

[Daif (Weak). Narrated by Tahawi in Sharh Ma'ani 1/20]

Sunan Kubra Bayhaqi 1174

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَارِثِيُّ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ (١١٧٥)
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا عَلَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ
حَدَّثَنَا

ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ... فَذَكَرَهُ.
وَقَدْ يُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - مَا هُوَ حُجَّةٌ
وَالْأَفْهَمُ مَحْجُوجٌ بِمَا تَقَدَّمَ عَلَيْهِ فِي فِتْنَاهُ فِي الْهَرَّةِ إِنْ صَحَّ ذَلِكَ
تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ وَعَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: بلی کے جھوٹے کا بیان
حدیث نمبر: 1174

ترجمہ:

(۱۱۷۵) (یحییٰ بن ایوب نے اس کو بیان کیا ہے۔
ب) (ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ سے جو بیان کیا وہ بلی کے
متعلقہ نہیں ہے بلکہ صحیح وہ ہے جو پہلے ابوقتادہ اور
عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں گزر چکا ہے کہ وہ تم پر چکر لگاتی
رہتی ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on the saliva of a cat

Hadith number: 1174

Translation:

(1174) Yahya bin Ayub has narrated this.

(B) What Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) has narrated from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) about the cat is not reliable, but what is authentic are the ahadeeth which have already been narrated from Abu Qatadah and Ayesha (may Allah be pleased with them) that they are those who roam around among you.

[Daif (Weak). Narrated by Tahawi 1/20]

Sunan Kubra Bayhaqi 1175

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي حَدَّثَنَا أَبُو (١١٧٦)
الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو
النَّضْرِ: يَاسِئُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عِيسَى يَعْنِي ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ
حَدَّثَنِي أَبُو زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ -يَأْتِي
دَارَ قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَدُونَهُمْ دَارٌ يَعْنِي لَأَيَاتِيهَا، فَشَقَّ
ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَأْتِي دَارَ فُلَانٍ وَلَا تَأْتِي
دَارِنَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ - ((: إِنَّ فِي دَارِكُمْ كَلْبًا)) - قَالَ: فَإِنَّ
فِي دَارِهِمْ سِنُورًا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ - ((: السِّنُورُ سَبْعُ)) -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: بلی کے جھوٹے کا بیان
حدیث نمبر: 1175

ترجمہ:

(۱۱۷۶) (سیدنا ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ انصار کے گھروں میں آئے اور ان کے علاوہ بھی گھر تھے ان میں نہیں، آئے ان پر یہ گراں گزرا، انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ فلاں فلاں کے گھروں میں جاتے ہیں اور ہمارے گھروں میں نہیں آتے۔ نبی ﷺ نے فرمایا: تمہارے گھروں میں کتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ ان کے گھروں میں بلی تھی۔ نبی ﷺ نے فرمایا: بلی بھی درندہ ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on the saliva of a cat

Hadith number: 1175

Translation:

(1175) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) visited the houses of the Ansaar and there were houses besides them but he didn't visit them, they said: Oh Messenger of Allah! You go to so-and-so's house and don't come to our house. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: There are dogs in your house. The narrator says that there was a cat in their house. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: The cat is also a beast.

[Daif (Weak). Narrated by Ahmad 2/327]

Sunan Kubra Bayhaqi 1176

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ :عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ (١١٧٨)
السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّقَّارُ حَدَّثَنَا
عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّرْقُفِيُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا
الْحَكَمُ -يَعْنِي ابْنَ أَبَانَ -عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - ((:الْهَرُّ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ)) -.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان
باب: بلی کے جھوٹے کا بیان
حدیث نمبر: 1176

ترجمہ:

(۱۱۷۷) (سیدنا ابوہریرہ ^{رض} فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بلی گھر کے سامان کی طرح ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on the saliva of a cat

Hadith number: 1176

Translation:

(1176) Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) says that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: A cat is like a household item.

[Daif (Weak). Narrated by Ibn Majah 369]

Sunan Kubra Bayhaqi 1177

Arabic Text:

: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ (١١٧٨)
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَ وَضَاءٌ
بِمَا أَفْضَلْتَ الْحُمْرُ؟ قَالَ ((نَعَمْ وَبِمَا أَفْضَلْتَ السِّبَاعُ كُلُّهَا)) (-).

وَفِي غَيْرِ رَوَايَتِنَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَخْبَرَنَا عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ
دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ بِمِثْلِهِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: خنزیر اور کتے کے علاوہ تمام حیوانات کے جھوٹے

کا حکم

حدیث نمبر: 1177

ترجمہ:

(۱۱۷۸) (سیدنا جابر بن عبداللہ^{رض} سے روایت ہے کہ آپ ﷺ سے عرض کیا گیا: اے اللہ کے رسول! کیا ہم گدھوں کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر لیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں تمام درندوں کے بچے ہوئے سے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on the saliva of a cat

Hadith number: 1177

Translation:

(1177) It is narrated on the authority of Jabir bin Abdullah (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) was asked: O Messenger of Allah! Should we perform ablution with the water left over from donkeys? He said: Yes, from the leftover of all the beasts.

[Daif (Weak). Narrated by Shafi'i in his Musnad 10]

Sunan Kubra Bayhaqi 1178

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصُّوفِيُّ أَخْبَرَنَا (١١٧٩)
أَبُو أَحْمَدَ بْنِ عَدِيِّ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيِّ الْمَوْصِلِيُّ
حَدَّثَنَا بِسْطَامُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الْمُخْتَارِ الْمَوْصِلِيُّ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ
بْنُ أَبِي يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - سُئِلَ أَنْتَوَضَّأَ بِمَا أَفْضَلَتْ
الْحُمْرُ؟ قَالَ ((نَعَمْ وَبِمَا أَفْضَلَتْ السِّبَاعُ)) (-
وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ -
وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى الْأَسْلَمِيُّ مُخْتَلَفٌ فِي ثِقَتِهِ ضَعْفُهُ أَكْثَرُ
أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ وَطَعَنُوا فِيهِ وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يُبْعِدُهُ عَنِ الْكُذْبِ -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الصُّوفِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنِ عَدِيِّ

الْحَافِظُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ سَمِعْتُ الرَّبِيعَ يَقُولُ سَمِعْتُ
الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى قَدْرِيًّا. قُلْتُ
لِلرَّبِيعِ: فَمَا حَمَلَ الشَّافِعِيَّ عَلَى أَنْ رَوَى عَنْهُ؟ قَالَ: كَانَ
يَقُولُ لَأَنَّ يَخْرَ إِبْرَاهِيمُ مِنْ بَعْدِ أَحَبِّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكْذِبَ وَكَانَ
ثِقَةً فِي الْحَدِيثِ.

قَالَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ قَدْ نَظَرْتُ أَنَا فِي أَحَادِيثِهِ فَلَيْسَ
فِيهَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ ، وَإِنَّمَا يَرَوِي الْمُنْكَرُ إِذَا كَانَ الْعَهْدَةُ مِنْ
قَبْلِ الرَّاَوِي عَنْهُ أَوْ مِنْ قَبْلِ مَنْ يَرَوِي إِبْرَاهِيمُ عَنْهُ.
قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ تَابَعَهُ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ
الْحُصَيْنِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ الْأَشْهَلِيَّ وَقَدْ
ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِ الْمَعْرِفَةِ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: خنزیر اور کتے کے علاوہ تمام حیوانات کے جھوٹے
کا حکم

حدیث نمبر: 1178

:ترجمہ

(۱۱۷۹) (الف) (سیدنا جابر بن عبد اللہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا کہ کیا ہم گدھوں کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر لیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں اور درندوں کے بچے ہوئے سے بھی۔

(ب) (ابراہیم بن ابویحییٰ اسلمی کے ثقہ ہونے میں روایات مختلف ہیں۔ اکثر محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے اور اس پر جرح بھی کی ہے۔

(ج) (امام شافعی) رح (فرماتے ہیں کہ ابراہیم بن ابویحییٰ قدری تھا، میں نے ربیع سے کہا: پھر کس بات نے امام شافعی) رح (کو اس سے نقل کرنے پر ابھارا؟ انہوں نے فرمایا: ابراہیم بعد میں جھوٹ کو موت سے بھی زیادہ ناپسند کرتا تھا اور وہ حدیث میں با اعتماد تھا۔

(د) (ابو احمد کہتے ہیں کہ میں نے اس کی احادیث دیکھیں ہیں، ان میں کوئی حدیث منکر نہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on the saliva of all animals

except pigs

Hadith number: 1178

Translation:

(1178) (a) It is narrated on the authority of Jabir bin Abdullah (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) was asked: Do we perform ablution with the water left over from donkeys? He said: Yes, and also from the leftover (water) of the beasts.

(B) There are different narrations regarding the trustworthiness of Ibrahim bin Abu Yahya Aslami. Many times muhadditheen have called him weak and many have also questioned it.

(C) Imam Shafi'i (may Allah have mercy on him) says that Ibrahim ibn Abu Yahya was

Qadiri, I said to Rabi: Then what made Imam Shafi'i (may Allah have mercy on him) narrate from him? He said: Ibrahim later disliked lying more than death and he was confident in hadith.

(D) Abu Ahmad says that I have seen his ahadith, none of them is munkar.

[Daif (Weak). Narrated by Shafi'i in his Musnad 10]

Sunan Kubra Bayhaqi 1179

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ (١١٨٠)
عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ
سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ
ابْنِ أَبِي حَبِيبَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ
قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَوَضَّأُ بِمَا أَفْضَلَتِ الْحُمْرُ؟ فَقَالَ ((وَبِمَا
أَفْضَلَتِ السَّبَاعُ)) (-).

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاکی کا بیان

باب: خنزیر اور کتے کے علاوہ تمام حیوانات کے جھوٹے

کا حکم

حدیث نمبر: 1179

:ترجمہ

(۱۱۸۰) (سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا: اے اللہ کے رسول! کیا ہم گدھوں کے بچے ہوئے پانی سے وضو کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: درندوں کے بچے ہوئے سے بھی کرلو۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on the saliva of all animals except pigs

Hadith number: 1179

Translation:

(1179) Jabir bin Abdullah says that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) was asked: O Messenger of Allah! Should we perform ablution with the water left over from donkeys? He said: You can even perform it with the leftover (water) of the beasts.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1180

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَأَبُو نَصْرِ: عُمَرُ بْنُ (١١٨١)
عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ قَالَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو بْنُ نُجَيْدٍ
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ
حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
الْحَارِثِ التَّمِيمِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ: أَنَّ عُمَرَ
بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ فِي رَكْبٍ فِيهِمْ عَمْرُو

بُنُّ الْعَاصِ حَتَّى وَرَدُوا حَوْضًا فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ
لِصَاحِبِ الْحَوْضِ: يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ هَلْ تَرِدُ حَوْضَكَ
السَّبَاعُ؟ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْخَطَّابِ: يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ لَا
تُخْبِرُنَا فَإِنَّا نَرِدُ عَلَى السَّبَاعِ وَتَرِدُ عَلَيْنَا.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: خنزیر اور کتے کے علاوہ تمام حیوانات کے جھوٹے
کا حکم

حدیث نمبر: 1180

:ترجمہ

(۱۱۸۱) (یحییٰ بن عبد الرحمن بن حاطب سے روایت ہے کہ
عمر بن خطابؓ ایک قافلے میں نکلے، اس میں عمرو بن
عاصؓ بھی تھے۔ جب وہ حوض کے پاس آئیتو عمرو بن
عاص نے حوض والے کو کہا: اے حوض والے! کیا تیرے
حوض پر درندے آتے ہیں؟ عمر بن خطابؓ نے کہا: اے
حوض والے! ہمیں اس کی خبر نہ دے؛ کیونکہ درندے
ہمارے پاس اور ہم ان کے پاس آتے جاتے رہتے

ہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on the saliva of all animals except pigs

Hadith number: 1180

Translation:

(1180) It is narrated on the authority of Yahya ibn Abd al-Rahman ibn Hatib that Umar ibn al-Khattab (may Allah be pleased with him) went out in a caravan, Amr ibn Aas was also there. When they came to a watering place, Amr bin Aas (may Allah be pleased with him) said to the owner of the watering place: O pool man! Do beasts come to your watering place? Umar ibn al-Khattab (may Allah be pleased with him) said: O pool man! Don't tell us about it;

because the beasts come to us and we go to them.

[Daif (Weak). Narrated by Malik 2/12]

Sunan Kubra Bayhaqi 1181

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بَغْدَادَ أَخْبَرَنَا (١١٨٢)
إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ

أَخْبَرَنَا مُعَلَّى يَعْنِي ابْنَ مَنْصُورٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي خَالِدٌ عَنْ
يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِسُورِ الْحِمَارِ وَالْبُغْلِ بَأْسًا.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاکی کا بیان

باب: خنزیر اور کتے کے علاوہ تمام حیوانات کے جھوٹے

کا حکم

حدیث نمبر: 1181

:ترجمہ

(۱۱۸۲) (حسن سے روایت ہے کہ وہ گدھے اور خچر کے
جھوٹے میں کوئی حرج خیال نہیں کرتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on the saliva of all animals
except pigs

Hadith number: 1181

Translation:

(1181) It is narrated from Hasan that he did not think of any harm in the water of a donkey or a mule.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1182

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ : عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ (١١٨٣)
بِشْرَانَ الْعَدْلُ بَبْغَدَادَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ
الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - (-) : (مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ
صَيْدٍ أَوْ زُرْعٍ انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ) (-).
: قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَذَكَرَ لِابْنِ عُمَرَ قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ
يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ صَاحِبَ زُرْعٍ -
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ
وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ -
: وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ
قِيرَاطَانِ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

کتاب: پاکی کا بیان

باب: کتے کے دیگر جانوروں سے الگ حکم رکھنے والی
احادیث کا مختصر بیان

حدیث نمبر: 1182

:ترجمہ

(۱۱۸۳) (سیدنا ابوہریرہ رض سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے سوائے جانوروں کی رکھوالی، شکار یا کھیتی کے علاوہ کتا رکھاتو ہر دن اس کے اجر سے ایک قیراط (ثواب کم ہوگا۔

ب) (زہری کہتے ہیں کہ ابن عمر رض سے ابوہریرہ رض کا قول ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا: اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے وہ کھیتی باڑی کرتے تھے۔

ج) (سیدنا سعید بن مسیب سے انہوں نے ابوہریرہ رض کی حدیث بیان کی ہے اس میں ہے کہ دو قیراط (ثواب کم ہوگا۔)

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Brief description of the ahadith

which mention the different ruling for dogs as compared to other animals

Hadith number: 1182

Translation:

(1182) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said:

Whoever keeps a dog except for the protection of animals, hunting or farming, one qirat (of the reward of his good deeds) will deducted every day.

(B) Zuhri (may Allah have mercy on him) says that the saying of Abu Hurayrah was mentioned to Ibn Umar (may Allah be pleased with him) and he said: May Allah have mercy on him, he used to cultivate.

(C) The hadith of Abu Hurayrah has (also)

been narrated from Saeed bin Musaib in which it says that two qirats (of the reward of his good deeds) will deducted.

[Sahih. Narrated by Bukhari 2323, 3324 and Muslim 1575 and Nasai 4294 and Abu Dawud 2844 and Tirmidhi 1490 and Ibn Majah 3204 and Ahmad 2/267, 345]

Sunan Kubra Bayhaqi 1183

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي (١١٨٤)
إِسْحَاقَ الْمُرْزُوقِيَّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ
حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ
عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ((مَنْ أَقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلَا
مَاشِيَةٍ وَلَا أَرْضٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلِّ يَوْمٍ))
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةَ بْنِ يَحْيَى
عَنْ ابْنِ وَهْبٍ
وَكَذَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ((-)) : قِيرَاطَانِ ((-)) إِلَّا أَنَّهُ لَمْ
يَحْفَظْ فِيهِ كَلْبَ الْأَرْضِ فِي أَكْثَرِ الرَّوَايَاتِ عَنْهُ وَقَدْ حَفِظَهُ
أَبُو هُرَيْرَةَ وَسُفْيَانُ بْنُ أَبِي زُبَيْرٍ الشَّنَائِيُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -
إِلَّا أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُبَيْرٍ لَمْ يَحْفَظِ الصَّيِّدَ وَقَالَ : قِيرَاطٌ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: کتے کے دیگر جانوروں سے الگ حکم رکھنے والی
احادیث کا مختصر بیان

حدیث نمبر: 1183

ترجمہ:

(۱۱۸۴) (سیدنا ابوہریرہ ^{رض} سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے شکار، رکھوالی اور کھیتی کے علاوہ کتا رکھا تو اس کے اجر سے ہر دن دو قیراط کم ہوں گے۔
(ب (اسی طرح ابن عمر ^{رض} نبی ﷺ سے نقل فرماتے ہیں (دوقیراط)، مگر انہوں نے اکثر روایات میں نگرانی والے کتے کا ذکر نہیں کیا۔

سیدنا ابوہریرہ ^{رض} اور سفیان بن ابو زہیر ^{رض} نبی ﷺ سے نقل فرماتے ہیں مگر سفیان نے شکار کے کتے کا ذکر نہیں کیا اور کہا: ایک قیراط

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Brief description of the ahadith

which mention the different ruling for dogs as compared to other animals

Hadith number: 1183

Translation:

(1183) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said:

Whoever keeps a dog besides for hunting, guarding or farming, two qirats of the reward of his good deeds will deducted every day.

(B) Similarly, Ibn Umar (may Allah be pleased with him) narrates (two qirats) from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him), but he did not mention guard dogs in most of his traditions.

Abu Hurayrah and Abu Sufyan ibn Abu Zuhair narrate from the Prophet, but

Sufyan did not mention hunting dogs and said: One qirat.

[Sahih. Narrated by Bukhari 5480 and Muslim 1574 and Nasai 4289 and Ahmad 2/47, 156]

Sunan Kubra Bayhaqi 1184

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ (١١٨٥)
أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُتَنَّى حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ
أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ ابْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ
((مَا لَهُمْ وَلَهَا؟)) (- فَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ :
وَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، ُوقَالَ)): إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَائِ فَاغْسِلْ
وَغَفِّرْهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ)) (-
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ
سَعِيدٍ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: کتے کے دیگر جانوروں سے الگ حکم رکھنے والی
احادیث کا مختصر بیان
حدیث نمبر: 1184

:ترجمہ

(۱۱۸۵) حضرت ابن مغفل^{رض} سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، پھر فرمایا: مجھے ان سے کیا سروکار، پھر آپ ﷺ نے شکاری کتے اور بکریوں کے کتے کی رخصت دے دی اور فرمایا: جب کتا برتن میں منہ ڈال جائے تو اس کو سات مرتبہ دھوؤ اور اٹھویں مرتبہ مٹی سے مانجو۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Brief description of the ahadith

which mention the different ruling for dogs as compared to other animals

Hadith number: 1184

Translation:

(1184) It is narrated on the authority of Ibn Mughaffal that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) ordered the dogs to be killed, then he

said: I do not care for dogs and he granted a concession for hunting dogs and the dogs used for the protection of sheep, and he said: When a dog licks a vessel, wash it seven times and clean it with sand the eighth time.

[Sahih. Narrated by Muslim 280 and Nasai 67, 337, 338 and Abu Dawud 75 and Ibn Majah 365 and Ahmad 4/86, 5/56 and Darimi 2049]

Sunan Kubra Bayhaqi 1185

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى (١١٨٦)
أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَعْيُنُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى
قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - نَهَى
عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَايِنِ -
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مَالِكٍ
وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: کتے کے دیگر جانوروں سے الگ حکم رکھنے والی
احادیث کا مختصر بیان

حدیث نمبر: 1185

:ترجمہ

(۱۱۸۶) (سیدنا ابو مسعود انصاریؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے کتے کی قیمت، زانیہ کی کمائی اور کاہن کی اجرت سے منع فرمایا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Brief description of the ahadith

which mention the different ruling for dogs as compared to other animals

Hadith number: 1185

Translation:

(1185) It is narrated from Abu Masud Ansari that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) forbade the price of a dog, the earnings of a prostitute and the payment made to a

soothsayer.

[Sahih. Narrated by Bukhari 2237, 2282, 5346, 5761 and Muslim 1567 and Nasai 4297, 4670 and Abu Dawud 3428, 3481 and Tirmidhi 1133, 1276, 2071 and Ibn Majah 2159 and Malik 31/66 and Ahmad 1/118, 120, 140, 141]

Sunan Kubra Bayhaqi 1186

Arabic Text:

حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيُّ إِمْلَائِي (١١٨٧)
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الشَّرْقِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ -
قَالَ ((لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ)) -
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ وَرَوَاهُ
مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَغَيْرِهِ كُلِّهِمْ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: کتے کے دیگر جانوروں سے الگ حکم رکھنے والی

احادیث کا مختصر بیان

حدیث نمبر: 1186

ترجمہ:

(۱۱۸۷) (سیدنا ابو طلحہ ^{رض} سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا " جس گھر میں کتا اور تصویر ہو اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ "

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Brief description of the ahadith

which mention the different ruling for dogs as compared to other animals

Hadith number: 1186

Translation:

(1186) It is narrated on the authority of Abu Talhah that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said:

“Angels do not enter a house where there

is a dog or a picture (of an animate being).”
[Sahih. Narrated by Bukhari 3225, 3326,
3322 and Muslim 2106 and Nasai 4287,
5349 and Abu Dawud 4153 and Tirmidhi
2804 and Ibn Majah 3649 and Ahmad 4/28]

Sunan Kubra Bayhaqi 1187

Arabic Text:

:أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ بْنُ أَبِي عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ (١١٨٨)
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ
الْقَاضِي حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ :بِأَسْمِ
بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عَيْسَى يَعْنِي ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو
زُرْعَةَ عَنْ أَبِي بُرَيْرَةَ قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -يَأْتِي دَارَ قَوْمٍ
شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا :مِنَ الْأَنْصَارِ وَدُونَهُمْ دَارٌ لَا يَأْتِيهَا ، ف
أَرْنَا- فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ - :رَسُولَ اللَّهِ تَأْتِي دَارَ فُلَانٍ وَلَا تَأْتِي د
((إِنْ فِي دَارِكُمْ كَلْبًا)) (-) قَالَ :فَإِنَّ فِي دَارِهِمْ سِنُورًا- فَقَالَ
النَّبِيُّ ﷺ - ((:السِّنُورُ سَبْعُ)) (-)
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ قَالَ قَالَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ
الْحَافِظُ :عَيْسَى بْنُ الْمُسَيَّبِ صَالِحٌ فِيمَا يَرْوِيهِ-
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ
الْحَافِظُ :عَيْسَى بْنُ الْمُسَيَّبِ صَالِحٌ الْحَدِيثِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: کتے کے دیگر جانوروں سے الگ حکم رکھنے والی

احادیث کا مختصر بیان

حدیث نمبر: 1187

ترجمہ:

(۱۱۸۸) (سیدنا ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ انصار کے گھروں میں آتے تھے اور ان کے علاوہ بھی گھر تھے لیکن ان میں نہیں آتے تھے، ان پر یہ گراں گزراتو انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ فلاں کے گھروں میں "جاتے ہیں اور ہمارے گھر نہیں آتے۔ نبی ﷺ نے فرمایا تمہارے گھر میں کتا ہے۔ انہوں نے کہا: ہمارے گھروں میں "تو بلی ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا "بلی بھی درندہ ہے۔ (ب) ابو احمد بن عدی کہتے ہیں کہ روایت بیان کرنے میں عیسیٰ بن مسیب صالح ہے۔ (ج) حافظ علی بن عمر کہتے ہیں کہ عیسیٰ بن مسیب صالح الحدیث ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Brief description of the ahadith which mention the different ruling for dogs as compared to other animals

Hadith number: 1187

Translation:

(1187) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) visited the houses of the Ansaar and there were houses besides them but he didn't visit them, they said: Oh Messenger of Allah! You go to so-and-so's house and don't come to our house. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "There are dogs in your house." They said: There are only cats in our homes. The Prophet (peace and blessings of Allah be

upon him) said: The cat is also a beast.

(B) Abu Ahmad ibn Adiy says that Isa ibn Musaib is the best in narrating the narration.

(C) Hafiz Ali ibn Umar says that Isa ibn Musaib is a **saleh-ul-hadith**.

[Daif (Weak). Narrated by Ahmad 2/327]

Footnotes: Saleh-ul-hadith is a description of a hadith narrator indicating that he is reliable but there is some lack of accuracy in his narrations. It is a term applicable to narrators of the sixth grade, the lowest of the acceptable grades.

Sunan Kubra Bayhaqi 1188

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو (١١٨٩)
قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَسِيدُ بْنُ
عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَائٍ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ سَوَّارٍ
- عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنِ الْبَرَائِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -
((مَا أَكَلَ لَحْمُهُ فَلَا بَأْسَ بِسُورِهِ)) (-):

كَذَا يُسَمِّيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَائٍ: مُصْعَبُ بْنُ سَوَّارٍ فَقَلَّبَ
اسْمَهُ وَإِنَّمَا هُوَ سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ.
وَسَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ مَثْرُوكٌ أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو بَكْرٍ بْنُ الْحَارِثِ
الْفَقِيهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الدَّارِقُطِيِّ الْحَافِظِ
قَالَ الشَّيْخُ وَمَعَ ضَعْفِ سَوَّارِ بْنِ مُصْعَبٍ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ فِي
مَثْنِهِ فَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَائٍ عَنْهُ هَكَذَا وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ
أَبِي بُكَيْرٍ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ: لَا بَأْسَ بِبَوْلِ مَا أَكَلَ لَحْمُهُ.
وَرَوَاهُ عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِيِّ عَنْ

مُطَرِّفٍ عَنِ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَرْفُوعًا فِي
الْبَوْلِ-
وَعَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ وَيَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ ضَعِيفَانِ وَلَا يَصِحُّ شَيْءٌ
مِنْ ذَلِكَ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: حلال جانوروں کے بچے ہوئے کا حکم
حدیث نمبر: 1188

:ترجمہ

(: ۱۱۸۹) (سیدنا براءؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا
جس جانور کا گوشت کھایا جائے اس کے جھوٹے میں کوئی
حرج نہیں۔

(ب) (عبداللہ بن رجاء نے اس کا نام مصعب بن سوار بیان کیا
بیجب کہ یہ قلب ہوا اور اس کا نام سوار بن مصعب ہے۔
(ج) (ابوبکر بن حارث فقیہ نے امام دارقطنی سے نقل کیا ہے
کہ وہ متروک الحدیث ہے۔

د (شیخ کہتے ہیں کہ سوار بن مصعب کے ضعیف ہونے کی وجہ سے اس کے متن میں اختلاف ہے۔ عبداللہ بن رجاء نے اسی طرح بیان کیا ہے۔ یحییٰ بن ابوبکیر نے اپنی اسناد سے بیان کیا ہے، ان کے الفاظ یہ ہیں " :لَا بَأْسَ بِبَوْلِ مَا أَكَلَ لَحْمُهُ " ان جانوروں کے پیشاب لگ جانے میں کوئی حرج نہیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے۔

(س (جابر بن عبداللہؓ سے پیشاب کے متعلق مرفوعاً منقول ہے۔

ط (عمرو بن حصین اور یحییٰ بن علاء ضعیف ہیں، اس میں کچھ ٹھیک نہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on the remnants of halal animals

Hadith number: 1188

Translation:

(1188) It is narrated on the authority of

Bara (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: There is no harm in the saliva of an animal whose meat is permissible to be eaten.

(B) Abu Bakr ibn Harith al-Faqih has narrated from Imam Daraqutni that Sawar bin Musab is matruk hadith.

(C) Sheikh says that there is a difference of opinion on the text of this hadith due to Sawar bin Musab's weakness. Abdullah bin Raja has also narrated the same. Yahya ibn Abu Bakr has narrated from his isnaad, his words are as follows:

" لَا بَأْسَ بِبَوْلِ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ "

There is no harm if the urine of animals, whose meat is permissible to be eaten, falls on you.

(D) A marfu hadith about urine has been narrated from Jabir bin Abdullah (may Allah be pleased with him).

(E) Amr ibn Husayn and Yahya ibn Alaa are weak, there is nothing correct about that.

[Daif Jiddan (Very Weak). Narrated by Al-Daraqutni 1/127]

Sunan Kubra Bayhaqi 1189

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي (١١٩٠)
عَمْرٍو قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا
الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ
بِلَالٍ حَدَّثَنِي عُثْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ حُنَيْنٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ
سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (-) : إِذَا سَقَطَ الذُّبَابُ
فِي شَرَابٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ
جَنَاحَيْهِ دَائِيٌّ وَفِي الْآخِرِ شِفَاؤٌ (-).
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ
بْنِ بِلَالٍ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب : پاکی کا بیان

باب : خون نہ بہنے والے حشرات کے پانی میں گر جانے کا

حکم

حدیث نمبر : 1189

:ترجمہ

(۱۱۹۰) عبید بن حنین^{رض} نے سیدنا ابوہریرہ^{رض} سے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " :جب کسی کے پینے کے برتن (میں مکھی گرجائے تو اس ساری کو ڈبو دو، پھر اس کو نکال لو، اس لیے اس کے دو پروں میں سے ایک میں بیماری ہے اور دوسرے میں شفا ہے۔"

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on non-bleeding insects falling into the water

Hadith number: 1189

Translation:

(1189) Ubaid ibn Haneen heard from Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: "When a fly falls into someone's drink, let

him dip it all in, then take it out, because one of its two wings has a disease and the other has the cure."

[Sahih. Narrated by Bukhari 3320, 5782 and Abu Dawud 3844 and Ibn Majah 3505 and Darimi 2081]

Sunan Kubra Bayhaqi 1190

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : الْحُسَيْنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ بُرْهَانَ وَأَبُو (١١٩١)
الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ قَالَا حَدَّثَنَا

إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا بِشْرُ
بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ
الْمَقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - ((إِذَا وَقَعَ
الدُّبَابُ فِي إِنَائِ أَحَدِكُمْ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَائٍ وَفِي الْآخِرِ
شِفَاءٌ وَإِنَّهُ يَتَّقَى بِالْجَنَاحِ الَّذِي فِيهِ الدَّائِ ، فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ
((لِيَنْزِعَهُ))

وَرَوَاهُ عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ
أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِنَحْوِهِ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: خون نہ بہنے والے حشرات کے پانی میں گر جانے کا

حکم

حدیث نمبر: 1190

:ترجمہ

(۱۱۹۱) (سیدنا ابوہریرہ ^{رض} فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے
فرمایا " :جب کسی کے برتن میں مکھی گرجائے تو اس کے
دو پروں میں سے ایک میں بیماری اور دوسرے

میں شفا ہوتی ہے اور وہ اس کے ذریعے سے بچتی ہے جس میں بیماری ہوتی ہے، لہذا ساری کو ڈبو کر نکال دو۔"

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on non-bleeding insects falling into the water

Hadith number: 1190

Translation:

(1190) Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) says that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: When a fly falls into someone's vessel, one of its two wings is a disease and the other is a cure and it protects itself by (extending) the wing with the disease (towards the vessel), therefore dip it all in, then take it out."

[Sahih. Narrated by Abu Dawud 3844]

Sunan Kubra Bayhaqi 1191

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَائِرٍ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا (١١٩٢)
إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذُنْبٍ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ خَالِدِ الْقَارِظِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بِمَنْى فَقَدَّمَ إِلَيَّ زُبْدًا وَكُنْثَةً ، فَوَقَعَ ذُبَابٌ فِي الزُّبْدِ فَجَعَلَ يَمْقُلُهُ
بِخِنْصِرِهِ فَقُلْتُ: يَا خَالَ مَا

تَصْنَعُ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ -
((إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي الطَّعَامِ فَاْمَقْلُوهُ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ قَ
جَنَاحَيْهِ سُمًّا وَفِي الْآخِرِ شِفَاءً ، وَإِنَّهُ يُؤَخِّرُ الشِّفَاءَ وَيُقَدِّمُ
السُّمَّ))-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: خون نہ بہنے والے حشرات کے پانی میں گر جانے کا
حکم

حدیث نمبر: 1191

ترجمہ:

(۱۱۹۲) سعید بن خالد قارظی فرماتے ہیں کہ میں منیٰ میں
ابو سلمہ بن عبد الرحمن کے پاس آیا، انہوں نے مجھے
مکھن اور پنیر پیش کیا، مکھی مکھن میں گر گئی تو وہ
چھوٹی انگلی سے اس کو ڈبو رہے تھے۔ میں نے کہا: خالو
جان! آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا: مجھے سیدنا
" :ابوسعید خدریؓ نے خبر دی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
جب کسی کے کھانے میں مکھی

گرجائے تو اس کو ڈبو لے، اس لیے اس کے دو پروں میں سے ایک میں زہر ہے اور دوسرے میں شفا اور وہ شفاء والے پر کو اوپر رکھتی ہے اور زہر والے پر پہلے ڈالتی ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on non-bleeding insects falling into the water

Hadith number: 1191

Translation:

(1191) Saeed bin Khalid Qarzi says that I came to Abu Salma bin Abdul Rahman in Mina, he offered me butter and cheese. A bee fell into the butter, and he was dipping it in with his little finger. I said: Uncle! What are you doing? He said: I was informed by Abu Sa'eed Al-Khudri (may Allah be pleased with him) that the Messenger of

Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: "When a fly falls in someone's food, it should be dipped in, because one of its two wings has poison in it and the other has the cure, and it puts the wing with the cure on top and falls in with the poison containing wing first.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1192

Arabic Text:

وَرَوَى بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ (١١٩٣) الزُّبَيْدِيُّ عَنْ بَشْرِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ((يَا سَلْمَانُ كُلُّ طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَقَعَتْ فِيهِ دَابَّةٌ لَيْسَ لَهَا دَمٌ فَمَاتَتْ فَهُوَ الْحَلَالُ أَكَلُهُ وَشَرْبُهُ وَوُضُوءُهُ)) (-).

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيِّ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ... فَذَكَرَهُ. قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: الْأَحَادِيثُ الَّتِي يَرْوِيهَا سَعِيدُ الزُّبَيْدِيُّ عَامَّتُهَا لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ بَقِيَّةَ عَنْ سَعِيدِ الزُّبَيْدِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: خون نہ بہنے والے حشرات کے پانی میں گر جانے کا

حکم

حدیث نمبر: 1192

:ترجمہ

(۱۱۹۳) (سیدنا سلمانؓ فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: اے سلمان! ہر کھانا اور پانی استعمال کرو، جس میں ایسا جانور گر کر مر جائے جس میں خون نہ ہو تو اس کا کھانا، پینا اور وضو حلال ہے۔

(ب) (بقیہ نے پچھلی روایت کی طرح بیان کیا ہے۔

(ج) (ابو احمد کہتے ہیں: وہ تمام احادیث جنہیں سعید زبیدی

بیان کرتا ہے عموماً غیر محفوظ ہیں۔

(د) (الحافظ علی بن عمر کہتے ہیں کہ سعید زبیدی سے

صرف بقیہ نقل کرتا ہے حالانکہ وہ ضعیف ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on non-bleeding insects falling into the water

Hadith number: 1192

Translation:

(1192) Syeduna Salman says that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: O Salman! Use every food and water. If a bloodless animal falls and dies in (any food or water), then eating it, drinking it and performing ablution with it is halal.

(B) Baqqiya has narrated like the previous narration.

(C) Abu Ahmad says: All the hadiths narrated by Saeed Zubeidi are generally not secure.

(D) Al-Hafiz Ali ibn Umar says that only

Baqiyya narrates from Saeed Zubeidi even though he is weak.

[Daif Jiddan (Very Weak). Narrated by Al-Daraqutni 1/37]

Sunan Kubra Bayhaqi 1193

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ (١١٩٤)
عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ
، إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: كُلُّ نَفْسٍ سَائِلَةٌ لَا يُتَوَضَّأُ مِنْهَا
وَلَكِنْ رُخِّصَ فِي الْخُنْفَسَائِ وَالْعُقْرَبِ وَالْجَرَادِ وَالْجُذْجُذِ إِذَا
وَقَعْنَ فِي الرِّكَائِ فَلَا بَأْسَ بِهِ.
قَالَ شُعْبَةُ: أَظُنُّهُ قَدْ ذَكَرَ الْوَزْغَةَ.
قَالَ الشَّيْخُ وَرَوَيْنَا مَعْنَاهُ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَعَطَائِ
وَعِكْرَمَةَ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: خون نہ بہنے والے حشرات کے پانی میں گر جانے کا

حکم

حدیث نمبر: 1193

:ترجمہ

(۱۱۹۴) ابراہیم کہتے ہیں: ہر بہنے والے خون (والے جانور کے گرنے سے وضو نہیں کیا جائے گا لیکن گبریلا، بچھو، مکڑی اور گرگٹ جب برتن میں گرجائیں تو) اس کے استعمال میں (کوئی حرج نہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on non-bleeding insects falling into the water

Hadith number: 1193

Translation:

(1193) Ibrahim says: Ablution should not be performed (with water) in which any blood flowing animal (has fallen into) but when a tumble bug, scorpion, spider or chameleon fall into a vessel, there is nothing wrong (with using its contents).

[Sahih. Narrated by Al-Daraqutni 1/33]

Sunan Kubra Bayhaqi 1194

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ (١١٩٥)
الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو : عَثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ
بْنِ السَّمَّكِ حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ سَنَةَ سِتِّ
عَشْرَةَ وَمِائَتَيْنِ وَقُلْتُ لَهُ : كَمْ سِنُّكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ؟ قَالَ
أَرْبَعٌ وَخَمْسِينَ أَوْ خَمْسٌ وَخَمْسِينَ -
قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ حَازِمٍ
عَنْ ابْنِ مِقْسَمٍ يَعْنِي عُبَيْدَ اللَّهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ

اللّٰهُ قَالَ :سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ -ﷺ- عَنِ مَائِ الْبَحْرِ فَقَالَ ((:بُو الطَّهْرُ
مَآؤُهُ الْحِلُّ مَيْتُهُ))-)

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب :پاکی کا بیان

باب :مچھلی یا ٹڈی کے پانی میں مرجانے کا حکم

حدیث نمبر :1194

:ترجمہ

(۱۱۹۵) (سیدنا جابر بن عبداللہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے سمندر کے پانی کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ ﷺ نے " فرمایا " :اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on a fish or locust dying in water

Hadith number: 1194

Translation:

(1194) Jabir ibn Abdullah (may Allah be pleased with him) says that when the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) was asked about the water of the sea, he said: "Its water is pure and its dead is lawful."

[Sahih. Narrated by Nasai 59, 332 and Abu Dawud 83 and Tirmidhi 69 and Ibn Majah 386 and Ahmad 2/237 and Darimi 755]

Sunan Kubra Bayhaqi 1195

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو الْحُسَيْنِ : عَلِيُّ بْنُ (١١٩٦)
مُحَمَّدِ السَّبَّيْعِيُّ فِي آخِرِينَ قَالُوا أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ
بْنُ بِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ
: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : أَحَلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ
الْجَرَادُ وَالْحَيْتَانِ وَالْكَبْدُ وَالطِّحَالُ.
وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَهُوَ فِي مَعْنَى الْمُسْنَدِ. وَقَدْ رَفَعَهُ أَوْلَادُ زَيْدٍ
عَنْ آبَائِهِمْ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: مچھلی یا ٹڈی کے پانی میں مرجانے کا حکم
حدیث نمبر: 1195

:ترجمہ

(۱۱۹۶) (سیدنا عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے دو خون اور دو مردار حلال کیے گئے ہیں: مکڑی اور مچھلی، جگر اور تلی۔

(ب) (یہ حدیث صحیح ہے اور مرفوع کے حکم میں ہے۔ زید کے بیٹوں نے اپنے والد سے مرفوع بیان کیا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on a fish or locust dying in water

Hadith number: 1195

Translation:

(1195) Abdullah bin Umar (may Allah be pleased with him) says that two bloods and two carcasses have been made lawful for us: spider and fish, liver and spleen.

(B) This hadeeth is sahih and is a marfu ruling. Zaid's sons have narrated marfu

ahadith from their father.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1196

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ :كَامِلُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُسْتَمَلِيُّ وَأَبُو نَصْرِ (١١٩٧)
بْنُ قَتَادَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ :مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَيُّوبَ
الصَّبَّغِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ زِيَادِ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي
أُوَيْسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَسَامَةُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ
أَبِيهِمْ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - قَالَ ((:أُحِلَّتْ لَنَا : مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ :فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ ، وَأَمَّا الدَّمَانِ :فَالطِّحَالُ وَالْكَبِدُ)) .
 أَوْلَادُ زَيْدِ بْنِ هُوَ لَايُ كُلُّهُمْ ضُعْفَايُ جَرَحَهُمْ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ يُوثِقَانِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ ، إِلَّا أَنَّ الصَّحِيحَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ هُوَ الْأَوَّلُ .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: مچھلی یا ٹڈی کے پانی میں مرجانے کا حکم
 حدیث نمبر: 1196

:ترجمہ

(۱۱۹۷) (سیدنا عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " ہمارے لیے دو خون اور دو مردار حلال کیے گئے ہیں: مردار مکڑی اور مچھلی ہیں اور خون تلی اور جگر ہیں۔"

(ب) (زید کے تمام بیٹے حدیث بیان کرنے میں ضعیف ہیں۔ یحییٰ بن معین نے ان پر جرح کی ہے۔ امام احمد بن حنبل اور علی بن مدینی نے عبداللہ بن زید کو ثقہ قرار دیا ہے۔

لیکن اس سے پہلی حدیث زیادہ صحیح ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on a fish or locust dying in water

Hadith number: 1196

Translation:

(1196) It is narrated on the authority of Abdullah ibn Umar (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: "Two bloods and two carcasses have been made lawful for us: The carcasses are spiders and fish, and the blood is spleen and the liver."

[The Marfu hadith is munkar --- The Mawquf hadith is sahih --- Narrated by Ahmad 2/97]

Sunan Kubra Bayhaqi 1197

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورِكَ رَحِمَهُ اللَّهُ (١١٩٨)
تَعَالَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ
أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ
عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - يَدْخُلُ بَيْتَ أُمِّ سُلَيْمٍ
وَيَنَامُ عَلَى فِرَاشِهَا وَلَيْسَتْ ... ثُمَّ قَالَ فَأْتَيْتُ يَوْمًا فَقِيلَ لَهَا : يُو
بَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - عَلَى فِرَاشِكِ - فَاَنْتَهتِ إِلَيْهِ وَقَدْ عَرِقَ عَرَقًا
شَدِيدًا ، وَذَلِكَ فِي الْحَرِّ ، فَأَخَذَتْ قَارُورَةَ ، فَجَعَلَتْ تَأْخُذُ مِنْ ذَلِكَ
الْعَرَقِ ، فَتَجَعَلُهُ فِي الْقَارُورَةِ ، فَاسْتَيْقِظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - فَقَالَ
((مَا تَصْنَعِينَ؟)) - فَقَالَتْ : بَرَكَتُكَ يَا :

رَسُولَ اللَّهِ نَجَعُهُ فِي طَيْبِنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (-) : أَصَبْتُ (-).
 رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ حُجَيْنِ بْنِ
 الْمُثَنَّى عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمَاجِشُونَ بِمَعْنَاهُ.
 ، وَرَوَاهُ ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ وَأَنْسُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
 وَرَوَاهُ أَبُو قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ عَنْ أُمِّ سَلِيمٍ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: آدمی کا پسینہ پاک ہے خواہ جس جگہ کا بھی ہو
 حدیث نمبر: 1197

ترجمہ:

(۱۱۹۸) (سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ام سلیم رضی اللہ عنہا کے گھر آتے تھے اور ان کے بستر پر سوتے تھے اور وہ نہیں۔۔۔ پھر فرمایا: ایک دن انہیں بلا کر کہا گیا: یہ رسول اللہ ﷺ آپ کے بستر پر ہیں۔ وہ آپ ﷺ کے پاس پہنچی اور آپ کو بہت زیادہ پسینہ آیا ہوا تھا اور یہ گرمی کے موسم میں تھا۔ انہوں نے چھوٹی شیشی لی تو وہ پسینے سے لینا شروع ہوئیں اور اس کو شیشی میں بھر رہی تھی۔ رسول اللہ ﷺ بیدار ہوئے، آپ نے فرمایا " آپ

اس کا کیا کرو گی؟ " انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ کی برکت ہے اس کو ہم اپنی خوشبو میں رکھیں گی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " : تو نے درست کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A man's sweat is pure no matter where it is from

Hadith number: 1197

Translation:

(1197) Syeduna Anas (may Allah be pleased with him) says that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) used to come to the house of Umm Sulaim and sleep on her bed and he did not..... Then he said: One day she was called and it was said to her: The Messenger of Allah is (sleeping) on your bed. She came to him and he was sweating a lot and it was summer. She took a small bottle, and started collecting his sweat

and started filling the bottle. The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) woke up and said: What will you do with this? She said: O Messenger of Allah! You are blessed, we will keep it as a fragrance. The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: "You have done the right thing."

[Sahih. Narrated by Bukhari 6281 and Muslim 2331 and Nasai 5373 and Ahmad 3/136, 221]

Sunan Kubra Bayhaqi 1198

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ (١١٩٩) قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ قَالَ قُرِئَ عَلَيَّ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَوَضَّأُ فِي الْحَرِّ فَيَمُرُّ يَدَيْهِ عَلَى إِبْطِيهِ وَلَا يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: آدمی کا پسینہ پاک ہے خواہ جس جگہ کا بھی ہو
حدیث نمبر: 1198

ترجمہ:

(١١٩٩) نافع سے روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما گرمی میں وضو کرتے تو اپنے ہاتھ بغلوں پر پھیرتے اور یہ چیز

ان کے وضو کو نہیں توڑتی تھی۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A man's sweat is pure no matter where it is from

Hadith number: 1198

Translation:

(1198) It is narrated from Nafi (may Allah have mercy on him) that when Abdullah ibn Umar (may Allah be pleased with him) used to perform ablution in hot weather, he would pass his hands over his armpits and this would not invalidate his ablution.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1199

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ (١٢٠٠)
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ السَّلْمِيُّ حَدَّثَنَا قَبِيصَةَ
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّغَرِ (ح)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ جَابِرٍ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ الْحَكَمِ الرَّاسِبِيُّ
حَدَّثَنَا الْفَرِيَابِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ :بَرَقَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - فِي ثَوْبِهِ يَعْزِي وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ -
لَفْظُ حَدِيثِ الْفَرِيَابِيِّ ، وَفِي حَدِيثِ قَبِيصَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ -
بَرَقَ فِي ثَوْبِهِ -
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْفَرِيَابِيِّ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاكى كا بيان

باب: آدمى كى تهوك اور بلغم كا حكم

حديث نمبر: 1199

:ترجمہ

(۱۲۰۰) (الف) سيدنا انسؓ سے روايت ہے کہ رسول الله ﷺ نے

نماز كى حالت ميں اپنے كپڑے ميں تهوكا۔

(ب) (قبيصہ كى حديث ميں ہے کہ رسول الله ﷺ نے اپنے كپڑے

ميں تهوكا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on a man's spit and phlegm

Hadith number: 1199

Translation:

(1199) (a) It is narrated from Anas (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) spat in his clothes while praying.

(B) According to the hadith of Qabeesa, the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) spat in his clothes.

[Sahih. Narrated by Bukhari 241]

Sunan Kubra Bayhaqi 1200

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَائِرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو طَائِرٍ الْمُحَمَّدَابَاذِيُّ (١٢٠١)
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا
حُمَيْدُ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - رَأَى
نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِيَدِهِ ، وَرَأَى فِي وَجْهِهِ شِدَّةً
ذَلِكَ عَلَيْهِ وَقَالَ ((: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا صَلَّى فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ فِيمَا بَيْنَهُ
وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، فَإِذَا بَصَقَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ
تَحْتَ قَدَمَيْهِ أَوْ يَفْعَلْ هَكَذَا)) (- ثُمَّ بَرَقَ فِي ثَوْبِهِ وَذَلِكَ
بَعْضُهُ بِبَعْضٍ قَالَ يَزِيدُ وَارَأَا حُمَيْدًا -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان
باب: آدمی کی تھوک اور بلغم کا حکم
حدیث نمبر: 1200

:ترجمہ

(۱۲۰۱) (سیدنا انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مسجد کی جانب تھوک دیکھی تو اس کو اپنے ہاتھ سے کھرچ دیا اور آپ ﷺ نے غصے میں فرمایا " :جب بندہ کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے اور قبلہ کے درمیان اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، جب تم میں سے کوئی تھوکے تو وہ اپنی بائیں جانب یا اپنے قدموں کے نیچے تھوکیا اس طرح کرے پھر آپ ﷺ نے اپنے کپڑے میں تھوکا اور اسے مسل دیا۔ یزید رادی کہتے ہیں کہ حمید نے ہمیں کر کے دکھایا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on a man's spit and phlegm

Hadith number: 1200

Translation:

(1200) It is narrated on the authority of Anas ibn Malik (may Allah be pleased with him) that when the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) saw spit in

the mosque, he scraped it with his hand and he said angrily: When a man stands up and prays, he is speaking in private to his Lord between him and the qibla. When one of you spits, let him spit on his left side or under his foot or do this, then he spat in his clothes and folded it. Yazid Radi says that Hameed did it for us.

[Sahih. Narrated by Bukhari 405, 417 and Muslim 551 and Nasai 310 and Abu Dawud 478 and Ibn Majah 1022 and Ahmad 2/250, 415]

Sunan Kubra Bayhaqi 1101

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ (١١٠٢)
الْجَرَجَانِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَسْقَلَانِيُّ حَدَّثَنَا حَزْمَةُ
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ عَبْدَ
الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ -
فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَتْ: ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - اسْتَيْقَظَ -
وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَالْتَمَسَ الْمَاءَ فَلَمْ يُوْجَدْ فَنَزَلَتْ آيَةُ التَّيْمِمِ -
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ
وَهْبٍ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان
باب: پانی کی تلاش کی حدود کا بیان
حدیث نمبر: 1101

:ترجمہ

(۱۱۰۲) سیدہ عائشہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ بیدار ہوئے اور نماز کا وقت ہوچکا تھا، پانی تلاش کیا گیا مگر نہیں ملا تو تیمم کی آیت نازل ہوئی۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the limits for searching water

Hadith number: 1101

Translation:

(1101) Ayesha (may Allah be pleased with her) says that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) woke up and it was time for prayer, water was sought but wasn't found, so the verse of tayammum was revealed.

[Sahih. Narrated by Bukhari 334]

Sunan Kubra Bayhaqi 1102

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ (١١٠٣)
عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
زُنْبُورٍ حَدَّثَنَا فَضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجَلَانَ عَنْ
نَافِعٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَيَّمَّ بِمَرْبِدِ النَّعَمِ وَصَلَّى وَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ
أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَدِينَةَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ فَلَمْ
يُعَدِّ

رَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَجَلَانَ

وَرَوَاهُ يَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ وَمَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ -
[حسن- أخرجه الشافعى ١١٥]

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى
كتاب: پاکی کا بیان
باب: پانی کی تلاش کی حدود کا بیان
حدیث نمبر: 1102

:ترجمہ

(١١٠٣) نافع سے روایت ہے ابن عمرؓ نے مرید النعم جگہ پر تیمم کیا اور نماز پڑھی اور وہ جگہ مدینہ سے تین میل کے فاصلے پر ہے، پھر مدینہ میں داخل ہوئے اور سورج بلند تھا انہوں نے نماز نہیں لوٹائی۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the limits for
searching water

Hadith number: 1102

Translation:

(1102) It is narrated on the authority of Nafi that Ibn Umar (may Allah be pleased with him) performed tayammum and offered prayer at a place called Marbad al-Naam and that place is at a distance of 3 miles from Madinah, then he entered Madinah when the sun was high. He did not repeat the prayer.

[Hasan (Fair). Narrated by Shafi'i in his Musnad 115]

Sunan Kubra Bayhaqi 1103

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ (١١٠٤)
بْنُ حَيَّانَ الْأَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا
أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ قَالَ قِيلَ لِأَبِي
عَمْرٍو يَعْنِي الْأَوْزَاعِيَّ: حَضَرْتَ الصَّلَاةَ وَالْمَاءُ جَائِرٌ عَنِ
الطَّرِيقِ، أَيَجِبُ عَلَيَّ أَنْ أَعْدِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ
يَسَارٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَكُونُ فِي السَّفَرِ
فَتَحَضَّرَهُ الصَّلَاةُ وَالْمَاءُ مِنْهُ عَلَى غَلْوَةٍ أَوْ غَلْوَتَيْنِ وَنَحْوِ
ذَلِكَ، ثُمَّ لَا يَعْدِلُ إِلَيْهِ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: پانی کی تلاش کی حدود کا بیان

حدیث نمبر: 1103

:ترجمہ

(۱۱۰۴) (ابن مسلم فرماتے ہیں کہ ابو عمرو اوزاعی سے کہا گیا کہ نماز کا وقت ہو گیا اور پانی راستے سے دور تھا، کیا مجھ پر واجب ہے کہ میں اس کا انتظار کروں؟ انہوں نے کہا: مجھ کو موسیٰ بن یسار نے نافع سے اور نافع نے ابن عمر ^{رض} سے نقل کیا کہ وہ سفر میں تھے اور نماز کا وقت ہو گیا اور پانی ان سے ایک یا دو میل کے فاصلے پر تھا پھر وہ اس کی طرف مائل نہیں ہوئے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the limits for searching water

Hadith number: 1103

Translation:

(1103) Ibn Muslim says that Abu 'Amr al-Awzai (may Allah have mercy on him) was asked that it was time for prayer and water was far away. Is it obligatory on me to wait for it? He said: Musa ibn Yasar narrated to

me from Nafi and Nafi narrated from Ibn Umar (may Allah be pleased with him) that he was on a journey and it was time for prayer and water was one or two miles away from him, so he did not move towards it.
[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1104

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ (١١٠٥)
 حَيَّانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قَالَ
 سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُبَارَكِ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ رُزَيْقٍ عَنْ أَبِيهِ
 قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَاعٍ فِي غَنَمِهِ أَوْ رَاعٍ
 نُصِيبُهُ جَنَابَةً وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَائِ مِيلَانِ أَوْ ثَلَاثَةً قَالَ: يَتِيمٌ
 صَعِيدًا طَيِّبًا.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: پانی کی تلاش کی حدود کا بیان
 حدیث نمبر: 1104

ترجمہ:

(١١٠٥) (حکیم بن رزیک اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ
 میں نے سعید بن مسیب سے بکریوں کے چرواہے کے متعلق
 یا ایسے چرواہے کے متعلق پوچھا، جو جنبی ہو جاتا ہے اور
 اس کے اور پانی کے درمیان دو یا تین میل کی مسافت ہوتی
 ہی تو وہ کیا کرے؟ ابن مسیب فرماتے ہیں: ایسا شخص پاک
 مٹی سے تیمم کرے گا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the limits for
searching water

Hadith number: 1104

Translation:

(1104) Hakim ibn Raziq narrates from his father that I asked Saeed ibn Musaib (may Allah have mercy on him) about a shepherd of goats or any shepherd, who becomes junub and there is a distance of two or three miles between him and water, so what should he do? Ibn Musaib says: Such a person will perform tayammum with pure soil.

[Hasan (Fair)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1105

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ (١١٠٦)
حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ
عُمَرَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ :اطْلُبِ
الْمَاءَ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ الْوَقْتِ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدِ مَاءً تَيْمَمْ ثُمَّ
صَلِّ-

وَبِذَا لَمْ يَصِحَّ عَنْ عَلِيٍّ- وَبِالنَّائِبِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَقُولُ وَمَعَهُ
ظَاهِرُ الْقُرْآنِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: پانی کی تلاش کی حدود کا بیان
حدیث نمبر: 1105

:ترجمہ

(1105) (سیدنا علیؓ سے روایت ہے، کہتے ہیں: پانی کو آخری وقت تک تلاش کیا کرو، اگر تم پانی نہ پاؤ تو تیمم کر کے نماز پڑھو۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the limits for searching water

Hadith number: 1105

Translation:

(1105) It is narrated on the authority of

Syeduna Ali (may Allah be pleased with him) that he said: Search for water till the last moment, if you do not get water, then perform tayammum and pray.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1106

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ (١١٠٧)
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي شَيْبَةَ
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَطَائٍ عَنْ زَادَانَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِذَا
أَجْنَبَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ فَلَاةٍ وَمَعَهُ مَاءٌ يَسِيرٌ فَلْيُؤْتِرْ نَفْسَهُ
بِالْمَاءِ وَلْيَتَيْمَّمْ بِالصَّعِيدِ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: جنبی یا بے وضو شخص اگرچہ پانی پر قادر ہو، لیکن
پیس کی وجہ سے اسے جان کا خطرہ ہے تو وہ تیمم
کر سکتا ہے

حدیث نمبر: 1106

:ترجمہ

(1107) (سیدنا علیؓ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص وسیع
میدان میں جنبی ہو جائے اور اس کے پاس پانی ہو تو اسے
چاہیے کہ وہ اپنے کو ترجیح دے) یعنی پینے

کے لیے رکھ لے (اور مٹی سے تیمم کرے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A person who is junub or without ablution and has water, but is in danger of death due to thirst, can perform tayammum
Hadith number: 1106

Translation:

(1106) Syeduna Ali (may Allah be pleased with him) says that when a person becomes junub in a vast field and he has water, he should give preference to himself (i.e keep it for drinking) and perform tayammum with mud.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence). Narrated by Ibn Abi Shaybah 1118]

Sunan Kubra Bayhaqi 1107

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو بْنُ (١١٠٨)
مَطَرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا
أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَطَائٍ عَنْ زَادَانَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِذَا
أَصَابَتْكَ جَنَابَةٌ فَأَرَدْتَ أَنْ تَتَوَضَّأَ - أَوْ قَالَ تَغْتَسِلَ - وَلَيْسَ
مَعَكَ مِنَ الْمَائِ إِلَّا مَا تَشْرَبُ وَأَنْتَ تَخَافُ فَتَيَمَّمْ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: جنبی یا بے وضو شخص اگرچہ پانی پر قادر ہو، لیکن پیاس کی وجہ سے اسے جان کا خطرہ ہے تو وہ تیمم کر سکتا ہے

حدیث نمبر: 1107

:ترجمہ

(۱۱۰۸) (سیدنا علیؑ فرماتے ہیں: جب تو جنبی ہو جائے اور وضو یا غسل کرنے کا ارادہ ہو، لیکن تیرے پاس پانی نہ ہو سوائے پینے والے کے پانی کے اور تجھے جان جانے کا ڈر ہو تو تیمم کر لے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A person who is junub or without ablution and has water, but is in danger of death due to thirst, can perform tayammum

Hadith number: 1107

Translation:

(1107) Syeduna Ali (may Allah be pleased with him) says: When you become junub and intend to perform ablution or ghusl, but you do not have water except the water for drinking and you are afraid of losing your life, then perform tayammum.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1108

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ (١١٠٩)
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا
حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَطَائِ بْنِ
السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا كُنْتَ
مُسَافِرًا وَأَنْتَ جُنُبٌ، أَوْ أَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوئٍ فَخَفْتَ أَنْ
تَوْضَأْتَ أَنْ تَمُوتَ مِنَ الْعَطَشِ، فَلَا تُوَضِّأْهُ وَاحْسِنْ لِنَفْسِكَ.
وَرُوَيْنَاهُ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَعَطَائِ وَمُجَابِدٍ وَطَاوُسٍ
وَغَيْرِهِمْ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: جنبی یا بے وضو شخص اگرچہ پانی پر قادر ہو، لیکن

پپاس کی وجہ سے اسے جان کا خطرہ ہے تو وہ تیمم

کر سکتا ہے

حدیث نمبر: 1108

:ترجمہ

(۱۱۰۹) (سیدنا ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ جب تو مسافر ہو اور جنبی ہو جائے یا تو بغیر وضو کے ہو اور تجھے ڈر ہو کہ اگر تو نے پانی سے وضو کیا تو پیاس سے مر جائے گا تو وضو نہ کر بلکہ اپنی جان بچا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the limits for searching water

Hadith number: 1108

Translation:

(1108) It is narrated on the authority of Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) that when you are a traveler and become junub or you are without ablution and you are afraid that if you perform ablution with water you will die of thirst, then do not perform ablution, rather save your life.

[Daif (Weak). Narrated by Ibn Abi Shaybah
1120]

Sunan Kubra Bayhaqi 1109

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ (١١١٠)
إِسْحَاقَ الْفَقِيهَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى
أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ
ابْنُ عَبَّاسٍ فِي سَفَرٍ مَعَهُ أَنَسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ - فِيهِمْ عَمَّارٌ
فَصَلَّى بِهِمْ وَهُوَ مُتَمِّمٌ -
وَرُوَيْنَاهُ عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنِ وَعَطَائٍ وَالزُّهْرِيِّ وَحَدِيثُ
عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَدْ مَضَى فِي هَذَا الْبَابِ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: تیمم والا وضو والوں کی امامت کروا سکتا ہے

حدیث نمبر: 1109

:ترجمہ

(۱۱۱۰) سعید^{رض} سے روایت ہے کہ ابن عباس^{رض} سفر میں تھے اور ان کے ساتھ چند صحابہ کرام^{رض} تھے، ان میں عمار^{رض} بھی تھے انہوں نے ان کو نماز پڑھائی حالانکہ وہ متیم تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The one who has performed tayammum can lead the people who have performed ablution, in prayer

Hadith number: 1109

Translation:

(1109) It is narrated from Saeed that Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) was on a journey and he was accompanied by some of the companions, including Ammar. He led them in prayers even though he was praying with tayammum.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1110

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ (۱۱۱۱)
إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ
عَنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّهُ كَرِهَ
أَنْ يَوْمَ الْمُتَيْمِّمِ الْمُتَوَضِّئِينَ -
وَبَذَا إِسْنَادٌ لَا تَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: متیمم کا متوضی کو امامت کروانا مکروہ ہے

حدیث نمبر: 1110

:ترجمہ

(۱۱۱۱) (سیدنا علیؑ سے منقول ہے کہ وہ ناپسند سمجھتے تھے کہ تیمم والا وضو والوں کی امامت کروائے۔

اس سند سے دلیل نہیں لی جاتی۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: It is makruh for the one who has performed tayammum to lead the one who has performed ablution, in prayer

Hadith number: 1110

Translation:

(1110) It is narrated from Syeduna Ali (may Allah be pleased with him) that he disliked for the one who has performed tayammum to lead the one who has performed ablution, in prayer.

No evidence can be taken from this isnad (chain of transmission).

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1111

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ (١١١٢)
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ
الْعَلَاءِيِّ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ: أَصَابَ ابْنَ عُمَرَ جَنَابَةٌ فِي
سَفَرٍ فَتَيَّمَمَ، فَأَمَرَنِي فَصَلَّيْتُ بِهِ وَكُنْتُ مُتَوَضِّئًا.
وَبَدَأَ مَحْمُولٌ عَلَى الْإِسْتِحْبَابِ.
وَرُوي فِيهِ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: متیم کا متوضی کو امامت کروانا مکروہ ہے

حدیث نمبر: 1111

ترجمہ:

(۱۱۱۲) نافع فرماتے ہیں: ایک سفر میں ابن عمرؓ جنبی ہو گئے تو انہوں نے تیمم کیا اور مجھے حکم دیا تو میں نے ان کو نماز پڑھائی، اس لیے کہ میں وضو والا تھا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the limits for searching water

Hadith number: 1111

Translation:

(1111) Nafi says: Ibn Umar (may Allah be pleased with him) became junub on a journey so he performed tayammum and ordered me to lead him in prayer, because I

had performed ablution.

[Hasan (Fair)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1112

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ (١١١٣)
عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ رَمِيْسٍ حَدَّثَنَا
عُثْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مَاتِعِ الْحَمِيرِيِّ
حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْكُوفِيُّ : أَسَدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ
- بِيَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -
((لَا يَوْمَ الْمُتَيْمِّمِ الْمُتَوَضِّئِينَ)) (- قَالَ عَلِيُّ : إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ . :

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: متیم کا متوضی کو امامت کروانا مکروہ ہے

حدیث نمبر: 1112

:ترجمہ

(: ۱۱۱۳) (سیدنا جابر^{رض} فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تیمم والا آدمی وضو والوں کی امامت نہ کروائے۔ علی فرماتے ہیں: اس کی سند ضعیف ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: It is makruh for the one who has performed tayammum to lead the one who has performed ablution, in prayer

Hadith number: 1112

Translation:

(1112) Syeduna Jabir (may Allah be pleased with him) says that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: The one who has performed tayammum shouldn't lead the one who has performed ablution, in prayer. Ali says: Its sanad (chain of transmission) is daif.

[MAUDU (FABRICATED). Narrated by Al-Daraqutni 1/185]

Sunan Kubra Bayhaqi 1113

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ (١١١٤)
الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ
الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ بَدَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو
بُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((-)) : لَا يُبَالُ فِي الْمَائِ
- الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يُغْتَسَلُ مِنْهُ ((-)) قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
إِذَا اسْتَيْقِظَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَضَعُ يَدَهُ فِي الْوَضُوءِ حَتَّى ((-)) :
يَغْسِلَهَا ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ ((-)).
رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ-

قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ فَإِنْ عَجَنَ بِهِ يَعْغِي
بِالْمَائِ النَّجِسِ عَجِينًا لَمْ يُوَكَّلْ وَأَطْعَمَهُ الدَّوَابَّ-
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ : وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ عَطَائٍ وَمُجَابِدٍ أَنَّهُ يُطْعَمُهُ
الدَّجَاجَ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: کھڑے پانی میں نجاست گرجائے اور وہ دو مٹکوں سے کم ہو

حدیث نمبر: 1113

:ترجمہ

(۱۱۱۴) (سیدنا ابوہریرہ رض فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کیا جائے، یعنی وہ پانی جو جاری نہ ہو کہ پھر اس سے غسل کرے اور فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو تو وہ اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے جب تک کہ اس کو دھونہ لے اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔

(ب) (زعفرانی کہتے ہیں کہ امام شافعی) رح (نے قدیم کتاب میں لکھا ہے کہ اگر نجس پانی کے ساتھ آٹا مل جائے تو وہ نہیں کھایا جاسکتا بلکہ وہ جانوروں کو کھلا دیا جائے۔

(ج) (امام احمد فرماتے ہیں: عطاء اور مجاہد سے منقول ہے وہ ایسا آٹا مرغیوں کو کھلا دیتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: If impurity falls into standing water and quantity of the water is less than two pots

Hadith number: 1113

Translation:

(1113) Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) says that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: Do not urinate in standing water, meaning, that water which is not flowing and then bathe in it. [1] And the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: When one of you wakes up, he should not put his hand in the vessel until he has washed it, because he does not know where his hand

has spent the night. [2]

(B) Zafarani says that Imam Shafi'i (may Allah have mercy on him) has written in his old book that if flour is mixed with impure water then it cannot be eaten but it should be fed to animals.

(C) Imam Ahmad (may Allah have mercy on him) says: It is narrated from Ata and Mujahid that they used to feed such flour to the chickens.

[1] [Sahih. Narrated by Bukhari 239 and Muslim 281, 282 and Nasai 57 and Abu Dawud 69 and Tirmidhi 68 and Ibn Majah 343 and Ahmad 2/316, 346, 362, 464 and Darimi 757]

[2] [Sahih. Narrated by Bukhari 162 and Muslim 278 and Nasai 1, 161, 441 and Abu Dawud 103, 105 and Tirmidhi 24 and Ibn Majah 393 and Malik 2/6 and Ahmad

Sunan Kubra Bayhaqi 1114

Arabic Text:

: وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ (١١١٥)
مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِيٍّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَنَا
أَبُو مُوسَى : إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ وَهَارُونَ بْنُ مُوسَى
الْفَرَوِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ : أَنَّ النَّاسَ نَزَلُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -
الْحِجْرَ أَرْضَ ثَمُودَ فَاسْتَقَوْا مِنْ بِيَارِهَا وَعَجَنُوا بِهِنَّ ، فَأَمَرَهُمْ
رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أَنْ يَهْرِيقُوا

مَا اسْتَقَوْا وَيُطْعَمُوا الْإِبِلَ الْعَجِينَ ، وَأَمْرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا مِنْ
الْبُرِّ الَّتِي كَانَتْ تَرُدُّهَا النَّاقَةُ-

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُوسَى الْأَنْصَارِيِّ
وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَنَسِ بْنِ عِيَّاضٍ-
وَبَدَا الْمَاءُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَجَسًا فَحِينَ كَانَ مَمْنُوعًا مِنْ اسْتِعْمَالِهِ
أَمَرَ بِإِرَاقَتِهِ وَأَمَرَ بِإِطْعَامِ مَا عُجِنَ بِهِ الْإِبِلَ فَكَذَلِكَ مَا يَكُونُ
مَمْنُوعًا مِنْهُ لِنَجَاسَتِهِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: کھڑے پانی میں نجاست گرجائے اور وہ دو مٹکوں سے
کم ہو

حدیث نمبر: 1114

:ترجمہ

(۱۱۱۵) (الف) (سیدنا نافع سے روایت ہے کہ ابن عمر^{رض} نے
انہیں خبر دی کہ لوگ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مقام

حجر پر اترے، یہ ثمود کی زمین تھی۔ صحابہ نے ان کے
کنوؤں سے پانی لیا اور آٹا گوندھا تو رسول اللہ ﷺ نے ان کو
حاصل کردہ پانی بہانے کا حکم دیا اور آٹا اونٹوں کو
کھلانے کا حکم دیا اور ساتھ ہی فرمایا: وہ اس پانی کو
استعمال کریں جہاں وہ اونٹنی آتی تھی۔

(ب (انس بن عیاض) رح (سے روایت ہے کہ یہ پانی اگرچہ
نجس نہ تھا لیکن اس کا استعمال ممنوع تھا، اس لیے آپ ﷺ
نے بہانے کا حکم دیا اور آٹا اونٹوں کو کھلانے کا حکم دیا۔
یہ نجاست کی وجہ سے ممنوع نہ تھا۔) بلکہ نبی ﷺ کا حکم
تھا)

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: If impurity falls into standing water
and quantity of the water is less than two
pots

Hadith number: 1114

Translation:

(1114) (a) It is narrated on the authority of

Nafi that Ibn Umar (may Allah be pleased with him) informed him that the people had encamped at Maqam-e-Hijr with the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him), the land of Thamud. The companions took water from the wells and started kneading the dough. The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) ordered them to pour out the water they had obtained and to feed the flour to the camels. And he said: Use the water from (that well) where the camel (of Hazrat Salih) used to come from.

(B) It is narrated on the authority of Anas ibn Ayyaz that although this water was not najis (impure) but its use was forbidden, this is why the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) ordered it and ordered the flour to be fed to the

camels. It was not forbidden because of impurity. (Rather it was the command of the Prophet)

[Sahih. Narrated by Bukhari 3379 and Muslim 2981]

Sunan Kubra Bayhaqi 1115

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصُّوفِيُّ أَخْبَرَنَا (١١١٦)
أَبُو أَحْمَدَ بْنَ عَدِيِّ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَمٍ حَدَّثَنَا بِشَامُ بْنُ خَالِدٍ
حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ حُمَيْدٍ
عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - سُئِلَ عَنْ عَجِينٍ وَقَعَ فِيهِ قَطْرَاتٌ
مِنْ دَمٍ ، فَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ - عَنْ أَكْلِهِ -

قَالَ الْوَلِيدُ : لِأَنَّ النَّارَ لَا تُنْشِفُ الدَّمَ. قَالَ أَبُو أَحْمَدَ هَكَذَا
حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَمٍ مِنْ أَسْلِ كِتَابِهِ -
وَإِنَّمَا يَرْوِي هَذَا سُؤَيْدٌ عَنْ نُوحِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسٍ -
قَالَ أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَبِي الْجِنِّ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ
سُلَيْمَانَ الْمَنْبِجِيُّ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ
نُوحِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ جَارِيَةً لَهُمْ عَجَنَتْ
لَهُمْ عَجِينًا فِي جَفْنَةٍ فَأَصَابَتْ يَدَهَا حَدِيدَةٌ فِي الْعَجِينِ فَسَأَلَ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - فَقَالَ ((لَا تَأْكُلُوهُ))
قَالَ أَبُو أَحْمَدَ : وَسُؤَيْدُ الَّذِي خَلَطَ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ
فَمَرَّةً رَوَاهُ عَنْ نُوحِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنِ الْحَسَنِ وَمَرَّةً عَنْ حُمَيْدٍ

عَنْ أَنَسٍ-

، قَالَ أَبُو أَحْمَدَ : وَعَامَّةُ حَدِيثِهِ مِمَّا لَا يُتَابَعُهُ الثَّقَاتُ عَلَيْهِ
وَبُو ضَعِيفٌ كَمَا وَصَفُوهُ يَعْنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بْنُ
مَعِينٍ وَغَيْرُهُمَا مِنَ الْأَيْمَّةِ ضَعَّفُوا سُؤْيَدًا-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: کھڑے پانی میں نجاست گرجائے اور وہ دو مٹکوں سے
کم ہو

حدیث نمبر: 1115

:ترجمہ

(۱۱۱۶) (الف) (سیدنا انس^{رض} سے روایت ہے کہ نبی ﷺ سے
آٹے کے متعلق سوال کیا گیا جس میں خون کے قطرے

گریڑے تھے تو نبی ﷺ نے اسے کھانے سے منع فرما دیا۔

(ب) (سیدنا انس^{رض} سے روایت ہے کہ ایک لونڈی نے
کسی برتن میں آٹا گوندھا تو اس کے ہاتھ کو زخم لگا، جس

کی وجہ سے آٹے میں خون کے قطرے گرے، اس نے

:رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا

اسے نہ کھاؤ۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: If impurity falls into standing water and quantity of the water is less than two pots

Hadith number: 1115

Translation:

(1115) (a) It is narrated from Anas (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) was asked about flour in which drops of blood were spilled, so the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) forbade it to be eaten.

(B) It is narrated on the authority of Anas (may Allah be pleased with him) that when

a slave girl was kneading flour in a vessel, her hand got injured due to which drops of blood fell in the flour. She asked the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) about it and he (peace and blessings of Allah be upon him) said: Do not eat it.

[Daif (Weak). Narrated by Al-Tabarani in Mujam Awsat 1/823]

Sunan Kubra Bayhaqi 1116

Arabic Text:

: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (١١١٧) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - بِالْهَاجِرَةِ فَصَلَّى بِالْبَطْحَائِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكَعَتَيْنِ رَكَعَتَيْنِ ، وَنَصَبَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنزَةً وَتَوَضَّأَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَمَسَّحُونَ بِوَضُوئِهِ -
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ عَنْ شُعْبَةَ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهِ آخَرَ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب : پاکی کا بیان
باب : مستعمل پانی پاک ہوتا ہے
حدیث نمبر : 1116

: ترجمہ

(1117) (سیدنا ابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ دوپہر

کو نکلے، آپ ﷺ نے بطحاء نامی جگہ پر ظہر اور عصر کی دو دو رکعتیں ادا کیں اور اپنے آگے نیزہ گاڑا اور وضو کیا اور لوگ آپ ﷺ کے وضو کے بچے ہوئے پانی کو ملنے لگے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Used water is pure

Hadith number: 1116

Translation:

(1116) Syeduna Abi Juhaifa (may Allah be pleased with him) says that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) went out in the afternoon, he prayed two rak'ats for Zuhr and Asr each at a place called Bath'ha with a spear planted in front of him (as a sutra) and performed ablution and the people started rubbing the leftover water from his ablution (on

their bodies).

[Sahih. Narrated by Bukhari 187, 499, 501, 3553 and Muslim 503 and Nasai 471 and Ahmad 4/307-309 and Darimi 1449]

Sunan Kubra Bayhaqi 1117

Arabic Text:

: وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ (١١١٨)
أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ النَّقْفِيُّ وَأَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ
مُوسَى وَاللَّفْظُ لِلنَّقْفِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ أَخْبَرَنَا
أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ
جَابِرًا يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ لَا
أَعْقِلُ فَتَوَضَّأَ وَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ : يَا
رَسُولَ اللَّهِ لِمَنْ الْمِيرَاثُ إِنَّمَا يَرْتُنِي كِلَالَةٌ ، فَنَزَلَتْ آيَةٌ
الْفَرَائِضِ -
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ
وَجْهِ آخَرَ عَنْ شُعْبَةَ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب : پاکی کا بیان
باب : مستعمل پانی پاک ہوتا ہے
حدیث نمبر : 1117

:ترجمہ

(۱۱۱۸) (سیدنا جابرؓ فرماتے ہیں کہ جب میں مریض تھا تو رسول اللہ ﷺ میری تیمار داری کیا کرتے تھے، اس وقت مجھے ہوش نہیں تھا، آپ ﷺ نے وضو کیا اور اپنے وضو کا بچا ہوا پانی مجھ پر ڈالا تو مجھے ہوش آگیا، میں نیعرض کیا: اے اللہ کے رسول! میری وراثت کس کے لیے ہے، میرا وارث کلالہ ہے؟ تو فرائض کی آیت نازل ہوئی۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Used water is pure

Hadith number: 1117

Translation:

(1117) Syeduna Jabir (may Allah be pleased with him) says that when I was sick, the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) used to take care of me. During this time, I was

unconscious, the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) performed ablution and poured the remaining water of his ablution on me, I then regained consciousness. I said: O Messenger of Allah! Who is my heir, as I have neither ascendants nor descendants? Then the verse of inheritance was revealed.

[Sahih. Narrated by Bukhari 194, 5676, 6743 and Muslim 1616 and Abu Dawud 2886 and Tirmidhi 2097 and Ibn Majah 2728 and Darimi 739]

Sunan Kubra Bayhaqi 1118

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَابِرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ (١١١٩)
الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ
عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ
كُرَيْبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ فَذَكَرَتْ غُسْلَ النَّبِيِّ
ﷺ - قَالَتْ: فَلَمَّا فَرَغَ تَنَحَّى فَعَسَلَ رِجْلَيْهِ، فَأَعْطَيْتُهُ -
مِلْحَفَةً فَأَبَى فَجَعَلَ يَنْفُضُ الْمَاءَ بِيَدِهِ -
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ زَائِدَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى
كتاب: پاکی کا بیان
باب: مستعمل پانی پاک ہوتا ہے
حدیث نمبر: 1118

:ترجمہ

(۱۱۱۹) (سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا) آپ ﷺ کے غسل کا تذکرہ فرماتی ہیں کہ جب آپ ﷺ فارغ ہوئے تو الگ ہوئے اور اپنے پاؤں کو دھویا۔ میں نے آپ کو کپڑا دیا تو آپ ﷺ نے انکار کر دیا، آپ اپنے ہاتھ سے پانی صاف کر رہے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Used water is pure

Hadith number: 1118

Translation:

(1118) Syeda Maimuna (may Allah be pleased with her) describes the Prophet's ghusl that when he finished, he moved aside and washed his feet. When I gave him a towel, he refused, he wiped the water with his own hands.

[Sahih. Narrated by Bukhari 249, 257, 259,

260, 265, 266, 274, 276, 281 and Muslim
317 and Nasai 254, 408, 418, 419, 428 and
Abu Dawud 245 and Tirmidhi 103 and Ibn
Majah 573 and Ahmad 6/329, 330, 335, 336
and Darimi 738, 774]

Sunan Kubra Bayhaqi 1119

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ (١١٢٠)
أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّقْفِيُّ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ
سَعِيدٍ حَدَّثَنَا رِشْدِينَ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ
أَنْعُمٍ عَنْ عُنْبَةَ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيِّ عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَمٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -
ﷺ - إِذَا تَوَضَّأَ مَسَحَ وَجْهَهُ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ -
قَالَ أَبُو الْعَبَّاسِ سَمِعْتُ أَبَا رَجَائٍ يَقُولُ سَأَلَنِي أَحْمَدُ بْنُ
حَنْبَلٍ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَكَتَبَهُ - قَالَ الشَّيْخُ : وَاسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ -
وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ : رَبَّمَا لَمْ يَجِدْ مُحَمَّدُ
بْنَ سِيرِينَ الْمُنْدِيلَ فَيَمْسَحُ وَجْهَهُ بِثَوْبِهِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب : پاکی کا بیان
باب : مستعمل پانی پاک ہوتا ہے

حدیث نمبر: 1119

:ترجمہ

(۱۱۲۰) (الف) (سیدنا معاذ بن جبلؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا، جب آپ وضو کرتے تو اپنے چہرے کو کپڑے کے ایک کنارے سے صاف فرماتے۔

(ب) (ابوالعباس فرماتے ہیں کہ میں نے ابورجا سے سنا کہ مجھ سے امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے اس کو لکھ دیا۔ شیخ کہتے ہیں: اس کی سند قوی نہیں۔

(ج) (یونس بن عبید سے روایت ہے کہ بسا اوقات محمد بن سیرین بھی اپنے چہرے کو صاف کرنے کے لیے تولیہ استعمال نہیں کرتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Used water is pure

Hadith number: 1119

Translation:

(1119) (a) Syeduna Mu'adh ibn Jabal (may Allah be pleased with him) says that I saw the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him), when he performed ablution, he would wipe his face with the edge of his garment.

(B) Abul Abbas says that I heard from Abu Raja that Imam Ahmad ibn Hanbal (may Allah have mercy on him) asked me about this hadith and he wrote it down. Sheikh says: Its sanad is not strong.

(C) It is narrated from Yunus bin Ubaid that sometimes Muhammad bin Sirin wouldn't use a towel to clean his face.

[Daif (Weak). Narrated by Tirmidhi 54]

Sunan Kubra Bayhaqi 1120

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ (١١٢١)
حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ قَالَ قَالَ الشَّافِعِيُّ : فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَمِنْ أَيْنَ لَمْ
يَكُنْ نَجَسًا؟ قِيلَ مِنْ قَبْلِ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - تَوَضَّأَ وَلَا شَكَّ
أَنَّ مِنَ الْوَضُوءِ مَا يُصِيبُ ثِيَابَهُ وَلَمْ يُعْلَمْ غَسَلَ ثِيَابَهُ مِنْهُ وَلَا
أَبْدَلَهَا وَلَا عَلِمْتُهُ فَعَلَ ذَلِكَ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَكَانَ
مَعْقُولًا إِذْ لَمْ تَمَسَّ الْمَائِ نَجَاسَةً أَنَّهُ لَا يَنْجُسُ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مستعمل پانی پاک ہوتا ہے

حدیث نمبر: 1120

:ترجمہ

(۱۱۲۱) (امام شافعی) رح (فرماتے ہیں: اگر کہنے والا کہے کہ کہاں سے وہ نجس نہیں ہوا؟ تو اسے کہا جائے گا کہ رسول اللہ ﷺ نے وضو کیا اور کچھ شک نہیں کہ وضو اس (پانی سے) جو کپڑے کو لگا اور اس سے کپڑا دھونے کا علم نہیں اور نہ اس نے اس کو متغیر کیا۔ مجھے معلوم نہیں کہ مسلمانوں میں سے کسی نے بھی اس کو استعمال کیا ہو۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ جب پانی کو نجاست نہ لگے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Used water is pure

Hadith number: 1120

Translation:

(1120) Imam Shafi'i (may Allah have mercy on him) says: If the speaker says that from where did it (the water) not become najis (impure)? Then it will be said that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) performed ablution and there is no doubt that ablution was done with the (water) which touched the cloth and it is not known whether it washed the cloth nor did it change it. I don't know of any Muslim who used it. One thing that is understandable is that when something impure doesn't touch the water then it is not impure.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1121

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ أَنْ خَبَرَنَا (١١٢٢)
أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ الصَّفَّارِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكِ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَمَّالِ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : فِي الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ
: فِي الْإِنَائِ فَيَنْتَضِحُ مِنَ الَّذِي يَصُبُّ عَلَيْهِ فِي الْإِنَائِ قَالَ
إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ وَلَا يُطَهِّرُ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب : پاکی کا بیان
باب : مستعمل پانی پاک ہوتا ہے

حدیث نمبر: 1121

:ترجمہ

(۱۱۲۲) (سیدنا ابن عباسؓ اس شخص کے متعلق فرماتے ہیں جو برتن میں غسل کرتا ہے اور اسے اس پانی سے جو برتن میں ڈالا تھا چھینٹے پڑجاتے ہیں وہ پانی پاک ہی لیکن وہ پاک نہیں کر سکتا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Used water is pure

Hadith number: 1121

Translation:

(1121) Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) says about a person who performs ghusl in a vessel and drops of water which fall into the vessel reflect back onto him: That water is pure but it cannot purify.

[Hasan Li Ghayrihi (Fair due to external evidence). Narrated by AbdulRazzaq 256]

Sunan Kubra Bayhaqi 1122

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْوَأَزِيِّ (١١٢٣)
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّفَّارِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ

عَطَائِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ -تَوَضَّأَ فَغَرَفَ غَرْفَةً ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْهَا ، ثُمَّ غَرَفَ - غَرْفَةً فَغَسَلَ وَجْهَهُ ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى ثُمَّ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ مَائٍ فَمَسَحَ بِهِ رَأْسَهُ وَقَالَ بِالْوُسْطِيِّينَ مِنْ أَصَابِعِهِ فِي بَاطِنِ أُذُنَيْهِ وَالْإِبْهَامَيْنِ مِنْ وَرَائِ أُذُنَيْهِ ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ قَدَمَهُ الْيُسْرَى -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: ہر عضو کے لیے نیا پانی لیا جائے گا اور مستعمل پانی
 سے طہارت درست نہیں
 حدیث نمبر: 1122

:ترجمہ

(۱۱۲۳) (سیدنا ابن عباس^{رض} سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے وضو کیا، آپ ﷺ نے چلو بھرا اور کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، پھر چلو بھرا اور اپنا چہرہ

دھویا، پھر چلو بھرا اور دایاں ہاتھ دھویا، پھر چلو بھرا اور اپنا بایاں ہاتھ دھویا، پھر کچھ پانی لیا اور سر کا مسح کیا اپنی درمیان والی انگلیوں سے کانوں کے اندرونی حصہ کا مسح کیا اور انگوٹھوں سے کانوں کے بیرونی حصہ کا بھی پھر چلو بھرا اور اپنا دایاں پاؤں دھویا، پھر چلو بھرا اور اپنا بایاں قدم دھویا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Used water is pure

Hadith number: 1121

Translation:

(1121) It is narrated on the authority of Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) performed ablution, he took a handful (of water) and rinsed his mouth and put water in his nose, then he took a handful and washed his

face, then he took a handful and washed his right hand, then he took a handful and washed his left hand, then he took some water and wiped his head. He wiped the inner part of his ears with his middle fingers and the outer part of the ears with the thumbs, then he took a handful and washed his right foot, then he took a handful and washed his left foot.

[Sahih. Narrated by Bukhari 140 and Nasai 101, 102 and Abu Dawud 137 and Tirmidhi 36 and Ibn Majah 403 and Ahmad 1/268, 365, 703 and Darimi 723, 724]

Sunan Kubra Bayhaqi 1123

Arabic Text:

: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (١١٢٤) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حَسَنِ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ-

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوَدْبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْحَارِثِ-

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُزَكِّي حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٍو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ حَبَّانَ بْنَ وَاسِعٍ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَاصِمِ الْمَازِنِيِّ يَذْكُرُ : أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - تَوَضَّأَ فَمَضْمَضَ ثُمَّ اسْتَنْشَرَ ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا وَيَدَهُ الْيُمْنَى ثَلَاثًا ، وَالْأُخْرَى ثَلَاثًا ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَائٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدِهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى أَنْقَابَهُمَا-

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ بَارُونَ بْنِ سَعِيدٍ وَأَحْمَدَ بْنِ
عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ وَبَارُونَ بْنِ مَعْرُوفٍ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: ہر عضو کے لیے نیا پانی لیا جائے گا اور مستعمل پانی
سے طہارت درست نہیں
حدیث نمبر: 1123

:ترجمہ

(۱۱۲۴) (حبان بن واسع کے باپ نے عبداللہ بن زید بن عاصم
مازنی سے سنا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو وضو کرتے
ہوئے دیکھا، آپ ﷺ نے کلی کی، پھر ناک جھاڑا، پھر تین
مرتبہ چہرا دھویا اور تین مرتبہ دایاں ہاتھ اور تین مرتبہ
بایاں، پھر نئے پانی سے سر کا مسح کیا اور اپنے پاؤں کو
دھو کر صاف کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: New water will be used for each limb and purification from used water is not correct

Hadith number: 1123

Translation:

(1123) Habban ibn Wasi's father heard from Abdullah ibn Zayd ibn Asim Mazni that I saw the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) performing ablution, he rinsed his mouth, then cleaned his nose, then washed his face three times, his right hand three times and his left hand three times, then wiped his head with fresh water and washed his feet till they were clean.

[Sahih. Narrated by Muslim 236 and Abu Dawud 120 and Tirmidhi 35]

Sunan Kubra Bayhaqi 1124

Arabic Text:

: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ (١١٢٥)
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّخَوِيُّ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ
بْنُ جَمِيلِ الْأَنْطَاكِيُّ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنِ الرَّبِيعِ بِنْتِ مَعْوِذِ ابْنِ عَفْرَاءٍ قَالَتْ
: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - بِمِيضَاءٍ تَسَعُ مُدًّا أَوْ مُدًّا وَثُلَاثًا فَقَالَ
اسْكُبِي - قَالَتْ : فَسَكَبْتُ عَلَيْهِ ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ إِلَى
، مِرْفَقَيْهِ ، وَأَخَذَ مَاءً جَدِيدًا فَمَسَحَ رَأْسَهُ مُقَدَّمَهُ وَمُؤَخَّرَهُ
وَوَسَطَهُ وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلَاثًا .

بَكَا رَوَاهُ شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِلرِّوَايَةِ

الصَّحِيحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ-

وَرُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ مَا يُشْبَهُ خِلَافَهُ
وَيُشْبَهُ مُوَافَقَتَهُ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: ہر عضو کے لیے نیا پانی لیا جائے گا اور مستعمل پانی

سے طہارت درست نہیں

حدیث نمبر: 1124

:ترجمہ

(۱۱۲۵) سیدنا ربیع بنت معوذ بن عفرائی فرماتی ہیں کہ میں

رسول اللہ ﷺ کے پاس پانی والا برتن لے کر آئی، جس میں

ایک مد یا ایک مد اور تہائی پانی آتا تھا، آپ ﷺ نے فرمایا:

اس کو ڈال، میں نے آپ ﷺ پر پانی بہایا۔ آپ ﷺ نے اپنے

چہرے اور بازوؤں کو کہنیوں تک دھویا اور نیا پانی لیا۔ پھر

اپنے سر کے اگلے اور پچھلے حصہ کا مسح کیا اور تین

مرتبہ اپنے پاؤں کو دھویا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: New water will be used for each limb and purification from used water is not correct

Hadith number: 1124

Translation:

(1124) Rabi'ah bint Mu'adh ibn 'Afra'i says that I came to the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) with a jug of water, which had a capacity of one mudd or one mudd and one-third of water. He said: Pour it on (me), I poured water for him. He washed his face and arms up to his elbows and took fresh water. Then he wiped the front and back of his head and washed his feet three times.

[Hasan (Fair). Narrated by Abu Dawud 126 and Tirmidhi 43 and Ibn Majah 390, 440

Sunan Kubra Bayhaqi 1125

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذُبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ (١١٢٦)
دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ
سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ عَقِيلٍ عَنِ الرَّبِيعِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ -
مَسَحَ بِرَأْسِهِ مِنْ فَضْلِ مَايَ كَانَ فِي يَدِهِ -
هَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَاوُدَ وَغَيْرِهِ عَنْ

التَّوْرِيِّ وَقَالَ بَعْضُهُمْ بِبَلِّ يَدَيْهِ -
وَكَأَنَّهُ أَرَادَ أَخَذَ مَائًا جَدِيدًا فَصَبَّ بَعْضَهُ وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِبَلِّ
يَدَيْهِ -

وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ لَمْ يَكُنْ بِالْحَافِظِ وَأَهْلُ الْعِلْمِ
بِالْحَدِيثِ مُخْتَلِفُونَ فِي جَوَازِ الْإِحْتِجَاجِ بِرِوَايَاتِهِ -
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الدُّورِيُّ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ
يَقُولُ : ابْنُ عَقِيلٍ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ -

وَقَالَ أَبُو عَيْسَى : سَأَلْتُ الْبُخَارِيَّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
عَقِيلٍ فَقَالَ : رَأَيْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ
وَالْحُمَيْدِيَّ يَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِهِ وَهُوَ مُقَارِبُ الْحَدِيثِ -
وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَائِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - وَإِسْنَادُهُ

ضَعِيفٌ

وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَعَائِشَةَ وَأَنْسِ
بْنَ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - فِي الْغُسْلِ شَيْئٌ فِي مَعْنَاهُ ، وَلَا
يَصِحُّ شَيْئٌ مِنْ ذَلِكَ لِضَعْفِ أَسَانِيدِهِ وَقَدْ بَيَّنَّاهُ فِي الْخِلَافِيَّاتِ
وَأَصَحُّ شَيْئٍ فِيهِ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَّاسِيلِ عَنْ
مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ
الْعَلَّائِيِّ بْنِ زِيَادٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - : أَنَّهُ اغْتَسَلَ فَرَأَى لَمْعَةً

عَلَى مَنْكِبِهِ لَمْ يُصِْبْهَا الْمَاءُ ، فَأَخَذَ خَصْلَةً مِنْ شَعْرِ رَأْسِهِ
فَعَصَرَ بِهَا عَلَى مَنْكِبِهِ ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلَى ذَلِكَ الْمَكَانِ . وَبِذَا
مُنْقَطِعٌ .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: ہر عضو کے لیے نیا پانی لیا جائے گا اور مستعمل پانی

سے طہارت درست نہیں

حدیث نمبر: 1125

:ترجمہ

(۱۱۲۶) (الف) (ربیع سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے اپنے ہاتھ

میں بچے ہوئے پانی سے اپنے سر کا مسح کیا۔

(ب) (عبداللہ بن داؤد وغیرہ ثوری سے نقل کرتے ہیں کہ

بعض نے کہا: آپ اپنے ہاتھوں کی تری سے ہی مسح کرتے

تھے، یعنی جب آپ کسی دوسرے عضو کو دھونے کے لیے

پانی لیتے تو اسے اس پر بہاتے اور پھر باقی ماندہ ہاتھوں

کی تری سے مسح کرتے۔ عبداللہ بن محمد بن عقیل حافظ

حدیث نہیں تھے۔ محدثین ان کو

روایات کو قابل حجت کے جواز کو سمجھنے میں مختلف فیہ ہیں۔

(ج) یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ ابن عقیل کی احادیث قابل حجت نہیں۔

(د) (امام ترمذی نے امام بخاری) رح (نے ابن عقیل کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا: میں نے احمد بن حنبل، اسحاق بن ابراہیم اور حمیدی کو دیکھا، وہ اس کی احادیث کو قابل حجت سمجھتے تھے۔

(ر) (ابودرداء عن النبی ﷺ والی روایت کی سند ضعیف ہے۔ (س) (سیدنا علی، ابن عباس، ابن مسعود، عائشہ اور انس بن مالک نبی ﷺ سے غسل کے متعلق اس کے ہم معنی روایت کرتے ہیں لیکن ان کی اسانید ضعیف ہیں۔ خلافت میں اس کی مکمل وضاحت ہے۔

(ط) (امام ابوداؤد مراسیل میں علاء بن زیاد کے واسطے نبی ﷺ سے منقول ہے کہ آپ نے غسل کیا اور کندھے پر تھوڑی تھوڑی سی خشک جگہ تھی جہاں پانی نہیں پہنچا تھا، آپ ﷺ نے اپنے سر کے بالوں سے پانی لے کر وہاں کندھے پر نچوڑ دیا، پھر ہاتھ کے ساتھ اس کو مل دیا۔ یہ روایت منقطع ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: New water will be used for each limb and purification from used water is not correct

Hadith number: 1125

Translation:

(1125) (a) It is narrated from Rabi that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) wiped his head with the water which was left over in his hand.

(B) Abdullah ibn Dawood and others narrate from al-Thawri (may Allah have mercy on him) that some people said: He (the Prophet) used to wipe his head with the wetness of his hands, that is, when he took water to wash another limb, he would pour it on it and then with the wetness of

the rest of his hands he would wipe his head. Abdullah bin Muhammad bin Aqeel was not a memorizer of hadith. The muhadditheen differ in their understanding of the legitimacy of his traditions.

(C) Yahya ibn Mu'in says that the ahadith of Ibn Aqeel are not reliable.

(D) When Imam Tirmidhi asked Imam Bukhari (may Allah have mercy on him) about Ibn Aqeel, he said: I saw Ahmad ibn Hanbal, Ishaq ibn Ibrahim and Humaydi (may Allah have mercy on them), they considered his ahadith to be reliable.

(E) The sanad (chain of transmission) of the hadith of Abu Darda (may Allah be pleased with him) from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) is daif (weak).

(F) Ali, Ibn Abbas, Ibn Masud, Ayesha and Anas ibn Malik (may Allah be pleased with them) narrate the same thing about ghusl from the Prophet, but all of their isnad (chain of transmission) are weak. A complete explanation of this has been done previously.

(G) Imam Abu Dawud (may Allah be pleased with him), in Maraasil, narrates from Ala'a ibn Ziyad on behalf of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) that he performed ghusl and there was a small dry area on his shoulder where water did not reach. He took water from the hair of his head and squeezed it on his shoulder, then rubbed it with his hand. This tradition is disconnected.

[Hasan (Fair). Narrated by Abu Dawud 130 and Tirmidhi 523]

Sunan Kubra Bayhaqi 1126

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ (١١٢٧)
الْمُزَكِّيُّ وَأَبُو بَكْرِ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالَوا أَخْبَرَنَا أَبُو
الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ
الْحَكَمِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ
بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَبَا السَّائِبِ مَوْلَى بِشَامِ بْنِ زُبَيْرَةَ حَدَّثَهُ
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ

: اللهُ - ﷺ -)) : لَا يَغْتَسِلُ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ ((. فَقَالَ
كَيْفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا بُرَيْرَةَ؟ قَالَ :يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا.

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ هَارُونَ بْنِ سَعِيدٍ وَ أَبِي
الطَّائِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ عَيْسَى كُلُّهُمُ عَنْ ابْنِ وَهْبٍ كَذَا رُوِيَ بِهَذَا
الْإِسْنَادِ.

وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَاءٍ دَائِمٍ يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ قُلَّتَيْنِ ، فَإِذَا
، اغْتَسَلَ فِيهِ صَارَ مُسْتَعْمَلًا ، فَلَا يُمَكِّنُ غَيْرُهُ أَنْ يَتَطَهَّرَ بِهِ
فَأَمَرَ بِأَنْ يَتَنَاوَلَهُ تَنَاوُلًا لِنَلَا يَصِيرَ مَا بَيَقَى فِيهِ مُسْتَعْمَلًا
وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَهَكَذَا مَعْنَى مَا

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب :پاکی کا بیان

باب :ہر عضو کے لیے نیا پانی لیا جائے گا اور مستعمل پانی
سے طہارت درست نہیں

حدیث نمبر :1126

:ترجمہ

(۱۱۲۷) (الف) (سیدنا ابوہریرہ ^{رض} فرماتے ہیں کہ رسول اللہ

نے فرمایا: کوئی شخص کھڑے پانی میں غسل جنابت نہ کرے، لوگوں نے کہا: اے ابوہریرہ! کیسے کرے؟ آپ نے فرمایا: اس پانی کو الگ کسی برتن میں لے لے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: New water will be used for each limb and purification from used water is not correct

Hadith number: 1126

Translation:

(1126) Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) says that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: No one should perform ghusl for major impurity in standing water. The people said: O Abu Hurayrah! How to do it (ghusl)? He said: Take this water in a separate vessel.

[Sahih. Narrated by Muslim 283 and Nasai 221, 332, 396 and Ibn Majah 605]

Sunan Kubra Bayhaqi 1127

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوَدْبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ (١١٢٨)
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((: لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ
الدَّائِمِ وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ)) (-. بِكَذَا رَوَاهُ

ابْنُ عَجَلَانَ عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا اللَّفْظِ

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: ہر عضو کے لیے نیا پانی لیا جائے گا اور مستعمل پانی سے طہارت درست نہیں

حدیث نمبر: 1127

:ترجمہ

(۱۱۲۸) (سیدنا ابوہریرہ ^{رض} سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے اور نہ اس میں غسل جنابت کرے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: New water will be used for each limb and purification from used water is not correct

Hadith number: 1127

Translation:

(1127) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: None of you should urinate in standing water nor perform ghusl for major impurity in it.

[Sahih. Narrated by Bukhari 239 and Muslim 282 and Nasai 57, 58, 397 and Abu Dawud 70 and Tirmidhi 68 and Ibn Majah 344 and Ahmad 2/316, 346, 362, 464 and Darimi 757]

Sunan Kubra Bayhaqi 1128

Arabic Text:

وَرُوِيَ عَنْهُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي (١١٢٩)
بُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - : أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ
الدَّائِمِ ، وَأَنْ يُغْتَسَلَ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّغَرِ
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ
ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ فَذَكَرَهُ. وَقَدْ قِيلَ عَنْهُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ
عَلَى لَفْظٍ آخَرَ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: ہر عضو کے لیے نیا پانی لیا جائے گا اور مستعمل

پانی سے طہارت درست نہیں

حدیث نمبر: 1128

ترجمہ:

(۱۱۲۹) (سیدنا ابی ہریرہ ^{رض} سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع کیا کہ کچھ اس میں جنابت کا غسل کیا جائے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: New water will be used for each limb and purification from used water is not correct

Hadith number: 1128

Translation:

(1128) It is narrated from Syeduna Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) forbade urinating in

standing water and to perform ghusl for major impurity in it.

[Sahih. Narrated by Bukhari 239 and Muslim 282 and Nasai 57, 58, 397 and Abu Dawud 70 and Tirmidhi 68 and Ibn Majah 344 and Ahmad 2/316, 346, 362, 464 and Darimi 757]

Sunan Kubra Bayhaqi 1129

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقْرِيُّ (١١٣٠)
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ
يَعْقُوبَ الْقَاضِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ
عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي
الْمَاءِ الدَّائِمِ ، ثُمَّ يُغْتَسَلُ مِنْهُ لِلْجَنَابَةِ -
: هَذَا اللَّفْظُ هُوَ الَّذِي أُخْرِجَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ
ثُمَّ يُغْتَسَلُ مِنْهُ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُخْرَجْ فِيهِ لِلْجَنَابَةِ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب : پاکی کا بیان

باب : ہر عضو کے لیے نیا پانی لیا جائے گا اور مستعمل پانی
سے طہارت درست نہیں

حدیث نمبر : 1129

:ترجمہ

(۱۱۳۰) (الف) (سیدنا ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا کہ پھر اس سے غسل جنابت کیا جائے۔

English Translation:.

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: New water will be used for each limb and purification from used water is not correct

Hadith number: 1129

Translation:

(1129) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) forbade urinating in standing water and then performing ghusl for major impurity in it.

[Sahih. Narrated by Bukhari 239 and

Muslim 282 and Nasai 57, 58, 397 and Abu Dawud 70 and Tirmidhi 68 and Ibn Majah 344 and Ahmad 2/316, 346, 362, 464 and Darimi 757]

Sunan Kubra Bayhaqi 1130

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو أَحْمَدَ : مُحَمَّدٌ (١١٣١)
بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ النَّقْفِيُّ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا أَبُو

الْيَمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ
 الْأَعْرَجَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا بُرَيْرَةَ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ -
 يَقُولُ: لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ -
 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ -
 وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
 أَبِي بُرَيْرَةَ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: ہر عضو کے لیے نیا پانی لیا جائے گا اور مستعمل پانی
 سے طہارت درست نہیں
 حدیث نمبر: 1130

:ترجمہ

(۱۱۳۱) (سیدنا ابوہریرہ رضی فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: تم میں سے کوئی بھی کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرے اور اس سے غسل کرے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: New water will be used for each limb and purification from used water is not correct

Hadith number: 1130

Translation:

(1130) Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) says that he heard the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) saying: None of you should urinate in standing water and perform ghusl in it.

[Sahih. Narrated by Bukhari 239 and Muslim 282 and Nasai 57, 58, 397 and Abu Dawud 70 and Tirmidhi 68 and Ibn Majah 344 and Ahmad 2/316, 346, 362, 464 and Darimi 757]

Sunan Kubra Bayhaqi 1131

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بَشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا (١١٣٢)
أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرِ
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي
عُثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ ((لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ
فِي الْمَائِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ)) (- وَكَذَلِكَ ثَبَتَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاكى كا بيان

باب: ہر عضو کے لیے نیا پانی لیا جائے گا اور مستعمل پانی سے طہارت درست نہیں

حدیث نمبر: 1131

:ترجمہ

(۱۱۳۲) (سیدنا ابوہریرہؓ نے مرفوعاً بیان کیا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے کہ پھر اس سے غسل کرے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: New water will be used for each limb and purification from used water is not correct

Hadith number: 1131

Translation:

(1131) Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) narrated in a marfu hadith that none of you should urinate in standing water and then perform ghusl with it.

[Sahih. Narrated by Bukhari 239 and Muslim 282 and Nasai 57, 58, 397 and Abu Dawud 70 and Tirmidhi 68 and Ibn Majah 344 and Ahmad 2/316, 346, 362, 464 and Darimi 757]

Sunan Kubra Bayhaqi 1132

Arabic Text:

: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ (١١٣٣)
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّاجِرُ أَخْبَرَنَا أَبُو حَاتِمِ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا
الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا بِشَامُ بْنُ حَسَّانَ -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَأَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ بِشَامٍ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((-)) : لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَائِ الدَّائِمِ ثُمَّ
يَتَوَضَّأُ أَوْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ ((-)).
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ زُبَيْرِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَرِيرٍ
وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ : ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ - لَمْ يَشْكُ - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ
عَوْفٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ مَرْفُوعًا -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان

باب: ہر عضو کے لیے نیا پانی لیا جائے گا اور مستعمل پانی سے طہارت درست نہیں
حدیث نمبر: 1132

:ترجمہ

(۱۱۳۳) (سیدنا ابوہریرہ رض سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سے کوئی بھی کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے کہ پھر اس سے وضو یا غسل کرے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: New water will be used for each limb and purification from used water is not correct

Hadith number: 1132

Translation:

(1132) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace

and blessings of Allah be upon him) said:
None of you should urinate in standing water
then perform ablution or ghusl with it.

[Sahih. Narrated by Bukhari 239 and Muslim
282 and Nasai 57, 58, 397 and Abu Dawud
70 and Tirmidhi 68 and Ibn Majah 344 and
Ahmad 2/316, 346, 362, 464 and Darimi
757]

Sunan Kubra Bayhaqi 1133

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِيُّ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١١٣٤)
بْنِ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَوْفٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ -
ﷺ -

: قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -
ﷺ - قَالَ ((لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَتَطَهَّرُ مِنْهُ)) -
وَخَالَفَهُمَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ فَرَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدٍ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي
هُرَيْرَةَ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: ہر عضو کے لیے نیا پانی لیا جائے گا اور مستعمل پانی
سے طہارت درست نہیں

حدیث نمبر: 1133

:ترجمہ

(١١٣٤) (سیدنا ابوہریرہ ^{رض} سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے
فرمایا: تم میں سے کوئی شخص کھڑے ہوئے پانی میں
پیشاب نہ کرے کہ پھر اس سے وضو کرے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: New water will be used for each limb and purification from used water is not correct

Hadith number: 1133

Translation:

(1133) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah that Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: None of you should urinate in standing water and then perform ablution with it.

[Sahih. Narrated by Bukhari 239 and Muslim 282 and Nasai 57, 58, 397 and Abu Dawud 70 and Tirmidhi 68 and Ibn Majah 344 and Ahmad 2/316, 346, 362, 464 and Darimi 757]

Sunan Kubra Bayhaqi 1134

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ بَشْرَانَ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا (١١٣٥)
مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ
عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَا
يُبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَائِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ.
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ مَوْفُوقًا.
وَرَوَاهُ هَمَّامُ بْنُ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: ہر عضو کے لیے نیا پانی لیا جائے گا اور مستعمل پانی سے طہارت درست نہیں

حدیث نمبر: 1134

:ترجمہ

(۱۱۳۵) سیدنا ابوہریرہ ^{رض} فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے، پھر اس سے غسل کرے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: New water will be used for each limb and purification from used water is not correct

Hadith number: 1134

Translation:

(1134) Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) says that none of you should urinate in standing water, then perform ghusl with it.

[Sahih. Narrated by Ibn Abi Shaybah 1/15]

Sunan Kubra Bayhaqi 1135

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَائِرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ الْقَطَّانُ (١١٣٦)
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ
هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو بَرِيرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ ((- : لَا يُبَالُ فِي الْمَائِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يُغْتَسَلُ -
مِنْهُ))-

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ- ت (وَكَذَلِكَ ثَبَتَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي بَرِيرَةَ
وَعَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهِ عَنْ أَبِي بَرِيرَةَ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: ہر عضو کے لیے نیا پانی لیا جائے گا اور مستعمل پانی
سے طہارت درست نہیں

حدیث نمبر: 1135

:ترجمہ

(۱۱۳۶) (سیدنا ابوہریرہ رض فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کیا جائے جو چلتا نہ ہو کہ پھر اس سے غسل کرے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: New water will be used for each limb and purification from used water is not correct

Hadith number: 1135

Translation:

(1135) Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) says that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: Do not urinate in standing water which does not flow and then perform ghusl with it. [Sahih. Narrated by Ahmad 2/494]

Sunan Kubra Bayhaqi 1136

Arabic Text:

وَرُوِيَ عَنْ عَطَائِ بْنِ مِينَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ (١١٣٧)
اللَّهِ - ﷺ - قَالَ ((لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَائِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ
مِنْهُ أَوْ يُشْرَبُ)) -
أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ قَالَ قُرِئَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَكَ
أَنْسُ بْنُ عِيَاضٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَطَائِ بْنِ
مِينَا ... فَذَكَرَهُ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: ہر عضو کے لیے نیا پانی لیا جائے گا اور مستعمل پانی سے طہارت درست نہیں

حدیث نمبر: 1136

:ترجمہ

(۱۱۳۷) (سیدنا ابی ہریرہ ^{رض} سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی شخص کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے کہ پھر اس سے وضو کرے یا پیے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: New water will be used for each limb and purification from used water is not correct

Hadith number: 1136

Translation:

(1136) It is narrated on the authority of Abi Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: None of you should urinate in standing water, then perform ablution or drink from it.

[Hasan (Fair). Narrated by Ibn Khuzaymah 66]

Sunan Kubra Bayhaqi 1137

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدٌ (١١٣٨)
بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ
: عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ثَمَانِيَةِ رَهْطٍ اغْتَسَلُوا مِنْ حَوْضٍ وَاحِدٍ ، أَحَدُهُمْ
جُنُبٌ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنْ الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ -
وَهَذَا إِنْ كَانُوا يَتَنَاوَلُونَهُ تَنَاوُلًا فَجَائِزٌ ، وَإِنْ كَانُوا انْغَمَسُوا
فِيهِ وَالْمَاءُ قُلَّتَانِ فَصَاعِدًا فَجَائِزٌ أَيْضًا ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ
فَبِانْغِمَاسٍ جُنُبٍ فِيهِ يَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا فَالْأَثَرُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا
يَصِيرُ نَجَسًا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب : پاکی کا بیان

باب : ہر عضو کے لیے نیا پانی لیا جائے گا اور مستعمل پانی
سے طہارت درست نہیں

حدیث نمبر : 1137

:ترجمہ

(۱۱۳۸) (سیدنا ابن عباسؓ سے اٹھ آدمیوں کے متعلق سوال کیا گیا جو ایک حوض میں غسل کرتے ہیں اور ان میں سے ایک جنبی ہے؟ آپؓ نے فرمایا: پانی پاک ہے اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: New water will be used for each limb and purification from used water is not correct

Hadith number: 1137

Translation:

(1137) Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) was asked about eight men who perform ghusl in one pool and one of them is junub. He said: Water is pure and nothing defiles it.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1138

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصُّوفِيُّ أَخْبَرَنَا (١١٣٩)
أَبُو أَحْمَدَ بْنَ عَدِيِّ الْحَافِظُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ
عَبْدِ الْعَزِيزِ يَقُولُ حَدَّثَنِي جَدِّي أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ
عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ : كَانَ أَحَدُنَا يَأْتِي الْغَدِيرَ
وَهُوَ جُنْبٌ فَيَغْتَسِلُ فِي نَاحِيَةِ مَنْهُ .

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاكى كا بيان

باب: ہر عضو کے لیے نیا پانی لیا جائے گا اور مستعمل پانی

سے طہارت درست نہیں

حدیث نمبر: 1138

:ترجمہ

(۱۱۳۹) (سیدنا جابر^{رض} سے روایت ہے کہ ہم میں سے کوئی

شخص کنویں پر آتا اور وہ جنبی ہوتا تو وہ اس کے ایک

طرف سے غسل کر لیتا تھا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: New water will be used for each limb and purification from used water is not correct

Hadith number: 1138

Translation:

(1138) It is narrated from Syeduna Jabir (may Allah be pleased with him) that one of us used to come to a well and he would be junub so he would perform ghusl on one side of it.

[Daif (Weak). Narrated by Ibn Adiy in Al-Kamil 6/125]

Sunan Kubra Bayhaqi 1139

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ (١١٤٠)
إِسْحَاقَ وَأَبُو النَّضْرِ بْنُ يُونُسَ قَالَا حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ
الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ
أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو رَزِينٍ وَأَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - ((إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَائِي أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ
ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَارٍ)) -
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُجْرٍ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: کتے کا جھوٹا ناپاک ہے
حدیث نمبر: 1139

ترجمہ:

(١١٤٠) (سیدنا ابوہریرہ ^{رض} سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا منہ

ڈال جائے تو اسے انڈیل دو، پھر اس کو سات مرتبہ دھوؤ۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The saliva of a dog is impure

Hadith number: 1139

Translation:

(1139) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: If a dog licks the vessel of any one of you, let him throw (the contents) away and wash it seven times.

[Sahih. Narrated by Muslim 279 and Nasai 66, 336 and Ibn Majah 363 and Ahmad 2/424, 480]

Sunan Kubra Bayhaqi 1140

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّيَّ وَأَبُو نَصْرِ (١١٤١)
: أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ أَحْمَدَ الْفَامِيَّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ :
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ
أَخْبَرَنَا مَالِكٍ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو
الْحَسَنِ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ السَّلِيطِيِّ
أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ : جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ التُّرْكِيُّ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي
: الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - قَالَ
((إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَائِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ)) -
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ

عَنْ مَالِكٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى -
 وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ وَرَوَاهُ عَبْدُ
 الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيَّاشٍ عَنْ بِشَامِ بْنِ
 عُرْوَةَ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ
 النَّبِيِّ ﷺ - فِي الْكَلْبِ يَلْغُ فِي الْإِنَائِ: أَنَّهُ يَغْسِلُهُ ثَلَاثًا أَوْ
 خَمْسًا أَوْ سَبْعًا. وَهَذَا ضَعِيفٌ بِمَرَّةٍ -
 عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ مَثْرُوكٌ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ لَا يُحْتَجُّ
 بِهِ خَاصَّةً إِذَا رَوَى عَنْ أَهْلِ الْحِجَازِ -
 وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ بِشَامِ عَنْ
 أَبِي الزِّنَادِ: فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ - كَمَا رَوَاهُ الثَّقَاتُ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: کتے کی برتن کو چاٹ جانے پر سات مرتبہ دھونا

حدیث نمبر: 1140

:ترجمہ

(۱۱۴۱) (الف) (سیدنا ابوہریرہ ^{رض} سے روایت ہے کہ رسول

اللہ ﷺ نے فرمایا: جب کتا کسی کے برتن سے پی جائے تو اس کو سات مرتبہ دھوؤ۔

ب (ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا " :جب کتا کسی برتن کو چاٹ جائے تو اسے تین، پانچ یا سات مرتبہ " مرتبہ دھویا جائے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔

ج (ابو الزناد کی روایت میں سات مرتبہ دھونے کا ذکر ہے جو ثقات سے منقول ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Washing the vessel seven times when a dog licks it

Hadith number: 1140

Translation:

(1140) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: When a dog drinks from the vessel of any

one of you then wash it seven times.

(B) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "When a dog licks a vessel, it should be washed three, five or seven times." This hadeeth is weak.

(C) Abu al-Zinad's narration mentions washing seven times, which is narrated from Saqqat.

[Sahih. Narrated by Bukhari 172 and Muslim 279 and Nasai 63, 338-340 and Tirmidhi 91 and Ibn Majah 364 and Ahmad 2/245, 265, 271, 314, 360, 398, 424, 427, 460, 480, 482, 508]

Sunan Kubra Bayhaqi 1141

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَائِرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ (١١٤٢)
الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ بَدَأَ مَا
حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((: طُهُورُ إِنَائِي
أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ)) (-)
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ-

وَرُوِينَا فِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ
مُسْنَدًا وَفِيمَا ذَكَرْنَا كِفَايَةً. وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي
بُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ فِي غَسْلِ الْإِنَائِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ سَبْعًا مِنْ
فَتْوَاهُمْ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: کتے کی برتن کو چاٹ جانے پر سات مرتبہ دھونا

حدیث نمبر: 1141

:ترجمہ

(۱۱۴۲) (الف) (سیدنا ابوہریرہ ^{رض} سے روایت ہے کہ رسول اللہ

نے فرمایا: تم میں سے کسی کے برتن میں جب کتا منہ ^{صلی اللہ علیہ وسلم}

ڈال جائے تو وہ سات مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا۔

(ب) (سیدنا ابوہریرہ ^{رض}، ابن عباس ^{رض} اور عائشہ ^{رض} سے کتے کے

برتن کو چاٹ جانے پر سات مرتبہ دھونے کا فتویٰ ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Washing the vessel seven times
when a dog licks it

Hadith number: 1141

Translation:

(1141) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: When a dog licks the vessel of any one of you, it will be cleansed by washing it seven times.

(B) There is a fatwa from Abu Hurayrah, Ibn Abbas and Ayesha (may Allah be pleased with them) to wash the vessel seven times after a dog has licked it.

[Sahih. Narrated by Bukhari 172 and

Muslim 279 and Nasai 63, 338-340 and
Tirmidhi 91 and Ibn Majah 364 and Ahmad
2/245, 265, 271, 314, 360, 398, 424, 427,
460, 480, 482, 508]

Sunan Kubra Bayhaqi 1142

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكْرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ (١١٤٣)
الْمُزَكِّيُّ وَأَبُو بَكْرِ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِيُّ وَأَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي
عَمْرٍو الزَّابِدُ قَالُوا أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدٌ

بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقِ الْخَوْلَانِيِّ حَدَّثَنَا بِشْرُ
بُنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ ابْنِ سَبْرِينَ عَنْ أَبِي بُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((: طُهُورُ إِنَائِي أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ
أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْلَاهُنَّ بِالنُّرَابِ)) (-).

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: دھونے میں ایک مرتبہ مٹی شامل کرنا

حدیث نمبر: 1142

:ترجمہ

(۱۱۴۳) (سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تمہارے برتن میں جب کتا منہ ڈال جائے تو اس کو سات مرتبہ دھوؤ اور پہلی مرتبہ مٹی سے۔)

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Sand is included once in the

washing process

Hadith number: 1142

Translation:

(1142) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: When a dog licks your vessel, wash it seven times and the first time with sand.

[Sahih. Narrated by Bukhari 172 and Muslim 279 and Nasai 63, 338-340 and Abu Dawud 71 and Tirmidhi 91 and Ibn Majah 364 and Ahmad 2/245, 265, 271, 314, 360, 398, 424, 427, 460, 480, 482, 508]

Sunan Kubra Bayhaqi 1143

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ (١١٤٤)
الْقَطِيعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا
إِسْمَاعِيلُ عَنْ بِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ -
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ زُبَيْرِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ
ابْنِ عَلِيَّةٍ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: دھونے میں ایک مرتبہ مٹی شامل کرنا
حدیث نمبر: 1143

ترجمہ:

(۱۱۴۴) ابن سیرین نے اسی طرح بیان کیا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Sand is included once in the washing process

Hadith number: 1143

Translation:

(1143) Ibn Sirin has also narrated like this.
[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1144

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّيُّ وَأَبُو (١١٤٥)
بَكْرِ بْنِ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ
عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي بُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ((إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَائِ أَحَدِكُمْ
فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْ لَأْبُنَّ أَوْ أَخْرَاهُنَّ بِتُرَابٍ)) (-).

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: دھونے میں ایک مرتبہ مٹی شامل کرنا

حدیث نمبر: 1144

:ترجمہ

(۱۱۴۵) (سیدنا ابوہریرہ ^{رض} سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب کتا تم میں کسی کے برتن میں منہ ڈال جائے تو اس کو سات مرتبہ دھوؤ اور پہلی یا آخری مرتبہ مٹی سے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Sand is included once in the washing process

Hadith number: 1144

Translation:

(1144) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: When a dog licks the vessel of any one of you, wash it seven times and the first or last time with sand.

[Sahih. Narrated by Bukhari 172 and Muslim 279 and Nasai 63, 338-340 and Tirmidhi 91 and Ibn Majah 364 and Ahmad 2/245, 265, 271, 314, 360, 398, 424, 427, 460, 480, 482, 508]

Sunan Kubra Bayhaqi 1145

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذُبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ (١١٤٦)
دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبَانُ
حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ ((إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَائِ فَاغْسِلُوهُ
سَبْعَ مَرَّاتٍ السَّابِعَةَ بِالتُّرَابِ)) (-)
وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ : الْأُولَى بِالتُّرَابِ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب : پاکی کا بیان

باب : دھونے میں ایک مرتبہ مٹی شامل کرنا

حدیث نمبر : 1145

:ترجمہ

(١١٤٦) (سیدنا ابوہریرہ ^{رض} سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا : جب کتا برتن میں منہ ڈال جائے تو اسے سات مرتبہ دھویا جائے اور ساتویں مرتبہ مٹی سے۔)

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Sand is included once in the washing process

Hadith number: 1145

Translation:

(1145) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: When a dog licks a vessel, it should be washed seven times using sand for the seventh time.

[Sahih. Narrated by Nasai 339 and Abu Dawud 73]

Sunan Kubra Bayhaqi 1146

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ (١١٤٧)
الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِيٍّ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بِشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ
بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: الْأُولَى بِالْثُّرَابِ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: دھونے میں ایک مرتبہ مٹی شامل کرنا

حدیث نمبر: 1146

ترجمہ:

(۱۱۴۷) قتادہ نے اسی سند سے اسی طرح بیان کیا ہے مگر وہ کہتے ہیں: پہلی مرتبہ مٹی سے دھویا جائے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Sand is included once in the washing process

Hadith number: 1146

Translation:

(1146) Qatadah has narrated the same from the same sanad, but he says: Using sand for the first time.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence). Narrated by Al-Daraqutni 1/64]

Sunan Kubra Bayhaqi 1147

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ (١١٤٨)
عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانَ حَدَّثَنَا
مُعَاذُ بْنُ إِسْحَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (-) : إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي
الْإِنَائِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، أَوْ لَابِنٍ بِالتُّرَابِ (-).
بِذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ إِنْ كَانَ حَفِظَهُ مُعَاذٌ فَهُوَ حَسَنٌ لِأَنَّ التُّرَابَ
فِي بِذَا الْحَدِيثِ لَمْ يَرَوْهُ ثِقَّةٌ غَيْرُ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
وَإِنَّمَا رَوَاهُ غَيْرُ إِسْحَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ كَمَا سَبَقَ
ذِكْرُهُ.

وَقَدْ ثَبَّتَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - ذِكْرُ
- التُّرَابِ كَمَا

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: دھونے میں ایک مرتبہ مٹی شامل کرنا

حدیث نمبر: 1147

:ترجمہ

(الف) (۱۱۴۸) (سیدنا ابی ہریرہ ^{رض} سے روایت ہے کہ جب کتا
برتن میں منہ ڈال جائے تو اس کو سات مرتبہ دھوؤ اور پہلی
پہلی مرتبہ مٹی سے) دھویا جائے۔
(ب) (عبداللہ بن مغفل ^{رض} بھی نبی ﷺ سے مٹی کا ذکر کرتے ہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Sand is included once in the

washing process

Hadith number: 1147

Translation:

(1147) (a) It is narrated from Syeduna Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that when a dog licks a vessel, wash it seven times, the first time with sand.

(B) Abdullah ibn Mughal also mentions sand from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him).

[Sahih. Narrated by Nasai 339, 340]

Sunan Kubra Bayhaqi 1148

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَمُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ (١١٤٩)
الْفَضْلِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ
بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو
النَّيَّاحِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - أَمَرَ
بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ ((مَا بَالِي وَالْكِلابِ)) (- وَرَخَّصَ فِي كَلْبِ
الرَّعَايِ وَكَلْبِ الصَّيْدِ، وَقَالَ)): إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَائِ
فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَارٍ، وَالثَّامِنَةَ عَقِّرُوهُ بِالنَّرابِ)) (-
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ أَوْجِهِ عَنْ شُعْبَةَ -
وَأَبُو هُرَيْرَةَ أَحْفَظُ مَنْ رَوَى الْحَدِيثَ فِي دَهْرِهِ فَرَوَاتُهُ
أَوْلَى -

وَقَدْ رَوَى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَتَوَاهُ بِالسَّبْعِ كَمَا رَوَاهُ وَفِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى
خَطَا رِوَايَةِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ

عَطَائٍ عَنِ أَبِي بُرَيْرَةَ فِي الثَّلَاثِ -
وَعَبْدُ الْمَلِكِ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ مَا يُخَالِفُ فِيهِ الثَّقَاتِ وَبِاللَّهِ
التَّوْفِيقُ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: دھونے میں ایک مرتبہ مٹی شامل کرنا
حدیث نمبر: 1148

:ترجمہ

(۱۱۴۹) (عبداللہ بن مغفلؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کتوں کو مارنے کا حکم دیا، پھر فرمایا: میں کتوں کی پروا نہیں کرتا اور آپ ﷺ نے شکاری کتے اور بکریوں کی حفاظت والے کتے کی رخصت دے دی اور فرمایا: جب کتا برتن میں منہ ڈال جائے تو اس کو سات مرتبہ دھوؤ اور اٹھویں مرتبہ مٹی سے صاف کرو۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Sand is included once in the washing process

Hadith number: 1148

Translation:

(1148) It is narrated on the authority of Abdullah ibn Mughaffal (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) ordered the dogs to be killed, then he said: I do not care for dogs and he granted a concession for hunting dogs and the dogs used for the protection of sheep, and he said: When a dog licks a vessel, wash it seven times and clean it with sand the eighth time.

[Sahih. Narrated by Muslim 280 and Nasai 67, 337, 338 and Abu Dawud 75 and Ibn Majah 365 and Ahmad 4/86, 5/56 and Darimi 2049]

Sunan Kubra Bayhaqi 1149

Arabic Text:

: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ (١١٥٠)
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
وَهْبٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ النَّسَوِيُّ
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا حَزْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ
وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ أَنَّ عَبْدَ
اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَيْمُونَةُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ -
أَصْبَحَ يَوْمًا وَاجِمًا ، قَالَتْ مَيْمُونَةُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ
اسْتَنْكَرْتُ بَيْتَكَ مِنْذُ الْيَوْمِ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - ((: إِنْ جِبْرِيلَ
كَانَ وَعَدَنِي أَنْ يَلْقَانِي اللَّيْلَةَ

فَلَمْ يَلْقَنِي ، أَمَا وَاللَّهِ مَا أَخْلَفَنِي ((. قَالَ : فَظَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -
يَوْمَهُ ذَلِكَ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ وَقَعَ فِي نَفْسِهِ جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ
، فَسَطَّاطٌ لَنَا ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَائًا فَفَضَّحَ مَكَانَهُ
فَلَمَّا أَمْسَى لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لَهُ ((: قَدْ كُنْتَ
وَعَدْتَنِي أَنْ تَلْقَانِي الْبَارِحَةَ ((. قَالَ : أَجَلٌ وَلَكِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا
فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ. فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - يَوْمَئِذٍ فَأَمَرَ بِقَتْلِ
الْكِلَابِ حَتَّى إِنَّهُ يَأْمُرُ بِقَتْلِ كَلْبِ الْحَائِطِ الصَّغِيرِ ، وَيَتْرُكُ
كَلْبَ الْحَائِطِ الْكَبِيرِ.
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ حَزْمَلَةَ بْنِ يَحْيَى هَكَذَا.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: جس چیز کو کتے نے اپنے سارے بدن سے چھوا ہو وہ
نجس ہے جب ان میں سے کوئی ایک تر ہو
حدیث نمبر: 1149

ترجمہ:

(۱۱۵۰) (سیدنا عبداللہ بن عباس رض فرماتے ہیں کہ مجھ کو
میمونہ رض نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دن غم

گین حالت میں صبح کی۔ میمونہ نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں نے آج آپ کو جنبی حالت میں پایا ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جبرائیل نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آج رات آپ کو ملوں گا، اللہ کی قسم! وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ ﷺ غم گین تھے، پھر آپ ﷺ کے دل میں کتے کے بچے کا خیال آیا جو ہمارے خیمہ کے نیچے تھا۔ آپ ﷺ نے حکم دیا تو اس کو نکالا گیا، پھر اپنے ہاتھ میں پانی لیا اور اس جگہ پر چھینٹے مارے۔ صبح کو جبرائیل آپ ﷺ کو ملے۔ آپ نے فرمایا: آپ نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ کل آپ مجھے ملو گے! انہوں نے کہا: جی ہاں! لیکن ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو۔ اس دن رسول اللہ ﷺ نے صبح ہی کتوں کو مارنے کا حکم دے دیا، حتیٰ کہ آپ نے چھوٹے باغ کے کتے کو بھی مارنے کا حکم دیا اور بڑے باغ کے کتے کو چھوڑ دیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Anything that a dog touches with

his whole body is najis (impure) when it is wet

Hadith number: 1149

Translation:

(1149) Abdullah ibn Abbas (may Allah be pleased with him) says that I was told by Maimuna (may Allah be pleased with her) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) woke up one morning in a state of grief. Maimuna said: O Messenger of Allah! I find a change in your mood today? The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: Jibreel promised me that I will meet you tonight, by Allah! He does not break promises. This is why the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) was grieving, then it occurred to him that there had been a puppy under our tent. He gave the order and it was taken

out, then he took water in his hand and sprinkled it on the spot. Jibreel met him in the morning. He said: You promised me that you would meet me tomorrow! He said: Yes! But we do not enter a house in which there is a dog or a picture. On that very morning, the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) ordered the dogs to be killed, he even ordered the small garden dogs to be killed and spared the big garden dogs. [Sahih. Narrated by Muslim 2105 and Nasai 4288 and Abu Dawud 4157 and Ahmad 6/330]

Sunan Kubra Bayhaqi 1150

Arabic Text:

وَبِهَكَذَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بِحَدِيثِ بَحْرِ بْنِ نَصْرِ (١١٥١)
مَقْرُونًا بِحَدِيثِ حَزْمَلَةَ. وَقَدْ أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي
فَوَائِدِ الشَّيْخِ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي فِي مُسْنَدِ ابْنِ
وَهْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا
بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقِ الْخَوْلَانِيُّ فِي جُمَادَى الْأُولَى سَنَةَ
سِتِّ وَسِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ بْنُ مُسْلِمٍ
الْقُرَشِيُّ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ الزُّهْرِيِّ
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِي مَيْمُونَةُ زَوْجُ
النَّبِيِّ - ﷺ - : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - أَصْبَحَ يَوْمًا وَجَمًّا ... فَذَكَرَ
الْحَدِيثَ وَفِيهِ: ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِهِ مَاءً فَنَضَحَ مَكَانَهُ. وَفِي حَدِيثِ
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ -
وَرَوَاهُ شَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ

ابن السَّبَّاقِ عَنْ مَيْمُونَةَ

وَرَوَاهُ شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ وَسُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنِ ابْنِ
شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ بِمَعْنَاهُ-
وَرُويَ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: جس چیز کو کتے نے اپنے سارے بدن سے چھوا ہو وہ
نجس ہے جب ان میں سے کوئی ایک تر ہو

حدیث نمبر: 1150

:ترجمہ

(۱۱۵۱) (سیدنا ابن عباس^{رض}، حضرت مایمونہ^{رض} زوجہ رسول اللہ
ﷺ سے نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک دن غم گین
تھے،۔۔۔ اس میں ہے کہ پھر آپ نے پانی لیا اور اس جگہ پر
چھینٹے مارے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Anything that a dog touches with his whole body is najis (impure) when it is wet

Hadith number: 1150

Translation:

(1150) Syeduna Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) narrates from Hazrat Maimuna, the wife of the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him), that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) was sad one day..... in it (the hadith) is that he took some water and sprinkled it on that spot.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1151

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ (١١٥٢)
الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
عُزَيْرِ الْأَيْلِيِّ حَدَّثَنَا سَلَامَةُ عَنْ عُقَيْلٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ
أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ
... أَنَّ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - ﷺ - أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -
وَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى أَنْ قَالَ ((وَعَدَنِي جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّ
يَلْقَانِي)) (- قَالَتْ مَيْمُونَةُ : وَكَانَ فِي بَيْتِي جَرُؤُ كَلْبٍ ،
فَأَخْرَجَهُ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - ثُمَّ نَضَحَ مَكَانَهُ بِالْمَاءِ -

وَفِي هَذَا وَفِي الَّذِي قَبْلَهُ مِنْ أَخْبَارِ الْوُلُوعِ دَلَالَةٌ عَلَى نَسْخِ مَا.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: جس چیز کو کتے نے اپنے سارے بدن سے چھوا ہو وہ نجس ہے جب ان میں سے کوئی ایک تر ہو

حدیث نمبر: 1151

:ترجمہ

(۱۱۵۲) (سیدنا عبداللہ بن عباسؓ کو میمونہؓ نے خبر دی کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جبرائیل نے میرے ساتھ ملنے کا وعدہ کیا تھا، فرماتی ہیں: گھر میں کتے کا بچہ تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے اس کو نکال دیا، پھر اس جگہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Anything that a dog touches with his whole body is najis (impure) when it is wet

Hadith number: 1151

Translation:

(1151) Abdullah ibn Abbas (may Allah be pleased with him) was informed by Maimuna that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: Jibreel had promised to meet me. She says: There was a puppy in the house. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) expelled him, then sprinkled water on the spot.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1152

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ (١١٥٣)
بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ
زَيْدِ الصَّائِغِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبِ بْنِ سَعِيدٍ أَخْبَرَنِي أَبِي
عَنْ يُونُسَ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِي حَمْرَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ : كُنْتُ أَيْتُ فِي الْمَسْجِدِ فِي عَهْدِ
رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - وَكُنْتُ فَتَى شَابًّا أَعْرَبَ، وَكَانَتْ الْكِلَابُ
تَبُولُ وَتُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ
ذَلِكَ.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ فَقَالَ وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَيْبِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَذَكَرَهُ
مُخْتَصَرًا ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ : تَبُولُ -

وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى نَجَاسَةِ بَوْلِهَا ، وَوُجُوبِ الرَّشِّ
عَلَى بَوْلِ الْإِنْسَانِ فَكَيْفَ الْكَلْبُ فَكَأَنَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ

أَمْرِهِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ وَغَسْلِ الْإِنَائِ مِنْ وُلُوغِهِ ، أَوْ كَانَ عِلْمَ
مَكَانِ بَوْلِهَا يَخْفَى عَلَيْهِمْ فَمَنْ عَلِمَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ غَسْلُهُ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: جس چیز کو کتے نے اپنے سارے بدن سے چھوا ہو وہ
نجس ہے جب ان میں سے کوئی ایک تر ہو

حدیث نمبر: 1152

:ترجمہ

(۱۱۵۳) (سیدنا عبداللہ بن عمر رض فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے زمانہ میں رات مسجد میں رہتا تھا اور میں کنوارا
نوجوان تھا، اس زمانے میں کتے پیشاب کرتے تھے اور
مسجد میں آتے جاتے تھے لیکن لوگ اس جگہ پر چھینٹے
نہیں مارتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Anything that a dog touches with his whole body is najis (impure) when it is wet

Hadith number: 1152

Translation:

(1152) Abdullah ibn Umar (may Allah be pleased with him) says that I used to stay in the mosque at night in the time of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) and I was young and single, in those days, dogs would urinate and come and go in the mosque, but people would not splash water on those spots.

[Sahih. Narrated by Bukhari 174 and Abu Dawud 382 and Ahmad 2/71]

Sunan Kubra Bayhaqi 1153

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ أَنْ أَخْبَرَنَا (١١٥٤)
أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّفَّارِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكِ وَابْنُ مِلْحَانَ قَالَا
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ : مُحَمَّدُ بْنُ (ح)
إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ
عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ
يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ
أَنْ يَنْزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا ، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلَ
الْخَنزِيرَ ، وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ وَيَفِيضَ الْمَالَ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ)) .
لَفْظُ حَدِيثِ قُتَيْبَةَ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ عَبْدِ أَنْ فِي حَدِيثِهِ الْجِزْيَةَ .

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ جَمِيعًا عَنْ قُتَيْبَةَ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: خنزیر کتے سے بھی بدتر ہے

امام شافعی (رح) فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا نام نجس رکھا ہے۔

حدیث نمبر: 1153

ترجمہ:

(۱۱۵۴) (سیدنا ابوہریرہ رض فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا: قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہء قدرت میں

میری جان ہے! قریب ہے ابن مریم انصاف کرنے والے حاکم

بن کر اتریں، وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل

کریں گے اور جزیہ کو معاف کریں گے اور مال بہہ پڑے گا

گا یہاں تک کہ اس کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A pig is even worse than a dog.

Imam Shafi'i (may Allah have mercy on him)

says that this is the reason why Allah

Almighty has named it najis (impure) in the

Holy Quran

Hadith number: 1153

Translation:

(1153) Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) says that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: I swear by the One in Whose hand is my soul! Ibn Maryam (Hazrat Isa) is soon about to descend as a just ruler, he will break the cross and kill the pig and abolish the jizya and wealth will be in abundance till no one will accept it (as charitable money).

[Sahih. Narrated by Bukhari 2222, 2476

and Muslim 155 and Ibn Majah 4078 and
Ahmad 2/230, 272, 394, 482, 538]

Sunan Kubra Bayhaqi 1154

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ (١١٥٥)

اللَّهُ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ سَلْمَةَ
 قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ
 - الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -
 إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَدْخُلُ يَدَهُ فِي إِيَّائِهِ - أَوْ قَالَ فِي :
 وَضُوئِهِ - حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيَّنَ بَاتَتْ
 يَدُهُ)) -

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب : پاکی کا بیان

باب : تمام نجاستوں کو دھونا سنت ہے

حدیث نمبر : 1154

: ترجمہ

(1155) (سیدنا ابوہریرہ رضی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے
 فرمایا : جب کوئی بیدار ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ہاتھ برتن
 میں نہ ڈالیا فرمایا : پانی میں نہ ڈالے ، جب تک اس کو تین
 مرتبہ نہ دھولے ، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ
 نے رات کہاں گزاری ہے -

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: It is Sunnah to wash away all impurities

Hadith number: 1154

Translation:

(1154) Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) says that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: When someone wakes up, he should not put his hand in the vessel. Or he said: Do not put it (hand) in the water until he has washed it three times, because he does not know where his hand has spent the night.

[Sahih. Narrated by Bukhari 162 and Muslim 278 and Nasai 1, 161, 441 and Abu Dawud 103, 105 and Tirmidhi 24 and Ibn

Majah 393 and Malik 2/6 and Ahmad 2/241
and Darimi 793]

Sunan Kubra Bayhaqi 1155

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ (١١٥٦)
السُّوسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو
جَعْفَرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ: عَبْدُ الْقُدُّوسِ

بُنُ الْحَجَّاجِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ الزُّبَيْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ
وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهٗ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -
إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا يَدْخُلُ يَدَهُ فِي الْإِنَائِ حَتَّى) :-
يُفْرِغَ عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَذْرَى أَيَّنَ بَاتَتْ يَدُهُ) (-)
وَكَذَلِكَ قَالَهُ ابْنُ بَرْمُزٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاکی کا بیان

باب: تمام نجاستوں کو دھونا سنت ہے

حدیث نمبر: 1155

:ترجمہ

(۱۱۵۶) (سیدنا ابوہریرہ ^{رض} فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے
فرمایا: جب کوئی رات کو اٹھے تو وہ اپنا ہاتھ برتن میں
نہڈالے، جب تک اس پر دو یا تین مرتبہ پانی نہ ڈال لے،
کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری
ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: It is Sunnah to wash away all impurities

Hadith number: 1155

Translation:

(1155) Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) says that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: When a person gets up at night, he should not put his hand in the vessel until he has washed it two or three times, because he does not know where his hand has spent the night.

[Sahih. Narrated by Bukhari 162 and Muslim 278 and Nasai 1, 161, 441 and Abu Dawud 103, 105 and Tirmidhi 24 and Ibn Majah 393 and Malik 2/6 and Ahmad 2/241 and Darimi 793]

Sunan Kubra Bayhaqi 1156

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (١١٥٧) الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَرِيكِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ بِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ وَبِئْسَ امْرَأَةٌ عَنْ أَسْمَاءِ جَدَّتِهَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - سَأَلَتْهُ امْرَأَةٌ عَنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ ((: حُتِّيهِ ثُمَّ أَقْرُصِيهِ بِالْمَاءِ ثُمَّ رُشِّيهِ ثُمَّ صَلِّي فِيهِ)) -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: ایک مرتبہ دھونے کا بیان
حدیث نمبر: 1156

ترجمہ:

(۱۱۵۷) سیدنا اسماءؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے ایک عورت نے حیض کے خون کے متعلق سوال کیا جو کپڑے کو لگ جاتا ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا: اس کو کھرچ، پھر پانی سے مل، پھر چھینٹے مار اور اس میں نماز پڑھ لے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on washing it once

Hadith number: 1156

Translation:

(1156) It is narrated on the authority of Asma (may Allah be pleased with him) that a woman asked the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) about the menstrual blood that gets onto clothes and he said: Scrape it, then wash it with water, then sprinkle water on it and pray in it.

[Sahih. Narrated by Bukhari 227 and Muslim 291 and Nasai 294, 350 and Abu Dawud 361 and Tirmidhi 138 and Ibn Majah 629 and Ahmad 6/345, 346, 353 and Darimi 799]

Sunan Kubra Bayhaqi 1157

Arabic Text:

: وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ (١١٥٨)
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ قُدَّامَةَ
حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِصْمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ قَالَ :كَانَتْ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ سَبْعَ
مِرَارٍ ، وَغَسَلَ التَّوْبِ مِنَ الْبَوْلِ سَبْعَ مِرَارٍ ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ -يَسْأَلُ حَتَّى جُعِلَتِ الصَّلَاةُ خَمْسًا ، وَالْغُسْلُ مِنَ
الْجَنَابَةِ مَرَّةً ، وَغَسَلَ التَّوْبِ مِنَ الْبَوْلِ مَرَّةً-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان
باب: ایک مرتبہ دھونے کا بیان

حدیث نمبر: 1157

:ترجمہ

(۱۱۵۸) (سیدنا عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ نمازیں پچاس تھیں اور جنابت کا غسل سات مرتبہ تھا اور پیشاب کو کپڑوں سے دھونا سات مرتبہ تھا، رسول اللہ ﷺ برابر کمی کا سوال کرتے رہیحتی کہ نمازیں پانچ مقرر کی گئی اور جنابت کا غسل ایک مرتبہ اور پیشاب کا کپڑے سے دھونا بھی ایک مرتبہ رہ گیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on washing it once

Hadith number: 1157

Translation:

(1157) Abdullah ibn Umar (may Allah be pleased with him) said that the prayers were fifty and the ghusl due to major impurity was seven times and the washing

of urine from clothes was seven times. The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) kept asking, until the prayers were reduced to five times and the ghusl for major impurity was (reduced to) once and the washing of urine from a cloth was also (reduced to) only once.

[Daif (Weak). Narrated by Abu Dawud 247 and Ahmad 2/109]

Sunan Kubra Bayhaqi 1158

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدٌ (١١٥٩)
بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ قَالَ قَرِيٌّ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ
أَخْبَرَكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ -

قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَفَّانَ
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ

: كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَتْ تَحْتَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ

أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا ، فَجَاءَتْ بِرَّةٌ

تَشْرَبُ مِنْهُ فَأَصْغَى لَهَا أَبُو قَتَادَةَ الْإِنَائِيَّ حَتَّى شَرِبَتْ -

قَالَتْ كَبْشَةَ - فَرَأَى أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ : أَتَعْجَبِينَ يَا ابْنَةَ

: أَخِي؟ قَالَتْ فَقُلْتُ : نَعَمْ - فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - قَالَ

يَنْ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ ((- إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِ))

بَكْدًا رَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فِي الْمَوْطِئِ ، وَقَدْ قَصَّرَ بَعْضُ

الرُّوَاةِ بِرِوَايَتِهِ فَلَمْ يُقِمِ إِسْنَادَهُ -

قَالَ أَبُو عِيسَى: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيَّ
عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: جَوَّدَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ هَذَا الْحَدِيثَ وَرَوَايَتُهُ
أَصَحُّ مِنْ رَوَايَةِ غَيْرِهِ.
قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ رَوَاهُ حُسَيْنُ الْمُعَلِّمِ بِقَرِيبٍ مِنْ رَوَايَةِ مَالِكٍ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: بلی کے جھوٹے کا بیان
حدیث نمبر: 1158

:ترجمہ

(۱۱۵۹) (کبشہ بنت کعب بن مالک جو ابن ابوقتادہ کی بیوی
تھیں، ابوقتادہؓ ان کے پاس آئے تو انہوں نے وضو کا پانی
منگوا یا، اتنے میں بلی آئی اور اس سے پینے لگی۔ ابوقتادہ
نے برتن کو جھکا دیا یہاں تک کہ اس نے خوب پیا۔ کبشہ
کہتی ہیں: قتادہ نے مجھے دیکھا تو میں ان کی طرف تعجب
سے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا: اے بھتیجی! کیا تم تعجب
کرتی ہو؟

میں نے کہا: جی ہاں ابو قتادہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: وہ (بلی) نجس نہیں ہے، وہ تمہارے پاس چکر لگاتی رہتی ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on the saliva of a cat

Hadith number: 1158

Translation:

(1158) Kabshah bint Ka'b bin Malik was the wife of Ibn Abu Qatadah, when Abu Qatadah came to her, he asked for water for performing ablution. Abu Qatada tilted the vessel until it (a cat) drank well. Kabsha says: When Abu Qatadah saw me, I was looking at him in wonder. He said: O niece! Are you surprised? I said: Yes. Abu Qatada said: The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon

him) said: The (cat) is not najis (impure), they are those who roam around among you. [Sahih. Narrated by Nasai 68, 341 and Abu Dawud 75 and Tirmidhi 92 and Ibn Majah 367 and Ahmad 5/296, 303, 309 and Darimi 763]

Sunan Kubra Bayhaqi 1159

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِيُّ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١١٦٠)
بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ الْمُعَلَّمُ
عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أُمِّ يَحْيَى عَنْ
خَالَتِهَا بِنْتِ كَعْبٍ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا أَبُو قَتَادَةَ فَقَرَّبَنَا إِلَيْهِ
وَضُونًا ، فَدَنَا الْهَرُّ فَأَصْغَى إِلَيْهِ الْإِنَائِي فَشَرِبَ مِنْهُ ثُمَّ تَوَضَّأَ
بِفَضْلِهِ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَالْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ: كَأَنَّكَ تَعْجَبِينَ؟ قُلْتُ
نَعَمْ. قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ((لَيْسَ :
بِنَجَسٍ - أَوْ كَلِمَةً أُخْرَى :إِنَّمَا هُنَّ مِنَ الطَّوَّافِينَ أَوْ الطَّوَّافَاتِ
عَلَيْكُمْ))-

أُمُّ يَحْيَى بِي حُمَيْدَةَ وَابْنَةُ كَعْبٍ بِي كَبْشَةَ بِنْتُ كَعْبٍ -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان
باب: بلی کے جھوٹے کا بیان
حدیث نمبر: 1159

ترجمہ:

(۱۱۶۰) (ام یحییٰ اپنی خالہ بنت کعب سے نقل فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس ابو قتادہ آئے، ہم نے ان کے قریب پانی رکھا، اتنے میں ایک بلی آئی تو انہوں نے برتن جھکا دیا، بلی نے اس سے پیا، پھر وہ اس کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنے لگے، میں نے آپ کی طرف تعجب سے دیکھا، انہوں نے میری طرف جھانکا تو کہنے لگے: تم تعجب کر رہی ہو؟ میں نے کہا: جی ہاں، انہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: یہ (بلی) نجس نہیں ہے یا کوئی دوسرا لفظ کہا، وہ تم پر چکر لگاتی رہتی ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on the saliva of a cat

Hadith number: 1159

Translation:

(1159) Umm Yahya narrates from her aunt Bint Ka'b that Abu Qatadah came to us, we kept water near him, during this, a cat came so he tilted the vessel, the cat drank from it, then he started performing ablution with the remaining water, I looked at him in wonder, he looked at me and said: Are you surprised? I said: Yes. He said: I heard the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) saying: The (cat) is not najis (impure) or he used another word, they are those who roam around among you. [Sahih. Narrated by Nasai 68, 341 and Abu Dawud 75 and Tirmidhi 92 and Ibn Majah 367 and Ahmad 5/296, 303, 309 and Darimi 763]

Sunan Kubra Bayhaqi 1160

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا (١١٦١)
أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّفَّارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ حَدَّثَنَا
الْحَوْضِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى

قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا
إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أُمُّ يَحْيَى - قَالَ
حَجَّاجُ فِي رِوَايَتِهِ : يَعْنِي امْرَأَتَهُ - عَنْ خَالَتِهَا وَكَانَتْ عِنْدَ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَتْ : دَخَلَ عَلِيُّ أَبُو قَتَادَةَ فَسَأَلَ
الْوَضُوءَ ، فَمَرَّتْ بِهِ الْهَرَّةُ فَأَصْغَى الْإِنَائِ إِلَىهَا ، فَجَعَلَتْ
أَنْظُرُ كَأَنِّي أَنْكِرُ مَا يَصْنَعُ

فَقَالَ يَا بِنْتَ أَخِي إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - قَالَ لَنَا ((: إِنَّهَا لَيْسَتْ
 بِنَجَسَةٍ إِنَّمَا بِي مِنَ الطَّوَّافِينَ وَالطَّوَّافَاتِ)) (-).
 وَفِي حَدِيثِ الْحَوْضِيِّ : إِنَّ خَالَتَهَا حَدَّثَتْهَا : أَنَّهَا كَانَتْ
 تَحْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، فَدَخَلَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَيْهَا ، فَدَعَا
 بِوَضُوءٍ فَمَرَّتْ بِهِ الْهَرَّةُ ، فَأَصْغَى الْإِنَائِ إِلَى إِلَيْهَا فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ
 إِلَيْهِ كَأَنَّهَا تُنْكِرُ مَا يَصْنَعُ - ثُمَّ الْبَاقِي مِثْلُهُ -
 وَقَدْ رُوِيَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ
 ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب : پاکی کا بیان
 باب : بلی کے جھوٹے کا بیان
 حدیث نمبر : 1160

:ترجمہ

(، (۱۱۶۱) (الف) ایک عورت اپنی خالہ سے نقل فرماتی ہے
 وہ عبداللہ بن ابی قتادہؓ کی بیوی تھیں کہ میرے پاس ابوقتادہؓ
 آئے اور انہوں نے پانی مانگا، اتنے میں ان کے پاس سے
 بلی گزری تو آپ نے برتن جھکا دیا، میں نے

انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھا گیا میں اس کا انکار کر رہی تھی تو انہوں نے فرمایا: اے بھتیجی! رسول اللہ ﷺ نے ہمیں فرمایا: وہ نجس نہیں ہے وہ تو تم پر چکر لگاتی رہتی ہے۔

(ب) (حوضی کی حدیث میں ہے کہ اس کی خالہ نے اس حدیث کو بیان کیا اور وہ عبداللہ بن ابی قتادہؓ کی بیوی تھی ان کے پاس ابو قتادہؓ آئے اور پانی منگوا یا، اتنے میں ایک بلی گزری۔ انہوں نے اس کے لیے برتن جھکا دیا، قتادہ کی بیوی ان کی طرف دیکھنا شروع ہوئی گویا جو وہ کر رہے تھے اس کا انکار کر رہی تھی باقی حدیث اس طرح ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on the saliva of a cat

Hadith number: 1160

Translation:

(1160) (a) A woman narrates from her aunt, she was the wife of Abdullah ibn Abi

Qatadah, when Abu Qatadah came to me and asked for water, a cat passed by him, he tilted the vessel. I looked at him with questioning eyes as if I was denying it. He said: O niece! The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said to us: It is not najis (impure), they are those who roam around among you.

(B) According to the hadith of Hudhi, her aunt narrated this hadith and she was the wife of Abdullah ibn Abi Qatadah and he asked for water, and a cat passed by. He tilted the vessel for her. Ibn Abi Qatadah's wife started looking at him as if she was denying what he was doing. The rest of the hadith is as follows.

[Sahih. Narrated by Nasai 68, 341 and Abu Dawud 75 and Tirmidhi 92 and Ibn Majah 367 and Ahmad 5/296, 303, 309 and Darimi 763]

Sunan Kubra Bayhaqi 1161

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ بْنِ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ (١١٦٢)
عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا تَمْتَامٌ حَدَّثَنَا عَفَّانٌ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي
كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ
: فَمَرَّتْ بِهِ بِرَّةٌ فَأَصْنَعِيَ إِلَيْهَا وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - قَالَ
((أَلَيْسَتْ بِنَجِسٍ)) -

وَقَدْ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنِ النَّقَّاعِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ -
وَرُوِيَ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: بلی کے جھوٹے کا بیان
حدیث نمبر: 1161

:ترجمہ

(۱۱۶۲) (سیدنا عبداللہ بن ابی قتادہؓ اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں کہ وہ وضو کر رہے تھے، ایک بلی گزری تو انہوں نے اس کی طرف برتن جھکا دیا اور کہا: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہ نجس نہیں ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on the saliva of a cat

Hadith number: 1161

Translation:

(1161) Abdullah ibn Abi Qatadah narrates from his father that he was performing ablution. When a cat passed by, he tilted the vessel towards it and said: The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: It is not najis (impure). [Hasan Li Ghayrihi (Fair due to external evidence)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1162

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِيُّ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١١٦٣)
بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ
الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ عَنْ قَتَادَةَ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ أَبُو قَتَادَةَ يُصْنَعِي
: الْإِنَائِيَ لِلْهَرِّ فَيُشْرَبُ ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ بِهِ فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ
مَا صَنَعْتُ إِلَّا مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - يَصْنَعُ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: بلی کے جھوٹے کا بیان
حدیث نمبر: 1162

ترجمہ:

(١١٦٣) (عبداللہ بن ابی قتادہ^{رض} اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں
کہ ابو قتادہ^{رض} بلی کے لیے برتن جھکا دیتے تھے، وہ

پی لیتی۔ پھر اس سے وضو کرتے۔ ابو قتادہ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا: یہ جو میں نے کیا ہے یہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on the saliva of a cat

Hadith number: 1162

Translation:

(1162) Abdullah ibn Abi Qatadah narrates from his father that Abu Qatadah used to tilt the vessel for a cat, it would drink (from it). Then he would perform ablution with it. When Abu Qatadah was asked about this, he said: I have seen the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) doing what I did.

[Hasan Li Ghayrihi (Fair due to external

evidence)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1163

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَائِرٍ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا أَبُو عَثْمَانَ الْبَصْرِيُّ (١١٦٤)
حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ
عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُ
أَبَا قَتَادَةَ يُقَرِّبُ طَهُورَهُ إِلَى الْهَرَّةِ فَتَشْرَبُ مِنْهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ بِسُورِهَا -
وَكَُلُّ ذَلِكَ شَاهِدٌ لِصِحَّةِ رِوَايَةِ مَالِكٍ - وَمِنْ شَوَاهِدِهِ مَا -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: بلی کے جھوٹے کا بیان
حدیث نمبر: 1163

ترجمہ:

(۱۱۶۴) عکرمہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو قتادہؓ کو دیکھا وہ وضو کا پانی بلی کے قریب کرتے، وہ اس سے پیتی اور پھر اس کے جھوٹے سے وضو کرتے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on the saliva of a cat

Hadith number: 1163

Translation:

(1163) Ikrima says that I saw Abu

Qatadah, he used to do place his ablution water near the cat, it (the cat) would drink from it and then he used to perform ablution with the water it (the cat) drank from.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence). Narrated by Ibn Jad in his Musnad 2756]

Sunan Kubra Bayhaqi 1164

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ (١١٦٥)
أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى الْقَاضِي بِخَارِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرِ الرَّازِيِّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ
بْنُ مُسَافِعِ بْنِ شَيْبَةَ الْحَجَبِيُّ قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُورَ ابْنَ صَفِيَّةَ
بِنْتِ شَيْبَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ صَفِيَّةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -
ﷺ - قَالَ فِي الْهَرَّةِ ((إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ ، بِي كَبْعُضِ أَهْلِ
الْبَيْتِ)) -.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: بلی کے جھوٹے کا بیان
حدیث نمبر: 1164

ترجمہ:

(1165) (سیدہ عائشہ رض سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے
بلی کے متعلق فرمایا: وہ نجس نہیں ہے، وہ بھی

گھر والوں کی طرح ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on the saliva of a cat

Hadith number: 1164

Translation:

(1164) It is narrated on the authority of Ayesha (may Allah be pleased with her) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said about cats: They are not najis (impure), they are like the people in your home.

[Hasan Li Ghayrihi (Fair due to external evidence). Narrated by Ibn Khuzaymah 2/1]

Sunan Kubra Bayhaqi 1165

Arabic Text:

وَمِنْهَا مَا أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ : يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيَى (١١٦٦)
الْخَطِيبُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَحْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ كَوْثَرَ حَدَّثَنَا
بِشْرِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْحَمِيدِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ
أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ صَالِحِ التَّمَّارِ عَنْ أُمِّهِ : أَنَّ مَوْلَاةً لَهَا
أَبَدَتْ إِلَى عَائِشَةَ صَحْفَةَ هَرَيْسَةَ ، فَجَاءَتْ بِهَا وَعَائِشَةُ قَائِمَةٌ
تُصَلِّي ، فَأَشَارَتْ إِلَيْهَا عَائِشَةُ أَنْ ضَعِيفًا فَوَضَعَتْهَا وَعِنْدَ
عَائِشَةَ نِسْوَةٌ ، فَجَاءَتْ بِهَا الْهَرَّةُ فَأَكَلَتْ مِنْهَا أَكْلَةً - أَوْ قَالَ
لُقْمَةً - فَلَمَّا انْصَرَفَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ لِلنِّسْوَةِ : كُلْنَ - فَجَعَلْنَ يَتَّقِينَ
مَوْضِعَ فَمِ الْهَرَّةِ ، فَأَخَذَتْهَا عَائِشَةُ فَأَدَارَتْهَا ثُمَّ أَكَلَتْهَا وَقَالَتْ إِنَّ
رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ ((: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنْ
الطَّوَّافِينَ

وَالطَّوَّافَاتِ عَلَيْكُمْ ((. وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا -
وَرُويَ مِنْ أَوْجِهٍ آخَرَ عَنْ عَائِشَةَ فِي مَعْنَاهُ وَفِيمَا ذَكَرْنَا كِفَايَةً.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: بلی کے جھوٹے کا بیان

حدیث نمبر: 1165

:ترجمہ

(۱۱۶۶) (داؤد بن صالح تمار اپنی والدہ سے نقل فرماتے ہیں کہ اس کی لونڈی نے عائشہ^{رض} کی طرف حلوے کا پیالہ بطور ہدیہ بھیجا، وہ لے آئی۔ جبکہ سیدہ عائشہ^{رض} کھڑی نماز پڑھ رہی تھیں، عائشہ^{رض} نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ اسے رکھ دے، اس نے رکھ دیا۔ سیدہ عائشہ^{رض} کے پاس عورتیں تھیں، بلی آئی اور اس میں سے ایک بار کھایا یا ایک لقمہ کھایا۔ جب بلی چلی گئی تو سیدہ عائشہ^{رض} نے عورتوں کو کہا: تم بلی کے منہ کی جگہ سے بچتی ہو۔ پھر سیدہ عائشہ^{رض} نے اس کو پکڑا

گر گھمایا پھر کھایا اور کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
یہ نجس نہیں ہے، وہ تو تم پر چکر لگاتی رہتی ہے، نیز
میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا۔ آپ اس کے بچے ہوئے پانی
سے وضو کرتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on the saliva of a cat

Hadith number: 1165

Translation:

(1165) Dawood bin Saleh Tamar narrates from his mother that her slave girl sent a pot of sweets to Ayesha (may Allah be pleased with her) as a gift. She brought it while Ayesha was praying standing up, Ayesha (may Allah be pleased with her) signalled her to put it down, she put it down. Ayesha (may Allah be pleased with her) had women (at her place), a cat came

and ate one of them or ate a bite. When the cat left, Ayesha (may Allah be pleased with her) said to the women: Do you avoid the place where the cat's mouth touched. Then Ayesha grabbed it, turned it around, ate it (from the place where the cat had eaten from) and said that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: They are not najis (impure), also, I saw the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him). He used to perform ablution with the water leftover (by a cat).

[Sahih. Narrated by Abu Dawud 76]

Sunan Kubra Bayhaqi 1166

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخَطِيبُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَحْرٍ (١١٦٧)
الْبَرْبَهَارِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْحَمِيدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
أَخْبَرَنَا الرَّكَّيْنِيُّ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ عَمَّةٍ لَهُ يُقَالُ لَهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ
عَمِيلَةَ: أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ سُئِلَ عَنْ سُورِ الْهَرَّةِ فَلَمْ يَرِ بِهِ
بَأْسًا.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان
باب: بلی کے جھوٹے کا بیان
حدیث نمبر: 1166

ترجمہ:

(۱۱۶۷) (سیدنا حسین بن علیؑ سے بلی کے جھوٹے کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے اس میں کوئی حرج بیان نہیں فرمایا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on the saliva of a cat

Hadith number: 1166

Translation:

(1166) When Hussain bin Ali (may Allah be pleased with him) was asked about a cat drinking from a vessel, he did not see any problem with it.

[Daif (Weak). Narrated by AbdulRazzaq 357]

Sunan Kubra Bayhaqi 1167

Arabic Text:

: وَأَمَّا الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرِ (١١٦٨)
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ الْفَقِيهِ حَدَّثَنَا
بَكَّارُ بْنُ قُنَيْبَةَ وَحَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَنبَسَةَ قَالَ حَدَّثَنَا
أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((: طُهورُ الإنائِ إِذَا
وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ الْأُولَى بِالْتَرَابِ ، وَالْهَرَّةُ
مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ)) (- قُرَّةُ يَشْكُ -
وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ -

وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ حُزَيْمَةَ عَنْ بَكَّارِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ
أَبِي عَاصِمٍ وَالْهَرَّةِ مِثْلُ ذَلِكَ.
وَأَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ثِقَةٌ إِلَّا أَنَّهُ أَخْطَأَ فِي إِدْرَاجِ
قَوْلِ أَبِي بُرَيْرَةَ فِي الْهَرَّةِ فِي الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ فِي الْكَلْبِ.
وَقَدْ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ الْجَهْضَمِيُّ عَنْ قُرَّةَ فَبَيَّنَهُ بَيَانًا شَافِيًا.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: بلی کے جھوٹے کا بیان
حدیث نمبر: 1167

:ترجمہ

(۱۱۶۸) (سیدنا ابوہریرہ ^{رض} فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: برتن کی پاکی جب کتا اس میں منہ ڈال جائے یہ ہے کہ اسے سات مرتبہ دھوئے، پہلی مرتبہ مٹی سے اور بلی سے ایک مرتبہ یا دو مرتبہ دھوؤ۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on the saliva of a cat

Hadith number: 1167

Translation:

(1167) Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) says that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: When a dog licks a vessel, its purification is to wash it seven times, the first time with sand and (purification) for the cat is washing (the vessel) once or twice.

[Sahih. Narrated by Al-Daraqutni 1/64]

Sunan Kubra Bayhaqi 1168

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ (١١٦٩)
الْمُزَنِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مَعَشَرَ: الْحَسَنُ بْنُ سُلَيْمَانَ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا
نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ ((: طُهُورُ
إِنَائِي أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْ لَابِنَ
بِالتُّرَابِ)) - ثُمَّ ذَكَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ الْهَرَّ لَا أَدْرِي قَالَهُ مَرَّةً أَوْ
مَرَّتَيْنِ -

قَالَ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ: وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ أَبِي فِي مَوْضِعٍ آخَرَ
، عَنْ قُرَّةَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْكَلْبِ مُسْنَدًا
وَفِي الْهَرِّ مَوْقُوفًا -

قَالَ الشَّيْخُ وَرَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ عَنْ قُرَّةَ مَوْقُوفًا فِي الْهَرَّةِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: بلی کے جھوٹے کا بیان
حدیث نمبر: 1168

:ترجمہ

(۱۱۶۹) (سیدنا ابوہریرہ ^{رض} سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جب کتا کسی برتن میں منہ ڈال جائے تو اس کی پاکی پاکی اس طرح ہے کہ اس کو سات مرتبہ دھوؤ اور پہلی، مرتبہ مٹی سے، پھر ابوہریرہ ^{رض} نے بلی کے متعلق ذکر کیا، میں نہیں جانتا کہ ایک مرتبہ یاد و مرتبہ کہا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on the saliva of a cat

Hadith number: 1168

Translation:

(1168) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: When a dog licks a vessel, its purification is such that it should be washed seven times and the first time with sand, then Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) mentions about the cat, I don't know whether he said (to wash it) once or twice.

[Sahih. Narrated by Hakim 1/365]

Sunan Kubra Bayhaqi 1169

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ (١١٧٠)
الْفَقِيهَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَيْسَى الْبَرْثِيُّ قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ
بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو
مُحَمَّدِ الْمُزَنِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
فِي الْهَرِّ يَلُغُ فِي الْإِنَائِ قَالَ يُغْسَلُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ -
وَرَوَاهُ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ كَذَلِكَ مَوْفُوقًا.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان
باب: بلی کے جھوٹے کا بیان
حدیث نمبر: 1169

:ترجمہ

(۱۱۷۰) (سیدنا ابو ہریرہ ^{رض} ایسی بلی کے متعلق بیان فرماتے ہیں، جو برتن میں منہ ڈال جائے کہ ایک یا دو مرتبہ دھویا جائے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on the saliva of a cat

Hadith number: 1169

Translation:

(1169) Syeduna Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) narrates about a cat which licks a vessel that it should be washed once or twice.

[Sahih. Narrated by Hakim 1/365]

Sunan Kubra Bayhaqi 1170

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذِبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ (١١٧١)
دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ
عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي بُرَيْرَةَ قَالَ: إِذَا وَلَغَ الْهَرُّ غُسِلَ مَرَّةً.
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ.
وَغَلَطَ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْقَاصِبِيُّ فَرَوَاهُ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ
عَنْ أَيُّوبَ مُدْرَجًا فِي الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى
كتاب: پاكى كا بيان
باب: بلى كے جھوٹے كا بيان
حدیث نمبر: 1170

:ترجمہ

(۱۱۷۱) ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ جب بلی منہ ڈال جائے تو اس کو ایک مرتبہ دھویا جائے گا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on the saliva of a cat

Hadith number: 1170

Translation:

(1170) Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) says that when a cat licks (a vessel), it should be washed once.

[Sahih. Narrated by Abu Dawud 72 and

Sunan Kubra Bayhaqi 1171

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ وَأَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي (١١٧٢)
عَمْرٍو قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكْرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ بِنَيْسَابُورَ وَأَبُو الْقَاسِمِ (ح)
طَلْحَةُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الصَّقْرِ بِبَغْدَادَ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ : أَحْمَدُ
بْنُ عُثْمَانَ بْنِ يَحْيَى الْأَدَمِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ
الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْقَصَبِيُّ

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي
بُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَائِي
أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْ لَابْنٍ أَوْ أَخْرَابِنٍ بِالثَّرَابِ
(وَالسِّنُّورُ مَرَّةً

وَرَوَاهُ أَيْضًا حَفْصُ بْنُ وَاقِدٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ
أَبِي بُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا مُدْرَجًا فِي الْحَدِيثِ وَرَوَايَةُ الْجَمَاعَةِ أَوْلَى -
وَرَوَاهُ بِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي بُرَيْرَةَ فِي سُورِ
السِّنُّورِ يُهْرَاقُ وَيُغْسَلُ الْإِنَائِي مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: بلی کے جھوٹے کا بیان
حدیث نمبر: 1171

:ترجمہ

(۱۱۷۲) (الف) (سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
ﷺ نے فرمایا: جب کتا کسی کے برتن میں منہ ڈال جائے تو
اس کو سات مرتبہ دھوؤ۔ پہلی یا آخری مرتبہ

مٹی سے اور بلی سے ایک مرتبہ۔
(ب) (سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ) کے جھوٹے کے متعلق کہتے ہیں کہ
بہایا جائے گا اور برتن ایک یا دو مرتبہ دھویا جائے گا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on the saliva of a cat

Hadith number: 1171

Translation:

(1171) (a) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: When a dog licks someone's vessel, wash it seven times. The first or last time with sand and (wash) once for the cat.

(B) Abu Hurayrah (may Allah be pleased

with him) says about a vessel from which a cat has drunk from that its (contents) will be poured out and the vessel will be washed once or twice.

[Sahih. Narrated by Tirmidhi 91]

Sunan Kubra Bayhaqi 1172

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ (١١٧٣)
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا وَهْبُ
بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا بِشَامٌ فَذَكَرَهُ.
وَرَوَى لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ عَطَائٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِذَا وَلَغَ
السِّنُّورُ فِي الْإِنَائِ غُسِلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ. وَإِنَّمَا رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ
وغيره عَنْ عَطَائٍ مِنْ قَوْلِهِ. وَرَوَى مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: بلی کے جھوٹے کا بیان
حدیث نمبر: 1172

ترجمہ:

(١١٧٣) (سیدنا ابوہریرہ ^{رض} سے روایت ہے کہ جب بلی برتن
میں منہ ڈال جائے تو اسے سات مرتبہ دھویا جائے گا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on the saliva of a cat

Hadith number: 1172

Translation:

(1172) It is narrated from Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that when a cat licks a vessel, it should be washed seven times.

[Sahih. Narrated by Tahawi 1/20]

Sunan Kubra Bayhaqi 1173

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي وَأَبُو (١١٧٤)
عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ
أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: يُغَسَّلُ الْإِنَائِيُّ مِنْ وُلُوعِ الْهَرِّ
كَمَا يُغَسَّلُ مِنَ الْكَلْبِ.

بَكَّدَا رَوَاهُ ابْنُ عَفِيرٍ مَوْقُوفًا.

وَرُوي عَنْ رَوْحِ بْنِ الْفَرَجِ عَنْ ابْنِ عَفِيرٍ مَرْفُوعًا وَلَيْسَ بِشَيْءٍ -
وَقَدْ قِيلَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ قَالَ أَخْبَرَنِي خَيْرُ بْنُ نَعِيمٍ عَنْ
أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: بلی کے جھوٹے کا بیان
حدیث نمبر: 1173

:ترجمہ

(۱۱۷۴) (سیدنا ابوہریرہؓ فرماتے ہیں کہ بلی کے منہ ڈالنے سے برتن دھویا جائے گا، جس طرح کتے کے منہ ڈالنے سے دھویا جاتا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on the saliva of a cat

Hadith number: 1173

Translation:

(1173) Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) says that the vessel that is licked by a cat requires it to be washed in the same way (a vessel) is washed

when a dog licks it.

[Daif (Weak). Narrated by Tahawi in Sharh Ma'ani 1/20]

Sunan Kubra Bayhaqi 1174

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَارِثِيُّ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ (١١٧٥)
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا عَلَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ
حَدَّثَنَا

ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ... فَذَكَرَهُ.
وَقَدْ يُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - مَا هُوَ حُجَّةٌ
وَالْأَفْهَمُ مَحْجُوجٌ بِمَا تَقَدَّمَ عَلَيْهِ فِي فِتْنَاهُ فِي الْهَرَّةِ إِنْ صَحَّ ذَلِكَ
تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ وَعَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: بلی کے جھوٹے کا بیان
حدیث نمبر: 1174

ترجمہ:

(۱۱۷۵) (یحییٰ بن ایوب نے اس کو بیان کیا ہے۔
ب) (ابوہریرہ^{رض} نے نبی ﷺ سے جو بیان کیا وہ بلی کے
متعلقہ متعلقہ نہیں ہے بلکہ صحیح وہ ہے جو پہلے ابوقتادہ اور
عائشہ^{رض} کی حدیث میں گزر چکا ہے کہ وہ تم پر چکر لگاتی
رہتی ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on the saliva of a cat

Hadith number: 1174

Translation:

(1174) Yahya bin Ayub has narrated this.

(B) What Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) has narrated from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) about the cat is not reliable, but what is authentic are the ahadeeth which have already been narrated from Abu Qatadah and Ayesha (may Allah be pleased with them) that they are those who roam around among you.

[Daif (Weak). Narrated by Tahawi 1/20]

Sunan Kubra Bayhaqi 1175

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي حَدَّثَنَا أَبُو (١١٧٦)
الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو
النَّضْرِ: يَاسِئُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عَيْسَى يَعْنِي ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ
حَدَّثَنِي أَبُو زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ - يَأْتِي
دَارَ قَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَدُونَهُمْ دَارٌ يَعْنِي لَهَا يَأْتِيهَا ، فَشَقَّ
ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَأْتِي دَارَ فُلَانٍ وَلَا تَأْتِي
دَارِنَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ - ((: إِنَّ فِي دَارِكُمْ كَلْبًا)) (-). قَالَ: فَإِنَّ
فِي دَارِهِمْ سِنُّورًا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ - ((: السِّنُّورُ سَبْعُ)) (-).

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: بلی کے جھوٹے کا بیان
حدیث نمبر: 1175

:ترجمہ

(۱۱۷۶) (سیدنا ابوہریرہ رض سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے گھروں میں آئے اور ان کے علاوہ بھی گھر تھے ان میں نہیں، آئے ان پر یہ گراں گزرا، انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ فلاں فلاں کے گھروں میں جاتے ہیں اور ہمارے گھروں میں نہیں آتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمہارے گھروں میں کتے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ ان کے گھروں میں بلی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بلی بھی درندہ ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on the saliva of a cat

Hadith number: 1175

Translation:

(1175) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) visited the houses of the Ansaar and there were houses besides them but he didn't visit them, they said: Oh Messenger of Allah! You go to so-and-so's house and don't come to our house. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: There are dogs in your house. The narrator says that there was a cat in their house. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: The cat is also a beast.

[Daif (Weak). Narrated by Ahmad 2/327]

Sunan Kubra Bayhaqi 1176

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ :عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ (١١٧٨)
السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّقَّارُ حَدَّثَنَا
عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّرْقُفِيُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا
الْحَكَمُ -يَعْنِي ابْنَ أَبَانَ -عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - ((:الْهَرُّ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ)) -.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان
باب: بلی کے جھوٹے کا بیان
حدیث نمبر: 1176

ترجمہ:

(۱۱۷۷) (سیدنا ابوہریرہ ^{رض} فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بلی گھر کے سامان کی طرح ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on the saliva of a cat

Hadith number: 1176

Translation:

(1176) Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) says that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: A cat is like a household item.

[Daif (Weak). Narrated by Ibn Majah 369]

Sunan Kubra Bayhaqi 1177

Arabic Text:

: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ (١١٧٨)
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَ وَضَاءٌ
بِمَا أَفْضَلْتَ الْحُمْرُ؟ قَالَ ((نَعَمْ وَبِمَا أَفْضَلْتَ السِّبَاعُ كُلُّهَا)) (-).

وَفِي غَيْرِ رَوَايَتِنَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَخْبَرَنَا عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ
دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ بِمِثْلِهِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: خنزیر اور کتے کے علاوہ تمام حیوانات کے جھوٹے

کا حکم

حدیث نمبر: 1177

ترجمہ:

(۱۱۷۸) (سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا: اے اللہ کے رسول! کیا ہم گدھوں کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں تمام درندوں کے بچے ہوئے سے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on the saliva of a cat

Hadith number: 1177

Translation:

(1177) It is narrated on the authority of Jabir bin Abdullah (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) was asked: O Messenger of Allah! Should we perform ablution with the water left over from donkeys? He said: Yes, from the leftover of all the beasts.

[Daif (Weak). Narrated by Shafi'i in his Musnad 10]

Sunan Kubra Bayhaqi 1178

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصُّوفِيُّ أَخْبَرَنَا (١١٧٩)
أَبُو أَحْمَدَ بْنِ عَدِيِّ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيِّ الْمَوْصِلِيُّ
حَدَّثَنَا بِسْطَامُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الْمُخْتَارِ الْمَوْصِلِيُّ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ
بْنُ أَبِي يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - سُئِلَ أَنْتَوَضَّأَ بِمَا أَفْضَلَتْ
الْحُمْرُ؟ قَالَ ((نَعَمْ وَبِمَا أَفْضَلَتْ السِّبَاعُ)) (-
وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ -
وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى الْأَسْلَمِيُّ مُخْتَلَفٌ فِي ثِقَتِهِ ضَعْفُهُ أَكْثَرُ
أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ وَطَعَنُوا فِيهِ وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يُبْعِدُهُ عَنِ الْكُذْبِ -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الصُّوفِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنِ عَدِيِّ

الْحَافِظُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ سَمِعْتُ الرَّبِيعَ يَقُولُ سَمِعْتُ
الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي يَحْيَى قَدْرِيًّا. قُلْتُ
لِلرَّبِيعِ: فَمَا حَمَلَ الشَّافِعِيَّ عَلَى أَنْ رَوَى عَنْهُ؟ قَالَ: كَانَ
يَقُولُ لِأَنَّ يَخْرَ إِبْرَاهِيمُ مِنْ بَعْدِ أَحَبِّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكْذِبَ وَكَانَ
ثِقَةً فِي الْحَدِيثِ.

قَالَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ قَدْ نَظَرْتُ أَنَا فِي أَحَادِيثِهِ فَلَيْسَ
فِيهَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، وَإِنَّمَا يَرَوِي الْمُنْكَرُ إِذَا كَانَ الْعَهْدَةُ مِنْ
قَبْلِ الرَّاَوِي عَنْهُ أَوْ مِنْ قَبْلِ مَنْ يَرَوِي إِبْرَاهِيمُ عَنْهُ.
قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ تَابَعَهُ فِي رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ
الْحُصَيْنِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ الْأَشْهَلِيَّ وَقَدْ
ذَكَرْنَاهُ فِي كِتَابِ الْمَعْرِفَةِ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: خنزیر اور کتے کے علاوہ تمام حیوانات کے جھوٹے
کا حکم

حدیث نمبر: 1178

:ترجمہ

(۱۱۷۹) (الف) (سیدنا جابر بن عبد اللہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا کہ کیا ہم گدھوں کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر لیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں اور درندوں کے بچے ہوئے سے بھی۔

(ب) (ابراہیم بن ابویحییٰ اسلمی کے ثقہ ہونے میں روایات مختلف ہیں۔ اکثر محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے اور اس پر جرح بھی کی ہے۔

(ج) (امام شافعی) رح (فرماتے ہیں کہ ابراہیم بن ابویحییٰ قدری تھا، میں نے ربیع سے کہا: پھر کس بات نے امام شافعی) رح (کو اس سے نقل کرنے پر ابھارا؟ انہوں نے فرمایا: ابراہیم بعد میں جھوٹ کو موت سے بھی زیادہ ناپسند کرتا تھا اور وہ حدیث میں با اعتماد تھا۔

(د) (ابو احمد کہتے ہیں کہ میں نے اس کی احادیث دیکھیں ہیں، ان میں کوئی حدیث منکر نہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on the saliva of all animals

except pigs

Hadith number: 1178

Translation:

(1178) (a) It is narrated on the authority of Jabir bin Abdullah (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) was asked: Do we perform ablution with the water left over from donkeys? He said: Yes, and also from the leftover (water) of the beasts.

(B) There are different narrations regarding the trustworthiness of Ibrahim bin Abu Yahya Aslami. Many times muhadditheen have called him weak and many have also questioned it.

(C) Imam Shafi'i (may Allah have mercy on him) says that Ibrahim ibn Abu Yahya was

Qadiri, I said to Rabi: Then what made Imam Shafi'i (may Allah have mercy on him) narrate from him? He said: Ibrahim later disliked lying more than death and he was confident in hadith.

(D) Abu Ahmad says that I have seen his ahadith, none of them is munkar.

[Daif (Weak). Narrated by Shafi'i in his Musnad 10]

Sunan Kubra Bayhaqi 1179

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ (١١٨٠)
عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ
سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ
ابْنِ أَبِي حَبِيبَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ
قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَوَضَّأُ بِمَا أَفْضَلَتِ الْحُمْرُ؟ فَقَالَ ((وَبِمَا
أَفْضَلَتِ السَّبَاعُ)) (-).

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: خنزیر اور کتے کے علاوہ تمام حیوانات کے جھوٹے

کا حکم

حدیث نمبر: 1179

:ترجمہ

(۱۱۸۰) (سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا: اے اللہ کے رسول! کیا ہم گدھوں کے بچے ہوئے پانی سے وضو کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: درندوں کے بچے ہوئے سے بھی کرلو۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on the saliva of all animals except pigs

Hadith number: 1179

Translation:

(1179) Jabir bin Abdullah says that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) was asked: O Messenger of Allah! Should we perform ablution with the water left over from donkeys? He said: You can even perform it with the leftover (water) of the beasts.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1180

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَأَبُو نَصْرِ: عُمَرُ بْنُ (١١٨١)
عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو بْنُ نُجَيْدٍ
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ
حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
الْحَارِثِ التَّمِيمِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ: أَنَّ عُمَرَ
بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ فِي رَكْبٍ فِيهِمْ عَمْرُو

بُنُّ الْعَاصِ حَتَّى وَرَدُوا حَوْضًا فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ
لِصَاحِبِ الْحَوْضِ: يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ هَلْ تَرِدُ حَوْضَكَ
السَّبَاعُ؟ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْخَطَّابِ: يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ لَا
تُخْبِرُنَا فَإِنَّا نَرِدُ عَلَى السَّبَاعِ وَتَرِدُ عَلَيْنَا.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: خنزیر اور کتے کے علاوہ تمام حیوانات کے جھوٹے
کا حکم

حدیث نمبر: 1180

:ترجمہ

(۱۱۸۱) (یحییٰ بن عبد الرحمن بن حاطب سے روایت ہے کہ
عمر بن خطابؓ ایک قافلے میں نکلے، اس میں عمرو بن
عاصؓ بھی تھے۔ جب وہ حوض کے پاس آئیتو عمرو بن
عاص نے حوض والے کو کہا: اے حوض والے! کیا تیرے
حوض پر درندے آتے ہیں؟ عمر بن خطابؓ نے کہا: اے
حوض والے! ہمیں اس کی خبر نہ دے؛ کیونکہ درندے
ہمارے پاس اور ہم ان کے پاس آتے جاتے رہتے

ہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on the saliva of all animals except pigs

Hadith number: 1180

Translation:

(1180) It is narrated on the authority of Yahya ibn Abd al-Rahman ibn Hatib that Umar ibn al-Khattab (may Allah be pleased with him) went out in a caravan, Amr ibn Aas was also there. When they came to a watering place, Amr bin Aas (may Allah be pleased with him) said to the owner of the watering place: O pool man! Do beasts come to your watering place? Umar ibn al-Khattab (may Allah be pleased with him) said: O pool man! Don't tell us about it;

because the beasts come to us and we go to them.

[Daif (Weak). Narrated by Malik 2/12]

Sunan Kubra Bayhaqi 1181

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِنِعْدَادَ أَخْبَرَنَا (١١٨٢)
إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ

أَخْبَرَنَا مُعَلَّى يَعْنِي ابْنَ مَنْصُورٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي خَالِدٌ عَنْ
يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بِسُورِ الْحِمَارِ وَالْبُغْلِ بَأْسًا.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاکی کا بیان

باب: خنزیر اور کتے کے علاوہ تمام حیوانات کے جھوٹے

کا حکم

حدیث نمبر: 1181

:ترجمہ

(۱۱۸۲) (حسن سے روایت ہے کہ وہ گدھے اور خچر کے
جھوٹے میں کوئی حرج خیال نہیں کرتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on the saliva of all animals
except pigs

Hadith number: 1181

Translation:

(1181) It is narrated from Hasan that he did not think of any harm in the water of a donkey or a mule.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1182

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ : عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ (١١٨٣)
بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ
الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - (-) : (مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ
صَيْدٍ أَوْ زُرْعٍ انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ) (-).
: قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَذَكَرَ لِابْنِ عُمَرَ قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ
يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ صَاحِبَ زُرْعٍ -
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ
وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ -
: وَرَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ
قِيرَاطَانِ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

کتاب: پاکی کا بیان

باب: کتے کے دیگر جانوروں سے الگ حکم رکھنے والی
احادیث کا مختصر بیان

حدیث نمبر: 1182

:ترجمہ

(۱۱۸۳) (سیدنا ابوہریرہ رض سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے سوائے جانوروں کی رکھوالی، شکار یا کھیتی کے علاوہ کتا رکھاتو ہر دن اس کے اجر سے ایک قیراط (ثواب) کم ہوگا۔

(ب) (زہری کہتے ہیں کہ ابن عمر رض سے ابوہریرہ رض کا قول ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا: اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے وہ کھیتی باڑی کرتے تھے۔

(ج) (سیدنا سعید بن مسیب سے انہوں نے ابوہریرہ رض کی حدیث بیان کی ہے اس میں ہے کہ دو قیراط (ثواب) کم ہوگا۔)

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Brief description of the ahadith

which mention the different ruling for dogs as compared to other animals

Hadith number: 1182

Translation:

(1182) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said:

Whoever keeps a dog except for the protection of animals, hunting or farming, one qirat (of the reward of his good deeds) will deducted every day.

(B) Zuhri (may Allah have mercy on him) says that the saying of Abu Hurayrah was mentioned to Ibn Umar (may Allah be pleased with him) and he said: May Allah have mercy on him, he used to cultivate.

(C) The hadith of Abu Hurayrah has (also)

been narrated from Saeed bin Musaib in which it says that two qirats (of the reward of his good deeds) will deducted.

[Sahih. Narrated by Bukhari 2323, 3324 and Muslim 1575 and Nasai 4294 and Abu Dawud 2844 and Tirmidhi 1490 and Ibn Majah 3204 and Ahmad 2/267, 345]

Sunan Kubra Bayhaqi 1183

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكْرِيَّا بْنُ أَبِي (١١٨٤)
إِسْحَاقَ الْمُرْزُوقِيَّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ
حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ
عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ((مَنْ أَقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ وَلَا
مَاشِيَةٍ وَلَا أَرْضٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَاطَانِ كُلِّ يَوْمٍ))
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةَ بْنِ يَحْيَى
عَنْ ابْنِ وَهْبٍ
وَكَذَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ((- قِيرَاطَانِ)) (- إِلَّا أَنَّهُ لَمْ
يَحْفَظْ فِيهِ كَلْبَ الْأَرْضِ فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ وَقَدْ حَفِظَهُ
أَبُو هُرَيْرَةَ وَسُفْيَانُ بْنُ أَبِي زُبَيْرٍ الشَّنَائِيُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -
إِلَّا أَنَّ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُبَيْرٍ لَمْ يَحْفَظِ الصَّيِّدَ وَقَالَ : قِيرَاطٌ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: کتے کے دیگر جانوروں سے الگ حکم رکھنے والی
احادیث کا مختصر بیان

حدیث نمبر: 1183

ترجمہ:

(۱۱۸۴) (سیدنا ابوہریرہ ^{رض} سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے شکار، رکھوالی اور کھیتی کے علاوہ کتا رکھا تو اس کے اجر سے ہر دن دو قیراط کم ہوں گے۔
(ب (اسی طرح ابن عمر ^{رض} نبی ﷺ سے نقل فرماتے ہیں (دوقیراط)، مگر انہوں نے اکثر روایات میں نگرانی والے کتے کا ذکر نہیں کیا۔

سیدنا ابوہریرہ ^{رض} اور سفیان بن ابو زہیر ^{رض} نبی ﷺ سے نقل فرماتے ہیں مگر سفیان نے شکار کے کتے کا ذکر نہیں کیا اور کہا: ایک قیراط

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Brief description of the ahadith

which mention the different ruling for dogs as compared to other animals

Hadith number: 1183

Translation:

(1183) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said:

Whoever keeps a dog besides for hunting, guarding or farming, two qirats of the reward of his good deeds will deducted every day.

(B) Similarly, Ibn Umar (may Allah be pleased with him) narrates (two qirats) from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him), but he did not mention guard dogs in most of his traditions.

Abu Hurayrah and Abu Sufyan ibn Abu Zuhair narrate from the Prophet, but

Sufyan did not mention hunting dogs and said: One qirat.

[Sahih. Narrated by Bukhari 5480 and Muslim 1574 and Nasai 4289 and Ahmad 2/47, 156]

Sunan Kubra Bayhaqi 1184

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ (١١٨٥)
أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُتَنَّى حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ عَنْ
أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ ابْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ
((مَا لَهُمْ وَلَهَا؟)) (- فَرَخَّصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الْغَنَمِ :
وَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، ُوقَالَ)): إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَائِ فَاغْسِلْ
وَغَفِّرْهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ)) (-
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ
سَعِيدٍ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: کتے کے دیگر جانوروں سے الگ حکم رکھنے والی
احادیث کا مختصر بیان
حدیث نمبر: 1184

:ترجمہ

(۱۱۸۵) حضرت ابن مغفل^{رض} سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کتوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، پھر فرمایا: مجھے ان سے کیا سروکار، پھر آپ ﷺ نے شکاری کتے اور بکریوں کے کتے کی رخصت دے دی اور فرمایا: جب کتا برتن میں منہ ڈال جائے تو اس کو سات مرتبہ دھوؤ اور اٹھویں مرتبہ مٹی سے مانجو۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Brief description of the ahadith

which mention the different ruling for dogs as compared to other animals

Hadith number: 1184

Translation:

(1184) It is narrated on the authority of Ibn Mughaffal that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) ordered the dogs to be killed, then he

said: I do not care for dogs and he granted a concession for hunting dogs and the dogs used for the protection of sheep, and he said: When a dog licks a vessel, wash it seven times and clean it with sand the eighth time.

[Sahih. Narrated by Muslim 280 and Nasai 67, 337, 338 and Abu Dawud 75 and Ibn Majah 365 and Ahmad 4/86, 5/56 and Darimi 2049]

Sunan Kubra Bayhaqi 1185

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى (١١٨٦)
أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَعْيُنُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى
قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - نَهَى
عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَايِنِ -
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مَالِكٍ
وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: کتے کے دیگر جانوروں سے الگ حکم رکھنے والی
احادیث کا مختصر بیان

حدیث نمبر: 1185

:ترجمہ

(۱۱۸۶) (سیدنا ابو مسعود انصاریؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے کتے کی قیمت، زانیہ کی کمائی اور کاہن کی اجرت سے منع فرمایا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Brief description of the ahadith

which mention the different ruling for dogs as compared to other animals

Hadith number: 1185

Translation:

(1185) It is narrated from Abu Masud Ansari that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) forbade the price of a dog, the earnings of a prostitute and the payment made to a

soothsayer.

[Sahih. Narrated by Bukhari 2237, 2282, 5346, 5761 and Muslim 1567 and Nasai 4297, 4670 and Abu Dawud 3428, 3481 and Tirmidhi 1133, 1276, 2071 and Ibn Majah 2159 and Malik 31/66 and Ahmad 1/118, 120, 140, 141]

Sunan Kubra Bayhaqi 1186

Arabic Text:

حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعَلَوِيُّ إِمْلَائِي (١١٨٧)
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الشَّرْقِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ -
قَالَ ((لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ)) -
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِينِيِّ وَرَوَاهُ
مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَغَيْرِهِ كُلِّهِمْ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: کتے کے دیگر جانوروں سے الگ حکم رکھنے والی

احادیث کا مختصر بیان

حدیث نمبر: 1186

ترجمہ:

(۱۱۸۷) (سیدنا ابو طلحہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا " جس گھر میں کتا اور تصویر ہو اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ "

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Brief description of the ahadith which mention the different ruling for dogs as compared to other animals

Hadith number: 1186

Translation:

(1186) It is narrated on the authority of Abu Talhah that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said:

“Angels do not enter a house where there

is a dog or a picture (of an animate being).”
[Sahih. Narrated by Bukhari 3225, 3326,
3322 and Muslim 2106 and Nasai 4287,
5349 and Abu Dawud 4153 and Tirmidhi
2804 and Ibn Majah 3649 and Ahmad 4/28]

Sunan Kubra Bayhaqi 1187

Arabic Text:

:أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ بْنُ أَبِي عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ (١١٨٨)
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ
الْقَاضِي حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ :بِأَسْمِ
بْنِ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عَيْسَى يَعْنِي ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو
زُرْعَةَ عَنْ أَبِي بُرَيْرَةَ قَالَ :كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -يَأْتِي دَارَ قَوْمٍ
شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا :مِنَ الْأَنْصَارِ وَدُونَهُمْ دَارٌ لَا يَأْتِيهَا ، ف
أَرْنَا- فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ - :رَسُولَ اللَّهِ تَأْتِي دَارَ فُلَانٍ وَلَا تَأْتِي د
((إِنْ فِي دَارِكُمْ كَلْبًا)) (-) قَالَ :فَإِنَّ فِي دَارِهِمْ سِنُورًا- فَقَالَ
النَّبِيُّ ﷺ -)) :السِّنُورُ سَبْعٌ (-) -
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ قَالَ قَالَ أَبُو أَحْمَدَ بْنَ عَدِيٍّ
الْحَافِظُ :عَيْسَى بْنُ الْمُسَيَّبِ صَالِحٌ فِيمَا يَرْوِيهِ-
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ
الْحَافِظُ :عَيْسَى بْنُ الْمُسَيَّبِ صَالِحٌ الْحَدِيثِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: کتے کے دیگر جانوروں سے الگ حکم رکھنے والی

احادیث کا مختصر بیان

حدیث نمبر: 1187

ترجمہ:

(۱۱۸۸) (سیدنا ابوہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ انصار کے گھروں میں آتے تھے اور ان کے علاوہ بھی گھر تھے لیکن ان میں نہیں آتے تھے، ان پر یہ گراں گزراتو انہوں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! آپ فلاں کے گھروں میں "جاتے ہیں اور ہمارے گھر نہیں آتے۔ نبی ﷺ نے فرمایا تمہارے گھر میں کتا ہے۔ انہوں نے کہا: ہمارے گھروں میں "تو بلی ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا "بلی بھی درندہ ہے۔ (ب) ابو احمد بن عدی کہتے ہیں کہ روایت بیان کرنے میں عیسیٰ بن مسیب صالح ہے۔ (ج) حافظ علی بن عمر کہتے ہیں کہ عیسیٰ بن مسیب صالح الحدیث ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Brief description of the ahadith which mention the different ruling for dogs as compared to other animals

Hadith number: 1187

Translation:

(1187) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) visited the houses of the Ansaar and there were houses besides them but he didn't visit them, they said: Oh Messenger of Allah! You go to so-and-so's house and don't come to our house. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "There are dogs in your house." They said: There are only cats in our homes. The Prophet (peace and blessings of Allah be

upon him) said: The cat is also a beast.

(B) Abu Ahmad ibn Adiy says that Isa ibn Musaib is the best in narrating the narration.

(C) Hafiz Ali ibn Umar says that Isa ibn Musaib is a **saleh-ul-hadith**.

[Daif (Weak). Narrated by Ahmad 2/327]

Footnotes: Saleh-ul-hadith is a description of a hadith narrator indicating that he is reliable but there is some lack of accuracy in his narrations. It is a term applicable to narrators of the sixth grade, the lowest of the acceptable grades.

Sunan Kubra Bayhaqi 1188

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو (١١٨٩)
قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَسِيدُ بْنُ
عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَائٍ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ سَوَّارٍ
- عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ أَبِي الْجَهْمِ عَنِ الْبَرَائِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -
((مَا أَكَلَ لَحْمَهُ فَلَا بَأْسَ بِسُورِهِ)) (-):

كَذَا يُسَمِّيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَائٍ: مُصْعَبُ بْنُ سَوَّارٍ فَقَلَبَ
اسْمَهُ وَإِنَّمَا هُوَ سَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ.
وَسَوَّارُ بْنُ مُصْعَبٍ مَثْرُوكٌ أَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو بَكْرٍ بْنُ الْحَارِثِ
الْفَقِيهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الدَّارِقُطِيِّ الْحَافِظِ
قَالَ الشَّيْخُ وَمَعَ ضَعْفِ سَوَّارِ بْنِ مُصْعَبٍ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ فِي
مَثْنِهِ فَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَائٍ عَنْهُ هَكَذَا وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ
أَبِي بُكَيْرٍ عَنْهُ بِإِسْنَادِهِ: لَا بَأْسَ بِبَوْلِ مَا أَكَلَ لَحْمَهُ.
وَرَوَاهُ عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِيِّ عَنْ

مُطَرِّفٍ عَنِ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مَرْفُوعًا فِي
الْبَوْلِ-
وَعَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ وَيَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ ضَعِيفَانِ وَلَا يَصِحُّ شَيْءٌ
مِنْ ذَلِكَ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: حلال جانوروں کے بچے ہوئے کا حکم
حدیث نمبر: 1188

:ترجمہ

(: ۱۱۸۹) (سیدنا براءؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا
جس جانور کا گوشت کھایا جائے اس کے جھوٹے میں کوئی
حرج نہیں۔

(ب) (عبداللہ بن رجاء نے اس کا نام مصعب بن سوار بیان کیا
بیجب کہ یہ قلب ہوا اور اس کا نام سوار بن مصعب ہے۔
(ج) (ابوبکر بن حارث فقیہ نے امام دارقطنی سے نقل کیا ہے
کہ وہ متروک الحدیث ہے۔

د (شیخ کہتے ہیں کہ سوار بن مصعب کے ضعیف ہونے کی وجہ سے اس کے متن میں اختلاف ہے۔ عبداللہ بن رجاء نے اسی طرح بیان کیا ہے۔ یحییٰ بن ابوبکیر نے اپنی اسناد سے بیان کیا ہے، ان کے الفاظ یہ ہیں " :لَا بَأْسَ بِبَوْلِ مَا أَكَلَ لَحْمُهُ " ان جانوروں کے پیشاب لگ جانے میں کوئی حرج نہیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے۔

س (جابر بن عبداللہؓ سے پیشاب کے متعلق مرفوعاً منقول ہے۔

ط (عمرو بن حصین اور یحییٰ بن علاء ضعیف ہیں، اس میں کچھ ٹھیک نہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on the remnants of halal animals

Hadith number: 1188

Translation:

(1188) It is narrated on the authority of

Bara (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: There is no harm in the saliva of an animal whose meat is permissible to be eaten.

(B) Abu Bakr ibn Harith al-Faqih has narrated from Imam Daraqutni that Sawar bin Musab is matruk hadith.

(C) Sheikh says that there is a difference of opinion on the text of this hadith due to Sawar bin Musab's weakness. Abdullah bin Raja has also narrated the same. Yahya ibn Abu Bakr has narrated from his isnaad, his words are as follows:

" لَا بَأْسَ بِبَوْلِ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ "

There is no harm if the urine of animals, whose meat is permissible to be eaten, falls on you.

(D) A marfu hadith about urine has been narrated from Jabir bin Abdullah (may Allah be pleased with him).

(E) Amr ibn Husayn and Yahya ibn Alaa are weak, there is nothing correct about that.

[Daif Jiddan (Very Weak). Narrated by Al-Daraqutni 1/127]

Sunan Kubra Bayhaqi 1189

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي (١١٩٠)
عَمْرٍو قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا
الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ
بِلَالٍ حَدَّثَنِي عُثْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ أَنَّ عُبَيْدَ بْنَ حُنَيْنٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ
سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((: إِذَا سَقَطَ الذُّبَابُ
فِي شَرَابٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ
جَنَاحَيْهِ دَائِيٌّ وَفِي الْآخِرِ شِفَاؤٌ)) (-).
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ
بْنِ بِلَالٍ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب : پاکی کا بیان

باب : خون نہ بہنے والے حشرات کے پانی میں گر جانے کا

حکم

حدیث نمبر : 1189

:ترجمہ

(۱۱۹۰) عبید بن حنین^{رض} نے سیدنا ابوہریرہ^{رض} سے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " :جب کسی کے پینے کے برتن (میں مکھی گرجائے تو اس ساری کو ڈبو دو، پھر اس کو نکال لو، اس لیے اس کے دو پروں میں سے ایک میں بیماری ہے اور دوسرے میں شفا ہے۔"

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on non-bleeding insects falling into the water

Hadith number: 1189

Translation:

(1189) Ubaid ibn Haneen heard from Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: "When a fly falls into someone's drink, let

him dip it all in, then take it out, because one of its two wings has a disease and the other has the cure."

[Sahih. Narrated by Bukhari 3320, 5782 and Abu Dawud 3844 and Ibn Majah 3505 and Darimi 2081]

Sunan Kubra Bayhaqi 1190

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : الْحُسَيْنُ بْنُ عُمَرَ بْنِ بُرْهَانَ وَأَبُو (١١٩١)
الْحُسَيْنِ بْنِ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ قَالَا حَدَّثَنَا

إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا بِشْرُ
بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ
الْمَقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - ((إِذَا وَقَعَ
الدُّبَابُ فِي إِنَائِ أَحَدِكُمْ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَائٍ وَفِي الْآخِرِ
شِفَاءٌ وَإِنَّهُ يَتَّقَى بِالْجَنَاحِ الَّذِي فِيهِ الدَّائِ ، فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ
((لِيَنْزِعَهُ))

وَرَوَاهُ عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ
أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِنَحْوِهِ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: خون نہ بہنے والے حشرات کے پانی میں گر جانے کا

حکم

حدیث نمبر: 1190

:ترجمہ

(۱۱۹۱) (سیدنا ابوہریرہ ^{رض} فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے
فرمایا " :جب کسی کے برتن میں مکھی گرجائے تو اس کے
دو پروں میں سے ایک میں بیماری اور دوسرے

میں شفا ہوتی ہے اور وہ اس کے ذریعے سے بچتی ہے جس میں بیماری ہوتی ہے، لہذا ساری کو ڈبو کر نکال دو۔"

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on non-bleeding insects falling into the water

Hadith number: 1190

Translation:

(1190) Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) says that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: When a fly falls into someone's vessel, one of its two wings is a disease and the other is a cure and it protects itself by (extending) the wing with the disease (towards the vessel), therefore dip it all in, then take it out."

[Sahih. Narrated by Abu Dawud 3844]

Sunan Kubra Bayhaqi 1191

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَائِرٍ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا (١١٩٢)
إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذُنَبٍ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ خَالِدِ الْقَارِظِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بِمَنَى فَقَدَّمَ إِلَيَّ زُبْدًا وَكُنْثَةً ، فَوَقَعَ ذُبَابٌ فِي الزُّبْدِ فَجَعَلَ يَمْقُلُهُ
بِخِنْصِرِهِ فَقُلْتُ: يَا خَالَ مَا

تَصْنَعُ؟ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ -
((إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي الطَّعَامِ فَاْمَقْلُوهُ ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ قَ
جَنَاحَيْهِ سُمًّا وَفِي الْآخِرِ شِفَاءً ، وَإِنَّهُ يُؤَخِّرُ الشِّفَاءَ وَيُقَدِّمُ
السُّمَّ))-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: خون نہ بہنے والے حشرات کے پانی میں گر جانے کا
حکم

حدیث نمبر: 1191

ترجمہ:

(۱۱۹۲) سعید بن خالد قارظی فرماتے ہیں کہ میں منیٰ میں
ابو سلمہ بن عبد الرحمن کے پاس آیا، انہوں نے مجھے
مکھن اور پنیر پیش کیا، مکھی مکھن میں گر گئی تو وہ
چھوٹی انگلی سے اس کو ڈبو رہے تھے۔ میں نے کہا: خالو
جان! آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا: مجھے سیدنا
" :ابوسعید خدریؓ نے خبر دی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
جب کسی کے کھانے میں مکھی

گرجائے تو اس کو ڈبو لے، اس لیے اس کے دو پروں میں سے ایک میں زہر ہے اور دوسرے میں شفا اور وہ شفاء والے پر کو اوپر رکھتی ہے اور زہر والے پر پہلے ڈالتی ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on non-bleeding insects falling into the water

Hadith number: 1191

Translation:

(1191) Saeed bin Khalid Qarzi says that I came to Abu Salma bin Abdul Rahman in Mina, he offered me butter and cheese. A bee fell into the butter, and he was dipping it in with his little finger. I said: Uncle! What are you doing? He said: I was informed by Abu Sa'eed Al-Khudri (may Allah be pleased with him) that the Messenger of

Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: "When a fly falls in someone's food, it should be dipped in, because one of its two wings has poison in it and the other has the cure, and it puts the wing with the cure on top and falls in with the poison containing wing first.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1192

Arabic Text:

وَرَوَى بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ (١١٩٣) الزُّبَيْدِيِّ عَنْ بَشْرِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ((يَا سَلْمَانُ كُلُّ طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَقَعَتْ فِيهِ دَابَّةٌ لَيْسَ لَهَا دَمٌ فَمَاتَتْ فَهُوَ الْحَلَالُ أَكَلُهُ وَشَرْبُهُ وَوُضُوءُهُ)) (-).

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيِّ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ... فَذَكَرَهُ. قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: الْأَحَادِيثُ الَّتِي يَرْوِيهَا سَعِيدُ الزُّبَيْدِيُّ عَامَّتْهَا لَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: لَمْ يَرْوِهِ غَيْرُ بَقِيَّةَ عَنْ سَعِيدِ الزُّبَيْدِيِّ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: خون نہ بہنے والے حشرات کے پانی میں گر جانے کا

حکم

حدیث نمبر: 1192

:ترجمہ

(۱۱۹۳) (سیدنا سلمانؓ فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ نے فرمایا: اے سلمان! ہر کھانا اور پانی استعمال کرو، جس میں ایسا جانور گر کر مر جائے جس میں خون نہ ہو تو اس کا کھانا، پینا اور وضو حلال ہے۔

(ب) (بقیہ نے پچھلی روایت کی طرح بیان کیا ہے۔

(ج) (ابو احمد کہتے ہیں: وہ تمام احادیث جنہیں سعید زبیدی

بیان کرتا ہے عموماً غیر محفوظ ہیں۔

(د) (الحافظ علی بن عمر کہتے ہیں کہ سعید زبیدی سے

صرف بقیہ نقل کرتا ہے حالانکہ وہ ضعیف ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on non-bleeding insects falling into the water

Hadith number: 1192

Translation:

(1192) Syeduna Salman says that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: O Salman! Use every food and water. If a bloodless animal falls and dies in (any food or water), then eating it, drinking it and performing ablution with it is halal.

(B) Baqqiya has narrated like the previous narration.

(C) Abu Ahmad says: All the hadiths narrated by Saeed Zubeidi are generally not secure.

(D) Al-Hafiz Ali ibn Umar says that only

Baqiyya narrates from Saeed Zubeidi even though he is weak.

[Daif Jiddan (Very Weak). Narrated by Al-Daraqutni 1/37]

Sunan Kubra Bayhaqi 1193

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ (١١٩٤)
عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ
،إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: كُلُّ نَفْسٍ سَائِلَةٌ لَا يُتَوَضَّأُ مِنْهَا
وَلَكِنْ رُخِّصَ فِي الْخُنْفَسَائِ وَالْعُقْرَبِ وَالْجَرَادِ وَالْجُذْجُذِ إِذَا
وَقَعْنَ فِي الرِّكَائِ فَلَا بَأْسَ بِهِـ
قَالَ شُعْبَةُ: أَظُنُّهُ قَدْ ذَكَرَ الْوَزْغَةَـ
قَالَ الشَّيْخُ وَرَوَيْنَا مَعْنَاهُ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَعَطَائِ
وَعِكْرَمَةَـ

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاکی کا بیان

باب: خون نہ بہنے والے حشرات کے پانی میں گر جانے کا

حکم

حدیث نمبر: 1193

:ترجمہ

(۱۱۹۴) ابراہیم کہتے ہیں: ہر بہنے والے خون (والے جانور کے گرنے سے وضو نہیں کیا جائے گا لیکن گبریلا، بچھو، مکڑی اور گرگٹ جب برتن میں گرجائیں تو) اس کے استعمال میں (کوئی حرج نہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on non-bleeding insects falling into the water

Hadith number: 1193

Translation:

(1193) Ibrahim says: Ablution should not be performed (with water) in which any blood flowing animal (has fallen into) but when a tumble bug, scorpion, spider or chameleon fall into a vessel, there is nothing wrong (with using its contents).

[Sahih. Narrated by Al-Daraqutni 1/33]

Sunan Kubra Bayhaqi 1194

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ (١١٩٥)
الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو : عَثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ
بْنِ السَّمَّكِ حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ سَنَةَ سِتِّ
عَشْرَةَ وَمِائَتَيْنِ وَقُلْتُ لَهُ : كَمْ سِنُّكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ؟ قَالَ
أَرْبَعٌ وَخَمْسِينَ أَوْ خَمْسٌ وَخَمْسِينَ -
قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ حَازِمٍ
عَنْ ابْنِ مِقْسَمٍ يَعْنِي عُبَيْدَ اللَّهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ

اللّٰهُ قَالَ :سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ -ﷺ- عَنِ مَائِ الْبَحْرِ فَقَالَ ((:بُو الطَّهْرُ
مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتُهُ)) (-)

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب :پاکی کا بیان

باب :مچھلی یا ٹڈی کے پانی میں مرجانے کا حکم

حدیث نمبر :1194

:ترجمہ

(۱۱۹۵) (سیدنا جابر بن عبداللہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے سمندر کے پانی کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ ﷺ نے " فرمایا " :اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on a fish or locust dying in water

Hadith number: 1194

Translation:

(1194) Jabir ibn Abdullah (may Allah be pleased with him) says that when the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) was asked about the water of the sea, he said: "Its water is pure and its dead is lawful."

[Sahih. Narrated by Nasai 59, 332 and Abu Dawud 83 and Tirmidhi 69 and Ibn Majah 386 and Ahmad 2/237 and Darimi 755]

Sunan Kubra Bayhaqi 1195

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو الْحُسَيْنِ : عَلِيُّ بْنُ (١١٩٦)
مُحَمَّدِ السَّبَّيْعِيُّ فِي آخِرِينَ قَالُوا أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ
بْنُ بِلَالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ
: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ : أَحَلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ
الْجَرَادُ وَالْحَيْتَانُ وَالْكَبْدُ وَالطِّحَالُ.
وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وَهُوَ فِي مَعْنَى الْمُسْنَدِ. وَقَدْ رَفَعَهُ أَوْلَادُ زَيْدٍ
عَنْ آبَائِهِمْ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: مچھلی یا ٹڈی کے پانی میں مرجانے کا حکم
حدیث نمبر: 1195

:ترجمہ

(۱۱۹۶) (سیدنا عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے دو خون اور دو مردار حلال کیے گئے ہیں: مکڑی اور مچھلی، جگر اور تلی۔

(ب) (یہ حدیث صحیح ہے اور مرفوع کے حکم میں ہے۔ زید کے بیٹوں نے اپنے والد سے مرفوع بیان کیا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on a fish or locust dying in water

Hadith number: 1195

Translation:

(1195) Abdullah bin Umar (may Allah be pleased with him) says that two bloods and two carcasses have been made lawful for us: spider and fish, liver and spleen.

(B) This hadeeth is sahih and is a marfu ruling. Zaid's sons have narrated marfu

ahadith from their father.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1196

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ :كَامِلُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُسْتَمَلِيُّ وَأَبُو نَصْرِ (١١٩٧)
بْنُ قَتَادَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ :مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَيُّوبَ
الصَّبَّغِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادِ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي
أُوَيْسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَسَامَةُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ
أَبِيهِمْ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - قَالَ ((:أُحِلَّتْ لَنَا
 : مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ :فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ ، وَأَمَّا الدَّمَانِ
 :فَالطِّحَالُ وَالْكَبِدُ)) .-
 أَوْلَادُ زَيْدِ بْنِ هُوَلَايٍ كُلُّهُمْ ضُعَفَاءُ جَرَحَهُمْ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَكَانَ أَحْمَدُ
 بْنُ حَنْبَلٍ وَعَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ يُوثِقَانِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ ، إِلَّا أَنَّ
 الصَّحِيحَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ هُوَ الْأَوَّلُ .-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: مچھلی یا ٹڈی کے پانی میں مرجانے کا حکم
 حدیث نمبر: 1196

:ترجمہ

(۱۱۹۷) (سیدنا عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " ہمارے لیے دو خون اور دو مردار حلال کیے گئے ہیں: مردار مکڑی اور مچھلی ہیں اور خون تلی اور جگر ہیں۔"

(ب) (زید کے تمام بیٹے حدیث بیان کرنے میں ضعیف ہیں۔
 یحییٰ بن معین نے ان پر جرح کی ہے۔ امام احمد بن حنبل اور
 علی بن مدینی نے عبداللہ بن زید کو ثقہ قرار دیا ہے۔

لیکن اس سے پہلی حدیث زیادہ صحیح ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on a fish or locust dying in water

Hadith number: 1196

Translation:

(1196) It is narrated on the authority of Abdullah ibn Umar (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: "Two bloods and two carcasses have been made lawful for us: The carcasses are spiders and fish, and the blood is spleen and the liver."

[The Marfu hadith is munkar --- The Mawquf hadith is sahih --- Narrated by Ahmad 2/97]

Sunan Kubra Bayhaqi 1197

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورِكَ رَحِمَهُ اللَّهُ (١١٩٨)
تَعَالَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ
أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ
عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - يَدْخُلُ بَيْتَ أُمِّ سَلِيمٍ
وَيَنَامُ عَلَى فِرَاشِهَا وَلَيْسَتْ ... ثُمَّ قَالَ فَأْتَيْتُ يَوْمًا فَقِيلَ لَهَا : يُو
بَذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - عَلَى فِرَاشِكِ - فَأَنْتَهتِ إِلَيْهِ وَقَدْ عَرِقَ عَرَقًا
شَدِيدًا ، وَذَلِكَ فِي الْحَرِّ ، فَأَخَذَتْ قَارُورَةَ ، فَجَعَلَتْ تَأْخُذُ مِنْ ذَلِكَ
الْعَرَقِ ، فَتَجَعَلُهُ فِي الْقَارُورَةِ ، فَاسْتَيْقِظَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - فَقَالَ
((مَا تَصْنَعِينَ؟)) - فَقَالَتْ : بَرَكَتُكَ يَا :

رَسُولَ اللَّهِ نَجَعُهُ فِي طَيِّبِنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (-) : أَصَبْتُ (-).
 رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ حُجَيْنِ بْنِ
 الْمُثَنَّى عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمَاجِشُونَ بِمَعْنَاهُ.
 ، وَرَوَاهُ ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ وَأَنَسُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
 وَرَوَاهُ أَبُو قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ عَنْ أُمِّ سَلِيمٍ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: آدمی کا پسینہ پاک ہے خواہ جس جگہ کا بھی ہو
 حدیث نمبر: 1197

ترجمہ:

(۱۱۹۸) (سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ام سلیم رضی اللہ عنہا کے گھر آتے تھے اور ان کے بستر پر سوتے تھے اور وہ نہیں۔۔۔ پھر فرمایا: ایک دن انہیں بلا کر کہا گیا: یہ رسول اللہ ﷺ آپ کے بستر پر ہیں۔ وہ آپ ﷺ کے پاس پہنچی اور آپ کو بہت زیادہ پسینہ آیا ہوا تھا اور یہ گرمی کے موسم میں تھا۔ انہوں نے چھوٹی شیشی لی تو وہ پسینے سے لینا شروع ہوئیں اور اس کو شیشی میں بھر رہی تھی۔ رسول اللہ ﷺ بیدار ہوئے، آپ نے فرمایا " آپ

اس کا کیا کرو گی؟ " انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ کی برکت ہے اس کو ہم اپنی خوشبو میں رکھیں گی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " : تو نے درست کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A man's sweat is pure no matter where it is from

Hadith number: 1197

Translation:

(1197) Syeduna Anas (may Allah be pleased with him) says that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) used to come to the house of Umm Sulaim and sleep on her bed and he did not..... Then he said: One day she was called and it was said to her: The Messenger of Allah is (sleeping) on your bed. She came to him and he was sweating a lot and it was summer. She took a small bottle, and started collecting his sweat

and started filling the bottle. The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) woke up and said: What will you do with this? She said: O Messenger of Allah! You are blessed, we will keep it as a fragrance. The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: "You have done the right thing."

[Sahih. Narrated by Bukhari 6281 and Muslim 2331 and Nasai 5373 and Ahmad 3/136, 221]

Sunan Kubra Bayhaqi 1198

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ (١١٩٩) قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ قُرِئَ عَلَيَّ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَوَضَّأُ فِي الْحَرِّ فَيَمُرُّ يَدَيْهِ عَلَى إِبْطِيهِ وَلَا يَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: آدمی کا پسینہ پاک ہے خواہ جس جگہ کا بھی ہو
حدیث نمبر: 1198

ترجمہ:

(١١٩٩) نافع سے روایت ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما گرمی میں وضو کرتے تو اپنے ہاتھ بغلوں پر پھیرتے اور یہ چیز

ان کے وضو کو نہیں توڑتی تھی۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A man's sweat is pure no matter where it is from

Hadith number: 1198

Translation:

(1198) It is narrated from Nafi (may Allah have mercy on him) that when Abdullah ibn Umar (may Allah be pleased with him) used to perform ablution in hot weather, he would pass his hands over his armpits and this would not invalidate his ablution.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1199

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ (١٢٠٠)
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ السَّلْمِيُّ حَدَّثَنَا قَبِيصَةَ
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّغَرِ (ح)
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ جَابِرٍ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ الْحَكَمِ الرَّاسِبِيُّ
حَدَّثَنَا الْفَرِيَابِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ :بَزَقَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - فِي ثَوْبِهِ يَعْغِي وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ -
لَفْظُ حَدِيثِ الْفَرِيَابِيِّ ، وَفِي حَدِيثِ قَبِيصَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ -
بَزَقَ فِي ثَوْبِهِ -
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْفَرِيَابِيِّ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاكى كا بيان

باب: آدمى كى تهوك اور بلغم كا حكم

حديث نمبر: 1199

:ترجمہ

(۱۲۰۰) (الف) (سیدنا انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

نماز كى حالت ميں اپنے كپڑے ميں تهوكا۔

(ب) (قبیصہ كى حديث ميں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے كپڑے

ميں تهوكا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on a man's spit and phlegm

Hadith number: 1199

Translation:

(1199) (a) It is narrated from Anas (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) spat in his clothes while praying.

(B) According to the hadith of Qabeesa, the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) spat in his clothes.

[Sahih. Narrated by Bukhari 241]

Sunan Kubra Bayhaqi 1200

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَائِرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو طَائِرٍ الْمُحَمَّدَابَاذِيُّ (١٢٠١)
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا
حُمَيْدُ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - رَأَى
نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِيَدِهِ ، وَرَأَى فِي وَجْهِهِ شِدَّةً
ذَلِكَ عَلَيْهِ وَقَالَ ((: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا صَلَّى فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ فِيمَا بَيْنَهُ
وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، فَإِذَا بَصَقَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ، أَوْ
تَحْتَ قَدَمَيْهِ أَوْ يَفْعَلْ هَكَذَا)) (- ثُمَّ بَرَقَ فِي ثَوْبِهِ وَذَلِكَ
بَعْضُهُ بِبَعْضٍ قَالَ يَزِيدُ وَارَأَا حُمَيْدًا -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان
باب: آدمی کی تھوک اور بلغم کا حکم
حدیث نمبر: 1200

:ترجمہ

(۱۲۰۱) (سیدنا انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مسجد کی جانب تھوک دیکھی تو اس کو اپنے ہاتھ سے کھرچ دیا اور آپ ﷺ نے غصے میں فرمایا " :جب بندہ کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے اور قبلہ کے درمیان اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، جب تم میں سے کوئی تھوکے تو وہ اپنی بائیں جانب یا اپنے قدموں کے نیچے تھوکیا اس طرح کرے پھر آپ ﷺ نے اپنے کپڑے میں تھوکا اور اسے مسل دیا۔ یزید رادی کہتے ہیں کہ حمید نے ہمیں کر کے دکھایا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on a man's spit and phlegm

Hadith number: 1200

Translation:

(1200) It is narrated on the authority of Anas ibn Malik (may Allah be pleased with him) that when the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) saw spit in

the mosque, he scraped it with his hand and he said angrily: When a man stands up and prays, he is speaking in private to his Lord between him and the qibla. When one of you spits, let him spit on his left side or under his foot or do this, then he spat in his clothes and folded it. Yazid Radi says that Hameed did it for us.

[Sahih. Narrated by Bukhari 405, 417 and Muslim 551 and Nasai 310 and Abu Dawud 478 and Ibn Majah 1022 and Ahmad 2/250, 415]

Sunan Kubra Bayhaqi 1201

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ (١٢٠٢)
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ
أَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ أَبِي رَجَائٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: كُنَّا
فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ -... فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي مَزَادَتِي
الْمُشْرَكَةِ قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -بِإِنَائِي فَأَفْرَغَ فِيهِ مِنْ
أَفْوَاهِ الْمَزَادَتَيْنِ أَوْ السَّطِيحَتَيْنِ ، فَمَضَمَضَ فِي الْمَائِ
، وَأَعَادَهُ فِي أَفْوَاهِ الْمَزَادَتَيْنِ أَوْ السَّطِيحَتَيْنِ ، ثُمَّ أَوْكَأَ أَفْوَاهَهُمَا
وَأَطْلَقَ الْعَزَالِيَّ ثُمَّ قَالَ لِلنَّاسِ ((اشْرَبُوا وَاسْتَقُوا)) (- مَخْرَجٌ
فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ عَوْفٍ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: آدمی کی تھوک اور بلغم کا حکم

حدیث نمبر: 1201

ترجمہ:

(۱۲۰۲) (سیدنا عمران بن حصین^{رض} سے روایت ہے کہ ہم ایک سفر میں تھے۔ پھر مشرکہ عورت کے مٹکوں والی لمبی حدیث بیان کی۔ رسول اللہ ﷺ نے برتن منگوا یا، آپ نے مٹکوں کے منہ سے پانی ڈالا، پانی میں کلی کی، پھر اس (پانی کو مٹکوں کے منہ میں ڈال دیا، پھر ان کے منہ بند کر دیے۔ پھر ان مشکیزوں کو چھوڑ دیا، پھر لوگوں سے کہا: خود بھی پیو اور (جانوروں کو بھی) پلاؤ۔"

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on a man's spit and phlegm

Hadith number: 1201

Translation:

(1201) It is narrated from Imran bin Husayn that we were on a journey. Then he narrated a long hadith about the pots of a

polytheistic woman. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) called for a vessel, he poured water from the opening of the pots, rinsed his mouth in the water, then poured (the water) back in the pots from the openings, then closed the openings. Then he left the pots, then said to the people: "Drink, and give water to (the animals) too. [Sahih. Narrated by Bukhari 348 and Nasai 322 and Ahmad 4/334]

Sunan Kubra Bayhaqi 1202

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو بْنُ (١٢٠٣)
السَّمَّكِ حَدَّثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ جَرِيرٍ : أَنَّهُ كَانَ
يَأْمُرُ أَهْلَهُ يَتَوَضَّئُونَ بِفَضْلِ سِوَاكِهِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب : پاکی کا بیان

باب : آدمی کی تھوک اور بلغم کا حکم

حدیث نمبر : 1202

ترجمہ:

(١٢٠٣) حضرت جریر سے روایت ہے کہ وہ اپنے گھر
والوں کو حکم دیتے تھے کہ مسواک کے بچے ہوئے پانی
سے وضو کرو۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on a man's spit and phlegm

Hadith number: 1202

Translation:

(1202) It is narrated from Jarir that he used to order his family to perform ablution with the leftover water of the miswak.

[Hasan (Fair). Narrated by Ibn Abi Shaybah 1817]

Sunan Kubra Bayhaqi 1203

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَثْمَانَ : سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ (١٢٠٤)
عَبْدَانَ وَأَبُو زَكْرِيَّا : يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ
الْحَسَنِ بْنِ أَبِي عَيْسَى الْهَلَالِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ : عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيَّ بْنِ يَعْقُوبَ (ح)
الْإِيَادِيُّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الشَّافِعِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ
الْحَسَنِ الْحَرْبِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغُولٍ عَنْ
سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -
ﷺ فِي جَنَازَةِ أَبِي الدَّحْدَاحِ ، فَلَمَّا رَجَعَ أَتَى بِفَرَسٍ مُعْرُورِي
فَرَكِبَهُ وَمَشِينَا مَعَهُ -
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى

وَاٰخَرُهَا عَنْ وَكَيْعٍ عَنِ مَالِكٍ۔

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاکی کا بیان

باب: چوپایوں کا پسینہ اور لعاب پاک ہے

حدیث نمبر: 1203

:ترجمہ

(۱۲۰۴) (سیدنا جابر بن سمرہ رض سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو دحداح کے جنازے میں نکلے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو آپ کے پاس معروری گھوڑا لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور ہم آپ کے ساتھ پیدل چلے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The sweat and saliva of cattle is pure

Hadith number: 1203

Translation:

(1203) It is narrated on the authority of Jabir bin Samra that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) went out to the funeral of Abu Dahdah (may Allah be pleased with him), when he came back, he was brought an unsaddled horse, he rode on it and we walked with him.

[Sahih. Narrated by Muslim 965 and Nasai 2028 and Abu Dawud 3178 and Tirmidhi 1013 and Ahmad 5/90, 102]

Sunan Kubra Bayhaqi 1204

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدٌ (١٢٠٥)
بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزِيدٍ أَخْبَرَنِي أَبِي
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمٍ وَغَيْرِهِ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ فِي قِصَّةِ ذَكَرَبَا فِي الْحَجِّ قَالَ : وَإِنِّي كُنْتُ تَحْتَ
نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - يَمَسُّنِي لِعَابِهَا أَسْمَعُهُ يُلَبِّي بِالْحَجِّ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب : پاکی کا بیان

باب : چوپایوں کا پسینہ اور لعاب پاک ہے

حدیث نمبر : 1204

:ترجمہ

(۱۲۰۵) (سیدنا ابن عمرؓ) حج کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کی اونٹنی کے (منہ کے) نیچے تھا۔ اس کا لعاب مجھے لگ رہا تھا، میں نے آپ ﷺ کو حج کا تلبیہ کہتے ہوئے سنا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The sweat and saliva of cattle is pure

Hadith number: 1204

Translation:

(1204) Syeduna Ibn Umar (may Allah be pleased with him) narrates a story of Hajj and says that I was under the (mouth) of the camel of the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him). Its saliva was falling on me, I heard the Prophet (peace and blessings of Allah

be upon him) saying the talbiyyah of Hajj.
[Sahih. Narrated by Al-Tabarani in Musnad
al-Shamiyyin 274]

Sunan Kubra Bayhaqi 1205

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَائِرٍ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ (١٢٠٦)
عُمَرَ بْنِ حَفْصِ الزَّائِدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا
الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ
حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَمٍ عَنْ عَمْرِو

بْنِ خَارِجَةَ قَالَ : كُنْتُ أَخِذَا بِزِمَامِ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - وَبِي تَقْصَعُ بِجَرَّتِهَا ، وَلُعَابُهَا يَسِيلُ بَيْنَ كَتْفَيَّْ - وَذَكَرَ الْحَدِيثَ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب : پاکی کا بیان

باب : چوپایوں کا پسینہ اور لعاب پاک ہے

حدیث نمبر : 1205

:ترجمہ

(۱۲۰۶) (سیدنا عمرو بن خارجہ ^{رض} سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کی اونٹنی کی لگام پکڑے ہوئے تھا اور وہ مٹکے سے پانی کے گھونٹ بھر رہی تھی، اس کا لعاب میرے کندھوں کے درمیان گر رہا تھا۔ پھر لمبی حدیث بیان کی۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The sweat and saliva of cattle is pure

Hadith number: 1205

Translation:

(1205) It is narrated on the authority of Amr ibn Kharajah that I was holding the reins of the camel of the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) and it was taking a sip of water from the pot, its saliva was falling between my shoulders...

Then he narrated a long hadith.

[Sahih. Narrated by Nasai 3671 and Tirmidhi 2121 and Ibn Majah 2712 and Ahmad 4/186, 187, 237, 239]

Sunan Kubra Bayhaqi 1206

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ (١٢٠٧)
الْقَطِيعِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ
قَالَ وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ (ح)
سَلَمَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ
أَخْبَرَنِي زِيَادٌ أَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (-) : إِذَا كَانَ
أَحَدُكُمْ نَائِمًا ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَأَرَادَ الْوُضُوءَ ، فَلَا يَضَعُ يَدَهُ فِي
الْإِنَائِ حَتَّى يَصُبَّ عَلَى يَدِهِ ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ (-).

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ -
بَكْرِ وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: تھوڑا پانی نجاست گرنے سے ناپاک ہو جاتا ہے

حدیث نمبر: 1206

:ترجمہ

(۱۲۰۷) (ثابت نے عبد الرحمن بن زید کو خبر دی کہ اس نے سیدنا ابو ہریرہ رضی سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی سویا ہوا ہو، پھر بیدار ہو اور وضو کا ارادہ کرے تو اپنا ہاتھ برتن میں نہ ڈالے جب تک اپنے ہاتھ پر پانی ڈال کر دھونہ لے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A small amount of water becomes impure if impurity falls into it

Hadith number: 1206

Translation:

(1206) Thabit informed Abd al-Rahman ibn Zayd that he heard Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) say that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: "When one of you is asleep, then wakes up and intends to perform ablution, he should not put his hand in the vessel until he has poured water on his hand and washed it, because he does not know where his hand has spent the night."

[Sahih. Narrated by Bukhari 162 and Muslim 278 and Nasai 1, 161, 441 and Abu Dawud 103, 105 and Tirmidhi 24 and Ibn Majah 393 and Malik 2/6 and Ahmad 2/241 and Darimi 793]

Sunan Kubra Bayhaqi 1207

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّيَّ وَأَبُو بَكْرِ (١٢٠٨)
أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ :
بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَخْبَرَنَا
ابْنُ وَهْبٍ
قَالَ وَحَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ قَالَ قَرِئَ عَلَيَّ ابْنِ وَهْبٍ (ح)
أَخْبَرَكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ
أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ -
قَالَ ((إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَائِي أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ

مَرَاتٍ)) (- مُخْرَجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ كَمَا مَضَى -
وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ :وَلَعَّ - مَكَانَ :شَرِبَ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب :پاکی کا بیان

باب :تھوڑا پانی نجاست گرنے سے ناپاک ہو جاتا ہے

حدیث نمبر :1207

:ترجمہ

(۱۲۰۸) (سیدنا ابوہریرہ ^{رض} سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

فرمایا :جب کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال جائے تو وہ اس

کو سات مرتبہ دھوئے۔

(ب (ابن عیینہ نے ابو زناد سے روایت کیا ہے ، اس میں

شرب کی جگہ وَلَعَّ کے الفاظ ہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A small amount of water becomes impure if impurity falls into it
Hadith number: 1207

Translation:

(1207) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: When a dog licks someone's vessel, he should wash it seven times.

(B) Ibn Uyaynah narrated it from Abu Zinad, it contains the word **وَلَعَّ** instead of **شَرِبَ**.

[Sahih. Narrated by Bukhari 172 and Muslim 279 and Nasai 63, 338-340 and Tirmidhi 91 and Ibn Majah 364 and Ahmad 2/245, 265, 271, 314, 360, 398, 424, 427, 460, 480, 482, 508]

Sunan Kubra Bayhaqi 1208

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ (١٢٠٩)
الْفَقِيهُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسَهَّرٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ
عَنْ أَبِي رَزِينٍ وَأَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ ((إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَائِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرْفَهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ
سَبْعَ مَرَّاتٍ))-

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُجْرٍ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: تھوڑا پانی نجاست گرنے سے ناپاک ہو جاتا ہے

حدیث نمبر: 1208

:ترجمہ

(۱۲۰۹) (سیدنا ابوہریرہ رض سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " :جب کتا کسی کے برتن میں منہ ڈال جائے تو اس کو انڈیل دے پھر سات مرتبہ دھو دے۔"

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A small amount of water becomes impure if impurity falls into it

Hadith number: 1208

Translation:

(1208) It is narrated on the authority of

Abu Hurayrah that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: "If a dog licks the vessel of any one of you, let him throw (the contents) away and wash it seven times."

[Sahih. Narrated by Bukhari 172 and Muslim 279 and Nasai 63, 338-340 and Tirmidhi 91 and Ibn Majah 364 and Ahmad 2/245, 265, 271, 314, 360, 398, 424, 427, 460, 480, 482, 508]

Sunan Kubra Bayhaqi 1209

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بَشْرَانَ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ (١٢١٠)
الرَّزَّازُ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ
أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
رَفَعَهُ قَالَ ((لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَائِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ
مِنْهُ))-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: تھوڑا پانی نجاست گرنے سے ناپاک ہو جاتا ہے

حدیث نمبر: 1209

ترجمہ:

(١٢١٠) (سیدنا ابوہریرہؓ مرفوعاً بیان فرماتے ہیں کہ کوئی بھی کھڑے ہوئے پانی میں پیشاب نہ کرے کہ

پھر اس سے غسل کرے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A small amount of water becomes impure if impurity falls into it

Hadith number: 1209

Translation:

(1209) Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) says, in a marfu hadith, that none of you should urinate in standing water, then perform ghusl with it.

[Sahih. Narrated by Ibn Abi Shaybah 1/15]

Sunan Kubra Bayhaqi 1210

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ (١٢١١)
سَلْمَانَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ وَأَحْمَدُ بْنُ حَيَّانَ بْنِ مُلَاعِبٍ
قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرِ السَّهْمِيُّ حَدَّثَنَا بِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنِ
ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي بُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - بِمَعْنَاهُ -
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ بِشَامِ بْنِ حَسَّانَ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: تھوڑا پانی نجاست گرنے سے ناپاک ہو جاتا ہے

حدیث نمبر: 1210

ترجمہ:

(۱۲۱۱) (سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے اسی پچھلی روایت کے ہم معنی نقل فرماتے ہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A small amount of water becomes impure if impurity falls into it

Hadith number: 1210

Translation:

(1210) Syeduna Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) narrates the same hadith as the previous one from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him).
[Sahih. Narrated by Nasai 58]

Sunan Kubra Bayhaqi 1211

Arabic Text:

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ إِمْلايَ حَدَّثَنَا (١٢١٢)
أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقِ
الْخَوْلَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ((: غَطُّوا
، الْإِنَائِ ، وَأَوْكُوا السِّقَايَ ، وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ ، وَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ
فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَحُلُّ سِقَايَ وَلَا يَكْشِفُ إِنَائًا وَلَا يَفْتَحُ
بَابًا)).-

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ وَغَيْرِهِ عَنِ اللَّيْثِ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: تھوڑا پانی نجاست گرنے سے ناپاک ہو جاتا ہے

حدیث نمبر: 1211

:ترجمہ

(۱۲۱۲) (سیدنا جابر بن عبداللہ رض سے روایت ہے کہ رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا " برتن کو ڈھانپو، مشکوں کا منہ بند کرو

دروازے بند رکھو اور چراغ بجھا دو؛ بیشک شیطان مشک

کو نہیں کھول سکتا، نہ برتن کو ہٹا سکتا ہے اور نہ دروازے

دروازے کو کھول سکتا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A small amount of water becomes impure if impurity falls into it

Hadith number: 1211

Translation:

(1211) It is narrated on the authority of Jabir bin Abdullah (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: Cover the vessels and to tie the water-skins, close the doors and turn off the lamps. Verily, Satan cannot untie the water-skins, nor can he remove the (covering of the) vessels, nor can he open the doors.

[Sahih. Narrated by Muslim 2012 and Abu Dawud 3731 and Tirmidhi 2857 and Ahmad 3/355]

Sunan Kubra Bayhaqi 1212

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا (١٢١٣)
إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ
إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بُرَيْرَةَ قَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ -بِتَغْطِيَةِ الْوَضُوءِ وَإِيكَايِ السَّقَايِ وَإِكْفَائِ الْإِنَائِ-.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان

باب: تھوڑا پانی نجاست گرنے سے ناپاک ہو جاتا ہے
حدیث نمبر: 1212

ترجمہ:

(۱۲۱۲) (سیدنا ابوہریرہ ^{رض} سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے وضو کے پانی کو ڈھانپنے کا حکم دیا اور مشکوں کا منہ بند کرنے اور برتن کو ڈھانپنے کا حکم دیا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A small amount of water becomes impure if impurity falls into it

Hadith number: 1212

Translation:

(1212) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) commanded to cover the water used for

ablution and to tie the water-skins and to cover the vessels.

[Sahih. Narrated by Ibn Majah 3411 and Ahmad 2/367 and Darimi 2178]

Sunan Kubra Bayhaqi 1213

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو صَادِقٍ : مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْفَوَارِسِ (١٢١٤)
الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا
الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ
كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قِيلَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ أَنْتَوَضَّأَ مِنْ بُرِّ بُضَاعَةَ؟ قَالَ : وَهِيَ بُرٌّ يُلْقَى
فِيهَا النَّتْنُ وَالْجِيفُ وَالْحَيْضُ وَالْكَلَابُ. فَقَالَ ((: الْمَاءُ طَهُورٌ
لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ)) (-).

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب : پاکی کا بیان

باب : زیادہ پانی نجاست گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا جب تک

تبدیل نہ ہو جائے

حدیث نمبر : 1213

: ترجمہ

(١٢١٤) (سیدنا ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ

سے پوچھا گیا: اے اللہ کے رسول! کیا ہم بضاعہ کے کنویں سے وضو کر لیں اور وہ ایسا کنواں ہے جس میں بدبودار مردار اور حیض کے کپڑے اور (مردہ) کتے پھینکے جاتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "پانی پاک ہوتا ہے اس کو کوئی چیز " ناپاک نہیں کرتی۔"

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A large amount of water does not become impure if impurity falls in it unless it is changed (i.e its color, taste or smell has changed)

Hadith number: 1213

Translation:

(1213) Abu Sa'eed Al-Khudri (may Allah be pleased with him) says that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) was asked: O Messenger of Allah! Shall we perform ablution from the well of

Buda'ah and it is a well into which stinking (things), carrion, menstrual clothes and (dead) dogs are thrown into? He said:

"Water is pure and nothing defiles it."

[Sahih. Narrated by Nasai 327, 328 and Abu Dawud 66, 67 and Tirmidhi 66 and Ahmad 3/15, 16, 31, 86]

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوَدْبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ (١٢١٥)
دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبٍ وَعَبْدُ
الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلْمَةَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَلِيطِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعِ الْأَنْصَارِيِّ ثُمَّ الْعَدَوِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ
قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - وَهُوَ يُقَالُ لَهُ : إِنَّهُ يُسْتَقَى لَكَ مِنْ
بِئْرِ بُضَاعَةَ ، وَبِئْرِ تُلْقَى فِيهَا لُحُومُ الْكِلَابِ وَالْمَحَايِضُ
وَعِذْرُ النَّاسِ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - ((: إِنْ الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ
شَيْءٌ)) -

كَذَا رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمَةَ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ -
وَقِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمَةَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعِ الْأَنْصَارِيِّ ، وَقَالَ يَحْيَى بْنُ وَاصِحٍ عَنْ ابْنِ
إِسْحَاقَ عَنْ سَلِيطِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ كَمَا قَالَ
مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ الْوَيْهِيِّ
وَيُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَلِيطِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ ، وَقِيلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ
إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي

سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ - وَقِيلَ عَنْ سَلِيطٍ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: زیادہ پانی نجاست گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا جب تک

تبدیل نہ ہو جائے

حدیث نمبر: 1214

ترجمہ:

(۱۲۱۵) (سیدنا ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ میں نے

رسول اللہ ﷺ سے سنا، آپ ﷺ سے کہا جاتا تھا کہ آپ کو

بضاعہ کے کنویں سے پانی پلایا جاتا ہے اور اس میں کتوں

کا گوشت، حیض کے کپڑے اور لوگوں کی گندگی پھینکی

جاتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "پانی پاک ہوتا ہے اس

"کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔"

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A large amount of water does not become impure if impurity falls in it unless it is changed (i.e its color, taste or smell has changed)

Hadith number: 1214

Translation:

(1214) Abu Sa'eed al-Khudri (may Allah be pleased with him) says that I heard from the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) that he was told that he was given water to drink from the well in Buda'ah and that dog meat, menstrual clothes and people's filth are thrown into it. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: Water is pure and nothing defiles it.

[Sahih. Narrated by Abu Dawud 67]

Sunan Kubra Bayhaqi 1215

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ : مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْفَضْلِ (١٢١٦)
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
بْنُ غَالِبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ
مُسْلِمٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي نَوْفٍ عَنْ سَلِيطٍ عَنْ
ابْنِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَتَيْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ -
، وَهُوَ يَتَوَضَّأُ مِنْ بُضَاعَةٍ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ تَتَوَضَّأُ مِنْهَا -
- وَيُلْقِي فِيهَا مَا يُلْقِي فِيهَا مِنَ النَّتَنِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -
((إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ)) - . :

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ عَنْ بَشْرِ بْنِ السَّرِيِّ وَغَيْرِهِ عَنْ عَبْدِ
الْعَزِيزِ بْنِ مُسْلِمِ الْقَسْمَلِيِّ -
وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَمَّنْ لَا يُتَّبَعُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعِ الْعَدَوِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: زیادہ پانی نجاست گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا جب تک
تبدیل نہ ہو جائے

حدیث نمبر: 1215

:ترجمہ

(۱۲۱۶) (سیدنا ابوسعید خدری^{رض} اپنے والد سے نقل فرماتے
ہیں کہ میں نبی ﷺ کے پاس آیا اور آپ بضاعہ کے کنوین
!سے وضو کر رہے تھے، میں نے کہا: اے اللہ کے رسول
آپ اس سے وضو کر رہے ہیں، اس میں بدبودار چیزیں
پھینکی جاتیں ہیں؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " :پانی پاک ہوتا
" ہے اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A large amount of water does not become impure if impurity falls in it unless it is changed (i.e its color, taste or smell has changed)

Hadith number: 1215

Translation:

(1215) Abu Sa'eed Al-Khudri (may Allah be pleased with him) narrates from his father that I came to the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) and he was performing ablution from the well of Buda'ah. I said: O Messenger of Allah! Are you performing ablution with it, stinking things are thrown in it? The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: Water is pure and nothing defiles it.

[Sahih. Narrated by Nasai 328]

Sunan Kubra Bayhaqi 1216

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكْرِيَّا : يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ (١٢١٧)
: يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ : أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ
أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ
قَالَ وَحَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ قَالَ قُرِيٌّ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ (ح)
أَخْبَرَكَ ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَمَّنْ لَا يُتَّبَعُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ الْعَدَوِيِّ - وَقَالَ مُحَمَّدٌ : عُبَيْدُ اللَّهِ - عَنْ أَبِي سَعِيدِ

الْخُدْرِيَّ أَنَّهُ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ - : إِنَّكَ تَتَوَضَّأُ مِنْ بِنْرِ
بُضَاعَةَ ، وَبِي يُطْرَحُ فِيهَا مَا يُنَجِّي النَّاسَ وَالْحُومُ الْكِلَابِ
وَالْمَحِيضُ-

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - ((: إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ))-
وَقَدْ رُوِيَ بِذِهِ اللَّفْظَةِ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب : پاکی کا بیان

باب : زیادہ پانی نجاست گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا جب تک

تبدیل نہ ہو جائے

حدیث نمبر : 1216

ترجمہ:

(۱۲۱۷) (سیدنا ابو سعید خدری^{رض} سے روایت ہے کہ رسول اللہ

ﷺ سے کہا گیا : آپ بضاعہ کے کنویں سے وضو کرتے ہیں

اور اس میں ایسی چیزیں پھینکی جاتی ہیں جس سے لوگ

بچتے ہیں یعنی کتوں کا گوشت اور حیض والے کپڑے

وغیرہ۔ آپ ﷺ نے فرمایا " : پانی پاک

ہوتا ہے اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A large amount of water does not become impure if impurity falls in it unless it is changed (i.e its color, taste or smell has changed)

Hadith number: 1216

Translation:

(1216) It is narrated on the authority of Abu Sa'eed Al-Khudri (may Allah be pleased with him) that it was said to the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him): You perform ablution from the well of Buda'ah and things are thrown into it which people avoid i.e dog meat and menstrual clothes etc. He said: Water is pure and nothing

defiles it.

[Sahih. Narrated by Nasai 327]

Sunan Kubra Bayhaqi 1217

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورِكَ أَخْبَرَنَا (١٢١٨)
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الْأَصْبَهَانِيِّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ

حَبِيبٌ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ يَعْنِي ابْنَ الرَّبِيعِ عَنْ طَرِيفٍ
 عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -
 فَأْتَيْنَا عَلَى غَدِيرٍ فِيهِ جِيفَةٌ فَتَوَضَّأَ بَعْضُ الْقَوْمِ وَأَمْسَكَ
 بَعْضُ الْقَوْمِ حَتَّى يَجِيئَ النَّبِيُّ ﷺ - فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ - فِي
 أُخْرِيَاتِ النَّاسِ فَقَالَ: ((تَوَضَّؤُوا وَاشْرَبُوا فَإِنَّ الْمَاءَ لَا
 يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ)) (-).

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: زیادہ پانی نجاست گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا جب تک
 تبدیل نہ ہو جائے
 حدیث نمبر: 1217

:ترجمہ

(۱۲۱۸) (سیدنا ابوسعید رضی سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے۔ ہم کنویں پر آئے، اس میں مردار تھا، بعض لوگوں نے وضو کر لیا اور بعض لوگ رک گئے، وہ نبی ﷺ کے پاس آئے۔ نبی ﷺ لوگوں کے آخر میں آئے اور آپ نے فرمایا " وضو کرو اور پیو پانی کو کوئی

" چیز ناپاک نہیں کرتی۔"

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A large amount of water does not become impure if impurity falls in it unless it is changed (i.e its color, taste or smell has changed)

Hadith number: 1217

Translation:

(1217) It is narrated on the authority of Abu Sa'eed (may Allah be pleased with him) that we were with the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him). We came to a well, there were carrions in it, some people performed ablution (with the water) and some people didn't, they came to the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him). The

Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) came to the people at the end and said: "Perform ablution and drink for nothing defiles water."

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence). Narrated by Al-Tayalisi 1317]

Sunan Kubra Bayhaqi 1218

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْخَلِيلِ أَخْبَرَنَا (١٢١٩)
أَبُو أَحْمَدَ بْنِ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ
الدُّوْلَابِيُّ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ طَرِيفٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ
أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ فَذَكَرَ بِمَعْنَاهُ وَقَالَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - : إِنَّ الْمَاءَ
لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ . قَالَ : فَاسْتَقَيْنَا وَسَقَيْنَا .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الدُّوْلَابِيُّ : طَرِيفٌ هُوَ أَبُو سُفْيَانَ .
قَالَ الشَّيْخُ : وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيِّ إِلَّا أَنِّي أَخْرَجْتُهُ شَابِدًا لِمَا

تَقَدَّمَ .

وَقَدْ قِيلَ عَنْ شَرِيكِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَابِرٍ وَقِيلَ عَنْهُ عَنْ
جَابِرٍ أَوْ أَبِي سَعِيدٍ بِالشَّكِّ وَأَبُو سَعِيدٍ كَأَنَّهُ أَصَحُّ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قِصَّةٌ أُخْرَى فِي مَعْنَاهُ إِنْ كَانَ
رَأَوِيهَا حَفِظَهَا .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: زیادہ پانی نجاست گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا جب تک تبدیل نہ ہو جائے

حدیث نمبر: 1218

ترجمہ:

(۱۲۱۹) (سیدنا ابو سعید خدری^{رض} اسی حدیث کے ہم معنی نقل

فرماتے ہیں اور نبی ﷺ سے نقل فرماتے ہیں کہ پانی کو

کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی، راوی کہتا ہے: ہمیں پانی کی

طلب ہوئی تو ہم نے پانی پیا۔

(ب) ابو جعفر دولابی کہتے ہیں: طریف ابوسفیان ہے۔

(ج) (شیخ کہتے ہیں کہ یہ روایت قوی نہیں، لیکن اس کا شاید

پہلے میں نے بیان کر دیا ہے۔

(د) (ایک قول یہ ہے کہ اس سند کے ساتھ شریک نے سیدنا

جابر^{رض} سے نقل کیا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ سیدنا جابر^{رض} سے

یا ابوسعید^{رض} سے، یعنی شک ہے اور سیدنا ابوسعید سے

روایت کا منقول ہونا زیادہ صحیح ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A large amount of water does not become impure if impurity falls in it unless it is changed (i.e its color, taste or smell has changed)

Hadith number: 1218

Translation:

(1218) Abu Sa'eed Al-Khudri (may Allah be pleased with him) narrates the same hadith and narrates from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) that nothing defiles water, the narrator says: When we were thirsty, we drank.

(B) Abu Ja'far al-Dulabi says: Tarif is Abu Sufyan.

(C) Shaykh says that this tradition is not strong, but maybe I have already narrated

it before.

(D) One view is that Shareek has narrated from Syeduna Jabir (may Allah be pleased with him) with this chain of transmission. There is (another) view that it is narrated from either Syeduna Jabir or Abu Sa'eed, meaning that there is some doubt, and it being narrated from Abu Sa'eed is more authentic.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1219

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ : عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ (١٢٢٠)
قَتَادَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَيُّوبَ
الصَّبَّغِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زِيَادٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ
الْخَطَّابِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَطَائِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ
الْخُدْرِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - سُئِلَ عَنِ الْحِيَاضِ الَّتِي بَيْنَ
مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَقَالُوا : تَرْدُبَا السَّبَاعِ وَالْكِلَابِ وَالْحَمِيرِ - فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - ((مَا فِي بُطُونِهَا لَهَا وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَنَا
طَهُورٌ)) -

بَكْدَا رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ -
وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
عَطَائِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -
وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِأَمثَالِهِ -
وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا وَلَيْسَ
بِمَشْهُورٍ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: زیادہ پانی نجاست گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا جب تک
تبدیل نہ ہو جائے

حدیث نمبر: 1219

:ترجمہ

(۱۲۲۰) (سیدنا ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ سے حوض کے (پانی کے) (متعلق سوال کیا گیا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان تھا۔ انہوں نے کہا: اس پر درندے کتے اور گدھے آئے ہوتے ہیں؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "جو ان کے پیٹوں میں ہے وہ ان کے لیے ہے اور جو باقی بچ گیا وہ " ہمارے لیے پاک ہے۔

(ب) (عبدالرحمن بن زید ضعیف ہے، اس کی احادیث قابل حجت نہیں۔

(ج) (ایک اور سند سے ابن عمرؓ سے مرفوعاً نقل کیا گیا ہے اور یہ مشہور نہیں ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A large amount of water does not become impure if impurity falls in it unless it is changed (i.e its color, taste or smell has changed)

Hadith number: 1219

Translation:

(1219) It is narrated on the authority of Abu Sa'eed Al-Khudri (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) was asked about the (water of the) watering place which was between Makkah and Madinah. They said: Wild dogs and donkeys visit it? The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: What is in their bellies is for them and what is left is pure for us.

(B) Abdul Rahman bin Zayd is weak, his ahadith are not reliable.

(C) It has also been narrated in a marfu hadith from Ibn Umar (may Allah be pleased with him) from another chain of transmission but it is not known.

[Daif (Weak). Narrated by Ibn Majah 519]

Sunan Kubra Bayhaqi 1220

Arabic Text:

: وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ (١٢٢١)
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ
بْنُ بَحْرِ بْنِ بَرِّ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
بْنُ أَبِي يَحْيَى عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدِ
السَّاعِدِيِّ فِي نِسْوَةٍ فَقَالَ: لَوْ أَنِّي أَسْقِيكُمْ مِنْ بُضَاعَةِ
لَكَرِهْتُمْ ذَلِكَ، وَقَدْ وَاللَّهِ سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ -بِيَدِي مِنْهَا-
وَبَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ مَوْصُولٌ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: زیادہ پانی نجاست گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا جب تک

تبدیل نہ ہو جائے

حدیث نمبر: 1220

:ترجمہ

(۱۲۲۱) محمد بن یحییٰ اپنی والدہ سے نقل فرماتے ہیں کہ میں سہل بن سعد ساعدیؓ کے پاس آئی، وہ عورتوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا: اگر میں تم کو بضاعہ سے اپلاؤں تو تم اس کو ناپسند سمجھو گے حالانکہ اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ ﷺ کو (اس کنویں سے) اپنے ہاتھ سے پانی پلایا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A large amount of water does not become impure if impurity falls in it unless it is changed (i.e its color, taste or smell has changed)

Hadith number: 1220

Translation:

(1220) Muhammad ibn Yahya narrates from his mother that I came to Sahl ibn

Sa'd Sa'di, he was sitting among the women. She said: If I were to give you water to drink from the well of Buda'ah, you would dislike it, even though by Allah! I have given water (from that well) to the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) with my own hand.

[Hasan (Fair). Narrated by Abu Yala 7519]

Sunan Kubra Bayhaqi 1221

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ :يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (١٢٢٢)
الإِسْفَرَائِنِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرِ الْبَرْبَهَارِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ
مُوسَى حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ
عِكْرِمَةَ :أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَدَ حَوْضَ مَجَنَّةَ فَقِيلَ :يَا
أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّمَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِيهِ أَنْفًا. فَقَالَ :إِنَّمَا وَلَغَ
الْكَلْبُ بِلِسَانِهِ. فَشَرِبَ وَتَوَضَّأَ.
وَرُوِيَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ قَالَ :قَدْ ذَبَبْتُ
بِمَا وَلَغَتْ. يَعْنِي الْكِلَابَ فِي بُطُونِهَا.
وَهَذِهِ قِصَّةٌ مَشْهُورَةٌ عَنْ عُمَرَ وَإِنْ كَانَتْ مَرْسَلَةً ، وَقَدْ
رَوَيْنَا فِي مَعْنَاهَا عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ
عُمَرَ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
کتاب :پاکی کا بیان

باب: زیادہ پانی نجاست گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا جب تک
تبدیل نہ ہو جائے
حدیث نمبر: 1221

:ترجمہ

(۱۲۲۲) (سیدنا عکرمہ ^{رض} سے روایت ہے کہ سیدنا عمر ^{رض} مجنہ
کے حوض کے پاس آئے۔ عرض کیا گیا: اے امیر المومنین!
:ابھی ابھی کتے نے اس میں منہ ڈالا ہے تو انہوں نے کہا
کتا اپنی زبان سے پیتا ہے۔ پھر انہوں نے (پانی (پیا اور
وضو کیا۔

(ب) (سیدنا عکرمہ ^{رض} سے یہی قصہ منقول ہے۔ اس میں ہے کہ
وہ چلا گیا جس میں اس نے منہ ڈالا۔ یعنی کتے وہ پانی اپنے
پیٹوں میں لے گئے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A large amount of water does not
become impure if impurity falls in it unless it
is changed (i.e its color, taste or smell has
changed)

Hadith number: 1221

Translation:

(1221) It is narrated from Ikrimah that Umar (may Allah be pleased with him) came to the watering place of Majna. It was said: O Amir al-Mu'minin! Just now a dog has put his mouth in it (licked it), he said: The dog drinks with its tongue. Then he drank (the water) and performed ablution.

(B) The same story is narrated from Syeduna Ikrimah. In that is that 'what he licked is gone' That is, the dog carried the water away in his stomach.

[Daif (Weak). Narrated by AbdulRazzaq 249]

Sunan Kubra Bayhaqi 1222

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْإِسْفَرَائِينِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَحْرٍ حَدَّثَنَا (١٢٢٣)
بِشْرِ بْنِ مُوسَى حَدَّثَنَا الْحَمِيدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مَنْبُودٌ عَنْ
أُمِّهِ قَالَتْ: كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ مَيْمُونَةَ فَتَمُرُّ بِالْغَدِيرِ فِيهِ الْبَعْرُ
وَالْجُعْلَانُ، فَتَشْرَبُ مِنْهُ أَوْ تَوْضَأُ بِهِ. قَالَ سُفْيَانُ: وَبَذَا لَيْسَ
بِشَكِّ، إِنَّمَا أَرَادَ تَشْرَبُ إِنْ أَرَادَتْ أَوْ تَوْضَأُ إِنْ أَرَادَتْ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان

باب: زیادہ پانی نجاست گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا جب تک
تبدیل نہ ہو جائے
حدیث نمبر: 1222

:ترجمہ

(۱۲۲۳) (منبوذ اپنے والدہ سے نقل فرماتے ہیں کہ ہم میمونہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ وہ کنویں کے پاس سے گزریں اس میں اونٹ کا گوبر اور کیڑے تھے تو انہوں نے اس سے پیا اور وضو کیا۔ سفیان کہتے ہیں: اس میں شک نہیں ہے انہوں نے پینے کا ارادہ کیا تو پیا اور جب وضو کا ارادہ کیا تو وضو کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A large amount of water does not become impure if impurity falls in it unless it is changed (i.e its color, taste or smell has changed)

Hadith number: 1222

Translation:

(1222) Manbuz narrates from his mother that we were traveling with Maimuna (may Allah be pleased with her). They passed by a well, which contained camel dung and insects, so they drank from it and performed ablution (with it). Sufyan says: There is no doubt that they drank when they intended to drink and performed ablution when they intended to. [Daif (Weak). Narrated by Ibn Abi Shaybah 1510]

Sunan Kubra Bayhaqi 1223

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ (١٢٢٤)
عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا
الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا بِشَيْمٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي بِنْدٍ قَالَ
سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ كُلُّهُ لَا
يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ-

وَزَادَ ابْنُ عُثَيْمٍ عَنْ دَاوُدَ عَنْ سَعِيدٍ: سَأَلْنَاهُ عَنِ الْحِيَاضِ
تَلَعُ فِيهَا الْكِلَابُ قَالَ: أَنْزَلَ الْمَاءُ طَهُورًا لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: زیادہ پانی نجاست گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا جب

تک تبدیل نہ ہو جائے

حدیث نمبر: 1223

ترجمہ:

(الف) (۱۲۲۴) (داؤد بن ابی ہند فرماتے ہیں کہ میں نے سعید بن مسیب سے سنا کہ تمام پانی پاک ہے، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔

(ب) (سعید بن مسیب ہی سے منقول ہے کہ ہم نے ان سے ان حوضوں کے متعلق پوچھا جن میں کتے پانی پیتے ہیں۔ انہوں نے کہا: پانی پاک اتارا گیا ہے اور اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A large amount of water does not become impure if impurity falls in it unless it is changed (i.e its color, taste or smell has changed)

Hadith number: 1223

Translation:

(1223) (a) Dawud bin Abi Hind says that I heard from Saeed bin Musaib that all water is pure, nothing makes it impure.

(B) It is narrated from Saeed bin Musaib that we asked him about those watering places from which the dogs drink water from. He said: Water was sent pure and nothing defiles it.

[Sahih. Narrated by Al-Daraqutni 1/29]

Sunan Kubra Bayhaqi 1224

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ (١٢٢٥)
بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ
حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ فِي
الْغَدِيرِ تَقَعُ فِيهِ الدَّابَّةُ فَتَمُوتُ قَالَ: الْمَاءُ طَهُورٌ مَا لَمْ يَقْلَّ
فَتُنَجِّسُهُ الْمَيْتَةُ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَهُ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاکی کا بیان

باب: زیادہ پانی نجاست گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا جب تک

تبدیل نہ ہو جائے

حدیث نمبر: 1224

:ترجمہ

(۱۲۲۵) امام زہری اس کنویں کے متعلق بیان کرتے ہیں جس میں چوپائے گر جانے کے بعد مرجاتے ہیں کہ پانی پاک ہے جب تک کم نہ ہو، پھر مردار اس کے ذائقے اور بو کو ناپاک کر دیتا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A large amount of water does not become impure if impurity falls in it unless it is changed (i.e its color, taste or smell has changed)

Hadith number: 1224

Translation:

(1224) Imam Zuhri (may Allah have mercy on him) narrates about the well in which cattle fall in and die, that the water is pure until it is less in quantity, then the corpse defiles its taste and smell.

[Hasan (Fair)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1225

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَائِرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو (١٢٢٦)
بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا
مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا رِشْدِينُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ
صَالِحٍ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَابِلِيِّ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((- : الْمَائُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَيْهِ
طَعْمِهِ أَوْ رِيحِهِ))-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: زیادہ پانی ناپاک ہے اگر نجاست اسے تبدیل کر دے

حدیث نمبر: 1225

:ترجمہ

(۱۲۲۶) (سیدنا ابو امامہ باہلی^{رض} سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی، مگر جب اس کے ذائقے اور بوپر غالب آجائے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A large amount of water becomes impure if the impurity changes it (the water's) characteristics

Hadith number: 1225

Translation:

(1225) It is narrated on the authority of Abu Umamah Bahili that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: Nothing defiles water, except when its taste and smell prevail (over the smell and taste of water).

[Daif (Weak). Narrated by Ibn Majah 521]

Sunan Kubra Bayhaqi 1226

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ (١٢٢٧)
الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ
مِثْلَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - قَالَ ((إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ
إِلَّا مَا غَلَبَهُ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ)) (- كَذَا وَجَدْتُهُ وَلَفْظُ الْقُلَّتَيْنِ فِيهِ
غَرِيبٌ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: زیادہ پانی ناپاک ہے اگر نجاست اسے تبدیل کر دے

حدیث نمبر: 1226

ترجمہ:

(١٢٢٧) (ابو ازہر نے اپنی سند سے پچھلی حدیث کی طرح
نقل کیا ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا " : جب پانی دو

مٹکے ہو تو اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی مگر جو اس کے ذائقے اور بوپر غالب آجائے۔"

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A large amount of water becomes impure if the impurity changes it (the water's) characteristics

Hadith number: 1226

Translation:

(1226) Abu Azhar has narrated from his chain of transmission like the previous hadith that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "When the amount of water is equal to two pots, nothing defiles it except when its taste and smell prevail (over the smell and taste of water)."

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1227

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا (١٢٢٨)
الشَّامَاتِيُّ حَدَّثَنَا عَطِيَّةُ بْنُ بَقِيَّةَ بْنِ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ثَوْرِ
بْنِ يَزِيدَ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -
((قَالَ)): إِنَّ الْمَاءَ طَابِرٌ إِلَّا أَنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ -
بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ ((-)).

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: زیادہ پانی ناپاک ہے اگر نجاست اسے تبدیل کر دے

حدیث نمبر: 1227

:ترجمہ

(۱۲۲۸) (سیدنا ابو امامہ باہلی^{رض} سے منقول ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا " پانی پاک ہیجبت تک اس کی بو، ذائقہ یا رنگ نجاست گرنے سے تبدیل نہ ہو جائے۔ "

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A large amount of water becomes impure if the impurity changes it (the water's) characteristics

Hadith number: 1227

Translation:

(1227) It is narrated on the authority of Abu Umamah Baihli that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "Water is pure until the impurity fallen into it doesn't change its smell, taste or color."

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1228

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ (١٢٢٩)
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرِ بْنِ يَوْسُفَ الدِّمَشْقِيِّ بِدِمَشْقَ
حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ
حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((: الْمَائُ لَا يَنْجُسُ إِلَّا مَا غَيَّرَ رِيحَهُ أَوْ
طَعْمَهُ))-

وَرَوَاهُ عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَخْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ رَاشِدِ
بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -مُرْسَلًا- وَرَوَاهُ أَبُو أُسَامَةَ عَنِ
الْأَخْوَصِ عَنِ أَبِي عَوْنٍ وَرَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ مِنْ قَوْلِهِمَا. وَالْحَدِيثُ
غَيْرُ قَوِيٍّ-

إِلَّا أَنَّا لَا نَعْلَمُ فِي نَجَاسَةِ الْمَائِ إِذَا تَغَيَّرَ بِالنَّجَاسَةِ خِلَافًا
وَاللَّهُ أَعْلَمُ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: زیادہ پانی ناپاک ہے اگر نجاست اسے تبدیل کر دے

حدیث نمبر: 1228

:ترجمہ

(۱۲۲۹) (سیدنا ابو امامہ ^{رض} فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " :پانی ناپاک نہیں ہوتا جب تک اس کی بو اور ذائقہ تبدیل نہ ہو۔"

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A large amount of water becomes impure if the impurity changes it (the water's) characteristics

Hadith number: 1228

Translation:

(1228) Abu Umamah (may Allah be pleased with him) says that the Messenger

of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: "Water does not become impure until its smell and taste doesn't change."

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1229

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ (١٢٣٠)
بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: وَمَا قُلْتُ مِنْ
أَنَّهُ إِذَا تَغَيَّرَ طَعْمُ الْمَائِ وَرِيحُهُ وَلَوْنُهُ كَانَ نَجَسًا يُرْوَى
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - مِنْ وَجْهِ لَا يُثْبِتُ أَهْلُ الْحَدِيثِ مِثْلَهُ ، وَهُوَ قَوْلُ
الْعَامَّةِ لَا أَعْلَمُ بَيْنَهُمْ فِيهِ خِلَافًا.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: زیادہ پانی ناپاک ہے اگر نجاست اسے تبدیل کر دے

حدیث نمبر: 1229

ترجمہ:

(، ۱۲۳۰) (امام شافعی) رح (فرماتے ہیں کہ جب پانی کا ذائقہ

ہو اور رنگ تبدیل ہو جائے تو وہ ناپاک ہوگا والی

روایت ایسی سند سے منقول ہے جو محدثین کے ہاں ثابت نہیں۔ یہی جمہور کا قول ہے۔ مجھے ان کے اختلاف کا علم نہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A large amount of water becomes impure if the impurity changes it (the water's) characteristics

Hadith number: 1229

Translation:

(1229) Imam Shafi'i (may Allah have mercy on him) says that the hadith that says that when the taste, smell and color of water changes, it becomes impure, is narrated from an isnad (chain of transmission) which is not proven (to be authentic) according to the muhadditheen. This is the view of the majority. I am not aware of any

difference of opinion between them
(concerning this matter).

Sunan Kubra Bayhaqi 1230

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو (١٢٣١)
وَأَبُو صَادِقٍ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْفَوَارِسِ الْعَطَّارُ قَالُوا
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ
بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ يَعْنِي ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ

اللّٰهُ - ﷺ - عَنِ الْمَائِ وَمَا يُنُوبُهُ مِنَ السَّبَّاحِ وَالذَّوَابِّ فَقَالَ)) : إِذَا
كَانَ الْمَائِ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ)) (-
وَبَكَّدَا رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَجَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي
أَسَامَةَ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: کم پانی کے درمیان فرق جو ناپاک ہوتا ہے اور زیادہ
کے درمیان جو ناپاک نہیں ہوتا جب تک وہ تبدیل نہ ہو

حدیث نمبر: 1230

:ترجمہ

(۱۲۳۱) عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمرؓ اپنے والد سے نقل

فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے اس پانی کے متعلق سوال

کیا گیا جس پر درندے اور چوپائے آتے ہیں۔ آپ ﷺ نے

فرمایا " :جب پانی دو مٹکے ہو تو وہ گندگی نہیں اٹھاتا (یعنی

" ناپاک نہیں ہوتا)۔"

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The difference between a small amount of water which becomes impure (when impurity falls into it) and a large amount of water which does not become impure until its characteristics have changed
Hadith number: 1230

Translation:

(1230) Ubaidullah ibn Abdullah ibn Umar narrates from his father that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) was asked about the water which beasts and cattle visit. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: When the amount of water is enough to fill two pots, it bears no impurity (i.e it does not become impure).

[Sahih. Narrated by Nasai 52, 329 and Abu Dawud 63 and Tirmidhi 67 and Ibn Majah 517, 518 and Darimi 758]

Sunan Kubra Bayhaqi 1231

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (١٢٣٢)
الْإِسْفَرَائِينِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَحْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ كَوْثَرَ

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ : حَمَّادُ
بْنُ أُسَامَةَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ
جَعْفَرِ الْمَخْزُومِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - قَالَ ((إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلْتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ
خَبْتًا)) -

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ وَجَمَاعَةٌ عَنْ
أَبِي أُسَامَةَ -

: وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ
عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الدَّارِقُطِيُّ الْحَافِظُ فِي هَاتَيْنِ الرَّوَايَتَيْنِ : فَلَمَّا
اخْتَلَفَ عَلَى أَبِي أُسَامَةَ فِي إِسْنَادِهِ أَحْبَبْنَا أَنْ نَعْلَمَ مَنْ أَتَى
بِالصَّوَابِ ، فَنَظَرْنَا فِي ذَلِكَ فَإِذَا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ قَدْ رَوَاهُ
عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَلَى الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا
فَصَحَّ الْقَوْلَانِ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ ، وَصَحَّ أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَ كَثِيرٍ رَوَاهُ ،
عَنْهُمَا جَمِيعًا ، فَكَانَ أَبُو أُسَامَةَ مَرَّةً يُحَدِّثُ بِهِ عَنِ الْوَلِيدِ
بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَمَرَّةً يُحَدِّثُ بِهِ عَنِ
الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: کم پانی کے درمیان فرق جو ناپاک ہوتا ہے اور زیادہ کے درمیان جو ناپاک نہیں ہوتا جب تک وہ تبدیل نہ ہو

حدیث نمبر: 1231

:ترجمہ

(۱۲۳۲) عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمرؓ اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب پانی دو مٹکے ہو تو وہ گندگی نہیں اٹھاتا (یعنی ناپاک نہیں ہوتا)۔
ب (امام دارقطنی ان دونوں روایات کے متعلق کہتے ہیں کہ جب سند میں علی بن اسامہ پر اختلاف ہے تو ہمیں خواہش ہوئی کہ یہ جانیں کہ درست کیا ہے؟ غور کرنے سے معلوم ہوا کہ شعیب بن ایوب نے دونوں سندوں میں ابو اسامہ ولید بن کثیر سے روایت کیا ہے تو ابو اسامہ سے دونوں قول صحیح ثابت ہیں۔ ولید بن کثیر بھی دونوں سے نقل کرتا ہے۔
ابو اسامہ کبھی ولید بن کثیر عن محمد بن جعفر بن زبیر بیان کرتا ہے اور کبھی ولید عن محمد بن عباد بن جعفر بیان کرتا ہے۔ واللہ اعلم

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The difference between a small amount of water which becomes impure (when impurity falls into it) and a large amount of water which does not become impure until its characteristics have changed

Hadith number: 1231

Translation:

(1231) Ubaidullah ibn Abdullah ibn Umar narrates from his father that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: When the amount of water is enough to fill two pots, it bears no impurity (i.e it does not become impure).

(B) Imam Daraqutni says about these two traditions that when there was a difference of opinion about Ali ibn Osama in the chain of transmission, we wanted to know what is the correct opinion? Upon reflection, it is clear that Shoaib ibn Ayyub has narrated from Abu Usama Waleed ibn Katheer in both the chains of transmission, so both narrations from Abu Usama have been proven to be authentic. Walid ibn Katheer also narrates from both. Abu Usama sometimes narrates Walid ibn Katheer on the authority of Muhammad ibn Ja'far ibn Zubayr and sometimes Walid narrates on the authority of Muhammad ibn Ibad ibn Ja'far. Allah knows best.

[Sahih. Narrated by Nasai 52, 329 and Abu Dawud 63 and Tirmidhi 67 and Ibn Majah 517, 518 and Darimi 758]

Sunan Kubra Bayhaqi 1232

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ الْحَارِثِ (١٢٣٣)
الْفَقِيهُ قَالَا أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ
بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ سَعْدَانَ الصَّيْدَلَانِيُّ بِوَاسِطِ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ
أَيُّوبَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ -

سُئِلَ عَنِ الْمَائِ وَمَا يَنْوِبُهُ مِنَ السَّبَاعِ وَالذَّوَابِّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -
ﷺ - ((: إِذَا كَانَ الْمَائُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ)) (-).

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: کم پانی کے درمیان فرق جو ناپاک ہوتا ہے اور زیادہ
کے درمیان جو ناپاک نہیں ہوتا جب تک وہ تبدیل نہ ہو

حدیث نمبر: 1232

:ترجمہ

(۱۲۳۳) عبید اللہ بن عبداللہ بن عمرؓ اپنے والد سے نقل

فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے پانی کے متعلق سوال کیا

گیا جس پر درندے اور چوپائے آتے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا:

جب پانی دو مٹکے ہو تو وہ گندگی نہیں اٹھاتا (یعنی ناپاک "

" نہیں ہوتا)۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The difference between a small amount of water which becomes impure (when impurity falls into it) and a large amount of water which does not become impure until its characteristics have changed
Hadith number: 1232

Translation:

(1232) Ubaidullah ibn Abdullah ibn Umar narrates from his father that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) was asked about water which beasts and cattle visit. He said: When the amount of water is enough to fill two pots, it bears no impurity (i.e it does not become impure).

[Sahih. Narrated by Nasai 52, 329 and Abu Dawud 63 and Tirmidhi 67 and Ibn Majah

517, 518 and Darimi 758]

Sunan Kubra Bayhaqi 1233

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبُو بَكْرِ قَالَا أَخْبَرَنَا عَلِيُّ (١٢٣٤)
حَدَّثَنَا ابْنُ سَعْدَانَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا أَبُو اسَامَةَ عَنِ
الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - مِثْلُهُ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: کم پانی کے درمیان فرق جو ناپاک ہوتا ہے اور زیادہ کے درمیان جو ناپاک نہیں ہوتا جب تک وہ تبدیل نہ ہو

حدیث نمبر: 1233

:ترجمہ

(۱۲۳۴) (عبداللہ بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنے والد سے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح نقل فرماتے ہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The difference between a small amount of water which becomes impure (when impurity falls into it) and a large amount of water which does not become

impure until its characteristics have changed

Hadith number: 1233

Translation:

(1233) Abdullah ibn Abdullah ibn Umar narrates from his father and he narrates from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) in the same way.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1234

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنِي أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدٌ (١٢٣٥)
بْنُ عَلِيٍّ الْإِسْفَرَائِينِيُّ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ وَأَنَا سَأَلْتُهُ حَدَّثَنَا
عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبَشَّرِ الْوَاسِطِيِّ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ
بْنِ الزُّبَيْرِ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - عَنِ الْمَاءِ
فَذَكَرَهُ بِمِثْلِهِ -

وَقَدْ رُوِيَ فِي إِحْدَى الرَّوَايَتَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ أَبِي
أُسَامَةَ كَمَا رَوَاهُ الْعَامِرِيُّ ، وَفِي الْأُخْرَى كَمَا رَوَاهُ
الْحُمَيْدِيُّ ، وَفِي إِحْدَى الرَّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ
الْحَارِثِيِّ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ كَمَا رَوَاهُ الْعَامِرِيُّ وَفِي الْأُخْرَى
كَمَا رَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ وَفِي كُلِّ ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى صِحَّةِ الرَّوَايَتَيْنِ
جَمِيعًا -

أَمَّا الرَّوَايَةُ الْأُولَى عَنْ عُثْمَانَ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: کم پانی کے درمیان فرق جو ناپاک ہوتا ہے اور زیادہ کے درمیان جو ناپاک نہیں ہوتا جب تک وہ تبدیل نہ ہو

حدیث نمبر: 1234

:ترجمہ

(۱۲۳۵) عبید اللہ بن عبداللہ بن عمرؓ اپنی والد سے نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے پانی کے متعلق سوال کیا گیا۔۔۔ انہوں نے اس (پچھلی حدیث) کی طرح بیان کیا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The difference between a small amount of water which becomes impure (when impurity falls into it) and a large amount of water which does not become

impure until its characteristics have changed

Hadith number: 1234

Translation:

(1234) Ubaidullah ibn Abdullah ibn Umar narrates from his father that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) was asked about the water.... He has narrated it like the (previous hadith).

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1235

Arabic Text:

فَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ (١٢٣٦)
بْنِ مُوسَى حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُثْمَانُ ابْنَا
أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدٍ
بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ... فَذَكَرَهُ.
وَأَمَّا الرَّوَايَةُ الْأُخْرَى عَنْهُ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: کم پانی کے درمیان فرق جو ناپاک ہوتا ہے اور زیادہ
کے درمیان جو ناپاک نہیں ہوتا جب تک وہ تبدیل نہ ہو

حدیث نمبر: 1235

:ترجمہ

(۱۲۳۶) محمد بن جعفر بن زبیر۔۔۔ نے اس کو بیان کیا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The difference between a small amount of water which becomes impure (when impurity falls into it) and a large

amount of water which does not become impure until its characteristics have changed

Hadith number: 1235

Translation:

(1235) Muhammad bin Jafar bin Zubair... has narrated it.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1236

Arabic Text:

فَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوَدْبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ (١٢٣٧)
دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو
أَسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ -
وَأَمَّا الرَّوَايَةُ الْأُولَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاكى كا بيان

باب: كم پانى كے درميان فرق جو ناپاك ہوتا ہے اور زيادہ
كے درميان جو ناپاك نہيں ہوتا جب تك وہ تبديل نہ ہو

حديث نمبر: 1236

:ترجمہ

(۱۲۳۷ پہلى روايت احمد بن عبد الحميد سے ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The difference between a small
amount of water which becomes impure

(when impurity falls into it) and a large

amount of water which does not become

impure until its characteristics have changed

Hadith number: 1236

Translation:

(1236) The first narration is from Ahmad bin Abdul Hameed.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1237

Arabic Text:

فَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي (١٢٣٨)
عَمْرٍو قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا
أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ
الْوَلِيدِ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ... فَذَكَرَهُ.
وَأَمَّا الرَّوَايَةُ الْأُخْرَى.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: کم پانی کے درمیان فرق جو ناپاک ہوتا ہے اور زیادہ
کے درمیان جو ناپاک نہیں ہوتا جب تک وہ تبدیل نہ ہو

حدیث نمبر: 1237

:ترجمہ

(١٢٣٨) محمد بن جعفر بن زبیر۔۔۔ نے اس کو بیان کیا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The difference between a small amount of water which becomes impure (when impurity falls into it) and a large amount of water which does not become impure until its characteristics have changed

Hadith number: 1237

Translation:

(1237) Muhammad bin Jafar bin Zubair... has narrated it.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1238

Arabic Text:

فَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ (١٢٣٩)
الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ
عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو سَامَةَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ... فَذَكَرَهُ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: کم پانی کے درمیان فرق جو ناپاک ہوتا ہے اور زیادہ
کے درمیان جو ناپاک نہیں ہوتا جب تک وہ تبدیل نہ ہو

حدیث نمبر: 1238

ترجمہ:

(۱۲۳۹) محمد بن عباد بن جعفر... نے بیان کیا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The difference between a small amount of water which becomes impure (when impurity falls into it) and a large amount of water which does not become impure until its characteristics have changed
Hadith number: 1238

Translation:

(1238) Muhammad bin Abbad bin Jafar... has narrated it.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1239

Arabic Text:

وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ (١٢٤٠)
جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَنَا
أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ
الطُّوسِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ مُنِيبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ إِسْحَاقَ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: کم پانی کے درمیان فرق جو ناپاک ہوتا ہے اور زیادہ
کے درمیان جو ناپاک نہیں ہوتا جب تک وہ تبدیل نہ ہو

حدیث نمبر: 1239

:ترجمہ

(۱۲۴۰) جریر محمد بن اسحاق سے بیان کرتے ہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The difference between a small
amount of water which becomes impure
(when impurity falls into it) and a large

amount of water which does not become
impure until its characteristics have changed

Hadith number: 1239

Translation:

(1239) Jarir narrates from Muhammad ibn Ishaq.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1240

Arabic Text:

: وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ (۱۲۴۱)
 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ الْحِمَاصِيُّ
 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ الْوَيْهِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ
 مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
 عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - ﷺ - وَسُئِلَ عَنِ الْمَائِ
 يَكُونُ بِأَرْضِ الْفَلَاةِ وَمَا يَنْوِبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ - ﷺ - ((: إِذَا كَانَ الْمَائُ قَدَرَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ)) (-)
 لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظِ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ
 الزُّبَيْرِيُّ وَزَائِدَةُ بْنُ قُدَّامَةَ وَجَمَاعَةٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: کم پانی کے درمیان فرق جو ناپاک ہوتا ہے اور زیادہ
 کے درمیان جو ناپاک نہیں ہوتا جب تک وہ تبدیل نہ ہو

حدیث نمبر: 1240

:ترجمہ

(۱۲۴۱) (ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ سے پانی کے متعلق سوال کیا گیا جو وسیع میدان میں ہو اور اس پر چوپائے اور درندے آتے ہیں تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " : جب پانی دو مٹکوں کی مقدار کے برابر ہو تو وہ گندگی نہیں اٹھاتا) یعنی ناپاک نہیں ہوتا۔-

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The difference between a small amount of water which becomes impure (when impurity falls into it) and a large

amount of water which does not become impure until its characteristics have changed

Hadith number: 1240

Translation:

(1240) Ibn Umar (may Allah be pleased with him) says that when the Prophet

(peace and blessings of Allah be upon him) was asked about water which is in a wide field and cattle and beasts visit it, the Messenger of Allaah (peace and blessings of Allah be upon him) said: "When the amount of water is enough to fill two pots, it bears no impurity (i.e it does not become impure)."

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence). Narrated by Hakim]

Sunan Kubra Bayhaqi 1241

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ رَجَائٍ (١٢٤٢)
الْأَدِيبُ مِنْ أَصْلِ سَمَاعٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ
بَالُوَيْهِ إِمْلَائِيَّ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ الصَّقْرِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ
بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَائِشَةَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - سئِلَ عَنِ الْمَائِ يَكُونُ
فِي الْفَلَاةِ وَتَرِدُهُ السِّبَاعُ وَالْكِلابُ قَالَ ((إِذَا كَانَ الْمَائِ قُلَّتَيْنِ
لَا يَحْمِلُ الْخَبَثَ)) -

كَذَا قَالَ ((: الْكِلابُ وَالسِّبَاعُ)) (وَهُوَ غَرِيبٌ.
وَكَذَلِكَ قَالَهُ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَقَالَ
إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ: الْكِلابُ
وَالدَّوَابُّ. إِلَّا أَنَّ ابْنَ عِيَّاشٍ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ فِي إِسْنَادِهِ.
وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ
الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ
أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - وَفِيهِ قُوَّةٌ لِرِوَايَةِ ابْنِ إِسْحَاقَ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: کم پانی کے درمیان فرق جو ناپاک ہوتا ہے اور زیادہ کے درمیان جو ناپاک نہیں ہوتا جب تک وہ تبدیل نہ ہو

حدیث نمبر: 1241

:ترجمہ

(۱۲۴۲) عبید اللہ بن عبداللہ بن عمرؓ اپنی والد سے نقل فرماتے

ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے (اس (پانی کے متعلق سوال کیا گیا

جو پانی وسیع میدان میں ہوتا ہے جس پر درندے اور کتے

آتے ہیں تو آپ ﷺ نے فرمایا " :جب پانی دو مٹکے ہو تو وہ

" گندگی نہیں اٹھاتا (یعنی ناپاک نہیں ہوتا)۔

(ب) (اسی طرح دوسری روایت میں ہے " :کتے اور درندے

اور یہ روایت غریب ہے۔ "

(ج) (محمد بن اسحاق فرماتے ہیں: کتے اور چوپائے۔ اس کی

سند میں ابن عیاش کے متعلق اختلاف ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The difference between a small amount of water which becomes impure (when impurity falls into it) and a large amount of water which does not become impure until its characteristics have changed

Hadith number: 1241

Translation:

(1241) Ubaidullah ibn Abdullah ibn Umar narrates from his father that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) was asked about water which is in a wide field which beasts and dogs visit so he said: "When the amount of water is enough to fill two pots, it bears no impurity (i.e it does not become

impure)."

(B) Similarly it says in a second narration: "Dogs and beasts" and this narration is Gharib (Strange).

(C) Muhammad ibn Ishaq says: Dogs and cattle. There is a difference of opinion regarding Ibn Ayyash in its sanad (chain of transmission).

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1242

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوَدْبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ (١٢٤٣)
دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ
حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ((إِذَا كَانَ الْمَاءُ
قُلَّتَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَنْجُسُ)) (-)

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ بَشْرُ بْنُ السَّرِيِّ وَيَعْقُوبُ الْحَضْرَمِيُّ
وَالْعَلَاءِيُّ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْمَكِّيُّ وَعَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ وَأَبُو دَاوُدَ
الطَّيَالِسِيُّ عَنْ حَمَّادٍ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: کم پانی کے درمیان فرق جو ناپاک ہوتا ہے اور زیادہ
کے درمیان جو ناپاک نہیں ہوتا جب تک وہ تبدیل نہ ہو

حدیث نمبر: 1242

ترجمہ:

(۱۲۴۳) عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں کہ مجھے "میرے باپ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "جب پانی دو مٹکے ہو تو وہ ناپاک نہیں ہوتا۔"

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The difference between a small

amount of water which becomes impure

(when impurity falls into it) and a large

amount of water which does not become

impure until its characteristics have changed

Hadith number: 1242

Translation:

(1242) Ubaidullah ibn Abdullah ibn Umar

says that my father narrated to me that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: "When the amount of water is enough to fill two pots, it does not become impure."

[Sahih. Narrated by Abu Dawud 65]

Sunan Kubra Bayhaqi 1243

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ (١٢٤٤)
الْفَقِيهُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ وَهُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ
بْنُ سَلَمَةَ-

عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بُسْتَانًا فِيهِ مَقْرَى مَائٍ فِيهِ جِلْدُ بَعِيرٍ مَيِّتٍ
فَتَوَضَّأَ مِنْهُ فَقُلْتُ: أَتَتَوَضَّأُ مِنْهُ وَفِيهِ جِلْدُ بَعِيرٍ مَيِّتٍ؟
فَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَ: إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ
قَدْرَ قُلَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ كَذَا قَالَ أَوْ ثَلَاثٍ -
وَكَذَلِكَ قَالَهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَكَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ ، وَرَوَايَةُ الْجَمَاعَةِ
الَّذِينَ لَمْ يَشْكُوا أَوْلَى-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان

باب: کم پانی کے درمیان فرق جو ناپاک ہوتا ہے اور زیادہ کے درمیان جو ناپاک نہیں ہوتا جب تک وہ تبدیل نہ ہو
حدیث نمبر: 1243

:ترجمہ

(۱۲۴۴) (عاصم بن منذر بن زبیر فرماتے ہیں کہ میں عبید اللہ بن عبداللہ بن عمرؓ کے ساتھ باغ میں داخل ہوا، اس میں پانی کا مٹکا تھا، جو مردہ اونٹ کے چمڑے کا بنا ہوا تھا۔ انہوں نے اس سے وضو کیا، میں نے کہا: کیا آپ اس سے وضو کرو گے اس میں مردہ اونٹ کا چمڑا ہے؟ انہوں نے اپنے والد سے مجھ کو حدیث بیان کی کہ ان کے والد نے نبی ﷺ سے روایت بیان کی کہ جب پانی دو یا تین مٹکوں کی مقدار کے برابر ہو تو اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The difference between a small amount of water which becomes impure

(when impurity falls into it) and a large amount of water which does not become impure until its characteristics have changed
Hadith number: 1243

Translation:

(1243) Asim ibn Mundhir ibn Zubayr says: I entered a garden with Ubaydullah ibn Abdullah ibn Umar, in it was a jug of water, made of the skin of a dead camel. He performed ablution with it. I said: Will you perform ablution with it? It contains the skin of a dead camel. He narrated to me from his father that his father narrated from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) that when the amount of water is equal to two or three pots, nothing can defile it.

[Sahih. Narrated by Hakim 1/227]

Sunan Kubra Bayhaqi 1244

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ (١٢٤٥)
بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْمِصْبِصِيُّ عَنْ
زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُجَابِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَ
((إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَلَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ)) (-) :
قَالَ عَلِيُّ : رَفَعَهُ بِذَا الشَّيْخِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ زَائِدَةَ -
وَرَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَائِدَةَ مَوْفُوفًا وَهُوَ الصَّوَابُ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: کم پانی کے درمیان فرق جو ناپاک ہوتا ہے اور زیادہ کے درمیان جو ناپاک نہیں ہوتا جب تک وہ تبدیل نہ ہو

حدیث نمبر: 1244

:ترجمہ

(۱۲۴۵) (ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل فرماتے ہیں کہ جب پانی

دو مٹکے ہو تو اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔

(ب) (یہ روایت زائدہ سے موقوفاً منقول ہے اور یہی درست

ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The difference between a small

amount of water which becomes impure (when impurity falls into it) and a large amount of water which does not become impure until its characteristics have changed
Hadith number: 1244

Translation:

(1244) Ibn Umar (may Allah be pleased with him) narrated from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) that when the amount of water is equal to two pots, nothing can defile it.

(B) This narration is transmitted in a mawquf hadith from Zaida and this is the correct opinion.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1245

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا بِهِ الْقَاضِي (١٢٤٦)
الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ حَدَّثَنَا
مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَابِدٍ عَنْ
ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ مَوْفُوقًا.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان

باب :کم پانی کے درمیان فرق جو ناپاک ہوتا ہے اور زیادہ
کے درمیان جو ناپاک نہیں ہوتا جب تک وہ تبدیل نہ ہو
حدیث نمبر :1245

:ترجمہ

(۱۲۴۶) ابن عمرؓ نے اس کی مثل موقوف روایت بیان کی
ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The difference between a small
amount of water which becomes impure
(when impurity falls into it) and a large

amount of water which does not become
impure until its characteristics have changed
Hadith number: 1245

Translation:

(1245) A mawquf hadith has been narrated from Ibn Umar (may Allah be pleased with him) which is similar to the previous one.
[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1246

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدٍ : أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ أَحْمَدَ الرَّازِيَّ (١٢٤٧)

الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ : زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا

أَبُو بَكْرٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ النَّيْسَابُورِيِّ حَدَّثَنِي

أَبُو حَمِيدٍ الْمِصْبِيِّ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي

لُوطٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ مُجَابِدِ بْنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا كَانَ

الْمَاءُ قَلْتَيْنِ فَصَاعِدًا لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ .

وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ أَبَانَ عَنْ أَبِي يَحْيَى عَنْ ابْنِ

عَبَّاسٍ كَذَلِكَ مَوْفُوقًا .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب : پاکی کا بیان

باب : کم پانی کے درمیان فرق جو ناپاک ہوتا ہے اور زیادہ

کے درمیان جو ناپاک نہیں ہوتا جب تک وہ تبدیل نہ ہو

حدیث نمبر : 1246

:ترجمہ

(۱۲۴۷) مجاہد سے روایت ہے کہ ابن عباسؓ نے کہا: جب پانی دو مٹکے یا اس سے زیادہ ہو تو اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The difference between a small amount of water which becomes impure

(when impurity falls into it) and a large

amount of water which does not become

impure until its characteristics have changed

Hadith number: 1246

Translation:

(1246) It is narrated on the authority of

Mujahid that Ibn Abbas (may Allah be

pleased with him) said: When the amount of water is equal to two pots or more, nothing

can defile it.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1247

Arabic Text:

وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ (١٢٤٨)
الْخَلِيلِ الصُّوفِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى
حَدَّثَنَا سُؤَيْدٌ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا بَلَغَ

الْمَاءُ أَرْبَعِينَ قُلَّةً لَا يَحْمِلُ الْخَبَثَ)) (-
 فَهَذَا حَدِيثٌ تَفَرَّدَ بِهِ الْقَاسِمُ الْعُمَرِيُّ هَكَذَا وَقَدْ غَلَطَ فِيهِ.
 ج (وَكَانَ ضَعِيفًا فِي الْحَدِيثِ جَرَحَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ
 وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَالْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْحَفَاطِ
 وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَلِيٍّ الْحَافِظَ
 يَقُولُ حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -
 إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ أَرْبَعِينَ قُلَّةً - خَطَأً وَالصَّحِيحُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ :-
 الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَوْلُهُ ، وَبِمَعْنَاهُ قَالَ لِي أَبُو
 بَكْرٍ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الدَّارِقُطَنِيِّ الْحَافِظِ
 قَالَ : وَوَيْمَ فِيهِ الْقَاسِمُ وَكَانَ ضَعِيفًا كَثِيرَ الْخَطَا.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: کم پانی کے درمیان فرق جو ناپاک ہوتا ہے اور زیادہ
 کے درمیان جو ناپاک نہیں ہوتا جب تک وہ تبدیل نہ ہو

حدیث نمبر: 1247

:ترجمہ

(۱۲۴۸) (الف) (سیدنا جابر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " :جب پانی چالیس مٹکوں تک پہنچ جائے " تو وہ گندگی نہیں اٹھاتا۔

(ب) (جابرؓ نبی ﷺ سے نقل فرماتے ہیں کہ جب پانی چالیس مٹکوں تک پہنچ جائے۔ لیکن یہ روایت درست نہیں ہے۔ امام دارقطنی فرماتے ہیں کہ اس روایت میں قاسم کو وہم ہوا ہے۔ یہ سخت ضعیف اور کثیر الخطا راوی ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The difference between a small amount of water which becomes impure (when impurity falls into it) and a large amount of water which does not become impure until its characteristics have changed

Hadith number: 1247

Translation:

(1247) (a) Jabir ibn Abdullah (may Allah be pleased with him) says that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: "When the amount of water reaches upto forty (40) pots, it cannot bear impurity."

(B) Jabir narrates from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) that when the water reaches forty pots. But this tradition is not correct. Imam Daraqutni says that Qasim was deluded in this tradition. He is very weak and is a narrator who is often wrong.

[Baatil (False). Narrated by Al-Daraqutni 1/26]

Sunan Kubra Bayhaqi 1248

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ (١٢٤٩)
السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ
بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ وَمَعْمَرٌ عَنْ
: مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِي قَالَ
إِذَا كَانَ الْمَاءُ أَرْبَعِينَ قَلَّةً لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ، وَرَوَاهُ أَيُّوبُ
السَّخْتِيَانِيُّ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ مِنْ قَوْلِهِ لَمْ يُجَاوِزْ بِهِ -
وَرَوَى ابْنُ لَهْيَعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ
سِنَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَرِيرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : إِذَا
كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ أَرْبَعِينَ قَلَّةً لَمْ يَحْمِلْ خَبَثًا. وَخَالَفَهُ

غَيْرُ وَاحِدٍ فَرَوَوْهُ عَنْ أَبِي بُرَيْرَةَ فَقَالُوا : أَرْبَعِينَ غَرْبًا وَمِنْهُمْ
مَنْ قَالَ : أَرْبَعِينَ دَلْوًا .

قَالَ لِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الدَّارَقُطَنِيِّ
الْحَافِظِ

قَالَ الشَّيْخُ : وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الدُّهْلِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ
خَالِدٍ عَنْ ابْنِ لَهَيْعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ
، حُرَيْثٍ عَنْ أَبِي بُرَيْرَةَ قَالَ : أَرْبَعُونَ دَلْوًا مِنْ مَائٍ لَا يُنَجِّسُهُ
وَإِنْ اغْتَسَلَ فِيهِ الْجُنُبُ وَاتَّبَعَهُ آخَرُ . وَبَدَأَ أَوْلَى .
وَابْنُ لَهَيْعَةَ غَيْرُ مُحْتَجِّ بِهِ .

وَقَوْلُ مَنْ يُوَافِقُ قَوْلَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - فِي
الْقُلَّتَيْنِ أَوْلَى أَنْ يُتَّبَعَ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

كتاب : پاکی کا بیان

باب : کم پانی کے درمیان فرق جو ناپاک ہوتا ہے اور زیادہ

کے درمیان جو ناپاک نہیں ہوتا جب تک وہ تبدیل نہ ہو

حدیث نمبر : 1248

:ترجمہ

- (۱۲۴۹) الف (عبداللہ بن عمرو بن عاصی فرماتے ہیں: جب پانی چالیس مٹکے ہو تو اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔)
- ب (عبدالرحمن بن ابوہریرہ رض اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں کہ جب پانی چالیس مٹکے ہو تو وہ گندگی نہیں اٹھاتا۔ دوسروں نے اس کی مخالفت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چالیس بڑے ڈول۔ بعض کہتے ہیں دلو۔)
- ج (سیدنا ابوہریرہ رض سے روایت ہے کہ پانی کے چالیس ڈول ہوں تو ان کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی، اگرچہ اس میں جنبی غسل کرے اور دوسری روایت اس کی متابعت ہے اور یہ اولیٰ ہے۔ ابن لہیعہ قابل حجت نہیں۔)
- د (قلتین والی حدیث میں جس صحابی کا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے موافق ہے اس کی اتباع اولیٰ ہے۔)

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The difference between a small

amount of water which becomes impure (when impurity falls into it) and a large amount of water which does not become impure until its characteristics have changed
Hadith number: 1248

Translation:

(1248) (a) Abdullah ibn Amr ibn Aas (may Allah be pleased with him) says: When the amount of water reaches upto forty (40) pots, nothing defiles it."

(B) Abd al-Rahman ibn Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) narrated from his father that when the amount of water reaches upto forty (40) pots, it cannot bear impurity. Others have opposed this. They say forty big buckets. Some say bail (a specific type of bucket).

(C) There is a narration from Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that if the amount of water reaches upto forty (40) buckets, then nothing defiles it even if a junub person performs ghusl in it, the second tradition is a continuation of it and it takes precedence. Ibn Lahiyah is not reliable.

(D) In the hadith of Qaltin, precedence is given to the companion whose words are in accord with the words of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him). [Sahih. Narrated by Al-Daraqutni 1/27]

Sunan Kubra Bayhaqi 1249

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ (١٢٥٠)
يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ
بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِإِسْنَادٍ لَا يَحْضُرُنِي ذِكْرُهُ أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ - ﷺ - قَالَ ((إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُحْمَلْ خَبْتًا)) -

وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ : بِقِلَالٍ هَجَرَ -

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقَدْ رَأَيْتُ قِلَالَ هَجَرَ ، فَالْقُلَّةُ تَسْعُ قَرَبَتَيْنِ
أَوْ قَرَبَتَيْنِ وَشَيْئًا -

قَالَ الشَّافِعِيُّ : كَانَ مُسْلِمٌ يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ أَقَلُّ مِنْ
نِصْفِ الْقَرَبَةِ أَوْ نِصْفِ الْقَرَبَةِ فَيَقُولُ : خَمْسُ قَرَبٍ هُوَ

أَكْثَرُ مَا تَسَعُ قُلَّتَيْنِ ، وَقَدْ تَكُونُ الْقُلَّتَانِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسِ قِرْبٍ -
، قَالَ الشَّافِعِيُّ :فَالِإِحْتِيَاطُ أَنْ تَكُونَ الْقُلَّةُ قِرْبَتَيْنِ وَنِصْفًا
فَإِذَا كَانَ الْمَائُ خَمْسَ قِرْبٍ لَمْ يَحْمَلْ نَجَسًا فِي جَرٍّ كَانَ
أَوْ غَيْرِهِ إِلَّا أَنْ يَظْهَرَ فِي الْمَائِ مِنْهُ رِيحٌ أَوْ طَعْمٌ أَوْ لَوْنٌ قَالَ
وَقِرْبُ الْحِجَارِ كِبَارٌ فَلَا يَكُونُ الْمَائُ الَّذِي لَا يَحْمِلُ النَّجَاسَةَ إِلَّا
بِقِرْبٍ كِبَارٍ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: دو مٹکوں کی مقدار
حدیث نمبر: 1249

:ترجمہ

(۱۲۵۰) (ابن جریرج ایک سند سے نقل فرماتے ہیں: اس کا
ذکر مجھے یاد نہیں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " جب
پانی دو مٹکے ہو تو وہ گندگی کو نہیں اٹھاتا)یعنی ناپاک
نہیں ہوتا۔-

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The amount of two pots

Hadith number: 1249

Translation:

(1249) Ibn Jurayj narrates from a chain of transmission: I do not remember the name (of the person who narrated it from) the Prophet that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "When the amount of water is enough to fill two pots, it bears no impurity (i.e it does not become impure)."

[Daif (Weak). Narrated by Shafi'i in his Musnad 799]

Sunan Kubra Bayhaqi 1250

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ (١٢٥١)
عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدٍ : أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الرَّازِيُّ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا (ح)
أَبُو عَلِيٍّ : زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ
بْنِ زِيَادِ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ الْمَصْبِغِيُّ أَخْبَرَنَا
حَجَّاجُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ أَنَّ يَحْيَى بْنَ عُقَيْلٍ
أَخْبَرَهُ أَنَّ يَحْيَى بْنَ يَعْمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - قَالَ ((إِذَا
كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجَسًا وَلَا بَأْسًا)) - قَالَ فَقُلْتُ لِيَحْيَى
بْنِ عُقَيْلٍ : قِلَالٌ هَجَرَ؟ قَالَ قِلَالٌ هَجَرَ قَالَ : فَأَظُنُّ أَنَّ كُلَّ قَلَّةٍ
تَأْخُذُ فَرَقَيْنِ - زَادَ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ فِي رِوَايَتِهِ : وَالْفَرْقُ سِتَّةَ
عَشَرَ رَطْلًا -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: دو مٹکوں کی مقدار
حدیث نمبر: 1250

ترجمہ:

" (: ۱۲۵۱) (یحییٰ بن یعمر کو خبر دی کہ نبی ﷺ نے فرمایا جب پانی دو مٹکے ہو تو وہ گندگی نہیں اٹھاتا اور اس میں کوئی حرج نہیں۔ راوی کہتا ہے: میں نے یحییٰ بن عقیل سے پوچھا: ہجر شہر کے مٹکے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں ہجر شہر کے مٹکے۔ راوی کہتا ہے: میرا گمان ہے کہ ہر مٹکے میں دو فرق پانی آتا ہے۔ احمد بن علی نے اپنی روایت میں زیادتی نقل کی ہے کہ فرق سولہ رطل کا ہوتا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi
Book: Statement of Purity

Chapter: The amount of two pots

Hadith number: 1250

Translation:

(1250) Yahya ibn Umar was informed that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: “When the amount of water is enough to fill two pots, it bears no impurity and there is no harm in (using) it.” The narrator said: I asked Yahya bin Aqeel: The pots of Hajar city? He said: Yes, the pots of Hajar city. The narrator says: I think that all pots can hold two farq. Ahmad ibn Ali has added in his narration that a farq is sixteen rotls.

[Daif (Weak). Narrated by Al-Daraqutni 1/24]

Sunan Kubra Bayhaqi 1251

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ (١٢٥٢)
أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَزْهَرِ السَّجِسْتَانِيُّ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ يَعْنِي أَبَا حُمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةَ يَعْنِي
مُوسَى بْنَ طَارِقٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ فَذَكَرَهُ -
قَالَ مُحَمَّدٌ قُلْتُ لِيَحْيَى بْنَ عُقَيْلٍ : أَيُّ قِلَالٍ؟ قَالَ : قِلَالٌ بَجَرَ -
قَالَ مُحَمَّدٌ : فَرَأَيْتُ قِلَالَ بَجَرَ فَأَظُنُّ كُلَّ قُلَّةٍ تَأْخُذُ قِرْبَتَيْنِ -
كَذَا فِي كِتَابِ شَيْخِي قِرْبَتَيْنِ وَهَذَا أَقْرَبُ مِمَّا قَالَ مُسْلِمٌ بْنُ
خَالِدٍ ، وَالْإِسْنَادُ الْأَوَّلُ أَحْفَظُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ -
قَالَ أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ : مُحَمَّدٌ هَذَا الَّذِي حَدَّثَ عَنْهُ ابْنُ

جُرَيْجِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي كَثِيرٍ
وَيَحْيَى بْنِ عَقِيلٍ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: دو مٹکوں کی مقدار
حدیث نمبر: 1251

:ترجمہ

(۱۲۵۲) (ابن جریج کہتے ہیں: مجھ کو محمد نے خبر دی ہے کہ میں نے یحییٰ بن عقیل سے پوچھا: کون سے مٹکے؟ انہوں نے کہا: ہجر شہر کے مٹکے۔ محمد راوی کہتا ہے کہ میں نے ہجر شہر کے مٹکے دیکھے ہیں میرے گمان کے مطابق ہر مٹکا دو مشکیزوں کے برابر تھا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The amount of two pots

Hadith number: 1251

Translation:

(1251) Ibn Jurayj says: Muhammad informed me that I asked Yahya bin Aqeel: Which pots? He said: The pots of Hajar city. The narrator Muhammad says that I have seen the pots of Hajar city. I think each pot was equal to two water-skins.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1252

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا الشَّرِيفُ أَبُو الْفَتْحِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الشُّرَيْجِيُّ (١٢٥٣)
حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا شَرِيكَ
عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ السَّبَّيْعِيِّ عَنْ مُجَابِدٍ قَالَ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ
لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ قَالَ قُلْتُ: مَا الْقُلَّتَيْنِ؟ قَالَ: الْجَرَّتَيْنِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: دو مٹکوں کی مقدار
حدیث نمبر: 1252

:ترجمہ

(١٢٥٣) (مجاہد کہتے ہیں: جب پانی دو مٹکے ہوں تو اس کو
کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ راوی کہتا ہے: میں نے کہا:
قلتین کیا ہیں؟ انہوں نے کہا: دو مٹکے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The amount of two pots

Hadith number: 1252

Translation:

(1252) Mujahid says: When the amount of water is equal to two pots, nothing defiles it.

The narrator says: I said: What is Qalteen?

He said: Two pots.

[Daif (Weak). Narrated by Ibn Abi Shaybah 1531]

Sunan Kubra Bayhaqi 1253

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو (١٢٥٤)
الْعَبَّاسِ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمَاسَرَجِيِّ أَخْبَرَنَا
إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيَّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي
رِزْمَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: الْقِلَالُ
الْخَوَابِي الْعِظَامُ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: دو مٹکوں کی مقدار
حدیث نمبر: 1253

ترجمہ:

(١٢٥٤) (عاصم بن منذر کہتے ہیں: القلال بڑے بڑے مٹکے
ہوتے ہیں۔)

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The amount of two pots

Hadith number: 1253

Translation:

(1253) Asim ibn Mundhir says: Al-Qalal are big pots.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1254

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ (١٢٥٥)
الْبَغَوِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّحِيمِ يَعْنِي ابْنَ
سُلَيْمَانَ: سَأَلْنَا ابْنَ إِسْحَاقَ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ بْنَ يَسَارٍ
عَنِ الْقُلْتَيْنِ فَقَالَ: بِذِهِ الْجِرَارُ الَّتِي يُسْتَقَى فِيهَا الْمَاءُ
وَالدَّوَارِيُّ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: دو مٹکوں کی مقدار
حدیث نمبر: 1254

:ترجمہ

(١٢٥٥) (ابن سلیمان فرماتے ہیں: ہم نے محمد بن اسحاق بن
یسار سے قلتین کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے

کہا: یہ وہی مٹکا ہے جس میں پانی اور ستو پلایا جاتا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The amount of two pots

Hadith number: 1254

Translation:

(1254) Ibn Sulayman said: We asked Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar about qalteen, he said: This is the same pot in which water and sattu are drunk

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1255

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ (١٢٥٦)
الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَكِيلُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ
قَالَ سَمِعْتُ بُشَيْمًا يَقُولُ: الْقُلَّتَيْنِ يَعْنِي الْجَرَّتَيْنِ الْكِبَارَ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: دو مٹکوں کی مقدار
حدیث نمبر: 1255

:ترجمہ

(۱۲۵۶) حسن بن عرفہ کہتے ہیں کہ میں نے ہشیم کو کہتے ہوئے سنا: قلتین سے مراد دو بڑے بڑے مٹکے ہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The amount of two pots

Hadith number: 1255

Translation:

(1255) Hasan ibn Arafah says that I heard Hashim say: Qalteen means two big pots. [Sahih. Narrated by Al-Daraqutni 1/19]

Sunan Kubra Bayhaqi 1256

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا (١٢٥٧)
أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْحَسَّانِيُّ قَالَ
قَالَ وَكَيْعٌ : يَعْنِي بِالْقُلَّةِ الْجَرَّةَ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان
باب: دو مٹکوں کی مقدار
حدیث نمبر: 1256

:ترجمہ

(۱۲۵۷) وکیع کہتے ہیں: قلۃ سے مراد مٹکا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The amount of two pots

Hadith number: 1256

Translation:

(1256) Waqi says: Qalta means pot.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1257

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ (١٢٥٨)
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ
قَالَ يَحْيَى بْنُ آدَمَ: الْقُلَّةُ الْجَرَّةُ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى
كتاب: پاکی کا بیان
باب: دو مٹکوں کی مقدار
حدیث نمبر: 1257

ترجمہ:

(١٢٥٨) (یحییٰ بن آدم کہتے ہیں: قلۃ سے مراد مٹکا ہے۔)

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The amount of two pots

Hadith number: 1257

Translation:

(1257) Yahya bin Adam says: Qalta means pot.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1258

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ (١٢٥٩)
بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي ابْنَ عَطَائٍ الْخَفَّافَ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ يَعْنِي ابْنَ
أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ
صَعْصَعَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - فَذَكَرَ حَدِيثَ الْمِعْرَاجِ وَفِيهِ: ثُمَّ
رُفِعَتْ إِلَيَّ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى - فَحَدَّثَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ - : أَنَّ وَرَقَهَا مِثْلُ
أَذَانِ الْفِيلَةِ وَأَنَّ نَبْقَهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجْرٍ -
مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحِينَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: دو مٹکوں کی مقدار
حدیث نمبر: 1258

ترجمہ:

(۱۲۵۹) مالک بن صعصعہ نے نبی ﷺ کی معراج والی حدیث بیان کی، اس میں ہے کہ آپ ﷺ کو سدرۃ المنتہیٰ کی طرف اٹھایا گیا، آپ ﷺ نے فرمایا: اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے اور اس کے بیر ہجر شہر کے مٹکوں کی طرح تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The amount of two pots

Hadith number: 1258

Translation:

(1258) Malik ibn Sa'sa narrated the hadith of the Miraaj (ascension) of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) in which it is mentioned that he was raised to Sidra al-Muntaha (a tree in paradise). The Prophet (peace and

blessings of Allah be upon him) said: Its leaves were like the ears of an elephant and its berries were like the pots of the city of Hajar.

[Sahih]

The full hadith was narrated by Bukhari 3207, 3887 and Muslim 162 and Nasai 449

Sunan Kubra Bayhaqi 1259

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ (١٢٦٠)
بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَمَّا
حَدِيثُ بُرِّ بُضَاعَةَ فَإِنَّ بُرَّ بُضَاعَةَ كَثِيرَةٌ الْمَائِ وَأَسِعَةٌ كَانَ
يُطْرَحُ فِيهَا مِنَ الْأَنْجَاسِ مَا لَا يُغَيِّرُ لَهَا لَوْنًا وَلَا طَعْمًا وَلَا
يُظْهِرُ لَهُ فِيهَا رِيحٌ ، فَقِيلَ لِلنَّبِيِّ ﷺ - : تَوْضَأُ مِنْ بُرِّ
بُضَاعَةَ وَبِي يُطْرَحُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ - مُجِيبًا : الْمَائِ
لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ - وَبَيَّنَّ أَنَّهُ فِي الْمَائِ مَثَلُهَا إِذْ كَانَ مُجِيبًا عَلَيْهَا.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: بضاعہ کنویں کی حالت
حدیث نمبر: 1259

:ترجمہ

(١٢٦٠) (امام شافعی) رح (فرماتے ہیں: بضاعہ کنویں والی
حدیث جس میں ہے کہ بضاعہ کنویں میں بہت

زیادہ گہرا پانی ہوتا تھا اور اس میں گندگیاں پھینکی جاتیں تھیں جو اس کے رنگ اور ذائقے کو تبدیل نہیں کرتی تھیں: اور نہ ہی اس میں بدبو ظاہر ہوتی تھی۔ نبی ﷺ سے کہا گیا: آپ بضاعہ کنویں سے وضو کرتے ہیں حالانکہ اس میں اس طرح کی چیزیں پھینکی جاتی ہیں؟ نبی ﷺ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا " :پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ اس سے واضح ہو گیا کہ وہ پانی میں اسی طرح تھا، جس طرح آپ ﷺ نے اس کے متعلق جواب دیا۔"

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The condition of the Buda'a well

Hadith number: 1259

Translation:

(1259) Imam Shafi'i (may Allah have mercy on him) said: The hadeeth about the Buda'a well, which states that the Buda'a well was very deep and filth was thrown

into it which did not change its color and taste nor did it smell bad. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) was asked: Do you perform ablution from (the water of) Buda'ah well even though such things are thrown into it? The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) replied: "Nothing defiles water." From this statement it becomes clear that it (the filth) was in the water just as the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) described it.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1260

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذِبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ (١٢٦١)
: دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السَّجِسْتَانِيُّ قَالَ قَالَ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ
سَأَلْتُ قَيْمَ بْنَ بُرِّ بُضَاعَةَ عَنْ عُمُقِهَا فَقَالَ : أَكْثَرُ مَا يَكُونُ فِيهَا
الْمَاءُ إِلَى الْعَانَةِ . قُلْتُ : فَإِذَا نَقَصَ قَالَ دُونَ الْعَوْرَةِ .
قَالَ أَبُو دَاوُدَ : قَدَّرْتُ بْنَ بُرِّ بُضَاعَةَ بِرِدَائِي ، مَدَدْتُهُ عَلَيْهَا
ثُمَّ ذَرَعْتُهُ ، فَإِذَا عَرَضُهَا سِتَّةَ أَذْرُعَ ، وَسَأَلْتُ الَّذِي
فَتَحَ لِي بَابَ الْبُسْتَانِ فَأَدْخَلَنِي إِلَيْهِ : بَلْ غَيْرَ بِنَاوُهَا عَمَّا كَانَتْ
عَلَيْهِ؟ فَقَالَ : لَا . وَرَأَيْتُ فِيهَا مَاءً مُتَغَيَّرَ اللَّوْنِ .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: بضاعہ کنویں کی حالت

حدیث نمبر: 1260

:ترجمہ

(۱۲۶۱) (قتیبہ بن سعید کہتے ہیں کہ میں نے قیم سے بضاعہ کنویں کی گہرائی کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا: زیادہ سے زیادہ پانی ناف تک تھا۔ میں نے کہا: کم سے کم؟ انہوں نے کہا: شرمگاہ سے اوپر۔ امام ابوداؤد کہتے ہیں کہ بضاعہ کنویں کا میں نے اپنی چادر سے اندازہ لگایا، میں نے اس کو اس پر پھیلایا پھر اس کی پیمائش کی تو اس کا عرض چھ ہاتھ تھا۔ جس شخص نے میرے لیے دروازہ کھولا تھا میں نے اس سے سوال کیا تو وہ مجھے اس کنویں پر لے کر گیا میں نے پوچھا: کیا اس کی بنیادیں تبدیل کر دی گئی ہیں جس پر وہ پہلے تھا؟ اس نے کہا: نہیں۔ میں نے اس میں پانی دیکھا جس کا رنگ تبدیل ہو چکا تھا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The condition of the Buda'a well

Hadith number: 1260

Translation:

(1260) Qutaybah bin Saeed says that when I asked Qayyim about the depth of the Buda'a well, he said: The level of water was at most up to the navel. I said: At least? He said: Above the private parts. Imam Abu Dawud (may Allah have mercy on him) says: I measured the breadth of the well of Buda'ah with my sheet which I stretched over it. I then measured it with the hand. It measured six cubits in breadth. I then asked the man who opened the door (of the garden) for me: Has the condition of this well changed from what it had originally been in the past ? He replied: No.

I saw the color of water in this well had changed.

[Sahih. Narrated by Abu Dawud 67]

Sunan Kubra Bayhaqi 1261

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ (١٢٦٢)
عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ
مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ

حَدَّثَنَا بِشَامٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ : أَنَّ زَنْجِيًّا وَقَعَ فِي زَمْزَمَ
يَعْنِي فَمَاتَ ، فَأَمَرَ بِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأُخْرِجَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُنْزَحَ
قَالَ فَغَلَبَتْهُمْ عَيْنٌ جَاءَتْهُمْ مِنَ الرُّكْنِ ، فَأَمَرَ بِهَا فَدُسَّتْ
بِالْقَبَاطِيِّ وَالْمَطَارِفِ حَتَّى نَزَحُوا ، فَلَمَّا نَزَحُوا انْفَجَرَتْ
عَلَيْهِمْ-

وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ : أَنَّ زَنْجِيًّا وَقَعَ فِي زَمْزَمَ
فَأَمَرَهُمُ ابْنُ عَبَّاسٍ بِنَزْحِهِ ، وَبِذَا بَلَغَ بَلَّغَهُمَا- (ج) (فَأَيْهِمَا لَمْ ،
يَلْقِيَا ابْنَ عَبَّاسٍ وَلَمْ يَسْمَعَا مِنْهُ-

وَرَوَاهُ جَابِرُ الْجُعْفِيُّ مَرَّةً عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
وَمَرَّةً عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ نَفْسِهِ : أَنَّ غُلَامًا وَقَعَ فِي زَمْزَمَ
فَنُزِحَتْ- (ج) (وَجَابِرُ الْجُعْفِيُّ لَا يُحْتَجُّ بِهِ-

وَرَوَاهُ ابْنُ لَهْيَعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ- (ج) (وَابْنُ لَهْيَعَةَ لَا
يُحْتَجُّ بِهِ-

قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ : لَا نَعْرِفُهُ عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ وَزَمْزَمُ عِنْدَنَا مَا سَمِعْنَا بِهِذَا-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: زمزم کو کھینچنے کا بیان

:ترجمہ

(۱۲۶۲) (ابن سیرین سے روایت ہے کہ ایک حبشی زمزم میں گر کر مر گیا۔ سیدنا ابن عباسؓ نے اس کو نکالنے کا حکم دیا اور فرمایا: کنویں کا سارا پانی نکالا جائے۔ کہتے ہیں: وہ: چشمہ ان پر غالب آگیا جو رکن کی جانب سے پھوٹ رہا تھا۔ ابن عباس کے حکم پر اس چشمے کو ختل لکڑیوں کے ساتھ بند کر دیا گیا۔ جب لوگوں نے اس کو کھینچا خالی کر لیا اور لکڑیوں کو کھینچا تو وہ پھوٹ کر بہنے لگا۔

(ب) (ابو عروبہ نے قتادہ سے نقل کیا ہے کہ ایک حبشی زمزم میں گر گیا تو سیدنا ابن عباسؓ نے اسے کھینچ کر نکالنے کا حکم دیا۔ یہ خبر ان دونوں کو ملی۔
(ج) (ان دونوں کی سیدنا ابن عباسؓ سے ملاقات اور سماع ثابت ہیں۔

(د) (جابر جعفی کبھی ابو طفیل عن ابن عباس سے اور کبھی ابو طفیل خود ہی روایت کرتا ہے کہ ایک غلام زمزم میں گر گیا تو اس کو کھینچ کر نکالا گیا۔ جابر جعفی قابل حجت نہیں

(ر) (ابن لہیعہ نے عمرو بن دینار سے روایت کیا ہے اور

ابن لہیعہ قابل حجت نہیں۔
(س (زعفرانی امام شافعی) رح (کا قول ذکر کرتے ہیں کہ
اس روایت کو ابن عباسؓ سے نقل کرنا معلوم نہیں۔ زمزم
ہمارے پاس ہے اس کے متعلق کوئی ایسا واقعہ نہیں سنا گیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The condition of the Buda'a well

Hadith number: 1261

Translation:

(1261) It is narrated from Ibn Sirin that an Abyssinian fell in the Zamzam (well) and died. Syeduna Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) ordered him to be taken out and said: All the water of the well should be taken out. He says: The spring overcame him which was bursting from the corner. On the orders of Ibn Abbas

(may Allah be pleased with him), the spring was closed with firewood. When the people pulled it out and pulled the wood, it burst open and began to flow.

(B) Abu Aruba narrated from Qatadah that when an Abyssinian fell into the Zamzam (well), Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) ordered him to be pulled out. They both got this news.

(C) It is proven that both of them met and heard from Syeduna Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) .

(D) Jabir Jafi sometimes narrates from Abu Tufayl on the authority of Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) and sometimes Abu Tufayl himself narrates that when a slave fell in the Zamzam (well), he was dragged out. Jabir Jafi is not

reasonable.

(E) Ibn Lahiya has narrated from Amr bin Dinar and Ibn Lahiya is not reliable.

(F) Zafarani mentions the saying of Imam Shafi'i (may Allah have mercy on him) that this narration is not known from Ibn Abbas (may Allah be pleased with him). We have the Zamzam (well near us). No such incident has been reported.

[Daif (Weak). Narrated by Al-Daraqutni 1/33]

Sunan Kubra Bayhaqi 1262

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ (١٢٦٣)
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَيْرُوبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا قُدَامَةَ يَقُولُ
سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَعْنِي ابْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ : أَنَا بِمَكَّةَ مُنْذُ
سَبْعِينَ سَنَةً لَمْ أَرَ أَحَدًا صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا يَعْرِفُ حَدِيثَ
الزَّنَجِيِّ الَّذِي قَالُوا إِنَّهُ وَقَعَ فِي زَمْزِمَ ، مَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَقُولُ
نُزْحَ زَمْزِمَ-

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ وَكَذَلِكَ لَا يَنْبَغِي لِأَنَّ الْأَثَرَ قَدْ جَاءَتْ
فِي نَعْتِهَا أَنَّهَا لَا تُنْزَحُ وَلَا تُذَمُّ- لَا أَدْرِي أَبُو قُدَامَةَ حَكَاهُ عَنْ
أَبِي عُبَيْدٍ أَوْ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهِ-

قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ الشَّافِعِيُّ لِمُخَالِفِيهِ قَدْ رَوَيْتُمْ عَنْ
سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -
((أَنَّهُ قَالَ)) : الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ ((- أفتري أن ابن-

عَبَّاسٍ يَزُورِي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - خَبْرًا وَيَتْرُكُهُ إِنْ كَانَتْ بِهِ رَوَايَتُهُ
وَتَرَوُونَ عَنْهُ : أَنَّهُ تَوَضَّأَ مِنْ غَدِيرٍ يُدَافِعُ جِيفَةً ، وَتَرَوُونَ عَنْهُ
الْمَاءُ لَا يَنْجُسُ ، فَإِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ هَذَا صَحِيحًا فَهُوَ يَدُلُّ عَلَى :
أَنَّهُ لَمْ يَنْزَحْ زَمْزَمَ لِلنَّجَاسَةِ وَلَكِنْ لِلتَّنْظِيفِ إِنْ كَانَ فَعَلَ
وَزَمْزَمَ لِلشَّرْبِ وَقَدْ يَكُونُ الدَّمُ ظَهَرَ عَلَى الْمَاءِ حَتَّى رُئِيَ فِيهِ . ،

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب : پاکی کا بیان
باب : زمزم کو کھینچنے کا بیان
حدیث نمبر : 1262

:ترجمہ

(۱۲۶۳ ابن عیینہ کہتے ہیں : میں ستر سال سے مکہ میں تھا
میں نے چھوٹے اور بڑے کسی کو نہیں دیکھا جو زنجی کی
حدیث کو جانتا ہو اور وہ) حدیث (جو انہوں نے بیان کی کہ
کوئی زمزم میں گر گیا تھا۔ میں نے کسی سے نہیں سنا جو
کہتا ہو کہ زمزم کو خالی کیا گیا۔ ابو عبید کہتے ہیں کہ زمزم
کے بارے میں تو

آثار ہیں کہ اس کا پانی نہیں نکالا جائے گا اور نہ اس کی
بے حرمتی ہوگی۔ مجھے معلوم نہیں کہ ابو قدامہ نے اس کو
ابو عبید عن ابو ولید فقیہ سے بیان کیا ہے۔ امام شافعی (رح)
نے اس کی مخالفت میں ابن عباسؓ کی مرفوع حدیث بیان کی
ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں
کرتی۔ آپ کی کیا رائے ہے کہ سیدنا ابن عباسؓ کی یہ
روایت نبی ﷺ سے ثابت ہے تو پھر اس کے مقابل اس روایت
کی کیا حیثیت ہی جو تم بیان کرتے ہو کہ انہوں نے (کنویں)
سے وضو کیا۔ پھر یہ بھی کہ پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ اگر
یہ حبشیوالی حدیث صحیح ہو تو معنی یہ ہے کہ پانی نجاست
کی وجہ سے صرف صفائی کے لیٰ نکالا۔ زمزم پانی کی
بارے میں ہے کہ کبھی کبھار اس پر خون کے آثار دیکھے
جاتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on pulling zamzam

Hadith number: 1262

Translation:

(1262) Ibn Uyaynah says: I have been in Makkah for seventy years. I have not seen anyone, young or old, who knows about the hadith of Zanji and the (hadith) that he narrated that someone had fallen in the Zamzam (well). I have not heard anyone say that the Zamzam (well) had been emptied. Abu Ubaid says that there is an athar (saying) about the Zamzam (well) that its water will not be drained and it will not be desecrated. I do not know that Abu Qudama narrated it from Abu Ubaid on the authority of Abu Waleed al-Faqih. Imam Shafi'i (may Allah have mercy on him) has narrated the opposing marfu hadith from Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: Nothing defiles water. What is your opinion that this narration of Ibn Abbas has been proven (to

be authentic) from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him), so what is the status of the narration that you narrate that he performed ablution from (the well)? Also, that water is never impure. If the hadith about the Abyssinian is saheeh, then the meaning is that the water was taken out only for cleaning because of the impurity. It is said about zamzam water that sometimes it had traces of blood in it.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1263

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ (١٢٦٤) بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ الرَّمَادِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - تَوَضَّأَ بِمَائٍ ، فَقِيلَ لَهُ اسْتَحَمْتَ بِهِ فَلَانَهُ الْآنَ يَعْنِي امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ - قَالَ ((: إِنَّ الْمَائَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ))

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان
باب: زمزم کو کھینچنے کا بیان
حدیث نمبر: 1263

:ترجمہ

(۱۲۶۴) (سیدنا ابن عباس^{رض} سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے پانی سے وضو کیا، آپ ﷺ سے کہا گیا، یعنی آپ کی بیویوں میں سے کسی نے بتایا کہ آپ ﷺ نے فرمایا " :بیشک پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔"

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on pulling zamzam

Hadith number: 1263

Translation:

(1263) It is narrated on the authority of Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) performed ablution with water. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) was told, that is, one of his wives said that he said: "Verily, nothing defiles water."

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence). Narrated by AbdulRazzaq 396]

Sunan Kubra Bayhaqi 1264

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ (١٢٦٥)
عُبَيْدِ الصَّفَّارِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي وَزِيَادُ بْنُ الْخَلِيلِ
وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالُوا حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ حَدَّثَنَا
سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اغْتَسَلَ
بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - ﷺ - فِي جَفْنَةٍ ، فَجَاءَ النَّبِيُّ - ﷺ - لِيَتَوَضَّأَ أَوْ
لِيَغْتَسِلَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِيَّيْ كُنْتُ جُنْبًا. فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ - ﷺ - ((: إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ)) -).

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: زمزم کو کھینچنے کا بیان
حدیث نمبر: 1264

:ترجمہ

(۱۲۶۵) (سیدنا ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ کی کسی بیوی نے ٹپ میں غسل کیا، نبی ﷺ آئے تاکہ اس سے وضو کریں یا غسل کریں۔ اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں جنبی تھی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "بیشک پانی ناپاک " نہیں ہوتا۔"

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on pulling zamzam

Hadith number: 1264

Translation:

(1264) It is narrated on the authority of Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) that one of the wives of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) performed ghusl in a tub. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) came to perform ablution or perform ghusl with it (the leftover water). She said: O Messenger of Allah! I was junub. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "Indeed, water is never impure."

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1265

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنِ (۱۲۶۶)
دُحَيْمِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا وَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ
: يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ مَائِ الْحَمَّامِ فَقَالَ
الْمَائُ لَا يَجُنُبُ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: زمزم کو کھینچنے کا بیان
حدیث نمبر: 1265

ترجمہ:

(۱۲۶۶) (یحییٰ بن عبید کہتے ہیں: میں نے سیدنا ابن

عباسؓ سے حمام کے پانی سے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا: پانی ناپاک نہیں ہوتا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on pulling zamzam

Hadith number: 1265

Translation:

(1265) Yahya ibn Ubaid says: I asked Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) about the water of the bath and he said: Water is never impure.

[Daif (Weak). Narrated by Ibn Abi Shaybah 1150]

Sunan Kubra Bayhaqi 1266

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى (١٢٦٧) الْإِسْفَرَائِينِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَحْرِ الْبَرَبَهَارِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْحَمِيدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَرْبَعٌ لَا يَنْجُسُنَ: الْإِنْسَانُ وَالْمَاءُ وَالثَّوْبُ وَالْأَرْضُ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان
باب: زمزم کو کھینچنے کا بیان
حدیث نمبر: 1266

:ترجمہ

(۱۲۶۷) (سیدنا ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ چار چیزیں ناپاک نہیں ہوتیں: آدمی، پانی، کپڑا اور زمین۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on pulling zamzam

Hadith number: 1266

Translation:

(1266) It is narrated from Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) that four things can never be impure: man, water, cloth and land.

[Daif (Weak). Narrated by Al-Daraqutni 1/113]

Sunan Kubra Bayhaqi 1267

Arabic Text:

: وَقَالَ أَبُو يَحْيَى الْهَمَّانِيُّ عَنْ زَكَرِيَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ (١٢٦٨)
أَرْبَعٌ لَا يَجُنُّنَ أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ
حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الطَّوَابِقِيِّ
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الْهَمَّانِيُّ فَذَكَرَهُ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى
كتاب: پاکی کا بیان
باب: زمزم کو کھینچنے کا بیان
حدیث نمبر: 1267

:ترجمہ

(۱۲۶۸) ابو یحییٰ حمانی نے اس کو بیان کیا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on pulling zamzam

Hadith number: 1267

Translation:

(1267) Abu Yahya Hamani has narrated it.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1268

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ (١٢٦٩)
يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ الرَّشَكِيِّ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: لَيْسَتْ
عَلَى الْمَائِ جَنَابَةٌ.
قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَنَحْنُ نَرَوِي عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ
قَوْلَنَا وَنَرَوِي عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلًا يَغْتَسِلُ فِي بئرٍ
مِنْ جَنَابَةٍ وَيُرَوِي عَنْ عُمَرَ قَرِيبًا مِنْهُ.
وَأَمَّا الْأَثَرُ الَّذِي-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان
باب: زمزم کو کھینچنے کا بیان
حدیث نمبر: 1268

:ترجمہ

(۱۲۶۹) سیدہ عائشہؓ سے روایت ہے کہ پانی پر ناپاکی نہیں آتی۔

(ب (امام شافعی) رح (فرماتے ہیں کہ ہمارا موقف وہ ہے جو ہم زید بن ثابت اور قاسم بن محمد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک شخص کو کنویں میں غسل جنابت کرنے کا حکم دیا اور سیدنا عمر سے اس کے ہم معنی روایت منقول ہے۔

English

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on pulling zamzam

Hadith number: 1268

Translation:

(1268) It is narrated from Ayesha (may Allah be pleased with her) that there is no impurity for water.

(B) Imam Shafi'i (may Allah have mercy on him) says that our position is what we narrate from Zayd ibn Thabit and Qasim ibn Muhammad that they ordered a person to perform ghusl for major impurity in a well and a synonymous narration is also narrated from Syedna Umar (may Allah be pleased with him).

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1269

Arabic Text:

: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ بْنُ أَبِي عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ (١٢٧٠)
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ الشَّافِعِيُّ
حِكَايَةً عَنْ خَالِدِ الْوَاسِطِيِّ عَنْ عَطَائِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ
أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ : فِي الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي الْبِئْرِ فَتَمُوتُ قَالَ
تُنَزَّحُ حَتَّى تَغْلِبَهُمْ- :
فَهَذَا غَيْرُ قَوِيٍّ- لِأَنَّ أَبَا الْبَخْتَرِيَّ لَمْ يَسْمَعْ عَلِيًّا فَهُوَ
مُنْقَطِعٌ-

قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ رَوَى ابْنُ أَبِي
يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي
طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي الْبِئْرِ فَمَاتَتْ
فِيهَا نُزْحٌ مِنْهَا دَلْوٌ أَوْ دَلْوَانِ يَعْْنَى فَإِنْ تَفَسَّخَتْ نُزْحٌ مِنْهَا
خَمْسَةٌ أَوْ سَبْعَةٌ وَهَذَا أَيْضًا مُنْقَطِعٌ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: زمزم کو کھینچنے کا بیان

حدیث نمبر: 1269

:ترجمہ

(۱۲۷۰) (الف) (سیدنا علیؓ نے اس چوبیا کے متعلق فرمایا جو کنویں میں گر کر مر گئی تھی کہ اسے نکالا جائے تو یہ لوگوں پر غالب آگیا تھا۔ یہ روایت مضبوط نہیں؛ کیونکہ ابو بختری نے سیدنا علیؓ سے نہیں سنا۔ یہ روایت منقطع ہے۔) (ب) (سیدنا علی بن ابی طالبؓ فرماتے ہیں: جب چوبیا کنویں میں گر کر مرجائے تو اس سے ایک یا دو ڈول کھینچے جائیں گے اور اگر پھٹ جائے تو پانچ یا سات ڈول کھینچے جائیں گے اور یہ روایت بھی منقطع ہے۔)

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on pulling zamzam

Hadith number: 1269

Translation:

(1269) (a) Syeduna Ali (may Allah be pleased with him) says about the rat which falls into a well and dies, that it is to be taken out, but it overpowered the people. This tradition is not strong; Because Abu Bakhtari did not hear from Syeduna Ali. This tradition is disconnected.

(B) Ali ibn Abi Talib (may Allah be pleased with him) says: When a rat falls into a well and dies, one or two buckets should be drawn from it, and if it (the rat) bursts, five or seven buckets should be drawn from it. This tradition is also disconnected.

[Daif (Weak). Narrated by Ibn Abi Shaybah 1711]

Sunan Kubra Bayhaqi 1270

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَخْبَرَنَا (١٢٧١)
الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ فِي احْتِجَاجٍ مِّنْ احْتِجَاجِ بِالْأَثَرِ عَنْ عَلِيٍّ
وَإِبْنِ عَبَّاسٍ قُلْتُ: فَيُخَالَفُ مَا جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -
إِلَى قَوْلِ غَيْرِهِ. قَالَ: لَا. قُلْتُ: قَدْ فَعَلْتَ، وَخَالَفْتَ مَعَ ذَلِكَ
عَلِيًّا وَابْنَ عَبَّاسٍ، زَعَمْتَ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: إِذَا وَقَعَتِ الْفَأْرَةُ فِي
الْبُرِّ نَزَحَ مِنْهَا سَبْعَةٌ أَوْ خَمْسَةٌ أَذْلَى، وَزَعَمْتَ أَنَّهَا لَا
تَطْهَرُ إِلَّا بَعِشْرِينَ أَوْ ثَلَاثِينَ وَزَعَمْتَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ نَزَحَ
زَمْزَمَ مِنْ زَنْجِيٍّ وَقَعَ فِيهَا، وَأَنْتَ تَقُولُ: يَكْفِي مِنْ ذَلِكَ
أَرْبَعُونَ أَوْ سِتُّونَ دَلْوًا، وَبِذَا عَنْ عَلِيٍّ وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ غَيْرُ
ثَابِتٍ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: زمزم کو کھینچنے کا بیان

حدیث نمبر: 1270

:ترجمہ

(۱۲۷۱) (امام شافعی) رح (سے اس کے متعلق منقول ہے جو علیؓ اور ابن عباسؓ کے اثر کی مخالفت کرتا ہے کہ نبی ﷺ سے اس کے علاوہ روایت کی مخالفت کی جائے گی۔ انہوں نے کہا: نہیں: میں نے کہا: آپ نے اس کے باوجود علی اور ابن عباسؓ کی مخالفت کی ہے؟ آپ نے گمان کیا کہ سیدنا علیؓ نے کہا: جب کنویں میں چوہا گر جائے تو اس سے سات یا پانچ ڈول کھینچے جائیں گے اور آپ نے دعویٰ کیا کہ وہ پاک نہیں ہوگا مگر بیس بائیس) ڈول کھینچنے (سے اور آپ نے گمان کیا کہ ابن عباسؓ نے زنجی سے جو اس میں گر گیا تھا زمزم کا پانی نکالا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ چالیس یا ساٹھ ڈول کافی ہیں۔ یہ علی اور ابن عباسؓ سے ثابت

نہیں ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on pulling zamzam

Hadith number: 1270

Translation:

(1270) It is narrated from Imam Shafi'i (may Allah have mercy on him) that he was asked that does the one who oppose the saying of Ali and Ibn Abbas (may Allah be pleased with them) oppose the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him)?. He said: No. I said: Do you still oppose Ali and Ibn Abbas? He thought that Syeduna Ali (may Allah be pleased with him) said: When a rat falls into a well, seven or five buckets will be pulled out from it and he claimed that it will not be

clean except by (extracting) twenty or twenty two (buckets from it) and he thought that the saying of Ibn Abbas from Zanzi that Zamzam water was taken out because (someone) had fallen into it and he is saying that forty or sixty buckets are enough. This is not proven from Ali and Ibn Abbas (may Allah be pleased with them).

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1271

Arabic Text:

: أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ (١٢٧٢)
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ خَالِدٍ
حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا ابْنُ لَهْبَعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ فِي
قِصَّةِ أَحَدٍ وَمَا أَصَابَ النَّبِيَّ - ﷺ - فِي وَجْهِهِ قَالَ : وَسَعَى عَلِيُّ
بْنُ أَبِي طَالِبٍ إِلَى الْمَهْرَاسِ ، فَأَتَى بِمَائٍ فِي مِجَنَّةٍ ، فَأَرَادَ رَسُولُ
- اللَّهِ - ﷺ - أَنْ يَشْرَبَ مِنْهُ ، فَوَجَدَ لَهُ رِيحًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -
((بَذَا مَائٍ آجِنٌ)) (- فْتَمَضَمَضَ مِنْهُ وَغَسَلَتْ فَاطِمَةُ عَنْ أَبِيهَا :
الذَّمَّ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: بدبو والی چیز سے پانی ناپاک نہیں ہوتا اگر حرام نہ ہو

حدیث نمبر: 1271

:ترجمہ

(۱۲۷۲) سیدنا عروہ احد کے قصہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ جو نبی ﷺ کے چہرے میں تکلیف پہنچی تھی۔ انہوں نے کہا : علیؓ مہر اس (کی طرف گئے اور ایک برتن میں پانی لایا گیا، رسول اللہ ﷺ نے اس سے پانی پینے کا ارادہ کیا تو آپ ﷺ نے بدبو محسوس کی اور فرمایا " یہ بدبو دار پانی ہے۔ " پھر آپ ﷺ نے اس سے کلی کی اور فاطمہؓ نے اپنے والد ﷺ کے خون کو دھویا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Water does not become impure from stinking things if it is not haraam

Hadith number: 1271

Translation:

(1271) Syeduna Arwa mentions the story of Uhud that the Prophet's face was

afflicted. He said: Ali (may Allah be pleased with him) went to Mehras (a well) and water was brought in a vessel. The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) intended to drink water from it, he smelt a stench and said: "This is stinking water." Then he rinsed his mouth with it and Fatima (may Allah be pleased with her) washed her father's blood.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1272

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ (١٢٧٣)
يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ
بُكَيْرٍ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ لَا أَتَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: فَلَمَّا انْتَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - إِلَى فَمِ
الشَّعْبِ خَرَجَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ حَتَّى مَلَأَ دَرَقَتَهُ مِنَ
المِهْرَاسِ ، ثُمَّ جَاءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - لِيَشْرَبَ مِنْهُ
، فَوَجَدَ لَهُ رِيحًا فَعَاقَهُ فَلَمْ يَشْرَبْ مِنْهُ ، وَغَسَلَ عَنْ وَجْهِ الدَّمِ
وَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ وَهُوَ يَقُولُ ((:اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى مَنْ
((- دَمَى وَجْهَ نَبِيِّهِ ﷺ -

بِهَذَا رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ -
وَرَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ عَنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ
أَبِيهِ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ - وَهُوَ إِسْنَادٌ مَوْصُولٌ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: بدبو والی چیز سے پانی ناپاک نہیں ہوتا اگر حرام نہ ہو

حدیث نمبر: 1272

:ترجمہ

(۱۲۷۳) (سیدنا عبید بن کعب بن مالکؓ فرماتے ہیں: جب نبی

ﷺ گھاٹی کے منہ کے پاس پہنچے تو سیدنا علی بن ابی

طالبؓ نکلے، اور اپنی چمڑے کی ڈھال میں پتھر میں

کھودے ہوئے چشمے سے پانی بھرا، پھر رسول اللہ ﷺ کی

طرف آئے تاکہ آپ پانی پی لیں۔ آپ ﷺ نے بدبو محسوس کی

تو اس کو چھوڑ دیا، آپ نے اس سے نہیں پیا اور اپنے

چہرے سے خون کو دھویا اور سر پر پانی ڈالا اور آپ کہہ

رہے تھے: اللہ کا غضب ہو اس شخص پر جس نے نبی کے

چہرے کو خون آلود کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Water does not become impure from stinking things if it is not haraam

Hadith number: 1272

Translation:

(1272) Syeduna Ubaid ibn Ka'b ibn Malik says: When the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) reached the mouth of a gorge, Ali ibn Abi Talib (may Allah be pleased with him) came out and filled his leather shield with water from a spring dug in the rocks. Then he came to the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) so that he can drink the water. He (the Prophet) smelt a stench from it so he left it. He did not drink from it and washed the blood from his face and poured water on his head and he was saying: May the wrath of Allah be

upon the person who has stained the face of a Prophet with blood.

[Hasan Li Ghayrihi (Fair due to external evidence). Narrated by Ibn Hibban 6979]

Sunan Kubra Bayhaqi 1273

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا: يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ (١٢٧٤)
يَحْيَى الْمُرْزُغِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالَ حَدَّثَنَا
أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. قَالَ وَحَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ
نَصْرِ قَالَ قُرِيَ عَلَى ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَكَ عَمْرُو بْنُ
الْحَارِثِ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
عَوْفٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - : أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخَفَيْنِ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: موزوں پر مسح کرنے کی رخصت کا بیان
حدیث نمبر: 1273

ترجمہ:

(۱۲۷۴) (سیدنا سعد بن ابی وقاص نبی ﷺ سے نقل فرماتے
ہیں کہ آپ ﷺ نے موزوں پر مسح کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the concession

granted to wipe over the socks

Hadith number: 1273

Translation:

(1273) Sa'd ibn Abi Waqqas (may Allah be pleased with him) narrates from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) that he wiped over socks.

[Sahih. Narrated by Bukhari 202 and Nasai 121 and Ibn Majah 546 and Ahmad 1/15]

Sunan Kubra Bayhaqi 1274

Arabic Text:

: وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ (١٢٧٥)
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدِوَسِّ بْنِ سَلَمَةَ الْعَنْزِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ
سَعِيدِ الدَّارِمِيِّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ وَبَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ وَهْبٍ حَدَّثَهُمْ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
وَزَادَ: وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ سَأَلَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: نَعَمْ
إِذَا حَدَّثَكَ سَعْدٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - شَيْئًا فَلَا تَسْأَلْ غَيْرَهُ. رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَصْبَغِ بْنِ الْفَرَجِ عَنِ ابْنِ وَهْبٍ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: موزوں پر مسح کرنے کی رخصت کا بیان

حدیث نمبر: 1274

:ترجمہ

(۱۲۷۵) (عبداللہ بن وہب نے انہیں عمروؓ سے حدیث بیان کی، انہوں نے اس کو اسی سند سے بیان کیا اور یہ اضافہ کیا کہ سیدنا عبداللہ بن عمرؓ نے اس کے متعلق سیدنا عمر سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا: ہاں جب تجھ کو سعدؓ نبی سے کوئی چیز بیان کرے تو اس کے علاوہ کسی دوسرے (سے سوال نہ کر۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the concession granted to wipe over the socks

Hadith number: 1274

Translation:

(1274) Abdullah ibn Wahb narrated the hadeeth to him from Amr. He narrated it from the same chain of transmission and added that when Abdullah bin Umar asked Umar (may Allah be pleased with him)

about it, he said: Yes, Whenever Sa'd narrates a Hadith from the Prophet, there is no need to ask anyone else about it.
[Sahih. Narrated by Bukhari 202]

Sunan Kubra Bayhaqi 1275

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ (١٢٧٦)
أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا مُعَلَّى

بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ أَخْبَرَنِي
أَبُو النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ حَدِيثًا يَرْفَعُهُ
إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ - فِي الْوُضُوءِ عَلَى الْخُفَّيْنِ : أَنَّهُ لَا بَأْسَ
بِالْوُضُوءِ عَلَى الْخُفَّيْنِ -

وَحَدَّثَ أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ بِذَلِكَ سَعْدُ بْنُ
أَبِي وَقَّاصٍ وَأَنَّ عُمَرَ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ كَأَنَّهُ يُلُومُهُ حَدَّثَكَ سَعْدُ بْنُ
أَبِي وَقَّاصٍ حَدِيثًا وَلَمْ تَأْخُذْ بِهِ إِذَا حَدَّثَكَ سَعْدُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -
ﷺ - فَلَا تَبْغِ وَرَأَى حَدِيثَهُ حَدِيثًا. ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ إِسْنَادَهُ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: موزوں پر مسح کرنے کی رخصت کا بیان

حدیث نمبر: 1275

ترجمہ:

(۱۲۷۶) (سیدنا سعد بن ابی وقاصؓ موزوں پر مسح کے

متعلق حدیث نبی ﷺ تک مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ وضو میں

میں موزوں پر مسح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔

(ب (سیدنا عبداللہ بن عمرؓ کو یہ حدیث سیدنا سعد بن ابی وقاصؓ نے بیان کی کہ عمرؓ نے عبداللہ بن مسعودؓ سے کہا، گویا وہ انہیں ڈانٹ رہے تھے: تجھے سعد بن ابی وقاصؓ نے حدیث بیان کی اور تو نے اس پر عمل نہیں کیا۔ جب تجھے سعد بن ابی وقاصؓ سے حدیث بیان کریں تو پھر اس کے سوا کوئی دوسری حدیث تلاش نہ کر۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the concession granted to wipe over the socks

Hadith number: 1275

Translation:

(1275) Sa'd ibn Abi Waqqas (may Allah be pleased with him) has narrated, in a marfu hadith, from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) regarding wiping over socks that there is nothing

wrong with wiping over socks in ablution.

(B) Sa'd ibn Abi Waqqas narrated this hadeeth to Abdullah ibn Umar that Umar said to Abdullah ibn Masud, as if he was scolding him: Sa'd ibn Abi Waqqas narrated a hadeeth to you and you did not act upon it. When they narrate a hadith to you from Saad bin Abi Waqas, then do not look for any other hadith.

[Sahih. Narrated by Ahmad 1/14]

Sunan Kubra Bayhaqi 1276

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ (١٢٧٧)
الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامٍ
قَالَ: بَالَ جَرِيرٌ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ فَقِيلَ: تَفْعَلُ
بِذَا؟ قَالَ: نَعَمْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ -بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ
عَلَى خُفَيْهِ-

قَالَ الْأَعْمَشُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ كَانَ يُعْجِبُهُمْ بِذَا الْحَدِيثُ لِأَنَّ
إِسْلَامَ جَرِيرٍ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ -
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي
مُعَاوِيَةَ وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ آدَمَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى
كتاب: پاکی کا بیان

باب: موزوں پر مسح کرنے کی رخصت کا بیان

حدیث نمبر: 1276

:ترجمہ

(۱۲۷۷) (ہمام کہتے ہیں کہ سیدنا جریر^{رض} نے پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور موزوں پر مسح کیا۔ عرض کیا گیا: آپ اس طرح کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: ہاں میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا، آپ ﷺ نے پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور موزوں پر مسح کیا۔

(ب) (ابراہیم کہتے ہیں کہ انہیں یہ حدیث بہت اچھی لگتی تھی کیونکہ سیدنا جریر^{رض} کا اسلام قبول کرنا سورۃ مائدہ کے نزول کے بعد ہوا تھا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the concession granted to wipe over the socks

Hadith number: 1276

Translation:

(1276) Hammam says that Syeduna Jarir urinated, then performed ablution and wiped over socks. It was said: Do you do it like this? He said: Yes, I saw the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) urinated, then performed ablution and wiped over his socks.

(B) Ibrahim says that he liked this hadith very much because Syeduna Jarir's conversion to Islam took place after the revelation of Surah Al-Maidah.

[Sahih. Narrated by Bukhari 387 and Muslim 272 and Nasai 775 and Tirmidhi 93 and Ibn Majah 543 and Ahmad 4/358, 361, 364]

Sunan Kubra Bayhaqi 1277

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ (١٢٧٨)
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ: مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ الْقَرَازُ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ
عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ: أَنَّ جَرِيرًا بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى
الْخُفَّيْنِ وَقَالَ: مَا يَمْنَعُنِي أَنْ أُمْسَحَ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ -
مَسَحَ- قَالُوا: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ. قَالَ: مَا-
أَسْلَمْتُ إِلَّا بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: موزوں پر مسح کرنے کی رخصت کا بیان

حدیث نمبر: 1277

:ترجمہ

(۱۲۷۸) (سیدنا ابو زر عہ بن عمرو بن جریر سے روایت ہے کہ بیشک سیدنا جریر^{رض} نے پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور موزوں پر مسح کیا اور کہا: مجھے مسح کرنے سے کوئی چیز مانع نہیں۔ تحقیق میں نے رسول اللہ ﷺ کو مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا: یہ تو سورۃ مائدہ کے نازل ہونے سے پہلے کا حکم (ہے)۔ انہوں نے کہا: میں سورۃ مائدہ کے نزول کے بعد مسلمان ہوا ہوں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the concession granted to wipe over the socks

Hadith number: 1277

Translation:

(1277) It is narrated on the authority of Abu Zara'ah bin Amr bin Jarir that Jarir urinated, then performed ablution and wiped over socks and said: There is nothing that (can) prevent me from wiping over the socks for I have seen the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) wiping (over the socks). They (the people) said: This might be (the ruling) before the revelation of Surat Maidah. He replied: I embraced Islam after the revelation of Surat Maidah.

[Hasan (Fair). Narrated by Abu Dawud 154]

Sunan Kubra Bayhaqi 1278

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ (١٢٧٩)
الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ بِهَمْدَانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا آدَمُ
بْنُ أَبِي إِيَّاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ
حُذَيْفَةَ قَالَ: مَشَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - إِلَى سُبَّاطَةِ قَوْمٍ فَبَالَ
قَائِمًا ثُمَّ دَعَا بِمَائٍ فَجِئْتُهُ بِمَائٍ ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ -
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ آدَمَ بْنِ أَبِي إِيَّاسٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ
مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنِ الْأَعْمَشِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: موزوں پر مسح کرنے کی رخصت کا بیان

حدیث نمبر: 1278

ترجمہ:

(۱۲۷۹) (سیدنا حذیفہ رض سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر کی طرف چلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، پھر پانی منگوا یا، میں پانی لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور موزوں پر مسح کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the concession granted to wipe over the socks

Hadith number: 1278

Translation:

(1278) It is narrated from Hudhaifah (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) walked towards the garbage heap of the people, he urinated while standing, then asked for water, when I

brought water, he performed ablution and wiped over his socks.

[Sahih. Narrated by Muslim 273 and Nasai 18 and Abu Dawud 23 and Tirmidhi 13 and Ibn Majah 544]

Sunan Kubra Bayhaqi 1279

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا (١٢٨٠)
أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّفَّارِ حَدَّثَنَا ابْنُ مِلْحَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ
حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ ابْنُ عَبْدِ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا
قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ
إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - : أَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ فَاتَّبَعَهُ
الْمُغِيرَةُ بِإِدَاوَةٍ فِيهَا مَاءٌ ، فَصَبَّ عَلَيْهِ حِينَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ
فَتَوَضَّأَ ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ -
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ
عَنْ قُتَيْبَةَ كِلَاهُمَا عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب : پاکی کا بیان

باب : موزوں پر مسح کرنے کی رخصت کا بیان

حدیث نمبر : 1279

:ترجمہ

(۱۲۸۰) (سیدنا مغیرہ بن شعبہ^{رض} کے والد نبی ﷺ سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ قضائے حاجت کے لیے نکلے، سیدنا مغیرہ^{رض} آپ ﷺ کے پیچھے پانی کا ایک ڈول لے کر گئے، آپ ﷺ نے اس پر ڈالا جس وقت آپ اپنی حاجت سے فارغ ہوئے پھر آپ ﷺ نے وضو اور موزوں پر مسح کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the concession granted to wipe over the socks

Hadith number: 1279

Translation:

(1279) The father of Syeduna Mughira bin Shuba (may Allah be pleased with him) narrates from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be

upon him) went out to relieve himself. Syeduna Mugirah followed him with a bucket of water, the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) poured water on it when he finished relieving himself. Then he (the Prophet) performed ablution and wiped over his socks.

[Sahih. Narrated by Bukhari 182, 203, 4421, 5799 and Muslim 274 and Nasai 82, 108, 125 and Abu Dawud 149 and Ahmad 4/249, 251, 254, 255 and Darimi 740]

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ يُوسُفَ (١٢٨١)
بْنِ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ
بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ
(ح) قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ
حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ .

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ : الْحَسَنُ (ح)
بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَلِيمِ الصَّائِغِ بِمَرَوْ أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ
أَخْبَرَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ
عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ أُمَيَّةِ الضَّمْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : رَأَيْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - مَسَحَ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخُفَيْهِ .

لَفْظُ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ وَفِي حَدِيثِ الْأَخْرَيْنِ : أَنَّهُ
رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - مَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ وَالْعِمَامَةِ .
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِانَ .
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَحَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ وَأَبَانُ
عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ . وَرَوَاهُ
مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَمْرٍو .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: موزوں پر مسح کرنے کی رخصت کا بیان

حدیث نمبر: 1280

ترجمہ:

(۱۲۸۱) (الف) (جعفر بن عمرو بن امید ضمیری اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو پگڑی اور موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔

(ب) (عبداللہ بن مبارک کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ نے موزوں اور پگڑی پر مسح کیا۔

(ج) (یحییٰ بن ابی کثیر سے موزوں پر مسح کے متعلق روایت ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the concession granted to wipe over the socks

Hadith number: 1280

Translation:

(1280) (a) Ja'far ibn Amr ibn Umayd al-Zamri narrates from his father that he saw the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) wiping over his turban and socks.

(B) The words in the hadith of Abdullah bin Mubarak are that he saw the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) wipe over his socks and turban.

(C) There is a narration from Yahya bin Abi Katheer about wiping over the socks.

[Sahih. Narrated by Bukhari 204, 205 and Nasai 119 and Ibn Majah 562 and Ahmad 4/139, 179, 5/287, 288 and Darimi 737]

Sunan Kubra Bayhaqi 1281

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَابِرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ (١٢٨٢)
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ
عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ
الضَّمَّرِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ - يَمْسَحُ عَلَى خُفَيْهِ -
وَقَدْ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ بِذِهِ الرَّوَايَاتِ إِشَارَةً إِلَيْهَا.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: موزوں پر مسح کرنے کی رخصت کا بیان

حدیث نمبر: 1281

:ترجمہ

(۱۲۸۲) عمرو بن امیر ضمیری فرماتے ہیں: میں نے نبی ﷺ کو موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ امام بخاری (نے) ان روایات کی طرف اشارہ کیا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the concession granted to wipe over the socks

Hadith number: 1281

Translation:

(1281) Amr ibn Amir al-Zamri says: I saw the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) wiping over his socks. Imam

Bukhari (may Allah have mercy on him) has referred to these traditions.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1282

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ (١٢٨٣)
يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ
نُمَيْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ-

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ: مُحَمَّدُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ الْمُزَكِّي حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ

إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ
عُتَيْبَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ
قَالَ حَدَّثَنِي بِلَالٌ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -
ﷺ - تَوَضَّأَ ، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ -

لَفْظُ حَدِيثِ عَيْسَى وَفِي حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بِلَالٍ
أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - تَوَضَّأَ ، وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ - :

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ
وَتَابِعَهُمْ عَلَى ذَلِكَ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ وَأَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ
وَمُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ فَلَمْ يَذْكَرْ كَعْبًا فِي
إِسْنَادِهِ -

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ شُعْبَةُ فِي آخِرِينَ عَنِ الْحَكَمِ مُرْسَلًا وَرَوَاهُ
زَائِدَةُ وَعَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ عَنِ الْأَعْمَشِ فَذَكَرَا فِيهِ الْبِرَائِيَّ بَدَلَ
كَعْبٍ وَمَنْ أَقَامَ إِسْنَادَهُ ثِقَاتٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى
كتاب: پاکی کا بیان

باب: موزوں پر مسح کرنے کی رخصت کا بیان

حدیث نمبر: 1282

ترجمہ:

(۱۲۸۳) (الف) (سیدنا بلال^{رض} سے روایت ہے کہ میں نے نبی ﷺ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا اور آپ ﷺ نے موزوں اور چادر پر مسح کیا۔

(ب) (سیدنا بلال^{رض} سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے وضو کیا اور موزوں اور پگڑی پر مسح کیا۔

(د) (اس روایت کو علی بن مسہر اور ابو معاویہ نے اعمش سے روایت کیا ہے، اس کی متابعت عبدالواحد بن زیاد، اسحاق فزار اور محمد بن فضیل نے کی ہے۔ ثوری نے اعمش سے بیان کیا ہے لیکن اپنی سند میں کعب کا ذکر نہیں کیا۔ اسی طرح شعبہ نے آخر میں حکم سے دو روایات مرسل بیان کی ہیں۔

English

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the concession granted to wipe over the socks

Hadith number: 1282

Translation:

(1282) (a) It is narrated from Syeduna Bilal (may Allah be pleased with him) that I saw the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) performing ablution and he wiped over his socks and khimar (head covering).

(B) It is narrated from Bilal (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) performed ablution and wiped over his socks and turban.

(C) This narration has been narrated by Ali ibn Mashar and Abu Mu'awiyah from A'mash. It is followed by Abdul Wahid bin Ziad, Ishaq Fazar and Muhammad bin Fazil. Al-Thawri has narrated it from

Aamash but has not mentioned Ka'b in his chain of transmission. Similarly, Shuba has narrated two traditions from Hakam in the end.

[Sahih. Narrated by Muslim 275 and Nasai 104 and Tirmidhi 101 and Ibn Majah 561 and Ahmad 6/12-15]

Sunan Kubra Bayhaqi 1283

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا (١٢٨٤)
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ
مِهْرَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ
عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ وَهُوَ سُلَيْمَانُ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ
أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً وَمَسَحَ عَلَيَّ
الْخُفَّيْنِ وَصَلَّى الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ
لَهُ عُمَرُ: صَنَعْتَ شَيْئًا مَا كُنْتَ تَصْنَعُهُ. فَقَالَ: ((عَمَدًا فَعَلْتُهُ
يَا عُمَرُ)).

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: موزوں پر مسح کرنے کی رخصت کا بیان
حدیث نمبر: 1283

:ترجمہ

(۱۲۸۴) (سلیمان بن بریدہ اپنی والد سے نقل فرماتے ہیں کہ میں نے نبی ﷺ کو دیکھا، آپ ﷺ نے ایک ایک مرتبہ وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسح کیا اور ایک وضو سے تمام نمازیں پڑھیں، آپ ﷺ سے سیدنا عمرؓ نے کہا: آپ نے یہ کام کیا ہے اس سے پہلے آپ ﷺ ایسا نہیں کرتے تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا " اے عمر! میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے۔"

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the concession granted to wipe over the socks

Hadith number: 1283

Translation:

(1283) Sulaiman ibn Buraida narrates from his father that I saw the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him). He performed ablution once and wiped over his socks and performed all prayers with

one ablution. Umar (may Allah be pleased with him) said to him: I saw you doing a thing today that you never did before. He said: "O Umar! I have done this on purpose."

[Sahih. Narrated by Muslim 277 and Nasai 133 and Abu Dawud 172 and Tirmidhi 61 and Ibn Majah 510 and Ahmad 5/350, 351, 358 and Darimi 285]

Sunan Kubra Bayhaqi 1284

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذُبَارِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا (١٢٨٥)
أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ
مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -
وَمَ الْفَتْحِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ ۖ
فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : إِي رَأَيْتَكَ صَنَعْتَ شَيْئًا لَمْ تَصْنَعْهُ . قَالَ : عَمْدًا ،
صَنَعْتُهُ .

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ
سَعِيدٍ .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب : پاکی کا بیان
باب : موزوں پر مسح کرنے کی رخصت کا بیان
حدیث نمبر : 1284

:ترجمہ

(١٢٨٥) (سلیمان بن بریدہ اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں کہ
نبی ﷺ نے فتح مکہ کے دن ایک وضو سے پانچ

نمازیں پڑھیں اور موزوں پر مسح کیا۔ آپ ﷺ سے عمرؓ نے کہا: میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ ﷺ نے وہ کچھ کیا ہے جو پہلے نہیں کرتے تھے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the concession granted to wipe over the socks

Hadith number: 1284

Translation:

(1284) Sulaiman ibn Buraida narrates from his father that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) performed all five prayers with one ablution on the day of the conquest of Makkah and wiped over his socks. Umar (may Allah be pleased with him) said to him: I have seen that you have done something which you

did not do before. He replied: I have done this on purpose.

[Sahih. Narrated by Muslim 277 and Nasai 133 and Abu Dawud 172 and Tirmidhi 61 and Ibn Majah 510 and Ahmad 5/350, 351, 358 and Darimi 285]

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ : أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي حَدَّثَنَا (١٢٨٦)
أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ
الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا بُكَيْرُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ حَدَّثَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ : أَنَّهُ سَافَرَ
مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - وَادِيًا ، فَقَضَى
حَاجَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَتَوَضَّأَ ، وَمَسَحَ عَلَى خَفَيْهِ ، فَقُلْتُ يَا
رَسُولَ اللَّهِ نَسِيتَ لَمْ تَخْلَعْ الْخَفَيْنِ -
((قَالَ)) : كَلَّا بَلْ أَنْتَ نَسِيتَ بِهَذَا أَمْرِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ (-).
وَرَوَيْنَا جَوَازَ الْمَسْحِ عَلَى الْخَفَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ
وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ
مَسْعُودٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَحُدَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ وَأَبِي أَيُّوبَ
الْأَنْصَارِيِّ وَأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ وَجَابِرِ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَمْرُو بْنِ الْعَاصِ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ
وَأَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ وَالْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ وَالْبَرَاءِ بْنَ عَازِبِ
وَأَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَأَبِي أَمَامَةَ الْبَابِلِيِّ
وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جُزَيْ وَأَبِي زَيْدِ الْأَنْصَارِيِّ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: موزوں پر مسح کرنے کی رخصت کا بیان

حدیث نمبر: 1285

:ترجمہ

(۱۲۸۶) (سیدنا مغیرہ بن شعبہ رض فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وادی میں داخل ہوئے اور اپنی ضرورت پوری کی، پھر نکلے وضو کیا اور موزوں پر مسح کیا۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ بھول گئے ہیں۔ آپ نے موزے نہیں اتارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہرگز نہیں بلکہ تو بھول گیا ہے۔ اس طرح ہی میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے۔

(ہم نے مسح کے جواز پر سیدنا عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب، سعد بن ابی وقاص، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، حذیفہ بن یمان، ابویوب انصاری، ابوموسیٰ اشعری، عمار بن یاسر، جابر بن عبداللہ، عمرو بن العاص، انس بن مالک، سہل بن سعد

ابومسعود انصاری، مغیرہ بن شعبہ، براء بن عازب، ابو سعید خدری، جابر بن سمرہ، ابو امامہ باہلی، عبداللہ بن حارث بن جزء اور ابو زید انصاری سے روایات نقل کردی ہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the concession granted to wipe over the socks

Hadith number: 1285

Translation:

(1285) Syeduna Mughirah bin Shu'bah says that he traveled with the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him). The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) entered a valley and relieved himself, Then he went out and performed ablution and wiped over his socks. I said: O Messenger of Allah! You

forgot. You didn't take off your socks. He said: Not at all, rather you have forgotten. This is how my Lord has commanded me.

(B) We have narrated about the permissibility of wiping over the socks from Umar ibn Khattab, Ali ibn Abi Talib, Saad ibn Abi Waqas, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, Huzaiifa ibn Yaman, Abu Ayyub Ansari, Abu Musa al-Ash'ari, Ammar ibn Yasir, Jabir ibn Abdullah, Amr ibn al-Aas. Anas ibn Malik, Sahl ibn Sa'd, Abu Mas'ud Ansari, Mughirah ibn Shu'bah, Bara ibn Azib, Abu Sa'eed al-Khudri, Jabir ibn Samra, Abu Imam Bahli, Abdullah ibn Harith ibn Jaz and Abu Zaid Ansari (may Allah be pleased with them).

[Daif (Weak). Narrated by Abu Dawud 156 and Ahmad 4/246, 253]

Sunan Kubra Bayhaqi 1286

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ (١٢٨٧)
الْجَرَّاحِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ شَاسَوَيْهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ السُّكَّرِيُّ
حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ زَمْعَةَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ الْبَاشَانِيُّ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
الْمُبَارَكِ: لَيْسَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ عِنْدَنَا خِلَافٌ وَإِنَّ
الرَّجُلَ لَيَسْأَلُنِي عَنِ الْمَسْحِ فَأَرْتَابَ بِهِ أَنْ يَكُونَ صَاحِبَ هَوَى-
بَلَّغَنِي عَنْ أَبِي بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْذِرِ أَنَّهُ قَالَ عُقَيْبُ
بِذِهِ الْحِكَايَةِ ، وَذَلِكَ إِنَّ كُلَّ مَنْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ أَصْحَابِ
رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - أَنَّهُ كَرِهَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، فَقَدْ رُوِيَ
عَنْهُ غَيْرُ ذَلِكَ-

قَالَ الشَّيْخُ وَإِنَّمَا بَلَّغْنَا كَرَاهِيَةَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَعَائِشَةَ

وَإِبْنِ عَبَّاسٍ-

أَمَّا الرَّوَايَةُ فِيهِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: سَبَقَ الْكِتَابُ الْمَسْحَ عَلَى
الْخُفَّيْنِ- وَلَمْ يُرَوْ ذَلِكَ عَنْهُ بِإِسْنَادٍ مَوْصُولٍ يَثْبُتُ مِثْلَهُ-
وَأَمَّا عَائِشَةُ فَإِنَّهَا كَرِهَتْ ذَلِكَ ثُمَّ ثَبَّتَ عَنْهَا أَنَّهَا أَحَالَتْ
بِعِلْمِ ذَلِكَ عَلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، وَعَلَىٰ أَخْبَرَ عَنِ النَّبِيِّ
-بِالرُّخْصَةِ فِيهِ- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: موزوں پر مسح کرنے کی رخصت کا بیان

حدیث نمبر: 1286

ترجمہ:

(۱۲۸۷) (الف) (علیٰ ہاشمی نے مجھے خبر دی کہ عبداللہ بن
مبارک نے فرمایا: ہمارے نزدیک موزوں پر مسح کرنے پر
اختلاف نہیں ہے اور جو مجھ سے مسح کے متعلق سوال
کرتا ہے تو گویا اس نے شک کیا اور وہ خواہش پرست ہے۔

ب (محمد بن ابراہیم اس واقعہ کے بعد لکھتے ہیں کہ تمام روایات اس مسئلہ میں جو اصحاب رسول سے منقول ہیں، ان میں موزوں پر مسح کی کراہت کا بیان ہے جبکہ روایات اس کے برعکس ہیں۔

ج (شیخ کہتے ہیں کہ یہ کراہت سیدنا علیؓ، عائشہ اور ابن عباسؓ سے منقول ہے۔

د (اس مسئلہ میں سیدنا علیؓ کی روایت ہے کہ کتاب اللہ میں موزوں پر مسح کے متعلق گزر چکا ہے۔ ان سے یہ روایت موصول اسناد سے منقول نہیں ہے۔

ر (سیدہ عائشہؓ اس کو ناپسند کرتی تھیں، پھر انہوں نے یہ بات سیدنا علیؓ کو بتلائی تو انہوں نے کہا کہ نبی ﷺ سے اس مسئلہ میں رخصت ثابت ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the concession granted to wipe over the socks

Hadith number: 1286

Translation:

(1286) (a) Ali Bashani informed me that Abdullah bin Mubarak (may Allah have mercy on him) said: According to us there is no disagreement on wiping over the socks and whoever asks me about wiping (over the socks), it is as if he is skeptical and he is an aspirant.

(B) Muhammad ibn Ibrahim writes after this incident that all the narrations which are narrated from the Companions of the Prophet in this matter state the abomination of wiping over the socks while the narrations state the opposite.

(C) Sheikh says that this abomination is narrated from Ali, Ayesha and Ibn Abbas (may Allah be pleased with them).

(D) In this regard, there is a narration of Syedna Ali (may Allah be pleased with

him) that has been mentioned in the Book of Allah regarding wiping on socks. This narration is not narrated from him via a mawsul isnad (chain of transmission).

(E) Syeda Ayesha (may Allah be pleased with her) used to dislike it. Then she told this to Syeduna Ali (may Allah be pleased with him) so he said that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) had granted concession in this matter.

[Daif (Weak). Narrated by Abu Nuaym in Hilyah]

Sunan Kubra Bayhaqi 1287

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا بِصِحَّةِ ذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدٍ (١٢٨٨)
بْنُ أَبِي عَمْرٍو وَالْقَاضِي أَبُو الْهَيْثَمِ : عُنْبَةُ بْنُ خَيْثَمَةَ قَالُوا
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ
الْجَبَّارِ الْعُطَارِدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ عَنِ الْأَعْمَشِ
عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ شَرِيحِ بْنِ هَانِي
قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، فَقَالَتْ : أَنْتِ
عَلِيًّا ، فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ مِنِّي . فَأَتَيْتُ عَلِيًّا فَسَأَلْتُهُ عَنِ
الْمَسْحِ فَقَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - يَأْمُرُنَا أَنْ يَمْسَحَ الْمُقِيمُ
يَوْمًا وَلَيْلَةً وَالْمُسَافِرُ ثَلَاثًا .
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ زُبَيْرِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ .
وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَبِي أَنَيْسَةَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ فَذَكَرَ هَذَا الْإِسْنَادَ
وَقَالَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : مَا لِي بِهِذَا عِلْمٌ ، وَلَكِنْ أَنْتِ رَجُلًا فَسَلُّهُ
فَهُوَ أَعْلَمُ . قُلْتُ : وَمَنْ هُوَ ؟ قَالَتْ : عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ
أَنْتِ فَسَلُّهُ .

ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: موزوں پر مسح کرنے کی رخصت کا بیان

حدیث نمبر: 1287

:ترجمہ

(۱۲۸۸) (شریح بن ہانی فرماتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ سے موزوں پر مسح کرنے کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا: علی کے پاس جاؤ وہ اس مسئلہ میں مجھ سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ میں سیدنا علی کے پاس آیا اور مسح کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ مقیم آدمی ایک دن اور ایک رات اور مسافر تین دن اور تین راتیں مسح کرے۔

(ب) (دوسری روایت میں ہے کہ سیدہ عائشہ نے کہا: مجھے اس مسئلہ کا زیادہ علم نہیں ہے۔ آپ ایک شخص کے پاس جائیں وہ اس مسئلہ کو زیادہ جانتے

ہیں، میں نے پوچھا: وہ کون ہے؟ سیدہ عائشہ نے کہا: وہ
علی بن ابی طالب ہیں، ان کے پاس جائیے اور مسئلہ
پوچھیے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the concession
granted to wipe over the socks

Hadith number: 1287

Translation:

(1287) Shuraih ibn Hani says that when I
asked Ayesha (may Allah be pleased with
her) about wiping over the socks, she said:
Go to Ali, he knows more about this issue
than me. I went to Ali (may Allah be pleased
with him) and asked him about wiping (over
the socks). He said: The Messenger of Allah
(peace and blessings of Allah be upon him)
used to command

us that the resident should wipe (over his socks) for one day and one night and the traveler should wipe (over his socks) for three days and three nights.

(B) In another narration, it is narrated that Syeda Ayesha (may Allah be pleased with her) said: I do not know much about this issue. You should go to a person who knows the issue better, I asked: Who is he? Syeda Ayesha said: He is Ali ibn Abi Talib (may Allah be pleased with him), go to him and ask him about this issue.

[Sahih. Narrated by Muslim 276 and Nasai 128 and Ibn Majah 552 and Ahmad 1/96, 100, 113, 117, 120, 133, 134, 146, 149, 6/110 and Darimi 741]

Sunan Kubra Bayhaqi 1288

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذُبَارِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ (١٢٨٩)
بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شَوْذَبٍ بِوَأَسِطٍ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا
عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ عَنْ شَرِيكِ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شَرِيحٍ عَنْ أَبِيهِ
قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَتْ: أَنْتِ
عَلِيًّا فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - فَأَنْتَيْتُهُ فَسَأَلْتُهُ
فَقَالَ: كُنَّا إِذَا سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - يَأْمُرُنَا بِالْمَسْحِ عَلَى
خِفَافِنَا.

وَأَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَإِنَّمَا كَرِهَهُ حِينَ لَمْ
يُنْبِتْ لَهُ مَسْحُ النَّبِيِّ ﷺ - عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ فَلَمَّا
ثَبَّتَ لَهُ رَجَعَ إِلَيْهِ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: موزوں پر مسح کرنے کی رخصت کا بیان

حدیث نمبر: 1288

:ترجمہ

(۱۲۸۹) (مقدام بن شریع اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ^{رض} سے موزوں پر مسح کرنے کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا: علی^{رض} کے پاس جاؤ وہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے۔ میں ان کے پاس آیا اور پوچھا تو انہوں نے کہا: جب ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سفر کرتے تھے، آپ ﷺ ہم کو موزوں پر مسح کرنے کا حکم دیا کرتے تھے۔

اور ابن عباس^{رض} اس کو ناپسند کرتے تھے۔ جب تک نبی ﷺ کا موزوں پر مسح کرنا ان کے ہاں ثابت نہیں ہو گیا پھر جب سورۃ مائدہ نازل ہوئی تو انہوں نے رجوع کر لیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the concession granted to wipe over the socks

Hadith number: 1288

Translation:

(1288) Muqaddam ibn Shuraih narrates from his father that when I asked Ayesha (may Allah be pleased with her) about wiping over the socks, she said: Go to Ali, he used to travel alongside the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him). I came to him and asked him and he said: When we would travel with the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him), he used to order us to wipe over the socks.

And Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) disliked (doing) it. Until it was proved to him that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) used to wipe over his socks, then when Surah Al-

Maidah was revealed, he retracted his view.
[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1289

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا بِصِحَّةِ ذَلِكَ أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى (١٢٩٠)
بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ
الْصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ الرَّمَادِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي خُصَيْفٌ أَنَّ مِقْسَمًا مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ قَالَ : أَنَا عِنْدَ عُمَرَ
حِينَ سَأَلَهُ سَعْدٌ وَابْنُ عُمَرَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، فَقَضَى لِسَعْدٍ
قَالَ فَقُلْتُ لِسَعْدٍ : قَدْ عَلِمْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - مَسَحَ عَلَى
خُفَّيْهِ ، وَلَكِنْ أَقْبَلَ الْمَائِدَةَ أَمْ بَعْدَهَا ، لَا يُخْبِرُكَ أَحَدٌ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - مَسَحَ بَعْدَ الْمَائِدَةِ فَسَكَتَ عُمَرُ .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب : پاکی کا بیان
باب : موزوں پر مسح کرنے کی رخصت کا بیان
حدیث نمبر : 1289

:ترجمہ

(۱۲۹۰) (سیدنا ابن عباس رضی نے خبر دی کہ میں عمر رضی کے پاس تھا جس وقت سیدنا سعد رضی اور ابن عمر رضی نے موزوں پر مسح کرنے کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے سیدنا سعد رضی کے لیے فیصلہ کیا۔ میں نے سعد رضی سے کہا: بلاشبہ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موزوں پر مسح کیا ہے، لیکن سورۃ مائدہ کے نازل ہونے سے پہلے یا بعد اور کوئی نہیں بتلا سکے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مائدہ کے نزول کے سے پہلے مسح کیا یا بعد تو سیدنا عمر رضی خاموش ہو گئے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the concession granted to wipe over the socks

Hadith number: 1289

Translation:

(1289) Ibn Abbas reported that I was with Umar (may Allah be pleased with him) when Sa'd and Ibn Umar (may Allah be

pleased with them) were asked about wiping over the socks, they decided for Sa'd (to answer the question). I said to Sa'd: Surely we know that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) wiped over his socks, but before or after the revelation of Surah Al-Maidah, no one will be able to say that the Messenger of Allah (peace be upon him) wiped (over the socks) before the revelation of Maidah or after it, so Umar fell silent.

[Daif (Weak). Narrated by Ahmad 1/366]

Sunan Kubra Bayhaqi 1290

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ (١٢٩١)
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَنَا عِنْدَ عُمَرَ حِينَ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ سَعْدُ
: وَابْنُ عُمَرَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، فَقَضَى لِسَعْدٍ ، فَقُلْتُ
لَوْ قُلْتُمْ بِهِذَا فِي السَّفَرِ الْبَعِيدِ وَالْبَرْدِ الشَّدِيدِ -
فَهَذَا تَجْوِيزٌ مِنْهُ لِلْمَسْحِ فِي السَّفَرِ الْبَعِيدِ وَالْبَرْدِ الشَّدِيدِ
بَعْدَ أَنْ كَانَ يُنْكِرُهُ عَلَى الْإِطْلَاقِ -
وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ أَفْتَى بِهِ لِلْمُقِيمِ وَالْمُسَافِرِ جَمِيعًا -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب : پاکی کا بیان

باب : موزوں پر مسح کرنے کی رخصت کا بیان

حدیث نمبر: 1290

:ترجمہ

(۱۲۹۱) (سیدنا ابن عباس^{رض} فرماتے ہیں کہ جس وقت سیدنا سعد^{رض} نے عمر^{رض} کے پاس جھگڑا پیش کیا تو میں سیدنا عمر^{رض} کے پاس تھا اور ابن عمر^{رض} موزوں پر مسح کے قائل تھے۔ انہوں نے سیدنا سعد^{رض} کے لیے فیصلہ کیا تو میں نے کہا: اگر تم کہتے ہو کہ دور دراز سفر اور سخت سردی میں مسح ہے تو یہ تجویز اس مسح کے متعلق ہے جو دور دراز سفر اور سخت سردی میں کیا جائے۔ وہ مطلقاً مسح کو ناپسند کرتے تھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ انہوں نے مقیم اور مسافر دونوں کے لیے فتویٰ دیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the concession granted to wipe over the socks

Hadith number: 1290

Translation:

(1290) Ibn 'Abbas (may Allah be pleased with him) says that when Sa'd argued with Umar (may Allah be pleased with him), I was with Umar and Ibn Umar believed in wiping over the socks. He decided for Syeduna Sa'd, then I said: If you say that there is wiping (over the socks) in long distance travel and severe cold, then this suggestion is related to the wiping (over the socks) that is done in long distance travel and severe cold. They absolutely disliked wiping (over the socks). There is also a saying that he issued fatwas for both the resident and the traveler.

Sunan Kubra Bayhaqi 1291

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ (١٢٩٢)
الْبَيْهَقِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْغَطْرِيفِ
بِجُرْجَانَ أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ سَلَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ
عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ: لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ
وَالْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ. وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: موزوں پر مسح کرنے کی رخصت کا بیان

حدیث نمبر: 1291

:ترجمہ

(۱۲۹۲) (موسیٰ بن سلمہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابن عباسؓ سے موزوں پر مسح کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا: مسافر تین دن اور تین راتیں اور مقیم ایک دن اور ایک رات) مسح کرے گا (اور یہ سند صحیح ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the concession granted to wipe over the socks

Hadith number: 1291

Translation:

(1291) Musa ibn Salamah says that I asked Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) about wiping over the socks: A traveller will (wipe over his socks for) three

days and three nights and a resident will
(wipe over his socks for) one day and one
night and this sanad is sahih (authentic).
[Narrated by Ibn Abi Shaybah 1911]

Sunan Kubra Bayhaqi 1292

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ (١٢٩٣)
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ
الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ فِطْرِ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ

قُلْتُ لِعَطَائٍ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ عِكْرِمَةَ كَانَتْ يَقُولُ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: سَبَقَ الْكِتَابُ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ. قَالَ: كَذَبَ عِكْرِمَةُ، كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: امْسَحْ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَإِنْ خَرَجْتَ مِنَ الْخَلَائِ.

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ وَكَيْعٌ وَغَيْرُهُ عَنْ فِطْرِ.

، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ مَا رَوَى عَنْهُ عِكْرِمَةُ، ثُمَّ لَمَّا جَاءَ هَذَا التَّنْبِيْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - أَنَّهُ مَسَحَ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ قَالَ مَا قَالَ عَطَائٍ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: موزوں پر مسح کرنے کی رخصت کا بیان

حدیث نمبر: 1292

ترجمہ:

(۱۲۹۳) (سیدنا ابن عباس ^{رض} فرماتی تھے کہ موزوں پر مسح کرنے کے متعلق کتاب (قرآن مجید) (سبقت لے گئی ہے۔ انہوں نے کہا: عکرمہ نے غلط کہا۔ ابن عباس ^{رض} فرماتے ہیں کہ موزوں پر مسح کر، اگرچہ تو بیت

الخلاء سے نکلے۔ اس بات کا احتمال ہے کہ ابن عباسؓ وہ
کہا جو ان سے عکرمہؓ نے روایت کیا ہے۔ نبی ﷺ سے ثابت
ہے کہ آپ ﷺ نے سورۃ مائدہ کے نزول کے بعد مسح کیا
ہے۔ یہ عطاء کا قول ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the concession
granted to wipe over the socks

Hadith number: 1292

Translation:

(1292) Syedna Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) used to say that the book (Quran) has preceded with regards to wiping on socks. He said: Ikrimah has said wrong. Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) says that wipe over your socks, even if you come out of the toilet. It is probable that Ibn Abbas (may Allah be

pleased with him) said what Ikrimah narrated from him. It has been proven from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) that he wiped (over his socks) after the revelation of Surah Al-Maidah. This is the view of Ata (may Allah have mercy on him).

[Sahih. Narrated by Ibn Abi Shaybah 1951]

Sunan Kubra Bayhaqi 1293

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدٌ (١٢٩٤)
بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ
عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ : أَنَّ جَرِيرًا تَوَضَّأَ مِنْ
مَطْهَرَةٍ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ قَالُوا : تَمَسَحُ عَلَى خُفِّكَ . قَالَ
إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - يَمَسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ - :
وَكَانَ بَذَا الْحَدِيثُ يُعْجَبُ أَصْحَابَ عَبْدِ اللَّهِ يَعْزِي ابْنَ مَسْعُودٍ
وَيَقُولُونَ : إِنَّمَا كَانَ إِسْلَامُ جَرِيرٍ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ .
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ ابْنِ أَبِي عُمَرَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ
عُيَيْنَةَ .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: موزوں پر مسح کرنے کی رخصت کا بیان

حدیث نمبر: 1293

ترجمہ:

(۱۲۹۴) (ہمام بن حارث سے روایت ہے کہ جریرؓ نے ایک برتن سے وضو کیا اور موزوں پر مسح کیا، لوگوں نے کہا: تو موزوں پر مسح کرتا ہے، انہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ حدیث عبداللہ ابن مسعودؓ کے اصحاب کو بہت پسند تھی اور وہ فرماتے تھے کہ جریر کا مسلمان ہونا سورۃ مائدہ کے نازل ہونے کے بعد ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the concession granted to wipe over the socks

Hadith number: 1293

Translation:

(1293) It is narrated from Hammam bin Harith that Jarir performed ablution from a vessel and wiped over his socks, the people said: You wipe over your socks. He said: I saw the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) wiping over his socks.

This hadith was very much liked by the companions of Abdullah Ibn Masud (may Allah be pleased with him) and they used to say that Jarir became a Muslim after the revelation of Surah Al-Maidah.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1294

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الطَّائِرِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَثْمَانَ (١٢٩٥)
الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَيْسَى أَخْبَرَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَدِمْ
حَدَّثَنِي مُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ : نَزَلَتْ بِشَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ فَتَوَضَّأَ
: وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقُلْتُ لَهُ : تَمَسَحُ عَلَى خُفَيْكَ؟ قَالَ
: نَزَلَ بِي جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ فَقُلْتُ لَهُ
تَمَسَحُ عَلَى خُفَيْكَ؟ قَالَ : نَعَمْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -
يَمَسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ. قَالَ قُلْتُ : بَعْدَ نَزُولِ الْمَائِدَةِ؟ قَالَ : مَا
أَسْلَمْتُ إِلَّا بَعْدَ نَزُولِ الْمَائِدَةِ.
قَالَ أَبُو يُحْمَدَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَدِمْ : مَا سَمِعْتُ فِي الْمَسْحِ
عَلَى الْخُفَّيْنِ بِحَدِيثٍ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب : پاکی کا بیان

باب: موزوں پر مسح کرنے کی رخصت کا بیان

حدیث نمبر: 1294

:ترجمہ

(۱۲۹۵) (مقاتل بن حیان کہتے ہیں کہ میں شہر بن حوشب کے پاس آیا، انہوں نے وضو کیا اور موزوں پر مسح کیا۔ میں نے ان سے کہا: آپ موزوں پر مسح کرتے ہو؟ انہوں نے کہا: میرے پاس جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ آئے۔ انہوں نے وضو کیا اور موزوں پر مسح کیا۔ میں نے ان سے کہا: آپ موزوں پر مسح کرتے ہو؟ انہوں نے کہا: ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے کہا: سورۃ مائدہ کے نازل ہونے کے بعد؟ انہوں نے کہا: میں سورۃ مائدہ کے نازل ہونے کے بعد مسلمان ہوا ہوں۔ ابو یعمد کہتے ہیں کہ ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں: موزوں پر مسح کرنے کے متعلق اس حدیث سے اچھی میں نے کوئی نہیں سنی۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the concession granted to wipe over the socks

Hadith number: 1294

Translation:

(1294) Muqatil ibn Hayyan says that I came to Shahar ibn Hoshab, he performed ablution and wiped over his socks. I said to him: Do you wipe over your socks? He said: Jarir bin Abdullah (may Allah be pleased with him) came to me. He performed ablution and wiped over his socks. I said to him: Do you wipe over your socks? He said: Yes, I have seen the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) wiping over his socks. I said: After the revelation of Surah Al-Maidah? He said: I became a Muslim after the revelation of Surah Al-Maidah.

Abu Ya'mad says that Ibrahim ibn Adham says: I have not heard any hadith better

than this hadith with regards to wiping over the socks.

[Hasan Li Ghayrihi (Fair due to external evidence)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1295

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ: الْحَسَنُ بْنُ مُ (١٢٩٦)
 حَمْدُ بْنُ حَبِيبٍ وَأَبُو نَصْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ أَحْمَدَ الْقَامِيَّ قَالَا
 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ: مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
 الطَّرْسُوسِيُّ حَدَّثَنَا حَيَوَةُ بْنُ شَرِيحٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
 بْنِ أَدْبَمَ عَنْ مُقَاتِلٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
 قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ - يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ - فَقَالُوا: بَعْدَ نُزُولِ
 الْمَائِدَةِ؟ قَالَ جَرِيرٌ: إِنَّمَا أَسْلَمْتُ بَعْدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: موزوں پر مسح کرنے کی رخصت کا بیان
 حدیث نمبر: 1295

:ترجمہ

(١٢٩٦) جریر بن عبد اللہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی ﷺ کو
 موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے کہا: سورۃ
 مائدہ کے نازل ہونے کے بعد؟ جریرؓ نے کہا: میں سورۃ
 مائدہ کے نازل ہونے کے بعد مسلمان ہوا ہوں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the concession granted to wipe over the socks

Hadith number: 1295

Translation:

(1295) Jarir bin Abdullah (may Allah be pleased with him) says that I saw the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) wiping over his socks. They said: After the revelation of Surah Al-Maidah? Jarir said: I became a Muslim after the revelation of Surah Al-Maidah.

[Hasan Li Ghayrihi (Fair due to external evidence)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1296

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ إِمْلايًّ أَخْبَرَنَا (١٢٩٧)
أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ
السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي
ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ
شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - فِي سَفَرٍ
، فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ تَخَلَّفَ ، وَتَخَلَّفْتُ مَعَهُ بِالْإِدَاوَةِ
فَتَبَرَّرْتُ ثُمَّ أَتَانِي فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ فَتَوَضَّأَ ، وَذَلِكَ عِنْدَ صَلَاةِ
الصُّبْحِ ، فَلَمَّا غَسَلَ وَجْهَهُ وَارَادَ غَسْلَ ذِرَاعَيْهِ ضَاقَ كُمًا
جُبَّتِي وَعَلَيْهِ جَبَّةٌ شَامِيَّةٌ ، فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجَبَّةِ فَعَسَلَ
ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ-

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْخُلَوَانِيِّ وَمُحَمَّدُ
بْنُ رَافِعٍ عَنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: نبی ﷺ کا سفر اور حضر میں موزوں پر مسح کرنا

حدیث نمبر: 1296

:ترجمہ

(۱۲۹۷) (سیدنا مغیرہؓ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سفر میں تھے، راستے میں آپ ﷺ پیچھے رہ گئے اور میں بھی ڈول لے کر آپ کے پیچھے رہا، آپ ﷺ قضائے حاجت کے لیے الگ ہوئے، پھر میرے پاس آئے۔ میں نے آپ ﷺ کے ہاتھوں پر پانی ڈالا، آپ نے وضو کیا اور صبح کی نماز کا وقت تھا۔ جب آپ ﷺ نے اپنا چہرہ دھویا اور اپنے بازوؤں کو دھونے کا ارادہ کیا تو آپ کے جبے کی آستین تنگ ہوگی، آپ ﷺ پر شامی جبہ تھا، آپ نے جبے کے نیچے سے ہاتھ نکالے، پھر وضو کیا اور موزوں پر مسح کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The Prophet's journey and wiping over the socks in Hazar

Hadith number: 1296

Translation:

(1296) Syeduna Mughirah (may Allah be pleased with him) says that we were on a journey with the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him), during the journey he stayed behind and I also stayed behind with him with a bucket (of water), he went to relieve himself, then came to me. I poured water on his hands, he performed ablution and it was time for morning prayer. When he washed his face and intended to wash his arms, the sleeves of his robe were tight, he

was wearing a Syrian robe, he took his hands out from under his robe, then performed ablution and wiped over his socks.

[Sahih. Narrated by Bukhari 182, 203, 4421, 5799 and Muslim 274 and Nasai 82, 108, 125 and Abu Dawud 149 and Ahmad 4/249, 251, 254, 255 and Darimi 740]

Sunan Kubra Bayhaqi 1297

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ (١٢٩٨)
بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَيُّوبَ الْفَقِيهَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ
حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ
سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةَ
، بِنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - لِيَقْضِيَ حَاجَتَهُ
فَقُمْتُ أَسْكُبُ عَلَيْهِ الْمَاءَ مِنْ إِدَاوَةٍ فِي غُرْوَةٍ تَبُوكَ ، فَعَسَلَ
وَجْهَهُ وَذَهَبَ لِيَغْسِلَ ذِرَاعَيْهِ ، فَضَاقَ عَلَيْهِ كَمَا الْجَبَّةُ فَأَخْرَجَهُمَا
مِنْ أَسْفَلَ فَعَسَلَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خَفَّيْهِ - رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي
الصَّحِيحِ عَنْ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَرَوَاهُ
مُسْلِمٌ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ سَعْدِ -
وَأَمَّا الْحَضْرُ فَفِيْمَا -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان

باب: نبی ﷺ کا سفر اور حضر میں موزوں پر مسح کرنا
حدیث نمبر: 1297

ترجمہ:

(۱۲۹۸) (مغیرہ بن شعبہ ^{رض} اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ حاجت پوری کرنے کے لیے گئے، میں کھڑا ہوا میں غزوہ تبوک میں ڈول سے آپ پر پانی ڈالتا تھا) یعنی آپ ﷺ کی خدمت پر مامور تھا۔ آپ ﷺ نے اپنا چہرہ دھویا اور اپنے بازو دھونے شروع ہوئے تو آپ ﷺ کے جبے کی آستین تنگ ہوگئی، آپ نے ان کو نیچے سے نکال کر دھویا اور موزوں پر مسح کیا۔) حضر میں بھی اسی طرح ہے)

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The Prophet's journey and wiping over the socks in Hazar

Hadith number: 1297

Translation:

(1297) Mughirah ibn Shu'bah narrates from his father that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) went to relieve himself. I used to stand up and pour water for him from the bucket during the battle of Tabuk (i.e. I was in charge of his service). He washed his face and began to wash his arms, but the sleeves of his robe were tight. He took them out from the bottom and washed them and wiped over his socks. [Sahih. Narrated by Bukhari 182, 203, 4421, 5799 and Muslim 274 and Nasai 82, 108, 125 and Abu Dawud 149 and Ahmad 4/249, 251, 254, 255 and Darimi 740]

Sunan Kubra Bayhaqi 1298

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ (١٢٩٩)
الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ
حُدَيْفَةَ قَالَ : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -فَانْتَهَى إِلَى سُبَّاطَةِ قَوْمٍ
فَبَالَ قَائِمًا ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ-
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَأَخْرَجَهُ
الْبُخَارِيُّ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنِ الْأَعْمَشِ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاکی کا بیان

باب: نبی ﷺ کا سفر اور حضر میں موزوں پر مسح کرنا

حدیث نمبر: 1298

ترجمہ:

(۱۲۹۹) (سیدنا حذیفہ رض سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ لوگوں کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر کے پاس پہنچے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ پھر وضو کیا اور موزوں پر مسح کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The Prophet's journey and wiping over the socks in Hazar

Hadith number: 1298

Translation:

(1298) It is narrated on the authority of Hudhaifah (may Allah be pleased with him) that I was with the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him), he went to the rubbish heap of the

people, then he urinated while standing.
Then he performed ablution and wiped over
his socks.

[Sahih. Narrated by Bukhari 224, 225, 2471
and Muslim 273 and Nasai 18, 26, 27, 28
and Abu Dawud 23 and Tirmidhi 13 and Ibn
Majah 305, 306 and Ahmad 5/394 and
Darimi 695]

Sunan Kubra Bayhaqi 1299

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ (١٣٠٠)
عُبَيْدِ الصَّفَّارِ حَدَّثَنَا تَمْتَامٌ حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
بْنُ طَلْحَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ: أَتَى
النَّبِيَّ ﷺ - سُبَّاطَةَ قَوْمٍ بِالْمَدِينَةِ فَبَالَ قَائِمًا ، ثُمَّ دَعَا
بِطَهُورٍ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: نبی ﷺ کا سفر اور حضر میں موزوں پر مسح کرنا

حدیث نمبر: 1299

:ترجمہ

(١٣٠٠) (سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ مدینہ میں
قوم کی روٹی (کوڑا کرکٹ کے ڈھیر) کے پاس آئے، آپ ﷺ
نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، پھر پانی منگوایا

وضو کیا اور موزوں پر مسح کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The Prophet's journey and wiping over the socks in Hazar

Hadith number: 1299

Translation:

(1299) It is narrated on the authority of Hudhayfah that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) went to the rubbish heap of the people in Madinah, He urinated while standing, then asked for water, performed ablution and wiped over his socks.

[Sahih. Narrated by Bukhari 224, 225, 2471 and Muslim 273 and Nasai 18, 26, 27, 28 and Abu Dawud 23 and Tirmidhi 13 and Ibn Majah 305, 306 and Ahmad 5/394 and

Sunan Kubra Bayhaqi 1300

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو طَائِرٍ الْفَقِيهُ وَأَبُو (١٣٠١)
زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّيَّ وَأَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو قَالُوا
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

نَافِعٍ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَايِ بْنِ يَسَارٍ
 عَنْ أُسَامَةَ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - الْأَسْوَأُ فَذَبَبَ
 لِحَاجَتِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ - قَالَ أُسَامَةُ - فَسَأَلْتُ بِلَالًا مَا صَنَعَ؟ قَالَ
 بِلَالٌ: ذَبَبَ النَّبِيُّ ﷺ - لِحَاجَتِهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ
 وَيَدَيْهِ ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ -
 قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْأَسْوَأُ: حَائِطٌ بِالْمَدِينَةِ -
 قَالَ الشَّافِعِيُّ وَفِي حَدِيثِ بِلَالٍ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ -
 سَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي الْحَضَرِ لِأَنَّ بِلَالًا حَمَلَ فِي الْحَضَرِ -
 قَالَ الشَّيْخُ: وَحَدِيثٌ عَلِيٍّ وَغَيْرِهِ فِي التَّوْقِيتِ دَلِيلٌ فِي جَوَازِ
 الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي الْحَضَرِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: نبی ﷺ کا سفر اور حضر میں موزوں پر مسح کرنا

حدیث نمبر: 1300

:ترجمہ

(۱۳۰۱) (سیدنا اسامہ ^{رض} سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ باغ میں داخل ہوئے، آپ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے بلال ^{رض} سے سوال کیا: آپ نے کیا کیا؟ سیدنا بلال ^{رض} نے کہا: نبی ﷺ حاجت کے لیے گئے پھر وضو کیا اپنا چہرہ اور ہاتھ دھوئے اور اپنے سر کا مسح کیا اور موزوں پر مسح کیا۔

(ب) (شیخ) رح (فرماتے ہیں کہ اسواف میں اک دیوار تھی۔

(ج) (امام شافعی) رح (فرماتے ہیں کہ سیدنا بلال کی حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضر میں بھی مسح کیا؛ کیونکہ سیدنا بلال ^{رض} نے اسے حضر پر محمول کیا ہے۔

(د) (شیخ فرماتے ہیں کہ سیدنا علی ^{رض} وغیرہ کی حدیث جو مدت کے متعلق ہے وہ حضر میں مسح کے جواز پر دلیل ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The Prophet's journey and wiping

over the socks in Hazar

Hadith number: 1300

Translation:

(1300) It is narrated on the authority of Usama that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) entered a garden and went to the toilet. Usama says that I asked Bilal: What did you do? Syeduna Bilal said: The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) went to perform ablution, then performed ablution, washed his face and hands, wiped his head and wiped over his socks.

(B) Shaykh says that there was a wall in Aswaf.

(C) Imam Shafi'i (may Allah have mercy on him) says that the hadith of Syeduna Bilal

indicates that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) also wiped over his socks in Hazar. Because Syeduna Bilal (may Allah be pleased with him) has assigned it to Hazar.

(D) The Shaykh says that the hadeeth of Syeduna Ali (may Allah be pleased with him) which is related to the period is a proof of the legitimacy of wiping (over the socks) in Hazar.

[Hasan (Fair). Narrated by Al-Tabarani in Mujam Awsat 8831]

Sunan Kubra Bayhaqi 1301

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ (١٣٠٢)
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرِ
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي يَعْفُورِ الْعَبْدِيِّ : أَنَّهُ رَأَى أَنَسَ بْنَ
مَالِكٍ فِي دَارِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ ، وَمَسَحَ
عَلَى خُفَيْهِ-

وَرَوَيْنَا فِيهِ عَنْ عُمَرَ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَابْنِ عُمَرَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب : پاکی کا بیان

باب : نبی ﷺ کا سفر اور حضر میں موزوں پر مسح کرنا

حدیث نمبر : 1301

:ترجمہ

(١٣٠٢) (أبی یعفور عبدی سے روایت ہے کہ انہوں نے

سیدنا انس بن مالکؓ کو عمرو بن حریث کے گھر میں دیکھا کہ انہوں نے پانی منگوا یا، وضو کیا اور موزوں پر مسح کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The Prophet's journey and wiping over the socks in Hazar

Hadith number: 1301

Translation:

(1301) It is narrated on the authority of Abu Yafur Abdi that he saw Anas ibn Malik (may Allah be pleased with him) in the house of Amr ibn Harith that he asked for water, performed ablution and wiped over his socks.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1302

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ (١٣٠٣) السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمَادِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ قَيْسِ الْمَلَائِيُّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَتِيْبَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ شَرِيحِ بْنِ هَانِيٍّ قَالَ : أَتَيْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ - أَسْأَلُهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَتْ عَلَيْكَ يَا بَنِي أَبِي طَالِبٍ ، فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - . قَالَ : فَأَتَيْتُ عَلِيًّا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - أَنْ نَمْسَحَ ثَلَاثًا إِذَا سَافَرْنَا ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً إِذَا أَقْمْنَا .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: موزوں پر مسح کرنے کی حد

حدیث نمبر: 1302

:ترجمہ

(۱۳۰۳) شریع بن ہانی سے روایت ہے کہ میں سیدہ عائشہ کے پاس آیا اور موزوں پر مسح کرنے کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا: علی بن ابی طالبؓ کے پاس جا۔ وہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے، راوی کہتا ہے کہ میں علیؓ کے پاس آیا، میں نے ان سوال کیا تو انہوں نے کہا: رسول اللہ ﷺ نے ہم کو حکم دیا کہ جب ہم مسافر ہوں تو تین دن مسح کریں اور جب مقیم ہوں تو ایک دن اور ایک رات۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The limit for wiping over the socks

Hadith number: 1302

Translation:

(1302) It is narrated on the authority of Shari'ah ibn Hani that I came to Ayesha (may Allah be pleased with her) and asked her about wiping over the socks. She said: Go to Ali ibn Abi Talib (may Allah be pleased with him). He used to travel with the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him). The narrator says: I went to Ali, When I asked him, he said: The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) commanded us to wipe (over our socks) for three days while we were traveling and one day and one night when we were residents.

[Sahih. Narrated by Muslim 276 and Nasai 128 and Ibn Majah 552 and Ahmad 1/96, 100, 113, 117, 120, 133, 134, 146, 149,

Sunan Kubra Bayhaqi 1303

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرٍو بْنُ (١٣٠٤)
أَبِي جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الرَّزَّاقِ فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ قَالَ فَقَالَ: جَعَلَ رَسُولُ
اللَّهِ ﷺ -ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ-

وَكَانَ سُفْيَانُ إِذَا ذَكَرَ عَمْرًا أَتْنَىٰ عَلَيْهِ.
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيِّ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: موزوں پر مسح کرنے کی حد

حدیث نمبر: 1303

:ترجمہ

(۱۳۰۴) (عبد الرزاق نے ہم کو خبر دی جو پچھلی روایت کی

طرح ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے تین دن اور تین

تین راتیں مسافر اور ایک دن اور ایک رات مقیم کے لیے

مقرر کی ہے۔

(ب) سفیان جب عمرو کا ذکر کرتے تو ان کی تعریف کرتے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The limit for wiping over the socks

Hadith number: 1303

Translation:

(1303) Abdul Razzaq informed us which is similar to the previous narration. He said that the Messenger of Allah (peace be upon him) has appointed three days and three nights for the traveler and one day and one night for the resident (for wiping over the socks).

(B) Sufyan used to praise Amr whenever he mentioned him.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1304

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ (١٣٠٥)
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ زِيَادِ الْبَصْرِيُّ بِمَكَّةَ
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ
الضَّرِيرُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَتِيْبَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ
مُخَيْمِرَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيٍّ قَالَ : سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ
الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَتْ : سَلْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، فَإِنَّهُ
كَانَ يَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ . - فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : كُنَّا نَمْسَحُ
عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ ، وَيَوْمًا
وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ .

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ زُبَيْرِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ أَبِي
مُعَاوِيَةَ ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَقَالَتْ : أَنْتِ عَلِيًّا فَإِنَّهُ أَعْلَمُ
بِذَلِكَ مِنِّي ، فَأَتَيْتُ عَلِيًّا فَذَكَرَهُ . وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ

زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: موزوں پر مسح کرنے کی حد

حدیث نمبر: 1304

:ترجمہ

(۱۳۰۵) (سیدنا شریح بن ہانی^{رض} سے روایت ہے کہ میں نے سیدہ عائشہ^{رض} سے موزوں پر مسح کرنے کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ علی بن ابی طالب^{رض} سے سوال کر، وہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ مل کر جہاد کرتے تھے، میں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا: ہم نبی ﷺ کے زمانہ میں سفر میں تین دن اور تین راتیں اور اقامت کی حالت میں ایک دن اور ایک رات مسح کرتے تھے۔

(:ب (ابو معاویہ کی حدیث میں ہے کہ سیدہ عائشہ^{رض} نے کہا تو علی^{رض} کے پاس جا وہ اس مسئلہ کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The Prophet's journey and wiping over the socks in Hazar

Hadith number: 1304

Translation:

(1304) It is narrated on the authority of Syeduna Shuraih bin Hani that when I asked Ayesha (may Allah be pleased with her) about wiping over the socks, she said, go to Ali ibn Abi Talib (may Allah be pleased with him), he used to wage jihad together with the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him). I asked him and he said: In the time of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) we used to wipe (over our socks) for three days and three nights

while traveling and one day and one night while we were residents.

(B) It is narrated in the hadith of Abu Mu'awiyah that Ayesha (may Allah be pleased with her) said: Go to Ali, he knows about this issue better than me.

[Sahih. Narrated by Muslim 276 and Nasai 128 and Ibn Majah 552 and Ahmad 1/96, 100, 113, 117, 120, 133, 134, 146, 149, 6/110 and Darimi 741]

Sunan Kubra Bayhaqi 1305

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَتْحِ بِلَالُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ الْحَفَّارِ (١٣٠٦) بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَيَّاشِ الْقَطَّانُ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُجَشَّرٍ حَدَّثَنَا بُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْفُ بْنُ مَالِكِ الْأَشْجَعِيُّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - أَمَرَ بِالْمَسْحِ ، عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ ، وَيَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لِلْمُقِيمِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: موزوں پر مسح کرنے کی حد
حدیث نمبر: 1305

:ترجمہ

(۱۳۰۶) (سیدنا عوف بن مالک اشجعیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے غزوہ تبوک میں مسافر کو تین دن اور تین راتیں اور مقیم کو ایک دن اور ایک رات موزوں پر مسح کرنے کا حکم دیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The limit for wiping over the socks

Hadith number: 1305

Translation:

(1305) It is narrated on the authority of Awf ibn Malik al-Ashja'i that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) ordered the traveler to wipe over his socks for three days and three nights and the resident one day and one night.

[Hasan (Fair). Narrated by Ahmad 6/27]

Sunan Kubra Bayhaqi 1306

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١٣٠٧)
بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا
بُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ -
قَالَ أَبُو عَيْسَى التِّرْمِذِيُّ: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا يَعْنِي الْبُخَارِيَّ عَنْ بَدَأِ
الْحَدِيثِ فَقَالَ: بُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: موزوں پر مسح کرنے کی حد

حدیث نمبر: 1306

:ترجمہ

(۱۳۰۷) ہشیم بن بشیر نے اس کو اسی طرح بیان کیا ہے۔
(امام ابو عیسیٰ ترمذی) رح (کہتے ہیں کہ میں نے امام
بخاری) رح (سے اس حدیث کے متعلق سوال کیا تو انہوں
نے کہا: یہ حدیث حسن ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The limit for wiping over the socks

Hadith number: 1306

Translation:

(1306) Hashim bin Bashir has also

narrated it this way.

(B) Imam Abu Isa Tirmidhi says that when I asked Imam Bukhari (may Allah have mercy on him) about this hadith, he said: This hadith is Hasan (Fair).

[Hasan (Fair)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1307

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو (١٣٠٨)
قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ
عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَهَّابِ
النَّقْفِيُّ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّائِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ
: أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - سئِلَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ
((لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيْنَّ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ)) (-) وَكَانَ
أَبِي يَنْزِعُ خُفَّيْهِ وَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان
باب: موزوں پر مسح کرنے کی حد
حدیث نمبر: 1307

:ترجمہ

(۱۳۰۸) (سیدنا عبد الرحمن بن ابوبکرہ اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے موزوں پر مسح کرنے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا " :مسافر تین دن اور تین راتیں اور مقیم ایک دن اور ایک رات مسح کرے گا " اور میرے والد موزے اتار کر اپنے پاؤں دھوتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The limit for wiping over the socks

Hadith number: 1307

Translation:

(1307) Abdur-Rahman ibn Abu Bakrah

narrates from his father that when the

Messenger of Allah (peace and blessings of

Allah be upon him) was asked about wiping

over the socks, he said: "The traveler should

wipe (over his socks) for

three days and three nights and the resident for one day and one night", my father would take off his socks and wash his feet.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence). Narrated by Ibn Khuzaymah 192]

Sunan Kubra Bayhaqi 1308

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ : عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ (١٣٠٩)
الْحَرْفِيُّ بَبْغَدَادَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ
الزُّبَيْرِ الْقُرَشِيُّ الْكُوفِيُّ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَفَّانَ فَذَكَرَهُ
بِمِثْلِهِ-

وَبِذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيِّ عَنْ
الْمُهَاجِرِ أَبِي مَخْلَدٍ وَرَوَاهُ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْهُ عَنْ خَالِدِ
الْحَدَّائِيِّ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ غَلَطًا مِنْهُ أَوْ مِنَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ
وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدُ الْوَهَّابِ رَوَاهُ عَلَى الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا
وَرِوَايَةُ الْجَمَاعَةِ أَوْلَى أَنْ تَكُونَ مَحْفُوظَةً-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب : پاکی کا بیان

باب : موزوں پر مسح کرنے کی حد

حدیث نمبر : 1308

:ترجمہ

(۱۳۰۹) (حسن بن علی بن عفان نے اسی طرح ہی بیان کیا ہے۔ اس حدیث کو ایک کثیر تعداد نے عبدالوہاب ثقفی عن مہاجر عن ابو مخلد بیان کیا ہے۔ زید بن حباب نے خالد حذاء سے روایت کیا ہے۔ ان سے) (روایت کرنا) (غلط ہے یا حسن بن علی سے۔ ممکن ہے کہ عبدالوہاب نے دونوں سے اکٹھی روایت کیا ہو۔ جماعت کی روایت کا محفوظ ہونا اولیٰ ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The limit for wiping over the socks

Hadith number: 1308

Translation:

(1308) Hassan Ibn Ali ibn Affan has narrated it the same way. This hadith has been narrated by a lot of people from Abdul Wahab Saqafi on the authority of

Muhajir on the authority of Abu Mukhlid.
Zayd ibn Habab narrated it from Khalid
Hudha. (Narrating) from him is wrong or from
Hasan bin Ali. Abdul Wahab may have
narrated from both of them. Preserving the
tradition of the majority is paramount.
[Daif (Weak)]

Arabic Text:

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ أَخْبَرَنَا (١٣١٠)
أَبُو سَعِيدٍ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ زِيَادِ الْبَصْرِيُّ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا
الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ
عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ زُرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ : أَتَيْتُ صَفْوَانَ
بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ فَقَالَ : مَا جَاءَ بِكَ؟ فَقُلْتُ : أَتَبَغَى الْعِلْمَ -
فَقَالَ : إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا
يَطْلُبُ. قُلْتُ : حَكَ فِي صَدْرِي الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَيْنِ بَعْدَ الْغَائِطِ
وَالْبَوْلِ وَكُنْتُ امْرَأً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - فَأَتَيْتُكَ
أَسْأَلُكَ هَلْ سَمِعْتَ مِنْهُ فِي ذَلِكَ شَيْئًا؟ قَالَ : نَعَمْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -
ﷺ يَأْمُرُنَا إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَوْ مُسَافِرِينَ أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا
ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا إِلَّا مِنَ الْجَنَابَةِ ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ -
وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمِ بْنِ وَزَادَ فِيهِ : مَسْحُ الْمُقِيمِ. قَالَ أَبُو
عِيْسَى التِّرْمِذِيُّ : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا يَعْنِي الْبُخَارِيَّ قُلْتُ : وَآيُ حَدِيثٍ
عِنْدَكَ أَصَحُّ فِي التَّوْقِيفِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ؟
فَقَالَ : حَدِيثُ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ ، وَحَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ حَسَنٌ. قَالَ
الشَّيْخُ : حَدِيثُ شَرِيحِ بْنِ هَانِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ

أَصَحُّ مَا رُوِيَ فِي بَدَا الْأَبَابِ عِنْدَ مُسْلِمٍ بْنِ الْحَجَّاجِ رَحِمَهُ اللَّهُ
تَعَالَى.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: موزوں پر مسح کرنے کی حد

حدیث نمبر: 1309

:ترجمہ

(۱۳۱۰) (الف) زر بن حبیش کہتے ہیں: میں صفوان بن
عسال مرادی کے پاس آیا، انہوں نے کہا کہ آپ کس غرض
سے آئے؟ میں نے کہا: میں علم کی تلاش میں آیا ہوں، انہوں
نے کہا: فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں،
اس کی رضا مندی کے لیے جو علم حاصل کرتا ہے۔ میں
نے کہا: قضائے حاجت اور پیشاب کرنے کے بعد موزوں پر
مسح کرنے کے متعلق میرے دل میں بات کھٹک رہی ہے
اور آپ نبی ﷺ کے صحابہ میں سے ہیں، میں آپ کے پاس
آیا ہوں تاکہ آپ سے سوال کروں کہ آپ نے اس کے متعلق
کچھ سنا ہے؟ انہوں نے کہا: جی

ہاں! رسول اللہ ﷺ ہم کو حکم دیا کرتے تھے کہ جب ہم سفر میں ہوں یا فرمایا مسافر ہوں تو تین دن اور تین راتیں موزے نہ اتاریں۔ مگر جنابت کے وقت اتار دیں اور قضائے حاجت اور نیند سے نہ اتاریں۔

(ب) (عاصم والی روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ مقیم کے مسح کی مدت۔ امام ترمذی (رح) (فرماتی ہیں کہ میں نے محمد بن اسماعیل بخاری (رح) سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک موزوں پر مسح کی مدت کی تعیین کے متعلق کون سی روایت زیادہ صحیح ہی تو انہوں نے فرمایا: صفوان بن عسال کی حدیث۔ ابوبکرہ والی حدیث حسن ہے۔ شیخ کہتے ہیں: شریح بن ہانی کی روایت جو سیدنا علی سے اس باب میں نقل کی گئی ہے وہ امام مسلم کے ہاں زیادہ صحیح ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The limit for wiping over the socks

Hadith number: 1309

Translation:

(1309) (a) Zar ibn Habish says: I came to Safwan ibn Asal Muradi. He said: What is the purpose of your visit? I said: I have come in search of knowledge. He said: The angels lay their wings for the pleasure of the one who acquires knowledge. I said: There is doubt in my heart about wiping over the socks after defecating and urinating and you are one of the companions of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him), I have come to you to ask you if you heard something related to this? He said: Yes! The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) used to command us not to take off our socks for three days and three nights when we were on a journey. But take them off at the time of major impurity and do not take them off after relieving yourself or sleeping.

(B) There is an addition of words in Asim's narration that mentions the time period for wiping (over the socks) for the resident. Imam Tirmidhi says that I asked Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari (may Allah have mercy on him) that which narration is more authentic for determining the time period of wiping over the socks. He said: The hadith of Safwan ibn Asal. The hadith of Abu Bakr is Hasan (Fair). Shaykh says: The narration of Shuraih ibn Hani which has been narrated from Syeduna Ali (may Allah be pleased with him) in this chapter is more authentic according to Imam Muslim.
[Hasan (Fair)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1310

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي حَدَّثَنَا أَبُو (١٣١١)
الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا أَبُو
أَسَامَةَ عَنْ أَبِي رَوْقٍ عَطِيَّةَ بْنِ الْحَارِثِ الْهَمْدَانِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو
الْغَرِيفِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالِ الْمُرَادِيِّ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ
اللَّهِ - ﷺ - سَرِيَّةً فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ قَالَ ((: وَلَيَمْسَحُ أَحَدُكُمْ عَلَى
خُفِّهِ إِذَا كَانَ مُسَافِرًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ ، وَإِذَا كَانَ مُقِيمًا
فَيَوْمٌ وَلَيْلَةٌ)) -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
کتاب: پاکی کا بیان

باب: موزوں پر مسح کرنے کی حد

حدیث نمبر: 1310

ترجمہ:

(۱۳۱۱) (سیدنا صفوان بن عسال مرادیؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک سریہ بھیجا۔۔۔ پھر لمبی حدیث ذکر کی۔ اس میں ہے کہ آپ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی مسافر ہو تو وہ موزوں پر تین دن اور تین راتیں مسح کرے اور جب مقیم ہو تو ایک دن اور ایک رات) مسح کرے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The limit for wiping over the socks

Hadith number: 1310

Translation:

(1310) It is narrated on the authority of Safwan bin Asal Muradi that the

Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) sent an army... Then he narrated a long hadith. In it is that he said: When one of you is a traveler, he should wipe over his socks for three days and three nights, and when he is a resident, he should wipe for one day and one night.

[Hasan Li Ghayrihi (Fair due to external evidence)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1311

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا (١٣١٢)
أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّفَّارِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ حَدَّثَنَا
مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
التَّيْمِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ عَنْ
خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - فِي الْمَسْحِ عَلَى
الْخُفَّيْنِ ((: لِلْمَسَافِرِ ثَلَاثَةٌ أَيَّامٍ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ)) -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب : پاکی کا بیان
باب : موزوں پر مسح کرنے کی حد
حدیث نمبر : 1311

:ترجمہ

(١٣١٢) (سیدنا خزیمہ بن ثابت سے روایت ہے کہ رسول

اللہ ﷺ نے موزوں پر مسح کے متعلق فرمایا " :مسافر کے لیے تین دن اور مقیم کے لیے ایک دن ہے۔"

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The limit for wiping over the socks

Hadith number: 1311

Translation:

(1311) It is narrated on the authority of Khuzaymah bin Thabit that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said about wiping over the socks: "There are three days (for wiping over the socks) for the traveler and one day for the resident."

[Sahih. Narrated by Abu Dawud 157 and Tirmidhi 95 and Ibn Majah 554 and Ahmad 5/213]

Sunan Kubra Bayhaqi 1312

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ (١٣١٣)
الْحَسَنِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ نُبَاتَةَ عَنْ عُمَرَ قَالَ: الْمَسْحُ
لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: موزوں پر مسح کرنے کی حد

حدیث نمبر: 1312

ترجمہ:

(۱۳۱۳) (سیدنا عمرؓ سے روایت ہے کہ مسح کی مدت مسافر کے لیے تین دن اور تین راتیں ہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The limit for wiping over the socks

Hadith number: 1312

Translation:

(1312) It is narrated from Umar (may Allah be pleased with him) that the time period of wiping (over the socks) is three days and three nights for the traveler.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence). Narrated by AbdulRazzaq 794]

Sunan Kubra Bayhaqi 1313

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ: مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا (١٣١٤)
أَبُو نَصْرِ: أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: يَمْسَحُ
الرَّجُلُ عَلَى خُفِّهِ إِلَى سَاعَتِهَا مِنْ يَوْمِهَا وَلَيْلَتِهَا.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

کتاب: پاکی کا بیان

باب: موزوں پر مسح کرنے کی حد

حدیث نمبر: 1313

ترجمہ:

(۱۳۱۴) (سیدنا عمرؓ سے روایت ہے کہ آدمی اپنے موزوں پر ایک دن اور ایک رات مسح کرے گا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The limit for wiping over the socks

Hadith number: 1313

Translation:

(1313) It is narrated from Umar (may Allah be pleased with him) that a person will wipe over his socks for one day and one night.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1314

Arabic Text:

وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي سَلْمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَنْ (١٣١٥)
إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
مَسْعُودٍ: ثَلَاثَةٌ أَيَّامٍ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمٌ لِلْمُقِيمِ-
قَالَ الْحَارِثُ: فَمَا أَنْزَعُ حُفَّيَّ حَتَّى آتِيَ فِرَاشِي-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان

باب: موزوں پر مسح کرنے کی حد

حدیث نمبر: 1314

ترجمہ:

(۱۳۱۵) سیدنا عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ مسافر کے لیے تین دن اور مقیم کے لیے ایک دن ہے۔ حارث کہتے ہیں: میں اپنے موزے نہیں اتاروں گا جب تک اپنے بستر پر نہ آ جاؤں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The limit for wiping over the socks

Hadith number: 1314

Translation:

(1314) Abdullah ibn Masud (may Allah be pleased with him) says that there are three days for the traveler and one day for the resident (for wiping over the socks). Harris

says: "I won't take off my socks until I go to bed"

[Sahih. Narrated by Ibn Abi Shaybah 1926]

Sunan Kubra Bayhaqi 1315

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ ابْنُ (١٣١٦)
الْأَعْرَابِيِّ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ
:الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ قَالَ
خَرَجْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَلَمْ

يُنْزَعُ الْخُفَّ ثَلَاثًا يَمْسَحُ عَلَيْهِ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

كتاب: پاکی کا بیان

باب: موزوں پر مسح کرنے کی حد

حدیث نمبر: 1315

:ترجمہ

(۱۳۱۶) عمرو بن حارث بن مصطلق سے روایت ہے کہ
میں مدینہ کی طرف عبداللہ بن مسعودؓ کے پاس گیا، انہوں
نے تین دن موزے نہیں اتاری بلکہ ان پر مسح کرتے رہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The limit for wiping over the socks

Hadith number: 1315

Translation:

(1315) It is narrated on the authority of Amr ibn Harith ibn Mustaliq that I went to Abdullah ibn Masud (may Allah be pleased with him) on the way to Madinah, he did not take off his socks for three days but continued to wipe over them.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1316

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي حَدَّثَنَا أَبُو (١٣١٧)
الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ: مَالِكُ بْنُ يَحْيَى السُّوسِيُّ
حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرِ: شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ عَنْ
:أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيٍّ قَالَ
سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَتْ: سَلْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي
طَالِبٍ. قَالَ: فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: يَوْمٌ لِلْمُقِيمِ وَثَلَاثَةٌ أَيَّامٌ لِلْمُسَافِرِ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

كتاب: پاکی کا بیان

باب: موزوں پر مسح کرنے کی حد

حدیث نمبر: 1316

:ترجمہ

(۱۳۱۷) شریع بن ہانی کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ سے موزوں پر مسح کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا: علی بن ابی طالبؓ سے پوچھو، میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا: مقیم کے لیے ایک دن اور مسافر کے لیے تین دن ہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The limit for wiping over the socks

Hadith number: 1316

Translation:

(1316) Shuraih ibn Hani says that I asked Ayesha (may Allah be pleased with her) about wiping over the socks so she said: Ask Ali ibn Abi Talib (may Allah be pleased with him). I asked him and he said: One day for the resident and three days for the

traveler.

[Sahih. Narrated by Muslim 276 and Nasai 128 and Ibn Majah 552 and Ahmad 1/96, 100, 113, 117, 120, 133, 134, 146, 149, 6/110 and Darimi 741]

Sunan Kubra Bayhaqi 1317

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ (١٣١٨)
الرَّقَائِيُّ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ مُوسَى

بْنِ خَلْفِ الْعَمِيِّ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ سَلَمَةَ
:الْهَذَلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ
ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ ، وَيَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لِلْمُقِيمِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: موزوں پر مسح کرنے کی حد

حدیث نمبر: 1317

:ترجمہ

(۱۳۱۸) موسیٰ بن سلمہ ہذلی کہتے ہیں کہ میں نے موزوں
پر مسح کے متعلق سیدنا ابن عباسؓ سے سوال کیا تو انہوں
نے فرمایا: مسافر کے لیے تین دن اور تین راتیں ہیں اور
مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The limit for wiping over the socks

Hadith number: 1317

Translation:

(1317) Musa ibn Salamah Hudhali says that when I asked Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) about wiping over the socks, he said: There are three days and three nights for the traveler and one day and one night for the resident.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1318

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا (١٣١٩)
أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ: مَالِكُ بْنُ
يَحْيَى السُّوسِيُّ حَدَّثَنِي شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنِي زَائِدَةُ بْنُ قُدَّامَةَ
قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُورًا يَقُولُ: كُنَّا فِي حُجْرَةِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ
وَمَعَنَا إِبْرَاهِيمُ النَّيْمِيُّ ، فَذَكَرْنَا الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ
النَّيْمِيُّ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ عَنْ
خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: جَعَلَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - ثَلَاثًا ، وَلَوْ
اسْتَرَدْتُهُ لَزَادَنَا. يَعْنِي الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمَسَافِرِ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: ترک توقیت کے متعلق احادیث کا بیان

حدیث نمبر: 1318

ترجمہ:

(۱۳۱۹) سیدنا خزیمہ بن ثابت^{رض} سے روایت ہے کہ ہمارے لیے رسول اللہ ﷺ نے تین مقرر کیے ہیں، اگر ہم زیادہ (مدت) طلب کرتے تو آپ ﷺ زیادہ کر دیتے یعنی مسافر کے لیے موزوں پر مسح کرنے کی۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the ahadith which speak about the time period allotted for the concession (to wipe over the socks)

Hadith number: 1318

Translation:

(1318) It is narrated on the authority of Khuzaymah bin Thabit (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) appointed three (days) for us, if we had

asked for a longer (time period), he would have done more, that is, for wiping over the socks for the traveler.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1319

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ :عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ (١٣٢٠)
السُّكْرِيُّ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا
أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ

أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ الْأَوْدِيِّ عَنْ أَبِي
عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ -
وَيْسَعُهُ - أَنْ نَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ يَوْمًا وَلَيْلَةً إِذَا أَقَمْنَا وَثَلَاثًا إِذَا سَافَرْنَا
وَإِيْمُ اللَّهِ لَوْ مَضَى السَّائِلُ فِي مَسْأَلَتِهِ لَجَعَلَهَا خَمْسًا. ،
وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الثَّوْرِيِّ فَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: وَلَوْ
اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنَا. وَرَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
النَّيْمِيِّ دُونَ مَسْحِ الْمُقِيمِ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: ترک توقیت کے متعلق احادیث کا بیان

حدیث نمبر: 1319

:ترجمہ

(۱۳۲۰) (سیدنا خزیمہ بن ثابت^{رض} سے روایت ہے کہ رسول اللہ
نے ہمیں حکم دیا کہ جب ہم مقیم ہوں ہم ایک دن اور ایک
ایک رات موزوں پر مسح کریں، جب مسافر ہوں تو اور تین
دن اور تین راتیں اور اللہ کی قسم! اگر

سائل مسلسل پوچھتا رہتا تو آپ ﷺ پانچ دن مقرر کر دیتے۔
(امام ثوری) رح (والی روایت میں ہے کہ اگر میں زیادہ
مدت طلب کرتا تو آپ ﷺ کا طغری زیادہ کرتے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the ahadith which
speak about the time period allotted for the
concession (to wipe over the socks)

Hadith number: 1319

Translation:

(1319) It is narrated on the authority of
Khuzaymah bin Thabit that the Messenger of
Allah (peace and blessings of Allah be upon
him) commanded us to wipe over the socks
for one day and one night while we were
residents, and three days and three nights
when we are travelers and by Allah!

If the questioner kept asking, he would have allotted five days.

(B) According to the narration of Imam al-Thawri (may Allah have mercy on him), if I had asked for a longer time period, he would have done more.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1320

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِيُّ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١٣٢١)
بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ
حَدَّثَنَا فَضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ
إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ عَنِ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ
عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - عَنِ
الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ فَقَالَ: ثَلَاثَةٌ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ. قَالَ: فَرَأَيْنَا أَنَّهُ
لَوْ اسْتَزَادَهُ لَزَادَهُ. ت (وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ عَنِ
الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ. وَرَوَاهُ سَلْمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَنِ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ
فَأَدْخَلَ بَيْنَ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ وَبَيْنَ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ الْحَارِثُ بْنُ
سُوَيْدٍ وَتَرَكَ بَيْنَ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ وَبَيْنَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ أَبَا
عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ وَلَمْ يَذْكُرْ: وَلَوْ اسْتَزَادَتْهُ لَزَادَنَا.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: ترک توقیت کے متعلق احادیث کا بیان

حدیث نمبر: 1320

:ترجمہ

(۱۳۲۱) (سیدنا خزیمہ بن ثابت رض سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نے موزوں پر مسح کے متعلق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین دن اور تین راتیں۔ صحابہ کہتے ہیں: ہم نے سوچا سوچا کہ اگر وہ زیادہ مدت (طلب کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کر دیتے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the ahadith which speak about the time period allotted for the concession (to wipe over the socks)

Hadith number: 1320

Translation:

(1320) It is narrated on the authority of Khuzaymah bin Thabit that when a villager asked about wiping over socks, the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: Three days and three nights. The companions say: We thought that if he had asked for more (time period) he would have done more.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1321

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ (١٣٢٢)
عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ الْخُزَاعِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا
عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ
بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيَّ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ
سُوَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ
قَالَ شُعْبَةُ اللَّهُ - ﷺ - قَالَ ((يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ)) -
أَحْسِبُهُ قَالَ : وَلِيَالِيَهُنَّ -
وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ سَلَمَةَ فَخَالَفَ شُعْبَةَ فِي إِسْنَادِهِ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب : پاکی کا بیان
باب : ترک توقیت کے متعلق احادیث کا بیان
حدیث نمبر : 1321

:ترجمہ

(١٣٢٢) (سیدنا خزیمہ بن ثابت^{رض} سے روایت ہے کہ رسول

اللہ ﷺ نے فرمایا: مسافر تین دن مسح کرے گا۔ شعبہ کہتے ہیں: میرا گمان ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا " : اور ان کی راتیں۔ "

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the ahadith which speak about the time period allotted for the concession (to wipe over the socks)

Hadith number: 1321

Translation:

(1321) It is narrated on the authority of Khuzaymah bin Thabit that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: The traveler will wipe (over his socks) for three days. Shuba says: I think he said: "And their nights."

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1322

Arabic Text:

أَخْبَرَنَاهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ (١٣٢٣)
الْخُزَاعِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ
كُهَيْلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ قَالَ: يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ ثَلَاثًا. قَالَ وَقَالَ الْحَارِثُ: مَا أَخْلَعُ
خُفِّيَّ حَتَّى آتِيَ فِرَاشِي.
وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ فَخَالَفَهُمْ جَمِيعًا.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاكى كا بيان

باب: ترك توقيت كے متعلق احاديث كا بيان

حديث نمبر: 1322

:ترجمہ

(۱۳۲۳) سيدنا عبدالله ^{رض} سے روايت ہے کہ مسافر تين دن مسح کرے گا۔ حارث کہتے ہیں: ميں اپنے موزے نہيں اتاروں گا جب تک بستر پر نہ آ جاؤں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the ahadith which speak about the time period allotted for the concession (to wipe over the socks)

Hadith number: 1322

Translation:

(1322) It is narrated from Syeduna Abdullah that the traveler will wipe (over his socks) for three days. Harris says: "I won't take off my socks until I'm in bed".

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1323

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ: عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ قَتَادَةَ (١٣٢٤)
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا أَبُو شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
التَّمِيمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عُمَرَ قَالَ: يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ
عَلَى الْخُفَيْنِ ثَلَاثًا.

وَرَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ دُونَ
الزِّيَادَةِ الَّتِي رَوَاهَا مَنْصُورٌ وَسَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: ترک توقیت کے متعلق احادیث کا بیان
حدیث نمبر: 1323

:ترجمہ

(١٣٢٤) (سیدنا عمرؓ سے روایت ہے کہ مسافر موزوں پر
تین دن مسح کرے گا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the ahadith which speak about the time period allotted for the concession (to wipe over the socks)

Hadith number: 132

Translation:

(1323) It is narrated from Umar that the traveler will wipe over his socks for three days.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1324

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورِكَ أَخْبَرَنَا (١٣٢٥)
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
الْجَدَلِيِّ عَنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - أَنَّهُ
قَالَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخَفَّيْنِ: لِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ
وَلِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةٌ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ الْعُكْلِيُّ وَأَبُو مَعْشَرٍ عَنِ
إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ -

قَالَ أَبُو عِيْسَى التِّرْمِذِيُّ: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا يَعْنِي الْبُخَارِيَّ عَنِ
بَدَأِ الْحَدِيثِ فَقَالَ: لَا يَصِحُّ عِنْدِي حَدِيثُ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ فِي
الْمَسْحِ عَلَى الْخَفَّيْنِ لِأَنَّهُ لَا يُعْرَفُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ سَمَاعٌ
مِنْ خُزَيْمَةَ ، وَكَانَ شُعْبَةُ يَقُولُ: لَمْ يَسْمَعْ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ مِنْ أَبِي
عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ حَدِيثَ الْمَسْحِ -

قَالَ الشَّيْخُ: وَقِصَّةُ زَائِدَةَ عَنْ مَنْصُورٍ تَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ مَا قَالَ
شُعْبَةُ وَقَدْ مَضَتْ فِي أَوَّلِ الْبَابِ -

وَرَوَاهُ ذَوَادُ بْنُ عُلبَةَ الْحَارِثِيُّ - وَهُوَ ضَعِيفٌ - عَنِ

مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ
عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَ ((: يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ
ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ)) - وَلَوْ اسْتَزَدَّنَاهُ لَزَادَنَا.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: ترک توقیت کے متعلق احادیث کا بیان
حدیث نمبر: 1324

ترجمہ:

(۱۳۲۵) الف (سیدنا خزیمہ بن ثابت انصاری سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے موزوں پر مسح سے متعلق فرمایا: مقیم ایک دن اور ایک رات اور مسافر تین دن اور تین راتیں مسح کرے گا۔

ب (امام ترمذی) رح (فرماتے ہیں کہ میں نے امام بخاری) رح (سے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا: میرے نزدیک خزیمہ بن ثابت کی روایت جو موزوں کے متعلق ہے صحیح نہیں ہے؛ کیونکہ ابو عبد اللہ جدلی کا سیدنا خزیمہ رض کا طغری سے سماع

ثابت نہیں ہے اور شعبہ کہتے ہیں کہ ابراہیم نخعی کا ابو عبد اللہ جدلی سے حدیثِ مسح کا سماع ثابت نہیں۔ (ج) شیخ کہتے ہیں: زائدة کا قصہ جو منصور سے منقول ہے وہ شعبہ کی روایت کے صحیح ہونے پر دلیل ہے۔ یہ شروع باب میں گزر چکا ہے۔

د) (اس روایت کو نواد بن علبہ حارثی نے بیان کیا ہے اور وہ ضعیف ہے۔ وہمطرف عن شعبی عن ابی عبد اللہ جدلی بیان کرتا ہے۔

ب) (سیدنا خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ مسافر تین دن مسح کرے گا۔ فرماتے ہیں: اگر ہم زیادہ طلب کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ کر دیتے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the ahadith which speak about the time period allotted for the concession (to wipe over the socks)

Hadith number: 1324

Translation:

(1324) (a) It is narrated on the authority of Khuzaymah bin Thabit Ansari (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said about wiping over the socks: The resident will wipe for one day and one night and the traveler for three days and three nights.

(B) Imam Tirmidhi says that when I asked Imam Bukhari (may Allah be pleased with him) about this hadeeth, he said: In my opinion, the narration of Khuzaymah bin Thabit regarding wiping over the socks is not authentic. Because it is not proven that Abu Abd Allah al-Jadali has heard from Syeduna Khuzaymah (may Allah be pleased with him). Shuba says that Ibrahim Nakha'i has not heard the hadith of wiping (over the socks) from Abu Abdullah

Jadali.

(C) Sheikh says: The story of Zayd which is narrated from Mansoor is a proof of the authenticity of the tradition of Shuba. This has already been mentioned in the beginning chapter.

(D) This narration has been narrated by Zawad bin Alaba Harithi and he is weak. The same thing is stated by Shuba on the authority of Abi Abdullah al-Jadali.

(2B) Syeduna Khuzaymah bin Thabit (may Allah be pleased with him) narrates from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) that the traveler will wipe (over the socks) for three days. He says: If we had asked for more, he would have done more.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1325

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ (١٣٢٦)
الْفَضْلِ الْخُزَاعِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ يَعْنَى ابْنَ
الْمَدِينِيِّ حَدَّثَنَا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا ذَوَادُ بْنُ عُلبَةَ.
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ

الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ حَدَّثَنَا
يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي
زِيَادٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ قَطَنِ عَنْ عُبَادَةَ عَنْ أَبِي بِنِ عِمَارَةَ: أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - صَلَّى فِي بَيْتِهِ، قَالَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ
:أَمْسَحْ عَلَيَّ الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ فَقَالَ: ((نَعَمْ)) (- قُلْتُ: يَوْمًا؟ قَالَ
:)) وَيَوْمَيْنِ ((- فَقُلْتُ: وَيَوْمَيْنِ؟ قَالَ)): وَثَلَاثَةً ((- قُلْتُ
: وَثَلَاثَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ)): نَعَمْ مَا بَدَا لَكَ ((-
قَالَ يَعْقُوبُ: أَبِي بْنُ عُمَارَةَ الْأَنْصَارِيُّ، وَيُقَالُ ابْنُ عِمَارَةَ
بِكَسْرِ الْعَيْنِ-

قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ عَنْ يَحْيَى
بْنِ أَيُّوبَ دُونَ ذِكْرِ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيْبٍ فِي إِسْنَادِهِ وَقَالَ فِي
الْحَدِيثِ قَالَ)): نَعَمْ وَمَا شِئْتَ ((-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: ترک توقیت کے متعلق احادیث کا بیان
حدیث نمبر: 1325

ترجمہ:

(۱۳۲۶) (الف) (سیدنا ابی بن عمارہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمارے گھر نماز پڑھی۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں بھی موزوں پر مسح کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "میں نے پوچھا: ایک دن؟ آپ نے فرمایا: دو دن۔" میں نے کہا، دو دن؟ آپ نے فرمایا: تین دن۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول تین دن؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں جو تیرے لیے آسان ہو۔

(ب) (یحییٰ بن ایوب عبادہ بن نسی کا ذکر کیے بغیر اسی سند سے بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: "ہاں اور جو تو چاہے۔"

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the ahadith which speak about the time period allotted for the concession (to wipe over the socks)

Hadith number: 1325

Translation:

(1325) (a) It is narrated on the authority of Ubay bin Amarah that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) offered prayer in our house. I said: O Messenger of Allah! Should I wipe over the socks too? He said: "Yes." I asked: "(For) one day?" He said: "Two days." I said, " (For) two days?" He said: Three days. I said: O Messenger of Allah, three days? He said: Yes, that which is easy for you.

(B) Yahya ibn Ayub narrates from the same chain of transmission without mentioning Ibadah ibn Nasi and says that he (the Prophet) said: "Yes and whatever you want." [Daif (Weak). Narrated by Abu Dawud 158 and Ibn Majah 557]

Sunan Kubra Bayhaqi 1326

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذُبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ (١٣٢٧)
دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ
الرَّبِيعِ فَذَكَرَهُ وَزَادَ فِيهِ قَالَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ: وَكَانَ قَدْ
صَلَّى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ - الْقِبْلَتَيْنِ -

وَقَدْ قِيلَ عَنْ عَمْرٍو دُونَ ذِكْرِ أَيُّوبَ فِي إِسْنَادِهِ. وَرَوَاهُ سَعِيدُ
بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ كَمَا

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: ترک توقیت کے متعلق احادیث کا بیان

حدیث نمبر: 1326

ترجمہ:

(۱۳۲۷) یحییٰ بن ایوب کہتے ہیں کہ میں نے نبی ﷺ کے ساتھ دو قبلوں کی طرف نماز پڑھی ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the ahadith which speak about the time period allotted for the concession (to wipe over the socks)

Hadith number: 1326

Translation:

(1326) Yahya ibn Ayyub says that I prayed with the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) facing the two qiblahs.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1327

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ: أَحْمَدُ (١٣٢٨)
بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو الْأَحْمَسِيُّ بِالْكُوفَةِ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ
حُمَيْدِ بْنِ الرَّبِيعِ حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ: الْقَاسِمُ بْنُ سَلَامٍ مَوْلَى
خُزَاعَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ قَالَ
حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ
أَبِي زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيِّ عَنْ أَبِي بِنِ عِمَارَةَ - كَذَا قَالَ
أَبُو عُبَيْدٍ بِالْكَسْرِ - قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - فِي بَيْتِ
عِمَارَةَ الْقِبْلَتَيْنِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْسَحُ

: عَلَى الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ)) نَعَمْ ((. قَالَ: يَوْمًا؟ قَالَ)) نَعَمْ ((. قَالَ: نَعَمْ ((. حَتَّىٰ عَدَّ سَبْعًا ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ)) نَعَمْ مَا بَدَأَ : لَكَ ((.))

هَذَا فِي رِوَايَتِنَا. وَقِيلَ عَنِ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ وَقَدْ قِيلَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرُ هَذَا.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذُبَارِيُّ وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ قَالَ
قَالَ أَبُو دَاوُدَ السَّجِسْتَانِيُّ قَدْ اِخْتَلَفَ فِي إِسْنَادِهِ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ.
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ
الْحَافِظُ قَالَ هَذَا إِسْنَادٌ لَا يَتَّبَعُ وَقَدْ اِخْتَلَفَ فِيهِ عَلِيُّ بْنُ يَحْيَىٰ بْنِ
أَيُّوبَ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا.
وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ وَأَيُّوبُ بْنُ قَطَنِ
مَجْهُولُونَ كُلُّهُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: ترک توقیت کے متعلق احادیث کا بیان

حدیث نمبر: 1327

ترجمہ:

(۱۳۲۸) (الف) (سیدنا ابو بن عمارہ سے روایت ہے۔ ابو عبید نے کسرہ کے ساتھ نقل کیا ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے قبلتین کی عمارت والے گھر میں نماز پڑھی، انہوں نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! میں موزوں پر مسح کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "ہاں" انہوں نے پوچھا ایک دن؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "ہاں" انہوں نے پھر پوچھا: دو دن؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "دو دن۔" انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! تین دن؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "ہاں" یہاں تک کہ سات شمار کیے۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہاں جو تیرے لیے ظاہر ہو۔

(ب) (امام ابوداؤد) رح (کہتے ہیں کہ اس کی اسناد میں اختلاف ہے اور یہ حدیث قوی نہیں۔

(ج) (علی بن عمر کہتے ہیں کہ یہ سند ثابت نہیں، اس میں راوی یحییٰ بن ایوب پر شدید اختلاف ہے۔

(د) (عبدالرحمن، محمد بن یزید اور ایوب بن قطن یہ سارے راوی مجہول ہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the ahadith which speak about the time period allotted for the concession (to wipe over the socks)

Hadith number: 1327

Translation:

(1327) (a) It is narrated on the authority of Abu Bin Amarah. Abu Ubaid narrates with Qasra that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) prayed in the house of the building of Qiblatayn. He asked: O Messenger of Allah! Should I wipe over the socks? The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "Yes." He asked: One day? He said: Yes. Then he asked: Two days? He said: Two days. He said: O Messenger of Allah! Three days? He said: "Yes" until he counted till seven. Then the Messenger

of Allah said: Yes, that which is manifest to you.

(B) Imam Abu Dawud (may Allah have mercy on him) says that there is a difference of opinion on its isnaad and this hadeeth is not strong.

(C) Ali ibn Umar says that this chain of transmission is not proven, There is a great difference of opinion on the narrator Yahya bin Ayub.

(D) Abdul Rahman, Muhammad ibn Yazid and Ayub ibn Qattan are all unknown narrators.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1328

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ (١٣٢٩)
:خَبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا مِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ وَ
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا
الْمِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ تَلَيْدِ الرَّعِينِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ
الْحَرَّانِيُّ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ وَثَابِتِ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ ((إِذَا تَوَضَّأَ
أَحَدُكُمْ وَلَيْسَ خُفَّيْهِ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا وَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا ، ثُمَّ لَا
يَخْلَعُهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ)) .-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: ترک توقیت کے متعلق احادیث کا بیان

حدیث نمبر: 1328

:ترجمہ

(۱۳۲۹) (سیدنا انس بن مالک رض سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں کوئی وضو کرے اور اس نے موزے پہنے ہوں تو وہ ان پر مسح کرے، پھر اگر چاہے تو ان دونوں کو نہ اتاری اگر ناپاک ہو تو اتار دے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the ahadith which speak about the time period allotted for the concession (to wipe over the socks)

Hadith number: 1328

Translation:

(1328) It is narrated on the authority of

Anas ibn Malik (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: When one of you performs ablution and he is wearing socks, he should wipe over them, then, if he wills, he should not take them off. If he is impure, then he should take them off. [Sahih. Narrated by Hakim 1/290]

Sunan Kubra Bayhaqi 1329

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ (١٣٣٠)
عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ
سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ زُبَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ
يَقُولُ: إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَيْسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا وَلْيُصَلِّ
فِيهِمَا ، وَلَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: ترک توقیت کے متعلق احادیث کا بیان

حدیث نمبر: 1329

ترجمہ:

(١٣٣٠) (زبید بن صلت کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر
سے سنا کہ جب کوئی شخص وضو کرے اور اس نے
موزے پہنے ہوئے ہوں تو وہ ان پر مسح کرے اور ان میں
نماز پڑھے اور اگر چاہے تو اس کو نہ اتارے مگر

جنابت کی حالت میں (اتار دے۔)

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the ahadith which speak about the time period allotted for the concession (to wipe over the socks)

Hadith number: 1329

Translation:

(1329) Zubayd ibn Salat says that I heard from Umar (may Allah be pleased with him) that when a person performs ablution and he is wearing socks, he should wipe over them and offer prayer in them and if he wishes he can keep them on but (take it off) in the state of janabah (major impurity).

[Sahih. Narrated by Al-Daraqutni 1/203]

Sunan Kubra Bayhaqi 1330

Arabic Text:

قَالَ وَحَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ (١٣٣١)
وَتَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - مِثْلَهُ -

قَالَ ابْنُ صَاعِدٍ: وَمَا عَلِمْتُ أَحَدًا جَاءَ بِهِ إِلَّا أَسَدُ بْنُ
مُوسَى -

قَالَ الشَّيْخُ وَقَدْ تَابَعَهُ فِي الْحَدِيثِ الْمُسْنَدِ عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ
الْحَرَّانِيُّ وَلَيْسَ عِنْدَ أَهْلِ الْبَصْرَةِ عَنْ حَمَّادٍ وَلَيْسَ بِمَشْهُورٍ
وَاللَّهُ أَعْلَمُ -

فَأَمَّا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَالرِّوَايَةُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ مَشْهُورَةٌ
وَذَلِكَ فِيمَا -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: ترک توقیت کے متعلق احادیث کا بیان

حدیث نمبر: 1330

ترجمہ:

(الف) (۱۳۳۱) (سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے اسی طرح نقل

فرماتے ہیں۔

ب) (ابن صاعد کہتے ہیں کہ میرے علم کے مطابق اس

حدیث کو اسد بن موسیٰ نے بیان کیا ہے۔

ج) (شیخ کہتے ہیں: اس کی متابعت عبدالغفار بن داؤد حرّانی

نے کی ہے اور اہل بصرہ کے ہاں حماد سے۔ لیکن وہ

مشہور نہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the ahadith which

Speak about the time period allotted for the concession (to wipe over the socks)

Hadith number: 1330

Translation:

(1330) (a) Syeduna Anas narrates from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) in the same way.

(B) Ibn Sa'ad says that as far as I know, this hadith has been narrated by Asad ibn Musa.

(C) The Shaykh says: It was narrated by Abd al-Ghaffar ibn Dawood al-Harrani and by the people of Basra from Hammad. But he is not well-known.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1331

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ (١٣٣٢)
يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقِ الْخَوْلَانِيِّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ
بَكْرِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُقْبَةَ
بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ قَالَ: خَرَجْتُ مِنَ الشَّامِ إِلَى الْمَدِينَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
فَدَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ لِي: مَتَى أَوْلَجْتَ ،
خُفِّكَ فِي رِجْلَيْكَ؟ قُلْتُ: يَوْمَ الْجُمُعَةِ.
قَالَ: فَهَلْ نَزَعْتَهُمَا؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: أَصَبْتَ السُّنَّةَ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: ترک توقیت کے متعلق احادیث کا بیان

حدیث نمبر: 1331

:ترجمہ

(۱۳۳۲) (سیدنا عقبہ بن عامر جہنی فرماتے ہیں کہ میں جمعہ کے دن شام سے مدینہ کی طرف چلا اور عمر بن خطابؓ کے پاس پہنچا انہوں نے مجھ سے فرمایا: تو نے اپنے پاؤں میں موزیکب پہنے ہیں؟ میں نے کہا: جمعہ کے دن۔ انہوں نے کہا: کیا تو نے ان کو اتارا ہے؟ میں نے کہا: نہیں تو انہوں نے کہا: تو نے سنت پر عمل کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the ahadith which speak about the time period allotted for the concession (to wipe over the socks)

Hadith number: 1331

Translation:

(1331) Aqaba ibn Amir al-Jahni says that I left Sham to go to Madinah on Friday evening and reached Umar ibn al-Khattab (may Allah be pleased with him). He said to me: When did you wear socks on your feet? I said: Friday. He said: Have you taken them off? I said: No. He said: You have followed the Sunnah.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence). Narrated by Hakim 1/289]

Sunan Kubra Bayhaqi 1332

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ (١٣٣٣)
الْحَسَنِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. قَالَ وَحَدَّثَنَا
بَحْرُ بْنُ نَصْرِ قَالَ قُرَى عَلَى ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَكَ ابْنُ لَهَيْعَةَ
وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ وَاللَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ الْبَلَوِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ رَبَاحِ
اللَّخْمِيِّ يُخْبِرُ أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِفَتْحٍ مِنَ الشَّامِ وَعَلَى خُفَّانٍ لِي جُرْمُقَانِيَّانِ
غَلِيظَانِ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا عُمَرُ فَقَالَ: كُمْ لَكَ مُنْذُ لَمْ
تَنْزِعْهُمَا؟ قَالَ قُلْتُ: لَيْسَتْهُمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ
ثَمَانٍ. قَالَ: أَصَبْتَ.
:وَرَوَاهُ مُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ وَقَالَ فِيهِ
أَصَبْتَ السُّنَّةَ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: ترک توقیت کے متعلق احادیث کا بیان

حدیث نمبر: 1332

ترجمہ:

(۱۳۳۳) الف (عقبہ بن عامر جہنی فرماتے ہیں کہ میں سیدنا عمر بن خطابؓ کے پاس شام کے فتح کی خبر لے کر آیا تو میں نے موزے اور موٹے جو موق پہنے ہوئے تھے۔ عمر نے ان کی طرف دیکھا اور پوچھا کتنی مدت سے تو نے انہیں نہیں اتارا؟ میں نے کہا: میں نے جمعہ کے دن سے پہنے ہوئے ہیں اور جمعہ کا دن اٹھواں دن ہے۔ انہوں نے کہا: تو نے (سنت کو) پالیا ہے۔
ب (یزید بن ابی حبیب سے روایت ہے اور اس روایت میں " ہے "تو نے سنت کو پالیا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the ahadith which

Speak about the time period allotted for the concession (to wipe over the socks)

Hadith number: 1332

Translation:

(1332) (a) Aqaba ibn Amir al-Jahni says that when I came to Umar ibn al-Khattab (may Allah be pleased with him) with the news of the conquest of Syria, I was wearing socks and thick sandals. Umar looked at them and asked, "How long have you not taken them off for?" I said: I have been wearing them since Friday and Friday is the eighth day. He said: You have acted upon (the Sunnah).

(B) There is a narration from Yazid ibn Abi Habib and in this narration it is said, "You have observed the Sunnah."

[Sahih. Narrated by Ibn Majah 558]

Sunan Kubra Bayhaqi 1333

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عُبَيْدٍ (١٣٣٤) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ الْبَلَوِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ وَقَالَ: أَصَبَتْ السُّنَّةَ-

، وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ التَّوْقِيتَ ، فَمَا أَنْ يَكُونَ رَجَعَ إِلَيْهِ حِينَ جَاءَهُ التَّبْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فِي التَّوْقِيتِ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ الَّذِي يُوَافِقُ السُّنَّةَ الْمَشْهُورَةَ أَوْلَى- وَقَدْ رَوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّكَ كَانَ لَا يُوقِتُ فِيهِ وَقْتًا-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: ترک توقیت کے متعلق احادیث کا بیان

حدیث نمبر: 1333

ترجمہ:

(۱۳۳۴) الف (سیدنا عمر رض اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل

فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں: تو نے سنت کو پالیا ہے۔

ب (ہم نے سیدنا عمر بن خطاب رض سے مسح کی مدت بیان کی

ہے۔ ان کا موقف وہی ہے جو سنت سے ثابت ہے اور ان کا

قول سنت مشہورہ سے موافق ہونا اولیٰ ہے۔) ج (ابن عمر

سے روایت کیا گیا ہے کہ وہ مدت مقرر نہیں کرتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the ahadith which

Speak about the time period allotted for the concession (to wipe over the socks)

Hadith number: 1333

Translation:

(1333) (a) Umar (may Allah be pleased with him) similarly quotes the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) and says: You have observed the Sunnah.

(B) We have mentioned the time period for wiping (over the socks) from Umar ibn al-Khattab (may Allah be pleased with him). His stance is the same as that which is proven by the Sunnah and his statement agreeing with the famous Sunnah takes priority.

(C) It is narrated from Ibn Umar (may Allah be pleased with him) that he did not set a

time limit.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1334

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ (١٣٣٥)
بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ حَدَّثَنَا
رَوْحُ بْنُ عِبَادَةَ حَدَّثَنَا بِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ
نَافِعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ لَا يُوقِّتُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
وَقْتًا.
وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَائٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ.

وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَعَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عَبَّاسٍ التَّوَقِيتَ ، وَقَوْلُهُمْ يُوَافِقُ السُّنَّةَ الَّتِي هِيَ أَشْهَرُ وَأَكْثَرُ -
وَالْأَصْلُ وَجُوبُ غُسْلِ الرَّجُلَيْنِ فَالْمَصِيرُ إِلَيْهِ أَوْلَى وَبِاللَّهِ
التَّوْفِيقُ -

قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ : رَجَعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ إِلَى
التَّوَقِيتِ فِي الْمَسْحِ عِنْدَنَا بِبَغْدَادَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب : پاکی کا بیان
باب : ترک توقیت کے متعلق احادیث کا بیان
حدیث نمبر : 1334

:ترجمہ

(۱۳۳۵) (الف) (سیدنا ابن عمر^{رض} سے منقول ہے کہ وہ موزوں
پر مسح کی مدت مقرر نہیں کرتے تھے۔
(ب) (سیدنا عمر، علی، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود
کا طغری سے ہم نے روایت کیا ہے کہ ان سے

مسح کی مدت ثابت ہے اور ان کا قول سنت۔ مشہورہ کے
موافق ہے جو کثرت سے مروی ہے۔
(ج) اصلاً تو پاؤں کا دھونا واجب ہے اور یہی اولیٰ ہے۔ واللہ
اعلم۔
(د) ابو علی زعفرانی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں بغداد میں امام
شافعی (رح) نے مسح کی مدت مقررہ کی طرف رجوع کر لیا
ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the ahadith which
speak about the time period allotted for the
concession (to wipe over the socks)

Hadith number: 1334

Translation:

(1334) (a) It is narrated from Ibn Umar (may
Allah be pleased with him) that he did not fix
a time period period for wiping over the
socks.

(B) We have narrated from Umar, Ali, Abdullah bin Abbas and Abdullah bin Masud (may Allah be pleased with them) from Tughri that the period of wiping (over the socks) has been proven by them and their statement is in accordance with the well-known Sunnah which has been narrated frequently.

(C) In fact, it is obligatory to wash one's feet and this is the first step. Allah knows best.
[Sahih. Narrated by Al-Daraqutni 1/196]

Sunan Kubra Bayhaqi 1335

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ (١٣٣٦)
الْمُرَكِّي قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ
أَبِي زَائِدَةَ

(: ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ إِمْلَاءً حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي
عِيْسَى الْهَلَالِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ عَنْ
عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ -
فِي سَفَرٍ فَقَالَ: مَعَكَ مَائٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ فَنَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ ثُمَّ
مَشَى حَتَّى تَوَارَى عَنِّي فِي سَوَادِ اللَّيْلِ، ثُمَّ جَاءَ فَأَفْرَغْتُ
، عَلَيْهِ مِنَ الْإِدَاوَةِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ وَعَلِيهِ جُبَّةٌ مِنْ صُوفٍ
فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُخْرِجَ ذِرَاعِيهِ مِنْهَا حَتَّى أَخْرَجَهُمَا مِنْ أَسْفَلِ
الْجُبَّةِ ، فَغَسَلَ ذِرَاعِيهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ، ثُمَّ أَبْوَيْتُ لِأَنْزِعَ
حُفِّيهِ فَقَالَ ((: دَعُهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَابِرَتَيْنِ)) (-) فَمَسَحَ
عَلَيْهِمَا. لَفْظُ حَدِيثِ

صلى الله
عليه
وسلم

أَبِي نُعَيْمٍ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَكَرِيَّا.
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ
مُخْتَصَرًا.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مسح کی رخصت اس شخص کے لیے جس نے باوضو

موزے پہنے ہوں

حدیث نمبر: 1335

:ترجمہ

(۱۳۳۶) (سیدنا مغیرہ بن شعبہ اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں

کہ میں ایک سفر میں نبی ﷺ کے ساتھ تھا، آپ ﷺ نے فرمایا:

تیرے پاس پانی ہے؟ "میں نے عرض کیا: جی ہاں، آپ "

اپنی سواری سے اترے، پھر آپ ﷺ چلے اور رات کی سیاہی

میں مجھ سے چھپ گئے، پھر تشریف لائے تو میں نے برتن

سے آپ ﷺ پر پانی ڈالا، آپ نے ہاتھ اور چہرہ دھویا، آپ پر

اونی جبہ تھا

آپ ﷺ اپنے بازوؤں کو اس سے نہ نکالس کے پھر ان کو اپنے جبے کے نیچے سے نکالا۔ اور انہیں دھویا اور اپنے سر کا مسح کیا، پھر میں جھکا تاکہ آپ کے موزے اتاروں۔ آپ ﷺ نے فرمایا " :انہیں چھوڑو میں نے باوضو پہنے تھے، پھر آپ ﷺ نے ان پر مسح کیا۔"

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The concession for wiping (over the socks) is for the one who has worn socks when he was in the state of ablution

Hadith number: 1335

Translation:

(1335) Syeduna Mughirah ibn Shubah narrates from his father that I was with the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) on a journey. He (the Prophet) said: "Do you have water?" I said: Yes, he (the Prophet) got off his ride, then he went

and hid from me in the darkness of the night, then he came and I poured water for him from the vessel, he washed his hands and face. He was wearing a woolen robe and couldn't take his arms out of it so he pulled them out from under his robe and washed them and wiped his head, then I bent down to take off his socks. He said: "Leave them. I wore them while I was in the state of ablution", then he wiped over them.

[Sahih. Narrated by Bukhari 182, 203, 4421, 5799 and Muslim 274 and Nasai 79, 82, 124, 125 and Abu Dawud 149, 151 and Ibn Majah 545 and Malik 2/40 and Ahmad 4/249, 251, 254, 255 and Darimi 740]

Sunan Kubra Bayhaqi 1336

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ (١٣٣٧)
مَحْمُودِ الْعَسْكَرِيِّ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ غِيْلَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى
بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ ابْنِ أَبِي
خَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَبِيهِ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ
: إِيَّيْ أَنْ قَالَ فَقُلْتُ: أَلَا أَنْزَعُ خُفَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ ،
((إِنِّي قَدْ أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ لَمْ أُجْنِبْ بَعْدُ)).-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مسح کی رخصت اس شخص کے لیے جس نے باوضو

موزے پہنے ہوں

حدیث نمبر: 1336

:ترجمہ

(۱۳۳۷) عروہ بن مغیرہ اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں۔ اس میں ہے کہ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا میں آپ ﷺ کے موزے اتار دوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: میں نے باوضو پہنے تھے، اس کے بعد میں جنبی نہیں ہوا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The concession for wiping (over the socks) is for the one who has worn socks when he was in the state of ablution

Hadith number: 1336

Translation:

(1336) Urwah ibn Mughirah narrates from his father. In it is that I said: O Messenger of Allah! May I take off your socks? The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: I wore them while I was in

the state of ablution, and I did not become junub after that.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1337

Arabic Text:

وَحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا أَبُو (١٣٣٨)
سَعِيدٍ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ زِيَادٍ أَخْبَرَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرِ
الْمُخَرَّمِيُّ

ح (وَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بَشْرَانَ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارِ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ الْمُغِيرَةَ عَنْ أَبِيهِ : قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فِي سَفَرٍ ، فَقَالَ ((تَخَلَّفَ يَا مُغِيرَةُ وَامْضُوا أَيُّهَا النَّاسُ)) (-). فَتَخَلَّفْتُ وَمَعِيَ مَائٌ ، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - حَاجَتَهُ ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مَائٌ ، فَغَسَلَ وَجْهَهُ ، ثُمَّ ذَهَبَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ ، رُومِيَّةٌ فَضَاقَ كُمُّهَا ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيهِ-

قَالَ سُفْيَانُ وَزَادَ فِيهِ حُصَيْنٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ ، الْمُغِيرَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ أَتَمَسَحُ عَلَى خُفَّيكَ؟ قَالَ ((: إِيَّيْ أَدْخَلْتُهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ)) (-).

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب : پاکی کا بیان

باب : مسح کی رخصت اس شخص کے لیے جس نے باوضو

موزے پہنے ہوں

حدیث نمبر : 1337

:ترجمہ

(۱۳۳۸) (الف) حمزہ بن مغیرہ اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے، آپ ﷺ نے فرمایا " :اے مغیرہ! تو پیچھے رہ، اور لوگوں سے تم چلتے رہو، میرے پاس پانی تھا، رسول اللہ ﷺ قضائے حاجت سے فارغ ہو کر لوٹے تو میں نے آپ ﷺ پر پانی ڈالا، آپ نے اپنا چہرہ دھویا، پھر اپنے ہاتھ دھونا شروع ہوئے، آپ ﷺ پر رومی جبہ تھا اور اس کی آستین تنگ تھی، آپ ﷺ نے اپنے ہاتھ نیچے سے سے نکالے، انہیں دھویا اور سر پر مسح کیا اور موزوں پر بھی مسح کیا۔

(ب) (عروہ بن مغیرہ اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! کیا آپ اپنے موزوں پر مسح کرتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا " :میں نے یہ با وضو پہنے تھے۔ "

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The concession for wiping (over

the socks) is for the one who has worn socks when he was in the state of ablution
Hadith number: 1337

Translation:

(1337) (a) Hamzah ibn Mughirah narrates from his father that we were with the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) on a journey. He said: “Stay behind, O Mughirah! Keep walking people. I had water with me. When the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) returned from relieving himself, I poured water for him, he washed his face, then he started washing his hands. He was wearing a Roman robe and its sleeves were tight. He took his hands out from beneath it, washed them and wiped his head and also (wiped) over his socks.

(B) Urwah ibn Mughirah narrates from his father that I asked: O Messenger of Allah! Do you wipe over your socks? He said: "I wore it while I was in the state of ablution."
[Sahih. Narrated by Bukhari 182, 203, 4421, 5799 and Muslim 274 and Nasai 79, 82, 124, 125 and Abu Dawud 149, 151 and Ibn Majah 545 and Malik 2/40 and Ahmad 4/249, 251, 254, 255 and Darimi 740]

Sunan Kubra Bayhaqi 1338

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقْرِيُّ (١٣٣٩)
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ الْإِسْفَرَائِينِيَّ حَدَّثَنَا
يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْمَجِيدِ النَّقْفِيِّ حَدَّثَنَا الْمُهَاجِرُ عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - : أَنَّهُ رَخَّصَ
لِلْمُسَافِرِ فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ إِذَا
تَطَهَّرَ وَلَبَسَ خُفَّيْهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب : پاکی کا بیان

باب : مسح کی رخصت اس شخص کے لیے جس نے باوضو

موزے پہنے ہوں

حدیث نمبر: 1338

ترجمہ:

(۱۳۳۹) (سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکرہ اپنی والد سے اور وہ نبی ﷺ سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے مسافر کو تین دن اور تین راتیں رخصت دی اور مقیم کو ایک دن اور ایک رات، جب باوضو موزے پہنے ہوں تاکہ ن پر مسح کریں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The concession for wiping (over the socks) is for the one who has worn socks when he was in the state of ablution

Hadith number: 1338

Translation:

(1338) Abdur-Rahman ibn Abu Bakrah narrates from his father and he narrates from the Prophet (peace and blessings of

Allah be upon him) that he granted concession to the traveler for three days and three nights and to the resident for one day and one night to wipe over their socks if they wore them while in a state of ablution.
[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1339

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ (١٣٤٠)
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا بُنْدَارُ
يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ بَشَّارٍ وَبِشْرُ بْنُ مُعَاذِ الْعَقَدِيِّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ
قَالُوا حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنَا الْمُهَاجِرُ بْنُ
مَخْلَدٍ أَبُو مَخْلَدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ
النَّبِيِّ ﷺ - أَنَّهُ رَخَّصَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ
وَالْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً إِذَا تَطَهَّرَ فَلَيْسَ خُفْيَهُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِمَا -
وَبَكْدَا رَوَاهُ مُسَدَّدٌ وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَأَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ
الْمُنْتَنَى وَالْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ وَكَذَلِكَ رَوَاهُ
الشَّافِعِيُّ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ إِلَّا أَنَّ الرَّبِيعَ شَكَ فِي قَوْلِهِ إِذَا
تَطَهَّرَ فَلَيْسَ خُفْيَهُ - فَجَعَلَهُ مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَهُوَ فِي الْحَدِيثِ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مسح کی رخصت اس شخص کے لیے جس نے باوضو

موزے پہنے ہوں

حدیث نمبر: 1339

:ترجمہ

(۱۳۴۰) (سیدنا عبد الرحمن بن ابوبکرہ اپنی والد سے اور وہ نبی ﷺ سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے مسافر کو تین دن اور تین راتیں رخصت دی اور مقیم کو ایک دن اور ایک رات جب باوضو موزے پہنے ہوں تاکہ ان پر مسح کریں۔) (امام شافعی) رح (نے عبدالوہاب سے نقل کیا ہے، لیکن ربیع نے اس قول میں شک کیا ہے، یعنی جب باوضو موزے پہنے ہوں۔ جب کہ امام شافعی کا قول حدیث کے الفاظ ہی ہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The concession for wiping (over the socks) is for the one who has worn

socks when he was in the state of ablution
Hadith number: 1339

Translation:

(1339) Abdur-Rahman ibn Abu Bakrah narrates from his father and he narrates from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) that he granted concession to the traveler for three days and three nights and one day and one night for the resident if he wore the socks while in a state of ablution so that he can wipe over them.

(B) Imam Shafi'i (RA) has narrated from Abdul Wahab, but Rabi 'has doubted this statement, i.e. if he wore the socks while in a state of ablution. While the words of Imam Shafi'i are the words of thr hadith.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1340

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ (١٣٤١)
مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ
حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا زُبَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَالْحَسَنُ بْنُ أَبِي
الرَّبِيعِ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ
عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ عَنْ زُرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: جِئْتُ صَفْوَانَ
بْنَ عَسَّالٍ الْمُرَادِيَّ فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكَ؟ فَقُلْتُ: جِئْتُ أَطْلُبُ
الْعِلْمَ. قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ((: مَا مِنْ
خَارِجٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ فِي طَلَبِ

:الْعِلْمُ إِلَّا وَضَعَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا بِمَا يَصْنَعُ ((- قَالَ
 جَبْتُ أَسْأَلُكَ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ- قَالَ :نَعَمْ كُنْتُ فِي الْجَيْشِ
 الَّذِي بَعَثَهُمُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ- فَأَمَرْنَا أَنْ نَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ
 إِذَا نَحْنُ أَدْخَلْنَاهُمَا عَلَى طَهْرٍ ثَلَاثًا إِذَا سَافَرْنَا ، وَلَيْلَةً إِذَا
 أَقَمْنَا ، وَلَا نَخْلَعُهُمَا مِنْ بَوْلٍ وَلَا غَائِطٍ وَلَا نَوْمٍ وَلَا نَخْلَعُهُمَا
 إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ- قَالَ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ- يَقُولُ ((:إِنَّ
 بِالْمَغْرِبِ بَابًا مَفْتُوحًا لِلتَّوْبَةِ مَسِيرَتُهُ سَبْعُونَ سَنَةً لَا يُغْلَقُ
 حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ نَحْوِهِ))(-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب :پاکی کا بیان

باب :مسح کی رخصت اس شخص کے لیے جس نے باوضو

موزے پہنے ہوں

حدیث نمبر :1340

:ترجمہ

(۱۳۴۱) (زر بن حبیش فرماتے ہیں کہ میں سیدنا صفوان بن

عسال مرادی کے پاس آیا تو انہوں نے فرمایا :تجھے

کون سی چیز لے کر آئی ہے؟ میں نے کہا: علم کی تلاش میں آیا ہوں۔ انہوں نے کہا: بیشک فرشتہ طالب علم کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں تاکہ طالب علم کی رضا مندی حاصل کریں۔ میں نے کہا: قضاے حاجت اور پیشاب کرنے کے بعد موزوں پر مسح کرنے کے متعلق میرے دل میں بات، کھٹک رہی ہے اور آپ نبی ﷺ کے صحابہ میں سے ہیں میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ سے سوال کروں کہ کیا آپ انے اس کے متعلق کچھ سنا ہے؟ انہوں نے فرمایا: ہاں رسول اللہ ﷺ ہم کو حکم دیا کرتے تھے کہ جب ہم سفر میں ہوں یا فرمایا مسافر ہوں تو تین دن اور تین راتیں موزے نہ اتاریں، مگر جنابت سے (اتاریں) اور قضاے حاجت، پیشاب اور نیند سے نہیں۔ انہوں نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مغرب میں توبہ کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے جس کی مسافت ستر سال ہے وہ بند نہیں ہوگا جب تک سورج اس طرف سے طلوع نہ ہو۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The concession for wiping (over

the socks) is for the one who has worn socks when he was in the state of ablution
Hadith number: 1340

Translation:

(1340) Zar Ibn Habish says that when I came to Safwan ibn Asal Muradi, he said: What brought you here? I said: I have come in search of knowledge. He said: Indeed the angels lay their wings for the student of knowledge to gain his approval. I said: There is doubt in my heart about wiping over the socks after defecating and urinating and you are one of the companions of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him), I have come to you to ask you if you heard something related to this? He said: Yes! The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) used to command us not to take off our socks for three days and three

nights when we were on a journey or were travellers. But take them off at the time of major impurity and do not take them off after relieving yourself or sleeping. He said: I heard the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) say that a door of repentance is open in the west, the distance of which is seventy years, it will not be closed until the sun rises from that side (i.e. the west)
[Hasan (Fair)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1341

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ (١٣٤٢)
الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا الشَّامَاتِيُّ يَعْنِي جَعْفَرَ بْنَ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا يُونُسُ
بْنُ مُوسَى وَحَوْثَرَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا أَبُو
رَوْقٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْغَرِيفِ-

-عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالِ الْمُرَادِيِّ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
فِي سَرِيَّةٍ وَقَالَ ((لِيَمْسَحَ أَحَدُكُمْ إِذَا كَانَ مُسَافِرًا عَلَى خُفِّهِ
إِذَا ادْخَلَهُمَا طَابِرَتَيْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ ، وَلِيَمْسَحَ الْمُقِيمُ يَوْمًا
وَلَيْلَةً))-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مسح کی رخصت اس شخص کے لیے جس نے

باوضو موزے پہنے ہوں

حدیث نمبر: 1341

ترجمہ:

(۱۳۴۲) (سیدنا صفوان بن عسال مرادی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں ایک سریہ میں بھیجا اور فرمایا: تم موزوں پر تین دن اور تین راتیں مسح کرو اگر مسافر ہو اور باوضو پہنے ہوں اور مقیم ایک دن اور ایک رات مسح کرے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The concession for wiping (over the socks) is for the one who has worn socks when he was in the state of ablution

Hadith number: 1341

Translation:

(1341) Safwan ibn Asal Muradi says that the Messenger of Allah (peace and

blessings of Allah be upon him) sent us in an expedition and said: You wipe over your socks for three days and three nights if you are a traveler and you wore them while you were in a state of ablution and the resident will wipe (over his socks) for one day and one night.

[Hasan Li Ghayrihi (Fair due to external evidence)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1342

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذُبَارِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ (١٣٤٣)
بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شَوْذَبِ الْمُقَرِّيِّ بِوَاسِطِ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ الْحَكَمِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ عَنْ
شَرِيحِ بْنِ هَانِيٍّ قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنِ الْمَسْحِ عَلَى
الْخُفَّيْنِ فَقَالَتْ: أَنْتِ عَلِيًّا ، فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- . فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: إِنَّا نَكُونُ فِي أَرْضٍ بَارِدَةٍ وَتَلُوجٌ كَثِيرَةٌ فَمَا تَرَى
فِي الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ ((لِلْمُسَافِرِ
ثَلَاثَةٌ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، يَمْسَحُ عَلَى خُفَيْهِ إِذَا
أَدْخَلَهُمَا وَقَدَّمَاهُ طَابِرَتَانِ))-
تَفَرَّدَ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مسح کی رخصت اس شخص کے لیے جس نے باوضو

موزے پہنے ہوں

حدیث نمبر: 1342

:ترجمہ

(۱۳۴۳) (شریح بن ہانی سے روایت ہے کہ میں سیدہ عائشہ کے پاس موزوں پر مسح سے متعلق سوال کرنے آیا تو انہوں نے کہ فرمایا: تو علیؓ کے پاس جا، وہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سفر کرتے رہتے تھے۔ میں ان کے پاس آیا کہا: ہم ٹھنڈی اور بہت زیادہ اولوں والی زمین میں ہوتے ہیں، آپ کا موزوں پر مسح کے متعلق کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ مسافر کے لیے تین دن اور تین راتیں اور مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات ہے یہ اس وقت موزوں پر مسح کریں گے جب انہیں باوضو پہنا ہو۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The concession for wiping (over the socks) is for the one who has worn socks when he was in the state of ablution

Hadith number: 1342

Translation:

(1342) It is narrated on the authority of Shuraih ibn Hani that I came to Ayesha (may Allah be pleased with her) to ask her about wiping over the socks so she said: Go to Ali, he used to travel with the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him). I went to him and said: We live in a cold, hailstorm area. What do you think about wiping over the socks? He said: I heard the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) say that there are three days and three nights for the traveler and one day and one night for the resident but he

will only wipe over his socks if he wore them while in the state of ablution.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1343

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ ابْنُ (١٣٤٤)
الْأَعْرَابِيِّ

ح (وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ
مُحَمَّدِ الصَّفَّارِ قَالَا حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
:عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ

:سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَيُّوَضاً أَحَدُنَا وَرَجُلَاهُ فِي الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ
نَعَمْ إِذَا ادَّخَلَهُمَا وَهُمَا طَابِرَتَانِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مسح کی رخصت اس شخص کے لیے جس نے باوضو

موزے پہنے ہوں

حدیث نمبر: 1343

:ترجمہ

(۱۳۴۴) (عبداللہ بن دینار سے روایت ہے کہ میں نے سیدنا
ابن عمرؓ سے سنا: وہ کہتے تھے کہ میں نے سیدنا عمر بن
خطابؓ سے پوچھا: جب ہم میں سے کوئی وضو کرے اور
اس کے پاؤں موزوں میں ہوں) تو کیا وہ مسح کرے گا؟
انہوں نے فرمایا: ہاں جب وہ دونوں موزے باوضو پہنے
ہوں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The concession for wiping (over the socks) is for the one who has worn socks when he was in the state of ablution

Hadith number: 1343

Translation:

(1343) It is narrated on the authority of Abdullah ibn Dinar that I heard Ibn Umar (may Allah be pleased with him) say that I asked Umar ibn al-Khattab (may Allaah be pleased with him): When one of us performs ablution and he has socks on his feet (will he wipe over them)? He said: Yes, if he wore both of them while he was in a state of ablution.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1344

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ (١٣٤٥)
يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ
مُوسَى أَخْبَرَنَا دَلْهَمُ بْنُ صَالِحٍ وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا
أَبُو الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَكْرِ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ
حَدَّثَنَا دَلْهَمُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ حُجَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَبْدَى النَّجَاشِيُّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ - خُفَيْنِ
سَادَجِينَ أَسْوَدَيْنِ ، فَلَبَسَهُمَا وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي
نُعَيْمٍ ، وَفِي حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ : أَنَّ النَّجَاشِيَّ أَبْدَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ
ﷺ - خُفَيْنِ أَسْوَدَيْنِ سَادَجِينَ ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَيْهِمَا.-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: وہ موزے جس پر رسول اللہ نے مسح کیا

حدیث نمبر: 1344

:ترجمہ

(۱۳۴۵) الف (سیدنا عبداللہ بن بریدہ اپنی والد سے نقل فرماتے

ہیں کہ نجاشی نے نبی ﷺ کو دو سادہ سیاہ موزے ہدیہ دیے،

آپ ﷺ نے انہیں پہنا اور ان پر مسح کیا۔

ب (عبید اللہ کی حدیث میں ہے نجاشی نے نبی ﷺ کو دو

سیاہ موزے ہدیہ دیئے آپ نے وضو کیا اور ان پر مسح کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The socks over which the

Messenger of Allah (peace and blessings of

Allah be upon him) wiped

Hadith number: 1344

Translation:

(1344) (a) Abdullah ibn Buraida narrates from his father that Negus gave two simple black socks to the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him), he put them on and wiped over them.

(B) According to the hadith of Ubaidullah, Negus gave two black socks to the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him), he performed ablution and wiped over them. [Hasan (Fair). Narrated by Abu Dawud 155 and Tirmidhi 2820 and Ibn Majah 549, 3620 and Ahmad 5/352]

Sunan Kubra Bayhaqi 1345

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا (١٣٤٦)
الْعَبَّاسُ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ
الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ: أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ - ﷺ - تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ. قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَ
الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ: يَا مُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ وَمِنْ أَيْنَ كَانَ لِلنَّبِيِّ -
ﷺ - خُفَّانِ؟ قَالَ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ: أَبْدَاهُمَا إِلَيْهِ النَّجَاشِيُّ.
قَالَ الشَّيْخُ: وَالشَّعْبِيُّ إِنَّمَا رَوَى حَدِيثَ الْمَسْحِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ
الْمُغِيرَةَ عَنْ أَبِيهِ. وَهَذَا شَاهِدٌ لِحَدِيثِ دَلْهِمِ بْنِ صَالِحٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: وہ موزے جس پر رسول اللہ نے مسح کیا

حدیث نمبر: 1345

ترجمہ:

(۱۳۴۶) (سیدنا مغیرہ بن شعبہ^{رض} سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے وضو کیا اور موزوں پر مسح کیا، سیدنا مغیرہ بن شعبہ^{رض} کے پاس ایک شخص تھا اس نے کہا: اے مغیرہ بن شعبہ! نبی ﷺ کے موزے کہاں سے آئے تھے؟ مغیرہ^{رض} نے کہا: نجاشی نے آپ ﷺ کو ہدیہ دئیے تھے۔) (ب) (شیخ کہتے ہیں کہ شعبی نے مسح والی حدیث کو عروہ بن مغیرہ سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کیا ہے، یہ حدیث دلہم بن صالح کی حدیث کے لیے شاہد ہے۔)

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The concession for wiping (over the socks) is for the one who has worn socks when he was in the state of ablution

Hadith number: 134

Translation:

(1345) It is narrated on the authority of Mughirah ibn Shubah (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) performed ablution and wiped over his socks. There was a man near Syeduna Mughirah bin Shubah. He said: O Mughirah bin Shuba! Where did the Prophet's socks come from? Mughirah said: Negus had given him a gift.

(B) The Shaykh says that Shu'bi narrated the hadeeth from Arwa ibn Mughirah and he narrated it from his father, this hadith supports the hadith of Dalham bin Saleh.
[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1346

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ (١٣٤٧)
يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ
الرَّزَّاقِ قَالَ سَأَلْتُ مَعْمَرًا عَنِ الْخَرْقِ يَكُونُ فِي الْخُفِّ فَقَالَ
إِذَا خَرَجَ مِنْ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ شَيْئًا فَلَا تَمْسَحْ عَلَيْهِ وَاخْلَعْ-
قَالَ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ : اْمَسَحْ
عَلَيْهِمَا مَا تَعَلَّقَا بِالْقَدَمِ وَإِنْ تَخَرَّقَا. قَالَ : وَكَذَلِكَ كَانَتْ
خِفَافُ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ مُخَرَّقَةً مُشَقَّقَةً
قَوْلُ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ فِي ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيْنَا.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: وہ موزے جس پر رسول اللہ نے مسح کیا

حدیث نمبر: 1346

:ترجمہ

(۱۳۴۷) (عبد الرزاق کہتے ہیں: میں نے معمر سے پھٹ

جانے والے موزے کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا: جب وضو کی جگہ سے کوئی چیز نکل آئے اس پر مسح نہ کرو بلکہ انہیں اتار دو۔

انہوں نے کہا عبد الرزاق نے ہم کو بیان کیا کہتے ہیں میں نے ثوری سے سنا وہ کہتے تھے ان پر مسح کر جب تک قدم کے ساتھ چمٹے رہے، اگرچہ پھٹ بھی جائیں پھر انہوں نے کہا اسی طرح مہاجرین اور انصار کے موزے پھٹے ہوئے ہوتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The concession for wiping (over the socks) is for the one who has worn socks when he was in the state of ablution
Hadith number: 1346

Translation:

(1346) AbdulRazzaq says: When I asked Mu'amar about the socks that are torn, he said: When something comes out from the place of ablution, do not wipe over it but take them off.

He said, AbdulRazzaq narrates to us that he said, I heard from al-Thawri that he used to say to wipe over them as long as they cling to your feet, even if they are torn, then he said that in the same way the socks of Muhajireen and Ansar were torn.

[Sahih. Narrated by AbdulRazzaq 754]

Sunan Kubra Bayhaqi 1347

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ (١٣٤٨)
قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ
سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ
عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - فِي الْمُحْرَمِ : لَا يَلْبَسُ خُفَّيْنِ
إِلَّا لِمَنْ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَ أَسْفَلَ مِنْ
الْكَعْبَيْنِ -

مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ
الْخُفَّ إِذَا لَمْ يُغَطَّ جَمِيعَ الْقَدَمِ فَلَيْسَ بِخُفٍّ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: وہ موزے جس پر رسول اللہ نے مسح کیا

حدیث نمبر: 1347

ترجمہ:

(۱۳۴۸) سالم کے والد محترم نبی ﷺ سے 'محرم کے متعلق

بیان فرماتے ہیں کہ وہ موزے نہ پہننے مگر وہ شخص پہن

سکتا ہے جو جوتے نہیں پاتا۔ لہذا ان کو کاٹ لے تاکہ

ایڑھیوں کے نیچے تک ہوجائیں۔

ب (فقہ ابو ولد کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات پر

دلالت ہے کہ جب موزہ پورے پاؤں کو نہ ڈھانپے تو وہ

موزے کے حکم میں نہیں ہے جس پر مسح جائز ہوتا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The concession for wiping (over

the socks) is for the one who has worn socks when he was in the state of ablution
Hadith number: 1347

Translation:

(1347) Salem's father narrates from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) about the muhrim that he should not wear socks, but a person who does not have shoes can wear them. But he should cut them so that they are beneath the ankles (and do not cover them).

(B) The jurist Abu Walid says that this hadeeth is proof that when the socks do not cover the whole foot, then they do not come under the ruling of the socks over which wiping is permissible.

[Sahih. Narrated by Bukhari 134, 366, 1542, 1838, 1842, 5794, 5803, 5806 and

Muslim 1177 and Nasai 2668 and Abu Dawud 1823 and Tirmidhi 833 and Ibn Majah 2929 and Malik 20/8 and Ahmad 2/4, 8, 22, 29, 32, 34, 41, 54, 56, 59, 63, 65, 77, 119 and Darimi 1839]

Sunan Kubra Bayhaqi 1348

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَائِرٍ الْفَقِيهُ وَأَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ يُوسُفَ قَالَ (١٣٤٩)
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ
الْحَسَنِ بْنِ أَبِي عَيْسَى الدَّارَبَجَرْدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنْ بُزَيْلِ بْنِ شَرْحَبِيلَ عَنْ

المُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - مَسَحَ عَلَى جَوْرَبِيهِ وَنَعْلَيْهِ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاکی کا بیان

باب: جرابوں اور جوتیوں پر مسح کے متعلق احادیث

حدیث نمبر: 1348

:ترجمہ

(۱۳۴۹) (سیدنا مغیرہ بن شعبہؓ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ نے

جرابوں اور جوتیوں پر مسح کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ahadith relating to wiping over the socks and shoes

Hadith number: 1348

Translation:

(1348) Syeduna Mughirah bin Shubah says that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) wiped over socks and shoes.

[Sahih. Narrated by Nasai 123 and Abu Dawud 159 and Tirmidhi 99 and Ibn Majah 559 and Ahmad 4/252]

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ : عَثْمَانُ بْنُ عَبْدِوَسِّ بْنِ مَحْفُوظِ الْفَقِيهِ (١٣٥٠)
الْجَنْزَرُودِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
أَحْمَدَ بْنِ أَنَسٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ .

قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : رَأَيْتُ مُسْلِمَ بْنَ الْحَجَّاجِ ضَعَّفَ هَذَا الْخَبَرَ
وَقَالَ أَبُو قَيْسٍ الْأَوْدِيُّ وَبُزَيْلُ بْنُ شَرْحَبِيلَ لَا يَحْتَمِلَانِ هَذَا مَعَ
:مُخَالَفَتِهِمَا الْأَجَلَةَ الَّذِينَ رَوَوْا هَذَا الْخَبَرَ عَنِ الْمُغِيرَةِ فَقَالُوا
مَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ . وَقَالَ : لَا نَتْرُكُ ظَاهِرَ الْقُرْآنِ بِمِثْلِ أَبِي
قَيْسٍ وَبُزَيْلٍ .

فَذَكَرْتُ بِهَذِهِ الْحِكَايَةِ عَنْ مُسْلِمٍ لِأَبِي الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ الدَّغُولِيِّ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ مَخْلَدِ بْنِ
شَيْبَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا قُدَامَةَ السَّرْحُسِيَّ يَقُولُ قَالَ عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قُلْتُ لِسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ : لَوْ حَدَّثْتَنِي بِحَدِيثِ أَبِي
قَيْسٍ عَنْ بُزَيْلٍ مَا قَبِلْتُهُ مِنْكَ . فَقَالَ سُفْيَانُ : الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ
أَوْ وَاهٍ أَوْ كَلِمَةٌ نَحْوَهَا .

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدٍ : مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى
قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ

سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ حَدَّثْتُ أَبِي بِهَذَا الْحَدِيثِ
فَقَالَ أَبِي: لَيْسَ يُرْوَى بِذَا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَيْسٍ. قَالَ أَبِي: أَبِي
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ أَنْ يُحَدِّثَ بِهِ يَقُولُ هُوَ مُنْكَرٌ.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْإِسْفَرَائِينِيُّ
:أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ
حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فِي الْمَسْحِ رَوَاهُ عَنِ الْمُغِيرَةِ أَهْلُ
الْمَدِينَةِ وَأَهْلُ الْكُوفَةِ وَأَهْلُ الْبَصْرَةِ ، وَرَوَاهُ بَزِيلُ بْنُ شَرْحِبِيلَ
عَنِ الْمُغِيرَةِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَخَالَفَ
النَّاسَ.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا أَبُو
بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا
الْمُفَضَّلُ بْنُ غَسَّانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا زَكَرِيَّا يَعْنِي يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ عَنْ
بِذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: النَّاسُ كُلُّهُمْ يَرُؤُونَهُ عَلَى الْخُفَيْنِ غَيْرَ أَبِي
قَيْسٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوَدْبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ دَاسَةَ
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ لَا يُحَدِّثُ
-بِهِذَا الْحَدِيثِ لِأَنَّ الْمَعْرُوفَ عَنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ -
مَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَرُويَ بِذَا أَيْضًا عَنْ أَبِي مُوسَى
الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - وَلَيْسَ بِالْمُتَّصِلِ وَلَا بِالْقَوِيِّ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاكى كا بيان

باب: جرابوں اور جوتیوں پر مسح كے متعلق احادیث

حدیث نمبر: 1349

:ترجمہ

(۱۳۵۰) ابو عاصم نے اس كو اسی طرح ہی بیان کیا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ahadith relating to wiping over the socks and shoes

Hadith number: 1349

Translation:

(1349) Abu Asim has narrated it like this.

[Hasan (Fair)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1350

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ (١٣٥١)
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الشَّامَاتِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا
الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ أَبِي سِنَانٍ
عَيْسَى بْنِ سِنَانٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي
مُوسَى قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - يَمْسَحُ عَلَى الْجُورَبَيْنِ
وَالنَّعْلَيْنِ -

قال: الضَّحَّاكُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَمْ يَثْبُتْ سَمَاعُهُ مِنْ أَبِي
مُوسَى وَعَيْسَى بْنِ سِنَانٍ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ
حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ

مَعِينِ يَقُولُ : عَيْسَىٰ بِنُ سِنَانٍ ضَعِيفٌ۔

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: جرابوں اور جوتیوں پر مسح کے متعلق احادیث

حدیث نمبر: 1350

:ترجمہ

(۱۳۵۱) (سیدنا ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ

ﷺ کو جرابوں اور جوتیوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

ب) (اس میں عیسیٰ بن سنان ضعیف ہے جو قابل حجت نہیں۔

ج) (امام یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ عیسیٰ بن سنان ضعیف

ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ahadith relating to wiping over the socks and shoes

Hadith number: 1350

Translation:

(1350) Syeduna Abu Musa (may Allah be pleased with him) says that I saw the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) wiping over his socks and shoes.

(B) Isa ibn Sanan is weak in this (hadith) which is not reliable.

(C) Imam Yahya ibn Mu'in (may Allah have mercy on him) says that Isa ibn Sanan is weak.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence). Narrated by 560]

Sunan Kubra Bayhaqi 1351

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ (١٣٥٢)
بْنِ بَالَوَيْهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا
أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي وَرْقَائٍ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ قَوْمِهِ يُقَالُ لَهُ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَعْبٍ يَقُولُ: رَأَيْتُ عَلِيًّا بَالَ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى
الْجُورَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى
كتاب: پاکی کا بیان

باب :جرابوں اور جوتیوں پر مسح کے متعلق احادیث
حدیث نمبر :1351

:ترجمہ

(۱۳۵۲) (ابو ورقاء نے اپنی قوم کے ایک شخص سے سنا جس کو عبدالله بن کعب کہا جاتا تھا کہ میں نے سیدنا علیؑ کو پیشاب کرتے ہوئے دیکھا پھر انہوں نے جرابوں اور جوتیوں پر مسح کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ahadith relating to wiping over the socks and shoes

Hadith number: 1351

Translation:

(1351) Abu Waraqa heard from a man from his people who was called Abdullah ibn Ka'b that I saw Syeduna Ali (may Allah be pleased with him) urinating and then he

wiped over his socks and shoes.

[Hasan Li Ghayrihi (Fair due to external evidence). Narrated by AbdulRazzaq 773]

Sunan Kubra Bayhaqi 1352

Arabic Text:

وَرَوَاهُ إِسْرَائِيلُ عَنِ الزَّبْرِقَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ كَعْبِ (١٣٥٣)
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا بَالَ وَتَوَضَّأَ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى
نَعْلَيْهِ وَجَوْرَبِيهِ-

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ
يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ

حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ فَذَكَرَهُ.
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنِ الزُّبَيْرِ قَانَ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: جرابوں اور جوتیوں پر مسح کے متعلق احادیث
حدیث نمبر: 1352

:ترجمہ

(۱۳۵۳ھ) (کعب بن عبداللہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا علیؓ کو پیشاب کرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے وضو کیا پھر اپنی جوتیوں اور جرابوں پر مسح کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ahadith relating to wiping over the socks and shoes

Hadith number: 1352

Translation:

(1352) Ka'b ibn Abdullah says that I saw Ali (may Allaah be pleased with him) urinating, he performed ablution and then wiped over his shoes and socks.

[Hasan Li Ghayrihi (Fair due to external evidence)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1353

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ (١٣٥٤)
بْنُ الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: رَأَيْتُ أَبَا
مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيَّ يَمْسَحُ عَلَى الْجَوْرِ بَيْنَ وَالنَّعْلَيْنِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: جرابوں اور جوتیوں پر مسح کے متعلق احادیث

حدیث نمبر: 1353

:ترجمہ

(١٣٥٤) منصور کہتے ہیں کہ میں نے خالد بن سعد کو
کہتے ہوئے سنا کہ میں نے ابو مسعود انصاریؓ کو دیکھا،
وہ جرابوں اور جوتیوں پر مسح کرتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ahadith relating to wiping over the socks and shoes

Hadith number: 1353

Translation:

(1353) Mansoor says that I heard Khalid ibn Sa'd say that I saw Abu Mas'ud Ansari, he used to wipe over his socks and shoes.

[Sahih. Narrated by AbdulRazzaq 774]

Sunan Kubra Bayhaqi 1354

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ (۱۳۵۵)
الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ
عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَائٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ
الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ ، فَمَسَحَ عَلَى الْجُورَبَيْنِ
وَالنَّعْلَيْنِ ثُمَّ صَلَّى-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: جرابوں اور جوتیوں پر مسح کے متعلق احادیث

حدیث نمبر: 1354

:ترجمہ

(۱۳۵۵) (اسماعیل بن رجاء اپنی والد سے نقل فرماتے ہیں کہ
میں نے سیدنا براء بن عازبؓ کو دیکھا، انہوں نے پیشاب
کیا، پھر وضو کیا اور جرابوں اور جوتیوں پر مسح کیا، پھر
نماز پڑھی۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ahadith relating to wiping over the socks and shoes

Hadith number: 1354

Translation:

(1354) Isma'il ibn Raja narrates from his father that I saw Bara ibn Azib (may Allah be pleased with him), he urinated, then performed ablution and wiped over his socks and shoes, then offered prayer.

[Daif (Weak). Narrated by Ibn Abi Shaybah 1984]

Sunan Kubra Bayhaqi 1355

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الطَّيِّبِ (١٣٥٦)
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشُّعَيْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِصَامٍ حَدَّثَنَا
حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ
عَنِ الْأَعْمَشِ أَظُنُّهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ
أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ أَتَى الْخَلَاءَ فَتَوَضَّأَ ، وَمَسَحَ عَلَى قُلُوبِهِ
بِيَضَائِ مَزْرُورَةٍ وَعَلَى جَوْرَبَيْنِ أَسْوَدَيْنِ مِرْعَزَيْنِ -
وَرَفَعَهُ بَعْضُ الضُّعَفَاءِ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ -
وَرُوي فِي الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ وَسَهْلِ بْنِ
:سَعْدٍ وَعَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ
وَرُوي ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَابْنِ عَبَّاسٍ -
وَكَانَ الْأُسْتَاذُ أَبُو الْوَلِيدِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يُؤَوِّلُ حَدِيثَ
الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ عَلَى أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى
جَوْرَبَيْنِ مُنْعَلَيْنِ لِأَنَّ جَوْرَبٌ عَلَى الْإِنْفِرَادِ وَنَعْلٌ عَلَى
الْإِنْفِرَادِ -

أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ عَنْهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَقَدْ وَجَدْتُ لِأَنَسِ بْنِ
مَالِكٍ أَثْرًا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: جرابوں اور جوتیوں پر مسح کے متعلق احادیث

حدیث نمبر: 1355

:ترجمہ

(۱۳۵۶ سعید بن عبداللہ) رح (سے روایت ہے کہ میں نے
سیدنا انس بن مالکؓ کو دیکھا، وہ بیت الخلاء آئے، پھر وضو
وضو کیا اور اپنی سفید پگڑی اور سیاہ باریک کپڑے کی
جرابوں پر مسح کیا۔

(ب) بعض ضعفاء نے اس کو مرفوع بیان کیا ہے اور اس
کی کوئی حیثیت نہیں۔

(ج) مسح کے متعلق ابو امامہ، سہل بن سعد اور عمرو بن
حریث سے روایت کیا گیا ہے۔ امام ابوداؤد (رح) فرماتے ہیں
ہیں کہ سیدنا عمر بن خطابؓ اور ابن عباس سے بھی روایت
کیا گیا ہے۔

د (استاد ابو ولید جرابوں اور جوتوں پر مسح کی حدیث میں
تاویل کرتے ہوئے فرماتے تھے کہ مسح ان جرابوں پر ہے
جو چمڑے والی ہوں صرف اکیلی جراب یا جوتے پر نہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ahadith relating to wiping over the
socks and shoes

Hadith number: 1355

Translation:

(1355) It is narrated on the authority of
Saeed bin Abdullah that I saw Syeduna
Anas bin Malik (may Allah be pleased with
him), he went to the toilet, then performed
ablution and wiped over his white turban and
socks made of black thin cloth.

(B) Some of the weak (narrators) have

narrated it as a marfu hadith but it has no value.

(C) It has been narrated from Abu Umamah, Sahl ibn Sa'd and Amr ibn Harith (may Allah be pleased with them) about wiping (over the socks). Imam Abu Dawud says that it has also been narrated from Umar ibn Khattab and Ibn Abbas (may Allah be pleased with them).

(D) Abu Waleed, while interpreting the hadith of wiping over the socks and shoes, used to say that (the concession for) wiping over the socks is only applicable for the socks which are made of leather and not for all socks or shoes.

[Daif (Weak). Narrated by AbdulRazzaq 779]

Sunan Kubra Bayhaqi 1356

Arabic Text:

:أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذُبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو طَابِرٍ (١٣٥٧)
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُحَمَّدَابَادِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُنَادِي
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ بَارُونَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ عَنْ رَاشِدِ بْنِ
نَجِيحٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ دَخَلَ الْخَلَاءِ وَعَلَيْهِ جُورَبَانِ
أَسْفَلُهُمَا جُلُودٌ وَأَعْلَاهُمَا خَزٌّ ، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: جرابوں اور جوتیوں پر مسح کے متعلق احادیث

حدیث نمبر: 1356

:ترجمہ

(۱۳۵۷) راشد بن نجیع فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا انس بن مالکؓ کو بیت الخلاء میں داخل ہوئے دیکھا اور وہ جرابیں پہنے ہوئے تھے، ان کا نچلا حصہ چمڑے کا تھا اور اوپر والا حصہ اون کا تھا انہوں نے اس پر مسح کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ahadith relating to wiping over the socks and shoes

Hadith number: 1356

Translation:

(1356) Ibn Naji 'says that I saw Anas ibn Malik (may Allah be pleased with him) enter the toilet and he was wearing socks, the lower part (of the sock) was of leather

and the upper part was of wool, he wiped over it.

[Hasan (Fair). Narrated by Ibn Abi Shaybah 36357]

Sunan Kubra Bayhaqi 1357

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْخَلِيلِ أَخْبَرَنَا (١٣٥٨)
أَبُو أَحْمَدَ بْنِ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرِ الْقَرَّازِ حَدَّثَنَا
أَبُو عُمَيْرٍ حَدَّثَنَا رَوَّادٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ

-عَنْ عَطَائِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ -

تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ-

هَكَذَا رَوَاهُ رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ- وَهُوَ يَنْفَرِدُ عَنِ الثَّوْرِيِّ بِمَنَاكِيرَ
هَذَا أَحَدًا ، وَالثَّقَاتُ رَوَوْهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ دُونَ هَذِهِ اللَّفْظَةِ- وَرَوَى
عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ عَنِ الثَّوْرِيِّ هَكَذَا وَلَيْسَ بِمَحْفُوظٍ

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: جوتیوں پر مسح کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 1357

:ترجمہ

(۱۳۵۸) (سیدنا ابن عباس^{رض} سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے
ایک ایک مرتبہ وضو کیا اور جوتیوں پر مسح کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on wiping over the shoes

Hadith number: 1357

Translation:

(1357) It is narrated from Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) performed ablution washing each part once and wiped over his shoes.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence). Narrated by AbdulRazzaq 783]

Sunan Kubra Bayhaqi 1358

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدِ عَدَانَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ (١٣٥٩)
أَحْمَدَ الطَّبْرَانِيَّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْوَكَيْعِيُّ
:حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ
أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - مَسَحَ عَلَى النَّعْلَيْنِ -

وَالصَّحِيحُ رِوَايَةُ الْجَمَاعَةِ -

وَرَوَاهُ عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ وَبِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ
أَسْلَمَ فَحَكَيَا فِي الْحَدِيثِ رَشًّا عَلَى الرَّجْلِ وَفِيهَا النَّعْلُ وَذَلِكَ
يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ غَسَلَهَا فِي النَّعْلِ - فَقَدْ رَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ
وَمُحَمَّدُ بْنُ عَجَلَانَ وَوَرَقَائُ بْنُ عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ
أَبِي كَثِيرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فَحَكَوْا فِي الْحَدِيثِ غَسَلَهُ رِجْلَيْهِ
وَالْحَدِيثُ حَدِيثٌ وَاحِدٌ - وَالْعَدَدُ الْكَثِيرُ أَوْلَى بِالْحِفْظِ مِنَ
الْعَدَدِ الْيَسِيرِ مَعَ فَضْلِ حِفْظِ مَنْ حَفِظَ فِيهِ الْغَسْلَ بَعْدَ
الرَّشِّ عَلَى مَنْ لَمْ يَحْفَظْهُ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: جوتیوں پر مسح کرنے کا بیان
حدیث نمبر: 1358

:ترجمہ

(۱۳۵۹) سفیان نے ہم کو اسی سند سے بیان کیا کہ نبی ﷺ نے جوتیوں پر مسح کیا۔
(ب) (عبدالعزیز دراوردی اور ہشام بن سعد نے زید بن اسلم سے جوتے سمیتپاؤں پر چھینٹے مارنا بیان کیا ہے، لیکن یہ بھی احتمال ہے کہ انہوں نے جوتوں سمیت پاؤں دھونا ہو۔
زید بن اسلم سے دوسرے راوی بیان کرتے ہیں کہ دونوں پاؤں دھوئے جائیں۔ حدیث ایک ہی ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ahadith relating to wiping over

the socks and shoes
Hadith number: 1358

Translation:

(1358) Sufyan narrated to us from the same chain of transmission that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) wiped over his shoes.

(B) Abdul Aziz Drawardi and Hisham bin Saad have narrated that Zayd bin Aslam (may Allah be pleased with him) splashed (water) on his feet with shoes on, but it is also possible that he washed his feet with the shoes. Another narration is narrated from Zayd ibn Aslam that states that both the feet should be washed. The hadith is the same. [Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1359

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذِبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ (١٣٦٠)
دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَعَبَّادُ بْنُ مُوسَى قَالَا
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَايٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عَبَّادُ قَالَ أَخْبَرَنِي
-أَوْسُ بْنُ أَبِي أَوْسٍ النَّخَعِيُّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ -
تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ وَقَدَمَيْهِ -
وَقَالَ مُسَدَّدٌ: أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ -.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: جوتیوں پر مسح کرنے کا بیان

حدیث نمبر: 1359

ترجمہ:

(۱۳۶۰) سیدنا اوس بن ابی اوس ثقفیؓ کا طغری فرماتے ہیں

کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، آپ ﷺ

نے جوتیوں اور پاؤں پر مسح کیا۔

مسدد کہتے ہیں: انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on wiping over the shoes

Hadith number: 1359

Translation:

(1359) Syeduna Aws ibn Abi Aws Thaqafi

says that I saw the Messenger of Allah

(peace and blessings of Allah be upon

him) performing ablution. He wiped over his shoes and feet.

Musaddad says: He has seen the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him).

[Sahih. Narrated by Abu Dawud 160 and Ahmad 4/8]

Sunan Kubra Bayhaqi 1360

Arabic Text:

وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَايٍ عَنْ أُوسٍ (١٣٦١) الثَّقَفِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ - وَهُوَ مُنْقَطِعٌ -

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فَذَكَرَهُ وَهَذَا الْإِسْنَادُ غَيْرُ قَوِيٍّ ، وَهُوَ يَحْتَمِلُ مَا احْتَمَلَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ - وَالَّذِي يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ غَسْلُ الرَّجْلَيْنِ فِي النَّعْلَيْنِ مَا -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: جوتیوں پر مسح کرنے کا بیان
حدیث نمبر: 1360

:ترجمہ

(١٣٦١) (اوس ثقفی سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

وضو کیا اور اپنی جوتیوں پر مسح کیا۔ یہ روایت منقطع ہے۔
(ب) (یہ سند قوی نہیں۔)

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on wiping over the shoes

Hadith number: 1360

Translation:

(1360) It is narrated from Aws Thaqafi that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) performed ablution and wiped over his shoes. This tradition is disconnected.

(B) This sanad (chain of transmission) is not strong.

[Narrated by Al-Tayalisi 113]

Sunan Kubra Bayhaqi 1361

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ (١٣٦٢)
:حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ
قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ
عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ
رَأَيْتَكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرِ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا؟
قَالَ: مَا هُنَّ؟ فَذَكَرَ بِنِّ وَقَالَ فِيهِنَّ: رَأَيْتَكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السَّبْتِيَّةَ -
قَالَ: أَمَّا النِّعَالَ السَّبْتِيَّةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَلْبَسُ النِّعَالَ
الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعْرٌ وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا فَأَنَا أَحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا -

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ
مَالِكٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ - وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ
عَنْ ابْنِ عَجَلَانَ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ فَرَادَ فِيهِ وَيَمْسَحُ عَلَيْهَا -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: جوتیوں پر مسح کرنے کا بیان
حدیث نمبر: 1361

:ترجمہ

(: ۱۳۶۲) عبید بن جریح نے سیدنا عبداللہ بن عمرؓ سے کہا
اے ابا عبد الرحمن! میں نے دیکھا کہ آپ چار کام کرتے ہیں
جو میں نے کسی صحابی کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ انہوں
نے کہا: وہ کیا ہیں؟ اس نے وہ (چار چیزیں بتلائیں، یعنی
میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ سبتی (علاقے کی (جوتے پہنتے
ہیں۔ انہوں نے کہا: سبتی جوتے، میں نے رسول اللہ ﷺ کو
ایسے جوتے

پہنے ہوئے دیکھا ہی جن پر بال نہیں تھے اور آپ ﷺ اس میں وضو کرتے تھے، میں بھی پسند کرتا ہوں کہ میں بھی پہنوں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on wiping over the shoes

Hadith number: 1361

Translation:

(1361) Ubaid bin Jurayj said to Abdullah bin Umar (may Allah be pleased with him): O Abu Abdul Rahman! I saw that you do four things which I did not see any companion doing. He said: What are they? He mentioned those (four) things, that is I saw you wearing shoes from (the area of) Sabbti. He said: Shoes from Sabbti, I saw the Messenger of Allah (peace and

blessings of Allah be upon him) wearing shoes which did not have hair on them and he used to perform ablution in them. I also like to wear them.

[Sahih. Narrated by Bukhari 166, 1552, 1609, 5851 and Muslim 1187 and Nasai 117 and Abu Dawud 1772 and Tirmidhi 74 and Ibn Majah 3626 and Malik 20/32 and Ahmad 2/17, 26, 110]

Sunan Kubra Bayhaqi 1362

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ (١٣٦٣)
عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ
بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدِ
عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جَرِيحٍ قَالَ قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: رَأَيْتَكَ تَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ
نَرَأِ أَحَدًا يَفْعَلُهُ غَيْرُكَ. قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: رَأَيْتَكَ تَلْبَسُ
بِذِهِ النَّعَالَ السَّبْتِيَّةَ. قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - يَلْبَسُهَا
وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا ، وَيَمْسَحُ عَلَيْهَا -
وَبِذِهِ الزِّيَادَةُ إِنْ كَانَتْ مَحْفُوظَةً فَلَا تُنَافَى غَسْلُهُمَا ، فَقَدْ
يَغْسِلُهُمَا فِي النَّعْلِ وَيَمْسَحُ عَلَيْهِمَا كَمَا مَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ وَعَلَى
عِمَامَتِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: جوتیوں پر مسح کرنے کا بیان
حدیث نمبر: 1362

ترجمہ:

(۱۳۶۳) عبید بن جریح فرماتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر رض سے کہا گیا: ہم نے آپ کو کچھ ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہی جو آپ کے علاوہ ہم نے کسی کو ایسے کرتے ہوئے نہیں دیکھا انہوں نے کہا: وہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا: ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ سبتی جوتیاں پہنتے ہو، انہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنتے ہوئے دیکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں وضو کرتے تھے اور ان پر مسح کرتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on wiping over the shoes

Hadith number: 1362

Translation:

(1362) Ubaid ibn Jurayj says that it was said to Ibn Umar (may Allah be pleased

with him): We saw you doing something which we have not seen anyone do except you. He said: What is that? The people said: We saw you wearing Sabbti shoes. He said: I saw the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) wearing them and he used to perform ablution in them and wipe over them.

[Jayyid (Very Good). Narrated by Ibn Khuzaymah 199]

Sunan Kubra Bayhaqi 1363

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَائِرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو عُثْمَانَ الْبَصْرِيُّ (١٣٦٤)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عَبْدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ
وَبُو قَائِمٌ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى النَّعْلَيْنِ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان
باب: جوتیوں پر مسح کرنے کا بیان
حدیث نمبر: 1363

ترجمہ:

(١٣٦٤) (زید بن وہب سے روایت ہے کہ سیدنا علیؑ نے
کھڑے ہونے کی حالت میں پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور
موزوں پر مسح کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on wiping over the shoes

Hadith number: 1363

Translation:

(1363) It is narrated from Zayd ibn Wahb that Ali (may Allah be pleased with him) urinated while standing, then performed ablution and wiped over his socks.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence). Narrated by Ibn Abi Shaybah 1995]

Sunan Kubra Bayhaqi 1364

Arabic Text:

وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ (١٣٦٥)
عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌُّّ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ تَوَضَّأَ ، وَمَسَحَ عَلَيَّ
النَّعْلَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى
كتاب: پاكى كا بيان
باب: جوتيوں پر مسح كرنے كا بيان
حديث نمبر: 1364

:ترجمہ

(۱۳۶۵) (ابوظبیاں کہتے ہیں کہ سیدنا علیؑ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور جوتیوں پر مسح کیا پھر گھر سے (نکلے اور ظہر کی نماز ادا کی۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on wiping over the shoes

Hadith number: 1364

Translation:

(1364) Abu Dhabyan says that Ali urinated while standing, then performed ablution and wiped his shoes, then went out (of the house) and offered Zuhr prayer.

[Sahih. Narrated by Ibn Abi Shaybah 1998]

Sunan Kubra Bayhaqi 1365

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ (١٣٦٦)
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا
ابْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيَّ
بْنَ أَبِي طَالِبٍ بِالرَّحْبَةِ بَالَ قَائِمًا حَتَّى أَرُغَى ، فَأَتَى بِكُوزٍ مِنْ
مَائٍ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَاسْتَنْشَقَ وَتَمَضَّمْضَمَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ
وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَائٍ فَوَضَعَهُ عَلَى رَأْسِهِ حَتَّى ،
رَأَيْتُ الْمَائَ يَنْحَدِرُ عَلَى لِحْيَتِهِ ، ثُمَّ مَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ ثُمَّ
أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَأَمَّ النَّاسَ -
قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ الْأَعْمَشُ فَحَدَّثْتُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُ أَبَا
ظَبْيَانَ فَأَخْبِرْنِي - فَرَأَيْتُ أَبَا ظَبْيَانَ قَائِمًا فِي الْكُنَاسَةِ
فَقُلْتُ: بِذَا أَبُو ظَبْيَانَ فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ عَنِ الْحَدِيثِ -

وَالْمَشْهُورُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ غَسَلَ رِجْلَيْهِ
 حِينَ وَصَفَ وَضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - وَهُوَ لَا يُخَالِفُ النَّبِيَّ -
 فَأَمَّا مَسْحُهُ عَلَى النَّعْلَيْنِ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى غَسْلِ الرَّجْلَيْنِ
 فِي النَّعْلَيْنِ ، وَالْمَسْحُ عَلَى النَّعْلَيْنِ لِأَنَّ الْمَسْحَ رُخْصَةً لِمَنْ
 تَغَطَّتْ رِجْلَاهُ بِالْخُفَّيْنِ فَلَا يَعْدِي بِهَا مَوْضِعَهَا ، وَالْأَصْلُ
 وَجُوبِ غَسْلِ الرَّجْلَيْنِ إِلَّا مَا خَصَّتْهُ سُنَّةٌ ثَابِتَةٌ أَوْ إِجْمَاعٌ لَا
 يُخْتَلَفُ فِيهِ ، وَلَيْسَ عَلَى الْمَسْحِ عَلَى النَّعْلَيْنِ وَلَا عَلَى
 الْجَوْرَبَيْنِ وَاحِدٌ مِنْهُمَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب : پاکی کا بیان
 باب : جوتیوں پر مسح کرنے کا بیان
 حدیث نمبر : 1365

:ترجمہ

(۱۳۶۶) (ابوظبیر نے کہا ہے کہ میں نے سیدنا علی بن ابی طالب کو رجبہ جگہ میں دیکھا، انہوں نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، یہاں تک کہ وہ جھاگ بن گیا، پھر پانی کا ایک برتن لایا گیا تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو

دھویا اور ناک میں پانی چڑھایا اور کلی کی پھر اپنے چہرے اور بازوؤں کو دھویا اور اپنے سر کا مسح کیا، پھر پانی کی ایک ہتھیلی لی اس کو اپنے سر پر رکھا یہاں تک کہ میں نے پانی کو دیکھا وہ آپ کی داڑھی پر گر رہا تھا، پھر جوتیوں پر مسح کیا پھر نماز کی اقامت کہی گئی تو اپنی جوتیاں اتاریں، آگے بڑھے اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔

(ب) (اعمش کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم کو بتلایا تو انہوں نے کہا: جب تو اعمش کو دیکھے تو مجھے بتلا، میں نے اسے کناسہ میں دیکھا تو انہیں بتلایا، انہوں نے اس سے حدیث کے متعلق سوال کیا۔

(ج) (سیدنا علیؓ سے منقول ہے کہ انہوں نے جب رسول اللہ ﷺ کا وضو بیان کیا تو پاؤں دھوئے اور وہ نبی ﷺ کے طریقے کے مخالف نہیں کرتے تھے۔ ان کا جوتوں پر مسح کرنا اس پر معمول ہے کہ جب پاؤں دھو کر جوتے پہنے ہوں۔ جوتوں پر مسح کی رخصت اس شخص کے لیے جس نے اپنے پاؤں موزوں سے ڈھانپے ہوں۔ "اصل پاؤں دھونا ہی واجب ہے۔ البتہ ان صورتوں میں نہیں جن میں کوئی سنت مشہورہ یا اجماع ہو۔ اور جوتوں اور جرابوں پر مسح جائز نہیں ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on wiping over the shoes

Hadith number: 1365

Translation:

(1365) Abu Dhabiyān says that I saw Ali ibn Abi Talib (may Allah be pleased with him) in the place of Rahbah, he urinated while standing till the point it became foam, then a vessel of water was brought, he washed his hands and put water in his nose and rinsed his mouth, then washed his face and arms and wiped his head, then he took a handful of water and poured it over his head till I saw water dripping from his beard, then wiped over his shoes, then when the iqamah of prayers was given, he took off his shoes,

went ahead and led the people in prayer.

(B) A'mash says that when I told Ibrahim, he said: When you see A'mash, tell me. I saw him in Kanasa and told him, he asked him about the hadith.

(C) It is narrated from Syeduna Ali (may Allah be pleased with him) that when he described the ablution of the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him), he washed his feet and he did not oppose the way of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him). His wiping over the shoes is conditional on if he washed his feet and (then) put on his shoes.

[Sahih. Narrated by Ibn Abi Shaybah 2000]

Sunan Kubra Bayhaqi 1366

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ (١٣٦٧)
الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي
إِيَّاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(ح) قَالَ وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْعَدْلُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
نُبَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُعَاذِ الْع
عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَمِعِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
مَوْلَى بَنِي تَيْمِ بْنِ مُرَّةٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّهُ شَهِدَ
عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ يَسْأَلُ بِأَلَا عَنْ وَضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ -
، فَقَالَ: كَانَ يَخْرُجُ يَقْضِي حَاجَتَهُ فَأَتِيهِ بِالْمَاءِ فَيَتَوَضَّأُ
وَيَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَمُوقِيهِ-

وَقَالَ غَيْرُهُ : تَمِيمُ بْنُ مُرَّةَ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب : پاکی کا بیان
باب : موزوں پر مسح کا بیان
حدیث نمبر : 1366

:ترجمہ

(۱۳۶۷) (سیدنا عبد الرحمن بن عوف^{رض} نے سیدنا بلال^{رض} سے
نبی ﷺ کے وضو کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا :
آپ ﷺ قضائے حاجت سے فارغ ہوتے تو میں پانی لے کر
آتا، آپ ﷺ وضو کرتے اور اپنی پگڑی اور موزوں پر مسح
کرتے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on wiping over the socks

Hadith number: 1366

Translation:

(1366) Abdur-Rahman bin Awf asked Bilal (may Allah be pleased with him) about the ablution of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him): When he would finish relieving himself, I would bring water, he would perform ablution and wipe over his turban and socks.

[Sahih. Narrated by Muslim 275 and Nasai 105 and Abu Dawud 153 and Tirmidhi 100 and Ibn Majah 561 and Ahmad 6/12-15]

Sunan Kubra Bayhaqi 1367

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ (١٣٦٨)
جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرِ الصُّوفِيِّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ
الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو شَهَابِ الْحَنَاطُ
- عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْمُوقِينَ وَالْخِمَارِ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى
كتاب: پاکی کا بیان
باب: موزوں پر مسح کا بیان
حدیث نمبر: 1367

:ترجمہ

۱۳۶۸ (سیدنا انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ موزوں اور اوڑھنی) پگڑی (پر مسح کرتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on wiping over the socks

Hadith number: 1367

Translation:

(1367) It is narrated on the authority of Anas ibn Malik (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) used to wipe over his socks and head covering (turban).

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1368

Arabic Text:

:أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ (١٣٦٩)
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ
حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ أَبِي النَّجُودِ عَنْ زُرِّ بْنِ
حُبَيْشٍ قَالَ: أَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ قُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ قَدْ حَكَ فِي
صَدْرِي مِنَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ
اللَّهِ - ﷺ - فِيهِ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إِذَا كُنَّا سَفَرًا
أَوْ مُسَافِرِينَ أَنْ لَا نَخْلَعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ مِنْ
غَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ وَلَا نَوْمٍ إِلَّا مِنَ الْجَنَابَةِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: غسلِ جنابت میں موزے اتار کر پاؤں دھونا فرض ہے

حدیث نمبر: 1368

ترجمہ:

(۱۳۶۹) زر بن حبیش فرماتے ہیں کہ میں صفوان بن عسال کے پاس آیا، میں نے ان سے کہا: موزوں پر مسح کرنے کے متعلق میرے دل میں بات کھٹک رہی ہے، کیا آپ نے اس کے متعلق رسول اللہ ﷺ سے کچھ سنا ہے؟ انہوں نے کہا: ہاں ہمیں رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ جب ہم سفر میں ہو یا فرمایا مسافر ہوں تو اپنے موزوں کو تین دن اور تین راتیں نہ اتاریں، نہ قضائے حاجت سے، نہ پیشاب سے اور نہ نیند سے مگر جنابت سے) اتاریں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: It is obligatory to take off one's socks and wash one's feet in ghusl for major impurity

Hadith number: 1368

Translation:

(1368) Zar ibn Habish says that I came to Safwan ibn Asal, I said to him: I have doubt in my heart about wiping over the socks. Have you heard anything from the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) about it? He said: Yes, the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) commanded us not to take off our socks for three days and three nights while we are on a journey or are travelers, not after relieving yourself, not after urinating and not after sleeping but (take them off) after major impurity.

[Hasan (Fair)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1369

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ (١٣٧٠)
حَدَّثَنَا الشَّامَاتِيُّ يَعْنِي جَعْفَرَ بْنَ أَحْمَدَ أَخْبَرَنَا الْأَشْجُّ يَعْنِي أَبَا
سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
وَهُوَ الدَّالَانِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي
مَرْيَمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ - فِي الرَّجُلِ يَمْسَحُ عَلَى
خُفَّيْهِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيَنْزِعُهُمَا قَالَ: يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مسح کرنے کے بعد موزوں کو اتار دینے کا حکم

حدیث نمبر: 1369

:ترجمہ

(۱۳۷۰) (سیدنا سعید بن ابی مریم نبی ﷺ کے صحابہ میں سے اس شخص کے متعلق نقل فرماتے ہیں جو اپنے موزوں پر مسح کرتا ہے پھر اس کو خیال آتا ہے تو اتار دیتا، انہوں نے کہا: اپنے قدموں کو دھوئے گا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on taking off the socks after wiping over them

Hadith number: 1369

Translation:

(1369) Saeed ibn Abi Maryam narrates from one of the companions of the

Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) who wipes over his socks and then he has some doubt about it, so he takes them off. He says: He will wash his feet.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1370

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِبرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ أَخْبَرَنَا إِبرَاهِيمُ (١٣٧١)
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ فَارِسٍ حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ
السَّلَامِ فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ.
قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَلَا نَعْرِفُ أَنَّ يَحْيَى سَمِعَ مِنْ سَعِيدٍ أَمْ لَا، وَلَا
سَعِيدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ --.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: مسح کرنے کے بعد موزوں کو اتار دینے کا حکم
حدیث نمبر: 1370

ترجمہ:

(١٣٧١) (عبد السلام نے اس کو اسی معنی میں بیان کیا ہے۔)

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on taking off the socks after wiping over them

Hadith number: 1370

Translation:

(1370) Abd al-Salam has narrated it with a similar meaning.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1371

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي طَائِرٍ (١٣٧٢)
الدَّقَاقُ بَبْغَدَادَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنَا
الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ حَدَّثَنِي عَبْدُ
الْوَهَّابِ النَّقْفِيُّ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّائِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ
عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - فِي قِصَّةِ الْمَسْحِ قَالَ: وَكَانَ أَبِي
يَنْزِعُ خُفَّيْهِ وَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ -
وَيُذَكِّرُ عَنْ عَطَائٍ مِثْلُ ذَلِكَ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: مسح کرنے کے بعد موزوں کو اتار دینے کا حکم
حدیث نمبر: 1371

:ترجمہ

(۱۳۷۲) (سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکرہ کے والد نبی ﷺ سے مسح کا قصہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد موزوں کو اتار دیتے تھے اور اپنیپاؤں دھوتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on taking off the socks after wiping over them

Hadith number: 1371

Translation:

(1371) Abdul Rahman ibn Abi Bakrah's father narrates the story of wiping (over the socks) from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) that my father used to take off his socks and wash his feet.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1372

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ (١٣٧٣)
عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ
خَلْدُونَ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو
عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ
وَالْأَسْوَدِ فِي الرَّجْلِ يَتَوَضَّأُ وَيَمْسَحُ عَلَى خُفَيْهِ ثُمَّ يَخْلَعُهُمَا
قَالَ: يَغْسِلُ رِجْلَيْهِ-

وَرَوَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ نَفْسِهِ وَرَوَى عَنْ
، الْحَكَمِ وَغَيْرِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: يُصَلِّي وَلَا يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ

وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ - وَرَوَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ شَيْئًا ثَالِثًا.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مسح کرنے کے بعد موزوں کو اتار دینے کا حکم

حدیث نمبر: 1372

:ترجمہ

(۱۳۷۳) (علقمہ اور اسود اس شخص کے متعلق بیان کرتے ہیں جو وضو کرتا ہے اور موزوں پر مسح کرتا ہے، پھر ان کو اتار دیتا ہے۔ دونوں حضرات کا کہنا ہے کہ اپنے پاؤں دھوئے گا۔

(ب) (حکم وغیرہ ابراہیم سے نقل کرتے ہیں کہ وہ نماز پڑھے گا اور پاؤں نہیں دھوئے گا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on taking off the socks

after wiping over them

Hadith number: 1372

Translation:

(1372) Alqamah and Aswad say about a person who performs ablution and wipes over his socks, then he takes them off. Both of them say that he has to wash his feet.

(B) Hakam and others quote from Ibrahim that he will offer prayer and will not wash his feet.

[Hasan (Fair). Narrated by Al-Daraqutni 1/205]

Sunan Kubra Bayhaqi 1373

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ (١٣٧٤)
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ
الْمُسْتَمَلِيُّ حَدَّثَنَا حَيَوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ مَرْوَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا
مَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ ثُمَّ خَلَعَهُمَا خَلَعَ وَضُوئَهُ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مسح کرنے کے بعد موزوں کو اتار دینے کا حکم

حدیث نمبر: 1373

:ترجمہ

(۱۳۷۴) (ابراہیم سے روایت ہے کہ جب کوئی شخص موزوں پر مسح کرے پھر ان کو اتارے۔ تو گویا اس نے اپنا وضو بھی اتار دیا) یعنی اس کا وضو ٹوٹ گیا۔)

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on taking off the socks after wiping over them

Hadith number: 1373

Translation:

(1373) It is narrated from Ibrahim that when a person wipes over his socks then he takes them off. So it is as if he also took off his ablution (i.e. his ablution has broken).

[Daif (Weak). Narrated by Ibn Adiy in Al-Kamil 3/396]

Sunan Kubra Bayhaqi 1374

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ (١٣٧٥)
بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزِيدٍ أَخْبَرَنِي أَبِي
قَالَ سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ يَقُولُ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ
فَادْخَلَ رِجْلَيْهِ الْخُفَّيْنِ طَابِرَتَيْنِ ، ثُمَّ أَحَدَتْ فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا
ثُمَّ نَزَعَهُمَا أَيَغْسِلُهُمَا أَمْ يَسْتَأْنِفُ وَضُوءَهُ؟ قَالَ: بَلْ
يَسْتَأْنِفُ وَضُوءَهُ-

قَالَ الشَّيْخُ: وَيُرْوَى عَنْ مَكْحُولٍ مِثْلُ ذَلِكَ، وَرَوَيْنَا عَنْ
الشُّافِعِيِّ فِي كِتَابِ أَبِي حَنِيفَةَ وَابْنِ أَبِي لَيْلَى عَلَى تَفْرِيقِ
الْوَضُوءِ ، وَقَدْ مَضَتْ الْآثَارُ فِيهِ فِي بَابِهِ ، وَرَوَيْنَا

عَنْ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ دَخَلَ خُفَّهُ حَصَاةً ، قَالَ يَتَوَضَّأُ
وَإِنَّمَا أَرَادَ وَاللَّهِ أَعْلَمُ يَنْزِعُ خُفَّهُ لِإِخْرَاجِ الْحَصَاةِ
وَيَتَوَضَّأُ

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مسح کرنے کے بعد موزوں کو اتار دینے کا حکم

حدیث نمبر: 1374

ترجمہ:

(۱۳۷۵) (الف) امام اوزاعی فرماتے ہیں میں نے زہری سے

اس شخص کے متعلق سوال کیا جس نے وضو کیا اور

باوضو موزے پہنتے پھر بے وضو ہو گیا اور ان پر مسح کیا،

پھر ان کو اتار دیا، کیا وہ پاؤں دھوئے گا یا نیا وضو کرے

گا؟ انہوں نے کہا: بلکہ نیا وضو کرے گا۔

(ب) (شیخ کہتے ہیں کہ مکحول سے اس کے معنی میں

روایت منقول ہے۔ امام شافعی اور ابن ابی لیلیٰ سے امام

ابوحنیفہ (رح) کی کتاب میں الگ الگ وضو بیان کیا گیا ہے۔

یہ آثار پچھلے باب میں گزر چکے ہیں۔

(ج (امام شعبی) رح (سے اس شخص کے متعلق منقول ہے جس کے موزے میں کنکر داخل ہو جائے کہ وہ وضو کرے گا۔ ان کی مراد یہ ہے کہ وہ کنکر نکالنے کے لیے موزے اتارے گا تو وضو دوبارہ کرے گا۔) واللہ اعلم)

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on taking off the socks after wiping over them

Hadith number: 1374

Translation:

(1374) (a) Imam Awzai says that I asked Zuhri about the person who performed ablution and after performing ablution he wears socks then his ablution breaks and he wipes over them, then takes them off, will he wash his feet or perform new ablution? He said: Rather, he will perform a new ablution.

(B) Sheikh says that the narration has been narrated from Makhul in the same meaning. In the book of Imam Abu Hanifa (may Allah have mercy on him) performing ablution has been mentioned separately has been narrated from Imam Shafi'i and Ibn Abi Laila. These sayings have been mentioned in the previous chapter.

(C) It is narrated from Imam Shubi about a pebble which goes into a man's sock, that he will perform ablution. What he means is that he will take off his socks to remove the pebble, so he will repeat the ablution. (Allah knows best)
[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1375

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِيُّ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ (١٣٧٦)
مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ رُدَيْحٍ حَدَّثَنَا عَطَايُ بْنُ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ
أَبِي بُرْدَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -
ﷺ - فَأَمَرَنَا بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا لِلْمَسَافِرِ
وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ مَا لَمْ يَخْلَعْ أَوْ يُخْلَعْ. ،
تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ بْنُ رُدَيْحٍ وَوَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان

باب: مسح کرنے کے بعد موزوں کو اتار دینے کا حکم
حدیث نمبر: 1375

ترجمہ:

(۱۳۷۶) (سیدنا مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی ﷺ کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے، آپ ﷺ نے ہمیں موزوں پر مسح کرنے کا حکم دیا، مسافر کے لیے تین دن اور تین راتیں اور مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات، جب تک وہ خود نہ اتارے یا اتاریں نہ جائیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on taking off the socks after wiping over them

Hadith number: 1375

Translation:

(1375) Syeduna Mughirah ibn Shu'bah says that we fought alongside the Prophet (peace and blessings of Allah be upon

him), he commanded us to wipe over our socks, three days and three nights for the traveler and one day and one night for the resident, unless he takes them off or they are taken off.

[Daif (Weak). Narrated by Al-Tabarani in Mujam Kabeer 1005]

Sunan Kubra Bayhaqi 1376

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: الْعَلَاءِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ (١٣٧٧)
الْإِسْفَرَائِينِيُّ بِهَا أَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلٍ: بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ الْإِسْفَرَائِينِيُّ
حَدَّثَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ
مُسْلِمٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ رَجَائِ بْنِ حَيَوَةَ عَنْ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ
عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - : أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ أَعْلَى
الْخُفِّ وَأَسْفَلَهُ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: موزوں پر مسح کرنے کا طریقہ
حدیث نمبر: 1376

ترجمہ:

(١٣٧٧) (سیدنا مغیرہ بن شعبہ ^{رض} سے روایت ہے کہ آپ ﷺ
موزے کے اوپر اور نیچے مسح کرتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The method of wiping over the socks

Hadith number: 1376

Translation:

(1376) It is narrated on the authority of Syeduna Mughirah bin Shubah that he used to wipe over and under his socks.

[Daif (Weak). Narrated by Abu Dawud 165 and Tirmidhi 97 and Ibn Majah 550 and Malik 2/40 and Darimi 740]

Sunan Kubra Bayhaqi 1377

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِيهِ (١٣٧٨)
وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ قَالَا أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ
رُشَيْدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدٍ حَدَّثَنَا رَجَائُ
بْنُ حَيَوَةَ عَنْ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
قَالَ: وَضَّأْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ، فَمَسَحَ عَلَيَّ
أَعْلَى الْخُفِّ وَأَسْفَلِهِ -
كَذَا قَالَ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ حَدَّثَنَا رَجَائُ بْنُ حَيَوَةَ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
کتاب: پاکی کا بیان
باب: موزوں پر مسح کرنے کا طریقہ

حدیث نمبر: 1377

:ترجمہ

(۱۳۷۸) سیدنا مغیرہ بن شعبہ^{رض} فرماتے ہیں کہ غزہ تبوک میں میں نے نبی ﷺ کے (وضو کے (لیے پانی رکھا، آپ ﷺ نے موزے کے اوپر اور نیچے مسح کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The method of wiping over the socks

Hadith number: 1377

Translation:

(1377) Syeduna Mughirah ibn Shubah says that during the Tabuk Expedition I kept water for the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him). He wiped the top and bottom of his socks.

[Daif (Weak). Narrated by Al-Daraqutni

Sunan Kubra Bayhaqi 1378

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدِانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ (١٣٧٩)
عُبَيْدِ الصَّفَّارِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ إِسْحَاقَ الْحُلَوَانِيُّ
حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ وَقَالَ عَنْ رَجَائٍ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان

باب: موزوں پر مسح کرنے کا طریقہ

حدیث نمبر: 1378

ترجمہ:

(۱۳۷۹) داؤد بن رشید نے اسی معنی میں حدیث ذکر کی ہے اور وہ ہیں رجاء سے منقول ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The method of wiping over the socks

Hadith number: 1378

Translation:

(1378) Dawud bin Rasheed has narrated a hadith in the same sense and it is narrated from Raja.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1379

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوَدُبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ دَاسَةَ (١٣٨٠) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِّيُّ وَمَحْمُودُ بْنُ خَالِدِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ فَذَكَرَهُ بِمَعْنَاهُ قَالَ عَنْ رَجَائِ بْنِ حَيَوَةَ-

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: يُرْوَى أَنَّ ثَوْرًا لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَجَائِ-

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ رَوَاهُ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ ثَوْرٍ وَقَالَ حَدَّثْتُ عَنْ رَجَائِ بْنِ حَيَوَةَ عَنْ كَاتِبِ الْمُغِيرَةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - مُرْسَلًا لَيْسَ فِيهِ الْمُغِيرَةَ-

قَالَ الشَّيْخُ: وَهَكَذَا ذَكَرَهُ أَبُو عَيْسَى عَنِ الْبُخَارِيِّ وَأَبِي

زُرْعَةُ الرَّازِي-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: موزوں پر مسح کرنے کا طریقہ

حدیث نمبر: 1379

:ترجمہ

(۱۳۸۰) (الف) ولید نے اسی معنی میں روایت بیان کی ہے کہتے ہیں کہ یہ رجاء بن حیوہ سے منقول ہے۔ (ب) امام ابوداؤد (رح) فرماتے ہیں کہ ایک قول ہے کہ ثور نے یہ حدیث رجاء سے نہیں سنی۔ (ج) ثور کہتے ہیں کہ مجھے رجاء بن حیوہ نے کاتب المغیرہ سے نبی ﷺ سے مرسل روایت بیان کی ہے۔ اس میں سیدنا مغیرہ رضی کا ذکر نہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The method of wiping over the socks

Hadith number: 1379

Translation:

(1379) (a) Waleed has narrated (a hadith) in the same sense and he says that it is narrated from Raja ibn Haywa.

(B) Imam Abu Dawud says that there is a view that Thawr did not hear this hadith from Raja.

(C) Thawr says that Raja ibn Haywa narrated a mursal hadith from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) in the book Katib al-Mugheerah. There is no mention of Syedna Mughirah in it.

[Daif (Weak). Narrated by Abu Dawud 165]

Sunan Kubra Bayhaqi 1380

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ (١٣٨١)
الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ عَبْدِآنَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَائٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ
بْنُ حُبَابٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ
عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى ظَهْرِ الْخُفِّ وَبَاطِنِهِ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاكى كا بيان

باب: موزوں پر مسح کرنے كا طريقه

حديث نمبر: 1380

:ترجمہ

(۱۳۸۱) سيدنا ابن عمرؓ سے منقول ہے کہ وہ موزے کے اوپر اور نیچے مسح کیا کرتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The method of wiping over the socks

Hadith number: 1380

Translation:

(1380) It is narrated from Ibn Umar (may Allah be pleased with him) that he used to wipe over and under his socks.

[Hasan Li Ghayrihi (Fair due to external

evidence)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1381

Arabic Text:

قَالَ وَحَدَّثَنَا عَمَّارٌ حَدَّثَنَا زَيْدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ (١٣٨٢)
عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان

باب: موزوں پر مسح کرنے کا طریقہ

حدیث نمبر: 1381

ترجمہ:

(۱۳۸۲) نافع سیدنا ابن عمرؓ سے اسی طرح نقل فرماتے ہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The method of wiping over the socks

Hadith number: 1381

Translation:

(1381) Nafi narrates the same thing from Ibn Umar (may Allah be pleased with him).

[Hasan Li Ghayrihi (Fair due to external evidence)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1382

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَأَبُو نَصْرِ بْنِ عَبْدِ (١٣٨٣)
الْعَزِيزِ قَالَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو بْنُ نُجَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
:حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ
يَضَعُ الَّذِي يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ يَدًا مِنْ فَوْقِ الْخُفِّ وَيَدًا مِنْ
تَحْتِ الْخُفِّ ثُمَّ يَمْسَحُ.
قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَىٰ فِي مَسْحِ الْخُفَّيْنِ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: موزوں پر مسح کرنے کا طریقہ

حدیث نمبر: 1382

:ترجمہ

(۱۳۸۳ ابن شہاب سے روایت ہے کہ جو شخص مسح

کرے وہ اپنا ہاتھ موزے کے اوپر رکھے اور ایک ہاتھ

موزے کے نیچے، پھر مسح کرے۔

(ب (امام مالک) رح (فرماتے ہیں کہ موزوں کے مسح کے

متعلق جو میں نے سنا ہے وہ مجھے زیادہ درست لگتا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The method of wiping over the
socks

Hadith number: 1382

Translation:

(1382) It is narrated from Ibn Shahab that the one who wipes (over his socks) should place one hand on upper part of the sock and one hand under the sock, then wipe. [Sahih. Narrated by AbdulRazzaq 854]

Sunan Kubra Bayhaqi 1383

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورِكَ أَخْبَرَنَا (١٣٨٤)
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو

دَاوُدَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةَ عَنْ
 الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - مَسَحَ ظَاهِرَ خُفَيْهِ -
 كَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ
 وَكَذَلِكَ رَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى عَنْ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ
 وَرَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَلِيُّ بْنُ
 حُجْرٍ عَنْ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ
 الْمُغِيرَةَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: موزے کے صرف اوپر والے حصے پر مسح کرنا

حدیث نمبر: 1383

:ترجمہ

(۱۳۸۴) (سیدنا مغیرہ بن شعبہ ^{رض} سے روایت ہے کہ نبی ﷺ

نے موزوں کے ظاہری حصے پر مسح کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Wiping only the top part of the sock is required

Hadith number: 1383

Translation:

(1383) It is narrated on the authority of Syeduna Mughirah bin Shubah that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) wiped over the outer part of the socks.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence). Narrated by Al-Tayalisi 692]

Sunan Kubra Bayhaqi 1384

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ (١٣٨٥)
الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - بَالَ ثُمَّ جَاءَ حَتَّى تَوَضَّأَ وَمَسَحَ
عَلَى خُفِّهِ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى خُفِّهِ الْاَيْمَنِ ، وَيَدَهُ
الْيُسْرَى عَلَى خُفِّهِ الْاَيْسَرَ ، ثُمَّ مَسَحَ اَعْلَاهُمَا مَسْحَةً وَاحِدَةً
حَتَّى كَانِي اَنْظُرُ اِلَى اَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - عَلَى الْخُفَّيْنِ .

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

كتاب: پاکی کا بیان

باب: موزے کے صرف اوپر والے حصے پر مسح کرنا

حدیث نمبر: 1384

ترجمہ:

(۱۳۸۵) (سیدنا مغیرہ بن شعبہ رض سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا، آپ ﷺ نے پیشاب کیا، پھر آکر وضو کیا اور موزوں پر مسح کیا اور دایاں ہاتھ دائیں موزے پر اور بائیں ہاتھ بائیں موزے پر رکھا، پھر دونوں کے اوپر والے حصہ پر مسح کیا، گویا میں رسول اللہ ﷺ کے انگلیوں کو موزوں پر دیکھ رہا ہوں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Wiping only the top part of the sock is required

Hadith number: 1384

Translation:

(1384) It is narrated on the authority of Mughirah bin Shubah that I saw the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) urinating, then he

came and performed ablution and wiped over his socks and placed his right hand on the right sock and his left hand on the left sock. Then he wiped over the upper part of both of them, I was looking at the fingers of the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) on his socks.

[Daif (Weak). Narrated by Ibn Abi Shaybah

Sunan Kubra Bayhaqi 1385

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذُبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ (١٣٨٦) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفِّهِ - .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: موزے کے صرف اوپر والے حصے پر مسح کرنا

حدیث نمبر: 1385

ترجمہ:

(١٣٨٦) (سیدنا علیؑ سے روایت ہے کہ اگر دین رائے سے ہوتا تو مسح موزے کے اوپر کی بجائے نیچے زیادہ

مناسب ہوتا، جب کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا، آپ ﷺ موزوں کے اوپر والے حصے پر مسح کیا کرتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Wiping only the top part of the sock is required

Hadith number: 1385

Translation:

(1385) It is narrated from Syeduna Ali (may Allah be pleased with him) that if religion was based on opinion, it would be more appropriate to wipe the under part of the socks than the upper part but I have seen the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) wiping over the upper part of his socks.

[Sahih. Narrated by Abu Dawud 162 and

Sunan Kubra Bayhaqi 1386

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ (١٣٨٧)
عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ جَابِرِ السَّقَطِيِّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ
:بْنُ زِيَادٍ أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ عَلِيُّ
لَوْ كَانَ دِينَ اللَّهِ بِالرَّأْيِ لَكَانَ بَاطِنُ الْخُفِّ أَحَقَّ بِالْمَسْحِ مِنْ
-أَعْلَاهُ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

يَمْسَحُ بِكَذَا بِأَصَابِعِهِ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: موزے کے صرف اوپر والے حصے پر مسح کرنا

حدیث نمبر: 1386

:ترجمہ

(۱۳۸۷) (سیدنا علیؓ سے روایت ہے کہ اگر دین رائے سے

ہوتا تو موزے پر مسح اوپر کے بجائے نیچے زیادہ مناسب

ہوتا، جب کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا، آپ ﷺ اس

طرح انگلیوں سے مسح کرتے تھے) یعنی عملاً کر کے

دکھلایا۔)

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Wiping only the top part of the sock is required

Hadith number: 1386

Translation:

(1386) It is narrated from Syeduna Ali (may Allah be pleased with him) that if religion was based on opinion, it would be more appropriate to wipe the under part of the socks than the upper part but I have seen the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him), he used to wipe with his fingers like this. (i.e. he practically demonstrated it).

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1387

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوَدْبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ (١٣٨٨)
دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
آدَمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ الْأَعْمَشِ بِذَا الْحَدِيثِ
قَالَ: مَا كُنْتُ أَرَى بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ إِلَّا أَحَقَّ بِالْمَسْحِ حَتَّى رَأَيْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - يَمْسَحُ عَلَى ظَهْرِ خُفَّيهِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: موزے کے صرف اوپر والے حصے پر مسح کرنا

حدیث نمبر: 1387

ترجمہ:

(١٣٨٨) (یزید بن عبد العزیز اعمش سے یہ حدیث نقل

فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں قدموں کے اندرونی (نچلے) حصے مسح کے زیادہ مستحق ہیں اور میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا، آپ ﷺ موزوں کے اوپر والے حصے پر ہی مسح فرماتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Wiping only the top part of the sock is required

Hadith number: 1387

Translation:

(1387) Yazid ibn 'Abd al-'Aziz narrates from Aamash that I think the inner (lower) parts of the socks are more deserving of being wiped and I saw the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) wiping over the upper part of the socks.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1388

Arabic Text:

:وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الطَّيِّبِ (١٣٨٩)
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشُّعَيْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِصَامٍ حَدَّثَنَا
حَفْصُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
عَنْ عَبْدِ خَيْرِ الْخَيَوَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: كُنْتُ أُرَى
أَنَّ بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ أَحَقُّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا حَتَّى رَأَيْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى ظَهْرِ قَدَمَيْهِ عَلَى خُفَيْهِ -
وَفِي كُلِّ بَدَنِي الرِّوَايَاتِ الْمُقَيَّدَاتِ بِالْخُفَيْنِ دَلَالَةٌ عَلَى
الْخُتِصَارِ وَقَعَ فِيهَا.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: موزے کے صرف اوپر والے حصے پر مسح کرنا

حدیث نمبر: 1388

:ترجمہ

(۱۳۸۹) (سیدنا علی بن ابی طالبؓ سے روایت ہے کہ میرا

خیال ہے قدموں کا اندرونی) یعنی نچلا (حصہ ظاہری حصے

سے مسح کا زیادہ مستحق ہے، لیکن میں نے رسول اللہ ﷺ

کو دیکھا، آپ ﷺ نے وضو کیا اور اپنے موزوں کے اوپر

والے حصے پر مسح کیا۔

(ب) (موزوں والی روایات یہ تمام اس کے مختصر ہونے کی

دلیل ہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Wiping only the top part of the sock is required

Hadith number: 1388

Translation:

(1388) It is narrated on the authority of Ali ibn Abi Talib (may Allah be pleased with him) that I think that the inner (lower) part of the socks are more deserving to be wiped than the outer (upper) part, but I saw the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him), he performed ablution and wiped over the upper part of his socks. [Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1389

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوَدْبَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بْنُ (١٣٩٠)
شَوْذَبِ الْمُقَرِّيُّ بِوَاسِطِ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ عَنْ
يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ
رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ وَمَسَحَ ثُمَّ قَالَ: لَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -
ﷺ - يَمْسَحُ عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمَيْنِ لَرَأَيْتُ أَنَّ أَسْفَلَهُمَا أَوْ بَاطِنَهُمَا
أَحَقُّ بِذَلِكَ.

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو السَّوْدَائِي عَنِ ابْنِ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ - (ج)
وَعَبْدُ خَيْرٍ لَمْ يَحْتَجَّ بِهِ صَاحِبًا الصَّحِيحَ -
فَهَذَا وَمَا رُوِيَ فِي مَعْنَاهُ إِنَّمَا أُرِيدُ بِهِ قَدَمَا الْخُفِّ بِدَلِيلِ مَا
مَضَى وَبَدَلِيلِ مَا رُوِينَا عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ
عَلِيٍّ فِي صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ - ﷺ - فَذَكَرَ أَنَّهُ غَسَلَ رِجْلَيْهِ
ثَلَاثًا ثَلَاثًا.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: موزے کے صرف اوپر والے حصے پر مسح کرنا

حدیث نمبر: 1389

ترجمہ:

(۱۳۹۰) (الف) عبد خیر فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا علیؑ کو دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا اور مسح کیا، پھر فرمایا: اگر میں نے رسول اللہ ﷺ کو نہ دیکھا ہوتا کہ آپ ﷺ پاؤں کے اوپر مسح کرتے تھے تو میرا خیال تھا یہ کہ ان کا نیچے والا حصہ یا اندرونی حصہ زیادہ مستحق ہے۔ (ب) سیدنا علیؑ نبی ﷺ کے وضو کے طریقہ کے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے اپنے پاؤں کو تین تین مرتبہ دھویا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Wiping only the top part of the sock is required

Hadith number: 1389

Translation:

(1389) (a) Abd al-Khair says that I saw Ali (may Allah be pleased with him) performing ablution and wiping (over his socks), then he said: If I had not seen the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) wiping over the top part of his feet, I would have thought that the lower part or the inner part (of the sock) is more deserving to be wiped over.

(B) Regarding the method of ablution of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him), Ali (may Allah be pleased with him) says that he washed his feet three times.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1390

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقْرِيُّ (١٣٩١)
أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ
الْقَاضِي حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ
: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي
وَقَّاصٍ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ عُمَرُ : سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ ﷺ - يَأْمُرُنَا بِالْمَسْحِ عَلَى ظَهْرِ الْخُفَّيْنِ إِذَا لَبَسَهُمَا وَهُمَا
طَابِرَتَانِ -
خَالِدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَفِيهَا مَضَى كِفَايَةٌ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: موزے کے صرف اوپر والے حصے پر مسح کرنا

حدیث نمبر: 1390

:ترجمہ

(۱۳۹۱) سالم بن عبداللہ اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطابؓ سے سیدنا سعد بن ابی وقاص نے موزوں پر مسح کے متعلق سوال کیا تو سیدنا عمرؓ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ آپ ﷺ ہم کو موزوں موزوں کے اوپر والے حصے پر مسح کرنے کا حکم دیتے تھے جب فرمایا: باوضو پہنے ہوں۔ (ب) خالد بن ابی بکر قوی نہیں۔ پچھلی روایت میں کفایت کر جائے گا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Wiping only the top part of the sock is required

Hadith number: 1390

Translation:

(1390) Salem ibn Abdullah narrates from his father that Sa'd ibn Abi Waqqas asked Umar ibn al-Khattab (may Allah be pleased with him) about wiping over the socks, so Umar said: I heard from the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) that he used to order us to wipe over the upper part of the socks when he said: If you wore them while in a state of ablution.

(B) Khalid bin Abi Bakr is not strong. He will suffice in the previous tradition.

[Daif (Weak). Narrated by Abu Yala 171]

Sunan Kubra Bayhaqi 1391

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ: مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا (١٣٩٢)
إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ فَارِسٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا
سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ مِخْرَاقِ الْأَنْصَارِيِّ
أَنَّهُ رَأَى أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقْبَأُ مَسْحَ ظَاهِرِ خُفِّهِ بِكَفِّهِ مَسْحَةً
وَاحِدَةً.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: موزے کے صرف اوپر والے حصے پر مسح کرنا

حدیث نمبر: 1391

ترجمہ:

(۱۳۹۲ھ) حمید بن مخرق انصاری نے سیدنا انس بن مالک کو قبا مقام میں دیکھا کہ انہوں نے ایک ہی ہتھیلی سے اپنے موزوں کے اوپر والے حصے پر مسح کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Wiping only the top part of the sock is required

Hadith number: 1391

Translation:

(1391) Hameed bin Makhraq Ansari saw Syeduna Anas bin Malik (may Allah be pleased with him) in Qaba Maqam and he wiped over the upper part of his socks with one handful of water.

[Hasan (Fair). Narrated by Imam Bukhari in his book Tareekh 2/358]

Sunan Kubra Bayhaqi 1392

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ (١٣٩٣)
بْنِ بَالُوَيْهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
أَبِي عَوْنٍ عَنِ الْعَلَاءِيِّ بْنِ عِرَارٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ
عُبَادَةَ: أَنَّهُ بَالَ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ ظُهُورَ الْقَدَمَيْنِ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاكى كا بيان

باب: موزے كے صرف اوپر والے حصے پر مسح كرنا

حدیث نمبر: 1392

:ترجمہ

(۱۳۹۳ قیس بن سعد بن عبادہ سے منقول ہے کہ انہوں نے پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور اپنیپاؤں کے ظاہری حصے میں میں موزوں پر مسح کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Wiping only the top part of the sock is required

Hadith number: 1392

Translation:

(1392) It is narrated from Qais ibn Sa'd ibn Abadah that he urinated, then performed ablution and wiped the soles of his feet on

the socks.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1393

Arabic Text:

وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْعَلَاءِيِّ قَالَ (١٣٩٤)
رَأَيْتُ قَيْسَ بْنَ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ بَالَ ثُمَّ أَتَى دِجْلَةَ وَتَوَضَّأَ
وَمَسَحَ عَلَى ظَهْرِ خُفَّيْهِ بِكَذَا وَرَأَيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِهِ عَلَى خُفَّيْهِ.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْقَبَائِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ
بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ فَذَكَرَهُ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: موزے کے صرف اوپر والے حصے پر مسح کرنا

حدیث نمبر: 1393

:ترجمہ

(۱۳۹۴) (علاء کہتے ہیں: میں نے سیدنا قیس بن سعد بن
عبادہ کو دیکھا، انہوں نے پیشاب کیا، پھر دجلہ آئے اور
وضو کیا اور اپنے موزوں کے اوپر والے حصے میں اس
طرح مسح کیا، میں نے ان کی انگلیوں کے نشان موزے پر
دیکھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Wiping only the top part of the sock is required

Hadith number: 1393

Translation:

(1393) Alaa says: I saw Qais ibn Sa'd ibn Abadah, he urinated, then came to Tigris and performed ablution and wiped the upper part of his socks in this way, I saw his fingerprints on the socks.

[Sahih. Narrated by Ibn Abi Shaybah 7/19]

Sunan Kubra Bayhaqi 1394

Arabic Text:

وَكذَلِكَ رَوَاهُ شُعْبَةُ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَرَوَى (١٣٩٥)
مَعْنَى بَدَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي أَحَادِيثِ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ
بْنُ بَالُوَيْهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْعَلَاءِيِّ بْنِ عِرَارٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ
أَنَّ بَالَ فِتْوَضًا وَمَسَحَ عَلَى خَفِيهِ ظُهُورَ الْقَدَمَيْنِ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: موزے کے صرف اوپر والے حصے پر مسح کرنا

حدیث نمبر: 1394

ترجمہ:

(١٣٩٥) (سیدنا قیس بن سعد بن عبادہ سے منقول ہے کہ

انہوں نے پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور پاؤں کے اوپر والے حصے میں موزوں پر مسح کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Wiping only the top part of the sock is required

Hadith number: 1394

Translation:

(1394) It is narrated on the authority of Qais ibn Sa'd ibn 'Abadah that he urinated, then performed ablution and wiped over the upper part of his socks.

Sunan Kubra Bayhaqi 1395

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا: يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ (١٣٩٦)
يَحْيَى حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا بُشَيْمٌ عَنْ مَنْصُورِ ح
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِيُّ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيُّ
حَدَّثَنَا بُشَيْمٌ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ زَادَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
سِيرِينَ عَنْ أَفْلَحَ مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ: أَنَّهُ كَانَ
يَأْمُرُ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ ، وَكَانَ يَغْسِلُ بُوَ قَدَمَيْهِ فَقِيلَ لَهُ
فِي ذَلِكَ: كَيْفَ تَأْمُرُ بِالْمَسْحِ وَأَنْتَ تَغْسِلُ؟ فَقَالَ: بِئْسَ مَا
لِي ، إِنْ كَانَ مَهْنَاءَ لَكُمْ وَمَأْتَمَةً عَلَيَّ ، قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ - يَفْعَلُهُ وَيَأْمُرُ بِهِ ، وَلَكِنِّي أَمْرُؤٌ حُبِّبَ إِلَيَّ الْوَضُوءَ -
لَفْظُ حَدِيثِ الزُّهْرَانِيِّ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: موزے اتار کر پاؤں دھونا جائز ہے اگر سنت سے

اعراض مقصود نہ ہو

حدیث نمبر: 1395

:ترجمہ

(۱۳۹۶) (أبو ایوب سے منقول ہے کہ وہ موزوں پر مسح کرنے کا حکم دیا کرتے تھے اور خودپاؤں کو دھوتے تھے، تھے، ان سے اس بارے میں پوچھا گیا: آپ مسح کا حکم دیتے ہو اور خود پاؤں دھوتے ہو؟ انہوں نے کہا: میرے لیے، برا ہے 'اگر تمہارے لیے مشقت ہوگی تو گناہ مجھ پر ہے میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا ہے کہ آپ ﷺ اس طرح کرتے تھے اور اس کا حکم دیتے تھے، لیکن میں وضو کو محبوب سمجھتا ہوں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: It is permissible to take off one's socks and wash one's feet if one does not

intend to deviate from the Sunnah

Hadith number: 1395

Translation:

(1395) It is narrated from Abu Ayyub that he used to order (the people) to wipe over the socks but would wash his own feet. He was asked about this: You order wiping (over the socks) but you wash your feet? He said: It is bad for me. If there is hardship for you, then the sin is on me. I have seen the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) do this and command it, but I consider ablution to be beloved.

[Daif (Weak). Narrated by Ibn Abi Shaybah 1854]

Sunan Kubra Bayhaqi 1396

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ (١٣٩٧)
:الْمُزَكِّيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالُوا أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ قَالَ قُرِئَ عَلَيَّ ابْنِ وَهْبٍ
أَخْبَرَكَ مَالِكٌ أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - قَالَ ((إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ)) -
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ
مَالِكٍ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان

باب :جمعة المبارک کا غسل

حدیث نمبر :1396

ترجمہ:

(۱۳۹۷) (سیدنا عبداللہ بن عمر^{رض} سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " :جب تم سے کوئی جمعہ کے لیے آئے تو وہ " غسل کرے۔"

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The Bath of the Blessed Friday

Hadith number: 1396

Translation:

(1396) It is narrated on the authority of Abdullah bin Umar (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: "When one of you comes for Friday prayer, he should take a bath."

[Sahih. Narrated by Bukhari 877, 894, 919 and Muslim 844 and Nasai 1377 and Tirmidhi 492 and Ibn Majah 1098 and Malik 5/5 and Ahmad 2/3, 9, 35, 37, 41, 42, 48, 53, 55, 57, 64, 77, 78, 101, 105, 115, 120, 141, 145, 149]

Sunan Kubra Bayhaqi 1397

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَتْحِ بِلَالُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ الْحَفَّارِ (١٣٩٨)
بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: الْحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عِيَّاشٍ

الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا
ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ
فَلْيَغْتَسِلْ)) (-).

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: جمعۃ المبارک کا غسل
حدیث نمبر: 1397

:ترجمہ

(۱۳۹۸) (سیدنا عبداللہ بن عمر ^{رض} سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو کوئی مسجد میں جمعہ کے لیے آئے تو وہ وہ غسل کرے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The Bath of the Blessed Friday

Hadith number: 1397

Translation:

(1397) It is narrated on the authority of Abdullah ibn Umar (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: Whoever comes to the mosque for Jumu'ah (Friday Prayer) should take a bath.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1398

Arabic Text:

قَالَ وَحَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (١٣٩٩)
بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - قَالَ
وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ ((: مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ)) (-).

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: جمعۃ المبارک کا غسل
حدیث نمبر: 1398

ترجمہ:

(١٣٩٩) (سیدنا عبداللہ بن عمر^{رض} سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے منبر پر کھڑی ہوئے فرمایا " : جو کوئی جمعہ کے لیے آئے تو وہ غسل کرے۔"

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The Bath of the Blessed Friday

Hadith number: 1398

Translation:

(1398) It is narrated on the authority of Abdullah bin Umar (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) stood on the pulpit and said: "Whoever comes for Jumu'ah prayer should take a bath."

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1399

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدٌ (١٤٠٠)
بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ فَذَكَرَهُ عَنْهُمَا جَمِيعًا مُدْرَجًا عَلَى اللَّفْظِ الْأَوَّلِ -
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَافِعٍ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب : پاکی کا بیان
باب : جمعۃ المبارک کا غسل
حدیث نمبر : 1399

:ترجمہ

(١٤٠٠) (عبد الرزاق نے اس کو ان تمام سے پہلے الفاظ کے
مطابق مدرج نقل کیا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The Bath of the Blessed Friday

Hadith number: 1399

Translation:

(1399) Abdul Razzaq has narrated this hadith.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1400

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ وَأَبُو (١٤٠١)
زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ قَالُوا أَخْبَرَنَا
أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ قَالَ قُرِئَ
عَلَى ابْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَغَيْرُهُ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ
سُلَيْمٍ حَدَّثَهُمْ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: جمعۃ المبارک کا غسل
حدیث نمبر: 1400

ترجمہ:

(١٤٠١) (مالک بن انس اور دی گرنے خبر دی کہ صفوان بن
سلیم نے ان کو حدیث بیان کی۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The Bath of the Blessed Friday

Hadith number: 1400

Translation:

(1400) Malik ibn Anas and others reported that Safwan ibn Saleem narrated the hadith to them.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1401

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذُبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ (١٤٠٢)
مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ
صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَايِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - قَالَ ((:غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى
كُلِّ مُحْتَلِمٍ)) -

لَفْظُ حَدِيثِ الْقَعْنَبِيِّ

وَفِي حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ :الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ -

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْقَعْنَبِيِّ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ
يَحْيَى بْنِ يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب :پاکی کا بیان

باب :جمعة المبارک کا غسل

حدیث نمبر :1401

:ترجمہ

(۱۴۰۲) (سیدنا ابو سعید خدری^{رض} سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " :جمعہ کا غسل ہر بالغ پر واجب ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The Bath of the Blessed Friday

Hadith number: 1401

Translation:

(1401) It is narrated on the authority of Abu Sa'eed Al-Khudri (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: "Ghusl on Friday is obligatory for everyone who has reached the age of puberty"

[Sahih. Narrated by Bukhari 857, 879, 895, 2665 and Muslim 846 and Nasai 1372,

1376 and Abu Dawud 341 and Ibn Majah
1089 and Malik 5/4 and Ahmad 3/6 and
Darimi 1578]

Sunan Kubra Bayhaqi 1402

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو (١٤٠٣)
قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ
(ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا أَبُو
بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مُحَمَّدٍ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ يَحْيَى الزُّهْرِيُّ

بُنِ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ
 أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ
 أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - ﷺ - دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
 وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ فَقَالَ عُمَرُ: أَيُّ سَاعَةٍ بِدِهِ؟ فَقَالَ يَا
 أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ انْقَلَبْتُ مِنَ السُّوقِ فَسَمِعْتُ النِّدَاءَ ، فَمَا زِدْتُ
 عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ وَأَقْبَلْتُ. فَقَالَ عُمَرُ: الْوُضُوءُ أَيْضًا ، وَقَدْ
 عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے

حدیث نمبر: 1402

:ترجمہ

(۴۱۰۳) (سالم بن عبداللہ بن عمر ^{رض} اپنے والد سے نقل فرماتے
 ہیں کہ ایک صحابی جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوئے
 سیدنا عمر ^{رض} خطبہ دے رہے تھے، آپ ^{رض} نے کہا: یہ کونسا وقت
 ہے؟ اس نے کہا: اے امیرالمومنین! میں

بازار سے لوٹا، میں نے اذان سنی، وضو کیا اور میں آگیا۔
سیدنا عمرؓ نے کہا: صرف وضو؟ حالانکہ تو جانتا ہے کہ
رسول اللہ غسل کا حکم دیا کرتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Bathing on Friday is Sunnah

Hadith number: 1402

Translation:

(1402) Salem ibn Abdullah ibn Umar narrates from his father that one of the Companions entered the mosque on Friday while Umar (may Allah be pleased with him) was delivering the sermon. He said: What time is it? He said: O Commander of the Faithful! I returned from the marketplace, I heard the call to prayer, I performed ablution and I came. Umar said: Only ablution? Even though you know that

the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) used to order us to take a bath.

[Sahih. Narrated by Bukhari 878 and Muslim 845 and Tirmidhi 494 and Malik 5/3]

Sunan Kubra Bayhaqi 1403

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ (١٤٠٤)
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بِالْوَيْهِ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ مَالِكِ
بْنِ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ
عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَا هُوَ قَائِمٌ لِلْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ
جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ - مِنَ الْمُهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ
فَنَادَاهُ عُمَرُ: أَيَّةُ سَاعَةٍ بِذِهِ؟ قَالَ: إِنِّي شَغِلْتُ الْيَوْمَ فَلَمْ أَنْقَلِبْ
إِلَى أَبِي حَتَّى سَمِعْتُ التَّأْدِينَ ، فَلَمْ أَرِدْ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ -
قَالَ عُمَرُ: الْوَضُوءُ أَيضًا؟ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -
ﷺ - كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ -

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
أَسْمَاءَ ، وَبِذَا حَدِيثُ أَرْسَلَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ فِي الْمَوْطَأِ فَلَمْ يَذْكَرْ
عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي إِسْنَادِهِ ، وَوَصَلَهُ خَارِجَ الْمَوْطَأِ
وَالْمَوْصُولُ صَحِيحٌ فَقَدْ رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَيْلِيُّ وَمَعْمَرُ
بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ مَوْصُولًا - وَثَبَتَ ذَلِكَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي
بُرَيْرَةَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے

حدیث نمبر: 1403

:ترجمہ

(۱۴۰۴) (الف) (سیدنا ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ عمر بن خطابؓ کھڑے ہو کر جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، اچانک ایک شخص اولین مہاجرین میں سے آیا، سیدنا عمرؓ نے اس کو آواز دی کہ یہ کونسا وقت ہے؟ اس نے کہا: آج میں مصروف رہا۔ میں اپنے گھر نہیں گیا، میں نے اذان سنی تو: میں وضو کرنے سے زیادہ نہیں کرسکا۔ سیدنا عمرؓ نے کہا: صرف وضو؟ حالانکہ تو جانتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ غسل کا حکم دیا کرتے تھے۔

(ب) (امام بخاری) رح (نے) عبداللہ بن اسماء سے یہ روایت بیان کی ہے۔ امام مالک (رح) نے مؤطا میں مرسل نقل کی ہے اور سیدنا عبداللہ بن عمرؓ کا سند میں ذکر نہیں کیا۔ مؤطا کے علاوہ میں موصولاً بیان کی گئی ہے اور یہی صحیح ہے۔ امام زہری سے بھی یہ موصولاً منقول ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Bathing on Friday is Sunnah

Hadith number: 1403

Translation:

(1403) (a) It is narrated from Ibn Umar that Umar ibn al-Khattab (may Allah be pleased with him) was standing and delivering the Friday sermon. Suddenly a man came who was one of the foremost Muhajirs (emigrants), Syeduna Umar asked him what time it was. He said: I was busy today. I did not go to my house. When I heard the call to prayer, I could not perform more than ablution. Umar said: Only ablution? Even though you know that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) used to order us to

take a bath.

(B) Imam Bukhari has narrated this narration from Abdullah bin Asma. Imam Malik (may Allah have mercy on him) has narrated a (similar) mursal hadith in his Muwatta and did not mention Abdullah bin Umar (may Allah be pleased with him) in the chain of transmission. This (hadith) is narrated as a mawsul hadith everywhere except in the Muwatta (of Imam Malik) and this is authentic. It is also narrated in a mawsul hadith from Imam Zuhri.

[Sahih. Narrated by Bukhari 878 and Muslim 845 and Tirmidhi 494 and Malik 5/3]

Sunan Kubra Bayhaqi 1404

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِسْحَاقُ بْنُ (١٤٠٥) مُحَمَّدِ بْنِ يُونُسَ السُّوسِيَّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزِيدٍ أَخْبَرَنِي أَبِي حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ

حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دَخَلَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ الْمَسْجِدَ ، فَعَرَضَ لَهُ عُمَرُ فَقَالَ: مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَأَخَّرُونَ بَعْدَ النِّدَائِ. فَقَالَ عُثْمَانُ يَعْني ابْنَ عَفَّانَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا زِدْتُ حِينَ سَمِعْتُ النِّدَائَ أَنْ تَوْضَأْتُ ثُمَّ أَقْبَلْتُ. فَقَالَ عُمَرُ: الْوُضُوءُ أَيْضًا أَوْلَمَ تَسْمَعُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ ((: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ)) (-).

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ -

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: فَلَمَّا لَمْ يَتْرُكْ عُثْمَانُ
الصَّلَاةَ لِلْغُسْلِ وَلَمْ يَأْمُرْهُ عُمَرُ بِالْخُرُوجِ لِلْغُسْلِ دَلَّ ذَلِكَ
عَلَى أَنَّهُمَا قَدْ عَلِمَا أَنَّ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - بِالْغُسْلِ عَلَى
الِاخْتِيَارِ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے
حدیث نمبر: 1404

:ترجمہ

(۱۴۰۵) (الف) (سیدنا ابوہریرہ ^{رض} فرماتے ہیں کہ عمر بن
خطاب ^{رض} جمعہ کے دن لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے، عثمان
عثمان بن عفان ^{رض} مسجد میں داخل ہوئے، سیدنا عمر ^{رض} نے انہیں
متوجہ کرتے ہوئے کہا: ان آدمیوں کا کیا حال ہے جو اذان
!کے بعد آتے ہیں؟ سیدنا عثمان ^{رض} نے کہا: اے امیر المومنین
جب میں نے اذان سنی تو صرف وضو کیا اور مسجد میں
آگیا، سیدنا عمر ^{رض} نے کہا: صرف وضو؟ کیا تو نے رسول اللہ
کو فرماتے ہوئے نہیں ^ﷺ

سنا کہ جب کوئی جمعہ کو آئے تو وہ غسل کرے۔
(امام شافعی) رح (کہتے ہیں کہ سیدنا عثمانؓ نے غسل
کے لیے نماز نہیں چھوڑی اور سیدنا عمرؓ نے انہیں غسل
کے لیے باہر جانے کا حکم نہیں دیا، یہ اس بات پر دلیل ہے
کہ دونوں کے علم میں تھا کہ رسول اللہ ﷺ کا حکم اختیاری
ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Bathing on Friday is Sunnah

Hadith number: 1404

Translation:

(1404) (a) Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) says that Umar ibn al-Khattab (may Allah be pleased with him) was giving a sermon to the people on Friday. Uthman ibn Affan (may Allah be pleased with him) entered the mosque. Umar drew attention to him and said: What

is the status of the people who come (to the mosque) after the call to prayer? Uthman said: O Commander of the Faithful! When I heard the call to prayer, I just performed ablution and came to the mosque. Umar said: Only ablution? Have you not heard the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) say that when someone comes to Friday (prayer), he should take a bath?

(B) Imam Shafi'i (may Allah have mercy on him) says that Uthman (may Allah be pleased with him) did not leave the prayer to go take a bath and Umar did not order him to go out and take a bath, this proves that both of them knew that the command of the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) is optional.
[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1405

Arabic Text:

:أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنِي أَبُو الْعَبَّاسِ (١٤٠٦)
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ :مُحَمَّدُ
بْنُ عَيْسَى الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
سَعِيدٍ قَالَ :سَأَلْتُ عَمْرَةَ عَنِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَتْ :سَأَلْتُ
عَائِشَةَ عَنِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَتْ :كَانَ النَّاسُ عُمَّالَ أَنْفُسِهِمْ
فَكَانُوا يَرُوحُونَ بِهَيْئَتِهِمْ ، فَقِيلَ لَهُمْ :لَوْ اغْتَسَلْتُمْ -
مُخْرَجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيِّ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے

حدیث نمبر: 1405

ترجمہ:

(۱۴۰۶) (یحییٰ بن سعید کہتے ہیں: میں نے جمعہ کے دن غسل سے متعلق سیدنا عمرؓ سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا: میں نے سیدہ عائشہؓ سے جمعہ کے دن غسل کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا: لوگ خود کام کاج کرنے والے تھے اور شام کو اسی حالت میں واپس آتے تھے ان سے کہا گیا: اگر تم غسل کرلو) تو بہت بہتر ہے۔)

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Bathing on Friday is Sunnah

Hadith number: 1405

Translation:

(1405) Yahya ibn Sa'eed said: I asked Umar (may Allah be pleased with him) about the bath on Friday and he said: I asked Ayesha (may Allah be pleased with her) about the bath on Friday and she said: People were self-employed. They used to come back in the same condition in the evening. They were told: If you take a bath (it is better).

[Sahih. Narrated by Bukhari 903, 2071 and Muslim 847 and Nasai 1380 and Abu Dawud 352 and Ahmad 6/62]

Sunan Kubra Bayhaqi 1406

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوَدْبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ (١٤٠٧) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ : يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو يَعْنِي ابْنَ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ أَنَسًا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ جَاءُوا فَقَالُوا : يَا ابْنَ عَبَّاسِ أَتَرَى الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبًا؟ قَالَ : لَا وَلَكِنَّهُ أَطْهَرُ وَخَيْرٌ لِمَنْ اغْتَسَلَ وَمَنْ لَمْ يَغْتَسِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بِوَاجِبٍ ، وَسَأُخْبِرُكُمْ كَيْفَ بَدَأَ ، الْغُسْلُ؟ كَانَ النَّاسُ مَجْهُودِينَ يَلْبَسُونَ الصُّوفَ وَ يَعْمَلُونَ عَلَى ظُهُورِهِمْ ، وَكَانَ مَسْجِدُهُمْ ضَيْقًا مُقَارِبَ السَّقْفِ ، إِنَّمَا هُوَ عَرِيشٌ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - فِي يَوْمٍ حَارٍّ ، وَعَرِقَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ الصُّوفِ حَتَّى تَارَتْ مِنْهُمْ رِيَا حُ آدَى بِذَلِكَ : بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، فَلَمَّا وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - تِلْكَ الرِّيْحَ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا كَانَ هَذَا الْيَوْمَ فَاغْتَسِلُوا ، وَلَيْمَسَّ أَحَدُكُمْ أَفْضَلَ)) : مَا يَجِدُ مِنْ دَهْنِهِ وَطِيبِهِ ((. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ

ثُمَّ جَاءَ اللَّهُ بِالْخَيْرِ وَابْسُوا غَيْرَ الصُّوفِ وَكُفُّوا الْعَمَلَ وَوَسَّعَ
مَسْجِدَهُمْ، وَذَهَبَ بَعْضُ الَّذِي كَانَ يُؤْذِي بَعْضَهُمْ بَعْضًا مِنَ الْعَرَقِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے

حدیث نمبر: 1406

:ترجمہ

(۱۴۰۷) (سیدنا عکرمہ ^{رض} سے روایت ہے کہ عراق کے کچھ
لوگ آئے اور کہنے لگے: اے ابن عباس! آپ کا کیا خیال
ہے، کیا جمعہ کے دن غسل واجب ہے؟ انہوں نے کہا: نہیں
لیکن بہتر ہے اس شخص کے لیے جس نے غسل کیا اور
جس نے غسل نہ کیا اس پر واجب نہیں ہے۔ میں عنقریب آپ
کو بتاؤں گا کہ غسل کی ابتدا کی سے ہوئی؟ لوگ کام کرتی
تھے اور اون کے کپڑے پہنتے تھے اور اپنی کمروں پر کام
کرتے تھے، مسجد تنگ چھتوں والی ہوتی تھی، وہ صرف
(کھجوروں وغیرہ کے (پتے

ہوتے تھے، رسول اللہ ﷺ گرم دن میں نکلے، اور لوگوں کو اون کے کپڑوں میں پسینہ آیا ہوا تھا ان سے (مسجد میں) بدبو پھیلی جس سے بعض لوگوں کو تکلیف ہوئی، جب رسول اللہ ﷺ نے بدبو کو محسوس کیا تو آپ نے فرمایا: اے لوگو! جب جمعہ کا دن ہو تو غسل کرو اور تم سے کسی کے پاس تیل اور خوشبو ہو تو اس کو لگائے۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ وسعت عطا کی تو انہوں نے اون کے کپڑے پہننا چھوڑ دے اور کام کرنے سے رک گئے اور ان کی مسجدیں وسیع ہو گئیں اور پسینوں کی وجہ سے جو تکلیف ہوتی تھی وہ دور ہوں گئی۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Bathing on Friday is Sunnah

Hadith number: 1406

Translation:

(1406) It is narrated on the authority of Ikrimah that some people from Iraq came

and said: O Ibn Abbas! What do you think, is taking a bath obligatory on Friday? He said: No, but it is better for the one who took a bath but it isn't obligatory on the one who didn't take a bath. I will soon tell you about the initial (reason for the obligation) of the bath? People used to work and wear woolen clothes and work in their rooms, the mosque had narrow roofs, there were only leaves (of palms, etc.), the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) out on a hot day, and the people were sweating in their woolen garments because of which the stench spread (in the mosque) which caused some people distress. When the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) noticed the stench, he said: When it is Friday, take a bath and if any of you have oil and perfume, apply it. Ibn Abbas (may Allah be pleased with him)

said: Then Allah gave us more wealth, so they stopped wearing woolen clothes and stopped working and their mosques became vast and the difficulty caused by the sweating disappeared.

[Hasan (Fair). Narrated by Abu Dawud 353 and Ahmad 1/68]

Sunan Kubra Bayhaqi 1407

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ : مُحَمَّدُ بْنُ (١٤٠٨)
مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ الصَّفَّارِ الْعَدْلُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا
عَمْرُو بْنُ طَلْحَةَ الْقَنَّادُ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرِ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ
عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - ((: مَنْ
تَوَضَّأَ فِيهَا وَنِعِمَّتْ وَيُجْزَى مِنْ الْفَرِيضَةِ ، وَمَنْ اغْتَسَلَ
فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ)) -
وَهَذَا الْحَدِيثُ بِهَذَا اللَّفْظِ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَإِنَّمَا يُعْرَفُ مِنْ
حَدِيثِ الْحَسَنِ وَغَيْرِهِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب : پاکی کا بیان

باب : جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے

حدیث نمبر : 1407

:ترجمہ

(١٤٠٨) (سیدنا ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ

نے فرمایا " :جس نے وضو کیا اس نے اچھا کیا اور فریضہ سے کفایت کرجائے گا اور جس نیبہ کیا تو غسل افضل ہے۔"

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Bathing on Friday is Sunnah

Hadith number: 1407

Translation:

(1407) Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) says that the Messenger of Allaah (peace and blessings of Allah be upon him) said: "He who performs ablution has done well and will have fulfilled his obligation and he who takes a bath has done better."

[Sahih. Narrated by Ahmad 1/268]

Sunan Kubra Bayhaqi 1408

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا أَبُو (١٤٠٩)
جَعْفَرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ
شَاكِرٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ
سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - قَالَ ((مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهَا
وَنِعَمَتْ ، وَمَنْ اغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ)) -
وَبِهَذَا رُوِيَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان

باب : جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے

حدیث نمبر : 1408

ترجمہ:

(: ۱۴۰۹) (سیدنا سمرہ^{رض} سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن وضو کیا، اس نے اچھا کیا اور " " نے غسل کیا وہ افضل ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Bathing on Friday is Sunnah

Hadith number: 1408

Translation:

(1408) It is narrated on the authority of Samurah that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "He who performs ablution on Friday, has done good, and he who takes a bath has done better."

[Sahih. Narrated by Nasai 1380 Abu Dawud 354 and Tirmidhi 497 and Ahmad 5/8, 11, 15, 16, 22 and Darimi 1581]

Sunan Kubra Bayhaqi 1409

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمَّشَادٍ (١٤١٠)
الْعَدْلُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَجَائٍ حَدَّثَنَا
عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ
الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - ((مَنْ

تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهَا وَنِعَمَتْ ، وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ ((-)).
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ سَفْيَانَ الْجَحْدَرِيُّ عَنْ شُعْبَةَ-
وَخَالَفَهُمَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ فَرَوَاهُ مُرْسَلًا-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے

حدیث نمبر: 1409

ترجمہ:

(۱۴۱۰) (سیدنا سمرہ ^{رض} سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " جس نے جمعہ کے دن وضو کیا، اس نے اچھا کیا " اور جس نے غسل کیا تو غسل افضل ہے۔
ب) (سعید بن ابو عربہ نے اس کو مرسلًا نقل کیا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Bathing on Friday is Sunnah

Hadith number: 1409

Translation:

(1409) It is narrated on the authority of Samurah that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: "Whoever performs ablution on Friday, that is good, but whoever takes a bath, then taking a bath is better."

(B) Saeed ibn Abu Aruba has narrated it as a mursal hadith.

[Sahih. Narrated by Nasai 1380 Abu Dawud 354 and Tirmidhi 497 and Ahmad 5/8, 11, 15, 16, 22 and Darimi 1581]

Sunan Kubra Bayhaqi 1410

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ (١٤١١)
الْحَسَنِ بْنِ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَايٍ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ
قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - مُرْسَلًا -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ عَنْ قَتَادَةَ - وَرَوَاهُ أَبُو
حُرَّةَ الرَّقَاشِيُّ عَنِ الْحَسَنِ كَمَا -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے
حدیث نمبر: 1410

:ترجمہ

(۱۴۱۱) حسن نے نبی ﷺ سے مرسل بیان کیا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Bathing on Friday is Sunnah

Hadith number: 1410

Translation:

(1410) Hasan has narrated from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) in a mursal hadith.

Sunan Kubra Bayhaqi 1411

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورِكَ أَخْبَرَنَا (١٤١٢)
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ
حَدَّثَنَا أَبُو حُرَّةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ
قَالَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ ((مَنْ
تَوَضَّأَ فِيهَا وَنِعِمَتْ وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ)) (-).

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے

حدیث نمبر: 1411

ترجمہ:

(١٤١٢) (سیدنا عبدالرحمن بن سمرہ^{رض} سے روایت ہے کہ

میں نے اس حدیث کو نبی ﷺ سے حاصل کیا ہے کہ "جس نے وضو کیا اس نے اچھا کیا اور جس نے غسل کیا تو غسل افضل ہے۔"

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Bathing on Friday is Sunnah

Hadith number: 1411

Translation:

(1411) It is narrated on the authority of Abd al-Rahman ibn Samurah that I have received this hadeeth from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) that says: "He who performs ablution has done well and he who has taken a bath is better. "

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1412

Arabic Text:

وَرَوَاهُ بَكْرُ بْنُ بَكَّارٍ عَنْ أَبِي حُرَّةَ بِإِسْنَادِهِ قَالَ قَالَ (١٤١٣)
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - وَلَمْ يَشُكَّ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ سَخْتَوَيْهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْدَةَ
الْأَصْفَهَانِيُّ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو حُرَّةَ فَذَكَرَهُ -
وَرُويَ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - وَفِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

كتاب: پاکی کا بیان

باب: جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے

حدیث نمبر: 1412

:ترجمہ

(۱۴۱۳) (ابی حُرّہؓ نے اسی سند سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔۔۔ اور اس میں شک نہیں ہے۔
(ب) (ایک دوسری سند سے نبی ﷺ سے نقل کیا گیا ہے لیکن وہ محل نظر ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Bathing on Friday is Sunnah

Hadith number: 1412

Translation:

(1412) Abi Hurrah has narrated from the same chain of transmission that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said.... And there is no doubt about it.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1413

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ (١٤١٤)
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ
(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو طَابِرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدٍ الْبَلَالِيُّ
عَدَادِيُّ بَمَكَّةَ حَدَّثَنَا أَبُو حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى الْب
أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِي حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ عَنْ يَزِيدَ
: -الرَّقَاشِيَّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -
مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهَا وَنِعِمَتْ ، وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ))
أَفْضَلُ ، وَالْغُسْلُ مِنَ السُّنَّةِ ((- لَمْ يَذْكَرْ أَبُو دَاوُدَ : وَالْغُسْلُ
مِنَ السُّنَّةِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے

حدیث نمبر: 1413

:ترجمہ

(۱۴۱۴) (سیدنا انس بن مالک رض سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا " :جس نے جمعہ کے دن وضو کیا اس نے اچھا کیا اور جس نے غسل کیا تو غسل افضل ہے اور غسل " سنت ہے۔ "امام ابوداؤد (رح) نے یہ الفاظ ذکر نہیں کیے " وَالْغُسْلُ مِنَ السُّنَّةِ "

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Bathing on Friday is Sunnah

Hadith number: 1413

Translation:

(1413) It is narrated on the authority of Anas ibn Malik (may Allah be pleased with

him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: He who performs ablution on Friday has done well, and he who has taken a bath, then a bath is better and taking a bath is sunnah. Imam Abu Dawud did not mention the words "and taking a bath is sunnah" [Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence). Narrated by Ibn Majah 1091]

Sunan Kubra Bayhaqi 1414

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ (١٤١٥)
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفِ الطَّائِي حَدَّثَنَا
مُوسَى بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ
-يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -
(مَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ) (-. فَلَمَّا جَاءَ الشِّتَاءُ فَاشْتَدَّ :
عَلَيْنَا فَشَكَّوْنَا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - فَقَالَ ((مَنْ تَوَضَّأَ
فِيهَا وَنِعِمَّتْ ، وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ)) (- وَرُوِيَ أَيْضًا
-عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے

حدیث نمبر: 1414

:ترجمہ

(۱۴۱۵) (سیدنا انس بن مالک رض سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو شخص جمعہ کے لیے آئے تو وہ غسل کرے، جب سردی آگئی تو ہم پر مشکل ہوگیا، ہم نے اس کی شکایت نبی ﷺ سے کی تو آپ ﷺ نے فرمایا " :جس نے وضو کیا اس نے اچھا کیا اور جس نے غسل کیا تو غسل افضل ہے۔"

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Bathing on Friday is Sunnah

Hadith number: 1414

Translation:

(1414) It is narrated on the authority of Anas ibn Malik (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: Whoever comes for Friday prayer, let him take a bath. When winter arrived, it

became difficult for us (to take a bath). We complained about it to the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) so he said: He who performs ablution has done well and he who has taken a bath, then taking a bath is better. "

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1415

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ (١٤١٦)
الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَزَّازُ حَدَّثَنَا أَسِيدُ بْنُ زَيْدِ
الْجَمَّالِ أَبُو مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَرِيكَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ أَبِي
نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - ((مَنْ تَوَضَّأَ
يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهَا وَنِعِمَتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ)) -
وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ
النَّبِيِّ - ﷺ - وَرَوَاهُ إِسْحَاقُ عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْحَفَرِيِّ عَنْ سُفْيَانَ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے
حدیث نمبر: 1415

:ترجمہ

(١٤١٦) (سیدنا ابو سعید رضی سے روایت ہے کہ رسول اللہ

نے فرمایا " :جس نے جمعہ کے دن وضو کیا اس نے
اچھا کیا اور جس نے غسل کیا تو غسل افضل ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Bathing on Friday is Sunnah

Hadith number: 1415

Translation:

(1415) It is narrated on the authority of Abu Sa'eed that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: "He who performs ablution on Friday has done good, and he who has taken a bath, then taking a bath is better."

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1416

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حَمَّشَادَ (١٤١٧)
الْعَدْلُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ
حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّحْوِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي
كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَمَا
هُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: لِمَ تَحْتَبِسُونَ إِلَيَّ بِذِهِ
السَّاعَةِ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا هُوَ إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ النِّدَاءَ فَتَوَضَّأْتُ.
فَقَالَ عُمَرُ: وَالْوَضُوءُ أَلَمْ تَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ ((إِذَا
رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَغْتَسِلْ)) -
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ((إِذَا
رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ)) - وَقَالَ

الأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى)) : إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ ((-وَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ
عَنْ يَحْيَى)) : إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ ((-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب : پاکی کا بیان

باب : جمعہ کو آتے ہوئے غسل کرنا

حدیث نمبر : 1416

:ترجمہ

(۱۴۱۷ھ) (ابوہریرہ ^{رض} سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب

لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے، اچانک شخص آیا آپ ^{رض} نے

:پوچھا : اس وقت تک کیوں رکے رہے؟ اس شخص نے کہا

میں نے اذان سنی وضو کیا، عمر ^{رض} نے کہا صرف وضو؟ کیا

تو نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ جب کوئی

مسجد کی طرف جائے تو وہ غسل کرے۔

(ب (یحییٰ بن کثیر کی روایت میں یہ الفاظ ہیں) (إِذَا رَاحَ

أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ) (۔ اوزاعی نے یحییٰ سے یہ الفاظ

الفاظ نقل کیے ہیں) (إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ) (۔

معاویہ بن سلام نے یحییٰ سے یہ الفاظ بیان کیے ہیں۔ ((اِذَا
اَتَى أَحَدُكُمْ))۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Taking a bath when coming to
Friday prayer

Hadith number: 1416

Translation:

(1416) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah that Umar ibn al-Khattab (may Allah be pleased with him) was giving a sermon to the people. Suddenly a person came and he (Umar) asked: Why did you wait till now (to come to the mosque)? The man said: I performed ablution after hearing the call to prayer. Umar said: Only ablution? Have you not heard the Messenger of Allah (peace and

blessings of Allah be upon him) say that when one comes to the mosque, he should take a bath?

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1417

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ (١٤١٨)
يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الدِّمَشْقِيُّ
(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْمُزَنِيُّ أَخْبَرَنَا

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَيْسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ
بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَ طَاوُسٌ قُلْتُ لِابْنِ
عَبَّاسٍ: ذَكَرُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - قَالَ ((:اغْتَسِلُوا يَوْمَ
الْجُمُعَةِ ، وَاغْسِلُوا رُءُوسَكُمْ ، وَإِنْ لَمْ تَكُونُوا جُنُبًا ، وَأَصِيبُوا
مِنَ الطَّيِّبِ)) . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَمَّا الْغُسْلُ فَنَعَمْ ، وَأَمَّا الطَّيِّبُ
فَلَا أَدْرَى .

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الْيَمَانِ .
وَرَوَيْنَا فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - ((:الْغُسْلُ
يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ)) . (وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -
النَّبِيِّ ﷺ -)) : مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ ((.
فَذَكَرَ رَوَاحَهُ بَعْدَ الْغُسْلِ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ وَالثَّلَاثَةِ
وَالرَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: جمعہ کے لیے دوبارہ غسل جائز ہے اگرچہ اس دن
پہلے غسل کر چکا ہو
حدیث نمبر: 1417

:ترجمہ

(۱۴۱۸) (۱) (زہری کہتے ہیں: طاؤس نے کہا کہ میں نے ابن عباس^{رض} سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " جمعہ کے دن غسل کرو اور اپنے سروں کو دھوؤ، اگر تم جنبی نہ ہو اور خوشبو لگاؤ۔ ابن عباس^{رض} نے کہا: غسل " غسل اچھا ہے اور خوشبو کے متعلق میں نہیں جانتا۔ (ب) (سیدنا ابو سعید خدری^{رض} نبی ﷺ سے نقل فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن بالغ آدمی پر غسل کرنا واجب ہے اور ابو ہریرہ^{رض} نبی ﷺ سے نقل فرماتے ہیں: جس نے جمعہ کے دن غسل جنابت کیا، پھر چلا گیا پھر انہوں نے غسل کے بعد پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی اور پانچویں مرتبہ تک جانے کا ذکر کیا۔ "

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: It is permissible to take a bath again on Friday, even if you have taken a bath before that day

Hadith number: 1417

Translation:

(1417) (i) Zuhri said: Tawus says that I asked Ibn Abbas (may Allah be pleased with him), and he said that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: Take a bath on Friday and wash your heads, even if you are not junub and apply perfume. Ibn Abbas said: "Bathing is good and I don't know about perfume (i.e. whether it is obligatory or not)."

[Sahih. Narrated by Bukhari 884, 885 and Muslim 848]

Sunan Kubra Bayhaqi 1418

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ (١٤١٩)
مُحَمَّدِ بْنِ سَخْتُوَيْهِ الْعَدْلُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - يَقُولُ ((إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْتِيَ
الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ)) -.

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى -
وَيُذَكِّرُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا الْغُسْلُ عَلَى مَنْ تَجِبُ
عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ.

وَعَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لَا يَغْتَسِلُ فِي السَّفَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ -
وَقَدْ اسْتَحَبَّ غَيْرُهُ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ مَرَّةً تَنْظِيفًا.
وَاحْتَجَّ بِمَا.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: جو جمعہ کا ارادہ کرے وہ غسل کرے اور جس کا ارادہ نہ ہو وہ غسل نہ کرے

حدیث نمبر: 1418

:ترجمہ

(الف) (سیدنا ابن عمر^{رض} سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: جب کوئی جمعہ کو آنے کا ارادہ کرے تو وہ غسل کرے۔

(ب) (سیدنا ابن عمر^{رض} کہتے ہیں: غسل اس پر ہے جس پر جمعہ واجب ہے۔ انہی سے منقول ہے کہ وہ سفر میں جمعہ کے دن غسل نہیں کرتے تھے۔

(ج) (ان کے علاوہ بعض کا خیال ہے کہ ہر ہفتے ایک بار صفائی کی غرض سے غسل کرنا چاہیے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: He who intends to (pray) Friday prayer should take a bath and he who does not intend to go should not take a bath

Hadith number: 1418

Translation:

(1418) (a) It is narrated on the authority of Ibn Umar (may Allah be pleased with him) that I heard the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) say: When one intends to come to Friday prayer, he should take a bath.

(B) Ibn Umar (may Allah be pleased with him) said: Ghusl is for him on whom Friday prayer is obligatory. It is narrated from him that he did not take a bath on Fridays while he was traveling.

(C) In addition, some people think that one should take a bath once a week for the purpose of cleansing.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1419

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الضَّبِّيُّ (١٤٢٠)
أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدَانَ بِمَرْوٍ حَدَّثَنَا أَبُو
الْأَخْوَصِ: مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْقَاضِي حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا
اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بِلَالٍ عَنْ أَبَانَ
بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُجَابِدِ أَبِي الْحَجَّاجِ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ((: عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَقٌّ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ
سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا)) (-).

قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَرَوَاهُ أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ فَذَكَرَهُ.

وَبَدَأَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ أَيْضًا غُسْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: جو جمعہ کا ارادہ کرے وہ غسل کرے اور جس کا ارادہ

نہ ہو وہ غسل نہ کرے

حدیث نمبر: 1419

:ترجمہ

(۱۴۲۰ھ) (سیدنا ابوہریرہ ^{رض} سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: ہر مسلمان پر حق ہے کہ وہ ہر سات دن میں) کم از کم (ایک دفعہ غسل کرے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: He who intends to (pray) Friday prayer should take a bath and he who does not intend to go should not take a bath

Hadith number: 1419

Translation:

(1419) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: It is a right upon every Muslim to take a bath once every seven days.

[Sahih. Narrated by Ibn Hibban 1232]

Sunan Kubra Bayhaqi 1420

Arabic Text:

فَقَدْ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ أَنْ خَبَرَنَا أَحْمَدُ (١٤٢١)
بْنُ عُبَيْدِ الصَّفَّارِ حَدَّثَنَا تَمْتَامٌ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ غَالِبٍ حَدَّثَنَا
مُوسَى حَدَّثَنَا وَبَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي
بُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَ ((نَحْنُ الْأَخْرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ ، بِيَدِ كُلِّ أُمَّةٍ أَوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا ، وَأُوتِينَا مِنْ بَعْدِهِمْ
، فَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللَّهُ لَهُ ، فَغَدَاً لِلْيَهُودِ ،
وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى)) (- فَسَكَتَ وَقَالَ)) : حَقٌّ عَلَيَّ كُلِّ
مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ ((- رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ مُخْتَصَرًا-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب : پاکی کا بیان

باب : جو جمعہ کا ارادہ کرے وہ غسل کرے اور جس کا ارادہ
نہ ہو وہ غسل نہ کرے

حدیث نمبر : 1420

:ترجمہ

(۱۴۲۱) (سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ ہم سب امتوں کے آخر میں آئے ہیں اور قیامت کے دن سبقت لے جائیں گے باوجود اس کے کہ ہم سے پہلے ہر ایک کو کتاب دی گئی اور ہم کو ان کے بعد دی گئی، یہی وہ دن ہے جس نے انہوں میں اختلاف کیا اور اللہ نے ہم کو ہدایت دی۔ یہود کے لیے کل (ہفتہ) تھا اور نصاریٰ کے لیے پرسوں (اتوار) تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور فرمایا: ہر سات دن میں ایک دفعہ ہر مسلمان پر غسل کرنا فرض ہے کہ وہ اپنے سر اور جسم کو دھوئے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: He who intends to (pray) Friday prayer should take a bath and he who does not intend to go should not take a bath

Hadith number: 1420

Translation:

(1420) Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) narrates from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) that we are the last of the nations, and on the Day of Resurrection we will be foremost, even though (holy) scriptures were given to each (nation) before us and to us after them, this is the day on which they differed, and Allah guided us. For the Jews it was tomorrow (Saturday) and for the Christians it was the day after tomorrow (Sunday). He (the Prophet) became silent and said: It is obligatory for every Muslim to take a bath once in every seven days to wash his head and body.

[Sahih. Narrated by Bukhari 896, 3486 and Muslim 855 and Nasai 1368 and Ahmad 2/249, 274, 341]

Sunan Kubra Bayhaqi 1421

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكْرِيَّا: يَحْيَى بْنُ (١٤٢٢)
إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ قَالُوا
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ
سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النَّيْمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ
وَقَّاصٍ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - يَقُولُ ((: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ ، وَإِنَّمَا
لِأَمْرِي مَا نَوَيْ ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ
فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا
يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا

بَاجَرَ إِلَيْهِ))-

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ
عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ أَوْجِهٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ
سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: حدیث انمال عمال بالنیات کے مطابق جمعہ اور جنابت
کا غسل ایک ہی مرتبہ کرنا جائز ہے جب کہ نیت بھی کی ہو
حدیث نمبر: 1421

:ترجمہ

(۱۴۲۲) (سیدنا عمر بن خطابؓ فرماتے ہیں کہ میں نے
رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: اعمال کا دار و مدار نیتوں
پر ہے آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی، جس کی
ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے تو اس کی ہجرت
اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے اور جس کی ہجرت دنیا
کے لیے ہوئی کہ اس کو حاصل

کرلے گا یا عورت کے لیے ہے کہ اس کو اپنالے گا تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: According to the hadeeth '(The reward of) deeds depend on intentions'

[Bukhari 1], it is permissible to take a bath on Friday and for major impurity only once, if the intention is made

Hadith number: 1421

Translation:

(1421) Umar ibn al-Khattab (may Allah be pleased with him) says that I heard the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) say: "The (reward of) deeds depend on intentions, and every person will get the reward according to

what he intends. So, whoever migrated for Allah and His Messenger, then his migration will be for Allah and His Messenger, and whoever migrated for worldly benefits or for marrying a woman, then his migration will be for what he migrated for."

[Sahih. Narrated by Bukhari 1, 54, 2529, 3898, 5070, 6689, 6953 and Muslim 1907 and Nasai 75, 3467, 3825 and Abu Dawud 2201 and Tirmidhi 1647 and Ibn Majah 4227 and Ahmad 1/25, 43]

Sunan Kubra Bayhaqi 1422

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا (١٤٢٣)
الْحَسَنُ يَعْنِي ابْنَ سُوْفِيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي شَيْبَةَ
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ
يَغْتَسِلُ لِلْجَنَابَةِ وَالْجُمُعَةِ غُسْلًا وَاحِدًا.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب : پاکی کا بیان

باب : حدیث انمال عمال بالنیات کے مطابق جمعہ اور جنابت
کا غسل ایک ہی مرتبہ کرنا جائز ہے جب کہ نیت بھی کی ہو

حدیث نمبر : 1422

:ترجمہ

(١٤٢٣) (سیدنا ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ وہ جنابت اور

جمعہ کا غسل اکٹھے کر لیتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: According to the hadeeth '(The reward of) deeds depend on intentions'

[Bukhari 1], it is permissible to take a bath on Friday and for major impurity only once, if the intention is made

Hadith number: 1422

Translation:

(1422) It is narrated from Ibn Umar (may Allah be pleased with him) that he used to combine the Friday bath and the bath for major impurity together.

[Daif (Weak). Narrated by AbdulRazzaq 317]

Sunan Kubra Bayhaqi 1423

Arabic Text:

:أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ (١٤٢٤)
مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِيٍّ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ
وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعْدٍ الشُّعَيْبِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا
:أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زَكَرِيَّا أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ
الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ الْقَبَائِيُّ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ
حَدَّثَنَا بَارُونُ بْنُ مُسْلِمِ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ
عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: دَخَلَ
عَلَى أَبِي وَأَنَا أَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: غُسْلُكَ مِنْ
جَنَابَةِ أَوْ لِلْجُمُعَةِ؟ قَالَ قُلْتُ: مِنْ جَنَابَةِ. قَالَ: أَعِدْ غُسْلًا آخَرَ
، فَإِنِّي سَمِعْتُ ،

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - يَقُولُ ((مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ فِي طَهَارَةٍ إِلَى الْجُمُعَةِ الْآخِرَى)) (- لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي حَازِمٍ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: کیا جنابت کا غسل جمعہ کے غسل سے کفایت کر جائے گا جب اس نے غسل جمعہ کی نیت نہ کی ہو

حدیث نمبر: 1423

ترجمہ:

(۱۴۲۴) (سیدنا عبداللہ بن ابی قتادہؓ فرماتے ہیں کہ میرے پاس میرے والد محترم تشریف لائے اور میں جمعہ کے دن غسل کر رہا تھا انہوں نے پوچھا: جنابت کا یا جمعہ کا؟ میں نے کہا: جنابت کا غسل، انہوں نے کہا: دوسرا غسل دوبارہ کرو۔ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا جس نے جمعہ کے دن غسل کیا تو وہ دوسرے جمعہ تک طہارت و پاکیزگی میں ہوگا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Will bathing for major impurity suffice for the Friday bath when one has not made the intention of taking the Friday bath?
Hadith number: 1423

Translation:

(1423) Syeduna Abdullah ibn Abi Qatadah (may Allah be pleased with him) says that my father came to me and I was bathing on Friday. He asked: (Are you bathing for) Major Impurity or Friday? I said: Bathing for major impurity. He said: Take the second bath again. I have heard from the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) that whoever takes a bath on Friday, he will be in a state of purity till the next Friday.

[Daif (Weak). Narrated by Ibn Hibban 1222]

Sunan Kubra Bayhaqi 1424

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ (١٤٢٥)
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ التَّقِيُّ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ
بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَابِدٍ قَالَ
إِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ مِنَ الْجَنَابَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ
أَجْزَأُ مِنْ غُسْلِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: کیا جنابت کا غسل جمعہ کے غسل سے کفایت کر جائے
گا جب اس نے غسل جمعہ کی نیت نہ کی ہو

حدیث نمبر: 1424

:ترجمہ

(۱۴۲۵) (مجاہد سے روایت ہے کہ جب کوئی شخص جنابت
کا غسل جمعہ کے دن طلوع فجر کے بعد کرے تو اس کو وہ
جمعہ کے دن کے غسل سے کفایت کر جائے گا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Will bathing for major impurity

suffice for the Friday bath when one has not
made the intention of taking the Friday bath?

Hadith number: 1424

Translation:

(1424) It is narrated from Mujahid that if a person performs the bath for major impurity on Friday after dawn, it will suffice him for the Friday bath (i.e. one bath will be sufficient).

[Sahih. Narrated by Imam Shaybani in his Muwatta 3/67]

Sunan Kubra Bayhaqi 1425

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ (١٤٢٤)

بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَطَائِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
جُبَيْرٍ عَنْ زَادَانَ قَالَ: اسْتَبَّ رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -
فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَنَا إِذَا كَمَثِلِ الَّذِي لَا يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: کیا جنابت کا غسل جمعہ کے غسل سے کفایت کر جائے
گا جب اس نے غسل جمعہ کی نیت نہ کی ہو

حدیث نمبر: 1425

:ترجمہ

(۱۴۲۶ھ) (زاذان سے روایت ہے کہ دو صحابی جھگڑ پڑے
ان میں سے ایک نے کہا: میں اس وقت اس شخص کی طرح
ہوجاؤں جو جمعہ کے دن غسل نہیں کرتا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Will bathing for major impurity suffice for the Friday bath when one has not made the intention of taking the Friday bath?

Hadith number: 1425

Translation:

(1425) It is narrated from Zazan that two companions had a quarrel, one of them said: Let me be like the person who does not bathe on Friday.

[Sahih. Narrated by the Author in Shuab al-Eeman 3023]

Sunan Kubra Bayhaqi 1426

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ مِنْ أَصْلِهِ حَدَّثَنَا (١٤٢٧)
بِشْرِ بْنِ أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيَّ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْحُسَيْنِ اللَّبِيهَقِيُّ
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَزِيدُ بْنُ سَعِيدِ الْإِسْكَندَرَانِيَّ بِإِسْكَندَرِيَّةَ قَالَ
قُرِئَ عَلَيَّ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ حَدَّثَكَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدِ
الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -
ﷺ - (فِي جُمُعَةٍ مِنَ الْجُمُعِ)) يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ
جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى لَكُمْ عِيدًا، فَاغْتَسِلُوا وَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَاكِ ((-
هَكَذَا رَوَاهُ هَذَا الشَّيْخُ عَنْ مَالِكِ -
وَرَوَاهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ مَالِكِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ السَّبَّاقِ عَنِ
النَّبِيِّ - ﷺ - مُرْسَلًا -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
کتاب: پاکی کا بیان

باب : عیدین کے غسل کا بیان

حدیث نمبر : 1426

ترجمہ:

(۱۴۲۷) (سیدنا ابوہریرہ ^{رض} سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے کسی جمعہ میں فرمایا : اے مسلمانو کی جماعت! بیشک اللہ نے اس دن کو تمہارے لیے عید بنایا ہے پس غسل کرو اور مسواک کو لازم پکڑو۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on taking a bath on the two eids

Hadith number: 1426

Translation:

(1426) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said in

a gathering: O community of Muslims! Surely Allah has made this day a festival (Eid) for you, so take a bath and use the miswak.
[Sahih. Narrated by Malik 2/112]

Sunan Kubra Bayhaqi 1427

Arabic Text:

:وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ (١٤٢٨)

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ يَغْتَسِلُ فِي
الْعِيدَيْنِ اغْتِسَالَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ- وَرُويَ عَنْ غَيْرِهِ أَيْضًا ، وَذَلِكَ
يَرُدُّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِ الْعِيدَيْنِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: عیدین کے غسل کا بیان
حدیث نمبر: 1427

:ترجمہ

(۱۴۲۸) (سیدنا ابن عمر^{رض} سے منقول ہے کہ وہ عیدین کے لیے جنابت جیسا غسل کیا کرتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi
Sunan Kubra of Bayhaqi
Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on taking a bath on the two eids

Hadith number: 1427

Translation:

(1427) It is narrated from Ibn Umar (may Allah be pleased with him) that he used to take a bath, like the one done for major impurity, on eids.

Sunan Kubra Bayhaqi 1428

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ (١٤٢٩)
بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرَوْ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ
النَّرْسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ
مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ ((يُغْتَسَلُ مِنْ
، أَرْبَعٍ مِنَ الْجَنَابَةِ ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ
وَالْحِجَامَةِ)) .-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا

حدیث نمبر: 1428

ترجمہ:

(١٤٢٩) (سیدہ عائشہ رض سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے

،فرمایا " :چار چیزوں سے غسل کیا جائے گا :خبائث سے جمعہ کے دن، میت کو غسل دینے سے اور سینگی لگوانے سے۔"

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Taking a bath after washing the deceased

Hadith number: 1428

Translation:

(1428) It is narrated on the authority of Ayesha (may Allah be pleased with her) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "Ghusl will be performed for four things: for major impurity, on Friday, after washing the deceased and for cupping."

[Daif (Weak). Narrated by Abu Dawud 348, 3160]

Sunan Kubra Bayhaqi 1429

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوَدْبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ (١٤٣٠)
دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ يَشْرِ حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ فَذَكَرَهُ
بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: كَانَ يُغْتَسَلُ مِنْ أَرْبَعٍ -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مِسْعَرٌ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاكى كا بيان

باب: ميت كو غسل دينة كے بعد غسل كرنا

حدیث نمبر: 1429

:ترجمہ

(۱۴۳۰) (مصعب بن شیب نے اس كو اسى سند سے نقل كیا ہے مگر یہ كہتے ہیں كہ چار چیزوں سے غسل كیا جائے گا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Taking a bath after washing the deceased

Hadith number: 1429

Translation:

(1429) Musab ibn Shayb has narrated it from the same chain of transmission but says that ghusl will be performed for four

things.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1430

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ : إِبْرَاهِيمُ (١٤٣١)
بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمِ الزَّائِدِ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ : الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ
الصَّمَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَسَّانَ الْمَرْزُوزِيُّ بَنِيَسَابُورَ
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ
شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ

سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ ﷺ ((:الْغُسْلُ مِنْ خَمْسَةٍ :مِنَ الْجَنَابَةِ ، وَالْحِجَامَةِ
 وَغُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ ، وَغُسْلُ الْمَيِّتِ ، وَالْغُسْلُ مِنْ مَاءِ
 الْحَمَّامِ)) . أَخْرَجَ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ حَدِيثَ مُصْعَبِ بْنِ
 شَيْبَةَ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ -
 ﷺ : عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ . وَتَرَكَ هَذَا الْحَدِيثَ فَلَمْ يُخْرِجْهُ وَلَا
 أَرَاهُ تَرَكَهُ إِلَّا لِطَعْنِ بَعْضِ الْحُقَاطِ فِيهِ .
 وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ
 يَذْكُرِ الْغُسْلَ مِنَ الْغُسْلِ الْمَيِّتِ .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب : پاکی کا بیان
 باب : میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا
 حدیث نمبر : 1430

:ترجمہ

(: ۱۴۳۱ (سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
 غسل پانچ چیزوں سے ہے : جنابت سے ، سینگی

لگوانے سے، جمعہ کے دن، میت کو غسل دینے سے اور
حمام کے پانی سے۔
ب (صحیح مسلم میں سیدہ عائشہؓ سے منقول ہے کہ نبی ﷺ
نے فرمایا: دس چیزیں فطرت کا حصہ ہیں۔۔۔ انہوں نے اس
پچھلی حدیث کو بیان نہیں کیا، میرا خیال ہے کہ اس میں
بعض حفاظ کی جرح کی وجہ سے چھوڑا ہے۔ اس کا شاہد
سیدنا عمرو بن عاصؓ کی حدیث ہے، لیکن انہوں نے میت
کو غسل دینے کے بعد غسل کرنے کا ذکر نہیں کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Taking a bath after washing the
deceased

Hadith number: 1430

Translation:

(1430) Ayesha (may Allah be pleased with
her) says that the Messenger of Allah (peace
and blessings of Allah be upon

him) said: Ghusl is for five things: from janabah (major impurity), from cupping, on Fridays, from washing the deceased and from toilet water.

(B) In Sahih Muslim, it is narrated from Ayesha that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: Ten things are a part of nature... He did not narrate this previous hadith. I think some of it has been left out due to a fault in the memorizers. Evidence of this is the hadeeth of Amr ibn Aas, but he did not mention bathing after washing the deceased.
[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1431

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي (١٤٣٢)
عَمْرٍو قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ
عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَابِدٍ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: كُنَّا نَغْتَسِلُ مِنْ خَمْسٍ: مِنَ
الْحِجَامَةِ وَالْحَمَّامِ وَنَتْفِ الْإِبْطِ وَالْجَنَابَةِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ.
قَالَ الْأَعْمَشُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: مَا كَانُوا يَرَوْنَ
غُسْلًا وَاجِبًا إِلَّا مِنَ الْجَنَابَةِ، وَإِنْ كَانُوا لَيْسَتْحِبُّونَ أَنْ يَغْتَسِلُوا
يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا

حدیث نمبر: 1431

ترجمہ:

(۱۴۳۲) (عبداللہ بن عمر وبن عاصؓ سے روایت ہے کہ ہم پانچ چیزوں سے غسل کرتے تھے، سینگی لگوانے سے، حمام سے، بغلوں کے بال اکھیڑنے سے، جنابت سے اور جمعہ کے دن سے۔

اعمش کہتے ہیں: میں نے ابراہیم سے یہ بات ذکر کی تو انہوں نے کہا: وہ جنابت کے غسل کے علاوہ اس کو واجب خیال نہیں کرتے تھے اور جمعہ کے دن غسل کو مستحب سمجھتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Taking a bath after washing the deceased

Hadith number: 1431

Translation:

(1431) It is narrated on the authority of

Abdullah ibn Amr ibn Aas (may Allah be pleased with him) that we used to do take a bath for five things: for cupping, for the toilet, for plucking armpit hair, for major impurity and on Fridays.

A'mash says: When I mentioned this to Ibrahim, he said: He did not consider this obligatory except for the bath for major impurity and considered bathing on Friday as mustahabb (recommended).

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1432

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ (١٤٣٣)
جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا
:أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنِي مُجَابِدٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ
اغْتَسَلَ مِنَ الْحَمَامِ وَالْجُمُعَةِ وَالْجَنَابَةِ ، وَالْحِجَامَةِ وَالْمُوسَى-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا

حدیث نمبر: 1432

:ترجمہ

(١٤٣٣) (سیدنا عبداللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ

انہوں نے حمام، جمعہ، خبائث، سینگی اور استرا استعمال کرنے پر غسل کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Taking a bath after washing the deceased

Hadith number: 1432

Translation:

(1432) It is narrated on the authority of Abdullah ibn Amr (may Allah be pleased with him) that he performed ghusl after using the toilet, on Fridays, for major impurity, cupping and after using the razor (i.e. shaving)

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1433

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكْرِيَّا: يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ (١٤٣٤)
يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلِ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ
حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - قَالَ
((مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ)) -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا

حدیث نمبر: 1433

ترجمہ:

(۱۴۳۴) (سیدنا ابوہریرہ ^{رض} سے روایت ہے کہ رسول اللہ ^{صلی اللہ علیہ وسلم} نے فرمایا " جو میت کو غسل دے وہ غسل کرے اور جو اس کو " کو اٹھائے وہ وضو کرے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Taking a bath after washing the deceased

Hadith number: 1433

Translation:

(1433) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: "He who washes the deceased should take a bath and he who carries it should perform ablution."

[Sahih. Narrated by Abu Dawud 3161 and Tirmidhi 993 and Ibn Majah 1463 and Ahmad 2/272]

Sunan Kubra Bayhaqi 1434

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ (١٤٣٥)
بْنُ خَمِيرٍ وَبِهِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَّارِبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ أَظُنُّهُ ابْنُ
الْمُخْتَارِ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ

((قَالَ)) : مِنْ غَسَلِهِ الْغُسْلُ ، وَمِنْ حَمَلِهِ الْوُضُوءُ ((. - يَغْنَى -
الْمَيِّتَ.

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ وَحَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي
صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا

حدیث نمبر: 1434

:ترجمہ

(۱۴۳۵) (سیدنا ابوہریرہؓ سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا " :اس) میت (کو غسل دینے پر غسل کرنا ہے اور اس " اس کے اٹھانے سے وضو ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Taking a bath after washing the

deceased

Hadith number: 1434

Translation:

(1434) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "Ghusl is to be performed on giving ghusl to this (the deceased) and ablution is to be done by carrying it. "

[Sahih. Narrated by Abu Dawud 3161 and Tirmidhi 993 and Ibn Majah 1463 and Ahmad 2/272]

Sunan Kubra Bayhaqi 1435

Arabic Text:

وَرَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ (١٤٣٦)
-أَبِيهِ عَنْ إِسْحَاقَ مَوْلَى زَائِدَةَ عَنْ أَبِي بُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -
بِمَعْنَاهُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذِبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ فذَكَرَهُ.
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سُهَيْلٍ مَرَّةً مَرْفُوعًا وَمَرَّةً مَوْقُوفًا.
وَرَوَاهُ وَهْبُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ سُهَيْلٍ كَمَا.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا

حدیث نمبر: 1435

:ترجمہ

(۱۴۳۶) (سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے اسی کے ہم معنی

روایت نقل فرماتے ہیں۔

(ابن علیہ سہیل سے مرفوع اور موقوف دونوں طرح نقل

فرماتے ہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Taking a bath after washing the
deceased

Hadith number: 1435

Translation:

(1435) Syeduna Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) narrates the same narration from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him).

(B) Ibn Alyah narrates from Suhail in both a Marfoo and Mawqoof hadith.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1436

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ: أَحْمَدُ بْنُ (١٤٣٧)
كَامِلِ الْقَاضِي بِيَعْدَادَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مِهْرَانَ

الضَّرِيرُ النَّقِيُّ الْمَأْمُونُ وَكَانَ مِنْ أَحْفَظِ النَّاسِ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَخْلَدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - ((مِنْ غَسَلِهِ الْغُسْلُ ، وَمِنْ حَمَلِهِ الْوُضُوءُ)) (- يَعْنى فى الْمَيِّتِ وَالْجَنَازَةِ. كَذَا رَوَاهُ وَلَا أَرَاهُ حَفِظَهُ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاکی کا بیان

باب: میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا

حدیث نمبر: 1436

:ترجمہ

(۱۴۳۷) (سیدنا ابوہریرہ ^{رض} سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " :اس کو غسل دینے سے غسل ہے اور اس کو اٹھانے سے وضو ہے "یعنی میت اور جنازے کو۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Taking a bath after washing the deceased

Hadith number: 1436

Translation:

(1436) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: "Ghusl is to be done after giving this (dead body) ghusl and ablution is to be done after carrying it." That is, the dead body and the funeral.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1437

Arabic Text:

وَقِيلَ عَنْ وَهْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو وَاقِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ (١٤٣٨)
الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ ثَوْبَانَ وَإِسْحَاقَ مَوْلَى زَائِدَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَ ((مِنْ غَسَلِهِ الْغُسْلُ وَمِنْ حَمَلِهِ
الْوَضُوءُ)) -

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ أَنْ خَبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ
الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ حَدَّثَنَا مُوسَى يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ
حَدَّثَنَا وَهْبٌ فَذَكَرَهُ. وَزَادَ قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ قَالَ: لَوْ عَلِمْتُ أَنَّهُ نَجِسٌ لَمْ أَمْسَهُ. وَقِيلَ عَنْ إِسْحَاقَ
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان

باب: میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا

حدیث نمبر: 1437

ترجمہ:

(۱۴۳۸) (سیدنا ابوہریرہ ^{رض} سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا اس کو غسل دینے سے غسل ہے اور اس کے اٹھانے سے وضو ہے۔

(ب) (سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ اگر مجھے علم ہوتا کہ وہ ناپاک ہے تو میں کبھی بھی اس کو ہاتھ نہ لگاتا۔) یعنی ان (کے نزدیک میت ناپاک نہیں ہے

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Taking a bath after washing the deceased

Hadith number: 1437

Translation:

(1437) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with

him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said that ghusl is to be performed on giving ghusl to this (the deceased) and ablution is to be done by carrying it.

(B) Saeed bin Musaib (may Allah have mercy on him) says that if I had known that it was impure, I would have never touched it. (That is, the corpse is not impure according to him)
[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1438

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ أَخْبَرَنَا (١٤٣٩)
إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ فَارِسٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ
ابْنِ وَهْبٍ عَنْ أُسَامَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِيِّ
عَنْ إِسْحَاقَ مَوْلَى زَائِدَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مِثْلَهُ وَمِثْلَهُ ((مَنْ
غَسَلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ)) -

قَالَ الْبُخَارِيُّ وَقَالَ مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ
إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَ وَحَدَّثَنَا مُوسَى
بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبَانَ عَنْ يَحْيَى عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي لَيْثٍ عَنْ
إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَ وَحَدَّثَنَا مُوسَى
بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - مِثْلَهُ. قَالَ وَحَدَّثَنَا
الْأُوَيْسِيُّ عَنِ الدَّرَّاورِدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَوْلَهُ. قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَهَذَا أَشْبَهُ. قَالَ
وَقَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ وَعَلِيُّ: لَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا

حدیث نمبر: 1438

:ترجمہ

(۱۴۳۹) (سیدنا ابو سعید اسی پچھلی روایت کی طرح نقل فرماتے ہیں کہ جو میت کو غسل دے وہ غسل کرے اور جو اس کو اٹھائے وہ وضو کرے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Taking a bath after washing the deceased

Hadith number: 1438

Translation:

(1438) Syeduna Abu Sa'eed narrates the same as the previous narration that whoever washes the deceased should perform ghusl and whoever carries it should perform ablution.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1439

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوَدُبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ (١٤٤٠)
دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السَّجِسْتَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ
وَسُئِلَ عَنِ الْغُسْلِ مِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ فَقَالَ: يُجْزِيهِ الْوُضُوءُ.
أَدْخَلَ أَبُو صَالِحٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي هَذَا يَعْني إِسْحَاقَ
مَوْلَى زَائِدَةَ. قَالَ: وَحَدِيثُ مُصْعَبٍ ضَعِيفٌ، فِيهِ خِصَالٌ
لَيْسَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ.

قَالَ الشَّيْخُ وَقَالَ أَبُو عَيْسَى: سَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ
الْبُخَارِيَّ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: إِنَّ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ وَعَلِيَّ بْنَ
عَبْدِ اللَّهِ قَالَا: لَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ. قَالَ مُحَمَّدٌ
وَحَدِيثُ عَائِشَةَ فِي هَذَا الْبَابِ لَيْسَ بِذَاكَ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

كتاب: پاکی کا بیان

باب: میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا

حدیث نمبر: 1439

:ترجمہ

(۱۴۴۰) (الف) (امام ابوداؤد سبحستانی) رح (فرماتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل سے سنا جب ان سے میت کو غسل دینے سے غسل کرنے کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: اس کو وضو کفایت کر جائے گا۔

(ب) (یہ حدیثِ مصعب ضعیف ہے، اس میں بعض ایسی چیزیں ہیں جن پر عمل نہیں ہے۔

(ج) (شیخ کہتے ہیں کہ امام ترمذی) رح (نے امام بخاری) رح (سے اس حدیث کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ امام احمد بن حنبل اور علی بن عبداللہ فرماتے ہیں: اس باب میں کوئی چیز بھی درست نہیں۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ حدیث عائشہ قابل حجت نہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Taking a bath after washing the deceased

Hadith number: 1439

Translation:

(1439) (a) Imam Abu Dawud Sijistani says that I heard from Imam Ahmad ibn Hanbal (may Allah have mercy on him) about taking a bath after washing the deceased that he said: Ablution is sufficient for him.

(B) This hadith of Musab is weak, there are some things in it which are not followed.

(C) Shaykh says that when Imam Tirmidhi asked Imam Bukhari (may Allah have mercy on him) about this hadith, he said that Imam Ahmad ibn Hanbal and Ali ibn Abdullah say: Nothing is authentic in this chapter. Imam Muhammad says that the hadith of Ayesha is not reliable.

[Sahih. Narrated by Abu Dawud 3162]

Sunan Kubra Bayhaqi 1440

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ (١٤٤١)
الْأَصَمُّ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِنَّمَا مَنَعَنِي مِنْ
إِجَابِ الْغُسْلِ مِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ أَنَّ فِي إِسْنَادِهِ رَجُلًا لَمْ أَقَعْ
مِنْ مَعْرِفَةٍ ثَبَتَ حَدِيثُهُ إِلَى يَوْمِي بِذَا عَلَى مَا يُقْنَعُنِي ، فَإِنْ
وَجَدْتُ مَنْ يُقْنَعُنِي أَوْجِبْتُهُ ، وَأَوْجِبْتُ الْوَضُوءَ مِنْ مَسِّ الْمَيِّتِ
مُفْضِيًا إِلَيْهِ ، فَإِنَّهُمَا فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْمُطَرِّزُ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى
يَقُولُ لَا أَعْلَمُ فِيمَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ حَدِيثًا

ثَابِتًا وَلَوْ ثَبَّتْ لَزِمْنَا اسْتِعْمَالَهُ۔

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهِ آخَرَ ضَعِيفٍ عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ مَرْفُوعًا۔

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا

حدیث نمبر: 1440

ترجمہ:

(۱۴۴۱) (الف) (امام شافعی) رح (فرماتے ہیں کہ مجھے میت کو غسل دینے کے بعد غسل کے واجب ہونے والی حدیث پر عمل کو اس بات نے روکا جو اس کی سند میں راوی ہے جس کی آج تک معرفت حاصل نہیں ہو سکی جو مجھے یقین دلاتی۔ اگر مجھے قابل اعتماد کوئی حدیث مل جاتی تو میں اس کو فرض قرار دے دوں اور جو میت کو چھوتا اس پر وضو قرار دیتا۔

(ب) (ابو بکر مطرز کہتے ہیں: میں نے محمد بن یحییٰ سے سنا کہ میں نہیں جانتا اس حدیث کے

متعلق جو میت کو غسل دے کر غسل کرنے کے متعلق ہے
اور اگر ثابت ہو جائے تو اس پر لازم قرار دیں گے۔
(ج) امام احمد فرماتے ہیں: ایک ضعیف سند میں سیدنا ابو
سلمہؓ سے مرفوع روایت منقول ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Taking a bath after washing the
deceased

Hadith number: 1440

Translation:

(1440) (a) Imam Shafi'i (may Allah have
mercy on him) says that I am prevented from
following the hadith which mentions that
taking a bath is obligatory after washing the
deceased, because of a narrator being
present in its chain of transmission who's
credentials are not known, till date, to such
an extent that

convinces me. If I could find a reliable hadith, I would declare it to be obligatory and would declare ablution on the one who touches the corpse.

(B) Abu Bakr al-Muttariz says: I heard from Muhammad ibn Yahya that I do not know about the hadith which mentions performing ghusl after giving ghusl to the deceased and if it is proven then it will be declared obligatory.

(C) Imam Ahmad says: A marfu narration has been narrated from Abu Salma via a weak chain of transmission.

[Sahih. Narrated by the Author in Al-Maarif 1/357]

Sunan Kubra Bayhaqi 1441

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي حَدَّثَنَا (١٤٤٢)
حَاجِبُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ
الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَحْبُوبٍ الرَّمْلِيُّ بِمَكَّةَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ
اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الرَّبِيعِ التَّمِيمِيُّ بِمِصْرَ قَالَ حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ حَدَّثَنِي ابْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ حُنَيْنِ
بْنِ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي بُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - ((مَنْ غَسَلَ
مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ)) -

-بَدَأَ لَفْظُ الْقَاضِي وَفِي رِوَايَةِ الْحَافِظِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -
((مَنْ غَسَلَ الْمَيِّتَ الْغُسْلُ ، وَمِنْ حَمَلِهِ الْوُضُوءُ)) - :
ابْنُ لَهَيْعَةَ وَحُنَيْنُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ لَا يُحْتَجُّ بِهِمَا.

وَالْمَحْفُوظُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْبُخَارِيُّ مَوْقُوفٌ
مِنْ قَوْلِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا

حدیث نمبر: 1441

:ترجمہ

" (۱۴۴۲) (سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص میت کو غسل دے تو وہ غسل کرے اور حافظ کی " کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو غسل دینے سے غسل ہے اور اس کو اٹھانے سے " وضو ہے۔

(ابن لہیعہ اور حنین بن ابو حکیم قابل حجت نہیں۔ حدیث ابو سلمہ محفوظ ہے۔ اس سے متعلق امام بخاری (رح) نے اشارہ کیا ہے کہ یہ سیدنا ابوہریرہ کے قول سے موقوف ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Taking a bath after washing the deceased

Hadith number: 1441

Translation:

(1441) Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) narrated from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) that "Whoever washes the deceased should take a bath." And the words of the Hafiz are that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "Ghusl is to be performed on giving ghusl to the deceased and ablution is to be done by carrying it."

(B) Ibn Lahiyah and Hunayn bin Abu Hukaym are not reliable. The hadith of Abu

Salma is safe. In this regard, Imam Bukhari has indicated that it is based on the words of Syeduna Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) as mawquf.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1442

Arabic Text:

:أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ (١٤٤٣)

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ
 بْنُ عَطَاءٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي
 بُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَ مَيِّتًا
 فَلْيَتَوَضَّأْ، وَمَنْ مَشَى مَعَهَا فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى يُقْضَى دَفْنُهَا.
 قَالَ الشَّيْخُ: بَدَأَ هُوَ الصَّحِيحُ مَوْقُوفًا عَلَى أَبِي بُرَيْرَةَ كَمَا
 أَشَارَ إِلَيْهِ الْبُخَارِيُّ. وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ أَبِي بُرَيْرَةَ
 مَرْفُوعًا.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا

حدیث نمبر: 1442

:ترجمہ

(۱۴۴۳) (الف) (سیدنا ابوہریرہ رض سے روایت ہے کہ جو

شخص میت کو غسل دے تو وہ غسل کرے اور جو میت کو

اٹھائے تو وہ وضو کرے اور جو اس کے ساتھ چلے وہ اس

وقت تک نہ بیٹھے جب تک اس کو دفن نہ

کر دیا جائے۔

(ب) (شیخ کہتے ہیں کہ یہ روایت سیدنا ابوہریرہ ^{رض} سے موقوفاً صحیح ثابت ہے جیسا کہ اس بات کی طرف امام بخاری (رح) نے بھی اشارہ کیا ہے۔ یہی روایت ایک دوسری سند سے مرفوعاً بھی نقل کی گئی ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Taking a bath after washing the deceased

Hadith number: 1442

Translation:

(1442) (a) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that he who washes the deceased should take a bath and he who carries the deceased should perform ablution and he who accompanies it should not sit till it is buried.

(B) Shaykh says that this narration has been proven to be authentic from Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) as a mawquf hadith, as Imam Bukhari (may Allah have mercy on him) has also pointed out. The same narration has been narrated with another sanad (chain of transmission) as a marfu hadith.
[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1443

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ (١٤٤٤)
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْأَشْعَثِ بَغْدَادَ
إِمْلَائِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ يَعْنِي الْبَرْقِيَّ وَجَعْفَرُ بْنُ
مُسَافِرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَنَا زُبَيْرٌ عَنِ الْعَلَاءِ
: - عَنِ أَبِيهِ عَنِ أَبِي بُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -
(مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ) -
زُبَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ الْبُخَارِيُّ : رَوَى عَنْهُ أَهْلُ الشَّامِ أَحَادِيثَ
مَنَاقِيرَ -

وَقَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ : زُبَيْرٌ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ - وَرَوَى مِنْ
وَجْهِ آخَرَ عَنْ أَبِي بُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب : پاکی کا بیان

باب : میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا

حدیث نمبر : 1443

ترجمہ:

(۱۴۴۴) (سیدنا ابوہریرہ ^{رض} فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " :جو شخص میت کو غسل دے وہ غسل کرے اور جو " جو اس کو اٹھائے وہ وضو کرے۔

(ب (امام بخاری) رح (فرماتے ہیں کہ زبیر بن محمد سے اہل شام نے منکر روایات بیان کی۔ امام نسائی) رح (فرماتے ہیں کہ زبیر قوی نہیں۔ ایک اور سند سے سیدنا ابوہریرہ ^{رض} سے مرفوعاً بیان کیا گیا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Taking a bath after washing the deceased

Hadith number: 1443

Translation:

(1443) Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) says that the Messenger of Allaah (peace and blessings of Allah be

upon him) said: "He who washes the deceased should take a bath and he who carries it should perform ablution."

(B) Imam Bukhari (may Allah have mercy on him) says that the people of Syria narrated munkar traditions from Zuhair bin Muhammad. Imam Nasai says that Zuhair is not strong. A marfu hadith has been narrated from Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) with another sanad (chain of transmission).

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1444

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذِبَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ (١٤٤٥)
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ
حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذُنُبٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ
عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي بُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ((مَنْ
غَسَلَ الْمَيِّتَ فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ)) (-).
هذا عَمْرُو بْنُ عُمَيْرٍ إِنَّمَا يُعْرَفُ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ
بِالْمَشْهُورِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا

حدیث نمبر: 1444

ترجمہ:

(۱۴۴۵) (سیدنا ابوہریرہ ^{رض} سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " :جو شخص میت کو غسل دے تو وہ غسل کرے اور جو اس کو اٹھائے وہ وضو کرے۔
(ب) (عمرو بن نمیر اسی حدیث میں ہے لیکن وہ مشہور نہیں ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Taking a bath after washing the deceased

Hadith number: 1444

Translation:

(1444) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said:

"Whoever washes the deceased should take a bath and whoever carries it

should perform ablution."

(B) Amr ibn Namir is in this hadith but he is not famous.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1445

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورِكَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ (١٤٤٦)
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي
ذَنْبٍ عَنْ صَالِحِ مَوْلَى التَّوَّامَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - ((مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ ، وَمَنْ حَمَلَ جَنَازَةً فَلْيَتَوَضَّأْ)) -

بَدَا هُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ - وَصَالِحُ مَوْلَى التَّوَّامَةِ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا

حدیث نمبر: 1445

:ترجمہ

(۱۴۴۶) (سیدنا ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " :جو اس کو اٹھائے وہ وضو کرے۔) "ب (حدیث ابو ذنب مشہور ہے لیکن اس میں صالح قولی قوی نہیں ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Taking a bath after washing the deceased

Hadith number: 1445

Translation:

(1445) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said:

"Whoever carries it should perform ablution "

(B) The hadith of Abu Zaib is well known, but Saleh Qawli is not strong in it.

[Sahih. Narrated by Al-Tayalisi 2314]

Sunan Kubra Bayhaqi 1446

Arabic Text:

وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ (١٤٤٧)
عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ يَعْنِي ابْنَ عَاصِمِ الدِّمَشْقِيِّ حَدَّثَنَا
مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِلَّيْثِ بْنِ
سَعْدٍ: إِنَّ ابْنَ أَبِي ذَنْبٍ أَخْبَرَنِي عَنْ صَالِحِ مَوْلَى التَّوَّامَةِ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - قَالَ يَعْنِي ((وَمَنْ حَمَلَهُ
فَلْيَتَوَضَّأْ)) - قَالَ اللَّيْثُ بَلَّغْنَا أَنَّ هَذَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، ذَكَرَ
لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ -
ﷺ - أَنْ لَا يَشْهَدَ الْجَنَازَةَ إِلَّا مُتَوَضِّئًا -
قَالَ الشَّيْخُ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
مَنْصُوصًا إِلَّا أَنَّ إِسْنَادَهُ ضَعِيفٌ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا

حدیث نمبر: 1446

ترجمہ:

(۱۴۴۷) (سیدنا ابوہریرہ رض سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

" فرمایا " : جو اس کو اٹھائے وہ وضو کرے۔

(ب) (لیث کہتے ہیں: ہمیں سیدنا ابوہریرہ رض کی حدیث پہنچی تو

سیدنا عبداللہ بن عمرو رض کے سامنے بیان کی گئی۔ انہوں نے

کہا کہ رسول اللہ ﷺ کی مراد یہ ہے کہ جنازہ میں صرف

باوضو شخص حاضر ہو۔

(ج) (شیخ کہتے ہیں کہ یہ روایت ایک دوسری سند سے سیدنا

ابوہریرہ رض سے نقل کی گئی ہے مگر وہ سند ضعیف ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Taking a bath after washing the
deceased

Hadith number: 1446

Translation:

(1446) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: "Whoever carries it should perform ablution."

(B) Layth says: When the hadith of Abu Hurayrah reached us, it was narrated to Abdullah ibn Amr (may Allah be pleased with him). He said that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) meant that only a person in a state of ablution should be present at a funeral.

(C) Shaykh says that this narration has been narrated from another sanad (chain of transmission) from Syeduna Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him)

but that chain of transmission is weak.
[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1447

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ (١٤٤٨)
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَاصِمِ الدِّمَشْقِيِّ حَدَّثَنَا بِشَّامُ بْنُ
عَمَّارٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنِي ابْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ وَرْدَانَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((مَنْ أَرَادَ أَنْ
يَحْمِلَ مَيْتًا فَلْيَتَوَضَّأْ)) (-)
قَالَ الشَّيْخُ: الرَّوَايَاتُ الْمَرْفُوعَةُ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ أَبِي

، بُرَيْرَةَ غَيْرُ قَوِيَّةٍ لِحَبَالَةٍ بَعْضِ رُؤَاتِهَا وَضَعْفِ بَعْضِهِمْ
وَالصَّحِيحُ عَنْ أَبِي بُرَيْرَةَ مِنْ قَوْلِهِ مَوْقُوفًا غَيْرَ مَرْفُوعٍ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا

حدیث نمبر: 1447

:ترجمہ

(۱۴۴۸) (سیدنا ابوہریرہ ^{رض} سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے
" فرمایا " : جو میت کو اٹھانے کا ارادہ کرے وہ وضو کرے۔
(ب) (شیخ کہتے ہیں کہ اس باب میں سیدنا ابوہریرہ ^{رض} سے تمام
مرفوع روایات بعض راویوں کی جہالت اور بعض کے
ضعف کی وجہ سے قوی نہیں ہیں اور موقوفاً صحیح ہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Taking a bath after washing the deceased

Hadith number: 1447

Translation:

(1447) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said:

"Whoever intends to carry the corpse should perform ablution."

(B) The Shaykh says that all the marfu narrations narrated from Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) in this chapter are not strong due to the ignorance of some narrators and the weakness of others, and (narrations which are) mawquf are authentic.
[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1448

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ (١٤٤٩)
الْقَاضِي قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ
أَيُّوبَ عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي بُرَيْرَةَ قَالَ: مَنْ غَسَلَ الْمَيِّتَ فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ
أَدْخَلَهُ قَبْرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ. وَقَدْ قِيلَ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَوْلُهُ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاكى كا بيان

باب: ميت كو غسل دينے كے بعد غسل كرنا

حديث نمبر: 1448

:ترجمہ

(۱۴۴۹) سيدنا ابوہريره ^{رض} سے روايت ہے کہ جو ميت كو غسل دے وہ غسل کرے اور جو اس كو قبر ميں اتارے وہ وضو کرے اور ابن مسيب سے اسى كے ہم معنى قول نقل كيا گيا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Taking a bath after washing the deceased

Hadith number: 1448

Translation:

(1448) It is narrated on the authority of

Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that whoever washes the deceased should take a bath and whoever lowers it into to the grave should perform ablution and a synonymous view has been narrated from Ibn Musayyib.
[Hasan (Fair)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1449

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ بْنُ أَبِي عَمْرٍو أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ (١٤٥٠)
الْمُزَنِيُّ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَيْسَى حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ
أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْرَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي
، سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَغْتَسِلَ مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا
وَيَتَوَضَّأُ مَنْ نَزَلَ فِي حُفْرَتِهِ حِينَ يُدْفَنُ ، وَلَا وُضُوئٌ عَلَى
أَحَدٍ فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّنْ صَلَّى عَلَيْهِ وَلَا مِمَّنْ حَمَلَ جِنَازَتَهُ
:وَلَا مِمَّنْ مَشَى مَعَهَا. وَقَدْ مَضَى عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ ،
لَوْ عَلِمْتُ أَنَّهُ نَجِسٌ لَمْ أَمْسَهُ.
وَرُوي فِي ذَلِكَ عَن حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ مَرْفُوعًا.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا

حدیث نمبر: 1449

ترجمہ:

(١٤٥٠) (سید بن مسیبؓ فرماتے ہیں: میت کو غسل دے

كر غسل كرنا سنت هے اور قبر ميں اتارتے ہوئے باوضو
هونا بهى سنت هے يهاں تك كه دفن كر ديا جائے۔ اس كے
علاوه كسى پر بهى وضو نهين هے جو اس كى نماز جنازه
پڑھے اور نه اس پر جو اس كے جنازے كو اٹھائے اور نه
اس پر جو اس كے ساتھ چلے۔ ابن مسيب كا قول گزر چكا
هے كه اگر مجھے معلوم هو يه نجس هے ميں اس كو كبهى نه
چھوؤں (يعنى ان كے نزديك ميت ناپاك نهين هے)۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Taking a bath after washing the
deceased

Hadith number: 1449

Translation:

(1449) Saeed ibn Musayyib (may Allah have
mercy on him) says: It is Sunnah to take a
bath after washing the deceased, and it is
also Sunnah to be in a state of

ablution while lowering him into the grave until he is buried. No ablution is required for anyone apart from the one who offers his funeral prayers, not on the one who carries his funeral, nor on the one who accompanies it (to the grave). The saying of Ibn Musayyib has been mentioned previously that if I knew that it was impure, I would never touch it (i.e. the corpse is not impure according to him).

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1450

Arabic Text:

حَدَّثَنَا الْفَقِيهُ أَبُو إِسْحَاقَ :إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ (١٤٥١)
الْأَزْمَوِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ النَّسَوِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ
النَّسَوِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا
مَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((:مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ))-
وَقَالَ غَيْرُهُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرَيْرَةَ- وَقَالَ أَبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ سَمِعَ أَبَا بُرَيْرَةَ-
قَالَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ :خَبَرُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ حُذَيْفَةَ سَاقِطٌ قَالَ وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ :لَا يَنْبُتُ فِيهِ حَدِيثٌ-
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى :وَالْمَشْهُورُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ
نَاجِيَةَ بْنِ كَعْبِ الْأَسَدِيِّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاكى كا بيان

باب: ميت كو غسل دينے كے بعد غسل كرنا

حديث نمبر: 1450

:ترجمہ

(۱۴۵۱) (حذيفه^{رض} روايت ہے كہ رسول الله ﷺ نے فرمايا: جو

ميت كو غسل دے وہ غسل كرے۔

ب) (امام على بن مدينى كہتے ہيں كہ اس باب ميں كوئى

حديث ثابت نہيں ہے۔

ج) (شيخ كہتے ہيں كہ سيدنا على^{رض} سے مشہور روايت منقول

ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Taking a bath after washing the
deceased

Hadith number: 1450

Translation:

(1450) Hudhayfah (may Allah be pleased with him) narrated that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: Whoever washes the deceased should take a bath.

(B) Imam Ali ibn Madini says that there is no proven hadith in this chapter.

(C) Sheikh says that there is a famous tradition narrated from Syeduna Ali (may Allah be pleased with him).

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1451

Arabic Text:

كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ: الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ (١٤٥٢) عَلِيٍّ الْفَقِيهَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ شَوذِبِ الْمُقْرِيَّ بِوَاسِطِ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ كَعْبِ الْأَسَدِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَمَّا تُوَفِّيَ أَبُو طَالِبٍ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ - فَقُلْتُ: يَا

رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَمَّكَ الضَّلَّ قَدْ هَلَكَ. قَالَ: فَاَنْطَلِقْ فَوَارِهِ - ، فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِمُؤَارِيهِ. قَالَ: ((فَمَنْ يُؤَارِيهِ؟ انْطَلِقْ فَوَارِهِ وَلَا تُحَدِّثَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنِي)) (- فَاَنْطَلَقْتُ فَوَارِيْتُهُ فَأَمَرَنِي أَنْ أَغْتَسِلَ ثُمَّ دَعَا لِي بِدَعَوَاتٍ وَمَا يَسُرُّنِي بِهَا مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ -

وَرَوَاهُ أَيْضًا الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ وَشَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ وَرَوَاهُ الْأَعْمَشُ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَلِيٍّ - وَنَاجِيَةَ بْنِ كَعْبِ الْأَسَدِيِّ لَمْ تَنْبُتْ عَدَالَتُهُ عِنْدَ صَاحِبِي الصَّحِيحِ وَلَيْسَ فِيهِ: أَنَّهُ غَسَّلَهُ -

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْبَرَائِيِّ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ
حَدِيثَ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - أَمَرَهُ أَنْ
يُورِيَ أَبَا طَالِبٍ -

لَمْ نَجِدْهُ إِلَّا عِنْدَ أَهْلِ الْكُوفَةِ - وَفِي إِسْنَادِهِ بَعْضُ الشَّيْءِ ، رَوَاهُ
أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ نَاجِيَةَ ، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَى عَنْ نَاجِيَةَ
غَيْرَ أَبِي إِسْحَاقَ -

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: وَقَدْ رُوِيَ مِنْ وَجْهِ آخَرَ ضَعِيفٌ عَنْ عَلِيٍّ
بِهَذَا -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا

حدیث نمبر: 1451

ترجمہ:

(۱۴۵۲) (سیدنا علیؑ سے روایت ہے کہ جب ابوطالب فوت ہو گئے تو میں نبی ﷺ کے پاس آیا، میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ کا گمراہ چچا فوت ہو گیا، آپ

ﷺ نے فرمایا: جا اس کو کسی گڑھے چھپادے، میں نے کہا
 میں اس کو نہیں چھپاؤں گا، آپ نے فرمایا: کون اس کو
 چھپائے گا؟ جا اس کو چھپادے کسی کو کچھ نہ بتانا پھر
 میرے پاس آجانا۔ میں چلا میں نے ان کی میت کو چھپادیا،
 آپ ﷺ نے مجھ کو حکم دیا کہ میں غسل کروں، پھر آپ ﷺ
 نے میرے لیے دعا کی اور اس دعا سے میں اتنا خوش ہوا
 کہ زمین پر کسی چیز سے خوش نہیں ہوا۔
 (ب) (ناجیہ بن کعب اسدی کی عدالت امام بخاری و مسلم کے
 ہاں ثابت نہیں اور نہ ہی یہ الفاظ اَنَّهٗ غَسَّلَهٗ۔
 (ج) (امام علی بن مدینی کہتے ہیں کہ حدیث علیؓ جس میں
 ہے کہ آپ ﷺ نے انہیں ابوطالب کو چھپانے کا حکم دیا،
 ہمیں صرف اہل کوفہ سے ملی اور اس کی سند میں قابل
 گرفت چیزیں ہیں۔ ناجیہ سے ابو اسحاق نے روایت کیا ہے
 اور ہم نہیں جانتے کہ ابو اسحاق کے علاوہ کسی دوسرے
 نے ناجیہ سے روایت کیا ہو۔
 (د) (امام احمد) رح (فرماتے ہیں: سیدنا علیؓ سے ایک
 ضعیف سند سے یہی روایت اسی طرح بیان کی گئی ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Taking a bath after washing the deceased

Hadith number: 1451

Translation:

(1451) It is narrated on the authority of Ali (may Allah be pleased with him) that when Abu Talib died, I came to the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) and said: O Messenger of Allah! Your misguided uncle has died. He said: Go and bury him in a pit. I said: I will not bury him. He said: Who will bury him? Go and bury him, don't tell anything to anyone, then come to me. I went and buried his corpse. He (the Prophet) ordered me to take a bath. Then he prayed for me and I was so happy with this prayer that nothing on the earth made me happy.

(B) Imam Ali ibn Madini says that the hadeeth of Ali (may Allah be pleased with him) in which it is mentioned that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) ordered him to bury Abu Talib, we have received it only from the people of Kufa and there are questionable things in its chain of transmission. Abu Ishaq narrated from Najiah and we do not know if anyone other than Abu Ishaq narrated from Najiah.

(C) Imam Ahmad (may Allah have mercy on him) says: The same narration has been narrated from Syeduna Ali (may Allah be pleased with him) with a weak chain of transmission.

[Sahih. Narrated by Nasai 190, 2008 and Abu Dawud 3214 and Ahmad 1/97, 131]

Sunan Kubra Bayhaqi 1452

Arabic Text:

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ إِمْلَأْ أَخْبَرَنَا (١٤٥٣)
أَبُو إِسْحَاقَ : إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الدُّبَيْلِيُّ بِمَكَّةَ حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدِ الصَّائِعِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَزِيدَ الْأَصَمِّ قَالَ سَمِعْتُ السُّدِّيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي
عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
لَمَّا تُوِّفِيَ أَبُو طَالِبٍ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - فَقُلْتُ : إِنَّ عَمَّكَ
الشَّيْخَ قَدْ مَاتَ ، فَقَالَ لِي ((: اذْهَبْ فَوَارِهِ ، ثُمَّ لَا تُحَدِّثْ شَيْئًا
حَتَّى تَأْتِيَنِي)) (فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ ، فَدَعَا لِي بِدَعَوَاتٍ مَا
يَسُرُّنِي بِهَا

حُمْرُ النَّعَمِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا

حدیث نمبر: 1452

:ترجمہ

(۱۴۵۳) (سیدنا علی بن ابی طالبؓ سے روایت ہے کہ جب ابوطالب فوت ہو گئے تو میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا، میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ کا بوڑھا چچا فوت ہو گیا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا: جا اس کو چھپادے اور کسی کو کچھ کچھ نہ بتانا، پھر میرے پاس آجانا۔ میں نے غسل کیا، پھر آپ کے پاس آیا، آپ نے میرے لیے دعا کی جو مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب تھی۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Taking a bath after washing the deceased

Hadith number: 1452

Translation:

(1452) It is narrated on the authority of Ali ibn Abu Talib (may Allah be pleased with him) that when Abu Talib died, I came to the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) and said: O Messenger of Allah! Your old uncle has died. He said to me: Go and bury him and do not tell anything to anyone, then come to me. I took a bath, then went to him, he prayed for me which was dearer to me than red camels.

[Hasan (Fair)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1453

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ (١٤٥٤)
الْفَضْلِ النَّضْرَوِيُّ الْهَرَوِيُّ بِهَا حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ حَدَّثَنَا
سَعِيدٌ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ زَادَ: حُمْرُ النَّعَمِ وَسُودُهَا. وَكَانَ
عَلَى إِذَا غَسَلَ مَيِّتًا اغْتَسَلَ. تَفَرَّدَ بِهِ الْحَسَنُ بْنُ يَزِيدَ الْأَصَمِّ
بِإِسْنَادِهِ هَذَا.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان
باب: میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا

حدیث نمبر: 1453

:ترجمہ

(۱۴۵۴) سعید نے اسی سند سے اسی طرح بیان کیا ہے اور یہ اضافہ کیا ہے کہ سرخ اوٹنیاں اور ان کی سیاہی۔ سیدنا علیؑ جب میت کو غسل دیتے تو غسل کرتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Taking a bath after washing the deceased

Hadith number: 1453

Translation:

(1453) Saeed has narrated the same from the same sanad and added red camels and their ink. Syeduna Ali (may Allah be pleased with him) used to take a bath when he used to wash the deceased.

[Hasan (Fair)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1454

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ : عَبْدُ اللَّهِ (١٤٥٥) ،
بْنُ عَدِيِّ الْحَافِظُ قَالَ : الْحَسَنُ بْنُ يَزِيدَ الْكُوفِيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ
وَحَدِيثُهُ عَنِ السُّدِّيِّ لَيْسَ بِالْمَحْفُوظِ ، وَمَدَارُ هَذَا الْحَدِيثِ
الْمَشْهُورِ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ السَّبَّيْعِيِّ عَنْ نَاجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ عَنْ
عَلِيِّ-

قَالَ الشَّيْخُ : وَقَدْ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرَوِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ
أَبِي عَلِيٍّ اللَّهْبِيِّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ
عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : دَخَلَ عَلِيُّ

، بِنُ أَبِي طَالِبٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَأَخْبَرَهُ بِمَوْتِ أَبِي طَالِبٍ
فَقَالَ ((:فَاذْبَبْ فَاغْسِلْهُ ، وَلَا تُحَدِثَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَأْتِيَنِي))-
فَغَسَلْتُهُ وَوَارَيْتُهُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ ((:اذْبَبْ فَاغْتَسِلْ))-

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ : مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّوْقَانِيُّ بِهَا
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْفَهَانِيُّ الصَّفَّارُ
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ
الْفَرَوِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي عَلِيٍّ فَذَكَرَهُ ، وَبِذَا مُنْكَرٌ لَا
أَصْلَ لَهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ-

وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي عَلِيٍّ اللَّهْبِيُّ ضَعِيفٌ جَرَّحَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ
وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ ، وَجَرَّحَهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ
النَّسَائِيُّ ، وَيُرْوَى عَنْ عَلِيٍّ مِنْ وَجْهِ آخَرَ بِكَذَا وَإِسْنَادُهُ
ضَعِيفٌ- وَرُويَ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ قَوْلِهِ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب : پاکی کا بیان

باب : میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا

حدیث نمبر : 1454

ترجمہ:

(۱۴۵۵) (شیخ کہتے ہیں: سیدنا اسامہ بن زید^{رض} سے روایت ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب^{رض} رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ابو طالب کی موت کی خبر دی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جا اسے غسل دے اور کسی کو کچھ نہ بتانا میرے پاس آجانا، میں نے اسے غسل دیا اور اس کو چھپایا، پھر میں آپ کے پاس آیا، آپ ﷺ نے فرمایا: جا غسل کر۔ (ب) (یہ روایت منکر ہے اس کی کوئی اصل نہیں۔) (ج) (علی بن ابو عل لہبی ضعیف ہے اس پر امام احمد (رح) یحییٰ بن معین (رح)، امام بخاری (رح)، اور امام نسائی (رح) نے جرح کی ہے۔ سیدنا علی^{رض} سے ایک دوسری سند سے منقول ہے، اس کی سند ضعیف ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Taking a bath after washing the deceased

Hadith number: 1454

Translation:

(1454) Shaykh says: It is narrated from Usama bin Zayd that Ali ibn Abi Talib (may Allah be pleased with him) came to the service of the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) and announced the death of Abu Talib. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: Go and wash him and do not tell anything to anyone, (instead) come to me. I washed him and buried him. Then I came to him. He said: Go and take a bath.

(B) This tradition is munkar, it has no basis.

(C) Ali ibn Abu al-Lahabi is weak. He has been examined by Imam Ahmad, Yahya ibn Mu'in, Imam Bukhari, and Imam Nasai (may Allah have mercy on them). It is narrated from Syeduna Ali from another

chain of transmission. Its chain of transmission is weak.

[Daif Jiddan (Very Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1455

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ (١٤٥٦)
بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُقَاتِلِ بْنِ صَالِحٍ حَدَّثَنَا أَبِي
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزَّبْرِقَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: لَمَّا مَاتَ
-أَبُو طَالِبٍ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ -

فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاتَ الشَّيْخُ الضَّالُّ - فَقَالَ النَّبِيُّ - ﷺ - ((:اذْهَبْ
 فَاغْسِلْهُ وَكَفِّنْهُ - فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا؟ فَقَالَ :وَمَنْ أَحَقُّ
 بِذَلِكَ مِنْكَ؟ اذْهَبْ فَاغْسِلْهُ وَكَفِّنْهُ وَجَنِّنْهُ ، وَلَا تُحَدِثَنَّ شَيْئًا
 حَتَّى تَأْتِيَنِي)) (- فَاِنْطَلَقْتُ فَفَعَلْتُ - قَالَ - فَلَمَّا أَتَيْتُهُ قَالَ)) : اذْهَبْ
 فَاغْتَسِلْ غُسْلَ الْجَنَابَةِ)) (- هَذَا غَلَطٌ وَالْمَشْهُورُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ
 نَاجِيَةَ عَنْ عَلِيٍّ كَمَا تَقَدَّمَ -
 وَصَالِحُ بْنُ مُقَاتِلِ بْنِ صَالِحِ يَرْوِي الْمَنَاكِيْرَ -
 وَرَوَى فِي ذَلِكَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ قَوْلِهِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب : پاکی کا بیان
 باب : میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا
 حدیث نمبر : 1455

:ترجمہ

(۱۴۵۶) (سیدنا علی بن ابی طالبؓ سے روایت ہے کہ جب
 ابوطالب فوت ہوئے تو میں رسول اللہ کے پاس آیا، میں نے
 کہا : اے اللہ کے رسول! گمراہ بوڑھا فوت ہو گیا۔

نبی ﷺ نے فرمایا: جا اس کو غسل دے اور کفن دے۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں؟ آپ نے فرمایا: تجھ سے زیادہ کون حق دار ہے؟ جا اس کو غسل دے اور کفن دے کر دفنادے اور کسی سے کچھ بات نہ کرنا جب تک میرے پاس نہ آجاؤ، میں چلا اور میں نے یہ کام کیا۔ سیدنا علیؓ فرماتے ہیں: جب میں آپ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا: جا جنابت والا غسل کر۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Taking a bath after washing the deceased

Hadith number: 1455

Translation:

(1455) It is narrated on the authority of Ali ibn Abi Talib (may Allah be pleased with him) that when Abu Talib died, I came to the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) and said:

O Messenger of Allah! The misguided old man has died. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: Go and wash him and shroud him. I said: O Messenger of Allah! Me? He said: Who is more deserving than you? Go wash him and bury him with a shroud and don't talk to anyone until you come to me, I went and I did it. Syeduna Ali (may Allah be pleased with him) says: When I came to the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him), he said: Go and take a bath like the one that is done for major impurity.

[Daif, Munkar (Weak, Odd)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1456

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ (١٤٥٧)
الْقَاضِي قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبُدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ
عَمْرٍو عَنْ زَيْدٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ
أَنَّهُ قَالَ: مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ- وَرُويَ فِي ذَلِكَ عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ مِنْ قَوْلِهِ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان
باب: میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا
حدیث نمبر: 1456

ترجمہ:

(۱۴۵۷) (سیدنا علیؓ سے روایت ہے بیشک وہ کہتے ہیں جو میت کو غسل دے وہ غسل کرے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Taking a bath after washing the deceased

Hadith number: 1456

Translation:

(1456) It is narrated on the authority of Syeduna Ali (may Allah be pleased with him) that he says that whoever washes the deceased should take a bath.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1457

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ (١٤٥٨)
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا
الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مَطْرِ عَنْ عَمَّارِ
بْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ غَسَلَ مِيْتًا فَلْيَغْتَسِلْ.
كَذَا رَوَى عَنْهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَالصَّحِيحُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
خِلَافَ ذَلِكَ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا

حدیث نمبر: 1457

ترجمہ:

(۱۴۵۸) سیدنا ابن عباسؓ فرماتے ہیں: جو میت کو غسل دے

وہ غسل کرے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Taking a bath after washing the deceased

Hadith number: 1457

Translation:

(1457) Sywduna Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) says: Whoever washes the deceased should take a bath.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1458

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا (١٤٥٩)
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَائٍ
:قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَلْ عَلَى مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا غُسْلًا؟ فَقَالَ
:أَنْجَسْتُمْ صَاحِبَكُمْ ، يَكْفِي مِنْهُ الْوُضُوءُ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
کتاب: پاکی کا بیان

باب: میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا

حدیث نمبر: 1458

:ترجمہ

(۱۴۵۹) (عطاء سے روایت ہے کہ ابن عباسؓ سے سوال کیا گیا: کیا اس شخص پر غسل ہے جو میت کو غسل دے؟ انہوں نے کہا: کیا تمہارے ساتھی نے تم کو ناپاک کر دیا ہے، اس سے وضو ہی کافی ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Taking a bath after washing the deceased

Hadith number: 1458

Translation:

(1458) It is narrated on the authority of Ata that Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) was asked: Is taking a bath required for the one who washes the deceased? He

said: Has your companion declared you to be impure? Ablution alone is sufficient.
[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1459

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو (١٤٦٠)
قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَسِيدُ بْنُ عَاصِمٍ
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ سَعِيدِ
بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْغُسْلِ مَنْ غَسَلَ الْمَيِّتِ
فَقَالَ: أَنْجَسُ بِهِمْ فَتَغْتَسِلُونَ

مِنْهُمْ؟ يَعْنِي الْغُسْلَ مِنْ غَسْلِ الْمَيِّتِ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

كتاب: پاکی کا بیان

باب: میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا

حدیث نمبر: 1459

:ترجمہ

(۱۴۶۰) (سیدنا ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ان سے میت کو غسل دینے کے بعد غسل کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: کیا وہ ناپاک ہے کہ تم اس سے غسل کرو؟

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Taking a bath after washing the deceased

Hadith number: 1459

Translation:

(1459) It is narrated on the authority of Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) that he was asked about taking a bath after washing the deceased so he said: Is it impure that you would bathe after (washing) it?

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1460

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ (۱۴۶۱)
إِسْحَاقَ الصَّغَانِيَّ حَدَّثَنَا مُعَلَّى وَمَنْصُورُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا
سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ
، ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي غَسْلِ مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَلْتُمُوهُ
إِنَّ مَيِّتَكُمْ لِمُؤْمِنٍ طَابِرٌ ، وَلَيْسَ بِنَجِسٍ فَحَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا
أَيْدِيَكُمْ-
وَرُويَ هَذَا مَرْفُوعًا وَلَا يَصِحُّ رَفْعُهُ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا

حدیث نمبر: 1460

:ترجمہ

(۱۴۶۱) (سیدنا ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ میت کو غسل

دینے سے تم پر غسل واجب نہیں ہے، جب تم ان کو غسل

دیچکو۔ تمہاری میت مؤمن پاک ہیں ناپاک

نہیں، تم کو کافی ہے کہ تم اپنے ہاتھوں کو دھوؤ۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Taking a bath after washing the deceased

Hadith number: 1460

Translation:

(1460) It is narrated on the authority of Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) that it is not obligatory upon you to take a bath after washing the deceased, your dead believers are pure, not impure. It is enough for you to wash your hands.

[Hasan (Fair)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1461

Arabic Text:

:أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ (١٤٦٢)
الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ
الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو شَيْبَةَ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ
مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ
عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((: لَيْسَ
عَلَيْكُمْ فِي غَسْلِ مَيِّتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَلْتُمُوهُ، إِنَّهُ مُسْلِمٌ مُؤْمِنٌ
طَاهِرٌ، وَإِنَّ الْمُسْلِمَ لَيْسَ بِنَجِسٍ، فَحَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ))-.
بَذَا ضَعِيفٍ-
وَالْحَمْلَ فِيهِ عَلَى أَبِي شَيْبَةَ كَمَا أَظُنُّ، وَرُويَ بَعْضُهُ مِنْ وَجْهِ
آخَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا

حدیث نمبر: 1461

:ترجمہ

(۱۴۶۲) (سیدنا ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " :میت کو غسل دینے سے تم پر غسل واجب نہیں ہے، جب تم ان کو غسل دو، وہ مسلمان مؤمن پاک ہے اور مسلمان ناپاک نہیں ہوتا، تم کو کافی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو دھوؤ۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Taking a bath after washing the deceased

Hadith number: 1461

Translation:

(1461) It is narrated on the authority of Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "Taking a bath is not obligatory upon you after washing the deceased, when you wash them that Muslim believer is pure and the Muslim is never impure, it is enough for you to wash your hands.

[Daif, Munkar (Weak, Odd). Narrated by Hakim 1/543]

Sunan Kubra Bayhaqi 1462

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ (١٤٦٣)
عِصْمَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْعَدْلُ حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ: الْمُسَيَّبُ بْنُ زُبَيْرِ
الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَائِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((لَا تُنَجِّسُوا
(مَوْتَاكُمْ، فَإِنَّ الْمُسْلِمَ لَيْسَ بِنَجِسٍ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا
وَهَكَذَا رُوِيَ مِنْ وَجْهِ آخَرَ غَرِيبٍ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ
وَالْمَعْرُوفُ مَوْقُوفٌ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا

حدیث نمبر: 1462

:ترجمہ

(۱۴۶۳) (سیدنا ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم اپنے مردوں کو ناپاک نہ کہو، بیشک مسلمان زندہ یا مُردہ ناپاک نہیں ہوتا۔
(ب) (ایک دوسری غریب سند سے ابن عیینہ سے منقول ہے اور اس کا موقوف ہونا معروف ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Taking a bath after washing the deceased

Hadith number: 1462

Translation:

(1462) It is narrated on the authority of Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: Do not call your dead impure, verily, a Muslim is never impure, whether alive or dead.

(B) This is narrated from Ibn Uyaynah with a ghareeb (strange) chain of transmission and it is well known that it is mawquf.

[Daif, Munkar (Weak, Odd). Narrated by Hakim 1/542]

Sunan Kubra Bayhaqi 1463

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْنَانِيُّ أَخْبَرَنَا (١٤٦٤)
أَبُو الْحَسَنِ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِوَسِّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ
سَعِيدِ الدَّارِمِيِّ حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ
الْفَزَارِيُّ عَنْ عَطَائِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ
قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: أَيُعْتَسَلُ مِنْ غَسَلِ الْمَيِّتِ؟ فَقَالَ: مَا الْمَيِّتُ؟
فَقُلْتُ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ مُؤْمِنًا قَالَ فَتَمَسَّحَ بِالْمُؤْمِنِ مَا
اسْتَطَعْتَ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا
حدیث نمبر: 1463

:ترجمہ

(١٤٦٤) (سیدنا سعید بن جبیر^{رض} فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا
ابن عمر^{رض} سے پوچھا: کیا میت کو غسل دینے سے

غسل کیا جائے گا؟ انہوں نے فرمایا: کیا میت ہے؟ میں نے کہا: میں امید کرتا ہوں کہ وہ مؤمن ہوگا۔ انہوں نے کہا: تو مؤمن کو چھو، جنتی طاقت رکھتا ہے (یعنی میت کو چھو سکتا ہے، غسل دے سکتا ہے)۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Taking a bath after washing the deceased

Hadith number: 1463

Translation:

(1463) Saeed ibn Jubayr (may Allah have mercy on him) says that I asked Ibn Umar (may Allah be pleased with him): Is there ghusl for someone who washes the deceased? I said: I hope that he was a believer. He said: You can touch the believer, what ever your strength allows you (i.e. you can touch the deceased and

you can bathe it).

[Hasan (Fair)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1464

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ (١٤٦٥)
يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَايٍ
أَخْبَرَنَا الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: مَنْ
غَسَلَ مَيِّتًا فَأَصَابَهُ مِنْهُ شَيْءٌ فَلْيَغْتَسِلْ وَإِلَّا فَلْيَتَوَضَّأْ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاكى كا بيان

باب: ميت كو غسل دينے كے بعد غسل كرنا

حدیث نمبر: 1464

:ترجمہ

(۱۴۶۵) نافع سے روایت ہے کہ سیدنا ابن عمرؓ فرماتے ہیں: جو میت کو غسل دے اور اگر اس کو کوئی چیز لگ جائے تو وہ غسل، اور ورنہ وضو۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Taking a bath after washing the deceased

Hadith number: 1464

Translation:

(1464) It is narrated from Nafi that Ibn Umar (may Allah be pleased with him) said: Whoever washes the deceased and something falls on him, then taking a bath (is required), otherwise (only) ablution (is required).
[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1465

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ (١٤٦٦)
عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا ابْنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
الْمُخَرَّمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بِشَامٍ: الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْرُومِيُّ
حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ: كُنَّا نُغَسِّلُ الْمَيِّتَ فَمِنَّا مَنْ يَغْتَسِلُ وَمِنَّا مَنْ لَا يَغْتَسِلُ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا

حدیث نمبر: 1465

:ترجمہ

(1466) (سیدنا ابن عمر^{رض} سے روایت ہے کہ ہم میت کو غسل

دیتے تھے بعض ہم میں سے غسل کر لیتے اور بعض نہ

کرتے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Taking a bath after washing the deceased

Hadith number: 1465

Translation:

(1465) It is narrated from Ibn Umar (may Allah be pleased with him) that we used to wash the deceased, some of us used to take a bath and some did not.

[Sahih. Narrated by Al-Daraqutni 2/72 and Al-Khateeb in his Tareekh 5/424]

Sunan Kubra Bayhaqi 1466

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بَشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا (١٤٦٧)
إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا
أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قَالَ نَافِعٌ : كُنَّا
نُغَسِّلُ الْمَيِّتَ فَيَتَوَضَّأُ بَعْضُنَا وَيَغْتَسِلُ بَعْضٌ ، ثُمَّ نَعُودُ
فَنُكْفِيهِ ثُمَّ نُحَنِّطُهُ وَنُصَلِّي عَلَيْهِ وَلَا نُعِيدُ الْوُضُوءَ .

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

كتاب : پاکی کا بیان

باب : میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا

حدیث نمبر : 1466

ترجمہ:

(۱۴۶۷) نافع^{رض} فرماتے ہیں کہ ہم میت کو غسل دیتے تھے ہمارے بعض ساتھی وضو کرتے اور بعض غسل، پھر ہم واپس آتے اور اس کو کفن دیتے پھر اس کو خوشبو لگاتے اور اس کی نماز جنازہ پڑھتے اور دوبارہ وضو نہیں کرتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Taking a bath after washing the deceased

Hadith number: 1466

Translation:

(1466) Nafi says that we used wash the deceased, some of our companions used to perform ablution and some used to take a bath, then we would come back and shroud it, then apply perfume to it and

offer the funeral prayers and we would not perform ablution again.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1467

Arabic Text:

وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ أَخْبَرَنِي شُعَيْبٌ قَالَ قَالَ نَافِعٌ قَدْ رَأَيْتُ (١٤٦٨)
عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَنْطَ سَعِيدَ بْنِ زَيْدٍ وَحَمَلَهُ فِيمَنْ حَمَلَهُ ثُمَّ
دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا

حدیث نمبر: 1467

:ترجمہ

(۱۴۶۸) نافعؓ فرماتے ہیں: میں نے سیدنا عبداللہ بن عمر کو دیکھا، انہوں نے سعید بن زیدؓ کو خوشبو لگائی اور اس کو اٹھانے والوں میں وہ بھی شامل تھے۔ پھر مسجد میں داخل ہوئے اور نماز جنازہ پڑھی لیکن وضو نہیں کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Taking a bath after washing the deceased

Hadith number: 1467

Translation:

(1467) Nafi says: I saw Abdullah ibn Umar (may Allah be pleased with him), he perfumed Saeed ibn Zayd and he was one of those who carried him. Then he entered the mosque and offered the funeral prayer but did not perform ablution.

[Sahih. Narrated by AbdulRazzaq 6115]

Sunan Kubra Bayhaqi 1468

Arabic Text:

وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ (١٤٦٩)
الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
عُثْمَانَ بْنِ كَرَامَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ
أَبِي عَبْدِ الْغَفَّارِ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ
قَالَتْ: غَسَلَ سَعْدٌ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ وَحَنَطَهُ ثُمَّ أَتَى الْبَيْتَ
فَاغْتَسَلَ ثُمَّ قَالَ لَنَا: إِنِّي لَمْ أَغْتَسِلْ مِنْ غَسَلِي إِيَّاهُ، وَلَكِنِّي
اغْتَسَلْتُ مِنَ الْحَرِّ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا

حدیث نمبر: 1468

ترجمہ:

(١٤٦٩) (عائشہ بنت سعد بن ابی وقاصؓ سے روایت ہے کہ
سعدؓ نے سعید بن زیدؓ کو غسل دیا اور اس کو خوشبو لگائی
:لگائی پھر گھر آئے، غسل کیا اور ہم سے کہا

میں نے اس کو غسل دینے کی وجہ سے غسل نہیں کیا بلکہ گرمی کی وجہ سے غسل کیا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Taking a bath after washing the deceased

Hadith number: 1468

Translation:

(1468) It is narrated on the authority of Ayesha bint Saad bin Abi Waqas that Saad (may Allah be pleased with him) washed Saeed bin Zayd and perfumed him, then came home, took a bath and said to us: I did not take a bath because I washed him rather I took a bath because of the heat.

[Sahih. Narrated by Hakim 3/497]

Sunan Kubra Bayhaqi 1469

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدٍ : أَحْمَدُ (١٤٧٠)
بْنُ عَلِيِّ الْمُقْرِيءُ مِنْ كِتَابِ عَتِيقٍ حَدَّثَنَا أَبُو فَرْوَةَ : يَزِيدُ
بْنُ مُحَمَّدٍ بِنِ يَزِيدَ بِنِ سِنَانَ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي أَبِي يَزِيدَ بِنِ
سِنَانَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بِنِ أَبِي أَنَيْسَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ
عَلْقَمَةَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : إِنْ كَانَ صَاحِبُكُمْ نَجَسًا
فَاغْتَسِلُوا وَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا فَلَمْ نَغْتَسِلْ مِنْ الْمُؤْمِنِ - إِسْنَادُهُ لَيْسَ
بِالْقَوِيِّ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا

حدیث نمبر: 1469

ترجمہ:

(۱۴۷۰) (سیدنا ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا ساتھی ناپاک ہے تو تم غسل کرو اور اگر مؤمن ہے تو ہم مؤمن سے غسل کیوں کریں۔ اس کی سند قوی نہیں ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Taking a bath after washing the deceased

Hadith number: 1469

Translation:

(1469) Ibn Masud (may Allah be pleased with him) says that if your partner is impure then you should take a bath and if he is a believer then why should we take a

bath because of a believer.

Its sanad (chain of transmission) is not strong.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence). Narrated by Ibn Abi Shaybah 11138]

Sunan Kubra Bayhaqi 1470

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ (١٤٧١)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ
عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: قُمْتُ إِلَى أَنَسٍ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ
الْوُضُوءِ مِنَ الْجَنَائِزِ فَقَالَ: إِنَّمَا كُنَّا فِي صَلَاةٍ وَرَجَعْنَا إِلَى
صَلَاةٍ فَلَا وُضُوءَ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا

حدیث نمبر: 1470

:ترجمہ

(۱۴۷۱) (مکحول سے روایت ہے کہ میں اس مسجد میں انس
کی ایک جانب کھڑا ہوا، میں نے جنازے سے وضو کے
متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا، پہلے ہم نماز میں تھے اور
اب ہم نماز (جنازہ) کی طرف ہی لوٹے ہیں لہذا (کوئی وضو
وضو نہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Taking a bath after washing the deceased

Hadith number: 1470

Translation:

(1470) It is narrated from Makhul that I stood on one side of Anas (may Allah be pleased with him) in this mosque, when I asked him about the ablution regarding the the funeral, he said, first we were in prayer and now we return to the (funeral) prayer (so there is) no ablution.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1471

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ (١٤٧٢)
يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ
:أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ
سُبْحَانَ اللَّهِ أَمْوَاتُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْجَاسٌ ، وَهَلْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ أَخَذَ
عُودًا فَحَمَلَهُ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا

حدیث نمبر: 1471

:ترجمہ

١٤٧٢ (ؓ) محمد بن ابراہیم سے روایت ہے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں: سبحان اللہ! کیا مومنوں کی میتیں ناپاک ہیں!! یہ تو ایسے ہے جیسے ایک آدمی نے لکڑی پکڑی اس کو اٹھالیا (یعنی مردے ناپاک نہیں ہیں۔)

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Taking a bath after washing the deceased

Hadith number: 1471

Translation:

(1471) It is narrated on the authority of Muhammad ibn Ibrahim that Syeda Ayesha (may Allah be pleased with her) says: Glory be to Allah! Are the corpses of the believers impure? It's like a man holding a stick and picking it up (i.e. the dead are not impure).

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1472

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو (١٤٧٣)
قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا هَارُونَ بْنُ
سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ
سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عَمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ بَابْنُوسَ قَالَ
:قُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا تَقُولِينَ فِي الْعِرَاقِ؟ قَالَتْ: الْحَيْضُ تَعْنُونَ؟ قُلْنَا
نَعَمْ.

قَالَتْ: سَمُّوهُ كَمَا سَمَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاكى كا بيان

باب: ميت كو غسل دينے كے بعد غسل كرنا

حدیث نمبر: 1472

:ترجمہ

(۱۴۷۳ھ) یزید بن باینوس فرماتے ہیں: میں نے سیدہ عائشہ سے کہا: آپ "عراک" کے متعلق کیا فرماتی ہیں؟ انہوں نے فرمایا: تم حیض مراد لیتے ہو؟ ہم نے کہا: جی ہاں، انہوں نے کہا: اس کو وہی نام دوجو اللہ نے دیا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Taking a bath after washing the deceased

Hadith number: 1472

Translation:

(1472) Yazid ibn Babnus says: I said to Ayesha (may Allah be pleased with her): What do you say about "Araak"? She said: Do you mean menstruation? We said: Yes, she said: Give it the same name which Allah has given.

[Daif (Weak). Narrated by Ahmad 6/219]

Sunan Kubra Bayhaqi 1473

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ: أَحْمَدُ (١٤٧٤)
بْنُ سَهْلٍ الْفَقِيهُ بِبُخَارَى أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ
جَزْرَةَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ
إِدْرِيسَ أَبُو حَاتِمٍ وَأَحْمَدُ بْنُ حَمَوَيْهِ أَبُو سِنَانٍ الْبُلْخِيُّ
التَّقْفِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ
:عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ
خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - فِي الْأَضْحَى أَوْ الْفِطْرِ إِلَى الْمُصَلَّى
فَصَلَّى ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَوَعِظَ النَّاسَ ، وَأَمَرَهُمْ بِالصَّدَقَةِ فَقَالَ
أَيُّهَا النَّاسُ تَصَدَّقُوا - ثُمَّ انْصَرَفَ فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ :
فَقَالَ :يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ ، فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ
- فَقُلْنَ :وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ :تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ
الْعَشِيرَ ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَدْبَبَ لِلْبِّ
الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْكُنَّ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ - فَقُلْنَ لَهُ :وَمَا نُقْصَانُ
عَقْلِنَا وَدِينِنَا؟ قَالَ :أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ نِصْفِ شَهَادَةِ
، الرَّجُلِ ؟ - قُلْنَ :بَلَى- قَالَ :فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا
: أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ الْمَرْأَةُ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ - قُلْنَ :بَلَى- قَالَ
فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا -

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ وَرَوَاهُ
مُسْلِمٌ عَنِ الْخُلَوَانِيِّ وَغَيْرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: حائضہ نہ نماز پڑھے گی اور نہ روزے رکھے گی

حدیث نمبر: 1473

:ترجمہ

(۱۴۷۴) (سیدنا ابو سعید خدریؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ عید الاضحیٰ یا عید الفطر کو عید گاہ کی طرف نکلے، پھر نماز سے فارغ ہوئی تو لوگوں کو نصیحت کی اور ان کو صدقے کا حکم دیا، آپ ﷺ نے فرمایا: "اے لوگو! صدقہ کرو پھر آپ ﷺ واپس عورتوں کی طرف تشریف لے گئے اور " فرمایا: "اے عورتوں کی جماعت! صدقہ کرو۔ میں نے تمہاری اکثریت کو آگ میں دیکھا ہے" انہوں نے کہا: "اے اللہ کے رسول! کیوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "تم اکثر لعن طعن کرتی رہتی ہو اور خاوندوں کی ناشکری کرتی رہتی ہو میں نے نہیں

دیکھا کہ کم عقل اور کم دین والی عقلمند آدمی کی عقل کو لے جاتیں ہوں مگر تمہیں اے عورتوں کی جماعت۔ انہوں نے آپ ﷺ سے کہا: ہماری عقل اور دین کا کیا نقصان ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی کا نصف نہیں ہے؟ انہوں نے کہا: کیوں نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ تمہاری عقل کا نقصان ہے اور کیا ایسا نہیں کہ جب عورت حائضہ ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھتی ہے اور نہ روزے رکھتی ہیں؟ انہوں نے کہا: کیوں نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: "یہ تمہارے دین کا نقصان ہے۔"

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The menstruating woman can not pray nor fast

Hadith number: 1473

Translation:

(1473) It is narrated on the authority of Abu Saeed al-Khudri (may Allah be pleased

with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) went out to the prayer area on Eid ul Fitr or Eid ul Adha. After finishing the prayer, he delivered the sermon and ordered the people to give charity. He said, "O people! Give charity." Then he went towards the women and said. "O women! Give charity, for I have seen that the majority of the dwellers of Fire were you (women)." The women asked, "O Messenger of Allah! What is the reason for it?" He replied, "O women! You curse frequently, and are ungrateful to your husbands. I have not seen anyone more deficient in intelligence and religion than you. O women, some of you can lead a cautious wise man astray. The women asked, "O Messenger of Allah! What is the deficiency in our intelligence and religion?" He said, "Is not the evidence of two women equal to the witness of one

man?" They said: Of course. He said, "This is the deficiency in her intelligence. Isn't it true that a woman can neither pray nor fast during her menses?" The women said: Of course. He said, "This is the deficiency in her religion."

[Sahih. Narrated by Bukhari 304, 1462]

Sunan Kubra Bayhaqi 1474

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ (١٤٧٥)
إِسْحَاقَ الْفَقِيهَ وَأَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُزَكِّي وَاللَّفْظُ لِأَبِي
الْفَضْلِ قَالَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ
مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ: أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ: مَا بَالُ الْحَائِضِ
تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ فَقَالَتْ لَهَا: أَحْرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟
فَقَالَتْ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ. فَقَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا
، ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - فَنُومَرُ بِقَضَائِ الصَّوْمِ
وَلَا نُومَرُ بِقَضَائِ الصَّلَاةِ.
قَالَ مَعْمَرٌ وَأَخْبَرَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ
عَائِشَةَ مِثْلَهُ.

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ
الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَاصِمٍ وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادٍ
عَنْ أَيُّوبَ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: حائضہ روزہ کرے گی لیکن نماز قضا نہیں کرے گی

حدیث نمبر: 1474

:ترجمہ

(۱۴۷۵) (معاذہ عدویہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے سیدہ عائشہؓ سے سوال کیا: کیا حائضہ روزے کی قضا کرے گی اور نماز کی قضا نہیں کرے گی؟ انہوں نے فرمایا: کیا تو حروریہ ہے؟ اس نے کہا میں حروریہ نہیں ہوں، لیکن میں نے آپ سے سوال کیا ہے۔ انہوں نے کہا: نبی ﷺ کے زمانہ میں ہم کو (حیض) پہنچتا تھا تو ہمیں روزے کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا لیکن نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The menstruating woman can not pray nor fast

Hadith number: 1474

Translation:

(1474) It is narrated from Mu`adha Adawiyyah that a woman asked Ayesha (may Allah be pleased with her): Will the menstruating woman make up the fasts and not make up the prayers (that she missed during her menses)? She said: Are you a **haruri**? She said I am not a **haruri**, but I have asked you a question. She said: In the time of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) when we were menstruating, we were commanded to make up the missed fasts, but we were not ordered to make up the prayers we missed (after our periods were over).

SHARH [EXPLANATION]

Meaning are you one of the Khawarij. Harura is a place associated with a group

of the Khawarij.

[Sahih. Narrated by Bukhari 321 and Muslim 355 and Nasai 382, 2320 and Abu Dawud 262 and Tirmidhi 130 and Ibn Majah 631 and Ahmad 6/32, 94, 98, 120, 143, 185, 231]

Sunan Kubra Bayhaqi 1475

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ (١٤٧٦)
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ الْبَصْرِيِّ بِمَكَّةَ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ
مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ
اللَّهِ - ﷺ - حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرْفٍ أَوْ قَرِيبٍ مِنْهُ حِضْتُ ، فَدَخَلَ
عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ ((مَا لَكَ؟ أَنْفَسْتِ؟))-
قُلْتُ : نَعَمْ- قَالَ ((إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيَّ بَنَاتِ آدَمَ
فَأَقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ إِلَّا الطَّوَّافَ بِالْبَيْتِ))- قَالَتْ : وَذَبَحَ ،
رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أَوْ قَالَتْ ضَحَى بِالْبَقْرِ- رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي
الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ
أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرِهِ عَنْ سُفْيَانَ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب : پاکی کا بیان

باب :حائضہ بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گی

حدیث نمبر :1475

ترجمہ:

(۱۴۷۶) (سیدہ عائشہ رض سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نکلے، یہاں تک کہ ہم "سرف" "جگہ یا اس کے قریب تھے تو مجھے حیض آگیا، میرے پاس رسول اللہ ﷺ تشریف لائے اور میں رو رہی تھی، آپ ﷺ نے فرمایا: کیا ہوا؟ کیا تو حیض والی ہوگئی ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ ایک ایسا حکم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بنات آدم پر لکھ دیا ہے جو حاجی کرتے ہیں وہی کر مگر بیت اللہ کا طواف نہ کرنا۔ سیدہ عائشہ رض نے کہا: رسول اللہ ﷺ نے ذبح کیا یا گائے ذبح کی۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The menstruating woman cannot perform tawaf in the house of Allah

Hadith number: 1475

Translation:

(1475) It is narrated from Syeda Ayesha (may Allah be pleased with her) that we set out with the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) (for Hajj) until we reached a place called Sarif or near it and then I started menstruating. The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) came to me and I was crying, whereupon he said: What happened? Are you menstruating? I said: Yes. He said: This is what Allah has ordained for all the daughters of Adam. Do whatever the pilgrims do except that you should not circumambulate the House. Ayesha (may Allah be pleased with her) says: The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) offered a sacrifice or slaughtered a cow.

[Sahih. Narrated by Bukhari 294, 1560,

1650, 1778, 5548, 5559 and Muslim 1211
and Nasai 291, 349, 2742, 2993 and Abu
Dawud 1782 and Ibn Majah 2963 and
Ahmad 6/39 and Darimi 1940]

Sunan Kubra Bayhaqi 1476

Arabic Text:

:أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (١٤٧٧)
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ إِمْلَاءً حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حَسَنِ بْنِ مُهَاجِرٍ حَدَّثَنَا
بَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - يُخْرِجُ إِلَى رَأْسِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهُوَ مُجَاوِرٌ ، فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ -

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ بَارُونَ بْنِ سَعِيدِ الْأَيْلِيِّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ عُرْوَةَ - وَفِي حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - : أَنَّهُ أَمَرَ الْحَيْضَ أَنْ يَعْتَزِلْنَ مُصَلَّى الْمُسْلِمِينَ - وَذَلِكَ يَرِدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِ الْعِيدَيْنِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: حائضہ مسجد میں داخل نہیں ہوگی اور نہ اعتکاف کرے گی

حدیث نمبر: 1476

ترجمہ:

(۱۴۷۷) (سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی ﷺ مسجد سے میری طرف اپنا سر نکالتے اور آپ ﷺ اعتکاف کی حالت میں ہوتے، میں آپ ﷺ کا سر مبارک دھوتی

حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی۔

(ب) (سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے نقل فرماتی ہیں کہ آپ ﷺ نے حائضہ عورتوں کو حکم دیا کہ مسلمانوں کی نماز سے علیحدہ رہیں۔ یہ حدیث کتاب العیدین میں آئے گی۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The menstruating woman must not enter the mosque nor can she observe itikaaf

Hadith number: 1476

Translation:

(1476) It is narrated from Ayesha (may Allah be pleased with her) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) used to put his head near me from (the opening in) the mosque and he was observing Itikaaf, I would wash his blessed

head even though I was menstruating.

(B) Syeda Umm Attiyah narrates from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) that he commanded the menstruating women to stay away from the prayers of Muslims. This hadith will be mentioned in the Chapter of Eid. (InshAllah)
[Sahih. Narrated by Abu Dawud 2469]

Sunan Kubra Bayhaqi 1477

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ أَخْبَرَنَا (١٤٧٨)
أَبُو عَمْرٍو بْنُ مَطَرٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ
الصُّوفِيُّ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَزَةَ عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ حَدَّثَنِي الزُّبَيْرِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - كَتَبَ
، إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالذِّيَّاتُ
وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ قَالَ ((وَلَا
يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ)) (- أَرْسَلَهُ غَيْرُهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ -
وَيُذَكِّرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَرِهَ لِلْحَائِضِ مَسَّ الْمُصْحَفِ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاکی کا بیان

باب: حائضہ نہ قرآن کو چھوئے گی اور نہ پڑھے گی

حدیث نمبر: 1477

:ترجمہ

(۱۴۷۸) (ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم اپنے دادا سے نقل فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ نے یمن والوں کی طرف ایک خط خط لکھا، جس میں فرائض، سنن اور دیات کا ذکر تھا اور عمرو بن حزم کو ان احکامات کے ساتھ بھیجا۔۔۔ اس میں ہے کہ قرآن کو صرف پاک شخص ہی چھوئے۔ اس کے علاوہ دوسروں نے اس کو مرسل بیان کیا ہے۔ اللہ اعلم

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The menstruating woman must not touch the Quran nor can she recite it

Hadith number: 1477

Translation:

(1477) Abu Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm narrates from his grandfather that the Prophet (peace and blessings of

Allah be upon him) wrote a letter to the people of Yemen, which mentioned the obligations, sunnahs and (the rules concerning) blood money, and sent Amr ibn Hazm with these orders... In this it mentions, only a pure person can touch the Quran. Others have narrated it as a mursal hadith. Allah knows best
[Daif (Weak). Narrated by Nasai 4857, 4858 and Mishkat al-Masabih 3492]

Sunan Kubra Bayhaqi 1478

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذُبَارِيُّ وَأَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللَّهِ (١٤٧٩)
بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ السُّكَّرِيُّ قَالَا أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ
مُحَمَّدِ الصَّفَّارِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ
عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -
ﷺ - قَالَ ((: لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ)) (- لَيْسَ -
بِذَا بِالْقَوِيِّ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب : پاکی کا بیان
باب : حائضہ نہ قرآن کو چھوئے گی اور نہ پڑھے گی
حدیث نمبر : 1478

: ترجمہ

(۱۴۷۹) (سیدنا ابن عمر ^{رض} سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے
فرمایا : حائضہ اور جنبی قرآن میں سے کچھ نہیں

پڑھیں گے) یہ روایت قوی نہیں۔)

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The menstruating woman must not touch the Quran nor can she recite it

Hadith number: 1478

Translation:

(1478) It is narrated on the authority of Ibn Umar (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: The menstruating woman and the one who is junub must not recite anything of the Quran (this narration is not strong).

[Daif, Munkar (Weak, Odd). Narrated by Tirmidhi 131 and Ibn Majah 595 and Al-Daraqutni 1/117]

Sunan Kubra Bayhaqi 1479

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ (١٤٨٠)
بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ
حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو هُوَ الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ: سُئِلَ
الزُّبَيْرِيُّ عَنِ الْجُنُبِ وَالنَّفْسَائِ وَالْحَائِضِ فَقَالَ: لَمْ يُرَخَّصْ لَهُمْ
أَنْ يَقْرَأُوا مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا. (ت (وَرَوَيْنَاهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ ثُمَّ عَنْ عَطَائٍ وَأَبِي الْعَالِيَةِ وَالنَّخَعِيِّ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي
الْحَائِضِ: لَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاكى كا بيان

باب: حائضه نه قرآن كو چهوئے گى اور نه پڑھے گى

حدیث نمبر: 1479

:ترجمہ

(۱۴۸۰) (ہم كو اوزاعى نے بيان كيا كه زہرى سے جنبى نفاس والى اور حائضه كے متعلق سوال كيا گيا تو انہوں نے فرمایا: ان كو رخصت نہیں دی گئی كه وہ قرآن مجید سے كچھ پڑھیں۔ ایک روایت میں حائضه كے متعلق بيان فرماتے ہیں كه وہ قرآن نہیں پڑھے گى۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The menstruating woman must not touch the Quran nor can she recite it

Hadith number: 1479

Translation:

(1479) We were told by Awzai that when Zuhri (may Allah have mercy on him) was asked about the one who is junub, a woman who is in her postpartum period or is menstruating, he said: They are not allowed to read anything from the Quran. In one narration it is stated about the menstruating woman that she will not recite the Quran.
[Hasan (Fair)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1480

Arabic Text:

:أَخْبَرَنَا أَبُو زَكْرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ (١٤٨١)
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِوَسِّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ
الدَّارِمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ صَالِحٍ حَدَّثَهُ
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى
{اعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} يَقُولُ: اعْتَرِلُوا نِكَاحَ فُرُوجِهِنَّ
{وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ} يَقُولُ: إِذَا تَطَهَّرْنَ مِنَ الدَّمِ
وَتَطَهَّرْنَ بِالْمَاءِ {فَاتُّوبِينَ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} يَقُولُ فِي الْفَرْجِ
وَلَا تَعْدُوا إِلَى غَيْرِهِ ، فَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ اعْتَدَى.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: حائضہ وضو نہیں کرے گی جب تک پاک نہ ہو جائے اور
غسل نہ کر لے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ”تم ان کے قریب نہ
جاؤ جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں اور جب وہ

خوب پاک صاف ہوجائیں تو ان کے پاس او جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ "امام شافعی (رح) فرماتے ہیں { يَطْهَرْنَ } {کہا گیا یعنی حیض سے پاک ہوجائیں فَإِذَا تَطَهَّرْنَ } یعنی جب پانی سے طہارت حاصل کر لیں۔
واللہ اعلم

حدیث نمبر: 1480

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: حائضہ نہ قرآن کو چھوئے گی اور نہ پڑھے گی

حدیث نمبر: 1479

:ترجمہ

(۱۴۸۱) (سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ارشاد {اعْتَزَلُوا

النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ } کے متعلق فرماتے ہیں کہ ان کی

شرمگاہوں میں جماع کرنے سے الگ رہو {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ

يَطْهَرْنَ } فرماتے ہیں: جب وہ خون سے پاک ہوجائیں اور

پانی سے خوب طہارت حاصل کر لیں۔ {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ

أَمَرَكُمُ اللَّهُ } کہتے ہیں: شرمگاہ میں اور اس کے علاوہ کی

طرف تجاوز نہ کرو جس نے (اس کے علاوہ) کچھ کیا اس

نے حد سے تجاوز کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The menstruating woman can not perform ablution until she has become pure and has taken a bath. Allah says

(interpretation of the meaning): {And do not approach them until they are pure. And when they have purified themselves, then come to them from where Allah has ordained for you} [Surah Baqarah 2:222]. Imam Shafi'i (may Allah have mercy on him) says: The word { يَطْهُرْنَ } {they are pure} has been used which means purification from menstruation,

{ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ }

{then when they are purified} means purifying oneself from water. Allah knows best

Hadith number: 1480

Translation:

(1480) Syeduna Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) says about the command of Allah { اَعْتَزَلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ }

{so keep away from the women during their menstruation} [Surah Baqarah 2:222]

and { وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ } {And do not approach them until they are pure} [Surah Baqarah 2:222], he (Ibn Abbas) says: When

they are cleansed of blood and purified with water. He says about { فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ }

{then come to them from where Allah has ordained for you} [Surah Baqarah 2:222] :

Do not trespass in (the matters relating to) the private parts and other than them, whoever does something (other than what is allowed) has transgressed.

[Daif (Weak). Narrated by Al-Tabari 2/392]

Sunan Kubra Bayhaqi 1481

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ (١٤٨٢)
يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَفَّانَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ
عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَابِدٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ
وَجَلَّ {وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ} حَتَّى يَنْقَطِعَ الدَّمُ {فَإِذَا
تَطَهَّرْنَ} قَالَ يَقُولُ: إِذَا اغْتَسَلْنَ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

کتاب: پاکی کا بیان

باب: حائضہ وضو نہیں کرے گی جب تک پاک نہ ہو جائے اور غسل نہ کر لے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ”تم ان کے قریب نہ جاؤ جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں اور جب وہ خوب پاک صاف ہو جائیں تو ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔“ (امام شافعی) رح (فرماتے ہیں) { يَطْهُرْنَ } {کہا گیا یعنی حیض سے پاک ہو جائیں} {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} {یعنی جب پانی سے طہارت حاصل کر لیں۔ واللہ اعلم

حدیث نمبر: 1481

ترجمہ:

(۱۴۸۲) (مجاہد اللہ کے ارشاد) {وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ} کے متعلق فرماتے ہیں: جب تک خون ختم نہ ہو جائے {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} {کہتے ہیں کہ جب غسل کر لیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The menstruating woman can not perform ablution until she has become

pure and has taken a bath. Allah says (interpretation of the meaning): {And do not approach them until they are pure. And when they have purified themselves, then come to them from where Allah has ordained for you} [Surah Baqarah 2:222]. Imam Shafi'i (may Allah have mercy on him) says: The word { يَطْهَرْنَ } {they are pure} has been used which means purification from menstruation, { فَإِذَا تَطَهَّرْنَ }

{then when they are purified} means purifying oneself from water. Allah knows best

Hadith number: 1481

Translation:

(1481) Mujahid (may Allah have mercy on him) says about the command of Allah { وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ } {And do not approach them until they are pure} [Surah Baqarah 2:222] : Until the bleeding does not stop, {

{ثَمَّ إِذَا تُطَهَّرُونَ} {then when they are purified}
[Surah Baqarah 2:222] he says that (this means) when they have taken a bath.
[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1482

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ (١٤٨٣)
إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا بِشَيْمٍ عَنْ يُونُسَ
عَنِ الْحَسَنِ فِي الْحَائِضِ إِذَا طَهَّرَتْ مِنَ الدَّمِ قَالَ: لَا

يَأْتِيهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: حائضہ وضو نہیں کرے گی جب تک پاک نہ ہو جائے اور غسل نہ کر لے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ”تم ان کے قریب نہ جاؤ جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں اور جب وہ خوب پاک صاف ہو جائیں تو ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔“ (امام شافعی) رح (فرماتے ہیں) { يَطْهُرْنَ } {کہا گیا یعنی حیض سے پاک ہو جائیں} {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} {یعنی جب پانی سے طہارت حاصل کر لیں۔ واللہ اعلم

حدیث نمبر: 1482

:ترجمہ

(۱۴۸۳) (حسن حیض کے متعلق فرماتے ہیں جب وہ خون سے پاک ہو جائیں۔ اور اس کا خاوند اس کے پاس نہ آئے جب تک وہ غسل نہ کر لے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The menstruating woman can not perform ablution until she has become pure and has taken a bath. Allah says

(interpretation of the meaning): {And do not approach them until they are pure. And when they have purified themselves, then come to them from where Allah has ordained for you} [Surah Baqarah 2:222]. Imam Shafi'i

(may Allah have mercy on him) says: The word { يَطْهَرْنَ } {they are pure} has been used which means purification from menstruation,

{ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ }

{then when they are purified} means purifying oneself from water. Allah knows best

Hadith number: 1482

Translation:

(1482) Hasan says about the menstruating woman that (it is over) when she is cleansed of blood. And her husband should not approach her until she has taken a bath. [Hasan Li Ghayrihi (Fair due to external evidence). Narrated by Ibn Abi Shaybah 1029]

Sunan Kubra Bayhaqi 1483

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ (١٤٨٤)
:بْنُ حَيَّانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ
مُوسَى بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَخْبَرَنَا سَالِمٌ أَنَّهُ
سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: لَا بَأْسَ أَنْ يَغْشَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَلَيْسَ
بِحَضْرَتِهِ مَاءٌ إِذَا طَهَّرَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا فِي سَفَرٍ إِذَا تَيَمَّمَتْ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: حائضہ وضو نہیں کرے گی جب تک پاک نہ ہو جائے اور
غسل نہ کر لے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ”تم ان کے قریب نہ
جاؤ جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں اور جب وہ خوب پاک صاف
ہو جائیں تو ان کے پاس او جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں
حکم دیا ہے۔“ (امام شافعی) رح (فرماتے ہیں) { يَطْهَرْنَ } کہا
گیا یعنی حیض سے پاک ہو جائیں { فَإِذَا تَطَهَّرْنَ } یعنی جب
پانی سے طہارت

حاصل کر لیں۔ واللہ اعلم

حدیث نمبر: 1483

:ترجمہ

(۱۴۸۴) سالم نے حسن سے سنا کہ کوئی حرج نہیں ہے جب خاوند اپنی بیوی کو ڈھانپ لے (یعنی جماع کرے) (اور پانی موجود نہ ہو اور وہ سفر میں ہوں اور عورت حیض سے پاک ہو جائے جب کہ اس نے صرف تیمم کیا ہو۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The menstruating woman can not perform ablution until she has become pure and has taken a bath. Allah says

(interpretation of the meaning): {And do not approach them until they are pure. And when they have purified themselves, then come to them from where Allah has ordained for you} [Surah Baqarah 2:222].

Imam Shafi'i (may Allah have mercy on him) says: The word { يَطْهُرْنَ } {they are pure} has been used which means purification from menstruation, { فَإِذَا تَطَهَّرْنَ } {then when they are purified} means purifying oneself from water. Allah knows best

Hadith number: 1483

Translation:

(1483) Salem heard from Hasan that there is no harm in a husband embracing his wife (i.e. having intercourse with her) and there is no water and they are on a journey and the woman is cleansed from menstruation and she has only performed tayammum.

[Hasan Li Ghayrihi (Fair due to external evidence). Narrated by Darimi 1176]

Sunan Kubra Bayhaqi 1484

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ (١٤٨٥)
جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا
مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سَالِمٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّهُمَا سُئِلَا عَنِ
:الْحَائِضِ أَيُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا رَأَتْ الطَّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ فَقَالَا
لَا حَتَّى تَغْتَسِلَ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
کتاب: پاکی کا بیان

باب :حائضہ وضو نہیں کرے گی جب تک پاک نہ ہو جائے اور غسل نہ کر لے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ”تم ان کے قریب نہ جاؤ جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں اور جب وہ خوب پاک صاف ہو جائیں تو ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔“ (امام شافعی) رح (فرماتے ہیں) { يَطْهُرْنَ } کہا گیا یعنی حیض سے پاک ہو جائیں {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ } یعنی جب پانی سے طہارت حاصل کر لیں۔ واللہ اعلم

حدیث نمبر :1484

ترجمہ:

(۱۵۸۶) (سالم اور سلیمان بن یسار سے منقول ہے کہ ان دونوں سے حائضہ کے متعلق سوال کیا گیا :کیا اس کا خاوند جماع کر سکتا ہے جب پاکی کو دیکھے غسل کرنے سے پہلے؟ انہوں نے کہا :نہیں جب تک غسل نہ کر لے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The menstruating woman can not

perform ablution until she has become pure and has taken a bath. Allah says (interpretation of the meaning): {And do not approach them until they are pure. And when they have purified themselves, then come to them from where Allah has ordained for you} [Surah Baqarah 2:222]. Imam Shafi'i (may Allah have mercy on him) says: The word { يَطْهُرْنَ } {they are pure} has been used which means purification from menstruation, { فَإِذَا تَطَهَّرْنَ } {then when they are purified} means purifying oneself from water. Allah knows best

Hadith number: 1484

Translation:

(1484) It is narrated from Salem and Sulayman ibn Yasar that they were both asked about the menstruating woman: Can her husband have intercourse with her

when he sees that she is pure before she has taken a bath? They said: No, not until she has taken a bath.

[Sahih. Narrated by Malik 127]

Sunan Kubra Bayhaqi 1485

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِانَ (١٤٨٦)

أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ: سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبْرَانِيُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ
عُمَرَ الرَّقِيُّ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ وَحَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ يَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ
الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ - فَقَالَ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَكُونُ فِي الرَّمْلِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ
: فَتَكُونُ فِيْنَا النُّفْسَاءُ وَالْحَائِضُ وَالْجُنُبُ فَمَا تَرَى؟ قَالَ:
((عَلَيْكُمْ بِالصَّعِيدِ)) (-).

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: حائضہ وضو نہیں کرے گی جب تک پاک نہ ہو جائے اور
غسل نہ کر لے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ”تم ان کے قریب نہ
جاؤ جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں اور جب وہ خوب پاک صاف
ہو جائیں تو ان کے پاس او جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں
حکم دیا ہے۔“ (امام شافعی) رح (فرماتے ہیں) { يَطْهَرْنَ } کہا
گیا یعنی حیض سے پاک ہو جائیں { فَإِذَا تَطَهَّرْنَ } یعنی جب
پانی سے طہارت حاصل کر لیں۔ واللہ اعلم

حدیث نمبر: 1485

ترجمہ:

(۱۴۸۶) (سیدنا ابوہریرہ رض سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا: اے اللہ کے رسول! ہم ریتلے علاقے علاقے میں چار ماہ یا پانچ ماہ ہوتے ہیں اور ہمارے اندر نفاس والی، حائضہ اور جنبی بھی ہوتے ہیں، آپ ان کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "مٹی کو لازم " پکڑو (یعنی تیمم کرلو)۔"

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: The menstruating woman can not perform ablution until she has become pure and has taken a bath. Allah says

(interpretation of the meaning): {And do not approach them until they are pure. And when they have purified themselves, then come to them from where Allah has ordained for you} [Surah Baqarah 2:222].

Imam Shafi'i (may Allah have mercy on him) says: The word { يَطْهُرْنَ } {they are pure} has been used which means purification from menstruation, { فَإِذَا تَطَهَّرْنَ } {then when they are purified} means purifying oneself from water. Allah knows best

Hadith number: 1485

Translation:

(1485) It is narrated on the authority of Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him) that a villager came to the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) and said: O Messenger of Allah! We live in a sandy area for four months or five months and we also have women with us who are in their postpartum period, menstruating and junub, what do you say about them? The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "You

must hold onto soil (i.e. perform
tayammum)."
[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1486

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو (١٤٨٧)

الْفَضْلِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا حَاضَتْ أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - أَنْ
تَنْزِرَ بِإِزَارٍ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا -
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَأَخْرَجَهُ
الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ عَنْ مَنْصُورٍ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: چادر کے اوپر سے حائضہ کے ساتھ مباشرت کا حکم
اور حلال و حرام کی حدود
حدیث نمبر: 1486

:ترجمہ

(۱۴۸۷) (سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب ہم میں سے
کوئی حائضہ ہوتی تو رسول اللہ ﷺ اس کو لنگوٹ باندھنے کا
حکم دیتے، پھر اس کے ساتھ مباشرت کرتے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on intimacy with a menstruating woman over a garment and the limits of halal and haram

Hadith number: 1486

Translation:

(1486) It is narrated on the authority of Syeda Ayesha (may Allah be pleased with her) that when any of us was menstruating, the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) would order her to tie a izar (waist-wrapper) and then be intimate with her.

[Sahih. Narrated by Bukhari 302 and Muslim 293 and Abu Dawud 273 and Ibn Majah 635 and Ahmad 6/33, 143, 235]

Sunan Kubra Bayhaqi 1487

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ الْإِسْمَاعِيلِيُّ (١٤٨٨)
أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْعَلَاءِيِّ جُرْجَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ
أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسَهَّرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ
حَائِضًا أَمْرًا النَّبِيِّ ﷺ - أَنْ تَأْتِرَ فِي فَوْرِ حَيْضَتِهَا ثُمَّ
يُبَاشِرُهَا ، وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - يَمْلِكُ
إِرْبَهُ.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْخَلِيلِ عَنْ
عَلِيِّ بْنِ مُسَهَّرٍ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: چادر کے اوپر سے حائضہ کے ساتھ مباشرت کا حکم

اور حلال و حرام کی حدود

حدیث نمبر: 1487

:ترجمہ

(۱۴۸۸) (سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب ہم میں سے کوئی حائضہ ہوتی تو نبی ﷺ حیض کی ابتدا میں اس کو لنگوٹ باندھنے کا حکم دیتے، پھر اس سے مباشرت کرتے اور تم میں سے کون اپنے نفس کو قابو کرنے والا ہے جس طرح نبی ﷺ اپنے نفس کو قابو کرنے والے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on intimacy with a

menstruating woman over a garment and

the limits of halal and haram

Hadith number: 1487

Translation:

(1487) It is narrated on the authority of Ayesha (may Allah be pleased with her) that when one of us was menstruating, the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) would order her to tie an izar (waist-wrapper) at the beginning of her period, then he would be intimate with her, and who among you can control his desire as the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) used to control his desire?

[Sahih. Narrated by Bukhari 302 and Muslim 293 and Abu Dawud 273 and Ibn Majah 635 and Ahmad 6/33, 143, 235]

Sunan Kubra Bayhaqi 1488

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ (١٤٨٩)
الْمُزَكِّيُّ وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَأَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ
مُحَمَّدٍ السَّبَّيْعِيُّ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ: إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ السُّوسِيُّ وَأَبُو
صَادِقِ بْنِ أَبِي الْفَوَارِسِ الْعَطَّارُ وَغَيْرُهُمْ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو
الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَفَّانَ
الْعَامِرِيُّ أَخْبَرَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
الشَّيْبَانِيِّ-

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ
الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا
خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ
مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَتْ

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الْإِزَارِ وَهِنَّ حِيضٌ -
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: چادر کے اوپر سے حائضہ کے ساتھ مباشرت کا حکم

اور حلال و حرام کی حدود

حدیث نمبر: 1488

:ترجمہ

(۱۴۸۹) (سیدہ میمونہ بنت حارث^{رض} سے روایت ہے کہ نبی ﷺ چادر کے اوپر سے اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کرتے تھے اور وہ حائضہ ہوتیں تھیں۔)

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on intimacy with a

menstruating woman over a garment and the limits of halal and haram

Hadith number: 1488

Translation:

(1488) It is narrated from Syeda Maimuna bint Harith (may Allah be pleased with her) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) used to be intimate with his wives over an izar (waist-wrapper) while they were menstruating.

[Sahih. Narrated by Muslim 294]

Sunan Kubra Bayhaqi 1489

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِيُّ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ (١٤٩٠)
إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ أَخْبَرَنَا الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ
اللَّهِ - ﷺ - إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ أَمْرًا
فَاتَّزَرَتْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي النُّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ
الْوَّاحِدِ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: چادر کے اوپر سے حائضہ کے ساتھ مباشرت کا حکم

اور حلال و حرام کی حدود

حدیث نمبر: 1489

:ترجمہ

(۱۴۹۰) (سیدہ میمونہ^{رض} سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب اپنی بیویوں سے مباشرت کا ارادہ کرتے اور وہ حائضہ ہوتیں تھیں تو انہیں لنگوٹ باندھنے کا حکم دیتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on intimacy with a

menstruating woman over a garment and the limits of halal and haram

Hadith number: 1489

Translation:

(1489) It is narrated on the authority of Syeda Maimuna (may Allah be pleased with her) that whenever the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) intended to be intimate with his wives

while they were menstruating, he would order them to wear an izar (waist-wraper). [Sahih. Narrated by Bukhari 303 and Abu Dawud 2167 and Ahmad 6/335, 336]

Sunan Kubra Bayhaqi 1490

Arabic Text:

:أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (١٤٩١)
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ حَسَنِ يَعْنِي ابْنَ مُهَاجِرٍ حَدَّثَنَا
بَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْأَيْلِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ

أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ
قَالَ سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - يَضْطَجِعُ مَعِيَ
وَأَنَا حَائِضٌ وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ ثَوْبٌ -
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ هَارُونَ الْأَيْلِيِّ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: چادر کے اوپر سے حائضہ کے ساتھ مباشرت کا حکم
اور حلال و حرام کی حدود
حدیث نمبر: 1490

:ترجمہ

(۱۴۹۱) (کریب سیدنا ابن عباس^{رض} کے غلام فرماتے ہیں: میں نے سیدہ میمونہ^{رض} سے سنا کہ رسول اللہ ﷺ میرے ساتھ لیٹتے اور میں حائضہ ہوتی تھی، میرے اور آپ ﷺ کے درمیان کپڑا ہوتا تھا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on intimacy with a menstruating woman over a garment and the limits of halal and haram

Hadith number: 1490

Translation:

(1490) Kuraib the slave of Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) said: I heard from Syeda Maimuna (may Allah be pleased with her) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) used to lie down with me while I was menstruating, there would be a cloth between me and him. [Sahih. Narrated by Muslim 295]

Sunan Kubra Bayhaqi 1491

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ (١٤٩٢)
سَهْلٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنَا بِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ -
وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ: أَحْمَدُ
بْنُ إِسْحَاقَ إِمْلَائِي أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرَبِيُّ أَخْبَرَنَا
أَبُو عَمْرٍو الْحَوْضِيُّ حَدَّثَنَا بِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي
كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: بَيْنَمَا أَنَا
مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - مُضْطَجِعَةٌ فِي الْخَمِيلَةِ إِذْ حِضْتُ فَأَنْسَلْتُ
فَلَبِسْتُ ثِيَابَ حَيْضَتِي فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - ((: أَنْفِسْتِ)) ،
قُلْتُ نَعَمْ فَدَعَانِي فَأَضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ
الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ جَمِيعًا مِنْ حَدِيثِ بِشَامٍ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: چادر کے اوپر سے حائضہ کے ساتھ مباشرت کا حکم
اور حلال و حرام کی حدود

حدیث نمبر: 1491

:ترجمہ

(۱۴۹۲) (سیدہ ام سلمہؓ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک مجھے حیض آگیا، میں وہاں سے کھسک گئی، میں نے اپنے حیض والے کپڑے پہنے، مجھ کو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کیا تو حائضہ ہوگئی ہے؟ "میں نے کہا: ہاں۔ آپ ﷺ نے مجھے بلایا اور میں آپ ﷺ کے ساتھ چادر میں لیٹ گئی۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on intimacy with a

menstruating woman over a garment and the limits of halal and haram

Hadith number: 1491

Translation:

(1491) It is narrated on the authority of Umm Salama (may Allah be pleased with her) that I was lying in a sheet with the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) when suddenly I got my menses. I slipped away and put on my clothes for menses. The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: Have you gotten your menses? I said: Yes. Then he called me and I laid down in the sheet with him.

[Sahih. Narrated by Bukhari 322 and Muslim 296]

Sunan Kubra Bayhaqi 1492

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقْرِيُّ أَخْبَرَنَا (١٤٩٣)
الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ
الْقَاضِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا
خَالِدٌ عَنْ عِكْرَمَةَ
، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فِي لِحَافٍ
فَأَصَابَهَا الْحَيْضُ فَقَالَ لَهَا ((: قَوْمِي فَاتَّزِرِي ثُمَّ
عُودِي)) (-).

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: چادر کے اوپر سے حائضہ کے ساتھ مباشرت کا حکم
اور حلال و حرام کی حدود

حدیث نمبر: 1492

ترجمہ:

(۱۴۹۳) (سیدہ ام سلمہؓ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ لحاف میں لیٹی ہوئیں تھی، انہیں حیض آگیا آپ ﷺ نے فرمایا: کھڑی ہو لنگوٹ باندھ، پھر واپس لوٹ۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on intimacy with a

menstruating woman over a garment and the
limits of halal and haram

Hadith number: 1492

Translation:

(1492) It is narrated on the authority of

Umm Salama (may Allah be pleased with her) that she was lying in a blanket with the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him), when (suddenly) she got her menses. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "Stand up, tie an izar (waist-wrapper), then come back."

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence). Narrated by Ahmad 6/323]

Sunan Kubra Bayhaqi 1493

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَابِرٍ الْفَقِيهُ مِنْ أَصْلِهِ أَخْبَرَنَا أَبُو (١٤٩٤)
عُثْمَانَ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ
حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي شَرِيكُ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ عَطَائِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ
: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ فَاِنْسَلْتُ فَقَالَ
(مَا شَأْنُكَ؟) (فَقُلْتُ : حِضْتُ. فَقَالَ ((شُدِّي عَلَيْكَ إِزَارَكَ
ثُمَّ ادْخُلِي)) (وَرَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ عَائِشَةَ مُرْسَلًا.
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ وَقَعَ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ جَمِيعًا.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب : پاکی کا بیان

باب : چادر کے اوپر سے حائضہ کے ساتھ مباشرت کا

حکم اور حلال و حرام کی حدود

حدیث نمبر: 1493

ترجمہ:

(۱۴۹۴) (سیدہ عائشہؓ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک لحاف میں تھی، میں کھسک گئی، آپ ﷺ نے فرمایا: کیا ہوا؟ میں نے کہا: میں حیض والی ہو گئی ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: "اپنا لنگوٹ باندھ، پھر میرے پاس آجا۔" (امام مالک نے سیدہ عائشہؓ سے مرسل روایت نقل کی ہے۔

(ج) اس بات کا بھی احتمال ہے کہ سیدہ عائشہ اور ام سلمہ دونوں کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہو۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on intimacy with a

menstruating woman over a garment and the limits of halal and haram

Hadith number: 1493

Translation:

(1493) It is narrated on the authority of Ayesha (may Allah be pleased with her) that I was in a blanket with the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) and I slipped away (from him). He said: What happened? I said: I am menstruating. He said: "Tie your izar (waist-wrapper), then come to me."

(B) Imam Malik has narrated this narration as a mursal hadith from Ayesha (may Allah be pleased with her).

(C) It is also possible that this incident happened with both Ayesha and Umm Salama (may Allah be pleased with them). [Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence). Narrated by Ahmad 6/184]

Sunan Kubra Bayhaqi 1494

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَائِرٍ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا أَبُو طَائِرٍ الْمُحَمَّدَابَادِيُّ (١٤٩٥)
حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ
مُوسَى حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مِقْدَامِ بْنِ شَرِيحٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ
سَأَلْتُ عَائِشَةَ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُبَاشِرُكَ وَأَنْتِ حَائِضٌ؟
قَالَتْ: وَأَنَا عَارِكٌ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ((:انْزِرِي
بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ)) (- ثُمَّ يُبَاشِرُنِي لَيْلًا طَوِيلًا. قُلْتُ: أَكَانَ يَأْكُلُ
مَعَكَ وَأَنْتِ حَائِضٌ؟ قَالَتْ: إِنْ

كَانَ لِيُنَاوِلَنِي الْعَرَقَ فَأَعَضُّ مِنْهُ ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ فَيَعَضُّ مَكَانَ الَّذِي
عَضَضْتُ مِنْهُ۔ قُلْتُ: بَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - يَشْرَبُ مِنْ
شَرَابِكِ؟ قَالَتْ: كَانَ يُنَاوِلَنِي الْإِنَائِ فَاشْرَبُ ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ فَيَضَعُ فَاهُ
حَيْثُ وَضَعْتُ فِيَّ فَيَشْرَبُ۔

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: چادر کے اوپر سے حائضہ کے ساتھ مباشرت کا حکم
اور حلال و حرام کی حدود

حدیث نمبر: 1494

ترجمہ:

(۱۴۹۵) (مقدم بن شریع اپنے والد سے نقل فرماتی ہیں کہ
میں نے سیدہ عائشہؓ سے سوال کیا: کیا رسول اللہ ﷺ آپ
سے مباشرت کرتے تھے جب آپ حائضہ ہوتی تھیں؟ انہوں
نے کہا: میں حائضہ ہوتی تو رسول اللہ ﷺ فرماتے تھے
ابوبکر کی بیٹی آپ کے لنگوٹ باندھ لے، پھر لمبی رات
مجھ سے مباشرت کرتے رہتے۔ میں نے کہا: کیا آپ ﷺ آپ
کے ساتھ کھاتے تھے جب

آپ حائضہ ہوتی تھیں؟ انہوں نے کہا: آپ ﷺ مجھے ہڈی دیتے، میں اس سے چوستی، پھر آپ ﷺ اس کو پکڑتے تو آپ اس جگہ پر چوستے تھے جہاں سے میں نے چوسا ہوتا تھا۔ میں نے کہا: کیا رسول اللہ ﷺ آپ کے پیسے ہوئے سے سے پیتے تھے؟ انہوں نے کہا: آپ ﷺ مجھ کو برتن دیتے، میں پیتی، پھر آپ اس کو پکڑ لیتے اور اس جگہ پر منہ رکھتے تھے جہاں میں نے منہ رکھا ہوتا تھا، پھر آپ ﷺ پیتے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on intimacy with a

menstruating woman over a garment and the limits of halal and haram

Hadith number: 1494

Translation:

(1494) Muqaddam ibn Shuraih narrates from his father that I asked Ayesha (may Allah be pleased with her): Did the

Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) be intimate with you when you were menstruating? She said: When I was menstruating, the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) used to say: O Abu Bakr's daughter! Tie your izar (waist-wrapper), then he would be intimate with me for the long night. I said: Did he eat with you when you were menstruating? She said: He would give me a bone (with meat on it), I would nibble from it, then he would take it, he would nibble from the place I nibbled from. I said: Did the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) drink from what you drank? He said: He would give me a vessel, I would drink, then you would take it and he would put his mouth where mine had been and drink.

[Sahih. Narrated by Muslim 300 and Nasai 70, 270, 271, 342, 377, 380 and Abu Dawud

259 and Ibn Majah 643 and Ahmad 6/62, 64, 128, 192, 210, 214 and Darimi 1101]

Sunan Kubra Bayhaqi 1495

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ (١٤٩٦)
عُبَيْدِ الصَّفَّارِ حَدَّثَنَا تَمْتَامٌ حَدَّثَنَا أَبُو حُدَيْفَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ
الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ
كُنْتُ لَأَشْرَبُ مِنَ الْقَدَحِ وَأَنَا حَائِضٌ

فَيَضَعُ النَّبِيُّ ﷺ - فَاهُ عَلَى الْمَكَانِ الَّذِي شَرِبْتُ مِنْهُ ، وَآخُذُ
الْعَرَقَ فَأَنْهَشُ مِنْهُ ، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى الْمَكَانِ الَّذِي نَهَشْتُ مِنْهُ -
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمِسْعَرٍ عَنِ
الْمِقْدَامِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: چادر کے اوپر سے حائضہ کے ساتھ مباشرت کا حکم
اور حلال و حرام کی حدود
حدیث نمبر: 1495

:ترجمہ

(۱۴۹۶) (سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں پیالے سے
پانی پیتی تھی اور میں حائضہ ہوتی تھی، پھر نبی ﷺ اس
جگہ پر منہ رکھتے تھے جس جگہ سے میں نے پیا ہوتا تھا
اور میں ہڈی کو پکڑتی، میں اسے نوچتی، آپ ﷺ اس جگہ
پر اپنا منہ رکھتے تھے یہ جہاں سے میں نے نوچا ہوتا تھا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on intimacy with a

menstruating woman over a garment and the limits of halal and haram

Hadith number: 1495

Translation:

(1495) It is narrated from Ayesha (may Allah be pleased with her) that I would drink water from a vessel when I was menstruating, then the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) would put his mouth where mine had been (and drink from it), and I would eat (flesh from a) bone, then the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) would put his mouth where I had eaten from.

[Sahih. Narrated by Muslim 300 and Nasai

70, 270, 271, 342, 377, 380 and Abu Dawud 259 and Ibn Majah 643 and Ahmad 6/62, 64, 128, 192, 210, 214 and Darimi 1101]

Sunan Kubra Bayhaqi 1496

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ (١٤٩٧)

إِسْحَاقَ الْفَقِيهِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
يَحْيَى أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَكِّيُّ عَنْ مَنْصُورِ ابْنِ
-صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
يَتَّكِي فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي
الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ
زُبَيْرٍ عَنْ مَنْصُورٍ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: چادر کے اوپر سے حائضہ کے ساتھ مباشرت کا حکم
اور حلال و حرام کی حدود
حدیث نمبر: 1496

:ترجمہ

(۱۴۹۷) (سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ میری
گود میں ٹیک لگاتے اور میں حائضہ ہوتی تھی اور آپ ﷺ
قرآن پڑھتے تھے۔)

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on intimacy with a menstruating woman over a garment and the limits of halal and haram

Hadith number: 1496

Translation:

(1496) It is narrated from Ayesha (may Allah be pleased with her) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) used to lie on my lap while I was menstruating and he used to recite the Quran.

[Sahih. Narrated by Bukhari 297 and Muslim 301 and Nasai 275, 381 and Abu Dawud 260 and Ibn Majah 634 and Ahmad 6/117, 135, 190]

Sunan Kubra Bayhaqi 1497

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورِكَ أَخْبَرَنَا (١٤٩٨)
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ
الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ
عَنْ يَزِيدَ بْنِ بَابْنُوسَ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - يَتَوَشَّحُنِي
وَيَنَالُ مِنْ رَأْسِي وَأَنَا حَائِضٌ وَعَلَى الْإِزَارِ - ،

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: چادر کے اوپر سے حائضہ کے ساتھ مباشرت کا حکم
اور حلال و حرام کی حدود

حدیث نمبر: 1497

ترجمہ:

(۱۴۹۸) یزید بن بابنوس سے روایت ہے کہ ہم سیدہ عائشہ کے پاس آئے، پھر لمبی حدیث بیان کی۔ اس میں ہے کہ انہوں نے فرمایا: آپ ﷺ مجھے ڈھانپ لیتے اور میرے سر کو چھوتے تھے حالانکہ میں حائضہ ہوتی تھی اور مجھ پر چادر ہوتا تھا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on intimacy with a

menstruating woman over a garment and the
limits of halal and haram

Hadith number: 1497

Translation:

(1497) It is narrated from Yazid ibn Babnus that we came to Ayesha (may Allah be pleased with her) and then narrated a long hadith... In it is that she said: The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) used to embrace me and touch my head even though I was menstruating and there would be a sheet over me.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1498

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوَدْبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ (١٤٩٩) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا بَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارٍ حَدَّثَنِي مَرْوَانُ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا الْعَلَاءِيُّ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ حَرَامِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَمِّهِ: أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - مَا يَحِلُّ لِي مِنْ امْرَأَتِي وَبِي حَائِضٌ؟ قَالَ: لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ - قَالَ: وَذَكَرَ مُوَاطَّةَ الْحَائِضِ أَيْضًا وَسَأَلَ الْحَدِيثَ عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ الْأَنْصَارِيِّ وَقِيلَ حَرَامُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: چادر کے اوپر سے حائضہ کے ساتھ مباشرت کا حکم اور حلال و حرام کی حدود

حدیث نمبر: 1498

:ترجمہ

(۱۴۹۹) حرام بن حکیم اپنے چچا سینقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا: میرے لیے میری بیوی سے کیا حلال ہے جب وہ حائضہ ہو؟ آپ ﷺ نے فرمایا: "تیرے لیے ازار سے اوپر تک۔" اس نے کہا: اسی طرح حائضہ کے ساتھ کھانے کا ذکر بھی فرمایا۔ اس کے چچا عبداللہ بن سعد انصاری نے لمبی حدیث بیان کی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حرام بن معاویہ اپنے چچا عبداللہ بن سعد سے روایت کرتے ہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on intimacy with a

menstruating woman over a garment and the

limits of halal and haram

Hadith number: 1498

Translation:

(1498) Haram ibn Hakeem narrates from his uncle that he asked the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him): What is permissible for me (to do) with my wife when she is menstruating? The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "For you, whatever is above the izar (waist-wrapper)." He said: He also mentioned eating with a menstruating woman. His uncle Abdullah bin Saad Ansari has narrated a long hadith and it is also said that Haram bin Mu'awiyah narrates from his uncle Abdullah bin Saad.

[Sahih. Narrated by Abu Dawud 212 and Tirmidhi 133 and Ibn Majah 651]

Sunan Kubra Bayhaqi 1499

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ (١٥٠٠)
الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ قُسَيْطِ
الرَّقِيِّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ
عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عُمَيْرِ مَوْلَى
عُمَرَ قَالَ: جَاءَ نَفْرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ لَهُمْ عُمَرُ
أَبَايُنْ جِئْتُمْ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَمَا جَاءَ بِكُمْ؟ قَالُوا: جِئْنَا نَسْأَلُ
عَنْ ثَلَاثٍ. قَالَ: وَمَا هُنَّ؟ قَالُوا: صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ تَطَوُّعًا
مَا بِي ، وَمَا يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ وَبِي حَائِضٌ ، وَعَنْ
الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ. فَقَالَ عُمَرُ: أَسْحَرَةٌ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: لَا يَا أَمِيرَ
الْمُؤْمِنِينَ مَا نَحْنُ بِسَحَرَةٍ. قَالَ: لَقَدْ سَأَلْتُمُونِي عَنْ ثَلَاثَةٍ
-أَشْيَاءٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُنَّ أَحَدٌ مُنْذُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ -
عَنْهُنَّ قَبْلَكُمْ ، أَمَّا صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ نُورٌ ، فَنُورٌ
بَيْتِكَ مَا اسْتَطَعْتَ ، وَأَمَّا الْحَائِضُ فَمَا فَوْقَ الْإِزَارِ وَلَيْسَ لَهُ مَا
تَحْتَهُ ، وَأَمَّا الْغُسْلُ

مِنَ الْجَنَابَةِ فَتُفْرِغُ بِيَمِينِكَ عَلَى يَسَارِكَ ، ثُمَّ تُدْخِلُ يَدَكَ فِي
الْإِنَائِ فَتَغْسِلُ فَرْجَكَ وَمَا أَصَابَكَ ، ثُمَّ تَوَضَّأُ وَضُوءَكَ
لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ تُفْرِغُ عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، تُذَلُّكَ رَأْسَكَ
كُلَّ مَرَّةٍ ، ثُمَّ تَغْسِلُ سَائِرَ جَسَدِكَ .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: چادر کے اوپر سے حائضہ کے ساتھ مباشرت کا حکم
اور حلال و حرام کی حدود

حدیث نمبر: 1499

:ترجمہ

(۱۵۰۰) (سیدنا عمرؓ کے غلام عمیر سے روایت ہے کہ ایک
گروہ اہل عراق میں سے سیدنا عمرؓ کے پاس آیا، عمرؓ نے
کہا: کیا تم اجازت سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔
عمرؓ کہا: تم کو کونسی چیز لے کر آئی ہے؟ انہوں نے کہا
ہم آپ سے تین سوال کرنے آئے ہیں، آپ نے پوچھا: وہ کیا
ہیں؟ انہوں نے کہا: آدمی کا گھر میں نفلی نماز پڑھنا کیسا
ہے؟ اور اس کے لیے اپنی بیوی

سے کیا حلال ہے جب وہ حائضہ ہو اور جنابت کے غسل کے متعلق پوچھا۔ سیدنا عمرؓ نے فرمایا: کیا تم جادو گر ہو؟ انہوں نے کہا: نہیں، اے امیر المؤمنین! ہم جادو گر نہیں ہیں انہوں نے کہا تم نے تین چیزوں کے متعلق سوال کیا، جب سے میں نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا ہے، مجھ سے کسی نے بھی ان کے متعلق سوال نہیں کیا، آدمی کا گھر میں نماز پڑھنا روشنی ہے، اپنے گھر کو روشن کر جتنی تو طاقت رکھتا ہے اور حائضہ سے چادر کے اوپر تک، تیرے لیے اس سے نیچے حلال نہیں ہے اور جنابت کا غسل اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال، پھر اپنا ہاتھ برتن میں داخل کر، اپنی شرمگاہ کو دھو اور جو چیز اس کو لگی ہے (اسے دور کر) پھر نماز جیسا وضو کر، پھر اپنے سر پر تین مرتبہ پانی ڈال، ہر مرتبہ اپنے سر کو مل، پھر اپنے سارے جسم کو دھولے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on intimacy with a

menstruating woman over a garment and

the limits of halal and haram

Hadith number: 1499

Translation:

(1499) It is narrated from Umar's slave Umayr that a group of people from Iraq came to Umar (may Allah be pleased with him), Umar said (to them): Did you come with permission? They said: Yes. Umar said: What brought you here? They said: We have come to ask you three questions. He asked: What are they? They said: What is the ruling on a person offering naafil prayers at home? And what is permissible for him to do with his wife when she is menstruating and they also asked about the bath for major impurity? Umar said: Are you a magician? They said: No, O Commander of the Faithful! We are not magicians. He said: You have asked about three things that ever since I have asked

the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) about them, no one has asked me about them. A man praying in his house is light, so illuminate your house as much as your strength allows you to and for menstruation, whatever is above the izar (waist-wrapper), it is not permissible for you to go below it and as for the bath for major impurity, pour water on your left hand with your right hand, then insert your hand into the vessel, wash your private parts and (remove) whatever has gotten (onto the body) from it, then perform ablution like the one done for prayer, then pour water on your head three times and rub your head every time, then wash your whole body.

[Daif (Weak). Narrated by AbdulRazzaq 987]

Sunan Kubra Bayhaqi 1500

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورِكَ أَخْبَرَنَا (١٥٠١)
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ -

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوَدْبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ دَاسَةَ
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ
حَدَّثَنَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : أَنَّ الْيَهُودَ كَانَتْ
إِذَا حَاضَتْ مِنْهُمُ الْمَرْأَةُ أَخْرَجُوهَا مِنَ الْبَيْتِ ، وَلَمْ

يُواكِلُوبًا وَلَمْ يُشَارِبُوبًا ، وَلَمْ يُجَامِعُوبًا فِي الْبَيْتِ ، فَسُئِلَ
رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - عَنْ ذَلِكَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي {
الْمَحِيضِ} [البقرة: ٢٢٢] إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -

ﷺ - ((:جَامِعُوبُنَّ فِي الْبُيُوتِ ، وَاصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ غَيْرَ
النِّكَاحِ)) . فَقَالَتِ الْيَهُودُ : مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ شَيْئًا مِنْ
أَمْرِنَا إِلَّا خَالَفَنَا فِيهِ . فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَادُ بْنُ

بِشْرِ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ - فَقَالَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْيَهُودَ تَقُولُ كَذَا
وَكَذَا ، أَفَلَا تَنْكِحُهُنَّ فِي الْمَحِيضِ ؟ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ -

ﷺ - حَتَّى ظَنَّنَا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا فخرَجَا ، فَاسْتَقْبَلْتَهُمَا بَدِيَّةً

، مِنْ لَبَنِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا

فَظَنَّنَا أَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا .

لَفْظُ حَدِيثِ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ وَفِي حَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ

الطَّبَّالِسِيِّ : فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أَنْ يُواكِلُوبُنَّ وَأَنْ يُشَارِبُوبُنَّ

وَأَنْ يُجَامِعُوبُنَّ فِي الْبُيُوتِ وَيَفْعَلُوا مَا شَاءُوا إِلَّا الْجِمَاعَ . وَذَكَرَ

الْبَاقِيَ بِمَعْنَاهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ زُبَيْرِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ حَمَّادٍ .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مرد کے لیے حائضہ بیوی سے جماع کے علاوہ جو

درست ہے

حدیث نمبر: 1500

:ترجمہ

(۱۵۰۱) (سیدنا انس بن مالک^{رض} سے روایت ہے کہ یہودیوں کی عورت جب حائضہ ہوتی تو اس کو گھر سے نکال دیتے، نہ اس کے ساتھ مل کر کھاتے اور نہ پیتے تھے اور نہ گھر میں اس کے ساتھ رہتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ سے اس (حائضہ) کے متعلق سوال کیا گیا تو اللہ نے {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ فَاغْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: ۲۲۲] [آخر تک نازل کی۔ رسول اللہ ﷺ کا طغری نے فرمایا "ان کے ساتھ گھروں میں رہو اور جماع کے علاوہ ہر کام کرو۔ یہود نے کہا: یہ شخص ہمارے کسی معاملے کو نہیں چھوڑتا، اس میں ہماری مخالفت کرتا ہے۔ سیدنا اسید بن حضیر اور عباد بن بشر^{رض} نبی ﷺ کے پاس آئے، انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول اللہ! یہود ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کیا حیض کے دنوں میں ہم ان سے جماع نہ کر لیں؟ رسول

اللہ ﷺ کا چہرہ متغیر ہو گیا، یہاں تک ہم نے گمان کیا کہ آپ ﷺ نے ان دونوں پر غصہ کیا ہے، وہ دونوں نکل گئی پھر انہوں نے نبی ﷺ کی طرف دودھ کا ہدیہ بھیجا، آپ نے ان کے پیچھے کسی کو بھیجا اور انہیں دودھ پلایا تب ہمیں یقین ہوا کہ آپ ﷺ ان پر ناراض نہیں ہیں۔
(ب) (ابی داؤد طیالسی کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ وہ ان کے ساتھ کھائیں اور پئیں اور گھروں میں رہیں اور جماع کے علاوہ جو مرضی کریں، باقی حدیث اسی اسی کے ہم معنی بیان کی ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on intimacy with a

menstruating woman over a garment and the limits of halal and haram

Hadith number: 1500

Translation:

(1500) It is narrated from Anas bin Malik (may Allah be pleased with him) that when the women among the Jews menstruated, they would expel them from their houses, they would not eat with them, nor drink with them, nor mingle with them in their homes. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) was asked about that, so Allah revealed: "وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا {النِّسَاءِ فِي الْمَحِيضِ} {And they ask you about menstruation. Say, "It is harm, so keep away from wives during menstruation} [Surah Baqarah 2:222] till the end. So the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) told them (the men) to remain in the house with them, and to do everything besides intercourse with them. The Jews said: "He does not want to leave any matter of ours without opposing us in it." Then Abbad bin Bishr and Usaid bin Hudair

(may Allah be pleased with them) came to the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) and said: 'O Messenger of Allah! The Jews say such and such. Should we not (then) have intercourse with them during their menstruation?' The face of the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) changed color, until they thought that he was angry with them. So they left, and afterwards they sent some milk as a gift to the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him), so he (the Prophet) sent some of it to them to drink (from it). Then they were certain that he was not angry with them."

[Sahih. Narrated by Muslim 203 and Nasai 289, 369 and Abu Dawud 258, 2165 and Tirmidhi 2977 and Ibn Majah 644 and Darimi 1093]

Sunan Kubra Bayhaqi 1501

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَعْدَادَ أَخْبَرَنَا (١٥٠٢)
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ
حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ وَابْنُ بُكَيْرٍ وَأَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَابْنُ رُمَحٍ
عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حَبِيبِ مَوْلَى
:- عُرْوَةَ عَنْ نُدْبَةَ مَوْلَاةٍ مَيْمُونَةَ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ -
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - كَانَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ ، وَهِيَ
حَائِضٌ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ يَبْلُغُ أَنْصَافَ الْفَخَذَيْنِ أَوْ
الرُّكْبَتَيْنِ مُحْتَجِرَةً بِهِ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاکی کا بیان

باب: مرد کے لیے حائضہ بیوی سے جماع کے علاوہ جو

درست ہے

حدیث نمبر: 1501

:ترجمہ

(۱۵۰۲) (سیدہ میمونہ ^{رض} سے روایت ہے کہ نبی ﷺ اپنی بیویوں سے مباشرت کرتے تھے اور وہ حائضہ ہوتی تھی، ان پر ازار ہوتا تھا جو نصف ران یا گھنٹوں تک ہوتا تھا وہ اس سے لپٹی ہوتی تھیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on intimacy with a

menstruating woman over a garment and the limits of halal and haram

Hadith number: 1501

Translation:

(1501) It is narrated from Syeda Maimuna (may Allah be pleased with her) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) used to be intimate with his wives while they were menstruating. She would wrap the izar (waist-wrapper)

around her down to half of the thighs or cover her knees with it.

[Sahih. Narrated by Nasai 288, 294 and Abu Dawud 267 and Ahmad 6/332, 335, 336 and Darimi 1097]

Sunan Kubra Bayhaqi 1502

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ (١٥٠٣)
الْقَاضِي قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا

مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْرَةَ
عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّبَيْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي حَبِيبُ مَوْلَى عُرْوَةَ بْنِ
-الزُّبَيْرِ أَنَّ نُدْبَةَ مَوْلَاةَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ -

أَخْبَرَتْهُ: أَنَّهَا أَرْسَلَتْهَا مَيْمُونَةَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي رِسَالَةٍ
فَدَخَلَتْ عَلَيْهِ ، فَإِذَا فِرَاشُهُ مَعْرُورٌ عَنْ فِرَاشِ امْرَأَتِهِ ، فَرَجَعَتْ
إِلَى مَيْمُونَةَ فَبَلَّغَتْهَا رِسَالَتَهَا ، ثُمَّ ذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتْ لَهَا
مَيْمُونَةُ: ارْجِعِي إِلَى امْرَأَتِهِ فَسَلِّبِهَا عَنْ ذَلِكَ . فَرَجَعَتْ إِلَيْهَا
فَسَأَلَتْهَا فَأَخْبَرَتْهَا: أَنَّهَا إِذَا طَمِثَتْ عَزَلَ عَبْدُ اللَّهِ فِرَاشَهُ عَنْهَا
فَأَرْسَلَتْ مَيْمُونَةَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَتَغَيَّبَتْ عَلَيْهِ ،
وَقَالَتْ: أَتَرْغَبُ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - فَوَاللَّهِ إِنْ كَانَتْ
الْمَرْأَةُ مِنْ أَرْوَاجِهِ لَتَأْتِرُ بِالتُّوبِ مَا يَبْلُغُ أَنْصَافَ فَخْدَيْهَا ، ثُمَّ
يُبَاشِرُهَا بِسَائِرِ جَسَدِهِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مرد کے لیے حائضہ بیوی سے جماع کے علاوہ جو

درست ہے

حدیث نمبر: 1502

:ترجمہ

(۱۵۰۳) (زہری سے روایت ہے کہ مجھ کو حبیب نے جو عروہ بن زبیر کا غلام تھا خبر دی کہ سیدہ میمونہ^{رض} نے اپنی لونڈی ندبہ کو سیدنا عبداللہ بن عباس^{رض} کی طرف ایک خط دے کر بھیجا، وہ ان کے پاس پہنچی، ان کا بستر بیوی سے الگ تھا، وہ سیدہ میمونہ^{رض} کی طرف واپس لوٹی، اس نے ان کا خط پہنچا دیا، پھر انہیں سارا قصہ بیان کیا، اس سے سیدہ میمونہ^{رض} نے کہا: اس کی بیوی کے پاس جاؤ اور اس معاملے کے متعلق اس سے سوال کرو، وہ اس کی طرف لوٹی اس نے اس سے سوال کیا تو اس نے بتلایا جب وہ حائضہ ہوتی ہے تو عبداللہ بن عباس^{رض} ان سے بستر الگ کر لیتے ہیں، میمونہ نے عبداللہ بن عباس^{رض} کی طرف پیغام بھیجا اور وہ ان پر غصے ہوئیں اور کہا: کیا تو رسول اللہ ﷺ کی سنت سے اعراض کرتا ہے، اللہ کی قسم! بیشک نبی ﷺ کی بیوی کپڑے سے لنگوٹ باندھتی جو نصف رانوں تک ہوتی تھی پھر آپ ﷺ اس کے علاوہ باقی (سارے جسم سے) مباشرت کرتے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: What is permissible for a man do with his menstruating wife if he can't have intercourse

Hadith number: 1502

Translation:

(1502) It is narrated on the authority of Zuhri that Habib, who was the slave of Urwah ibn Zubayr, informed me that Syeda Maimuna (may Allah be pleased with her) sent her slave Nadba to Abdullah ibn Abbas (may Allah be pleased with him) with a letter, when she arrived at his place, (she saw that) his bed was separated from his wife, she returned to Syeda Maimuna (may Allah be pleased with her), she had delivered the letter, then told her the whole story, after which Syeda Maimuna said: Go to his wife and ask her about this matter.

She went to her and asked her so she told her that whenever she menstruates, Abdullah ibn Abbas (may Allah be pleased with him) separates his bed from her. Maimuna sent a message to Abdullah ibn Abbas and she was angry at him and said: Do you deviate from the Sunnah of the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him). By Allah! Indeed, the wife of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) used to tie a waist-wrapper with a cloth which came up to half of her thighs and then he would be intimate with her whole body (except the part covered with the waist-wrapper).

[Daif (Weak). Narrated by Ahmad 6/332]

Sunan Kubra Bayhaqi 1503

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوَدْبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ (١٥٠٤)
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ جَابِرِ بْنِ صُبَيْحٍ
قَالَ سَمِعْتُ خِلَاسًا الْهَجْرِيَّ
قَالَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - نَبِيْتُ فِي
الشَّعَارِ الْوَاحِدِ وَأَنَا حَائِضٌ طَامِئٌ ، فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ
غَسَلَ مَكَانَهُ لَمْ يَعْذُهُ ، وَإِنْ أَصَابَ يَعْزِي ثَوْبَهُ غَسَلَ مَكَانَهُ
وَلَمْ يَعْذُهُ وَصَلَّى فِيهِ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان

باب: مرد کے لیے حائضہ بیوی سے جماع کے علاوہ جو
درست ہے

حدیث نمبر: 1503

:ترجمہ

(۱۵۰۴) (خلاص ہجری کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ
سے سنا کہ میں اور رسول اللہ ﷺ ایک چادر میں رات
گزارتے تھے، اور میں بہت زیادہ حائضہ ہوتی تھی، اگر آپ
ﷺ کو مجھ سے کوئی چیز لگ جاتی تو آپ ﷺ اس جگہ کو
دھو لیتے، اس سے آگے تجاوز نہیں کرتے تھے اور اس
(کیڑے ہی (میں نماز پڑھتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: What is permissible for a man do
with his menstruating wife if he can't have
intercourse

Hadith number: 1502

Translation:

(1502) Khallas Hujari says that I heard from Ayesha (may Allah be pleased with her) that I used to spend the night in one sheet with the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) while I menstruated profusely. If anything from me (i.e. blood) smeared him (i.e. his body), he would wash that spot and would not exceed it (in washing), then he would offer prayer with it.

[Sahih. Narrated by Nasai 285, 372, 774 and Abu Dawud 269, 2166 and Ahmad 6/44 and Darimi 1054]

Sunan Kubra Bayhaqi 1504

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو (١٥٠٥)
دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ
بْنِ غَانِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ عَنْ عُمَارَةَ بِنِ
غُرَابٍ أَنَّ عَمَّةً لَهَا حَدَّثَتْهُ: أَنَّهَا سَأَلَتْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِحْدَانَا
:تَحِيضُ وَلَيْسَ لَهَا وَلِزَوْجِهَا إِلَّا فِرَاشٌ وَاحِدٌ. قَالَتْ
- أَخْبِرُكِ مَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - دَخَلَ فَمَضَى إِلَى مَسْجِدِهِ
قَالَ أَبُو دَاوُدَ تَعْنِي مَسْجِدَ بَيْتِهِ - فَلَمْ يَنْصَرِفْ حَتَّى غَلَبْتَنِي
عَيْنِي وَأَوْجَعَهُ الْبَرْدُ فَقَالَ: ((:أَذْنِي مِنِّي)) - فَقُلْتُ: إِنِّي حَائِضٌ -
قَالَ: ((:وَأِنْ، اكْشِفِي عَنْ فَخْذَيْكِ. فَكَشَفْتُ فَخْذِيَّ فَوَضَعَ خَدَّهُ
وَصَدْرَهُ عَلَيَّ فَخِذِيَّ)) - وَحَنَيْتُ عَلَيْهِ حَتَّى دَفَيْتُ وَنَامَ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مرد کے لیے حائضہ بیوی سے جماع کے علاوہ جو

درست ہے

حدیث نمبر: 1504

ترجمہ:

(۱۵۰۵) (عمارہ بن غراب کی پھوپھی نے سیدہ عائشہ ^{رض} سے عرض کیا: جب ہم میں سے کوئی حیض والی ہوتی تھی تو اس کا اور اس کے خاوند کا ایک ہی بستر ہوتا تھا۔ انہوں نے فرمایا: میں تجھے بتاتی ہوں کہ آپ ﷺ کیا کرتے تھے؟ آپ ﷺ داخل ہوئے، پھر مسجد کی طرف چلے گئے۔ امام ابو داؤد (رح) کہتے ہیں۔ یعنی اپنے گھر کی مسجد میں، آپ ﷺ پھرے نہیں، یہاں تک کہ میرے آنکھیں غالب آگئیں (یعنی مجھے نیند آگئی) اور آپ ﷺ کو سردی محسوس ہوئی تو آپ ﷺ نے فرمایا "میرے قریب ہو جاؤ! میں نے کہا: میں حائضہ ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا "اپنی رانوں کو ڈھانپ لو، میں نے اپنی رانوں کو ڈھانپ لیا، آپ ﷺ نے اپنا رخسار اور سینہ میرے ران پر رکھا اور میں آپ ﷺ پر جھکی، یہاں تک کہ آپ ﷺ نے گرمی حاصل کی اور سو گئے۔"

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: What is permissible for a man do with his menstruating wife if he can't have intercourse

Hadith number: 1504

Translation:

(1504) Umarah bin Ghurab's paternal aunt asked Ayesha (may Allah be pleased with her): What if one of us menstruates and she and her husband have only one bed. She said: I will tell you what the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) used to do. He entered upon me, then went towards the prayer place. (Imam Abu Dawud says: i.e. his prayer place in his home). He did not return until my eyes overtook me (meaning, I was sleepy), and

he felt cold so he said: Come near me. I said: I am menstruating. He said: Uncover your thighs. I, therefore, uncovered both of my thighs. Then he put his cheek and chest on my thighs and I lent on him until he became warm and slept.

[Daif (Weak). Narrated by Abu Dawud 270]

Sunan Kubra Bayhaqi 1505

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ (١٥٠٦)
إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ
عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - ﷺ - : أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - كَانَ
، إِذَا أَرَادَ مِنَ الْحَائِضِ شَيْئًا أَمْرًا فَأَلْقَتْ عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبًا
ثُمَّ صَنَعَ مَا أَرَادَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَكُلُّ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ - ﷺ - ثِقَاتٍ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مرد کے لیے حائضہ بیوی سے جماع کے علاوہ جو

درست ہے

حدیث نمبر: 1505

ترجمہ:

(1506) (سیدنا عکرمہ نبی ﷺ کی کسی بیوی سے نقل

فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ جب حائضہ سے کسی چیز کا ارادہ کرتے تو آپ ﷺ اس کو اپنی شرمگاہ پر کپڑا ڈالنے کا حکم دیتے، پھر آپ ﷺ کرتے جو آپ چاہتے۔ ابوبکر کہتے ہیں نبی ﷺ کی تمام بیویاں ثقہ ہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: What is permissible for a man do with his menstruating wife if he can't have intercourse

Hadith number: 1505

Translation:

(1505) Syeduna Ikrimah (may Allah be pleased with him) narrates from one of the wives of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) that when the the Prophet intended to do something (i.e. kissing, embracing) with his menstruating wife, he would order her to put a garment

on her private part. Abu Bakr says: All the wives of the Prophet are trustworthy.
[Sahih. Narrated by Abu Dawud 272]

Sunan Kubra Bayhaqi 1506

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ (١٥٠٧)

اسْحَاقُ أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا
 زُبَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ
 ، رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - يُبَاشِرُنِي فِي شِعَارٍ وَاحِدٍ وَأَنَا حَائِضٌ
 وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِزْبِهِ أَوْ يَمْلِكُ إِزْبَهُ -
 كَذَا رَوَاهُ زُبَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ - (ت) (وَتَابَعَهُ إِسْرَائِيلُ -
 وَرَوَاهُ شُعْبَةُ فَبَيَّنَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بَعْدَ الْإِتِّزَارِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مرد کے لیے حائضہ بیوی سے جماع کے علاوہ جو

درست ہے

حدیث نمبر: 1506

:ترجمہ

(۱۵۰۷) (الف) (سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ

ان کے ساتھ ایک چادر میں لیٹ کر مباشرت کرتے تھے،

اور وہ تمہاری نسبت اپنے نفس کے زیادہ مالک تھے۔

(ب) (شعبہ بیان کرتے ہیں کہ یہ لنگوٹ باندھنے کے بعد

تھا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: What is permissible for a man do with his menstruating wife if he can't have intercourse

Hadith number: 1506

Translation:

(1506) (a) It is narrated from Ayesha (may Allah be pleased with her) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) used to lie down with her in one sheet and be intimate with her, and he had more control over his desire than you.

(B) Shuba says that this was after (she had) tied the waist-wrapper.

Sunan Kubra Bayhaqi 1507

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْمُقْرِيُّ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١٥٠٨)
بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ
مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَتَرُّ وَأَنَا حَائِضٌ وَأَدْخُلُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -
ﷺ - فِي لِحَافِهِ -

، وَالْأَحَادِيثُ الَّتِي مَضَتْ فِي الْبَابِ قَبْلَ هَذَا أَصَحُّ وَأَبِينُ
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِمَا عَسَى أَنْ يَصِحَّ مِنْ هَذِهِ
الْأَحَادِيثِ مَا هُوَ مُبَيَّنٌّ فِي تِلْكَ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مرد کے لیے حائضہ بیوی سے جماع کے علاوہ جو
درست ہے

حدیث نمبر: 1507

:ترجمہ

(۱۵۰۸) (الف) (سیدہ عائشہؓ سے روایت ہے کہ میں لنگوٹ
باندھتی تھی اور میں حائضہ ہوتی تھی، میں ایک لحاف میں

رسول اللہ ﷺ کے ساتھ داخل ہوتی تھی۔

(ب) (اس باب میں جتنی احادیث گزری ہیں وہ سب صحیح
اور صریح ہیں۔ واللہ اعلم۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: What is permissible for a man do
with his menstruating wife if he can't have

intercourse

Hadith number: 1507

Translation:

(1507) (a) It is narrated from Ayesha (may Allah be pleased with her) that I used to tie a waist-wrapper while I would menstruate, and I would enter in a blanket with the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him).

(B) All the ahadith that have been narrated in this chapter are authentic and clear. Allah knows best.

[Sahih. Narrated by Darimi 1048]

Sunan Kubra Bayhaqi 1508

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ (١٥٠٩)
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ قَالَ قُرِيَ عَلَيَّ
شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ أَخْبَرَكَ أَبُوكَ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى
عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ عِقَالٍ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ
عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مَا يَحْرُمُ عَلَيَّ مِنْ أَمْرَاتِي وَأَنَا صَائِمٌ؟ قَالَتْ:
فَرَجُهَا. قَالَ فَقُلْتُ: مَا يَحْرُمُ عَلَيَّ مِنْ أَمْرَاتِي إِذَا حَاضَتْ؟
قَالَتْ: فَرَجُهَا.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مرد کے لیے حائضہ بیوی سے جماع کے علاوہ جو

درست ہے

حدیث نمبر: 1508

:ترجمہ

(۱۵۰۹) حکیم بن عقال کہتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ سے سوال کیا: مجھ پر میری عورت سے کیا حرام ہے جب میں روزہ دار ہوں؟ انہوں نے کہا: اس کی شرمگاہ۔ میں نے کہا: مجھ پر میری بیوی سے کیا حرام ہے جب وہ حائضہ ہو؟ انہوں نے کہا: اس کی شرمگاہ۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: What is permissible for a man do with his menstruating wife if he can't have intercourse

Hadith number: 1508

Translation:

(1508) Hakeem ibn Iqaal says: I asked Ayesha (may Allah be pleased with her): What is prohibited for me from my wife

while I am fasting? She said, Her private part. I said: What is prohibited for me from my wife when she is menstruating? She said: Her private part.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence). Narrated by Tahawi 2/95]

Sunan Kubra Bayhaqi 1509

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بَشْرَانَ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ (١٥١٠)
الرِّزَّازُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ: بِأَشْمِ بْنِ
الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ فَضَيْلٍ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّائِيِّ عَنْ
عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اتَّقِ مِنَ الْحَائِضِ مِثْلَ مَوْضِعِ النَّعْلِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مرد کے لیے حائضہ بیوی سے جماع کے علاوہ جو

درست ہے

حدیث نمبر: 1509

:ترجمہ

(1510) (سیدنا ابن عباسؓ سے روایت کہ حائضہ سے جوتی

جیسی جگہ سے بچ۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: What is permissible for a man do with his menstruating wife if he can't have intercourse

Hadith number: 1509

Translation:

(1509) It is narrated on the authority of Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) that he said: Beware of a menstruating woman like (you are to) a shoe

[Daif (Weak). Narrated by Tabari in his Tafsir]

Sunan Kubra Bayhaqi 1510

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ (١٥١١)
الْمَحْبُوبِيُّ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ
شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - فِي الَّذِي
يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَبِئْسَ حَائِضٌ قَالَ : يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ وَعَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَائٍ
الْخَفَّافُ عَنْ شُعْبَةَ -

وَرَوَاهُ عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ شُعْبَةَ
مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بَشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا أَبُو

جَعْفَرِ الرَّزَّازِ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِيُّ أَخْبَرَنَا
الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ
الْقَاضِي حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ
مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ-

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مُسْلِمٌ بْنُ إِبرَاهِيمَ وَحَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ
وَحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ وَجَمَاعَةٌ عَنْ شُعْبَةَ مَوْقُوفًا عَلَى ابْنِ
عَبَّاسٍ- وَقَدْ بَيَّنَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ أَنَّهُ رَجَعَ
عَنْ رَفْعِهِ بَعْدَ مَا كَانَ يَرْفَعُهُ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: حائضہ سے وطی کرنے پر کفارہ کا حکم

حدیث نمبر: 1510

:ترجمہ

(۱۵۱۱) (الف) (سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما) سے نقل فرماتے ہیں کہ

جو شخص اپنی بیوی کے پاس حیض کی حالت

میں آتا ہے) وہ کیا کرے؟ انہوں نے کہا: ایک یا آدھا دینار
صدقہ کرے۔
(ب (مختلف اسناد سے شعبہ سیدنا ابن عباس رض سے موقوفاً
بیان کرتے ہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on offering expiation for
having intercourse with a menstruating
woman

Hadith number: 1510

Translation:

(1510) (a) Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) narrates from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) about a person who has intercourse with his wife while she is menstruating (what should he do)? He said: Give one or half a dinar in charity.

(B) Shuba sometimes narrated it as a mawquf hadith from Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) with different isnads (chains of transmission).

[Sahih. Narrated by Nasai 290, 370 and Abu Dawud 264, 2168 and Tirmidhi 136, 137 and Ibn Majah 640 and Ahmad 1/237, 272, 286, 312, 325, 363, 367]

Sunan Kubra Bayhaqi 1511

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ (١٥١٢)
بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ
بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَبِئْسَ حَائِضٌ فَذَكَرَهُ مَوْقُوفًا.
قَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ فَقِيلَ لِشُعْبَةَ: إِنَّكَ كُنْتَ تَرْفَعُهُ. قَالَ: إِنِّي كُنْتُ
مَجْنُونًا فَصَحَّحْتُ. فَقَدْ رَجَعَ شُعْبَةُ عَنْ رَفْعِ الْحَدِيثِ وَجَعَلَهُ
مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: حائضہ سے وطی کرنے پر کفارہ کا حکم

حدیث نمبر: 1511

ترجمہ:

(۱۵۱۲) سیدنا ابن عباس ^{رض} اس شخص کے متعلق روایت کرتے ہیں جو اپنی بیوی کے پاس حیض کی حالت میں آتا ہے، انہوں نے اس کو موقوف بیان کیا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on offering expiation for having intercourse with a menstruating woman

Hadith number: 1511

Translation:

(1511) Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) says about a person who has intercourse with his wife (while she is in) the state of menstruation, he has narrated this as a mawquf hadith.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1512

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا أَبُو (١٥١٣)
بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ
الْهَلَالِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ
طَهْمَانَ حَدَّثَنِي مَطَرُ الْوَرَّاقُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَتِيْبَةَ عَنْ مِقْسَمِ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - فِيمَنْ وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ
وَبِي حَائِضٌ : أَنَّهُ يَتَّصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ - هَكَذَا رَوَاهُ
جَمَاعَةٌ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَتِيْبَةَ عَنْ مِقْسَمِ -

وَفِي رِوَايَةٍ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْحَكَمَ لَمْ
يَسْمَعْهُ مِنْ مِقْسَمٍ إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ مِقْسَمٍ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: حائضہ سے وطی کرنے پر کفارہ کا حکم

حدیث نمبر: 1512

ترجمہ:

(۱۵۱۳) (سیدنا ابن عباس رض سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے متعلق فرمایا جو حیض کی حالت میں اپنی بیوی پر واقع ہو جائے کہ وہ ایک یا آدھا دینار صدقہ کرے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on offering expiation for

having intercourse with a menstruating woman

Hadith number: 1512

Translation:

(1512) It is narrated on the authority of Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said about a person who comes to his wife while she is menstruating that he should give one or half a dinar in charity.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1513

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ (١٥١٤)
يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَايٍ
أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ -
ﷺ - أَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ - فَفَسَّرَهُ قَتَادَةُ
قَالَ: إِنْ كَانَ وَاجِدًا فِدِينَارًا ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفِ دِينَارٍ -
لَمْ يَسْمَعْهُ قَتَادَةُ مِنْ مِقْسَمٍ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: حائضہ سے وطی کرنے پر کفارہ کا حکم

حدیث نمبر: 1513

ترجمہ:

(۱۵۱۴) (سیدنا ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ان کو حکم دیا کہ وہ ایک دینار یا آدھا دینار صدقہ کریں۔ قتادہ نے تفسیر بیان کی ہے کہ اگر ایک دینار پائے تو ایک کر دے اور اگر زیادہ نہ پائے تو آدھا دینار تو کر ہی دے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on offering expiation for having intercourse with a menstruating woman

Hadith number: 1513

Translation:

(1513) It is narrated on the authority of Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) commanded them to give one dinar or half a dinar in charity.

Qatadah (may Allah have mercy on him) has explained this (narration) saying that if he has one dinar, he should give one and if he does not have more, then he should give half a dinar (in charity).

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1514

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ (١٥١٥)
إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
بَكْرِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا غَشِيَ امْرَأَتَهُ وَبِئْسَ حَائِضٌ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ
ﷺ - عَنْ ذَلِكَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ - وَلَمْ-
يَسْمَعْهُ أَيضًا مِنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: حائضہ سے وطی کرنے پر کفارہ کا حکم
حدیث نمبر: 1514

:ترجمہ

(1515) (سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ

سے اس شخص کے متعلق سوال کیا گیا جو حیض کی حالت اپنی بیوی سے جماع کرتا ہے تو آپ ﷺ نے اس کو ایک دینار یا آدھا دینار صدقے کا حکم دیا۔ عبد الحمید سے اس کا سماع ثابت نہیں ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on offering expiation for having intercourse with a menstruating woman

Hadith number: 1514

Translation:

(1514) It is narrated on the authority of Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) was asked about a person who has intercourse with his wife when she is menstruating, so he ordered him to give one dinar or half a

dinar in charity.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1515

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ أَنْ خُبَرْنَا (١٥١٦)
أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّفَّارِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي حَدَّثَنَا بُدْبَةُ
بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ الْجَعْدِ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ حَدَّثَنِي الْحَكَمُ بْنُ
عُتَيْبَةَ أَنَّ عَبْدَ الْحَمِيدِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

-حَدَّثَهُ أَنَّ مَقْسَمًا حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ -
فَرَعَمَ أَنَّهُ أَتَى يَعْغِي امْرَأَتَهُ وَبِئِ حَائِضٌ ، فَأَمَرَهُ نَبِيُّ اللَّهِ -
ﷺ - أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفَ دِينَارٍ -

كَذَا رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ الْجَعْدِ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَكَمِ مَرْفُوعًا. وَفِي
رِوَايَةِ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ مَوْقُوفٌ. وَكَذَلِكَ
رَوَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّقْرِيُّ مَوْقُوفًا إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ عَبْدَ
الْحَمِيدِ مِنْ إِسْنَادِهِ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: حائضہ سے وطی کرنے پر کفارہ کا حکم

حدیث نمبر: 1515

:ترجمہ

(سیدنا ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص
نبی ﷺ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ وہ اپنی بیوی کے پاس
حیض کی حالت میں آیا ہے۔ نبی ﷺ نے اس کو ایک دینار
صدقہ کرنے کا حکم دیا، اگر وہ نہ پائے تو

آدھا دینار) صدقہ کرے۔)

(ب (قتادہ نے حکم سے مرفوعاً نقل کیا ہے۔ شعبہ حکم سے موقوفاً بیان کرتا ہے، اسی طرح ابو عبداللہ اشقری نے موقوفاً موقوفاً بیان کیا ہے، صرف اس کی سند میں عبدالحمید راوی ساقط ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on offering expiation for having intercourse with a menstruating woman

Hadith number: 1515

Translation:

(1515) It is narrated on the authority of Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) that a man came to the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) and said that he went to (i.e. had intercourse with) his wife while she was in the state of

menstruation. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) commanded him to give one dinar in charity, and if he does not have that, he should give half a dinar (in charity).

(B) Qatadah has quoted a marfu hadith from Hakam. Shuba narrates a marfu hadith from Hakam, similarly Abu Abdullah Ashqari has also narrated the hadith as marfu, only Abdul Hameed Ravi is omitted in its chain of transmission.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1516

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ (١٥١٧)
إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا عَارِمٌ حَدَّثَنَا
سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الشَّقَرِيُّ أَرَاهُ عَنِ الْحَكَمِ
بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْحَائِضِ إِذَا وَقَعَ
عَلَيْهَا الْحَدِيثُ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: حائضہ سے وطی کرنے پر کفارہ کا حکم
حدیث نمبر: 1516

:ترجمہ

(١٥١٧) (سیدنا ابن عباسؓ سے حائضہ کے متعلق منقول

ہے کہ جب اس کا خاوند اس پر واقع ہو جائے۔۔۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on offering expiation for having intercourse with a menstruating woman

Hadith number: 1516

Translation:

(1516) It is narrated from Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) regarding the menstruating woman that when her husband goes to her ...

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1517

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوَدُبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ (١٥١٨)
قَالَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ السَّجِسْتَانِيُّ وَرَوَى الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ
أَبِي مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَظُنُّهُ عَنْ
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَ :
((أَمْرُهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمْسِي دِينَارٍ)) -
وَبِذَا اخْتَلَفَ ثَالِثٌ فِي إِسْنَادِهِ وَمَنْتِهِ -

رَوَاهُ إِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ عَنْ بَقِيَّةِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ
بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّهُ كَانَتْ
لَهُ امْرَأَةٌ تَكْرَهُهُ الرِّجَالُ ، فَكَانَ كُلَّمَا أَرَادَهَا اعْتَلَّتْ لَهُ بِالْحَيْضَةِ
فَظَنَّ أَنَّهَا كَاذِبَةٌ فَأَتَاهَا فَوَجَدَهَا صَادِقَةً ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ - فَأَمَرَهُ أَنْ
يَتَصَدَّقَ بِخُمْسِي دِينَارٍ -

وَكذَلِكَ رَوَاهُ إِسْحَاقُ عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ عَنْ زَيْدِ بْنِ
عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَتْ
لَهُ امْرَأَةٌ فَذَكَرَهُ. وَهُوَ مُنْقَطِعٌ بَيْنَ عَبْدِ الْحَمِيدِ وَعُمَرَ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: حائضہ سے وطی کرنے پر کفارہ کا حکم

حدیث نمبر: 1517

ترجمہ:

(۱۵۱۸) (الف) (سیدنا عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا " اس کو دو خمس دینار صدقہ کرنے کا حکم کرو۔ " اس کی سند اور متن میں اختلاف ہے۔

(ب) (اوزاعی اسیسند کے ساتھ سیدنا عمر بن خطاب سے نقل فرماتے ہیں کہ ایک شخص کی بیوی مردوں کے پاس آنا ناپسند کرتی تھی۔ ایک دفعہ اس نے عورت کے پاس آنا چاہا تو اس نے حیض کی شکایت کی، اس نے سمجھا: وہ جھوٹی ہے۔ وہ اس کے پاس آیا تو اس

نے سچا پایا، پھر وہ نبی ﷺ کے پاس آیا تو آپ ﷺ نے دو
خمس دینار صدقہ کرنے کا حکم دیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on offering expiation for
having intercourse with a menstruating
woman

Hadith number: 1517

Translation:

(1517) (a) It is narrated on the authority of Umar ibn al-Khattab (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "Order him to give two khums dinars in charity."

There is a difference of opinion on its text and sanad (chain of transmission).

(B) Awzai narrates with the same sanad (chain of transmission) from Umar ibn al-Khattab (may Allah be pleased with him) that a man's wife used to dislike going to him (i.e. having intercourse with him). Once he wanted to go to the woman (to have intercourse), when she complained that she is menstruating, he thought: she is a liar. When he went to her, he found it to be true. Then he went to the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) and he ordered him to give two khums dinars in charity.

[Daif, Munkar (Weak, Odd)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1518

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ (١٥١٩)
الرُّوَدْبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ خُصَيْفٍ عَنْ
مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَ ((إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ
بِأَيْلِهِ وَبِئْرٍ حَائِضٌ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ)) -
قَالَ الشَّيْخُ: رَوَاهُ شَرِيكٌ مَرَّةً فَشَكََّ فِي رَفْعِهِ - وَرَوَاهُ
الثَّوْرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَدِيمَةَ وَخُصَيْفٍ فَأَرْسَلَهُ

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: حائضہ سے وطی کرنے پر کفارہ کا حکم

حدیث نمبر: 1518

:ترجمہ

(۱۵۱۹) الف (سیدنا ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا: جب کوئی شخص حیض کی حالت میں اپنی بیوی پر واقع ہو جائے تو وہ نصف دینار صدقہ کرے۔
ب (شیخ کہتے ہیں کہ شریک نے اس کو روایت کیا ہے اور اس کے مرفوع ہونے میں شک کیا ہے۔ امام ثوری نے علی بن بذیمہ اور خصیف سے مرسلًا نقل کیا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on offering expiation for having intercourse with a menstruating woman

Hadith number: 1518

Translation:

(1518) (a) It is narrated on the authority of Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of

Allah be upon him) said: When a man has intercourse with his wife while she is menstruating, he should give half a dinar in charity.

[Sahih. Narrated by Nasai 290, 370 and Abu Dawud 264, 2168 and Tirmidhi 136, 137 and Ibn Majah 640 and Ahmad 1/237, 272, 286, 312, 325, 363, 367]

Sunan Kubra Bayhaqi 1519

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ (١٥٢٠)
إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ
- حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ بَدِيمَةَ وَخُصَيْفٌ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -
فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ الْحَدِيثَ. خُصَيْفُ الْجَزْرِيُّ
غَيْرُ مُحْتَجِّ بِهِ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: حائضہ سے وطی کرنے پر کفارہ کا حکم
حدیث نمبر: 1519

ترجمہ:

(١٥٢٠) (مقسم نبی ﷺ سے اس شخص کے متعلق نقل فرماتے ہیں جو حیض کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس آجاتا ہے۔۔۔)

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on offering expiation for having intercourse with a menstruating woman

Hadith number: 1519

Translation:

(1519) Maqsum narrates from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) about a person who has intercourse with his wife while she is menstruating...

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1520

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ (١٥٢١)
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو
الْأَسْوَدِ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ عَبْدِ
الْكَرِيمِ الْبَصْرِيِّ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -
ﷺ - قَالَ ((إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ امْرَأَتُهُ فِي الدَّمِ فَلْيَتَّصِدَّقْ بِدِينَارٍ
وَإِذَا وَطِئَهَا وَقَدْ رَأَتْ الطُّهْرَ وَلَمْ تَغْتَسِلْ فَلْيَتَّصِدَّقْ بِنِصْفِ
دِينَارٍ)) -
كَذَا فِي رِوَايَةِ ابْنِ جُرَيْجٍ -
وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ فَجَعَلَ التَّفْسِيرَ مِنْ
قَوْلِ مِقْسَمٍ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: حائضہ سے وطی کرنے پر کفارہ کا حکم

حدیث نمبر: 1520

:ترجمہ

(۱۵۲۱) (سیدنا ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " تم میں سے جو شخص اپنی بیوی کے پاس حالتِ حیض میں آئیتو وہ ایک دینار صدقہ کرے اور اگر اس نے پاکی میں جماع کیا لیکن عورت نے غسل نہیں کیا تھا تو وہ نصف دینار صدقہ کرے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on offering expiation for having intercourse with a menstruating woman

Hadith number: 1520

Translation:

(1520) It is narrated on the authority of Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: Whoever of you has intercourse with his wife while she is menstruating, he should give one dinar in charity, and if he had sexual intercourse (with her) when he was pure but the woman had not taken a bath (i.e. was impure), then he should give half a dinar in charity.

[Daif, Munkar (Weak, Odd)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1521

Arabic Text:

:أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ (١٥٢٢)
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ
الْوَهَّابِ بْنُ عَطَايٍ أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مِقْسَمِ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - أَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ
دِينَارٍ - وَفَسَّرَ ذَلِكَ مِقْسَمٌ فَقَالَ: إِنْ غَشِيَهَا فِي الدَّمِ فِدِينَارٌ ، وَإِنْ
غَشِيَهَا بَعْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ فَنِصْفُ دِينَارٍ -
وَقِيلَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: حائضہ سے وطی کرنے پر کفارہ کا حکم

حدیث نمبر: 1521

ترجمہ:

(۱۵۲۲) (سیدنا ابن عباس^{رض} سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے اس کو ایک دینار یا آدھا دینار صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ مقسم نے اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ اگر اس نے خون جاری ہونے کی حالت میں جماع کیا ہے تو ایک دینار اور اگر خون ختم ہونے کے بعد غسل کرنے سے پہلے کیا تو آدھا دینار صدقہ کرے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on offering expiation for having intercourse with a menstruating woman

Hadith number: 1521

Translation:

(1521) It is narrated on the authority of Ibn Abbas (may Allah be pleased with him)

that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) ordered him to give one dinar or half a dinar in charity.

Maqsam has explained this, saying that if he had sexual intercourse while (she was) bleeding, he should give one dinar, and if he did so before (she) took a bath and after the bleeding had stopped, he should give half a dinar in charity.

[Daif, Munkar (Weak, Odd)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1522

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذُبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو طَابِرٍ (١٥٢٣)
الْمُحَمَّدَابَادِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو قِلَابَةَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا
سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ عِكْرِمَةَ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ
وَبِئْسَ حَائِضٌ: يَتَّصَدَّقُ بِدِينَارٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفِ
دِينَارٍ. فَسَّرَهُ مِقْسَمٌ فَقَالَ: إِذَا كَانَ فِي إِقْبَالِ الدَّمِ فِدِينَارٌ، وَإِذَا
كَانَ فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ دِينَارٍ، وَإِذَا لَمْ تَغْتَسِلْ فَنِصْفُ
دِينَارٍ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: حائضہ سے وطی کرنے پر کفارہ کا حکم

حدیث نمبر: 1522

:ترجمہ

(۱۵۲۳) (سیدنا ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس شخص کے متعلق فرمایا جو حیض کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس آتا ہے کہ وہ ایک دینار صدقہ کرے گا اور اگر وہ (خون نہ پائے تو آدھا دینار۔ مقسم نے اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ اگر خون آتے وقت اس نے جماع کیا ہے تو ایک دینار اور اگر خون کے ختم ہوتے وقت کیا ہے تو آدھا دینار اور اگر اس عورت نے غسل نہیں کیا تھا تو آدھا دینار ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on offering expiation for having intercourse with a menstruating woman

Hadith number: 1522

Translation:

(1522) It is narrated on the authority of Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of

Allah be upon him) said about a person who has intercourse with his wife during menstruation that he will give one dinar in charity and if he does not see (blood) then (he should give) half a dinar.
[Daif, Munkar (Weak, Odd)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1523

Arabic Text:

رَوَاهُ أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ (١٥٢٤)
ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ
حَائِضٌ قَالَ : إِنْ كَانَ الدَّمُ عَيْبًا فَلْيَتَّصِدَّقْ بِدِينَارٍ ، وَإِنْ كَانَ فِي
الصُّفْرَةِ فَنِصْفُ دِينَارٍ . أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا
أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّفَّارِ حَدَّثَنَا الْبَاغِنْدِيُّ وَالنَّرْسِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى الْعَبْسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ فَذَكَرَهُ .
وَرَوَاهُ بِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ فَوْقَهُ .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب : پاکی کا بیان
باب : حائضہ سے وطی کرنے پر کفارہ کا حکم
حدیث نمبر : 1523

:ترجمہ

(١٥٢٤) ہمیں ابو جعفر رازی نے بیان کیا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on offering expiation for having intercourse with a menstruating woman

Hadith number: 1523

Translation:

(1523) Abu Jafar Razi narrated to us.

[Daif, Munkar (Weak, Odd)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1524

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ (١٥٢٥)
عُبَيْدِ الصَّفَّارِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَائِمٍ
حَدَّثَنَا بِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ عَنْ مِقْسَمِ
:عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ
يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ - هَذَا أَشْبَهُهُ بِالصَّوَابِ - (ج)
وَعَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ أَبُو أُمَيَّةَ غَيْرُ مُحْتَجِّ بِهِ -
وَرُوِيَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْجَزْرِيِّ عَنْ مِقْسَمِ مَوْقُوفًا عَلَى
ابْنِ عَبَّاسٍ مَا يُوَافِقُ تَفْسِيرَ مِقْسَمِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: حائضہ سے وطی کرنے پر کفارہ کا حکم

حدیث نمبر: 1524

:ترجمہ

(١٥٢٥) (سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے متعلق روایت

کرتے ہیں جو حیض کی حالت میں اپنی بیوی کو آتا ہے کہ وہ ایک دینار یا آدھا دینار صدقہ کرے گا یہ درستگی کے زیادہ قریب ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on offering expiation for having intercourse with a menstruating woman

Hadith number: 1524

Translation:

(1524) Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) narrates about a person who has intercourse with his wife while she is menstruating that he will give one dinar or half a dinar in charity, this is closer to being the correct opinion.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1525

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذُبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ (١٥٢٦)
دَاسَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ حَدَّثَنَا
جَعْفَرُ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ عَنْ
أَبِي الْحَسَنِ الْجَزْرِيِّ عَنْ مِقْسَمِ بْنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا
أَصَابَهَا فِي الدَّمِ فِدِينَارٌ ، وَإِذَا أَصَابَهَا فِي انْقِطَاعِ الدَّمِ فَنِصْفُ
دِينَارٍ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: حائضہ سے وطی کرنے پر کفارہ کا حکم

حدیث نمبر: 1525

:ترجمہ

(۱۵۲۶) (سیدنا ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ جب وہ خون جاری ہونے کی حالت میں) جماع (کرے تو ایک دینار اور جب خون کے ختم ہونے کے بعد کرے تو آدھا دینار ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on offering expiation for having intercourse with a menstruating woman

Hadith number: 1525

Translation:

(1525) It is narrated on the authority of Ibn Abbas (may Allah be pleased with him)

that when he has intercourse (with a menstruating woman) while she is bleeding, it is one dinar (to be given in charity) and when he does it after the bleeding has stopped, then it is half dinar (to be given in charity).

[Sahih. Narrated by Abu Dawud 265, 2169]

Sunan Kubra Bayhaqi 1526

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرِ أَحْمَدُ بْنُ (١٥٢٧)
الْحَسَنِ الْقَاضِي وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي وَأَبُو
الْقَاسِمِ: الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبِ الْمُفَسِّرِ وَأَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي
عَمْرٍو قَالُوا أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا
الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّورِيِّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرِ الرَّزَّازُ
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ أَبُو الْأَخْوَصِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ ابْنِ عَطَائٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ
عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فِي الَّذِي يَقَعُ عَلَى امْرَأَتِهِ
وَيْ حَائِضٌ قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ - (ج)
وَيَعْقُوبُ بْنُ عَطَائٍ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: حائضہ سے وطی کرنے پر کفارہ کا حکم

حدیث نمبر: 1526

:ترجمہ

(۱۵۲۷) (سیدنا ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس شخص کے متعلق فرمایا جو حیض کی حالت میں اپنی بیوی پر واقع ہوجاتا ہے کہ وہ "ایک یا آدھا دینار صدقہ صدقہ کرے گا۔"

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on offering expiation for having intercourse with a menstruating woman

Hadith number: 1526

Translation:

(1526) It is narrated on the authority of Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said about a person who has intercourse with his wife while she is menstruating that he will give one or

half a dinar in charity.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1527

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ (١٥٢٨)
إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا عَطَايُ الْعَطَّارُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - فِي الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَبِئ

حَائِضٌ)) :يَتَّصَدَّقُ بِدِينَارٍ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفَ دِينَارٍ ((-
عَطَائٍ هُوَ ابْنُ عَجَلَانَ ضَعِيفٌ مَثْرُوكٌ. وَقَدْ قِيلَ عَنْهُ عَنْ
عَطَائٍ وَعِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ-
وَرُوِيَ عَنْ عَطَائٍ وَعِكْرِمَةَ أَنَّهُمَا قَالَا :لَا شَيْءَ عَلَيْهِ
يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ-

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ :أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ
الْفَقِيهَ :جُمْلَةٌ بِذِهِ الْأَخْبَارِ مَرْفُوعِيهَا وَمَوْقُوفِيهَا يَرْجِعُ إِلَى
عَطَائِ الْعَطَّارِ وَعَبْدِ الْحَمِيدِ وَعَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ وَفِيهِمْ
نَظْرٌ-

قَالَ الشَّيْخُ :وَقَدْ قِيلَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَائٍ عَنْ ابْنِ
عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا فَإِنْ كَانَ مَحْفُوظًا فَهُوَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَصِحُّ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب :پاکى کا بیان

باب :حائضہ سے وطى کرنے پر کفارہ کا حکم

حدیث نمبر :1527

:ترجمہ

(۱۵۲۸) (سیدنا ابن عباسؓ نبی ﷺ سے اس آدمی کے متعلق روایت کرتے ہیں جو حیض کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس آتا ہے کہ وہ ایک دینار صدقہ کرے گا۔ اگر وہ (خون) نہ پائے تو آدھا دینار۔

(ب) (عطاء بن عجلان ضعیف ہے۔

(ج) (عطاء اور عکرمہ سے روایت ہے کہ اس پر کوئی چیز نہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے گا۔

(د) (ان تمام مرفوع اور وہ موقوف روایات کا منبع عطاء العطار، عبدالحمید اور عبدالکریم بن امیہ ہیں، یہ محل نظر ہیں) (ان پر جرح کی گئی ہے)

(ر) (شیخ کہتے ہیں: کہا گیا ہے کہ ابن جریج عن عطاء عن ابن عباسؓ موقوف ہے اگرچہ محفوظ ہے لیکن یہ ابن عباسؓ کا قول ہونا صحیح ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on offering expiation for having intercourse with a menstruating woman

Hadith number: 1527

Translation:

(1527) Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) narrated from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) about a man who has intercourse with his wife when she is menstruating that he will give one dinar in charity. If he does not see (blood) then half a dinar.

(B) Ata ibn Ajlan is weak.

(C) It is narrated from Ata and Ikrimah that there is nothing (obligatory) on him, he should (only) seek forgiveness from Allah Almighty.

(D) Ata al-Attar, Abd al-Hamid and Abd al-Karim ibn Umayyah are the source of all these marfu and mawquf narrations, they are all subject of consideration (they have

been proven to be weak)

(E) Shaykh says: It has been said that Ibn Jurayj on the authority of Ata on the authority of Ibn Abbas if it is secure, but it is correct to say that this is the saying of Ibn Abbas (may Allah be pleased with him).

[Baatil (False)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1528

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي وَأَبُو سَعِيدٍ (١٥٢٩)
بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَابِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ
الثَّوْرِيُّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَائٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي
الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: إِنْ أَتَاهَا فِي الدَّمِ
تَصَدَّقَ بِدِينَارٍ ، وَإِنْ أَتَاهَا فِي غَيْرِ الدَّمِ تَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ -
قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ
ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَائٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ
تَعَالَى -

وَالْمَشْهُورُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ مِقْسَمٍ
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ كَمَا تَقَدَّمَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: حائضہ سے وطی کرنے پر کفارہ کا حکم

حدیث نمبر: 1528

:ترجمہ

(۱۵۲۹) (سیدنا ابن عباسؓ اس آدمی کے متعلق روایت کرتے ہیں جو حیض کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس آتا ہے انہوں نے کہا اگر خون میں آئے تو ایک دینار صدقہ کرے اور اگر خون کے علاوہ آئے تو آدھا دینار صدقہ کرے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on offering expiation for having intercourse with a menstruating woman

Hadith number: 1528

Translation:

(1528) Ibn Abbas narrates about a man who has intercourse with his wife when she is in the state of menstruation. He said that if he had intercourse while (she was) bleeding, he should give one dinar in

charity and if he had intercourse other than when (she was) bleeding, he should give half a dinar in charity.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1529

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ (١٥٣٠)

يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَعْْنَى فِي كِتَابِ أَحْكَامِ الْقُرْآنِ
فِيْمَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ حَائِضًا أَوْ بَعْدَ تَوَلِيَةِ الدَّمِ وَلَمْ

تَغْتَسِلُ :يَسْتَغْفِرُ اللهُ تَعَالَى وَلَا يَعُودُ حَتَّى تَطْهَرَ ، وَتَحِلَّ لَهَا
الصَّلَاةُ ، وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ شَيْءٌ لَوْ كَانَ ثَابِتًا أَخَذْنَا بِهِ
وَلَكِنَّهُ لَا يَثْبُتُ مِثْلَهُ۔

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب :پاکی کا بیان
باب :حائضہ سے وطی کرنے پر کفارہ کا حکم
حدیث نمبر :1529

:ترجمہ

(۱۵۳۰) (شافعی) رح (احکام القرآن کتاب میں لکھتے ہیں کہ
جو شخص حیض کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس آئے یا
خون ختم ہونے کے بعد آئے اور اس عورت نے ابھی غسل
نہ کیا ہو تو وہ اللہ سے استغفار کرے اور دوبارہ نہ کر جب
تک عورت پاک نہ ہو جائے اور نماز اس کے لیے حلال
ہو جائے۔ اگرچہ اس باب میں کچھ اور روایات نقل کی گئی
ہیں، اگر یہ ثابت ہو جائیں تو ہم ان کو لے لیں گے) یعنی ان
پر عمل کریں گے (لیکن اس کی مثل) جتنی احادیث ہیں وہ
ثابت

نہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on offering expiation for having intercourse with a menstruating woman

Hadith number: 1529

Translation:

(1529) Imam Shafi'i (may Allah have mercy on him) writes in the book Ahkam-ul-Quran that a person who has intercourse with his wife when she is menstruating or after the bleeding has stopped and she has not taken a bath (for major impurity) yet, he should seek forgiveness from Allah and not do it again till the woman is pure and it becomes lawful for her to pray. Although some other traditions have been narrated

in this chapter, if they are proved (to be authentic) then we will take them (i.e. act upon them) but they (i.e. all the hadiths) are not proven.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1530

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ حَدَّثَنِي (١٥٣١)

أَبُو أَحْمَدَ : مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الشَّعْبِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
الْأَرْزَنْبِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ طَاهِرِ بْنِ حَرْمَلَةَ حَدَّثَنِي جَدِّي
حَدَّثَنِي الشَّافِعِيُّ قَالَ : رَأَيْتُ بِصَنْعَاءَ جَدَّةً بِنْتَ إِحْدَى
، وَعِشْرِينَ سَنَةً ، حَاضَتْ ابْنَةَ تِسْعٍ وَوَلَدَتْ ابْنَةَ عَشْرِ
وَحَاضَتْ ابْنَةَ تِسْعٍ وَوَلَدَتْ ابْنَةَ عَشْرِ -
وَيُذَكَّرُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ أَنَّهُ قَالَ : أَدْرَكْتُ جَارَةَ لَنَا
صَارَتْ جَدَّةً بِنْتَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ سَنَةً -
وَعَنْ مُغِيرَةَ الضَّبِّيِّ أَنَّهُ قَالَ : اخْتَلَمْتُ وَأَنَا ابْنُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ
سَنَةً -

وَرَوَيْنَا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : إِذَا بَلَغَتْ
الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ فَهِيَ امْرَأَةٌ - تَعْنِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ فَحَاضَتْ فِيهَا
امْرَأَةٌ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب : پاکی کا بیان
باب : عورت کے حائضہ ہونے کی عمر
حدیث نمبر : 1530

:ترجمہ

(۱۵۳۱) (الف) (امام شافعی) رح (فرماتے ہیں کہ میں نے صنعاء مقام پر اکیس سال کی نانی دیکھی۔ نو سال کی عمر میں وہ حائضہ ہوئی اور دس سال کی عمر میں اس نے بچہ جنا اور اس کی بیٹی نو سال کی عمر میں حائضہ ہوئی اور دس سال کی عمر میں اس نے بچے کو جنم دیا۔

(ب) (حسن بن صالح کہتے ہیں میں نے اپنی ہمسائی کو پایا جو اکیس سال کی عمر میں دادی بن گئی۔

(ج) (مغیرہ ضبی کہتے ہیں کہ جب مجھے احتلام ہوا اس وقت میری عمر بارہ سال تھی۔

(د) (سیدہ عائشہ ^{رض} سے روایت ہے کہ جب بچی نو سال کو پہنچ جائے تو وہ عورت ہے یعنی وہ حائضہ ہو جائے گی تو وہ عورت ہے۔ واللہ اعلم

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Age of a woman starting menstruation

Hadith number: 1530

Translation:

(1530) (a) Imam Shafi'i (may Allah have mercy on him) says that I saw a 21 year old grandmother in Sana'a. At the age of nine she started menstruating and at the age of ten she gave birth to a child and her daughter started menstruating at the age of nine and at the age of ten she gave birth to a child.

(B) Hassan bin Saleh says I saw my neighbor who became a grandmother at the age of 21.

(C) Mughira Dhabhi says that I was twelve years old when I experienced nightfall.

(D) It is narrated from Ayesha (may Allah be pleased with her) that when a girl reaches the age of nine, she is a woman, that is, when she starts menstruating, she

is a woman. Allah knows best
[MAUDU (FABRICATED)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1531

Arabic Text:

:أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ (١٥٣٢)
أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ
:حَدَّثَنَا النَّفِيلِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَعْقِلٍ عَنْ عَطَائٍ قَالَ
أَدْنَى وَقْتِ الْحَيْضِ يَوْمًا.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى
كتاب: پاكى كا بيان
باب: حيض كى كم مدت كا بيان
حديث نمبر: 1531

:ترجمہ

(۱۵۳۲) عطاء سے روایت ہے کہ حیض کی کم مدت ایک دن ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the shortest
(possible) duration of menstruation

Hadith number: 1531

Translation:

(1531) It is narrated from Ata (may Allah have mercy on him) that the shortest time

period for menstruation is one day.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence). Narrated by Darimi 845]

Sunan Kubra Bayhaqi 1532

Arabic Text:

:وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ (١٥٣٣)
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصَمُّ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ
:حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ قَالَ سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ يَقُولُ

عِنْدَنَا بِأَبْنَاءِ امْرَأَةٍ تَحِيضُ غُدْوَةً وَتَطْهُرُ عَشِيَّةً.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: حیض کی کم مدت کا بیان

حدیث نمبر: 1532

:ترجمہ

(۱۵۳۳) (اوزاعی کہتے ہیں: ہمارے ہاں ایک عورت صبح

کو حائضہ ہوتی ہے اور شام کو پاک۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the shortest
(possible) duration of menstruation

Hadith number: 1532

Translation:

(1532) Awzai (may Allah have mercy on him) says: In our area, a woman menstruates in the morning and becomes pure in the evening.

[Hasan (Fair). Narrated by Al-Daraqutni 1/309]

Sunan Kubra Bayhaqi 1533

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ (١٥٣٤)
إِسْحَاقَ قَالَ قَالَ إِسْحَاقُ
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: كَانَتْ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا أُمُّ

الْعَلَايِ قَالَتْ : حَيْضَتِي مُنْذُ أَيَّامِ الدَّهْرِ يَوْمَانِ-

قَالَ وَقَالَ إِسْحَاقُ : وَصَحَّ لَنَا فِي زَمَانِنَا عَنْ غَيْرِ وَاحِدَةٍ أَنَّهَا
قَالَتْ حَيْضَتِي وَوَمَانِ-

وَقَالَ يَزِيدُ بْنُ بَارُونَ : عِنْدِي امْرَأَةٌ تَحِيضُ يَوْمَيْنِ-

وَفِيمَا أَجَازَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رِوَايَتَهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ
عَنِ الرَّبِيعِ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ امْرَأَةً أُثْبِتَ لِي أَنَّهَا لَمْ
تَزَلْ تَحِيضُ يَوْمًا وَلَا تَزِيدُ عَلَيْهِ ، وَأُثْبِتَ لِي عَنْ نِسَائٍ أَنَّهُنَّ
لَمْ يَزَلْنَ يَحِيضْنَ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ ، وَعَنْ نِسَائٍ أَنَّهُنَّ لَمْ يَزَلْنَ يَحِيضْنَ
خَمْسَةَ عَشَرَ- وَعَنْ امْرَأَةٍ أَوْ أَكْثَرَ أَنَّهَا لَمْ تَزَلْ تَحِيضُ ثَلَاثَ
عَشْرَةَ ، وَكَيْفَ زَعَمْتَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مَا عَلِمْنَا أَنَّهُ يَكُونُ-

قَالَ الشَّيْخُ : وَرُوِينَا عَنْ عَلِيٍّ وَشُرَيْحٍ : أَنَّهُمَا جَوَّزَا ثَلَاثَ
حِيضٍ فِي شَهْرٍ وَخَمْسِ لَيَالٍ وَذَلِكَ يَرُدُّ فِي كِتَابِ الْعَدَدِ إِنْ شَاءَ
اللَّهُ تَعَالَى-

قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَنَحْنُ نَقُولُ بِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ لِلْحِيضِ
وَقْتًا-

وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ - ((إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ فَاتْرُكِي
الصَّلَاةَ ، وَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي الدَّمَ عَنْكِ وَصَلِّي))-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: حیض کی کم مدت کا بیان

حدیث نمبر: 1533

:ترجمہ

(الف) (۱۵۳۴) (عبد الرحمن بن مہدی کہتے ہیں کہ ایک

عورت جس کو ام علاء کہا جاتا تھا کہتی ہیں کہ میرے

حیض کی ساری مدت دو دن ہیں۔

(ب) (صحیح ثابت ہے کہ ہمارے زمانے میں ایک عورت تھی

وہ کہتی تھی کہ اسے دو دن حیض آتا ہے۔

(ج) (یزید بن ہارون کہتے ہیں کہ میری پاس عورت ایک ہے

اس کو دو دن حیض آتا ہے۔

(د) (امام شافعی) رح (سے روایت ہے کہ میں نے ایک

عورت دیکھی جسے ایک دن سے زیادہ حیض نہیں آتا اور

اس کی یہ عادت ہمیشہ رہی۔ اور کئی ایسی عورتیں جنہیں

تین دن سے بھی کم حیض آتا۔ بعض عورتیں پندرہ دن۔ ایک

عورت تھی جسے تیرہ دن حیض آتا تھا۔

ر (شیخ کہتے ہیں کہ سیدنا علی اور شریح سے منقول ہے کہ ان دونوں نے مہینے میں تین اور پانچ دن کو جائز قرار دیا۔ اس کی بحث کتاب العدد میں آئے گی۔) س (امام شافعی) رح (فرماتی ہیں کہ ہم سیدنا علیؓ کی روایت کو نبی ﷺ کی روایت کے موافق سمجھیں گے کہ انہوں نے حیض کی تعیین نہیں کی۔ ان کی دلیل نبی ﷺ کی یہ حدیث ہے: جب تیرے حیض کے دن آجائیں تو نماز چھوڑ دے۔ جب ان کی میعاد پوری ہو جائے جائے تو اپنے جسم سے خون کو دھو ڈال اور نماز پڑھ

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the shortest (possible) duration of menstruation

Hadith number: 1533

Translation:

(1533) (a) Abd al-Rahman ibn al-Mahdi says that a woman who was called Umm

Alaa said that the whole duration of my menstruation is two days.

(B) It is true that there was a woman in our time who used to say that she menstruates for (only) two days.

(C) Yazid bin Haroon says that I have a woman who menstruates for two days.

(D) It is narrated from Imam Shafi'i (may Allah have mercy on him) that I saw a woman who does not menstruate for more than one day and this habit has always remained with her. And many women who menstruate for less than three days. Some women for fifteen days. There was a woman who menstruated for thirteen days.

(E) Sheikh says that it is narrated from

Syeduna Ali and Shuraih that both of them declared three and five days in a month as permissible. This will be discussed later.

(F) Imam Shafi'i (may Allah have mercy on him) says that we will consider the narration of Syeduna Ali in accordance with the narration of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) that he was not referring to menstruation. The evidence for this is the hadith of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him): When your menstruating days start, stop praying. When it is over, wash the blood from your body and offer prayers.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1534

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ (١٥٣٥)
بْنُ الْحَسَنِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا
الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ بِشَامِ بْنِ
عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي
حُبَيْشٍ لِرَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَطْهَرُ
أَفَادَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - : ((إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ
، وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي الدَّمَ عَنْكَ وَصَلِّي)) -
الصَّحِيحُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مَالِكٍ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: حیض کی کم مدت کا بیان

حدیث نمبر: 1534

ترجمہ:

(۱۵۳۵) (سیدہ عائشہ رض سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت ابی
حبیث نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا اے اللہ کے رسول!
میں پاک نہیں ہوتی کیا میں نماز کو چھوڑ دوں؟ رسول اللہ ﷺ
نے فرمایا " یہ ایک رگ سے ہے حیض نہیں ہے، جب
حیض آئے نماز چھوڑ دے جب اس کی میعاد پوری ہو جائے
" تو اپنے سے خون کو دھو اور نماز پڑھ

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the shortest
(possible) duration of menstruation

Hadith number: 1534

Translation:

(1534) It is narrated on the authority of Ayesha (may Allah be pleased with her) that Fatima bint Abi Hubaish said to the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him): O Messenger of Allah! I am not pure (due to persistent vaginal bleeding) so should I stop praying? The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: This is from a blood vessel, not due to menstruation. When you do menstruate, then stop praying, and when it stops, wash off the blood from you and pray."

[Sahih. Narrated by Bukhari 228 and Muslim 333 and Nasai 218, 364 and Tirmidhi 125 and Ibn Majah 621]

Sunan Kubra Bayhaqi 1535

Arabic Text:

:أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ (١٥٣٦)
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ حَيَّانَ أَبُو الشَّيْخِ الْأَصْبَهَانِيِّ
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مَنْدَةَ حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ مَهْلَهْلٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَائٍ قَالَ: أَكْثَرُ الْحَيْضِ خَمْسَةَ عَشَرَ
يَوْمًا.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
کتاب: پاکی کا بیان

باب: حیض کی اکثر مدت کا بیان

حدیث نمبر: 1535

ترجمہ:

(۱۵۳۶) عطاء کہتے ہیں: حیض اکثر کی مدت پندرہ دن ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the maximum
(possible) duration of menstruation

Hadith number: 1535

Translation:

(1535) Ata (may Allah have mercy on him)
says: The maximum time period of
menstrual periods is fifteen days.

[Sahih. Narrated by Darimi 833]

Sunan Kubra Bayhaqi 1536

Arabic Text:

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ عَنْ مُفَضَّلٍ (١٥٣٧)
:وَأَبْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَائٍ قَالَ
أَكْثَرُ الْحَيْضِ خَمْسَةَ عَشَرَ - وَإِلَيْهِ كَانَ يَذُوبُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ -
أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ الْحَارِثِ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ
الْحَافِظُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعْدِ
الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ فَذَكَرَهُ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى
كتاب: پاكى كا بيان
باب: حيض كى اكثر مدت كا بيان
حديث نمبر: 1536

:ترجمہ

(۱۵۳۷) عطاء کہتے ہیں: حیض کی مدت اکثر پندرہ دن ہے
اور امام احمد بن حنبل (رح) کا بھی یہی مسلک ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the maximum
(possible) duration of menstruation

Hadith number: 1536

Translation:

(1536) Ata says: The (maximum) time period
of menstruation is fifteen days and

this is also the view of Imam Ahmad ibn Hanbal (may Allah have mercy on him).
[Sahih. Narrated by Al-Daraqutni 1/208]

Sunan Kubra Bayhaqi 1537

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ (١٥٣٨)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنِ
الرَّبِيعِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: تَجْلِسُ خَمْسَةَ عَشَرَ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى
كتاب: پاكى كا بيان
باب: حيض كى اكثر مدت كا بيان
حديث نمبر: 1537

:ترجمہ

(۱۵۳۸ حسن سے روایت ہے کہ پندرہ دن (حيض میں) بیٹھے گی۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the maximum
(possible) duration of menstruation

Hadith number: 1537

Translation:

(1537) It is narrated from Hasan that she

will rest for fifteen days (due to menses).
[Daif (Weak). Narrated by Darimi 833]

Sunan Kubra Bayhaqi 1538

Arabic Text:

وَبِإِسْنَادِهِ عَنِ الرَّبِيعِ عَنْ عَطَائٍ قَالَ: الْحَيْضُ (١٥٣٩)

خَمْسَةَ عَشَرَ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: حیض کی اکثر مدت کا بیان
حدیث نمبر: 1538

:ترجمہ

(۱۵۳۹) عطاء کہتے ہیں حیض پندرہ دن ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the maximum
(possible) duration of menstruation

Hadith number: 1538

Translation:

(1538) Ata says that the menstrual period

is fifteen days (at most).

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1539

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو (١٥٤٠)

الْحَسَنُ: مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ الْمَرْوَزِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ
بْنُ عَلِيِّ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى: مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ عَنْ عَطَائٍ قَالَ
الْحَيْضُ خَمْسَ عَشْرَةَ ، فَإِنْ زَادَتْ فِيهِ مُسْتَحَاضَةٌ. قَالَ
وَرَأَيْتُ ابْنَ مَهْدِيٍّ يَذْهَبُ فِي الْحَيْضِ إِلَى قَوْلِ عَطَائٍ.
قَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ: كَانَتْ عِنْدَنَا امْرَأَةٌ حَيْضَتْهَا خَمْسَ عَشْرَةَ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: حیض کی اکثر مدت کا بیان
حدیث نمبر: 1539

:ترجمہ

(۱۵۴۰) (عطاء کہتے ہیں: حیض پندرہ دن ہے، اگر زیادہ ہو
تو وہ مستحاضہ ہے، انہوں نے کہا: میں نے ابن مہدی کو
دیکھا جو حیض کے متعلق عطاء کے قول کی طرف رجوع
کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں عورت

ہے اس کا حیض پندرہ دن کا ہوتا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the maximum
(possible) duration of menstruation

Hadith number: 1539

Translation:

(1539) Ata says: A menstrual period is fifteen days (at most), if it is more than this then it is **istihadah**. He said: I saw Ibn Mahdi retracting his statement and agreeing with Ata's statement regarding menstruation, saying that we know a woman whose menstruation lasts for fifteen days.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence)]

NOTE: Istihadah means abnormal vaginal bleeding outside the time of the monthly period.

Sunan Kubra Bayhaqi 1540

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ (١٥٤١)
إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَهْلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ

عَنْ أَخِيهِ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَرَبِيعَةَ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ
الْحَائِضِ: إِنَّ أَكْثَرَ مَا تَكْفُفُ عَنِ الصَّلَاةِ خَمْسَ عَشْرَةَ ثُمَّ
تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي.

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَأَدْرَكْتُ النَّاسَ وَهُمْ يَقُولُونَ ذَلِكَ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: حیض کی اکثر مدت کا بیان

حدیث نمبر: 1540

:ترجمہ

(۱۵۴۱) (عبداللہ بن عمر اپنے بھائی سے یحییٰ بن سعید سے
اور ربیعہ سینقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے حائضہ عورت
کے متعلق کہا: زیادہ سے زیادہ پندرہ دن نماز سے رکی
رہے گی، پھر غسل کرے گی اور نماز پڑھے گی۔ عبداللہ
کہتے ہیں: میں نے اکثر لوگوں کو پایا وہ یہی کہتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the maximum
(possible) duration of menstruation

Hadith number: 1540

Translation:

(1540) Abdullah ibn Umar narrates from his brother, Yahya ibn Sa'id and Rabi'ah that they said about the menstruating woman: She will stop praying for a maximum of fifteen days, then she will take a bath and offer prayers. Abdullah says: I found most people saying this.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1541

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ (١٥٢٢)
عُمَرَ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو عَثْمَانَ سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَنَاطُ حَدَّثَنَا
أَبُو بِشَامٍ الرَّفَاعِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ -
قَالَ عَلِيُّ وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَادٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
الْمُخَرَّمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ قَالَ :عِنْدَنَا امْرَأَةٌ
تَحِيضُ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الشَّهْرِ حَيْضًا مُسْتَقِيمًا صَحِيحًا -
قَالَ عَلِيُّ وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَنَاطُ حَدَّثَنَا أَبُو بِشَامٍ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ عَنْ شَرِيكٍ وَحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ قَالَا :أَكْثَرُ
الْحَيْضِ خَمْسَ عَشْرَةَ - وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِي -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاكى كا بيان

باب: حيض كى اكثر مدت كا بيان

حديث نمبر: 1541

:ترجمہ

(۱۵۴۲) (الف) شريك كهتے هيں: ہمارے ہاں ايک عورت

ہے جس مہينے ميں پندرہ دن مسلسل حيض آتا ہے۔

(ب) شريك اور حسن بن صالح كهتے هيں: حيض كى اكثر

مدت پندرہ دن هيں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the maximum
(possible) duration of menstruation

Hadith number: 1541

Translation:

(1541) (a) Shuraik says: We have a woman
living among us who menstruates for

fifteen consecutive days in a month.

(B) Shuraik and Hasan ibn Saleh say: The maximum time period of of a menstrual period is fifteen days.

[Sahih. Narrated by Al-Daraqutni 1/209]

Sunan Kubra Bayhaqi 1542

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ (١٥٤٣)
إِسْحَاقَ الْفَقِيهَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْجَدِّ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ
عَنْ أَنَسٍ قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَنْتَظِرُ ثَلَاثًا خَمْسًا سَبْعًا تِسْعًا
عَشْرًا لَا تُجَاوِزُ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: حیض کی اکثر مدت کا بیان
حدیث نمبر: 1542

:ترجمہ

(، ١٥٤٣) (سیدنا انس ^{رض} سے روایت ہے کہ مستحاضہ تین پانچ
سات، نو اور دس دن تک انتظار کرے گی، اس سے تجاوز
نہیں کرے گی۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi
Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the maximum
(possible) duration of menstruation
Hadith number: 1542

Translation:

(1542) It is narrated from Syeduna Anas
(may Allah be pleased with him) that the
menstruating women should wait for three,
five, seven, nine and ten days and should
not exceed it.

[Daif Jiddan (Very Weak). Narrated by
Darimi 839]

Sunan Kubra Bayhaqi 1543

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا (١٥٤٤)
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا
سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا جَلْدُ بْنُ
أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: قُرِئَ
الْحَائِضِ خَمْسَ سِتِّ سَبْعِ ثَمَانٍ عَشْرًا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَصُومُ
وَتُصَلِّي.
فَهَذَا حَدِيثٌ يُعْرَفُ بِالْجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ وَقَدْ أَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: حیض کی اکثر مدت کا بیان
حدیث نمبر: 1543

:ترجمہ

(۱۵۴۴) (سیدنا انس بن مالکؓ فرماتے ہیں کہ حائضہ کا حیض پانچ، چھ، سات، آٹھ، دس دن ہے، پھر وہ غسل کرے گی، روزے رکھے گی اور نماز پڑھے گی۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the maximum (possible) duration of menstruation

Hadith number: 1543

Translation:

(1543) Anas ibn Malik (may Allah be pleased with him) says that the menstrual period is five, six, seven, eight, ten days, then she has to take a bath, fast and offer prayers.

[Daif Jiddan (Very Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1544

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ (١٥٤٥)
يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي
حَدِيثِ الْجَدِّ بْنِ أَيُّوبَ قَدْ أَخْبَرَنِيهِ ابْنُ عَلِيَّةَ عَنِ الْجَدِّ بْنِ
أَيُّوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: قُرِئَ
الْمَرْأَةِ - أَوْ قَالَ حَيْضُ الْمَرْأَةِ - ثَلَاثٌ أَرْبَعٌ حَتَّىٰ انْتَهَىٰ إِلَىٰ
عَشْرَةٍ -

وَقَالَ لِي ابْنُ عَلِيَّةَ: الْجَدُّ بْنُ أَيُّوبَ أَعْرَابِيٌّ لَا يَعْرِفُ
الْحَدِيثَ -

وَقَالَ لِي: قَدْ اسْتَحِيضَتْ امْرَأَةٌ مِنْ آلِ أَنَسٍ فَسُئِلَ

ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْهَا ، فَأَفْتَى فِيهَا وَأَنْسَ حَيٌّ ، فَكَيْفَ يَكُونُ عِنْدَ أَنْسِ ،
بْنِ مَالِكٍ مَا قُلْتَ مِنْ عِلْمِ الْحَيْضِ وَيَحْتَاجُونَ إِلَى مَسْأَلَةِ غَيْرِهِ
فِيمَا عِنْدَهُ فِيهِ عِلْمٌ-

قَالَ الشَّافِعِيُّ وَنَحْنُ وَأَنْتَ لَا تُنْبِتُ حَدِيثَ مِثْلِ الْجَدِّ
وَيُسْتَدَلُّ عَلَى غَلْطِ مَنْ بُوَ أَحْفَظُ مِنْهُ بِأَقْلٍ مِنْ هَذَا-
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ
كَانَ حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ يُضَعِّفُ الْجَدَّ وَيَقُولُ : لَمْ يَكُنْ
يَعْقِلُ الْحَدِيثَ-

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ
قَالَ وَأَمَّا خَبْرُ أَنْسٍ فَإِنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا قَالَ حَدَّثَنَا
سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ : ذَهَبْتُ أَنَا وَجَرِيرُ بْنُ
حَازِمٍ إِلَى الْجَدِّ بْنِ أَيُّوبَ فَحَدَّثَنَا بِحَدِيثِ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ
أَنْسٍ فِي الْحَائِضِ ، فَذَهَبْنَا نُوقِفُهُ فَإِذَا هُوَ لَا يَفْصِلُ بَيْنَ
الْحَائِضِ وَالْمُسْتَحَاضَةِ-

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الدَّارِمِيُّ
قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ : مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ
سَعِيدِ الدَّارِمِيِّ يَقُولُ سَأَلْتُ أَبَا عَاصِمٍ عَنِ الْجَدِّ بْنِ أَيُّوبَ
فَضَعَّفَ أَمْرَهُ جِدًّا وَقَالَ : كَانَ شَيْخًا مِنْ مَشَايخِ الْعَرَبِ تَسَابَلَ
أَصْحَابُنَا فِي الرِّوَايَةِ عَنْهُ-

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ أَهْلُ الْبَصْرَةِ يُنْكِرُونَ حَدِيثَ
الْجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ وَيَقُولُونَ: شَيْخٌ مِنْ شُيُوخِ الْعَرَبِ لَيْسَ
بِصَاحِبِ حَدِيثٍ.

قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: وَأَهْلُ مِصْرَ أَعْلَمُ بِهِ مِنْ غَيْرِهِمْ قَالَ
يَعْقُوبُ وَسَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ حَرْبٍ وَصَدَقَةَ بْنَ الْفَضْلِ
وَإِسْحَاقَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ وَبَلْغَنِي عَنْ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ أَنَّهُمْ يُضَعِّفُونَ
الْجَلْدَ بْنَ أَيُّوبَ وَلَا يَرَوْنَهُ فِي مَوْضِعِ الْحُجَّةِ.

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنَ عَدِيٍّ
الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا الْجُنَيْدِيُّ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجُنَيْدِ
:حَدَّثَنَا الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ ابْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ
أَهْلُ الْبَصْرَةِ يُضَعِّفُونَ حَدِيثَ الْجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ الْبَصْرِيِّ. قَالَ
وَحَدَّثَنِي صَدَقَةُ قَالَ: كَانَ ابْنُ عِيْنَةَ يَقُولُ: جَلْدٌ وَمَنْ جَلْدٌ وَمَنْ
كَانَ جَلْدٌ.

وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الصُّوفِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنَ عَدِيٍّ
حَدَّثَنَا ابْنُ حَمَّادٍ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ أَحْمَدَ بْنَ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ يَعْنِي ابْنَ حَنْبَلٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي ذَكَرَ الْجَلْدَ بْنَ
أَيُّوبَ فَقَالَ: لَيْسَ يَسْوَى حَدِيثُهُ شَيْئًا، ضَعِيفُ الْحَدِيثِ.
قَالَ الشَّيْخُ وَقَدْ رُوِيَ فِي أَقَلِّ الْحَيْضِ وَأَكْثَرِهِ

أَحَادِيثُ ضِعَافٌ قَدْ بَيَّنْتُ ضَعْفَهَا فِي الْخِلَافِيَّاتِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: حیض کی اکثر مدت کا بیان

حدیث نمبر: 1544

:ترجمہ

(الف) (سیدنا انس بن مالکؓ سے روایت ہے کہ عورت کا قرء یا عورت کا حیض تین، چار سے دس دن تک ہوتا ہے۔

(ب) (ابن علیہ کہتے ہیں: جلد بن ایوب دیہاتی حدیث میں قابل معرفت نہیں۔

(ج) (مجھ سے ابن علیہ نے کہا: آل انس کی ایک عورت مستحاضہ ہوگئی تو ابن عباسؓ سے پوچھا گیا، انہوں نے فتویٰ دیا۔ سیدنا انسؓ حیات تھے۔

(د) (امام شافعی) رح (کہتے ہیں: ہم اور آپ جلد بن ایوب کی حدیث کو ثابت نہیں سمجھتے اور اس سے کم کا استدلال اس سے غلط ہے جو زیادہ محفوظ ہے۔

ر (حماد بن زید کہتے ہیں کہ میں اور جریر بن حازم جلد بن ایوب کے پاس گئے تو اس نے معاویہ بن قرہ کی حدیث جو حائضہ کے متعلق سیدنا انس^{رض} سے منقول ہے بیان کی۔ ہم ان کی موافقت کرتے ہیں کہ وہ حائضہ اور مستحاضہ میں فرق نہیں کرتے۔

س (احمد بن سعید دارمی نے ابو عاصم سے جلد بن ایوب کے متعلق پوچھا تو انہوں نے اس کے متعلق سخت ضعیف کا حکم لگایا۔

ص (عبدالله بن مبارک کہتے ہیں کہ اہل بصرہ حدیث جلد بن ایوب کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ شیوخ عرب میں سے ہے محدث نہیں ہے۔

ط (ابن مبارک کہتے ہیں کہ اہل مصر دوسروں کی نسبت اس کے متعلق زیادہ جانتے ہیں۔ اسحاق بن ابراہیم کہتے ہیں کہ مجھے امام احمد حنبل سے معلوم ہوا ہے کہ وہ وہ (اہل مصر) جلد بن ایوب کو ضعیف قرار دیتے تھے اور اس کی روایات کو قابل حجت نہیں سمجھتے تھے۔

ع (ابن مبارک سے روایت ہے کہ اہل بصرہ جلد بن ایوب کی حدیث کو ضعیف قرار دیتے تھے۔ ابن عیینہ کہا کرتے تھے۔ جلد کون ہے اور کہاں سے ہے؟

ف (امام احمد بن حنبل) رح (فرماتے ہیں کہ میں

نے اپنے والد سے جلد بن ایوب کے متعلق سنا کہ اس کی حدیث کی کوئی حیثیت نہیں، وہ حدیث نقل کرنے میں ضعیف ہے۔

ق (شیخ کہتے ہیں کہ حیض کی اقل اور اکثر مدت کی احادیث بیان کی گئی ہیں اور میں نے ان کا ضعف بھی بیان کر دیا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the maximum (possible) duration of menstruation

Hadith number: 1544

Translation:

(1544) (a) It is narrated on the authority of Anas bin Malik (may Allah be pleased with him) that the menstruation of a woman lasts for three, four to ten days.

(B) Ibn Aliyyah said to me: When a woman

from the family of Anas started menstruating, Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) was asked, he gave a fatwa. Syeduna Anas was alive (during this).

(C) Hammad ibn Zayd says that I and Jarir ibn Hazm went to Jald ibn Ayub and he narrated the hadith of Muawiyah ibn Qarah which is narrated from Anas regarding menstruation. We agree that he did not differentiate between menstruation and istihadah.

(D) Ahmed bin Saeed Darimi asked Abu Asim about Jald bin Ayub and he declared him to be very weak.

(E) Abdullah ibn Mubarak (may Allah have mercy on him) says that the people of Basra used to deny the hadith of Jald ibn

Ayub and said that he is one of the Arab sheikhs and not a muhaddith.

(F) Ibn Mubarak (may Allah have mercy on him) says that the people of Egypt know more about this than others. Ishaq ibn Ibrahim says: I have learned from Imam Ahmad bin Hanbal that they (i.e. the Egyptians) declared Jald ibn Ayub as weak and did not consider his narrations to be reliable.

(G) It is narrated from Ibn Mubarak (may Allah have mercy on him) that the people of Basra used to classify the hadith of Jald ibn Ayub as weak. Ibn Uyaynah used to say: Who is Jald and where did he come from?

(H) Imam Ahmad ibn Hanbal (may Allah have mercy on him) says that I heard from

my father about Jald ibn Ayub that his hadith has no value, he is weak in narrating hadith.

(I) Shaykh says that the hadiths of the minimum and maximum time period of menstrual periods have been narrated and I have also mentioned their weakness.

[Daif Jiddan (Very Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1545

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكْرِيَّا: يَحْيَى بْنُ (١٥٤٦)
إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ
أَخْبَرَنَا بِشَّامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ
أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - فَقَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ اسْتَحَاضُ
فَلَا أَطْهَرُ أَفَادَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ ((لَا ، إِنَّمَا ذَاكَ عِرْقٌ
وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلْتَ الْحَيْضَةَ فَدَعِي الصَّلَاةَ ، وَإِذَا
أَدْبَرْتَ فَاغْسِلِي عَنكَ الدَّمَ وَصَلِي)) (-).

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مستحاضہ جب وہ تمیز کر سکتی ہو

حدیث نمبر: 1545

:ترجمہ

(۱۵۴۶) (سیدہ عائشہ رض سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا: میں استحاضہ والی عورت ہوں، میں پاک نہیں ہوتی کیا میں نماز کو چھوڑ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں۔ یہ رگ سے ہے حیض نہیں ہے، جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دے اور جب چلا جائے تو اپنے آپ سے خون دھو اور نماز پڑھ

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: When a woman suffering with istihadah can purify herself

Hadith number: 1545

Translation:

(1545) It is narrated on the authority of Ayesha (may Allah be pleased with her) that Fatima bint Abi Habish came to the Messenger of Allah (peace and blessings

of Allah be upon him) and said: I am a woman suffering from istihadah, I am not pure, should I stop praying? He said: No. It is from a blood vessel, not menstruation. When your menstrual period starts, stop praying and when it goes away, wash off your blood and pray.

[Sahih. Narrated by Bukhari 228 and Muslim 333 and Nasai 218, 364 and Tirmidhi 125 and Ibn Majah 621]

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا (١٥٤٧)
أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّفَّارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْمُؤَدِّبُ حَدَّثَنَا
أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا بِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ.
(: ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيٍّ
الْحُسَيْنِيُّ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو
بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ بِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فَذَكَرَهُ
بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ.

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ وَرَوَاهُ
مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ.
وَبِهَذَا رَوَاهُ فِي إِقْبَالِ الْحَيْضِ وَإِدْبَارِهِ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَحَمَّادُ
بْنُ زَيْدٍ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ وَجَرِيرُ بْنُ
عَبْدِ الْحَمِيدِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَجَمَاعَةٌ كَبِيرَةٌ عَنْ بِشَامِ بْنِ
عُرْوَةَ إِلَّا أَنَّ حَمَّادًا زَادَ فِيهِ الْوُضُوءَ ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ زَادَ
فِيهِ الْإِغْتِسَالَ بِالشَّكِّ.
وَرَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ الْإِمَامُ عَنْ بِشَامٍ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ :فَإِذَا
ذَهَبَ قَدْرُبًا فَأَغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ وَصَلِّي.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مستحاضہ جب وہ تمیز کر سکتی ہو

حدیث نمبر: 1546

:ترجمہ

(۱۵۴۷) الف (ہشام سے پچھلی روایت کی طرح منقول ہے۔
ب) (ایک بہت بڑی جماعت نے ہشام بن عروہ سے نقل کیا ہے
سوائے حماد کے۔ اس میں وضو کے الفاظ زائد ہیں۔ ابن عیینہ
کہتے ہیں کہ اس میں انہوں نے شک کے ساتھ غسل کا
اضافہ کیا ہے۔

ج) (ہشام سے روایت ہے کہ جب اس کی میعاد پوری
ہو جائے تو اپنے آپ سے خون کو دھو اور نماز پڑھ

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: When a woman suffering with istihadah can purify herself

Hadith number: 1546

Translation:

(1546) (a) It is narrated from Hisham like the previous narration.

(B) A very large group narrated from Hisham ibn Urwah, except Hammad. There is excess mention of ablution in it. Ibn Uyaynah says that he added the wording ghusl to it with some doubts.

(C) It is narrated from Hisham that when her (menstrual) period is over, she should wash off the blood from her and pray.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1547

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ (١٥٤٨)
إِسْحَاقَ الْفَقِيهَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي
أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ بِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَطْهِّرُ أَفَادِعُ الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ -
ﷺ - ((: إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ
فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ ، وَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي الدَّمَ عَنْكَ وَصَلِّيْ)) -
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ
مَالِكٍ-

وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي رَجَائٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ
عَنْ بِشَامٍ فَخَالَفَهُمْ فِي مَثْنِهِ فَقَالَ فِي الْحَدِيثِ فَقَالَ: لَا ، إِنَّ
ذَلِكَ عِرْقٌ ، وَلَكِنْ دَعَى الصَّلَاةَ قَدْرَ الْأَيَّامِ الَّتِي كُنْتُ

تَحِيضِينَ فِيهَا ، ثُمَّ اغْتَسَلِي وَصَلِّي -
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ شَكَّ فِيهِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مستحاضہ جب وہ تمیز کر سکتی ہو

حدیث نمبر: 1547

:ترجمہ

(۱۵۴۸) (الف) (سیدہ عائشہؓ سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت
ابی حبیش رسول اللہ ﷺ کے پاس آئیں عرض کیا: میں استحاضہ
والی عورت ہوں، میں پاک نہیں ہوتی، کیا میں نماز کو
، چھوڑ دوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا " نہیں، یہ رگ سے ہے
حیض نہیں ہے، جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دے اور جب
" چلا جائے تو اپنے آپ سے خون دھو اور نماز پڑھ
(ب) (اس روایت کے متن میں اختلاف ہے: آپ ﷺ نے
فرمایا: نہیں یہ تو رگ ہے لیکن تو نماز اتنے دن چھوڑ دے
جتنے دن اپنے حیض کے ایام میں چھوڑتی تھی

پھر غسل کر اور نماز پڑھ
(ابو اسامہ والی روایت میں شک ہے۔)

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: When a woman suffering with
istihadah can purify herself

Hadith number: 1547

Translation:

(1547) (a) It is narrated on the authority of Ayesha (may Allah be pleased with her). that Fatima bint Abi Habish came to the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) and said: I am a woman suffering from istihadah, I am not pure, should I stop praying? He said: "No, this is from a blood vessel, this is not menstruation. When your menstrual period starts, stop praying and when it is over,

wash off the blood and pray."

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1548

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ (١٥٤٩)
أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَاسِينَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ كَرَامَةَ
الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ

(ح) قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا
 بَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ كُنَاسَةَ
 وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ بِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ فَاطِمَةَ
 بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - فَقَالَتْ: إِنِّي اسْتَحَاضُ
 فَلَا أَطْهَرُ أَفَادَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - ((إِنَّمَا
 ذَلِكَ عِرْقٌ ، وَلَكِنْ دَعِيَ الصَّلَاةَ الْأَيَّامَ الَّتِي كُنْتِ تَحِيضِينَ
 فِيهَا ، ثُمَّ اغْتَسَلِي وَصَلِّي)) (أَوْ كَمَا قَالَ- وَأَنَا أَظُنُّ أَنَّ الْحَدِيثَ
 عَلَى لَفْظِ أَبِي أُسَامَةَ فَقَدْ رُوِينَا عَنْ غَيْرِهِ عَلَى اللَّفْظِ الَّذِي
 رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ عَنْ بِشَامٍ-
 وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَلَى اللَّفْظِ الَّذِي رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ فِي
 إِقْبَالِ الْحَيْضِ وَإِدْبَارِهِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مستحاضہ جب وہ تمیز کر سکتی ہو

حدیث نمبر: 1548

ترجمہ:

(۱۵۴۹) (سیدہ عائشہ^{رض} سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت ابی

حبیث نبی ﷺ کے پاس آئیں اور عرض کیا: میں استحاضہ والی ہوں میں پاک نہیں ہوتی، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " یہ رگ سے ہے، حیض کے دنوں میں نماز چھوڑ دے، پھر غسل کر اور نماز پڑھ اوکما قال (ابو اسامہ سے ان الفاظ میں روایت کیا گیا ہے، اسے ایک جماعت نے روایت کیا ہے، یعنی اپنے حیض کے آنے اور جانے کے دنوں میں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: When a woman suffering with istihadah can purify herself

Hadith number: 1548

Translation:

(1548) It is narrated on the authority of Ayesha (may Allah be pleased with her) that Fatima bint Abi Habish came to the Prophet (peace and blessings of Allah be

upon him) and said: I am someone who suffers from istihadah, I am not pure, should I stop praying? The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: This is from a blood vessel, on the days that you are menstruating, stop praying, then take a bath and pray.
[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1549

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ (١٥٥٠)
عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا ابْنُ كَرَامَةَ
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ فَذَكَرَهُ وَقَالَ فِي
الْحَدِيثِ: أَفَادَعُ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِالْحَيْضِ، إِنَّمَا
ذَلِكَ عِرْقٌ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ
فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي -
وَبِذَا أَوْلَى أَنْ يَكُونَ مَحْفُوظًا لِمُوَافَقَتِهِ رِوَايَةَ الْجَمَاعَةِ إِلَّا
أَنَّه قَالَ: فَاغْتَسِلِي
وَقَدْ قَالَهُ أَيْضًا ابْنُ عُيَيْنَةَ بِالشَّكِّ وَاللَّهِ أَعْلَمُ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان
باب: مستحاضہ جب وہ تمیز کر سکتی ہو
حدیث نمبر: 1549

:ترجمہ

(۱۵۵۰) (الف) ہشام بن عروہ کی روایت میں ہے: کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ حیض نہیں ہے یہ رگ رگ سے ہے، جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دے اور جب چلا جائے تو غسل کر اور نماز پڑھ

(ب) اس کا محفوظ ہونا اور جماعت کی روایت کے موافق ہونا زیادہ اولیٰ ہے مگر آپ ﷺ نے فرمایا: تو غسل کر۔

(ج) ابن عیینہ نے شک کے ساتھ بیان کیا ہے۔ واللہ اعلم۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: When a woman suffering with istihadah can purify herself

Hadith number: 1549

Translation:

(1549) (a) The wording in Hisham ibn

Urwah's narration is: Should I stop praying?

The Prophet (peace and blessings of Allah

be upon him) said: This is not

menstruation. This is from a blood vessel,
When your menses start, stop praying and
when it is over, take a bath and pray.

(B) Ibn Uyaynah has narrated this with some
doubts. Allah knows best.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1550

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ : مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا (١٥٥١)
أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنَ
حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
عَمْرٍو يَعْنِي ابْنَ عَلْقَمَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ : أَنَّ فَاطِمَةَ
:-بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ -
إِنَّ دَمَ الْحَيْضَةِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ
الصَّلَاةِ ، وَإِذَا كَانَ الْآخِرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي ، فَإِنَّمَا هُوَ
عِرْقٌ (-).
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ : كَانَ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ حَدَّثَنَا بِهِ عَنْ
عَائِشَةَ ثُمَّ تَرَكَهُ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب : پاکی کا بیان
باب : مستحاضہ جب وہ تمیز کر سکتی ہو
حدیث نمبر : 1550

:ترجمہ

(۱۵۵۱) عروۃ سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت حبیش استحاضہ والی تھیں، ان سے نبی ﷺ نے فرمایا " : حیض کا خون سیاہ ہوتا ہے جو پہنچانا جاتا ہے، جب یہ ہو تو نماز سے رک جا اور جب دوسرا ہو تو وضو کر اور نماز پڑھ وہ " رگ سے ہے۔"

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: When a woman suffering with istihadah can purify herself

Hadith number: 1550

Translation:

(1550) It is narrated on the authority of Urwah that Fatima bint Habish was someone who suffered from istihadah. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said to her: "The blood of menses is black which is recognisable, so when that comes, stop praying but when it

is some other (blood), perform ablution and perform prayer, it is from the (blood) vessel."
[Sahih. Narrated by Nasai 216, 217, 363 and Abu Dawud 286]

Sunan Kubra Bayhaqi 1551

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوَدْبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ (١٥٥٢)
دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي
عَدِيٍّ عَنْ مُحَمَّدٍ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ
عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ: أَنَّهَا كَانَتْ
تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ ((إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضَةِ
، فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ
فَإِذَا كَانَ الْآخِرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي ، فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ))-
قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا بِهِ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ مِنْ كِتَابِهِ هَكَذَا ثُمَّ
حَدَّثَنَا بَعْدُ حِفْظًا قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنِ الزُّبَيْرِيِّ
عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ- فَذَكَرَ
مَعْنَاهُ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

كتاب: پاکی کا بیان

باب: مستحاضہ جب وہ تمیز کر سکتی ہو

حدیث نمبر: 1551

ترجمہ:

(۱۵۵۲) عروۃ بن زبیر فاطمہ بنت ابی حبیش^{رض} سینقل فرماتے ہیں کہ وہ استحاضہ والی تھی، نبی ﷺ نے انہیں فرمایا " : حیض کا خون سیاہ ہوتا ہے جو پہنچانا جاتا ہے، جب یہ ہو تو نماز سے رک جا اور جب دوسرا ہو تو وضو کر اور نماز پڑھ وہ رگ ہے۔"

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: When a woman suffering with istihadah can purify herself

Hadith number: 1551

Translation:

(1551) Urwah ibn Zubayr narrates from Fatimah bint Abi Habish that she was someone who suffered from istihadah. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said to her: "The blood of

menses is black which is recognisable, so when that comes, stop praying but when it is some other (blood), perform ablution and perform prayer, it is from the (blood) vessel."
[Sahih. Narrated by Nasai 216, 217, 363 and Abu Dawud 286]

Sunan Kubra Bayhaqi 1552

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوَدْبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ (١٥٥٣) ، قَالَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ مَكْحُولٌ : النِّسَاءُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِنَّ الْحَيْضَةُ ، إِنَّ دَمَهَا أَسْوَدٌ غَلِيظٌ فَإِذَا ذَهَبَ ذَلِكَ

وَصَارَتْ صُفْرَةً رَقِيقَةً فَإِنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ ، فَلْتَغْتَسِلْ وَتُصَلِّ-
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَدَرُوِي مَعْنَى مَا قَالَ مَكْحُولٌ عَنْ
-أَبِي أَمَامَةَ مَرْفُوعًا بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: مستحاضہ جب وہ تمیز کر سکتی ہو
حدیث نمبر: 1552

:ترجمہ

(۱۵۵۳) (الف) (مکحول فرماتی ہیں: عورتوں پر حیض پوشیدہ نہیں ہوتا، اس کا خون گاڑھا اور سخت سیاہ ہوتا ہے جب یہ چلا جائے اور زرد پتلا ہو جائے تو وہ استحاضہ ہے، لہذا وہ غسل کرے اور نماز پڑھے۔
(ب) (شیخ) رح (فرماتے ہیں کہ مکحول کے قول کی وضاحت ابو امامہ کی مرفوع روایت میں ہے، لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: When a woman suffering with istihadah can purify herself

Hadith number: 1552

Translation:

(1552) (a) Makhul says: Menstruation is not something hidden from women, its blood is thick and dark black, when it goes away and turns yellow, it is istihadah, so she should take a bath and offer her prayers.

(B) Shaykh says that the explanation of Makhul's statement is in the marfu narration of Abu Umamah, but its chain of transmission is weak.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1553

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ (١٥٥٤)
الصَّفَّارُ أَخْبَرَنَا الْبَاغَنْدِيُّ: مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ
عَوْنٍ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكِرْمَانِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ
الْمَلِكِ عَنِ الْعَلَاءِيِّ قَالَ سَمِعْتُ مَكْحُولًا يَقُولُ عَنْ أَبِي
: أَمَامَةَ الْبَابِلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ
وَدَمُ الْحَيْضِ أَسْوَدُ خَائِرٌ تَعْلُوهُ حُمْرَةٌ ، وَدَمُ الْمُسْتَحَاضَةِ))
أَصْفَرُ رَقِيقٌ ، فَإِنْ غَلَبَهَا فَلْتَحْتَشِ كُرْسُفًا ، فَإِنْ غَلَبَهَا فَلْتَعْلَهَا
، بِأُخْرَى ، فَإِنْ غَلَبَهَا فِي الصَّلَاةِ فَلَا تَقْطَعِ الصَّلَاةَ وَإِنْ قَطَرَ
وَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا وَتَصُومُ

وَتُصَلِّيَ)) -

عَبْدُ الْمَلِكِ هَذَا مَجْهُولٌ ، وَالْعَلَاءِيُّ هُوَ ابْنُ كَثِيرٍ ضَعِيفٌ
الْحَدِيثِ ، وَمَكْحُولٌ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي أَمَامَةَ شَيْئًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ
أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ
الْدَّارِقُطَنِيِّ الْحَافِظِ

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مستحاضہ جب وہ تمیز کر سکتی ہو

حدیث نمبر: 1553

:ترجمہ

(۱۵۵۴) (سیدنا ابو امامہ باہلیؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:۔۔۔ حیض کا خون سیاہ اور گاڑھا ہوتا ہے اس پر سرخی آجاتی ہے اور استحاضہ کا خون زرد پتلا ہوتا ہے، اگر وہ اس پر غالب آجائے تو اس پر روئی رکھ لے اور اگر وہ اس پر بھی غالب آجائے تو دوسری نئی روئی رکھ لے۔ اگر نماز میں غالب آجائے تو وہ نماز نہ

توڑے اگرچہ خون گرنے لگے اور اس کا خاوند اس کے پاس آئے (یعنی جماع کرے) اور وہ عورت روزے رکھے اور نماز پڑھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: When a woman suffering with istihadah can purify herself

Hadith number: 1553

Translation:

(1553) Syeduna Abu Umamah Bahili says that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: ...The blood of menstruation is black and thick, it gets red and the blood of istihadah is yellow and thin, if it is too much, let her put cotton wool over it, and if it still too much, let her place a new cotton wool over it. If it starts while she is in prayer, she

should not break the prayer even if the blood starts to flow and her husband can come to her (i.e. have intercourse) and she should fast and pray.

[Baatil (False). Narrated by Al-Daraqutni 218]

Sunan Kubra Bayhaqi 1554

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو : مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَدِيبُ أَخْبَرَنَا (١٥٥٥)
 أَبُو بَكْرِ الْإِسْمَاعِيلِيُّ أَخْبَرَنِي هَارُونَ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا ابْنُ
 أَبِي عَمْرٍو حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ بِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
 عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - ﷺ - : أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ
 تُسْتَحَاضُ ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : إِنَّمَا
 ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ فَدَعِيَ
 الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسَلِي وَصَلِّي -
 رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُفْيَانَ
 بَكْدًا - وَكَانَ ابْنُ عِيْنَةَ يَشْكُ فِي ذِكْرِ الْغُسْلِ فِيهِ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب : پاکی کا بیان

باب : حیض کے بعد فرق جانے والی مستحاضہ کا غسل کرنا

حدیث نمبر : 1554

:ترجمہ

(١٥٥٥) (سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت ابی

حبیبشؐ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئیں اور عرض کیا: میں استحاضہ والی عورت ہوں، میں پاک نہیں ہوتی، کیا میں نماز کو چھوڑ دوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا " :نہیں، یہ رگ سے ہے حیض نہیں ہے، جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دے اور جب چلا جائیو خون دھو اور نماز پڑھ

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Hadith number: 1554

Translation:

(1554) It is narrated on the authority of Ayesha (may Allah be pleased with her) that Fatima bint Abi Habish came to the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) and said: I am a woman suffering from istihadah, I am not pure, should I stop praying? He said: "No, this is from a blood vessel. This is not menstruation. When your menstrual period

starts, stop praying and when it is gone, wash off the blood from you and pray."

[Sahih. Narrated by Bukhari 228 and Muslim 333 and Nasai 218, 364 and Tirmidhi 125 and Ibn Majah 621]

Sunan Kubra Bayhaqi 1555

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ (١٥٥٦)

بِنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا بَشْرُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا
 سُفْيَانُ حَدَّثَنَا بِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وَقَالَ : وَإِذَا
 أَدْبَرْتَ فَأَغْتَسِلِي وَصَلِّي - أَوْ قَالَ : اغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ وَصَلِّي -
 وَقَدْ رُوِيَ فِيهِ زِيَادَةُ الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ ، وَلَيْسَتْ بِمَحْفُوظَةٍ
 وَرَوَاهُ أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بِشَامٍ وَذَكَرَ فِيهِ الْإِغْتِسَالُ إِلَّا أَنَّهُ ،
 خَالَفَ الْجَمَاعَةَ فِي سِيَاقِهِ ، وَفِي الْخَبَرِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ
 يَشُكُّ فِيهِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب : پاکی کا بیان
 باب : حیض کے بعد فرق جانے والی مستحاضہ کا غسل کرنا
 حدیث نمبر : 1555

: ترجمہ

(۱۵۵۶) (الف) ہشام بن عروہ نے اسی سند سے ہم معنی
 روایت بیان کیہیکہ جب خون چلا جائے تو غسل کر اور نماز
 پڑھ، یا فرمایا : اپنے آپ سے خون دھو اور نماز

" پڑھ

،(ب اس میں یہ بھی ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو کر لیکنیہ غیر محفوظ ہے۔ ابو اسامہ نے ہشام سے روایت کی ہے، اس میں غسل کا ذکر ہے مگر محدثین کی جماعت نے اس کے سیاق کی مخالفت کی بنا پر ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Hadith number: 1555

Translation:

(1555) Hisham ibn Urwah narrated a synonymous narration from the same chain of transmission, when the blood is gone, take a bath and pray, or he said: Wash off the blood from and pray. "

(B) It also says, perform ablution for every prayer, but this is not secure. Abu Usama has narrated from Hisham, it mentions

taking a bath but the majority of
muhadditheen is opposed its context.
[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1556

Arabic Text:

:أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ بْنُ أَبِي عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ (١٥٥٧)
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزِيدٍ أَخْبَرَنِي
أَبِي قَالَ سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ

شِهَابٍ حَدَّثَنِى عُرْوَةُ بِنُ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
سَعْدِ بْنِ زُرَّارَةَ

أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَتْ : اسْتَحْيَضَتْ أُمَّ حَبِيبَةَ
، بِنْتُ جَحْشٍ وَهِيَ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ سَبْعَ سِنِينَ
: - وَاسْتَكْتَذَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -
إِنَّهَا لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ ((
الْحَيْضَةُ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَسَلِي ثُمَّ صَلِّي)) -
قَالَتْ عَائِشَةُ : وَكَانَتْ أُمَّ حَبِيبَةَ تَقْعُدُ فِي مِرْكَانٍ لِأُخْتِهَا زَيْنَبَ
بِنْتُ جَحْشٍ حَتَّى إِنَّ حُمْرَةَ الدَّمِ لَتَعْلُو الْمَائِ - ذَكَرُ الْغُسْلِ فِي
بَدَا الْحَدِيثِ صَحِيحٌ ، وَقَوْلُهُ : فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ -
، تَفَرَّدَ بِهِ الْأَوْزَاعِيُّ مِنْ بَيْنِ ثِقَاتِ أَصْحَابِ الزُّبَيْرِيِّ
وَالصَّحِيحُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ كَانَتْ مُعْتَادَةً وَإِنَّ بَدَاهِ اللَّفْظَةَ إِنَّمَا
ذَكَرَهَا بِشَامٍ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ فِي قِصَّةِ فَاطِمَةَ
بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ - وَقَدْ رَوَاهُ بِشْرُ بْنُ بَكْرِ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ كَمَا
رَوَاهُ غَيْرُهُ مِنْ الثِّقَاتِ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى
كتاب : پاکی کا بیان

باب: حیض کے بعد فرق جاننے والی مستحاضہ کا غسل کرنا
حدیث نمبر: 1556

:ترجمہ

(۱۵۵۷) (الف) (سیدہ عائشہ^{رض} فرماتی ہیں کہ ام حبیبہ بنت جحش^{رض} عبد الرحمن بن عوف^{رض} کی بیوی تھی، ان کو سات سال تک استحاضہ کا خون آتا رہا۔ انہوں نے اس کی شکایت نبی ﷺ سے کی، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " یہ حیض نہیں ہے بلکہ رگ سے ہے، جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دے اور جب چلا جائے تو غسل کر اور نماز پڑھ۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ ام حبیبہ^{رض} ٹپ میں بیٹھتی تھی جو اس کی بہن زینب بنت جحش کا تھا تو خون کی سرخی پانی کے اوپر آجاتی۔ اس حدیث میں غسل کا ذکر صحیح ہے اور آپ ﷺ کا فرمان "فاذا اقبلت الحيضة واذا ادبرت" بھی صحیح ہے۔ (ب) (امام زہری کے ثقات شاگردوں میں سے زہری کا تفرد ہے۔ صحیح بات ہے کہ ام حبیبہ^{رض} عادت والی تھیں۔ یہ لفظ فاطمہ بنت جیش^{رض} کے قصہ میں ہشام بن عروہ نے عن ابیہ عن عائشہ نقل کیے ہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: When a woman suffering with istihadah can purify herself

Hadith number: 1556

Translation:

(1556) Syeda Ayesha (may Allah be pleased with her) says that Umm Habib bint Jahsh was the wife of Abdul Rahman bin Awf, she was bleeding due to istihaza for seven years. She complained about it to the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him). He said: This is not menstruation rather it is from a blood vessel, when your menstrual period starts, stop praying and when it is over, take a bath and pray. Syeda Ayesha (may Allah be pleased with her) says that Umm Habibah

used to sit in the tub which belonged to her sister Zainab bint Jahsh and the redness of the blood would come above the water. In this hadeeth, the mention of taking a bath is authentic, and the saying of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him): "فاذا اقبلت الحيضة واذا ادبرت" is also authentic

[Sahih. Narrated by Bukhari 327 and Muslim 334 and Nasai 203, 204, 205, 211, 357 and Abu Dawud 285, 288 and Ibn Majah 626 and Ahmad 6/83, 141, 187 and Darimi 795]

Sunan Kubra Bayhaqi 1557

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ (١٥٥٨)
يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ التَّنُوخِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرِ
حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ وَعَمْرَةُ
بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَّارَةَ -
أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ: اسْتُحِيضَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ
، بِنْتُ جَحْشٍ وَبِي تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ سَبْعَ سِنِينَ
فَاسْتَكَّتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ ((: إِنَّ بَدَةَ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ
: وَلَكِنْ بَدَا عِرْقٌ ، فَأَغْتَسَلِي ثُمَّ صَلَّى)) . (قَالَتْ عَائِشَةُ ،
وَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَاةٍ ثُمَّ تُصَلِّي ، وَكَانَتْ تَقْعُدُ فِي مِرْكَنٍ
لَأُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتُ جَحْشٍ حَتَّى إِنَّ حُمْرَةَ الدَّمِ لَتَعْلُو الْمَاءِ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: حیض کے بعد فرق جاننے والی مستحاضہ کا غسل کرنا
حدیث نمبر: 1557

ترجمہ:

(۱۵۵۸) (سیدہ عائشہ رض فرماتی ہیں: ام حبیبہ بنت جحش رض کا طغری عبد الرحمن بن عوف رض کی بیوی تھی، ان کو سات سال تک استحاضہ آتا رہا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ حیض نہیں ہیں کہ یہ رگ ہے غسل کر اور نماز پڑھ عائشہ رض فرماتی ہیں: پھر وہ نماز کے لیے غسل کرتی اور نماز پڑھتی اور اپنی بہن زینب بنت جحش رض کے ٹپ میں بیٹھتی تھی اور خون کی سرخی پانی کے اوپر آجاتی۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Hadith number: 1557

Translation:

(1557) Ayesha (may Allah be pleased with her) says: Umm Habiba bint Jahsh was the wife of Abd al-Rahman ibn Awf (may Allah be pleased with him), she suffered from istihadah for seven years. She complained about this to the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) and he said: This is not menstruation, rather it is from a blood vessel, take a bath and then pray. Ayesha (may Allah be pleased with her) says: Then she would take a bath and pray and she would sit in the tub of her sister Zainab bint Jahsh and the redness of the blood would come above the water.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1558

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ (١٥٥٩)
يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ حَدَّثَنَا عَفَّانُ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَدَّائِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ: اَعْتَكَفْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - امْرَأَةً مِنْ
، أَزْوَاجِهِ مُسْتَحَاضَةً ، وَكَانَتْ تَرَى الْحُمْرَةَ وَالصُّفْرَةَ
فَرُبَّمَا وَضَعْنَا الطَّسْتَ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي -
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: باب: مستحاضہ کے لیے حالتِ مستحافہ میں نماز، اور

خاوند سے وطی بھی جائز ہے

حدیث نمبر: 1558

:ترجمہ

(۱۵۵۹) (سیدہ عائشہ ^{رض} سے روایت ہے کہ آپ ﷺ کی کسی

بیوی نے آپ ﷺ کے ساتھ اعتکاف کیا، اور وہ مستحاضہ

تھی، وہ سرخی اور زردی دیکھتی، بعض اوقات ہم پلیٹ اس

کے نیچے رکھ دیتیں اور وہ نماز پڑھتی تھی۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: It is permissible for a woman

suffering from istihadah to offer prayers and

to have intercourse with her husband

while she is in the state of istihadah

Hadith number: 1558

Translation:

(1558) It is narrated from Syeda Ayesha (may Allah be pleased with her) that one of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him)'s wives performed itikaaf with him, and she was suffering from istihadah, she would notice the redness (of the blood) and yellowish (discharge), sometimes we would put a dish under her and she would pray.

[Sahih. Narrated by Bukhari 309 and Abu Dawud 2476 and Ibn Majah 1780 and Ahmad 6/131 and Darimi 906]

Sunan Kubra Bayhaqi 1559

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ الْإِسْمَاعِيلِيُّ (١٥٦٠)
أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ وَعِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَا حَدَّثَنَا وَهْبُ
بْنُ بَقِيَّةٍ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ-

قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَحَدَّثَنِي ابْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ
شَابِينَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ خَالِدٍ يَعْنِي الْحَدَّائِيَّ عَنْ
عِكْرَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - اَعْتَكَفَ فَاَعْتَكَفَ
مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ وَبِي مُسْتَحَاضَةٌ تَرَى الدَّمَ ، فَرُبَّمَا وَضَعَتْ
الطَّسْتُ تَحْتَهَا مِنَ الدَّمِ-

وَزَعَمَ أَنَّ عَائِشَةَ رَأَتْ مَاءَ الْعُصْفُرِ فَقَالَتْ :كَأَنَّ هَذَا
شَيْئٌ كَانَتْ فُلَانَةٌ تَجِدُهُ. لَفْظُ وَهْبٍ وَحَدِيثُ إِسْحَاقٍ مِثْلُهُ
سِوَايَ ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ

شَابِینَ۔

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: باب: مستحاضہ کے لیے حالتِ مستحاضہ میں نماز، اور

خاوند سے وطی بھی جائز ہے

حدیث نمبر: 1559

:ترجمہ

(۱۵۶۰) (سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے

اعتکاف کیا اور آپ کی ایک زوجہ متحرّمہ نے بھی آپ ﷺ

کے ساتھ اعتکاف کیا اور وہ مستحاضہ تھی، خون کو

دیکھتی، بعض اوقات اپنے نیچے خون کے لیے بڑی پلیٹ

رکھ دیتی۔

ب (راوی کا گمان ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے زرد پانی دیکھا

تو انہوں نے کہا: تو اس طرح ہے جیسے فلاں کو آتا تھا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: It is permissible for a woman suffering from istihadah to offer prayers and to have intercourse with her husband while she is in the state of istihadah

Hadith number: 1559

Translation:

(1559) It is narrated from Ayesha (may Allah be pleased with her) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him)

performed itikaaf and one of his wives also performed itikaaf with him and she was suffering from istihadah, she would notice the blood and so sometimes (she would) place a large dish under her for the blood.

[Sahih. Narrated by Bukhari 309 and Abu Dawud 2476 and Ibn Majah 1780 and Ahmad 6/131 and Darimi 906]

Sunan Kubra Bayhaqi 1560

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذُبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ دَاسَةَ (١٥٦١)
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُعَلَّى يَعْنِي ابْنَ
مَنْصُورٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسَهْرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: كَانَتْ
أُمُّ بَيْبَةَ تُسْتَحَاضُ وَكَانَ زَوْجُهَا يَغْشَاهَا.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: باب: مستحاضہ کے لیے حالتِ مستحافہ میں نماز، اور

خاوند سے وطی بھی جائز ہے

حدیث نمبر: 1560

:ترجمہ

(۱۵۶۱) عکرمۃ سے روایت ہے کہ ہیں ام حبیبہؓ استحاضہ والی تھی اور ان کا خاوند ان سے جماع کرتا تھا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: It is permissible for a woman suffering from istihadah to offer prayers and to have intercourse with her husband while she is in the state of istihadah

Hadith number: 1560

Translation:

(1560) It is narrated from Ikramah that Umm Habibah (may Allah be pleased with her) was someone who suffered from istihadah and her husband would not have intercourse with her.

[Sahih. Narrated by Abu Dawud 305, 309]

Sunan Kubra Bayhaqi 1561

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ (١٥٦٢)
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ الرَّازِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
الْجَهْمِ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ
حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ: أَنَّهَا كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً وَكَانَ زَوْجُهَا
يُجَامِعُهَا.

وَيُذَكَّرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَبَاحَ وَطْأَهَا، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُسَيَّبِ
وَالْحَسَنِ وَعَطَائِيٍّ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَغَيْرِهِمْ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: باب: مستحاضہ کے لیے حالتِ مستحاضہ میں نماز، اور

خاوند سے وطی بھی جائز ہے

حدیث نمبر: 1561

:ترجمہ

(١٥٦٢) (سیدہ حمنہ بنت جحش^{رض} سے روایت ہے کہ وہ
مستحاضہ تھی اور ان کا خاوند ان سے جماع کرتا تھا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: It is permissible for a woman suffering from istihadah to offer prayers and to have intercourse with her husband while she is in the state of istihadah

Hadith number: 1561

Translation:

(1561) It is narrated from Syeda Hamnah bint Jahsh that she was someone who suffered from istihadah and her husband used to have intercourse with her.

[Hasan (Fair). Narrated by Abu Dawud 310]

Sunan Kubra Bayhaqi 1562

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ (١٥٦٣)
يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبِي
عَنْ وَطِيٍّ الْمُسْتَحَاضَةِ فَقَالَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ
غِيْلَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ قَمِيرٍ عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ: الْمُسْتَحَاضَةُ لَا يَغْشَاهَا زَوْجُهَا. قَالَ أَبِي: وَرَأَيْتُ
فِي كِتَابِ الْأَشْجَعِيِّ كَمَا رَوَاهُ وَكَيْعٌ.
وَرَوَاهُ عُندَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ
الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ لَا يَغْشَاهَا زَوْجُهَا.
قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ رَوَاهُ مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ شُعْبَةَ فَفَصَلَ قَوْلَ الشَّعْبِيِّ
مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: باب: مستحاضہ کے لیے حالتِ مستحاضہ میں نماز، اور

خاوند سے وطی بھی جائز ہے

حدیث نمبر: 1562

:ترجمہ

(الف) (۱۵۶۳) (الف) (سیدہ عائشہؓ فرماتی ہیں کہ استحاضہ والی

عورت کا خاوند جماع نہیں کرے گا۔

(ب) (شعبی سے روایت ہے کہ مستحاضہ والی عورت کا

خاوند جماع نہیں کرے گا۔

(ج) (معاذ بن معاذ نے شعبہ سے سیدہ عائشہؓ کے قول سے

مختلف قول نقل کیا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: It is permissible for a woman suffering from istihadah to offer prayers

and to have intercourse with her husband while she is in the state of istihadah
Hadith number: 1562

Translation:

(1562) (a) Syeda Ayesha (may Allah be pleased with her) says that the husband of a woman suffering from istihadah should not have intercourse with her.

(B) It is narrated from Shubi that the husband of a woman suffering from istihadah should not have intercourse with her.

(C) Mu'adh ibn Mu'adh has quoted an opinion from Shubi that differs from the view of Syeda Ayesha (may Allah be pleased with her).

[Hasan (Fair). Narrated by Darimi 830]

Sunan Kubra Bayhaqi 1563

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ (١٥٦٤)
جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ الْفَرِيَابِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ
حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ
الشَّعْبِيِّ عَنْ قَمِيرِ امْرَأَةِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: الْمُسْتَحَاضَةُ
تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضَتِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ.
قَالَ وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لَا تَصُومُ وَلَا يَغْشَاهَا زَوْجُهَا.
فَعَادَ الْكَلَامُ فِي غَشْيَانِهَا إِلَى قَوْلِ الشَّعْبِيِّ كَمَا قَالَ أَحْمَدُ
بْنُ حَنْبَلٍ-

وَتَرَكَنَاهُ بِمَا مَضَى مِنَ الدَّلَالَةِ عَلَى إِبَاحَةِ وَطْئِهَا إِذَا تَوَلَّى
حَيْضُهَا وَاغْتَسَلَتْ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: باب: مستحاضہ کے لیے حالتِ مستحافہ میں نماز، اور

خاوند سے وطی بھی جائز ہے

حدیث نمبر: 1563

:ترجمہ

(۱۵۶۴) (الف) (سیدہ عائشہ^{رض} سے روایت ہے کہ مستحاضہ

اپنے حیض کے دنوں میں نماز چھوڑ دے گی، پھر غسل

کرے گی اور ہر نماز کے لیے وضو کرے گی۔

(ب) (شعبی کہتے ہیں: روزہ نہیں رکھے گی، لیکن اس

کا خاوند جماع کرے گا۔

(ج) (ہم نے وطی کے جواز پر پیچھے دلائل ذکر کیے ہیں

جب اس کا حیض ختم ہو جائے اور وہ غسل کر لے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: It is permissible for a woman suffering from istihadah to offer prayers and to have intercourse with her husband while she is in the state of istihadah

Hadith number: 1563

Translation:

(1563) (a) It is narrated from Ayesha (may Allah be pleased with her) that a woman who is suffering from istihadah should stop praying during her menstrual period, then take a bath (once it is over) and will perform ablution for each prayer.

(B) Shubi says: She should not fast, but her husband can have intercourse with her.

(C) We have previously given the evidence

for the permissibility of having intercourse when her menstrual period is over and she has taken a bath.

[Hasan (Fair). Narrated by Ibn Abi Shaybah 16960]

Sunan Kubra Bayhaqi 1564

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ (١٥٦٥)
بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهَ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ
الْقَاضِي وَإِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكُ
عَنْ بِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ
أَبِي حُبَيْشٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَطْهَرُ أَفَادَعُ الصَّلَاةَ؟
، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - ((: إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ
فَإِذَا أَقْبَلْتَ فَاتْرُكِي الصَّلَاةَ ، وَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي
عَنْكَ الدَّمَ وَصَلِّي)) (- وَاللَّفْظُ لِإِسْمَاعِيلَ
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ عَنْ
مَالِكٍ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: طہر کے احکام
حدیث نمبر: 1564

:ترجمہ

(۱۵۶۵) (سیدہ عائشہؓ سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت ابی حبیشؓ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول! میں پاک نہیں ہوتی ہوتی کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " :یہ رگ ہے حیض نہیں ہے، جب آئے تو نماز چھوڑ دے اور اس (حیض کی مقدار چلا جائے تو اپنے سے خون دھو اور " نماز پڑھ

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Rules of purification

Hadith number: 1564

Translation:

(1564) It is narrated on the authority of Ayesha (may Allah be pleased with her) that Fatima bint Abi Habish said: O Messenger of Allah! I am not pure. Should I stop praying? The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: This is from a blood vessel, not menstruation.

When it starts, stop praying and when its (menstruation) time period is over, then wash off the blood from you and perform the prayers.

[Sahih. Narrated by Bukhari 228 and Muslim 333 and Nasai 218, 364 and Tirmidhi 125 and Ibn Majah 621]

Sunan Kubra Bayhaqi 1565

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهِ (١٥٦٦)
الشَّيْرَازِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
عَبْدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّائِيُّ حَدَّثَنَا مُحَاضِرُ بْنُ الْمُورِّعِ حَدَّثَنَا بِشَامٌ-
وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ
إِسْحَاقَ الْفَقِيهِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ
اللَّهِ - ﷺ - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي اسْتَحَاضْتُ فَلَا أَطْهَرُ
أَفَادَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - ((: إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ
وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلْتَ الْحَيْضَةَ فَدَعِي الصَّلَاةَ ، وَإِذَا
أَدْبَرْتَ فَاغْسِلِي الدَّمَ عَنْكَ ثُمَّ صَلِّي))-
لَفْظُ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَحَدِيثُ مُحَاضِرٍ بِمَعْنَاهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ
فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: طہر کے احکام
حدیث نمبر: 1565

:ترجمہ

(۱۵۶۶) (سیدہ عائشہ رض سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت ابی
حبیش رض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا: اے اللہ کے
رسول! میں استحاضہ والی ہوں، میں پاک نہیں ہوتی تو کیا
میں نماز چھوڑ دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا " یہ ایک رگ
ہے، حیض نہیں ہے۔ جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دے اور
" جب چلا جائے تو اپنے سے خون دھو دے، پھر نماز پڑھ

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Rules of purification

Hadith number: 1565

Translation:

(1565) It is narrated from Ayesha (may Allah be pleased with her) that Fatima bint Abi Habish came to the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) and said: O Messenger of Allah! I am someone who suffers from istihadah, I am not pure, so should I stop praying? The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: This is from a blood vessel, not menstruation. When your menstrual period starts, stop praying and when it is over, wash off the blood from you, then pray. [Sahih. Narrated by Bukhari 228 and Muslim 333 and Nasai 218, 364 and Tirmidhi 125 and Ibn Majah 621]

Sunan Kubra Bayhaqi 1566

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذُبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ (١٥٦٧)
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ
أَبِي حَبِيبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ عِرَاكِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا
قَالَتْ: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - عَنِ الدَّمِ فَقَالَتْ
: - عَائِشَةُ: رَأَيْتُ مِرْكَنَهَا مَلَى دَمٍ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -
((امْكُتِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْسِكُ حَيْضَتُكَ ، ثُمَّ اغْتَسِلِي)) -
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ بْنِ سَعِيدٍ فَجَعَلَهَا رَسُولُ
اللَّهِ - ﷺ - فِيهِمَا جَمِيعًا: إِذَا أَدْبَرْتَ حَيْضَتُهَا أَوْ مَضَى قَدْرُ مَا
وَلَمْ يَأْمُرْ ۖ كَانَتْ حَيْضَتُهَا تَحْسِبُهَا فِي حُكْمِ الطَّائِرَاتِ
بِالِاسْتِطْهَارِ - وَقَدْ رُوِيَ فِي حَدِيثٍ ضَعِيفٍ مَا يُؤْبَهُ أَنْ يَكُونَ
فِيهِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: طہر کے احکام
حدیث نمبر: 1566

:ترجمہ

(۱۵۶۷) (سیدہ عائشہ رض سے روایت ہے کہ ام حبیبہ رض نے خون کے متعلق رسول اللہ ﷺ سے پوچھا: سیدہ عائشہ رض فرماتی ہیں کہ میں نے اس کا ٹپ خون سے بھرا ہوا دیکھا، انہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " :جتی دیر تجھ کو تیرا حیض روکے رکھے اتنی دیر رک جا، پھر غسل کر۔"

(ب) (صحیح مسلم قتیبہ بن سعید سے ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تیرا حیض گزر جائے یا اتنا عرصہ گزر جائے جتنے تیرے حیض کے دن ہوتے تھے۔ پھر تو اپنے آپ کو پاک عورتوں میں شمار کر لیکن طہارت حاصل کرنے کا حکم نہیں دیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi
Book: Statement of Purity
Chapter: Rules of purification
Hadith number: 1566

Translation:

(1566) It is narrated on the authority of Ayesha (may Allah be pleased with her) that Umm Habibah asked the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) about blood (that is due to istihadah).

Ayesha (may Allah be pleased with her) said: I saw her tub full of blood, The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said to her: "Keep away (from prayer) equal (to the length of time) that your menses prevent you, then take a bath."

[Sahih. Narrated by Muslim 334 and Nasai 207, 353 and Abu Dawud 279 and Ibn Majah 626 and Ahmad 6/83, 141, 187 and

Sunan Kubra Bayhaqi 1567

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ (١٥٦٨)
إِسْحَاقَ الْفَقِيهَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ
يَعْنِي مُحَمَّدًا حَدَّثَنَا الْفَرِيَابِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ
حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ ابْنِ جَابِرٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ ابْنَةَ مَرْثَدِ
الْأَنْصَارِيَّةَ أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ - فَقَالَتْ: تَنَكَّرْتُ

حَيْضَتِي قَالَ : كَيْفَ؟ - قَالَتْ : تَأْخُذْنِي فَإِذَا تَطَهَّرْتُ مِنْهَا
عَاوَدَنِي- قَالَ : إِذَا رَأَيْتِ ذَلِكَ فَاْمَكْتِي ثَلَاثًا -

قَالَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ : الْخَبْرُ وَابِي-
وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ قَالَ لِأَنَّ الطَّهْرَ كَثِيرًا يَقَعُ فِي وَسْطِ الْحَيْضِ
فَيَكُونُ حَيْضًا بَعْدَ ذَلِكَ-

قَالَ الشَّيْخُ : حَرَامٌ بِنُ عَثْمَانَ ضَعِيفٌ لَا تَقُومُ بِمِثْلِهِ الْحُجَّةُ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب : پاکی کا بیان
باب : طہر کے احکام
حدیث نمبر : 1567

:ترجمہ

(۱۵۶۸) (ابن جابرؓ اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں کہ مرثد
انصاریہ کی بیٹی نبی ﷺ کے پاس آئیں اور عرض کیا : میں
نے اپنے حیض کو عجیب محسوس کیا ہے ، آپ ﷺ نے
فرمایا : کیسے؟ اس نے کہا : مجھے آتا ہے جب میں پاک
ہو جاتی ہوں تو دوبارہ پھر آجاتا ہے۔ آپ ﷺ نے

" فرمایا " :جب تو یہ دیکھے تو تین (دن) رک جا۔
(ابن اسحاق کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے۔
(اس بات کا بھی احتمال ہے کہ اکثر دوران حیض طہر
آجاتا ہے پھر اس کے بعد حیض شروع ہو جاتا ہے۔
(شیخ کہتے ہیں : حرام بن عثمان ضعیف ہے قابل حجت
نہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Rules of purification

Hadith number: 1567

Translation:

(1567) Ibn Jabir (may Allah be pleased with him) narrated from his father that the daughter of Murshid Ansariyah came to the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) and said: I have found my menstruation strange. He said: How so? She said: It starts when I am pure then it

starts again. He said: "When you see this, stop (praying) for three (days)."

(B) Ibn Ishaq says that this narration is daif.

(C) Shaykh says: Haram ibn Uthman is weak, not reliable.

[Daif Jiddan (Very Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1568

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ (١٥٦٩)
اللَّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الشَّيْبَانِيَّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ
اللَّهِ السَّعْدِيِّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ
سَعِيدٍ أَنَّ الْقَعْقَاعَ بْنَ حَكِيمٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ
عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ فَقَالَ : يَا ابْنَ أَخِي مَا أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهَذَا مِنِّي ، إِذَا
أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ فَلْتَدْعِ الصَّلَاةَ ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ
لِتُصَلِّيْ-
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب : پاکی کا بیان
باب : طہر کے احکام
حدیث نمبر : 1568

:ترجمہ

(١٥٦٩) (قعقاع بن حكيم نے سعيد بن مسيب سے مستحاضہ
:کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا

ایبہتیجے! مجھ سے زیادہ اس کو کوئی بھی جاننے والا نہیں ہے، جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دے اور جب (حیض) چلا جائے تو غسل کر اور نماز پڑھ

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Rules of purification

Hadith number: 1568

Translation:

(1568) When Qaqa ibn Hakim asked Sa'id ibn Musaib about istihadah, he said: O nephew! No one knows about this better than me. When menstruation starts, stop praying and when it (i.e. menstruation) is over, take a bath and pray.

[Sahih. Narrated by Darimi 787]

Sunan Kubra Bayhaqi 1569

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ وَأَبُو (١٥٧٠)
زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّيَّ وَأَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ
:الْقَاضِي وَأَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ يَعْنِي ابْنَ بَكْرٍ بْنِ مُضَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ
عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَتْ: إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشِ
الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ شَكَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -
ﷺ (الِدَّمَ فَقَالَ لَهَا ((:امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ
ثُمَّ اغْتَسِلِي)) (- وَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ -
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُوسَى بْنِ قُرَيْشٍ

التَّمِيمِيَّ عَنِ إِسْحَاقَ بْنِ بَكْرِ - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: عادت والی کا حکم جو دو جو قسم کے خون میں فرق
نہ کر سکے

حدیث نمبر: 1569

:ترجمہ

(۱۵۷۰) (سیدہ عائشہ^{رض} سے روایت ہے کہ ام حبیبہ بنت

جحش^{رض} جو عبد الرحمن بن عوف^{رض} کی بیوی تھیں، انہوں نے

رسول اللہ^{صلی اللہ علیہ وسلم} سے خون کی شکایت کی، آپ^{صلی اللہ علیہ وسلم} نے فرمایا " :

جتنی دیر تجھ کو تیرا حیض روکے رکھے، اتنی دیر رک

جا، پھر غسل کر اور وہ ہر نماز کے لیے غسل کرتی تھیں۔

"

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on the woman who habitually bleeds and cannot differentiate between two types of blood

Hadith number: 1569

Translation:

(1569) It is narrated on the authority of Ayesha (may Allah be pleased with her) that Umm Habibah bint Jahsh, the wife of Abdul Rahman bin Awf, complained about blood to the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) who said: "Keep away (from prayer) equal (to the length of time) that your menses prevent you, then take a bath." So she would take a bath for every prayer.

[Sahih. Narrated by Bukhari 327 and Muslim 334 and Nasai 203, 204, 205, 211, 357 and Abu Dawud 285, 288 and Ibn Majah 626 and Ahmad 6/83, 141, 187 and

Sunan Kubra Bayhaqi 1570

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ (١٥٧١)
بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ
وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا

أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ الصَّفَّارِ حَدَّثَنَا ابْنُ مِلْحَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ
 عَنِ اللَّيْثِ عَنْ يَزِيدَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ
 - عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ -
 عَنِ الدَّمِّ - قَالَتْ عَائِشَةُ: لَقَدْ رَأَيْتُ مِرْكَنَهَا مَمْلُوءًا دَمًا - فَقَالَ
 لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - ((: اَمْكُتِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ
 حَيْضَتُكَ ثُمَّ اغْتَسِلِي)) -
 رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ عَنِ اللَّيْثِ. وَرَوَاهُ الزُّهْرِيُّ
 عَنْ عُرْوَةَ مُخْتَصَرًا.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 باب: عادت والی کا حکم جو دو جو قسم کے خون میں فرق
 نہ کر سکے
 حدیث نمبر: 1570

ترجمہ:

(۱۵۷۱) (سیدہ عائشہ^{رض} سے روایت ہے کہ ام حبیبہ^{رض} نے رسول
 اللہ ﷺ سے خون کے متعلق سوال کیا، سیدہ عائشہ^{رض} فرماتی
 ہیں: میں نے اس کا ٹپ خون سے بھرا

ہوا دیکھا، انہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جتنی دیر تجھ کو تیرا حیض روکے رکھے اتنی دیر رک جا، پھر غسل کر۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on the woman who habitually bleeds and cannot differentiate between two types of blood

Hadith number: 1570

Translation:

(1570) It is narrated on the authority of Ayesha (may Allah be pleased with her) that Umm Habibah asked the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) about blood. Syeda Ayesha (may Allah be pleased with her) said: I saw her tub full of blood, the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said

to her: Keep away (from prayer) equal (to the length of time) that your menses prevent you, then take a bath.

[Sahih. Narrated by Bukhari 327 and Muslim 334 and Nasai 203, 204, 205, 211, 357 and Abu Dawud 285, 288 and Ibn Majah 626 and Ahmad 6/83, 141, 187 and Darimi 795]

Sunan Kubra Bayhaqi 1571

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ بْنِ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ (١٥٧٢)
عُبَيْدِ الصَّفَّارِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكِ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ
حَدَّثَنَا اللَّيْثُ

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَةَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ
شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: اسْتَفْتَتْ أُمَّ
حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - فَقَالَتْ: إِنِّي اسْتَحَاضُ -
فَقَالَ ((: إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ ، فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي)) (فَكَانَتْ
تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ -

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ ، وَهَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ
الزُّبَيْرِيِّ - وَرَوَاهُ سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنِ الزُّبَيْرِيِّ عَنْ
عُرْوَةَ فَخَالَفَهُمْ فِي الْإِسْنَادِ وَالْمَثْنِ جَمِيعًا -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: عادت والی کا حکم جو دو جو قسم کے خون میں فرق
نہ کر سکے

حدیث نمبر: 1571

ترجمہ:

(۱۵۷۲) (سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ام حبیبہ بنت جحش نے نبی ﷺ سے مسئلہ پوچھا کہ میں استحاضہ والی ہوں، آپ ﷺ نے فرمایا " یہ ایک رگ ہے لہذا تو غسل کر، پھر نماز پڑھ " وہ ہر نماز کے لیے غسل کرتی تھیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on the woman who

habitually bleeds and cannot differentiate

between two types of blood

Hadith number: 1571

Translation:

(1571) It is narrated on the authority of

Ayesha that Umm Habibah bint Jahsh asked

the Prophet (peace and blessings of

Allaah be upon him) about the issue of istihadah. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: “This is from a blood vessel, so take a bath, then offer your prayers.” She used to take a bath for every prayer.

[Sahih. Narrated by Bukhari 327 and Muslim 334 and Nasai 203, 204, 205, 211, 357 and Abu Dawud 285, 288 and Ibn Majah 626 and Ahmad 6/83, 141, 187 and Darimi 795]

Sunan Kubra Bayhaqi 1572

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ (١٥٧٣)
الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا الْأَسْفَاطِيُّ وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذِبَارِيُّ
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ
مُوسَى حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ يَعْنَى ابْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ
الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي
حُبَيْشٍ: أَنَّهَا أَمَرَتْ أَسْمَاءَ أَوْ أَسْمَاءُ حَدَّثَنِي أَنَّهَا أَمَرَتْهَا
فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ أَنْ تَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - فَأَمَرَهَا أَنْ
تَقْعُدَ الْأَيَّامَ الَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ ثُمَّ تَغْتَسِلُ. بِكَذَا رَوَاهُ جَرِيرٌ بْنُ
عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ

وَرَوَاهُ خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ
عَنْ أَسْمَاءَ فِي شَأْنِ فَاطِمَةَ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ فَذَكَرَ قِصَّةَ فِي
كَيْفِيَّةِ غُسْلِهَا إِذَا رَأَتْ الصَّفَّارَةَ فَوْقَ الْمَاءِ.

وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ عَلْقَمَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ
عَنْ فَاطِمَةَ فَذَكَرَ اسْتِحَاضَتَهَا وَأَمْرَ النَّبِيِّ - ﷺ - إِيَّابَا
سُودًا. بِالْإِمْسَاكِ عَنِ الصَّلَاةِ إِذَا رَأَتْ الدَّمَ الْإِ
وَفِيهِ وَفِي رِوَايَةِ بِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ

، دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُمَيِّزُ بَيْنَ الدَّمَيْنِ
وَرَوَايَةٌ سُهَيْلٍ فِيهَا نَظْرٌ ، وَفِي إِسْنَادِ حَدِيثِهِ ثُمَّ فِي الرَّوَايَةِ الثَّانِيَةِ
عَنْهُ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَحْفَظْهَا كَمَا يَنْبَغِي۔

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: عادت والی کا حکم جو دو جو قسم کے خون میں فرق

نہ کر سکے

حدیث نمبر: 1572

:ترجمہ

(۱۵۷۳) (الف) (سیدنا عروہ بن زبیر^{رض} فرماتے ہیں کہ مجھ کو

فاطمہ بنت حبیش^{رض} نے بتلایا کہ انہوں نے اسماء کو حکم دیا،

یا اسماء نے ہی مجھے بتلایا کہ کی فاطمہ بنت ابی حبیش^{رض}

نے انہیں حکم دیا کہ وہ رسول اللہ ﷺ سے اس کے متعلق

سوال کرے۔ آپ ﷺ نے انہیں حکم دیا: ان دنوں بیٹھی رہے

جن دنوں بیٹھا کرتی تھی) یعنی اپنے حیض کے ایام میں)

پھر غسل کرے۔

ب (زہری عن عروہ عن اسماءؓ سے فاطمہ بنت ابی حبیش کے بارے میں منقول ہے۔ انہوں نے ان کی غسل کی کیفیت کا واقعہ بیان کیا، اس میں ہے کہ جب وہ پانی پر زردی دیکھے۔

،ج (عروہ سے سیدہ فاطمہؓ کے متعلق منقول ہے انہوں نے ان کے استحاضہ کا ذکر کیا، نبی ﷺ نے انہیں نماز سے رکنے کا حکم دیا جب وہ سیاہ خون دیکھے۔
د (ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ والی روایت اس بات پر دال ہے کہ فاطمہ بنت حبیش دو خونوں کے درمیان تمیز کرنے والی تھیں۔ سہیل کی روایت محل نظر ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on the woman who habitually bleeds and cannot differentiate between two types of blood

Hadith number: 1572

Translation:

(1572) (a) Urwa ibn Zubayr (may Allah be pleased with him) says that Fatimah bint Habish told me that she commanded Asma, or it was Asma who informed me that Fatimah bint Abi Habish (may Allah be pleased with her) ordered her to ask the Messenger of Allah (may peace be upon him) about this issue.

(B) It is narrated from Urwah about Syeda Fatima, he mentioned about her istihadah, the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) ordered her to stop praying when she saw black blood.

(C) The narration of Hisham ibn Urwah on the authority of Abiyah on the authority of Ayesha is based on the fact that Fatima bint Habish used to distinguish between two bloods. Sohail's tradition is under

consideration.

[Sahih. Narrated by Abu Dawud 281]

Sunan Kubra Bayhaqi 1573

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ (١٥٧٤)

عُبَيْدِ الصَّفَّارِ حَدَّثَنَا ابْنُ مِلْحَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ
عَنْ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْمُغِيرَةِ
عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ حَدَّثَتْهُ: أَنَّهَا
أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ
اللَّهِ - ﷺ - ((: إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ ، فَاَنْظُرِي إِذَا أَتَاكِ قُرُوكِ فَلَا
تُصَلِّي ، فَإِذَا مَرَّ الْقُرَى فَتَطَهَّرِي ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقُرَى إِلَى
الْقُرَى)) (-).

وَفِي هَذَا مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَحْفَظْهُ وَهُوَ سَمَاعُ عُرْوَةَ مِنْ
فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ فَقَدْ بَيَّنَّ بِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ إِنَّمَا
سَمِعَ قِصَّةَ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ مِنْ عَائِشَةَ ، وَرِوَايَتُهُ فِي
الْإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ جَمِيعًا أَصَحُّ مِنْ رِوَايَةِ الْمُنْذِرِ بْنِ الْمُغِيرَةِ -
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ قَتَادَةُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبِ
بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحِيضَتْ فَأَمْرَبَا
النَّبِيَّ - ﷺ - أَنْ تَدَعَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي -
قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَقَتَادَةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ شَيْئًا -

قَالَ الشَّيْخُ: وَرِوَايَةُ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ
فِي شَأْنِ أُمِّ حَبِيبَةَ أَصَحُّ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَةِ -
أَمَّا رِوَايَةُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ فِي
شَأْنِ فَاطِمَةَ فَإِنَّهَا ضَعِيفَةٌ وَسَيَرْدُ بَيَانُ ضَعْفِهَا إِنَّ

شَاءَ اللهُ تَعَالَى. وَكَذَلِكَ حَدِيثُ عُمَانَ بْنِ سَعْدِ الْكَاتِبِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ فَاطِمَةَ ضَعِيفٌ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: عادت والی کا حکم جو دو جو قسم کے خون میں فرق نہ کر سکے

حدیث نمبر: 1573

ترجمہ:

(۱۵۷۴) (الف) (عروہ بن زبیر^{رض} سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت ابی حبیش^{رض} نے ان سے بیان کیا، وہ رسول اللہ ﷺ کا طغری کے پاس آئی اور خون کی شکایت کی۔ ان سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " یہ ایک رگ ہے تو انتظار کر، جب تیرا حیض آئے تو نماز نہ پڑھ، جب حیض گزر جائے تو پاک ہو جا، پھر طہر سے طہر تک نماز ادا کر۔"

(ب) (اس حدیث میں اس بات پر دلالت ہے کہ اس نے یاد نہیں رکھا، حالانکہ عروہ کا سماع سیدہ فاطمہ بنت ابی حبیش^{رض} سے ہے۔ ہشام بن عروہ نے وضاحت کی ہے

کہ ان کے والد نے فاطمہ بنت ابی حبیشؓ کا قصہ سیدہ عائشہؓ سے سنا، ان کے والد (کی روایت متن اور سند کے اعتبار سے منذر بن مغیرہ کی روایت سے زیادہ صحیح ہے۔ ج (امام ابوداؤد فرماتے ہیں: زینب بنت ام سلمہؓ سے روایت ہے ام حبیبہ بنت جحشؓ استحاضہ والی تھیں، انہیں نبی ﷺ نے حکم دیا کہ اپنے حیض کے دنوں میں نماز چھوڑ دے پھر غسل کر اور نماز پڑھ امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ قتادہ کا عروہ سے سماع ثابت نہیں۔ د (شیخ کہتے ہیں: عراق بن مالک کی روایت ام حبیبہؓ کے واقعہ کے متعلق جو عروہ عن عائشہ کی سند سے ہے، اس روایت سے زیادہ صحیح ہے۔ حبیب بن ابی ثابت کی روایت جو عروہ عن عائشہ فاطمہ بنت ابی حبیشؓ کے متعلق ہے وہ ضعیف ہے، اس کا ضعف جلد آگے آ رہا ہے۔ اس طرح عثمان بن سعد بن کاتب کی حدیث جو ابن ابی ملیکہ عن فاطمہ سے ہے، وہ بھی ضعیف ہے۔

English Translation:
Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on the woman who habitually bleeds and cannot differentiate between two types of blood

Hadith number: 1573

Translation:

(1573) (a) It is narrated on the authority of Urwah ibn Zubayr that Fatima bint Abi Habish narrated to him that she went to the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) and complained of blood. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said to her: This is from a blood vessel, look, when your menstruation starts, do not pray, When menstruation is over, purify yourself, then perform prayers during the period from one menstruation to another.. "

(B) Imam Abu Dawud says: It is narrated

on the authority of Zainab bint Umm Salamah that Umm Habiba bint Jahsh was someone who suffered from istihadah. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) commanded her to stop praying during her menstrual period, then take a bath and pray. Imam Abu Dawud says that Qatadah hearing from Arwa is not proven.

(C) Shaykh says: The narration of Iraq ibn Malik concerning the incident of Umm Habibah which has the chain of transmission Urwah on the authority of Aisha is more authentic than this narration. The narration of Habib ibn Abi Thabit which is narrated from Urwa on the authority of Ayesha from Fatima bint Abi Habish is weak, its weakness will be explained later soon. Similarly, the hadith of 'Uthman ibn Sa'd ibn Katib from Ibn Abi

Malika on the authority of Fatima is also daif (weak).

[Sahih. Narrated by Nasai 201, 350, 358, 362, 3583 and Abu Dawud 280 and Ibn Majah 620 and Malik 2/103 and Ahmad 6/420, 463 and Darimi 801]

Sunan Kubra Bayhaqi 1574

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ (١٥٧٥)
الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى -
وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ: عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَنَا أَبُو
عَمْرٍو بْنُ مَطَرٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ الذُّهَلِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى
بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ الْمُتَوَكِّلِ أَبُو عَقِيلٍ عَنْ بَهِيَّةَ قَالَتْ
سَمِعْتُ امْرَأَةً تَسْأَلُ عَائِشَةَ يَعْغِي عَنْ سَبَبِ حَيْضِهَا لَا
-تَدْرِي كَيْفَ تُصَلِّي فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
:لِامْرَأَةٍ فَسَدَ حَيْضُهَا وَأَهْرَيْقَتْ دَمًا وَلَا تَدْرِي كَيْفَ تُصَلِّي قَالَتْ
فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - أَنْ أَمْرًا فَلْتَنْتَظِرُ قَدْرَ مَا كَانَتْ
تَحِيضُ فِي كُلِّ شَهْرٍ وَحَيْضُهَا مُسْتَقِيمٌ فَلْتَعُدَّ - وَفِي حَدِيثِ
إِسْمَاعِيلَ: فَلْتَعُدَّ وَتَقْدِّرْ - ذَلِكَ مِنَ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي ، ثُمَّ
لْتَدْعِ الصَّلَاةَ فِيهِنَّ بِقَدْرَيْنِ ، ثُمَّ لْتَعْتَسِلْ وَتُحْسِنَ طَهْرَهَا ، ثُمَّ
تَسْتَذْفِرُ بِثَوْبٍ ثُمَّ تُصَلِّي ، فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنَ
الشَّيْطَانِ ، وَأَنْ يُذِيبَهَا اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى قَالَتْ
فَأَمَرْتُهَا ففَعَلْتُ فَأَذِيبَهَا اللَّهُ عَنْهَا ، فَمُرِي صَاحِبَتَكَ بِذَلِكَ. لَفْظُ
حَدِيثِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: عادت والی کا حکم جو دو جو قسم کے خون میں فرق نہ کر سکے

حدیث نمبر: 1574

:ترجمہ

(۱۵۷۵) (سیدہ بھیتہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک عورت سے سنا جو عائشہؓ سے حیض کے متعلق سوال کر رہی تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ کس طرح نماز پڑھے۔ سیدہ عائشہؓ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ سے ایک عورت کے متعلق سوال کیا اس کا حیض خراب ہو گیا اور وہ خون بہائے جا رہی ہے اور وہ نہیں جانتی تھی کیسے نماز پڑھے۔ رسول اللہ ﷺ نے مجھے حکم دیا کہ میں اس کو کہوں کہ وہ انتظار کرے اتنا جتنا وہ ہر ماہ میں حیض گزارتی تھی اور اس کا صحیح حیض یہی ہے، پھر وہ یہی عادت بنالے۔ اسماعیل کی حدیث میں ہے کہ وہ بیٹھے اور اپنے دنوں اور راتوں کا اندازہ لگالے اور نماز چھوڑ دے، پھر

غسل کرے اور اچھی طرح طہارت حاصل کر لے کرے، پھر کپڑے سیلنگوٹ باندھ لے، پھر نماز پڑھے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے اور ان شاء اللہ! اللہ، تجھ سے لے جائے گا۔ فرماتی ہیں: میں نے اس کو حکم دیا اس نے ایسے کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بیماری دور کر دیلہذا تو بھی اپنی سہیلیوں کو اس کا حکم دے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on the woman who

habitually bleeds and cannot differentiate between two types of blood

Hadith number: 1574

Translation:

(1574) It is narrated from Syeda Bahiyya that I heard a woman asking Ayesha (may Allah be pleased with her) about menstruation, she did not know how to

pray. Ayesha said: I asked the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) about a woman whose menstrual cycle was strange and she was constantly bleeding and she did not know how to pray. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) commanded me to tell her to wait till the period during which she used to menstruate every month (when her menstruation was normal) and this is her true menstruation, then let her make this her habit.

Ismaeel's hadith says that she should sit and estimate her days and nights and leave her prayers, then take a bath and purify herself thoroughly, then tie a waist-wrapper with a cloth, then pray. I hope it is from the devil and Insha'Allah! Allah will accept it from you. [Daif (Weak). Narrated by Abu Dawud 284]

Sunan Kubra Bayhaqi 1575

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ (١٥٧٦)
الْحَسَنِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ
بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ
(ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ إِمْلَاءً حَدَّثَنَا أَبُو
الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَنَا
الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنْ

سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ - : أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهْرَاقُ الدَّمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - فَقَالَ : لِتَنْظُرَ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي ، كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا ، فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ ، فَإِذَا خَلَفَتْ ذَلِكَ ، فَلْتَغْتَسِلْ وَتَسْتَنْفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ لِتُصَلِّيَ -

لَفْظُ حَدِيثِ الشَّافِعِيِّ بِذَا حَدِيثُ مَشْهُورٌ أَوْدَعَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ الْمُوْطَأً وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي كِتَابِ السُّنَنِ -
إِلَّا أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أُمِّ سَلَمَةَ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب : پاکی کا بیان

باب : عادت والی کا حکم جو دو جو قسم کے خون میں فرق نہ کر سکے

حدیث نمبر : 1575

ترجمہ:

(۱۵۷۶) (الف) (سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک

عورت نبی ﷺ کے زمانہ میں خون بہاتی جاتی تھی ،

اس کے لیے ام سلمہؓ نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا تو آپ ﷺ نے فرمایا " :دنوں اور راتوں کی گنتی کو دیکھے جو مہینے پہلے میں اسے حیض آتا تھا اور مہینے کی اتنی مقدار وہ نماز چھوڑ دے، جب (وہ مقدار) گزر جائے تو غسل کرے اور کپڑے سے لنگوٹ باندھے، پھر نماز پڑھے۔
ب (یہ امام شافعی) رح (کی حدیث کے الفاظ ہیں۔ یہی حدیث امام مالک بن انس نے مؤطا میں اور امام ابوداؤد نے اپنی سنن میں ذکر کی ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on the woman who habitually bleeds and cannot differentiate between two types of blood

Hadith number: 1575

Translation:

(1575) (a) It is narrated on the authority of Umm Salamah that a woman used to

constantly bleed during the time of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him). Umm Salamah asked the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) about this, and he said: (She should) count the number of days and nights that she used to menstruate in the month before and she should stop praying for the same amount of days in that month.

(B) These are the words of the hadith of Imam Shafi'i (may Allah have mercy on him). This hadith has also been narrated by Imam Malik ibn Anas in Muwatta and by Imam Abu Dawud in his Sunan.

[Sahih. Narrated by Abu Dawud 275]

Sunan Kubra Bayhaqi 1576

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (١٥٧٧)
الْأَبُو إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ الصَّفَّارِ حَدَّثَنَا ابْنُ مِلْحَانَ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ
يَسَارٍ أَنَّ رَجُلًا أَخْبَرَهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ - : أَنَّ
امْرَأَةً كَانَتْ تَهْرَاقُ الدَّمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - فَاسْتَفْتَتْ لَهَا
أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - ((لِيَنْتَظِرُ عَدَدَ
الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهَا قَبْلَ أَنْ يَكُونَ بِهَا
الَّذِي كَانَ وَقَدْرَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ فَتَتْرُكِ الصَّلَاةَ لِذَلِكَ ، فَإِذَا
خَلَفَتْ ذَلِكَ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْتُغْتَسِلِ ، وَتَسْتَنْفِرُ بِتَوْبٍ
وَتُصَلِّيَ)) (- تَابِعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ

عُمَرَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ وَصَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ
وَجُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: عادت والی کا حکم جو دو جو قسم کے خون میں فرق
نہ کر سکے

حدیث نمبر: 1576

ترجمہ:

(۱۵۷۷) (سیدہ ام سلمہ^{رض} سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی
ﷺ کے زمانہ میں خون بہاتی جاتی تھی، سیدہ ام سلمہ^{رض} نے
اس کے متعلق پوچھا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " :دنوں اور
راتوں کی گنتی کو دیکھے جو مہینے میں اس کو پہلے
حیض آتا تھا اس کی وجہ سے نماز چھوڑ دے اور جب وہ
چلا جائے تو نماز کے وقت غسل کرے اور کپڑے سے
لنگوٹ باندھے اور نماز پڑھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on the woman who habitually bleeds and cannot differentiate between two types of blood

Hadith number: 1576

Translation:

(1576) It is narrated on the authority of Umm Salamah that a woman used to constantly bleed during the time of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him), Umm Salamah inquired about this so the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: She should count the number of days and nights in which she used to menstruate in the month before and according to this, she should stop praying and when it is over, she should take a bath when it is time for prayer, tie a waist-wrapper with a cloth

and pray.
[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1577

Arabic Text:

أَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ فَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوَدْبَارِيُّ (١٥٧٨)
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَوَادَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ

بُنْ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ يَعْنِي ابْنَ عِيَاضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ : أَنَّ امْرَأَةً
كَانَتْ تُهْرَاقُ الدَّمَ ، فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ وَقَالَ : فَإِذَا
خَلَّفْتُهُنَّ وَحَضَرْتَ الصَّلَاةَ فَلْتَغْتَسِلِ . وَسَاقَ مَعْنَاهُ .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب : پاکی کا بیان

باب : عادت والی کا حکم جو دو جو قسم کے خون میں فرق
نہ کر سکے

حدیث نمبر : 1577

:ترجمہ

(۱۵۷۸) (سلیمان بن یسارؓ ایک انصاری سے نقل فرماتے ہیں
کہ ایک عورت مسلسل خون بہاتی تھی، انہوں نے لیث کے
ہم معنی حدیث بیان کی اور فرماتے ہیں: جب وہ مقدار گزر
جائے اور نماز کا وقت ہو تو وہ غسل کرے، باقی اسی طرح
ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on the woman who habitually bleeds and cannot differentiate between two types of blood

Hadith number: 1577

Translation:

(1577) Sulaiman ibn Yasar (may Allah be pleased with him) narrated from an Ansari that a woman used to bleed constantly, he narrated a hadith which is synonymous with the hadith of Layth and says: When that time period (of days) has passed and it is time for prayer, she should take a bath, the rest is the same.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1578

Arabic Text:

وَأَمَّا حَدِيثُ إِسْمَاعِيلَ فَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ (١٥٧٩)
الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ
حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ عَنْ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ
يَسَارٍ أَنَّ رَجُلًا أَخْبَرَهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهْرَاقُ
الدِّمَاءَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - فَقَالَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ : سَلَى
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - فَقَالَ ((: لِتَنْظُرَ عِدَّةَ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي الَّتِي كَانَتْ
، تَحِيضُهُنَّ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ بِهَا الَّذِي كَانَ وَقَدَرَيْنَّ مِنَ الشَّهْرِ
فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ وَلْتَعْتَسِلْ ، ثُمَّ تَسْتَنْفِرْ فِي
تَوْبِهَا ثُمَّ تُصَلِّيْ)) (-).

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: عادت والی کا حکم جو دو جو قسم کے خون میں فرق نہ کر سکے

حدیث نمبر: 1578

ترجمہ:

(۱۵۷۹) (سیدہ ام سلمہ رض سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مسلسل خون بہاتی تھی، اسے سیدہ ام سلمہ رض نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دنوں اور راتوں کی گنتی کو دیکھے جو مہینے میں پہلے اس کو حیض آتا تھا اتنے دن نماز چھوڑ دے، پھر "غسل کر اور کپڑے سے لنگوٹ باندھ کر نماز پڑھ

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on the woman who habitually bleeds and cannot differentiate between two types of blood
Hadith number: 1578

Translation:

(1578) It is narrated from Umm Salamah that a woman used to bleed constantly during the time of Prophet (peace and blessings of Allah be upon him), Umm Salamah told her: Ask the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him). The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: She should count the number of days and nights that she used to menstruate in the month before and she should stop praying for the same amount of days, then she should take a bath and tie a waist-wrapper with a cloth and then pray.
[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1579

Arabic Text:

وَأَمَّا حَدِيثُ صَخْرِ فَأَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ (١٥٨٠)
أَخْبَرَنَا ابْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا
ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ عَنْ نَافِعٍ بِإِسْنَادِ اللَّيْثِ
وَمَعْنَاهُ وَقَالَ ((:فَلْتَتْرُكِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ ، ثُمَّ إِذَا حَضَرَتِ
الصَّلَاةُ فَلْتَغْتَسِلِ ، وَلْتَسْتَفِرْ بِثَوْبٍ ثُمَّ تُصَلِّيْ))-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: عادت والی کا حکم جو دو جو قسم کے خون میں فرق نہ کر سکے

حدیث نمبر: 1579

:ترجمہ

(۱۵۸۰) (نافع لیث کی سند کے ساتھ ہم معنی نقل فرماتے ہیں کہ اتنی مدت نماز چھوڑ دے، پھر جب نماز کا وقت ہو تو غسل کرے اور کپڑے سے لنگوٹ باندھ کر نماز پڑھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on the woman who

habitually bleeds and cannot differentiate

between two types of blood

Hadith number: 1579

Translation:

(1579) Nafi narrates a synonymous narration with the sanad of Layth that she should stop praying for the same amount of days, then when it is time for prayer, she should take a bath and pray by tying a waist-wrapper with a cloth.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1580

Arabic Text:

وَأَمَّا حَدِيثُ جُوَيْرِيَةَ بْنِ أَسْمَاءٍ فَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ (١٥٨١)
بْنُ قَتَادَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدِ
بْنِ عَقِيلٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمِ الْبَغَوِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءٍ حَدَّثَنِي جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ
أَخْبَرَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلًا أَخْبَرَهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ
النَّبِيِّ ﷺ - : أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهْرَاقُ الدَّمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -
ﷺ - فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ النَّبِيِّ ﷺ - فَقَالَ ((: لِتَنْظُرَ عِدَّةَ
الليالي والأيام التي كانت تحيضهن قبل أن يكون بها
، الذي كان وقدرهن من الأشهر ، فتترك الصلاة قدر ذلك
فإذا خلقت ذلك وحضرت الصلاة فلتغتسل ، ولتستذفر بثوب
ثم تُصلي)) -
وَرُوِيَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ
عَنْ مَرْجَانَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب : پاکی کا بیان

باب : عادت والی کا حکم جو دو جو قسم کے خون میں

فرق نہ کر سکے

حدیث نمبر: 1580

ترجمہ:

(۱۵۸۱) (سیدہ ام سلمہ^{رض} سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی ﷺ کے زمانہ میں خون بہاتی تھی، سیدہ ام سلمہ^{رض} نے اس کے متعلق پوچھا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " :اپنے دنوں اور راتوں کی گنتی کو دیکھے جو مہینے میں اس کو پہلے حیض آتا تھا اس کی وجہ سے نماز چھوڑ دے اور جب وہ چلا جائے اور نماز کا وقت ہو تو غسل کرے اور کپڑے سے لنگوٹ باندھ کر نماز پڑھے۔"

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on the woman who

habitually bleeds and cannot differentiate between two types of blood

Hadith number: 1580

Translation:

(1580) It is narrated on the authority of Umm Salamah that a woman used to constantly bleed during the time of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him), when Umm Salamah asked about it, the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "She should count the number of days and nights that she used to menstruate in the month before and due to this she should stop praying and once it is over and when it is time for prayer, she should take a bath and pray with a cloth wrapped around her as a waist-wrapper."

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1581

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ (١٥٨٢)
بْنُ حَيَّانَ الْأَصْفَهَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمْرَةَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ
سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ نِزَارِ
الْأَيْلِيُّ وَكَانَ ثِقَةً حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ وَهُوَ ثَبَتٌ فِي
الْحَدِيثِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَهُوَ مِنَ الثِّقَاتِ وَكَانَ مَالِكُ
يُمْلِي عَلَيْهِ حَدَّثَنَا نَافِعٌ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ مَرْجَانَةَ عَنْ
أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهْرَاقُ الدَّمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ
وَأَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - قَالَ ((لِيَتَنظَّرَ عَدَدَ
الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ لَهَا الَّذِي
كَانَ ، وَقَدَرَهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ

فَلْتَتْرِكِ الصَّلَاةَ قَدْرَ ذَلِكَ ، فَإِذَا ذَبَبَ قَدْرُهَا فَلْتَعْتَسِلْ ،

وَلْتَسْتَذْفِرْ بِثَوْبِهَا وَتُصَلِّيْ) (-

وَرَوَاهُ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ
إِلَّا أَنَّهُ سَمَّى الْمُسْتَحَاضَةَ فِي الْحَدِيثِ فَقَالَ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي

حُبَيْشٍ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: عادت والی کا حکم جو دو جو قسم کے خون میں فرق
نہ کر سکے

حدیث نمبر: 1581

ترجمہ:

(۱۵۸۲) (سیدہ ام سلمہ رض سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی

صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں خون بہاتی جاتی تھی، سیدہ ام سلمہ رض نے

اس کے متعلق پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے دنوں

اور راتوں کی گنتی کو دیکھے جو مہینے میں اس کو پہلے

حیض آتا تھا اس کی وجہ سے نماز چھوڑ دے اور جب وہ

چلا جائے اور نماز کا وقت

ہو تو وہ غسل کرے اور کپڑے سے لنگوٹ باندھ کر نماز پڑھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on the woman who habitually bleeds and cannot differentiate between two types of blood

Hadith number: 1581

Translation:

(1581) It is narrated on the authority of Umm Salamah that a woman used to constantly bleed during the time of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him). When Umm Salamah asked about this, the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: "She should count the number of days and nights that she used to menstruate in the

month before and due to this she should stop praying and once it is over and when it is time for prayer, she should take a bath and pray with a cloth wrapped around her as a waist-wraper."

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1582

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ الْمُقْرِي (١٥٨٣)
بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ
بْنِ شَاكِرٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ : أَنَّ فَاطِمَةَ اسْتُحِيضَتْ فَكَانَتْ
تَغْتَسِلُ مِنْ مِرْكَنِ لَهَا ، فَتَخْرُجُ وَبِئِ عَالِيَةِ الصُّفْرَةِ ، فَاسْتَفْتَتْ
لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - فَقَالَ ((:لِتَنْظُرُ أَيَّامَ قُرْبِهَا وَأَيَّامَ
، حَيْضِهَا ، فَتَدْعُ فِيهَا الصَّلَاةَ وَتَغْتَسِلُ فِيهَا سِوَى ذَلِكَ
وَتَسْتَذِيرُ بِثَوْبٍ وَتُصَلِّيَ))-).

وَرَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ وَقَالَ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي
حُبَيْشٍ- وَحَدِيثُ بِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ فِي
شَأْنِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ أَصَحُّ مِنْ هَذَا-
وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي اسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ غَيْرُهَا
وَيُحْتَمَلُ أَنْ كَانَتْ تَسْمِيئُهَا صَحِيحَةً فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ أَنْ كَانَتْ
لَهَا حَالَتَانِ فِي مُدَّةِ اسْتِحَاضَتِهَا حَالَةٌ تُمَيِّزُ فِيهَا بَيْنَ الدَّمِينِ
فَأَفْتَابَا بِتَرْكِ الصَّلَاةِ عِنْدَ إِقْبَالِ الْحَيْضِ ، وَبِالصَّلَاةِ عِنْدَ
إِدْبَارِهِ ، وَحَالَةٌ لَا تُمَيِّزُ فِيهَا بَيْنَ الدَّمِينِ فَأَمَرَهَا بِالرُّجُوعِ
إِلَى الْعَادَةِ ، وَيُحْتَمَلُ غَيْرُ ذَلِكَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ- وَرُوي عَنْ أَبِي
سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ دُونَ

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: عادت والی کا حکم جو دو جو قسم کے خون میں فرق نہ کر سکے

حدیث نمبر: 1582

:ترجمہ

(۱۵۸۳) (الف) (سیدہ ام سلمہ^{رض} سے روایت ہے کہ فاطمہ استحاضہ والی ہوئی تو وہ اپنے ٹپ سے غسل کیا کرتی تھی وہ باہر آتی تو زردی اوپر آئی ہوتی تھی، اس کے لیے سیدہ ام سلمہ^{رض} نے رسول اللہ^{صلی اللہ علیہ وسلم} سے پوچھا تو آپ^{صلی اللہ علیہ وسلم} نے فرمایا " : اپنے طہر کے دن بھی دیکھے اور اپنے حیض کے دن بھی، ان دنوں میں نماز چھوڑ دے اور اس کے علاوہ دنوں میں غسل کرے اور کپڑے سے لنگوٹ باندھے اور نماز پڑھے۔ "

(ب) (سیدہ عائشہ^{رض} والی حدیث جو سیدہ فاطمہ بنت ابی حبیب کے متعلق ہے وہ اس مذکور روایت سے

زیادہ صحیح ہے۔
 (ج (اس حدیث میں دلالت ہے کہ جس عورت کے لیے سیدہ
 ام سلمہؓ نے پوچھا وہ ان (فاطمہؓ) کے علاوہ کوئی اور
 عورت تھی۔ اگر حدیث ام سلمہؓ میں اس کا نام صحیح ہے
 تو اس بات کا احتمال ہے کہ اس کی دو کیفیات تھیں۔ اس کی
 استحاضہ کی مدت دونوں خونوں (استحاضہ اور حیض) کے
 درمیان واضح ہوجاتی تھی۔ آپ نے اسے حیض کے آنے کے
 وقت ترک نماز کا اور حیض جانے کے بعد نماز پڑھنے کا
 حکم دیا۔ دوسری وہ کیفیت جو واضح نہیں ہوتی تو آپ ﷺ
 نے اسے عادت کی طرف لوٹنے کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ
 اور احتمال بھی ہوسکتا ہے۔ واللہ اعلم۔ ابو سلمہ، ام سلمہ
 سے بغیر نام کے نقل کرتے ہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on the woman who

habitually bleeds and cannot differentiate
 between two types of blood

Hadith number: 1582

Translation:

(1582) (a) It is narrated on the authority of Umm Salamah that when Fatimah suffered from istihadah, she used to take a bath in her tub, when she would come out the yellowness would float above, when Umm Salamah asked the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) about this, he said: "She should count the days that she is pure and also the days that she is menstruating, she should stop praying on these days and take a bath on other days, tie a waist-wrapper with a cloth and pray. "

(B) The hadith of Ayesha (may Allah be pleased with her) regarding Fatima bint Abi Habish is more authentic than the above mentioned narration.

(C) This hadith indicates that the woman for whom Umm Salamah inquired about was a woman other than her (Fatima bint Abi Habish). If her name is correct in the hadith of Umm Salamah, then it is probable that she had suffered from this under two (different) conditions. When the duration of her istihadah became clear between the two bloods (istihadah and menstruation). He (the Prophet) ordered her to stop praying at the time of menstruation and to pray after her menstruation is over. Secondly, when the condition was not clear, then he ordered her to return to her habitual (menstrual cycle). There may be other ways to reconcile (between the two hadiths) aswell. Allah knows best. Abu Salamah narrates from Umm Salamah anonymously.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1583

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ (١٥٨٤)
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ الْفَرَوِيِّ
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ
:أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ
تَنْظُرُ عَدَدَ اللَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ ثُمَّ تَغْتَسِلُ))
- وَتُصَلِّيُ)) -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاكى كا بيان

باب: عادت والى كا حكم جو دو جو قسم كے خون ميں فرق
نہ كرسكے

حديث نمبر: 1583

:ترجمہ

(1584) سيدہ ام سلمہؓ سے روايت كہ آپ ﷺ نے مستحاضہ
كے متعلق فرمايا " :اپنے دنوں اور راتوں كى گنتى ديكهے
جن دنوں ميں اسے حيض آتا تھا، پھر غسل كرے اور نماز
پڑھے۔"

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on the woman who

habitually bleeds and cannot differentiate

between two types of blood

Hadith number: 1583

Translation:

(1583) It is narrated on the authority of Umm Salamah that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said about a woman suffering from istihadah: "She should count the number of days and nights in which she used to menstruate, then take a bath and pray."

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1584

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ (١٥٨٥)
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا وَهْبَانُ بْنُ بَقِيَّةَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ
بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ
فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - عَنْ
الْمُسْتَحَاضَةِ فَقَالَ ((:تَقْعُدُ أَيَّامَ أَقْرَانِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ
طَهْرٍ ثُمَّ تَحْتَشِي ثُمَّ تُصَلِّي))-
وَبَكْدَا رَوَاهُ قَطْنُ بْنُ نُسَيْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ فَقَالَ فِي
الْحَدِيثِ :إِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ سَأَلَتْ- وَلَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْ
جِهَةِ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ- وَاللَّهُ أَعْلَمُ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: عادت والی کا حکم جو دو جو قسم کے خون میں فرق نہ کر سکے

حدیث نمبر: 1584

:ترجمہ

(۱۵۸۵) (سیدہ فاطمہ بنت قیسؓ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے مستحاضہ عورت کے متعلق سوال کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا " :اپنے حیض کے دنوں کو شمار کر کے بیٹھی رہے گی، پھر ہر طہر کے وقت غسل کرے گی، پھر " لنگوٹ باندھے گی اور نماز پڑھے گی۔"

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on the woman who

habitually bleeds and cannot differentiate

between two types of blood

Hadith number: 1584

Translation:

(1584) It is narrated on the authority of Fatimah bint Qais that I asked the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) about a woman who is suffering from istihadah and he said: "She will sit and count the days of her menstruation, then she will take a bath every time she is pure, then she will tie a waist-wrapper and pray."

[Daif (Weak). Narrated by Al-Tabarani in Mujam Awsat 2960]

Sunan Kubra Bayhaqi 1585

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذُبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ دَاسَةَ (١٥٨٦)
قَالَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَى الْعَلَاءِيُّ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي
جَعْفَرٍ: أَنَّ سَوْدَةَ اسْتَحِيضَتْ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - إِذَا
مَضَتْ أَيَّامَهَا اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ
تَعَالَى: وَبِذَا فِيمَا رَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ عَنِ الْعُطَارِدِيِّ عَنْ حَفْصِ
بْنِ غِيَاثٍ عَنِ الْعَلَاءِيِّ أُمَّ مِنْ ذَلِكَ.
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ
عَبَّاسٍ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَجْلِسُ أَيَّامَ قُرْبِهَا. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ الشَّعْبِيُّ
عَنْ قَمِيرِ امْرَأَةِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ.
وَبُحْوُ قَوْلُ الْحَسَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَطَائِي وَمَكْحُولِ
وَإِبْرَاهِيمَ وَسَالِمِ وَالْقَاسِمِ: أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ تَدْعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ
أَقْرَابِهَا.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: عادت والی کا حکم جو دو جو قسم کے خون میں فرق نہ کر سکے

حدیث نمبر: 1585

:ترجمہ

(۱۵۸۶) (الف) (سیدنا ابو جعفر سے روایت ہے کہ سیدہ سودہ استحاضہ والی تھیں۔ انہیں رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ جب اس کے دن حیض والے گزر جائیں تو غسل کرے اور نماز پڑھے۔

(ب) (امام احمد) رح (فرماتے ہیں کہ اس باب میں عطاری عن حفص بن غیاث عن علاء روایت ہے جسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے وہ اس سے زیادہ مکمل ہے۔

(ج) (امام ابوداؤد فرماتی ہیں کہ سعید بن جبیر نے علی اور ابن عباسؓ سے روایت کیا ہے کہ مستحاضہ اپنے حیض کے ایام میں بیٹھے گی۔ اسی طرح شعبی) رح (نے مسروق کے واسطے سے سیدہ عائشہؓ سے روایت کیا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on the woman who habitually bleeds and cannot differentiate between two types of blood

Hadith number: 1585

Translation:

(1585) (a) It is narrated from Syedna Abu Jafar that Syeda Sauda suffered from istihadah. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) commanded her to take a bath and pray when the days of her menstrual period have passed.

(B) Imam Ahmad (may Allah have mercy on him) says that in this chapter there is a narration of Attari on the authority of Hafs ibn Ghayas on the authority of Alaa which

is narrated by Ibn Khuzaymah which is more complete than this (narration).

(C) Imam Abu Dawud says that Saeed ibn Jubayr narrated from Ali and Ibn Abbas (may Allah be pleased with them) that a woman suffering from istihadah will sit (meaning not pray) during the days of her menstrual period. Similarly, Shubi has narrated from Syeda Ayesha (may Allah be pleased with her) through Masruq.

[Daif Jiddan (Very Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1586

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو (١٥٨٧)
قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ وَأَبُو النَّضْرِ
قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ وَمُجَالِدٍ وَبَيَانَ قَالَ
ابْنُ أَبِي بُكَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ أَنَّهُمْ سَمِعُوا الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ قَمِيرِ
امْرَأَةِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَدْعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ
حَيْضِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ ثُمَّ تَوَضُّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَضُوءًا.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: عادت والی کا حکم جو دو جو قسم کے خون میں فرق

نہ کر سکے

حدیث نمبر: 1586

:ترجمہ

(۱۵۸۷) (سیدہ عائشہؓ سے روایت ہے کہ استحاضہ والی اپنے حیض کے دنوں میں نماز چھوڑ دے گی، پھر غسل کرے گی اور ہر نماز کے لیے وضو کرے گی۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on the woman who habitually bleeds and cannot differentiate between two types of blood

Hadith number: 1586

Translation:

(1586) It is narrated from Ayesha (may Allah be pleased with her) that a woman who suffers from istihadah will not pray during her menstrual period, then take a bath and perform ablution for each prayer.

[Hasan (Fair)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1587

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَشْرَانَ الْعَدْلُ (١٥٨٨)
بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّفَّارِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي
التَّيْمِيُّ عَنْ طَلْقٍ يَعْنِي ابْنَ حَبِيبٍ قَالَ: كَتَبَتْ امْرَأَةٌ إِلَى
ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الدَّمِ مُنْذُ سَنَتَيْنِ ، فَكَتَبَتْ إِلَيْهِ تُعْظِمُ عَلَيْهِ إِنْ
كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ إِلَّا أَنْبَأَهَا بِهِ فَقَالَ:

تَجْلِسُ وَقْتُ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي ، فَمَا أَتَى عَلَيْهَا شَهْرَانِ حَتَّى طَهَّرَتْ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: عادت والی کا حکم جو دو جو قسم کے خون میں فرق نہ کر سکے

حدیث نمبر: 1587

ترجمہ:

(۱۵۸۸) حضرت طلق بن حبیب^{رض} سے روایت ہے کہ ایک عورت نے حضرت ابن عباس^{رض} کو اپنے دو سال سے جاری خون کے عارضہ سے متعلق استفتائے بھیجا اور لکھا کہ وہ اس پر گراں گزرتا ہے اگر آپ کے پاس علم ہے تو مجھے اس بارے میں ضرور آگاہ فرمائیں۔ انہوں نے فرمایا: وہ اپنے حیض کے ایام میں بیٹھی رہے گی پھر غسل کر کے نماز ادا کرے گی۔ اس پر دو ماہ نہیں گزرے تھے کہ وہ تندرست ہو گئی۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on the woman who habitually bleeds and cannot differentiate between two types of blood

Hadith number: 1587

Translation:

(1587) It is narrated from Talq bin Habib that a woman sent a letter to Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) regarding her condition that she continuously bled for two years and she wrote that she would appreciate it if he had knowledge about this and let her know. He responded: She will sit (meaning not pray) during her menstrual period and then take a bath and pray. Less than two months later, she recovered.

[Hasan (Fair)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1588

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَدْلُ (١٥٨٩)
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمُزَكِّي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنجِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ
عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ أُمِّهِ مَوْلَاةِ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -
عَلَيْهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ النِّسَاءُ يَبْعَثْنَ إِلَى عَائِشَةَ بِالدُّرَجَةِ
فِيهَا الْكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ ، فَتَقُولُ : لَا تَعْجَلْنَ
حَتَّى تَرَيْنَ الْقِصَّةَ الْبَيْضَاءَ.

تُرِيدُ بِذَلِكَ أَيِ الطُّهْرِ مِنَ الْحَيْضَةِ-) غ(قَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ
الْكُرْسُفُ الْقَطْنُ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: حیض کے دنوں میں زرد اور مٹیالہ رنگ حیض شمار
ہوگا

حدیث نمبر: 1588

ترجمہ:

(۱۵۸۹) (علقمہ بن ابی علقمہ اپنی والدہ سے نقل فرماتے ہیں
وہ ام المؤمنین عائشہؓ کی آزاد کردہ باندی ہیں، فرماتی ہیں
کہ سیدہ عائشہؓ نے فرمایا: عورتیں میری طرف صندوقچی
بھیجتی تھیں، اس میں روئی ہوتی تھی، جسمیں حیض کے
خون کی زردی ہوتی تھی تو میں کہتی کہ تم جلدی نہ کرو
جب تک واضح سفیدی نہ دیکھ لو۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Yellow and brown color will be considered as menstruation during the days of menstruation

Hadith number: 1588

Translation:

(1588) Alqamah ibn Abi Alqamah narrates from his mother, who was the freed slave of Ayesha (may Allah be pleased with her). She says that Ayesha (may Allah be pleased with her) said: The women used to send a box to me, in which there was cotton, in which there was the yellowness of menstrual blood, so I would say don't be hasty, wait till you see a clear white (discharge).

[Hasan Li Ghayrihi (Fair due to external evidence). Narrated by Malik 2/97]

Sunan Kubra Bayhaqi 1589

Arabic Text:

وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ (١٥٩٠)
عَمَّتِهِ أَنَّهَا حَدَّثَتْهُ عَنْ ابْنَةِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّهُ بَلَغَهَا أَنَّ
نِسَاءً كُنَّ يَدْعُونَ بِالْمَصَابِيحِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ لِيَنْظُرْنَ إِلَى
الطُّهْرِ بِهِ ، فَكَانَتْ تَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِنَّ وَتَقُولُ: مَا كَانَ النِّسَاءُ
يَصْنَعْنَ هَذَا. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا عَلَى وَجْهِ آخَرَ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: حیض کے دنوں میں زرد اور مٹیالہ رنگ حیض شمار ہوگا

حدیث نمبر: 1589

:ترجمہ

(۱۵۹۰) (زید بن ثابت کی بیٹی سے روایت ہے کہ عورتیں آدھی رات کو چراغ منگواتی، تاکہ وہ اپنے طہر کی طرف دیکھیں اور وہ ان پر عیب لگاتی تھی اور کہتی تھی: عورتیں یہ کیا کرتی ہیں) یعنی عورتوں کے اس کام کو اچھا نہ سمجھتی تھیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Yellow and brown color will be considered as menstruation during the days of menstruation

Hadith number: 1589

Translation:

(1589) It is narrated from the daughter of Zayd ibn Thabit that women used to call for a lamp in the middle of the night so that they could check if they are pure and she would criticise them and say: What do these women do? (i.e. she did not like this thing that women did)

[Sahih. Narrated by Malik 2/98]

Sunan Kubra Bayhaqi 1590

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ (١٥٩١)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ خَلْفٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا
إِسْمَاعِيلُ عَنْ عَبْدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ
عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ: إِنَّهَا كَانَتْ تَنْهَى النِّسَاءَ أَنْ يَنْظُرْنَ إِلَى
أَنْفُسِهِنَّ لَيْلًا فِي الْحَيْضِ وَتَقُولُ: إِنَّهَا قَدْ تَكُونُ الصُّفْرَةَ وَالْكَدْرَةَ.
وَقَدْ رُوِيَ عَلَى وَجْهِ ثَالِثٍ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: حیض کے دنوں میں زرد اور مٹیالہ رنگ حیض شمار
ہوگا

حدیث نمبر: 1590

:ترجمہ

(۱۵۹۱) (سیدہ عائشہؓ سے منقول ہے کہ وہ عورتوں کو منع کرتی تھی کہ وہ رات کو اپنا حیض دیکھیں اور فرماتی تھیں کہ کبھی زردی ہوتی ہے اور کبھی میٹالے رنگ کا پانی۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Yellow and brown color will be considered as menstruation during the days of menstruation

Hadith number: 1590

Translation:

(1590) It is narrated from Ayesha (may Allah be pleased with her) that she used to forbid women to see their menstrual period at night and said that sometimes it (the discharge) is yellow and sometimes it (the discharge) is brown.

[Hasan (Fair)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1591

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا أَبُو (١٥٩٢)
عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ
أَخْبَرَنَا يَعْلى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ صَاحِبَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ وَكَانَتْ
فِي حِجْرٍ عَمْرَةَ قَالَتْ: أَرْسَلْتُ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ إِلَى عَمْرَةَ
كُرْسُفَةَ قَطَنِ فِيهَا أَظُنُّهُ أَرَادَ الصُّفْرَةَ، تَسْأَلُهَا هَلْ

تَرَى إِذَا لَمْ تَرَ الْمَرْأَةَ مِنَ الْحَيْضَةِ إِلَّا بَدَا طَهْرَتْ؟ قَالَتْ: لَا حَتَّى
تَرَى الْبَيَاضَ خَالِصًا.
وَقِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ
أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: حیض کے دنوں میں زرد اور مٹیالہ رنگ حیض شمار
ہوگا
حدیث نمبر: 1591

:ترجمہ

(۱۵۹۲) (فاطمہ بنت محمد جو عمرہ کی پرورش میں تھیں
فرماتی ہیں کہ قریش کی ایک عورت نے عمرہ کی طرف
روئی پہنبا بھیجا میرا گمان ہے اس نے زردی کا ارادہ کیا
اور وہ ان سے پوچھ رہی تھی کہ جب عورت حیض میں
:صرف یہ زردی دیکھے تو کیا وہ پاک ہوگی؟ اس نے کہا
نہیں جب تک خالص سفیدی دیکھ لے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Yellow and brown color will be considered as menstruation during the days of menstruation

Hadith number: 1591

Translation:

(1591) Fatima bint Muhammad, who was in the care of Umara, says that a woman from Quraysh sent a cotton ball to Umara, I think she intended the yellowness and she was asking them if a woman sees only this yellowness during menstruation, is she pure? He said: No, until she sees pure white. [Daif (Weak). Narrated by Darimi 1860]

Sunan Kubra Bayhaqi 1592

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ (١٥٩٣)
إِسْحَاقَ الْفَقِيهَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ
بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُبَيْرٌ-

قَالَ وَأَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي شَيْبَةَ
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ
أَسْمَاءَ قَالَتْ: كُنَّا فِي حِجْرٍ مَعَ بَنَاتِ أَخِيهَا ، فَكَانَتْ
إِحْدَانَا تَطْهَرُ ثُمَّ تُصَلِّي ، ثُمَّ تَنْتَكِسُ بِالصُّفْرَةِ الْيَسِيرَةِ فَتُسَالِّهَا
فَتَقُولُ : اعْتَزِلْنِ الصَّلَاةَ مَا رَأَيْتِنِّي ذَلِكَ

حَتَّى تَرَيْنَ الْبَيَاضَ خَالِصًا.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: حیض کے دنوں میں زرد اور مٹیالہ رنگ حیض شمار ہوگا

حدیث نمبر: 1592

:ترجمہ

(۱۵۹۳ اسماء سے روایت ہے کہ ہم اس کی گود میں ان کے بھتیجوں کے ساتھ تھیں، ہم میں کوئی پاک ہوتی، پھر نماز پڑھتی، پھر دوبارہ زرد خون بہانے لگتی، انہوں نے اس کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے فرمایا: نماز سے الگ رہو جب تم یہ (زردی) دیکھو جب تک خالص سفیدی نہ دیکھ دیکھ لو۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Yellow and brown color will be considered as menstruation during the days of menstruation

Hadith number: 1592

Translation:

(1592) It is narrated from Asma that we were with her nephews in her room, one of us would be pure, then she would pray, then she would start having yellowish discharge again. When she asked about it, he said: Stay away from prayer when you see this (yellow discharge) until you see pure white (discharge).

[Sahih. Narrated by Darimi 861]

Sunan Kubra Bayhaqi 1593

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ (١٥٩٤)
إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا
حَمَّادٌ أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ التَّرِيئَةَ
فَإِنَّهَا تُمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا حَيْضٌ.

قَالَ وَأَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ سَلَامٍ عَنِ يَحْيَى عَنِ أَبِي
سَلَمَةَ قَالَ: إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ التَّرِيئَةَ فَلْتَنْظُرِ الْأَيَّامَ الَّتِي كَانَتْ
تَحِيضُ فِيهِنَّ، وَلَا تُصَلِّيَ فِيهِنَّ. الصَّوَابُ التَّرِيئَةُ وَهُوَ الشَّيْءُ
الْخَفِيُّ الْيَسِيرُ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: حیض کے دنوں میں زرد اور مٹیالہ رنگ حیض شمار ہوگا

حدیث نمبر: 1593

ترجمہ:

(۱۵۹۴) الف (حسن سے روایت ہے کہ جب عورت ہلکی سی چیز دیکھے تو وہ نماز سے رک جائے گی کیونکہ وہ حیض ہے۔

ب) (سیدنا ابوسلمہؓ سے روایت ہے کہ جب عورت ہلکی سی چیز دیکھے تو وہ ان دنوں کا انتظار کرے جن میں وہ حیض گذارتی تھی اور صرف ان دنوں میں نماز نہ پڑھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Yellow and brown color will be considered as menstruation during the days of menstruation

Hadith number: 1593

Translation:

(1593) (a) It is narrated from Hasan that when a woman sees a small (discharge), she will stop praying because it is menstruation.

(B) It is narrated on the authority of Abu Salamah that when a woman sees a small (discharge), she should wait for the days in which she used to menstruate before and should not pray only on those days.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1594

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ (١٥٩٥)
إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ
:عَلِيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ
كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا.
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ عَنِ ابْنِ عَلِيَّةَ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاکی کا بیان

باب: زرد اور میٹالہ رنگ طہر کے بعد دیکھنے کا حکم

حدیث نمبر: 1594

:ترجمہ

(۱۵۹۵) (سیدہ ام عطیہؓ سے روایت ہے کہ ہم زرد اور میٹھے رنگ کو کوئی چیز (حیض) شمار نہیں کرتی تھیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on seeing yellow and brownish discharge after the woman is pure

Hadith number: 1594

Translation:

(1594) It is narrated from Syeda Umm Atiyah that we never considered yellowish and brownish discharge as a thing of importance (as menses).

[Sahih. Narrated by Bukhari 326 and Nasai 368 and Abu Dawud 307, 308 and Ibn Majah 647]

Sunan Kubra Bayhaqi 1595

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ (١٥٩٦)
إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرَبِيُّ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ
إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ
قَالَتْ: كُنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكَدْرَةَ بَعْدَ الطَّهْرِ شَيْئًا.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: زرد اور میٹالہ رنگ طہر کے بعد دیکھنے کا حکم

حدیث نمبر: 1595

:ترجمہ

(۱۵۹۶) (سیدہ ام عطیہؓ سے روایت ہے کہ ہم طہر کے بعد

زرد اور میٹالہ رنگ کو کوئی چیز (حیض) شمار نہیں

کرتی تھیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on seeing yellow and

brownish discharge after the woman is pure

Hadith number: 1595

Translation:

(1595) It is narrated from Syeda Umm Atiyah

that we would not take into

consideration yellow or brown (discharge)
after purification.

[Sahih. Narrated by Bukhari 326 and Nasai
368 and Abu Dawud 307, 308 and Ibn Majah
647]

Sunan Kubra Bayhaqi 1596

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوَدْبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ (١٥٩٧) حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةَ - عَنْ أُمِّ الْهَيْذِلِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ وَكَانَتْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ ﷺ - قَالَتْ: كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أُمُّ الْهَيْذِلِ بِي حَفْصَةَ. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَكَذَلِكَ رَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ مَنْهَالٍ وَغَيْرُهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ وَرَوَاهُ أَيْضًا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ. وَرَوَى عَنْ عَائِشَةَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ لَا يَسْوَى ذِكْرَهُ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: زرد اور میٹالہ رنگ طہر کے بعد دیکھنے کا حکم

حدیث نمبر: 1596

ترجمہ:

(١٥٩٧) (الف) (سیدہ ام عطیہ^{رض} نے نبی ﷺ سے بیعت

کی، فرماتی ہیں کہ ہم طہر کے بعد زرد اور میٹھے رنگ کو
کوئی چیز (حیض) شمار نہیں کرتی تھیں۔
ب (امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ ام ہذیل سیدہ حفصہؓ ہیں۔
ج (شیخ کہتے ہیں کہ اس کو حجاج بن منہال وغیرہ نے
حماد بن سلمہ سے اور سعید بن ابو عروبہ نے قتادہ سینقل کیا
ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on seeing yellow and
brownish discharge after the woman is pure

Hadith number: 1596

Translation:

(1596) (a) Umm Atiyah swore allegiance to
the Prophet (peace and blessings of Allah be
upon him) and said: we would not take into
consideration yellow or brown

(discharge) after purification.

(B) Imam Abu Dawud says that Umm Hudhail is Syeda Hafsa.

(C) The Shaykh says that this was narrated by Hajjaj ibn Minhal and others from Hammad ibn Salamah and Saeed ibn Abu Aruba narrated it from Qatadah.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1597

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَائِرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنِي أَبُو الطَّيِّبِ مُحَمَّدُ بْنُ (١٥٩٨)
مُحَمَّدِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْحَنَاطُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَشْرَسَ السَّلْمِيُّ
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُلَيْمَانَ الزِّيَّاتُ الْعَبْدِيُّ عَنْ بَحْرِ السِّقَائِ
عَنِ الزُّبَيْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا كُنَّا نَعُدُّ
الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -
وَرُوِيَ مَعْنَاهُ عَنْ عَائِشَةَ بِإِسْنَادٍ أَمْثَلٍ مِنْ ذَلِكَ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: زرد اور میٹالہ رنگ طہر کے بعد دیکھنے کا حکم

حدیث نمبر: 1597

:ترجمہ

(١٥٩٨) (سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ہم زرد اور میٹالہ
رنگ کو کوئی چیز) حیض (شمار نہیں کرتی تھی اور ہم
رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ہوتی تھیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on seeing yellow and brownish discharge after the woman is pure

Hadith number: 1597

Translation:

(1597) It is narrated from Ayesha (may Allah be pleased with her) that we never considered yellowish and brownish discharge as a thing of importance (as menses) and we would be with the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him).

[Baatil (False)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1598

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ (١٥٩٩)
يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ
يَعْنِي ابْنَ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى عَنْ عَطَائٍ عَنْ
عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : إِذَا رَأَتْ الْمَرْأَةُ الدَّمَ فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ
حَتَّى تَرَاهُ أَبْيَضَ كَالْقَصَّةِ ، فَإِذَا رَأَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ
، فَإِذَا رَأَتْ بَعْدَ ذَلِكَ صُفْرَةً أَوْ كُذْرَةً فَلْتَتَوَضَّأْ وَلْتُصَلِّ ،
فَإِذَا رَأَتْ دَمًا أَحْمَرَ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: زرد اور میٹالہ رنگ طہر کے بعد دیکھنے کا حکم

حدیث نمبر: 1598

:ترجمہ

(۱۵۹۹) (سیدہ عائشہؓ سے روایت ہے کہ جب عورت خون دیکھے تو وہ نماز سے رک جائے جب تک اس کو چونے کی طرح سفید نہ دیکھ لے جب وہ یہ دیکھے تو غسل کرے اور نماز پڑھے اور جب اس کے بعد زرد یا میٹالہ رنگ دیکھے تو وہ وضو کرے اور نماز پڑھے اور جب اس بعد زرد یا میٹالہ رنگ دیکھے تو وضو کرے اور نماز پڑھے اور جب سرخ خون دیکھے تو غسل کرے اور نماز پڑھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on seeing yellow and

brownish discharge after the woman is pure
Hadith number: 1598

Translation:

(1598) It is narrated on the authority of Ayesha (may Allah be pleased with her) that when a woman sees blood, she should stop praying until she sees it (i.e. the discharge) as white as lime. When she sees this, she should take a bath and pray, and if she sees a yellow or brown (discharge) after this, she should perform ablution and pray, and if she sees red blood, she should take a bath and pray.

[Hasan (Fair)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1599

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا (١٦٠٠)
أَبُو سَهْلٍ بْنُ زِيَادٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي
كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهَا
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - قَالَ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى مَا يَرِيهَا بَعْدَ الطَّهْرِ قَالَ
((إِنَّمَا هِيَ عِرْقٌ أَوْ إِنَّمَا هِيَ عُرُوقٌ)) - :

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: زرد اور میٹالہ رنگ طہر کے بعد دیکھنے کا حکم

حدیث نمبر: 1599

ترجمہ:

(۱۶۰۰) (سیدنا ابو سلمہ ^{رض} سے روایت ہے کہ ام ابی بکر نے انہیں حدیث بیان کی کہ عائشہ ^{رض} نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ ^ﷺ نے اس عورت کے متعلق فرمایا جو طہر کے بعد شک کرتی ہیں کہ وہ ایک رگ ہے یا فرمایا: وہ رگیں ہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on seeing yellow and brownish discharge after the woman is pure

Hadith number: 1599

Translation:

(1599) It is narrated on the authority of Abu Salamah that Umm Abu Bakr narrated to him that Ayesha (may Allah be pleased

with her) informed her that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said about a woman who has doubts after purification, that it is from a blood vessel or he said: it is from blood vessels. [Daif (Weak). Narrated by Ahmad 2/71]

Sunan Kubra Bayhaqi 1600

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو (١٦٠١)
قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ
مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ سَابِقٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ
يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّ أَبِي
بَكْرٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -
: الْمَرْأَةُ تَرَى الشَّيْءَ مِنَ الدَّمِ تَرَاهَا بَعْدَ الطَّهْرِ . قَالَ ((
إِنَّمَا بِي عِرْقٌ أَوْ عُرُوقٌ)) . وَهَذَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ
الصُّفْرَةُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ إِذَا جَاوَزَ خَمْسَةَ عَشَرَ
يَوْمًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: زرد اور میٹالہ رنگ طہر کے بعد دیکھنے کا حکم

حدیث نمبر: 1600

:ترجمہ

(۱۶۰۱) (الف) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " :عورت خون نما کسی چیز کو طہر کے بعد دیکھے تو کیا کرے؟ آپ ﷺ نے فرمایا " :یہ رگ ہے یا فرمایا :رگیں ہیں۔"

(ب) (اس بات کا احتمال ہے کہ اس سے مراد زرد رنگ ہو یا وہ خون جو پندرہ دن سے تجاوز کر جائے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on seeing yellow and

brownish discharge after the woman is pure

Hadith number: 1600

Translation:

(1600) (a) Ayesha (may Allah be pleased with her) says that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: What should a woman do if she sees something similar to blood after

purification? So the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "This is from a blood vessel, or he said: This is from blood vessels."

(B) It is possible that this refers to yellowish (discharge) or blood that is coming out after fifteen days.

Sunan Kubra Bayhaq 1601

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو زَكْرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ (١٦٠٢)
يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ
حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ عَنْ أُخْتِ أَبِي
بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عُنْبَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: إِنْ كَانَتْ إِحْدَانَا
لِتَبْقَى صُفْرَتُهَا حِينَ تَغْتَسِلُ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مخصوص ایام کے علاوہ زرد رنگ دیکھنے کا حکم

حدیث نمبر: 1601

:ترجمہ

(١٦٠٢) (سیدہ ام سلمہؓ سے روایت ہے کہ ہم میں سے بعض کی زردی باقی رہتی تھی جس وقت وہ غسل کرتی تھی۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on seeing yellowish
(discharge) except on certain days

Hadith number: 1601

Translation:

(1601) It is narrated from Syeda Umm Salamah that some of us used to have yellowish (discharge) while they were taking a bath.

[Daif (Weak). Narrated by Al-Tabarani in Mujam Kabeer 1009]

Sunan Kubra Bayhaqi 1602

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ (١٦٠٣)
يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ : عَبْدُ
الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو الْعَقْدِيُّ حَدَّثَنَا زُبَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ
ح (وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي
حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو الرَّقِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ
عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَمِّهِ عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ
أُمِّ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ : كُنْتُ أَسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً
شَدِيدَةً ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - أَسْتَفْتِيهِ وَأُخْبِرُهُ ، فَوَجَدْتُهُ فِي
بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتِ

جَحَشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً
 كَثِيرَةً شَدِيدَةً فَمَا تَرَى فِيهَا؟ قَدْ مَنَعْتَنِي الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ. قَالَ
 أَنْعْتُ لَكَ الْكُرْسُفَ ، فَإِنَّهُ يُذِيبُ الدَّمَ . قَالَتْ :بُؤْ أَكْثَرُ مِنْ
 ذَلِكَ. قَالَ :فَاتَّخِذِي ثَوْبًا . قَالَتْ :بُؤْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ ، إِنَّمَا أَتَّجُّ
 نَجًّا. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - ((:سَامُرُكٍ بِأَمْرَيْنِ أَيُّهُمَا فَعَلْتَ
 أَجْزَأَ عَنكَ مِنَ الْآخِرِ ، فَإِنْ قَوِيَتْ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ)). فَقَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - ((:إِنَّمَا بِهِ رَكُضَةٌ مِنْ رَكُضَاتِ
 الشَّيْطَانِ فَتَحَيِّضِي سِتَّةَ أَوْ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فِي عِلْمِ اللَّهِ عَزَّ
 وَجَلَّ)) ، ثُمَّ اغْتَسَلِي حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكَ قَدْ طَهَّرْتِ
 وَاسْتَنْقَأْتِ فَصَلِّي ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً
 وَأَيَّامَهَا ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيكَ ، وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي كُلَّ شَهْرٍ
 ، كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهَرْنَ مِيقَاتِ حَيْضِهِنَّ وَطَهْرِهِنَّ
 وَإِنْ قَوِيَتْ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعْجَلِي العَصْرَ فَتَغْتَسِلِينَ
 فَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَتُؤَخِّرِينَ المَغْرِبَ
 ، وَتُعْجَلِينَ العِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَافْعَلِي
 وَصُومِي إِنْ قَدَرْتِ عَلَى ذَلِكَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - ((:وَبِذَا
 أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ)).

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: پہلی مرتبہ حیض آنے والی عورت کے احکام جو خون میں فرق نہ کر سکے

حدیث نمبر: 1602

:ترجمہ

(۱۶۰۳) (سیدہ آمنہ بنت جحش^{رض} فرماتی ہیں کہ مجھے بہت زیادہ استحاضہ آتا تھا، میں رسول اللہ ﷺ کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی، اور آپ ﷺ کو اس واقعہ (کی خبر) دی گئی تھی، میں نے آپ ﷺ کو اپنی بہن زینب بنت جحش کے گھر پایا۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں بہت زیادہ استحاضہ والی ہوں آپ کا اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ اس نے تو مجھے نماز اور روزے سے روک دیا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: روئی استعمال کرو وہ اچھی چیز ہے اور خون کو جذب کر لیتی ہے۔ انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! وہ اس سے زیادہ ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کپڑا باندھ لے۔ انہوں نے کہا: وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ میں تو بہت زیادہ خون بہاتی ہوں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں آپ کو دو کاموں کا حکم دوں گا، ان میں سے جو کر لے گی وہ

تجھ کو دوسرے سے کافی رہے گا، اگر تو ان پر قدرت رکھے، تو اسے زیادہ جاننے والی ہے، پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہ شیطان کی ایک چوک ہے، تو چھ یا سات دن اللہ کے علم کے مطابق حیض گزار، پھر غسل کر اور جب تو دیکھے کہ اچھی طرح پاک ہوگئی ہے تو تیئس یا چوبیس دن، رات نماز پڑھ، بیشک یہ تجھ کو کفایت کر جائے گا اور اسی طرح ہر ماہ کر جس طرح حیض والی عورتیں کرتی ہیں اور جس طرح وہ اپنے طہر اور حیض کے اوقات میں پاک ہوتی ہیں اور اگر تو قدرت رکھے کہ تو ظہر کو مؤخر کر دے اور عصر کو جلدی پڑھے تو غسل کر اور ظہر اور عصر دونوں نمازوں کو جمع کر لے اور مغرب کو مؤخر کر دے اور عشاء کو جلدی ادا کرے، پھر غسل کر اور دو نمازوں کو جمع کر لے پھر ایسے کر اور روزے رکھے، اگر تو اس پر قدرت رکھے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہ دونوں کاموں میں سے مجھے زیادہ پسندیدہ ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Rulings on a woman who is

menstruating for the first time and cannot tell the difference between the bloods

Hadith number: 1602

Translation:

(1602) Hamnah bint Jahsh said that I suffered from istihadah and it was great in quantity and severe. So I came to the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) for a decision and told him. I found him in the house of my sister, Zaynab, daughter of Jahsh. I said: O Messenger of Allah, I am a woman who suffers from istihadah in great quantity and it is severe, so what do you think about it? It has prevented me from praying and fasting. He said: I suggest that you should use cotton, for it absorbs the blood. She replied: O Messenger of Allah! It is too copious for that. He said: Then take a cloth. She replied: It is too copious for that,

for my blood keeps flowing. The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: I shall give you two commands; whichever of them you follow, that will be sufficient for you without the other, but you know best whether you are strong enough to follow both of them. He added: This is a stroke of the Devil, so observe your menses for six or seven days, Allah alone knows which it should be; then take a bath. And when you see that you are purified and quite clean, pray for twenty-three or twenty-four days and nights and fast, for that will be enough for you, and do so every month, just as women menstruate and are purified at the time of their menstruation and their purification. But if you are strong enough to delay the noon (Zuhr) prayer and advance the afternoon (Asr) prayer, take a bath, and then combine the noon and the

afternoon prayer; to delay the sunset prayer and advance the night prayer, to wash, and then combine the two prayers, do so: and to wash at dawn, do so: and fast if you are able to do so if possible. The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: Of the two commands this is more to my liking.

[Hasan (Fair). Narrated by Abu Dawud 287 and Tirmidhi 128 and Ibn Majah 622 and Ahmad 6/439 and Darimi 812]

Sunan Kubra Bayhaqi 1603

Arabic Text:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: پہلی مرتبہ حیض آنے والی عورت کے احکام جو خون میں فرق نہ کر سکے

حدیث نمبر: 1603

وَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوَدْبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ (١٦٠٤)
دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا زُبَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ
بْنُ عَمْرٍو فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ عِنْدَ قَوْلِهِ ((:أَوْ
أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي))-

وَزَادَ أَيضًا ((:وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الْفَجْرِ فَأَفْعَلِي ، وَصُومِي
إِنْ قَدَرْتِ عَلَى ذَلِكَ))-

قَالَ أَبُو دَاوُدَ :رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ قَالَ
قَالَتْ حَمْنَةُ فَقُلْتُ :بَذَا أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَيَّ- لَمْ يَجْعَلْهُ كَلَامَ
النَّبِيِّ ﷺ- وَجَعَلَهُ كَلَامَ حَمْنَةَ-

قَالَ الشَّيْخُ :وَعَمْرُو بْنُ ثَابِتٍ بَذَا غَيْرُ مُحْتَجِّ بِهِ- وَبَلَّغَنِي عَنْ
أَبِي عَيْسَى التِّرْمِذِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ

إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيِّ يَقُولُ: حَدِيثُ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ فِي
الْمُسْتَحَاضَةِ هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ إِلَّا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ
هُوَ قَدِيمٌ لَا أَدْرِي سَمِعَ مِنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ أَمْ لَا
وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَقُولُ: هُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ. ،
قَالَ الشَّيْخُ: وَأَمَّا حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ فَقَدْ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ
بِئْسَ أُمَّ حَبِيبَةٍ كَانَتْ تُكْنَى بِأُمِّ حَبِيبَةَ وَبِئْسَ حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ.
أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ: أَحْمَدُ
بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِوَسِّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِيُّ قَالَ سَمِعْتُ
عَلِيًّا يَقُولُهُ.

وَخَالَفَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ فَرَعَمَ أَنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتُ
جَحْشٍ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ لَيْسَتْ بِحَمْنَةَ.
أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ أَبُو مُحَمَّدٍ السُّكَّرِيُّ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا أَبُو
بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَزْهَرِ حَدَّثَنَا
الْمُفَضَّلُ بْنُ غَسَّانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ فَذَكَرَهُ.
قَالَ الشَّيْخُ: وَحَدِيثُ ابْنِ عَقِيلٍ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا غَيْرُ أُمِّ
حَبِيبَةَ ، وَكَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ رُبَّمَا قَالَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ حَبِيبَةَ
بِنْتُ جَحْشٍ وَهُوَ خَطَأٌ إِنَّمَا بِي أُمَّ حَبِيبَةَ كَذَلِكَ قَالَ أَصْحَابُ
الزُّهْرِيِّ سِوَايَ.

وَحَدِيثُ ابْنِ عَقِيلٍ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِي الْمُعْتَادَةِ إِلَّا أَنَّهَا
شَكَّتْ فَأَمْرًا إِنْ كَانَ سِتًّا أَنْ يَتْرُكَهَا سِتًّا وَإِنْ كَانَ سَبْعًا أَنْ
يَتْرُكَهَا سَبْعًا.

وَالْمُبْتَدِئَةُ تَرْجِعُ إِلَى أَقَلِّ الْحَيْضِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فِي
الْمُبْتَدِئَةِ فَتَرْجِعُ إِلَى الْأَغْلَبِ مِنْ حَيْضِ النِّسَاءِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَيُذَكَّرُ عَنْ عَطَائِ بْنِ أَبِي
رَبَاحٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْبِكْرِ يَسْتَمِرُّ بِهَا الدَّمُّ: تَقْعُدُ كَمَا تَقْعُدُ نِسَاؤُهَا.

:ترجمہ

(الف) (۱۶۰۴) (الف) (عبد الملک بن عمرو نے اس کو اسی سند
سے بیان کیا ہے مگر یہ الفاظ زائد ہیں "یا چوبیس دن اور
" ان کی راتیں اور روزے رکھ

(ب) اور یہ الفاظ بھی زائد ہیں: تو فجر کے ساتھ غسل
کر، ایسا کر اور روزے رکھ اگر تم اس پر قدرت رکھتی ہو۔

(ج) (امام ابوداؤد فرماتے ہیں: ابن عقیل کہتے ہیں کہ
حمنہ^{رض} نے کہا: تو میں نے عرض کیا: یہ دونوں کاموں

میں مجھے زیادہ پسند ہے۔ یہ نبی ﷺ کی بات نہیں بلکہ سیدہ
حنہؓ کا کلام ہے۔

د (شیخ کہتے ہیں: عمرو بن ثابت قابل حجت نہیں۔ مجھے یہ
بات پہنچی ہے کہ امام ترمذی (رح) نے امام بخاری (رح) کو
کو فرماتے ہوئے سنا کہ مستحاضہ کے متعلق سیدہ حنہ بنت
جحش کی روایت حسن ہے۔ چونکہ مجھے معلوم نہیں کہ
ابراہیم بن محمد بن طلحہ کا عبداللہ بن محمد بن عقیل سے
سماع ہے یا نہیں۔ امام احمد بن حنبل (رح) کہتے ہیں کہ یہ
حدیث صحیح ہے۔

ز (شیخ کہتے ہیں: حنہ بنت جحش کے متعلق علی بن
مدینی کہتے ہیں کہ وہ حبیبہ کی ماں ہیں اور ان کی کنیت ام
حبیبہ ہے اور ان کا نام حنہ بنت جحش ہے۔
(س (یہ قول سیدنا علیؓ کا ہے۔
ط (یحییٰ بن معین نے ان کی مخالفت کی ہے۔ ان کا دعویٰ
ہے کہ ام حبیبہ بنت جحش مستحاضہ عبدالرحمن بن عوف
بیوی تھیں۔

English Translation:
Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Rulings on a woman who is menstruating for the first time and cannot tell the difference between the bloods

Hadith number: 1603

Translation:

(1603) (a) Abd al-Mulk ibn Amr has narrated this from the same chain of transmission, but these words are additional: "Or fast for twenty-four days and their nights."

(B) And these words are also additional: So take a bath at the time of fajr, do this and fast if you have the power to do it.

(C) Imam Abu Dawud says: Ibn Aqeel says that Hamnah said: Of the two commands this is the one which is more to my liking. These are not the words of the Prophet

(peace and blessings of Allah be upon him) rather these are the words of Syedna Hamnah.

(D) Sheikh says: Amr bin Thabit is not reliable. It has come to my notice that Imam Tirmidhi heard Imam Bukhari (may Allah have mercy on him) saying that the narration of Syeda Hamna bint Jahsh about istihadah is hasan because I do not know whether Ibrahim bin Muhammad bin Talha heard from Abdullah bin Muhammad bin Aqeel or not. Imam Ahmad ibn Hanbal (may Allah have mercy on him) says that this hadith is saheeh.

(E) Sheikh says: Regarding Hamnah bint Jahsh, Ali bin Madini says that she is the mother of Habiba and her nickname is Umm Habiba and her name is Hamnah bint Jahsh.

(F) This is the saying of Syeduna Ali (may Allah be pleased with him).

(G) Yahya ibn Ma'in has opposed them. He claims that Umm Habiba bint Jahsh was the wife of Abdul Rahman bin Awf.

[Hasan (Fair). Narrated by Abu Dawud 287 and Tirmidhi 128 and Ibn Majah 622 and Ahmad 6/439 and Darimi 812]

Sunan Kubra Bayhaqi 1604

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوَدْبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ (١٦٠٥)
قَالَ قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَى أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ قَالَ: اسْتُحِيضَتْ
امْرَأَةٌ مِنْ آلِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَأَمَرُونِي فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ
ذَلِكَ فَقَالَ إِذَا رَأَتْ الدَّمَ الْبَحْرَانِيَّ فَلَا تُصَلِّ ، وَإِذَا رَأَتْ
الطُّهْرَ وَلَوْ سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ-
وَقَرَأْتُهُ فِي كِتَابِ ابْنِ حُزَيْمَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ
إِسْمَاعِيلِ ابْنِ عَلِيَّةَ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّائِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ غَيْرَ
أَنَّهُ قَالَ: أَمَّا مَا رَأَتْ الدَّمَ الْبَحْرَانِيَّ فَلَا تُصَلِّ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: عورت کو ایک دن حیض آتا ہے اور ایک دن طہر (اس
کا کیا حکم ہے)

حدیث نمبر: 1604

:ترجمہ

(۱۶۰۵) (الف) انس بن سیرین کہتے ہیں کہ انس بن مالک کے اہل میں سے ایک عورت مستحاضہ تھی، انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں نے اس کے متعلق سیدنا ابن عباسؓ سے سوال کروں، ابن عباسؓ نے فرمایا: جب خون بہتا ہوئے دیکھے تو نماز نہ پڑھے اور جب طہر دیکھے اگرچہ دن کی ایک گھڑی میں ہی ہو تو غسل کرے اور نماز پڑھے۔ (ب) (میں نے ابن خزیمہ کی کتاب میں پڑھا ہے) جس کی سند اس طرح ہے (زیاد بن ایوب عن اسماعیل بن علیہ عن خالد فداء عن انس بن سیرین: اگر وہ خون بہتا ہوئے دیکھے تو نماز نہ پڑھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: What is the ruling on a woman who menstruates one day and is pure one day

Hadith number: 1604

Translation:

(1604) Anas ibn Sirin says that one of the women of Anas ibn Malik suffered from istihadah. He ordered me to ask Ibn Abbas about it. Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) said: When she sees blood flowing, she should not pray, and when she sees (the sign of) purity, even if it is in an hour of the day, she should take a bath and pray.

(B) I have read in the book of Ibn Khuzaymah (whose chain of transmission is as follows): Ziyad ibn Ayub on the authority of Isma'il ibn Alayh on the authority of Khalid Fida on the authority of Anas ibn Sirin: If she sees blood flowing, she should not pray.
[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1605

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا (١٦٠٦)
أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّفَّارِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّرْسِيُّ حَدَّثَنَا
أَبُو غَسَّانَ حَدَّثَنَا زُبَيْرٌ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي
سَهْلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ عَنْ مُسَّةِ الْأَزْدِيَّةِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ
قَالَتْ : كَانَتْ النَّفْسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - تَقَعُدُ بَعْدَ
نِفَاسِهَا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً أَوْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، وَكُنَّا نَطْلِي وَجُوهَنَا
بِالْوَرَسِ مِنَ الْكَلْفِ .

بَكَاةً رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ زُبَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ
الْأَعْلَى وَهُوَ أَبُو الْحَسَنِ الْأَحْوَلُ الْكُوفِيُّ - وَقَالَ أَبُو الْوَلِيدِ

عَنْ زُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى وَوَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ بِمَحْفُوظٍ
وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو بَدْرٍ: شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ
الْأَعْلَى-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: نفاس کا بیان
حدیث نمبر: 1605

ترجمہ:

(۱۶۰۶) (سیدہ ام سلمہ رض فرماتی ہیں کہ نفاس والی عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں اپنے نفاس کے بعد چالیس راتیں یا چالیس دن بیٹھتی تھیں اور ہم کلف کے لیے ورس بوٹی اپنے چہروں پر ملتی تھیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on nifaas (postnatal

bleeding)

Hadith number: 1605

Translation:

(1605) Syeda Umm Salamah says that at the time of the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him), women in postnatal bleeding (after childbirth) used to refrain for forty days, and we used to put Wars on our faces because of dark spots. [Hasan (Fair). Narrated by Abu Dawud 311 and Tirmidhi 139 and Ibn Majah 648 and Ahmad 6/300, 303, 304, 310]

Sunan Kubra Bayhaqi 1606

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ (١٦٠٧)
السُّكْرِيُّ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا
سَعْدَانُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرِ الْكِنْدِيُّ : شُجَاعُ بْنُ
الْوَلِيدِ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي سَهْلٍ عَنْ
مُسَّةَ الْأَزْدِيَّةِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : كَانَتْ النَّفْسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى
عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، وَكُنَّا نَطْلِي وَجُوبَنَا
بِالْوَرَسِ وَالزَّرْعَفَرَانِ - ج (بَلَّغْنِي عَنْ أَبِي عَيْسَى التِّرْمِذِيِّ أَنَّهُ
قَالَ : سَأَلْتُ مُحَمَّدًا يَعْنِي الْبُخَارِيَّ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ
عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ثِقَةٌ رَوَى لَهُ شُعْبَةُ ، وَأَبُو سَهْلٍ : كَثِيرُ
بُنُ زِيَادٍ ثِقَةٌ وَلَا أَعْرِفُ لِمُسَّةَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ .
قَالَ الشَّيْخُ : وَرَوَاهُ يُونُسُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَهْلٍ كَثِيرِ بْنِ زِيَادٍ
كَمَا

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: نفاس کا بیان
حدیث نمبر: 1606

:ترجمہ

(۱۶۰۷) (سیدہ ام سلمہؓ فرماتی ہیں کہ نبی ﷺ کے زمانہ میں نفاس والی عورتیں چالیس دن بیٹھتی تھیں اور ہم ورس اور زعفران اپنے چہروں پر لگاتیں تھیں۔
(ب) (امام بیہقی) رح (فرماتے ہیں کہ مجھے امام ترمذی سے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ انہوں نے امام محمد بن اسماعیل بخاری) رح (سے اس حدیث کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا: علی بن عبدالاعلیٰ ثقہ ہے۔ اس سے شعبہ اور ابوسہل نے روایت کیا ہے۔ کثیر بن زیاد کہتے ہیں کہ اس حدیث کے علاوہ اس نام کو میں نہیں جانتا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on nifaas (postnatal bleeding)

Hadith number: 1606

Translation:

(1606) Syeda Umm Salamah says that during the time of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him), women in postnatal bleeding used to refrain (from praying) for forty days and we used to apply wars and saffron on our faces.

(B) Imam Bayhaqi (may Allah have mercy on him) said I have heard that Imam Tirmidhi asked Imam Muhammad ibn Ismail Bukhari (may Allah have mercy on him) about this hadith, so he said: Ali ibn Abdul Ali is trustworthy. Shu'bah and Abu Sahl narrated from him. Katheer ibn Ziyad

says that I do not know this name except from this hadith.

[Hasan (Fair)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1607

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَلِيمٍ (١٦٠٨)
الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُوَجِّهِ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ بْنِ نَافِعٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ زِيَادٍ أَبِي سَهْلٍ
قَالَ حَدَّثَنِي مُسَّةُ الْأَزْدِيَّةُ قَالَتْ: حَجَجْتُ

فَدَخَلْتُ عَلَىٰ أُمِّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ سَمْرَةَ بِنَ جُنْدَبٍ
يَأْمُرُ النِّسَاءَ بِقُضَائِ صَلَاةِ الْحَيْضِ. فَقَالَتْ: لَا يَقْضِينَ، كَانَتْ
الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَائِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - تَقْعُدُ فِي النَّفَاسِ
أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لَا يَأْمُرُهَا النَّبِيُّ - ﷺ - بِقُضَائِ صَلَاةِ النَّفَاسِ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: نفاس کا بیان
حدیث نمبر: 1607

:ترجمہ

(۱۶۰۸) مسۃ از دیہ کہتی ہیں کہ میں حج کرنے کے بعد سیدہ
ام سلمہ ^{رض} کے پاس گئی، میں نے کہا: اے ام المؤمنین! سمرہ
بن جندب ^{رض} عورتوں کو حکم دیتے ہیں کہ حیض کی نمازیں
قضا کر دیں۔ انہوں نے کہا وہ قضا نہیں کریں گی۔، نبی ^ﷺ
کی بیویوں میں سے کوئی بیوی نفاس میں چالیس راتیں
بیٹھتی تھی اور نبی ^ﷺ نفاس کی نمازوں کو قضا کرنے کا
حکم نہیں دیتے

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on nifaas (postnatal bleeding)

Hadith number: 1607

Translation:

(1607) Missta Azdiyah says that after performing Hajj, I went to Umm Salamah. I said: O Mother of the Believers! Samra ibn Jundab ordered women to make up the prayers they had missed due to menstruation. She said she should not make them up. Some of the wives of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) would refrain (from praying) in postnatal bleeding for forty nights and the Prophet (peace and blessings of Allah be

upon him) would not order the prayers of Nifaas to be made up.

[Hasan Li Ghayrihi (Fair due to external evidence)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1608

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي (١٦٠٩)

عَمْرٍو قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا هَارُونَ بْنُ
سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنِي أَبُو عَوَانَةَ عَنْ
أَبِي بَشِيرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهِكَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : النَّفْسَاءُ
تَنْتَظِرُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ نَحْوَهُ .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب : پاکی کا بیان
باب : نفاس کا بیان
حدیث نمبر : 1608

:ترجمہ

(۱۶۰۹) (سیدنا ابن عباسؓ فرماتی ہیں کہ نفاس والی عورتیں
چالیس دن یا انتظار کریں گی یا اس کی مثل فرمایا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on nifaas (postnatal

bleeding)

Hadith number: 1608

Translation:

(1608) Syeduna Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) says that women who are in postnatal bleeding will wait for forty days or he said (something) like this.

[Sahih. Narrated by Darimi 957]

Sunan Kubra Bayhaqi 1609

Arabic Text:

وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ بَشْرِ (١٦١٠)
:بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ
تَنْتَظِرُ يَعْْنَى النَّفْسَاءُ سَبْعًا ، فَإِنْ طَهَّرْتَ وَإِلَّا فَأَرْبَعَةَ عَشَرَ
فَإِنْ طَهَّرْتَ وَإِلَّا فَوَاحِدَةً وَعِشْرِينَ ، فَإِنْ طَهَّرْتَ وَإِلَّا
فَأَرْبَعِينَ ثُمَّ تُصَلِّيْ-
وَقَدْ رُوِيَ فِيهَا عَنْ عُمَرَ وَأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى
كتاب: پاکی کا بیان
باب: نفاس کا بیان
حدیث نمبر: 1609

:ترجمہ

(١٦١٠) (سیدنا ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ نفاس والیاں

سات دن (انتظار کریں گی، اگر پاک ہو جائیں تو ٹھیک ورنہ
چودہ دن)، اگر پاک ہو جائے تو ٹھیک ورنہ اکیس دن ' (اگر
وہ پاک ہو جائے تو ٹھیک ورنہ چالیس دن انتظار کرے گی)
پھر نماز پڑھے گی۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on nifaas (postnatal
bleeding)

Hadith number: 1609

Translation:

(1609) Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) says that those women who are in postnatal bleeding should wait for seven (days), if she becomes pure, then it is fine, otherwise (she should wait for) fourteen (days), if she becomes pure, then it is fine, otherwise (she should wait for) twenty-one (days), if she becomes pure, then it is fine,

otherwise she will wait for forty days.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1610

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ (١٦١١)
عَدِيِّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
حَكِيمٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِي حُرَّةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ
أَبِي الْعَاصِ النَّقَفِيِّ قَالَ: تَنْتَظِرُ النَّفْسَاءُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ
تَغْتَسِلُ. وَقَدْ رُوِيَ فِيهَا أَحَادِيثُ

مَرْفُوعَةٌ كُلُّهَا سِوَى مَا ذَكَرْنَا ضَعِيفَةٌ ، وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى مَا رَوَيْنَا
بَعْضُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: نفاس کا بیان
حدیث نمبر: 1610

:ترجمہ

(۱۶۱۱) (سیدنا عثمان بن ابی العاص ثقفی فرماتے ہیں کہ
نفاس والیاں چالیس دن انتظار کریں گی، پھر غسل کریں گی۔)

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on nifaas (postnatal
bleeding)

Hadith number: 1610

Translation:

(1610) Syedna Uthman ibn Abi al-As al-Thaqafi says that those women who are in postnatal bleeding will wait for forty days and then take a bath.

[Daif (Weak). Narrated by Ibn Adiy 7/87]

Sunan Kubra Bayhaqi 1611

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ (١٦١٢)
الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: سُئِلَ أَحْمَدُ
بُنُ حَنْبَلٍ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ النَّفْسَائِيِّ كَمْ تَقْعُدُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ؟
قَالَ: أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ تَغْتَسِلُ. وَذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى حَمَلِ مَا رُؤِينَا
فِيهَا عَلَى عَادَتِهِنَّ، وَأَنَّ غَيْرَهُنَّ إِنْ رَأَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ
مَكَثْنَ مَا لَمْ يُجَاوِزْ سِتِّينَ يَوْمًا اعْتِبَارًا بِالْوُجُودِ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: نفاس کا بیان
حدیث نمبر: 1611

ترجمہ:

(١٦١٢) (عبدالله بن محمد بن عبد العزيز فرماتی ہیں کہ امام احمد بن حنبل (سے نفاس والیوں کے متعلق سوال کیا گیا، میں) یہ گفتگو (سن رہا تھا کہ وہ کتنی

:دیر بیٹھیں گی، جب وہ خون دیکھے گی؟ انہوں نے کہا
چالیس دن، پھر غسل کریں گی۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on nifaas (postnatal
bleeding)

Hadith number: 1611

Translation:

(1611) Abdullah ibn Muhammad ibn Abd al-'Aziz says that Imam Ahmad ibn Hanbal (may Allah have mercy on him) was asked about women who are in postnatal bleeding. I was listening to this conversation and was wonderig how long will she avoid (praying), (is it) when she sees blood? He replied: Forty days, then she will take a bath.
[Sahih. Narrated by Al-Daraqutni 1/222]

Sunan Kubra Bayhaqi 1612

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ (١٦١٣)
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ
زَيْدٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَائٍ وَالشَّعْبِيِّ كَانَا يَقُولَانِ : إِذَا طَالَ بِهَا
الدَّمُ تَرَبَّصَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ سِتِّينَ ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى
كتاب: پاكى كا بيان
باب: نفاس كا بيان
حديث نمبر: 1612

:ترجمہ

(۱۶۱۳ عطاء اور شبعى کہتے تھے کہ جب خون) کا
،دورانیہ (لمبا ہو جائے تو وہ ساٹھ) دن (تک انتظار کریں گی
پھر غسل کریں گی اور نماز پڑھیں گی۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on nifaas (postnatal
bleeding)

Hadith number: 1612

Translation:

(1612) Atta and Shubi used to say that if

the (time period of the) bleeding became longer, then she should wait for sixty (days), then take a bath and pray.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1613

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا الشَّامَاتِيُّ (١٦١٤)
يَعْنِي جَعْفَرَ بْنَ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ اللَّيْثِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: تَجْلِسُ النَّفْسَاءُ
سِتِّينَ يَوْمًا.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى
كتاب: پاكى كا بيان
باب: نفاس كا بيان
حدیث نمبر: 1613

:ترجمہ

(۱۶۱۴) شعبی کہتے ہیں: نفاس والیاں ساٹھ دن بیٹھیں گی۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on nifaas (postnatal
bleeding)

Hadith number: 1613

Translation:

(1613) Shubi says: Women in postnatal

bleeding will refrain (praying) for sixty days.
[Daif (Weak). Narrated by Ibn Abi Shaybah
17452]

Sunan Kubra Bayhaqi 1614

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ (١٦١٥)
بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ
الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا رَأَتِ النُّفْسَاءُ أَقَامَتْ خَمْسِينَ

لَيْلَةً-

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ-
وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ تَأَوَّلَ مَا رَوَاهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ
أَبِي الْعَاصِ فِي الْأَرْبَعِينَ عَلَى أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ كَانَ
يَذُوبُ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ إِلَى أَنَّهَا وَإِنْ طَهَّرَتْ لَمْ يَغْشَهَا
زَوْجُهَا حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ-
وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَذُوبُ إِلَى
خِلَافِهِ فِيمَا دُونَ الْأَرْبَعِينَ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: نفاس کا بیان
حدیث نمبر: 1614

:ترجمہ

(۱۶۱۵) (الف) (حسن سے روایت ہے کہ جب نفاس والیاں) اپنا
خون (دیکھیں تو پچاس راتیں رک جائیں۔
(ب) (اس میں اس کے خلاف دلیل ہے جس نے عثمان بن
ابوالعاص کی روایت کی تادیل کی ہے کہ عثمان بن

ابوالعاص کا مذہب یہ ہے کہ وہ چالیس دن سے پہلے پاک ہو جائے تو اس کا خاوند اس سے جماع نہیں کرے گا جب تک چالیس دن پورے نہ ہو جائیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on nifaas (postnatal bleeding)

Hadith number: 1614

Translation:

(1614) (a) It is narrated from Hasan that when those women who are in their postpartum period (see their blood), they should avoid (praying) for fifty nights.

(B) There is evidence against this which contradicts the narration of 'Uthman ibn Abu al-'Aas that the view of 'Uthman ibn Abu al-'Aas is that if she becomes pure

before forty days, then her husband will not have intercourse with her until forty days have passed.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1615

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ (١٦١٦)
عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
إِسْمَاعِيلَ الْحَسَّانِيُّ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ

عَمْرُو بْنُ يَعْلَى النَّقَّيِّ عَنْ عَرْفَجَةَ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلنَّفْسَائِ إِذَا رَأَتْ الطُّهْرَ إِلَّا أَنْ تُصَلِّيَ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى
كتاب: پاکی کا بیان
باب: نفاس کا بیان
حدیث نمبر: 1615

:ترجمہ

(۱۶۱۶) (سیدنا علیؓ سے روایت ہے کہ نفاس والی کے لیے (وٹی وغیرہ) حلال نہیں ہے جب وہ طہر دیکھے، صرف نماز پڑھے گی۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on nifaas (postnatal bleeding)

Hadith number: 1615

Translation:

(1615) It is narrated on the authority of Ali (may Allah be pleased with him) that it is not permissible for a woman who is in a state of nifaas (to have intercourse, etc.), she can only pray when she has seen the sign of purity.

[Daif (Weak). Narrated by Al-Daraqutni 1/223]

Sunan Kubra Bayhaqi 1616

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلٍ: أَحْمَدُ (١٦١٧)
بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادِ النَّحْوِيِّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا أَبُو
إِسْمَاعِيلَ: مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ
مُحَمَّدِ الْحِمَاصِيِّ وَلَقَبُهُ سُلَيْمٌ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ أَخْبَرَنِي
الْأَسْوَدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
غَنَمٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَ ((إِذَا مَضَى
لِلنَّفْسَائِ سَبْعُ نَمَطَاتٍ رَأَتْ الطُّهْرَ فَلْتَغْتَسِلْ وَلْتُصَلِّ)) -
بَكَّدَا أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَهْلٍ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: نفاس کا بیان
حدیث نمبر: 1616

:ترجمہ

(۱۶۱۷) (سیدنا معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جب نفاس والی کے سات دن گزر جائیں، پھر وہ طہر دیکھے تو غسل کرے اور نماز پڑھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on nifaas (postnatal bleeding)

Hadith number: 1616

Translation:

(1616) It is narrated on the authority of Muadh ibn Jabal (may Allah be pleased with him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: If a woman sees (the sign of) purity after seven days in the postpartum period, she should take a bath and pray.

[Daif, Munkar (Weak, Odd). Narrated by

Sunan Kubra Bayhaqi 1617

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ (١٦١٨)
عُمَرَ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلٍ بْنُ زِيَادٍ فَذَكَرَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ
حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ الْأَسْوَدِ
وَفِي آخِرِهِ قَالَ سُلَيْمٌ فَلَقِيتُ عَلِيَّ بْنَ عَلِيٍّ فَحَدَّثَنِي عَنِ
الْأَسْوَدِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

بْنِ غَنَمٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - - بِذَا أَصَحُّ وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: نفاس کا بیان
حدیث نمبر: 1617

:ترجمہ

(۱۶۱۸) (سیدنا معاذ بن جبل نبی ﷺ سے نقل فرماتے ہیں۔۔۔ یہ صحیح ہے لیکن اس کی سند قوی نہیں ہے۔)

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on nifaas (postnatal bleeding)

Hadith number: 1617

Translation:

(1617) Syeduna Muadh ibn Jabal narrates from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him)... This is saheeh but its sanad is not strong.

[Daif, Munkar (Weak, Odd). Narrated by Al-Daraqutni 1/221]

Sunan Kubra Bayhaqi 1618

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ (١٦١٩)
إِسْحَاقَ الْفَقِيهَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ زَيْدِ الْعَمِيِّ عَنْ أَبِي إِيَّاسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ((: وَقْتُ النَّفْسَائِ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً إِلَّا
أَنْ تَرَى الطَّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ)) (-) وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سَلَامُ الطَّوِيلُ عَنْ
حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ ، وَرَوَاهُ الْعَرَزَمِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بِأَسَانِيدَ لَهُ
عَنْ مُسَّةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، وَرَوَاهُ الْعَلَاءِيُّ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ مَكْحُولٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي الدَّرْدَائِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ --
وَزَيْدُ الْعَمِيِّ وَسَلَامُ بْنُ سَلْمِ الْمَدَائِنِيِّ وَالْعَرَزَمِيُّ وَالْعَلَاءِيُّ بْنُ
كَثِيرٍ الدِّمَشْقِيُّ كُلُّهُمْ ضَعْفَاءُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى
كتاب: پاکی کا بیان
باب: نفاس کا بیان
حدیث نمبر: 1618

:ترجمہ

(۱۶۱۹) (سیدنا انس بن مالک^{رض} سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " :نفاس والیوں کا وقت چالیس راتیں ہیں ہاں " اگر اس سے پہلے طہر دیکھ لے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on nifaas (postnatal bleeding)

Hadith number: 1618

Translation:

(1618) It is narrated on the authority of Anas ibn Malik that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said:

"The time for postnatal bleeding is forty days, except for one who becomes pure before that."

[Daif Jiddan (Very Weak). Narrated by Ibn Majah 649]

Sunan Kubra Bayhaqi 1619

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ (١٦٢٠)
الْأَصْفَهَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ فَارِسٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
إِسْمَاعِيلَ قَالَ سَمِعْتُ مَوْلَى بَنِي سُلَيْمٍ أَنَّ مَوْلَاتَهُ أُمَّ يُوسُفَ
وَلَدَتْ بِمَكَّةَ فَلَمْ تَرَ دَمًا ، فَلَقِيَتْ عَائِشَةَ فَقَالَتْ : أَنْتِ امْرَأَةٌ
طَهَّرَكَ اللَّهُ ، فَلَمَّا نَفَرْتُ رَأَيْتُ . قَالَ مُحَمَّدٌ قَالَ لَنَا مُوسَى بْنُ
إِسْمَاعِيلَ .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: نفاس کا بیان
حدیث نمبر: 1619

:ترجمہ

(۱۶۲۰) سلیم کہتے ہیں: ام یوسف کی لونڈی نے مکہ میں بچہ جنا، اس نے خون نہیں دیکھا، وہ عائشہؓ سے ملی تو انہوں نے فرمایا: تو ایسی عورت ہے کہ اللہ نے تجھ کو پاک کیا ہے، جب وہ چلی گئی تو اس نے (خون) دیکھا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on nifaas (postnatal bleeding)

Hadith number: 1619

Translation:

(1619) Saleem says: Umm Yusuf's slave girl gave birth to a child in Makkah. She did not see blood. When she met Ayesha, she said: You are such a woman that Allah has made you pure, when she left she saw blood.

[Daif (Weak). Narrated by Imam Bukhari in his book Tareekh Kabeer 4/194]

Sunan Kubra Bayhaqi 1620

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ : الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو (١٦٢١)
بَكْرِ بْنِ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا
أَبُو عَقِيلٍ عَنْ بُهَيْيَةَ قَالَتْ : سَمِعْتُ امْرَأَةً تَسْأَلُ عَائِشَةَ يَعْغِي
- عَنْ حَيْضِهَا أَظُنُّهُ قَالَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
- عَنْ امْرَأَةٍ فَسَدَ حَيْضُهَا وَأَبْرَيْقَتْ دَمًا ، فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
أَنْ أَمْرَبًا فَلْتَنْظُرُ قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحِيضُ فِي كُلِّ شَهْرٍ وَحَيْضُهَا
مُسْتَقِيمٌ وَقَالَ ((: فَلْتَقْعُدْ بِقَدْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَيَّامِ ، ثُمَّ لْتَدْعِ الصَّلَاةَ
فِيهِنَّ وَبِقَدْرِيْنَ ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ ثُمَّ تَسْتَنْفِرُ بِثَوْبٍ ثُمَّ لْتُصَلِّ)) -.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب : پاکی کا بیان

باب : مستحاضہ خون کے نشان کو دھو کر غسل کرے

گی اور کیڑے سے لنگوٹ باندھ کر نماز پڑھے گی اور ہر
نماز کے لیے وضو کرے گی
حدیث نمبر: 1620

:ترجمہ

(۱۶۲۱) (بھیہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک عورت سے سنا، وہ
(شاید) سیدہ عائشہ رض سے حیض کے متعلق سوال کر رہی تھی
سیدہ عائشہ رض نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ سے اس
عورت کے متعلق سوال کیا جس کا حیض خراب ہو گیا اور
وہ خون بہا رہی تھی تو مجھ کو رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا کہ
میں اسے حکم دوں کہ وہ اتنا انتظار کرے جتنا ہر ماہ میں
حیض گزارتی تھی اور ان دنوں کی مقدار بیٹھی رہے اور
نماز چھوڑ دے، پھر غسل کرے اور کیڑے سے لنگوٹ باندھ
کر نماز پڑھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A woman should wash off the blood
that is due to istihadah and take a

bath, tie a waist-wrapper with a cloth and pray, and she will perform ablution for each and every prayer.

Hadith number: 1620

Translation:

(1620) Bahiyya says that I heard a woman asking Ayesha about menstruation. Ayesha (may Allah be pleased with her) said: I asked the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) about a woman whose menstrual period was strange and she was bleeding constantly, so the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) commanded me to order her to wait till the period during which she used to menstruate every month (when her menstruation was normal) and refrain from praying for those amount of days, then she should take a bath and tie a waist-

wrapper with a cloth and pray.

[Daif (Weak). Narrated by Abu Dawud 284]

Sunan Kubra Bayhaqi 1621

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ (١٦٢٢)
إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَشْرِ بْنِ سَعْدِ الْمَرْثَدِيِّ حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ
بِشَامٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ

اللَّهِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى حَدَّثَنَا
أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا بِشَّامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ اسْتَفْتَتِ النَّبِيَّ -
: فَقَالَتْ : إِنِّي أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهِرُ أَفَادَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ
ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ فَدَعِي ((
الصَّلَاةَ ، وَإِذَا أَدْبَرْتَ فَاغْسِلِي عَنْكَ أَثَرَ الدَّمِ وَتَوَضَّئِي وَصَلِّي
فَإِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ)) . لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي ،
الرَّبِيعِ وَفِي حَدِيثِ خَلْفٍ : أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ سَأَلَتْ
رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - وَقَالَ ((: فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمِ وَتَوَضَّئِي
وَصَلِّي)) . وَالْبَاقِي بِمَعْنَاهُ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ خَلْفِ بْنِ
بِشَّامٍ دُونَ قَوْلِهِ : وَتَوَضَّئِي . وَكَأَنَّهُ ضَعَّفَهُ لِمُخَالَفَتِهِ سَائِرَ
الرُّوَاةِ عَنْ بِشَّامٍ . وَرَوَاهُ أَبُو حَمْرَةَ السُّكَّرِيُّ عَنْ بِشَّامٍ إِلَّا أَنَّهُ
أَرْسَلَ الْحَدِيثَ وَلَمْ يَذْكُرْ عَائِشَةَ .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب : پاکی کا بیان

باب : مستحاضہ خون کے نشان کو دھو کر غسل کرے گی
اور کپڑے سے لنگوٹ باندھ کر نماز پڑھے گی اور ہر

نماز کے لیے وضو کرے گی

حدیث نمبر: 1621

ترجمہ:

(۱۶۲۲) (سیدہ عائشہؓ سے روایت ہے فاطمہ بنت ابی حبیش نے نبی ﷺ سے پوچھا کہ میں استحاضہ والی ہوں، میں پاک نہیں ہوتی، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ ایک رگ ہے، حیض نہیں ہے، جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دے اور جب چلا جائے تو اپنے جسم سے خون دھو وضو کر اور نماز پڑھ، یہ ایک رگ سے ہے، حیض نہیں ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ فاطمہ بنت ابی حبیش نے نبی ﷺ سے سوال کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا " :اپنے آپ سے خون دھو، وضو کر اور نماز پڑھ

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A woman should wash off the blood that is due to istihadah and take a bath, tie a waist-wrapper with a cloth and

pray, and she will perform ablution for each and every prayer.

Hadith number: 1621

Translation:

(1621) It is narrated on the authority of Ayesha (may Allah be pleased with her) that Fatima bint Abi Habish asked the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) that I am someone who suffers from istihadah, I am not pure. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: This is from a blood vessel, this is not menstruation, when your menstrual period starts, stop praying and when it is over, wash off the blood from your body, perform ablution and pray, this is from a blood vessel, not menstruation.

According to a (different) narration, Fatima bint Abi Habish asked the Prophet (peace

and blessings of Allah be upon him) and he said: "Wash off the blood, perform ablution and pray."

[Sahih. Narrated by Bukhari 228 and Muslim 333 and Nasai 218, 364 and Tirmidhi 125 and Ibn Majah 621]

Sunan Kubra Bayhaqi 1622

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ (١٦٢٣)
إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْمَرْزِيُّ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو
حَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ بِشَامًا يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي
حُبَيْشٍ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ. الْحَدِيثُ
وَقَالَ فِيهِ ((: فَاغْتَسِلِي عِنْدَ طَهْرِكَ وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ))-.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَرَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيُّ عَنْ دَاوُدَ الْعَطَّارِ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ عَنْ بِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ
زِيَادٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ بِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ
((: وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ))-.
قَالَ الشَّيْخُ: وَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذِهِ الْكَلِمَةَ مِنْ قَوْلِ عُرْوَةَ بْنِ
الزَّبَّارِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مستحاضہ خون کے نشان کو دھو کر غسل کرے گی اور کپڑے سے لنگوٹ باندھ کر نماز پڑھے گی اور ہر نماز کے لیے وضو کرے گی

حدیث نمبر: 1622

ترجمہ:

(۱۶۲۳) (الف) ہشام اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں کہ بیشک فاطمہ بنت حبیشؓ نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں استحاضہ والی ہوں، میں پاک نہیں ہوتی۔۔۔ اس میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: "اپنے طہر کے وقت غسل کر اور نماز کے لیے وضو کر۔"

ایک روایت میں ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو کر۔
(ب) (شیخ کہتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ عروہ بن زبیر کا قول ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A woman should wash off the blood that is due to istihadah and take a

bath, tie a waist-wrapper with a cloth and pray, and she will perform ablution for each and every prayer.

Hadith number: 1622

Translation:

(1622) (a) Hisham narrates from his father that verily Fatima bint Habish said: O Messenger of Allah! I suffer from istihadah, I am not pure ... In it is that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "Take a bath at the time of your purification and perform ablution for prayer." According to one tradition it is, 'perform ablution for every prayer.'

(B) The Shaykh says that the most authentic view is that this is the saying of Urwah bin Zubair.

[Sahih. Narrated by Hakim 1/280]

Sunan Kubra Bayhaqi 1623

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ (١٦٢٤)
إِسْحَاقَ الْفَقِيهَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ بِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ
-قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -
فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ أَفَادَعُ
الصَّلَاةَ؟ فَقَالَ ((لَا ، إِنَّمَا ذَلِكَ

، عِرْقٌ وَلَيْسَ بِالْحَيْضِ ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكَ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ
وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي ((- قَالَ قَالَ
أَبِي : ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَجِيئَ ذَلِكَ الْوَقْتُ-
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى دُونَ قَوْلِ عُرْوَةَ
وَقَوْلِ عُرْوَةَ فِيهِ صَحِيحٌ-
وَرُويَ ذَلِكَ فِي حَدِيثِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عُرْوَةَ
عَنْ عَائِشَةَ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مستحاضہ خون کے نشان کو دھو کر غسل کرے گی
اور کپڑے سے لنگوٹ باندھ کر نماز پڑھے گی اور ہر نماز
کے لیے وضو کرے گی

حدیث نمبر: 1623

ترجمہ:

(۱۶۲۴) (سیدہ عائشہ^{رض} سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت ابی
حبیب^{رض} نبی^{صلی اللہ علیہ وسلم} کے پاس آئیں اور عرض کیا: اے اللہ کے
رسول! میں استحاضہ والی عورت ہوں، میں پاک

نہیں ہوتی، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: نہیں یہ ایک رگ ہے، حیض نہیں ہے، جب تیرا حیض آئے تو نماز چھوڑ دے اور جب چلا جائے تو اپنے جسم سے خون دھو، پھر نماز پڑھ

راوی کہتے ہیں: میرے باپ نے کہا: پھر ہر نماز کے لیے وضو کر یہاں تک کہ (دوسری نماز کا وقت آجائے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A woman should wash off the blood that is due to istihadah and take a bath, tie a waist-wrapper with a cloth and pray, and she will perform ablution for each and every prayer.

Hadith number: 1623

Translation:

(1623) It is narrated on the authority of Ayesha (may Allah be pleased with her) that Fatima bint Abi Habish came to the

Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) and said: I am a woman suffering from istihadah, I am not pure, should I stop praying? He said: No. It is from a blood vessel, not menstruation. When your menstrual period starts, stop praying and when it goes away, wash off your blood and pray.

The narrator says: My father said: Then perform ablution for every prayer until the time for (the second prayer) comes.

[Sahih. Narrated by Bukhari 228 and Muslim 333 and Nasai 218, 364 and Tirmidhi 125 and Ibn Majah 621]

Sunan Kubra Bayhaqi 1624

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذِبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ (١٦٢٥)
دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا
وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ

ح (وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ
عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
الْحَسَانِيُّ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي
ثَابِتٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي
حُبَيْشٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ
ال) ((: لَا ، إِنَّمَا ذَلِكَ ُاسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهَرُ أَفَادَعُ الصَّلَاةَ؟ ق
عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، اجْتَنِبِي الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِكَ
، ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ ،

وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُّ عَلَى الحَصِيرِ ((- لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ الحَارِثِ-

وَهَكَذَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ وَقُرَّةُ بْنُ عِيسَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ وَجَمَاعَةٌ عَنِ الأَعْمَشِ وَاخْتَلَفَ فِيهِ عَلِيُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَاوُدَ الخُرَيْبِيِّ وَرَوَاهُ حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَأَبُو أُسَامَةَ وَأَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الأَعْمَشِ فَوْقَهُ عَلَى عَائِشَةَ وَاخْتَصَرُوهُ-

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ الحَارِثِ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الحَكَمِ قَالَ: جِئْنَا مِنْ عِنْدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَاوُدَ الخُرَيْبِيِّ إِلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ القَطَّانِ فَقَالَ: مَنْ أَيْنَ جِئْتُمْ؟ قُلْنَا: مِنْ عِنْدِ ابْنِ دَاوُدَ؟ فَقَالَ: مَا حَدَّثْتُمْ؟ قُلْنَا حَدَّثْنَا عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ الحَدِيثَ-

، فَقَالَ يَحْيَى: أَمَا إِنَّ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ كَانَ أَعْلَمَ النَّاسِ بِهَذَا زَعَمَ أَنَّ حَبِيبَ بْنَ أَبِي ثَابِتٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ شَيْئًا-

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو يَحْيَى السَّمَرَقَنْدِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ المَدِينِيَّ يَقُولُ حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ شَيْئًا. قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدِيثُ حَبِيبٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ

الزُّبَيْرِ لَا شَيْءَ-

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ
بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ الدُّورِيَّ يَقُولُ
قُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ: حَبِيبٌ ثَبَّتْ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا رَوَى حَدِيثَيْنِ
قَالَ أَظُنُّ يَحْيَى يُرِيدُ مُنْكَرَيْنِ حَدِيثِ تَصَلَّى الْحَائِضُ وَإِنْ قَطَرَ
الدَّمُّ عَلَى الْحَصِيرِ، وَحَدِيثِ الْقُبْلَةِ-

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوَدْبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ دَاسَةَ قَالَ
قَالَ أَبُو دَاوُدَ السَّجِسْتَانِيُّ: حَدِيثُ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبٍ ضَعِيفٌ-
وَدَلٌّ عَلَى ضَعْفِ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبٍ هَذَا أَنْ حَفْصَ
بْنَ غِيَاثٍ وَقَفَهُ عَلَى عَائِشَةَ، وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ حَدِيثُ
حَبِيبٍ مَرْفُوعًا وَوَقَفَهُ أَيْضًا أَسْبَاطُ عَنِ الْأَعْمَشِ وَرَوَاهُ ابْنُ
دَاوُدَ عَنِ الْأَعْمَشِ مَرْفُوعًا أَوْلَهُ وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْوُضُوءُ
عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَدَلٌّ عَلَى ضَعْفِ حَدِيثِ حَبِيبٍ هَذَا أَنْ رِوَايَةَ
الزُّبَيْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ
صَلَاةٍ- فِي حَدِيثِ الْمُسْتَحَاضَةِ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مستحاضہ خون کے نشان کو دھو کر غسل کرے گی اور کپڑے سے لنگوٹ باندھ کر نماز پڑھے گی اور ہر نماز کے لیے وضو کرے گی

حدیث نمبر: 1624

ترجمہ:

(۱۶۲۵) (سیدہ عائشہ^{رض} سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت ابی حبیش^{رض} رسول اللہ ﷺ کے پاس آئیں۔ اور عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں استحاضہ والی عورت ہوں، میں پاک نہیں ہوتی، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: یہ ایک رگ ہے، حیض نہیں ہے، اپنے حیض کے دنوں میں نماز نہ پڑھ، پھر غسل کر اور ہر نماز کے لیے وضو کر، اگرچہ خون چٹائی پر گرتا ہے۔

(ب) حفص بن غیاث، ابو اسامہ اور اسباط بن محمد نے اعمش سینقل کیا ہے اور انہوں نے اسے سیدہ عائشہ^{رض} پر موقوف قرار دیا ہے۔

(ج) عبدالرحمن بن بشر بن حکم کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن داؤد خریبی کے پاس سے لحنی بن سعید قطان کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا: تم کہاں سے آئے ہو؟ ہم نے کہا: ابن داؤد کے پاس سے۔ انہوں نے پوچھا

تم سے کیا بیان کیا؟ ہم نے کہا: اعمش عن حبیب بن ابی ثابت
عن عروہ عن عائشہ۔۔۔ یحییٰ نے کہا: سفیان ثوری اس (سند)
کو لوگوں سے زیادہ جانتے ہیں۔ ان کا گمان ہے کہ حبیب بن
ابو ثابت کا عروہ بن زبیر سے سماع ثابت نہیں ہے۔

د (شیخ علی بن مدینی کہتے ہیں کہ حبیب بن ابی ثابت
کا عروہ بن زبیر سے سماع ثابت نہیں ہے۔ امام یحییٰ بن
سعید کہتے ہیں: حبیب کے عروہ سے روایت کرنے میں
کوئی حیثیت نہیں۔

ر (عباس بن محمد دوری کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ بن
معین سے پوچھا کہ حبیب کی روایات ثابت ہیں؟ انہوں نے
فرمایا: ہاں۔ پھر انہوں نے دو روایات بیان کی ہیں۔ عباس کا
گمان ہے کہ ان کی مراد دو منکر روایات۔
۱ (حائضہ نماز پڑھے گی اگرچہ خون چٹائی پر گرے اور
دوسری حدیث قبلہ۔

س (امام ابو داؤد فرماتی ہیں کہ اعمش کی جو حدیث حبیب
سے ہو وہ ضعیف ہے۔

ش (اعمش کی حبیب سے حدیث کیضعیف ہونے کی دلیل
حفص بن غیاث کا موقوف ٹھہرانا ہے۔ انہوں نے حبیب کی
حدیث کے مرفوع ہونے سے انکار کیا ہے۔

اسی طرح اس نے بھی اعمش سینقلابیان کی ہے۔ ابن داؤد نے اعمش سے مرفوع نقل کی ہے اور اس بات کا انکار کیا ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو ہو۔ حبیب کی حدیث کے ضعیف ہونے پر دلیلزہری کی روایت ہے جو عروۃ عن عائشہ ہے۔ سیدہ عائشہؓ فرماتی ہیں: وہ ہر نماز کے لیے وضو کرتی تھیں۔ یہ مستحاضہ والی حدیث میں ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A woman should wash off the blood that is due to istihadah and take a bath, tie a waist-wrapper with a cloth and pray, and she will perform ablution for each and every prayer.

Hadith number: 1624

Translation:

(1624) It is narrated on the authority of Ayesha (may Allah be pleased with her)

that Fatima bint Abi Habish came to the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) and said: I am a woman suffering from istihadah, I am not pure, should I stop praying? He said: No. It is from a blood vessel, not menstruation. When your menstrual period starts, stop praying, then take a bath and perform ablution for every prayer, even if the blood falls on the mat.

(B) Hafs ibn Ghiyas, Abu Usama and Isbat ibn Muhammad have narrated Amash and they have declared it to be a mawquf hadith of Ayesha.

(C) Abd al-Rahman ibn Bashir ibn Hakam says that we came to Lahi ibn Sa'id Qattan from Abdullah ibn Dawud al-Kharibi's (place) so he asked: Where are you coming from? We said: From (visiting) Ibn Dawud.

He asked, "What did he narrate?" We said: Amash on the authority of Habib ibn Abi Thabit on the authority of Urwah on the authority of Ayesha... Yahya said: Sufyan al-Thawri knows this (sanad) better than (other) people. He believes that it is not proven that Habib ibn Abu Thabit heard from Urwah ibn Zubair.

(D) Shaykh Ali ibn Madini says that is not proven that Habib ibn Abu Thabit heard from Urwah ibn Zubair. Imam Yahya (Ibn Saeed) says: There is no point in narrating from Habib on the authority of Urwah.

(E) Abbas ibn Muhammad al-Duri says that I asked Yahya ibn Ma'in if the narrations of Habib are proven. He said: Yes. Then he narrated two traditions. Abbas thinks that he means two munkar traditions.

(F) (The two hadiths were) the menstruating woman will pray even if the blood falls on the mat and another hadith of qiblah.

(G) Imam Abu Dawud says that the hadith of Aamash from Habib is daif (weak).

(H) The proof of the weakness of the hadith of Amash from Habib is the view of Hafs ibn Ghiyas that the hadith is mawquf. He has rejected the claim that the hadith of Habib is marfu. In the same way, he has also narrated a hadith from Amash. Ibn Dawud has narrated a marfu hadith from Aamash and denied that ablution should be done for every prayer. The evidence for the weakness of Habib's hadith is the narration of Zuhri which is narrated from Urwah on the authority of Ayesha. Ayesha (may Allah be pleased with her) says: She

would perform ablution for every prayer. This is present in the hadith of istihadah.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1625

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرِ أَحْمَدُ بْنُ (١٦٢٦)

الْحَسَنُ الْقَاضِي قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا
 الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ بَارُونَ أَخْبَرَنَا أَبُو
 الْعَلَاءِ يَعْنِي أَيُّوبَ بْنَ أَبِي مَسْكِينٍ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ
 عَنْ أُمِّ كَلْثُومٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَ فِي
 الْمُسْتَحَاضَةِ ((تَدْعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ مَرَّةً ثُمَّ
 تَتَوَضَّأُ إِلَى مِثْلِ أَيَّامِ أَقْرَائِهَا ، فَإِنْ رَأَتْ صُفْرَةً انْتَضَحَتْ
 وَتَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ)) -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مستحاضہ خون کے نشان کو دھو کر غسل کرے گی
 اور کپڑے سے لنگوٹ باندھ کر نماز پڑھے گی اور ہر نماز
 کے لیے وضو کرے گی

حدیث نمبر: 1625

:ترجمہ

(۱۶۲۶) (سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل فرماتی ہیں کہ آپ ﷺ
 نے مستحاضہ کے متعلق فرمایا " :اپنے حیض کے دنوں میں
 نماز چھوڑ دے، پھر ایک مرتبہ غسل

کرے، پھر اپنے طہر کے دنوں کی طرح وضو کرے۔ اگر
زردی دیکھے تو چھینٹے مارے اور وضو کر کے نماز
پڑھے۔"

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A woman should wash off the blood
that is due to istihadah and take a bath, tie a
waist-wrapper with a cloth and pray, and she
will perform ablution for each and every
prayer.

Hadith number: 1625

Translation:

(1625) Ayesha (may Allah be pleased with
her) narrates from the Prophet (peace and
blessings of Allah be upon him) that he said
about the woman who is suffering from
istihadah: "She should stop praying on the
days that she is menstruating, then

take a bath once, then perform ablution just as she would perform it on the days that she is pure. If she sees yellowish (discharge), she should sprinkle water on it and perform ablution and pray."

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1626

Arabic Text:

قَالَ وَحَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ (١٦٢٧)
أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَلَاءِ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ عَنِ امْرَأَةِ مَسْرُوقٍ عَنِ
عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - مِثْلُهُ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مستحاضہ خون کے نشان کو دھو کر غسل کرے گی
اور کپڑے سے لنگوٹ باندھ کر نماز پڑھے گی اور ہر نماز
کے لیے وضو کرے گی

حدیث نمبر: 1626

:ترجمہ

(١٦٢٧) (سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے اسی پچھلی روایت کی
طرح نقل فرماتی ہیں۔)

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A woman should wash off the blood that is due to istihadah and take a bath, tie a waist-wrapper with a cloth and pray, and she will perform ablution for each and every prayer.

Hadith number: 1626

Translation:

(1626) Ayesha narrates the same narration, as the previous one, from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him). [Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1627

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذُبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ (١٦٢٨)
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ
فَذَكَرَهُمَا بِالْإِسْنَادَيْنِ إِلَّا أَنَّهُ جَعَلَ الْأَوَّلَ مِنْ قَوْلِ عَائِشَةَ. قَالَ
أَبُو دَاوُدَ وَحَدِيثُ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ ضَعِيفٌ لَا يَصِحُّ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَرَوَى عَنْ أَبِي يُوسُفَ
مَرْفُوعًا.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
کتاب: پاکی کا بیان

باب: مستحاضہ خون کے نشان کو دھو کر غسل کرے گی اور کپڑے سے لنگوٹ باندھ کر نماز پڑھے گی اور ہر نماز کے لیے وضو کرے گی

حدیث نمبر: 1627

:ترجمہ

(۱۶۲۸) (الف) (یزید نے دونوں سندوں سے بیان کیا ہے مگر اس نے پہلے کو عائشہ کا قول قرار دیا ہے۔
(ب) (امام ابوداؤد فرماتی ہیں کہ ایوب کی حدیث ضعیف ہے۔
(ج) (شیخ کہتے ہیں کہ ابویوسف سے مرفوعاً نقل کی گئی ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A woman should wash off the blood that is due to istihadah and take a bath, tie a waist-wrapper with a cloth and pray, and she will perform ablution for each and every prayer.

Hadith number: 1627

Translation:

(1627) (a) Yazid has narrated from both isnad (chains of transmission) but he has declared the former tradition as Ayesha's saying.

(B) Imam Abu Dawud says that the hadith of Ayub is weak.

(C) Sheikh says that it has been narrated as a marfu hadith from Abu Yusuf.

[Sahih. Narrated by Abu Dawud 299 and Darimi 817]

Sunan Kubra Bayhaqi 1628

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ (١٦٢٩)
بْنُ حَيَّانَ الْأَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ أَبِي خِدَاشٍ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ مَطْرِ حَدَّثَنَا أَبُو
يُوسُفَ: يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ
الشَّعْبِيِّ عَنْ قَمِيرِ امْرَأَةِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ فَاطِمَةَ أُمَّتِ
النَّبِيِّ ﷺ - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ. فَقَالَ
، النَّبِيُّ ﷺ - ((: إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ فَاَنْظُرِي أَيَّامَ أَقْرَائِكَ
فَإِذَا جَاوَزَتْ فَاغْتَسِلِي وَاسْتَدْفِرِي ، ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ)) -.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مستحاضہ خون کے نشان کو دھو کر غسل کرے گی اور کپڑے سے لنگوٹ باندھ کر نماز پڑھے گی اور ہر نماز کے لیے وضو کرے گی

حدیث نمبر: 1628

ترجمہ:

(۱۶۲۹) (سیدہ عائشہ رض سے روایت ہے کہ فاطمہ رض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، انہوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں استحاضہ والی عورت ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا " یہ ایک رگ ہے اپنے حیض کے دنوں کا انتظار کر، جب وہ گزر جائیں تو غسل کر اور لنگوٹ باندھ کر نماز کے لیے وضو کر۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A woman should wash off the blood that is due to istihadah and take a bath, tie a waist-wrapper with a cloth and

pray, and she will perform ablution for each and every prayer.

Hadith number: 1628

Translation:

(1628) It is narrated from Ayesha that Fatima came to the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) and said: O Messenger of Allah! I am a woman suffering from istihadah. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: "This is a blood vessel, wait for the days of your menstruation, when they pass, take a bath and tie a waist-wrapper and perform ablution for prayer.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence). Narrated by Al-Daraqutni 1/210]

Sunan Kubra Bayhaqi 1629

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ (١٦٣٠)
الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَابِلِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ أَبِي خَدَّاشٍ فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ -
قَالَ عَلِيُّ: تَفَرَّدَ بِهِ عَمَّارُ بْنُ مَطَرٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ
:وَالَّذِي عِنْدَ النَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مَوْقُوفًا
الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ، وَتَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ
لِكُلِّ صَلَاةٍ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مستحاضہ خون کے نشان کو دھو کر غسل کرے گی اور کپڑے سے لنگوٹ باندھ کر نماز پڑھے گی اور ہر نماز کے لیے وضو کرے گی

حدیث نمبر: 1629

ترجمہ:

(۱۶۳۰) (اسماعیل اس سند سے موقوف روایت نقل کرتے ہیں کہ استحاضہ والی اپنے حیض کے دنوں میں نماز چھوڑ دے، پھر غسل کرے اور ہر نماز کے لیے وضو کرے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A woman should wash off the blood that is due to istihadah and take a bath, tie a waist-wrapper with a cloth and

pray, and she will perform ablution for each and every prayer.

Hadith number: 1629

Translation:

(1629) Isma'il narrates the a mawquf narration from this chain of transmission that the woman who is suffering from istihadah should stop praying during her menstrual period, then take a bath and perform ablution for each prayer.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence). Narrated by Al-Daraqutni 1/210]

Sunan Kubra Bayhaqi 1630

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُكْرَمُ بْنُ أَحْمَدَ (١٦٣١)
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَرَبِيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بَيَانَ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ قَمِيرٍ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: تَدْعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ
حَيْضَتِهَا ، وَتَغْتَسِلُ وَتَسْتَذْفِرُ وَتَوَضُّأُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مستحاضہ خون کے نشان کو دھو کر غسل کرے گی
اور کپڑے سے لنگوٹ باندھ کر نماز پڑھے گی اور ہر نماز
کے لیے وضو کرے گی

حدیث نمبر: 1630

ترجمہ:

(۱۶۳۱) (سیدہ عائشہ ^{رض} سے روایت ہے کہ مستحاضہ اپنے حیض کے دنوں میں نماز چھوڑ دے اور غسل کر کے لنگوٹ باندھے اور ہر نماز کے وقت وضو کرے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A woman should wash off the blood that is due to istihadah and take a bath, tie a waist-wrapper with a cloth and pray, and she will perform ablution for each and every prayer.

Hadith number: 1630

Translation:

(1630) It is narrated from Ayesha that a woman who is suffering from istihadah should stop praying during her menstrual

period, take a bath, tie a waist-wrapper and perform ablution for every prayer.
[Sahih. Narrated by Darimi 790]

Sunan Kubra Bayhaqi 1631

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ (١٦٣٢)
إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو

حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا بَيَانٌ عَنْ عَامِرٍ فَذَكَرَهُ وَقَالَ: ثُمَّ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ.

هَكَذَا رَوَايَةٌ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ وَبَيَانٍ وَمُغِيرَةَ وَفِرَاسٍ وَمُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ قَمِيرٍ عَنْ عَائِشَةَ: تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ.

وَرَوَايَةٌ دَاوُدَ بْنِ أَبِي بِنْدٍ وَعَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ قَمِيرٍ عَنْ عَائِشَةَ: تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً. وَكَذَلِكَ فِي رَوَايَةِ عُثْمَانَ بْنِ سَعْدِ الْكَاتِبِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ فِي قِصَّةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. (ج (وَعُثْمَانُ بْنُ سَعْدٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ. وَرَوَى عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مستحاضہ خون کے نشان کو دھو کر غسل کرے گی اور کپڑے سے لنگوٹ باندھ کر نماز پڑھے گی اور ہر نماز کے لیے وضو کرے گی

حدیث نمبر: 1631

:ترجمہ

(۱۶۳۲) (الف) (عامر نے نقل کیا ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو کرے۔

(ب) (قمیر نے سیدہ عائشہ^{رض} سے نقل کیا ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی۔

(ج) (قمیر عائشہ^{رض} سے نقل فرماتے ہیں کہ وہ روزانہ ایک مرتبہ غسل کرے گی، اسی طرح عثمان بن سعد کاتب کی روایت ابن ابی ملیکہ سے ہے جو سیدہ فاطمہ بنت ابو حبیثہ کا قصہ نبی ﷺ سے منقول ہے۔

(د) (عثمان بن سعد قوی نہیں

(ر) (حجاج بن ارطاة ابن ابوملیکہ سینقل فرماتے ہیں اور وہ قوی نہیں

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A woman should wash off the blood that is due to istihadah and take a bath, tie a waist-wrapper with a cloth and pray, and she will perform ablution for

each and every prayer.

Hadith number: 1631

Translation:

(1631) (a) Amir has narrated that she should perform ablution for every prayer.

(B) Qameer has narrated from Ayesha that she will perform ablution for every prayer.

(C) Hajjaj ibn Artta narrates from Ibn Abu Malika and he is not strong.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1632

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ: عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ (١٦٣٣)
قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو بْنُ مَطَرٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى شَرِيكِ عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ عَنْ
: عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَ
الْمُسْتَحَاضَةُ تَدَعُ الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضَتِهَا ، وَتَغْتَسِلُ وَتَتَوَضَّأُ))
لِكُلِّ صَلَاةٍ وَتَصُومُ وَتُصَلِّيَ)).-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مستحاضہ خون کے نشان کو دھو کر غسل کرے گی
اور کپڑے سے لنگوٹ باندھ کر نماز پڑھے گی اور ہر نماز
کے لیے وضو کرے گی

حدیث نمبر: 1632

ترجمہ:

(۱۶۳۳) ثابت اپنے دادا سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا "مستحاضہ اپنے حیض کے دنوں میں نماز چھوڑ دے گی، پھر غسل کرے گی اور ہر نماز کے لیے وضو کرے گی، روزے رکھے گی اور نماز پڑھے گی۔"

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A woman should wash off the blood that is due to istihadah and take a bath, tie a waist-wrapper with a cloth and pray, and she will perform ablution for each and every prayer.

Hadith number: 1632

Translation:

(1632) Thabit narrates from his grandfather that the Prophet (peace and

blessings of Allah be upon him) said: “The woman who is suffering from istihadah should stop praying during her menstrual period, then take a bath and perform ablutions for every prayer, observe her fasts and pray.”

[Sahih. Narrated by Abu Dawud 297 and Tirmidhi 126 and Ibn Majah 625 and Darimi 820]

Sunan Kubra Bayhaqi 1633

Arabic Text:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مستحاضہ خون کے نشان کو دھو کر غسل کرے گی اور کپڑے سے لنگوٹ باندھ کر نماز پڑھے گی اور ہر نماز کے لیے وضو کرے گی
حدیث نمبر: 1633

وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ (١٦٣٤)
حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى شَرِيكِ عَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ عَنْ
عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ
يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ الدُّورِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ
يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ -
عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ يَحْيَى وَجَدُّهُ اسْمُهُ دِينَارٌ.

قَالَ أَبُو الْفَضْلِ فَرَدَدْتُهُ أَنَا عَلَى يَحْيَى فَقَالَ هُوَ بِكَذَا اسْمُهُ
دِينَارٌ.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذُبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ دَاسَةَ قَالَ
قَالَ أَبُو دَاوُدَ السَّجِسْتَانِيُّ حَدِيثُ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ هَذَا

ضَعِيفٌ لَا يَصِحُّ ، وَرَوَاهُ أَبُو الْيَقْظَانَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ -

Urdu Translation:

:ترجمہ

(۱۶۳۴) ثابت کے والد سیدنا علیؑ سے اسی طرح نقل

فرماتے ہیں۔

(ب) عدی بن ثابت اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے نبی

ﷺ سے نقل فرماتے ہیں۔ یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ ان کے

دادا کا نام دینار ہے۔

(ج) ابو فضل کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ پر رد کیا تو انہوں

نے کہا: اس کا نام دینار ہے۔

(د) امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ عدی بن ثابت کی حدیث

ضعیف ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A woman should wash off the blood that is due to istihadah and take a

bath, tie a waist-wrapper with a cloth and pray, and she will perform ablution for each and every prayer.

Hadith number: 1633

Translation:

(1633) Thabit's father narrates a similar report from Syeduna Ali (may Allah be pleased with him).

(B) Udai ibn Thabit narrates from his father and he narrates from his grandfather who narrates from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him). Yahya ibn Ma'in says that his grandfather's name is Dinar.

(C) Abu Fazal says that I rejected Yahya so he said: His name is Dinar.

(D) Imam Abu Dawud says that the hadith

of Udai ibn Thabit is weak.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1634

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ (١٦٣٥)
بْنُ حَيَّانَ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ أَبُو يَعْلَى قُرِيٌّ عَلَى بَشْرٍ

بْنِ الْوَلِيدِ أَخْبَرَكَ أَبُو يُوسُفَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَفْرِيقِيِّ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ - أَمَرَ
الْمُسْتَحَاضَةَ أَنْ تَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلَاةٍ -

تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو يُوسُفَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ أَبِي أَيُّوبَ
الْأَفْرِيقِيِّ -

وَأَبُو يُوسُفَ ثَقَّةٌ إِذَا كَانَ يَرْوِي عَنْ ثِقَةٍ -

وَفِيمَا أَجَازَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ رِوَايَتُهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي
الْعَبَّاسِ عَنِ الرَّبِيعِ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ أَمَا إِنَّا رُوِينَا أَنَّ
النَّبِيَّ ﷺ - أَمَرَ الْمُسْتَحَاضَةَ تَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ

قُلْتُ: نَعَمْ ، قَدْ رُوِينُمْ ذَلِكَ ، وَبِهِ نَقُولُ قِيَاسًا عَلَى سُنَّةِ رَسُولِ
اللَّهِ ﷺ - فِي الْوَضُوءِ مِمَّا خَرَجَ مِنْ دُبُرٍ أَوْ ذَكَرٍ أَوْ فَرْجٍ - قَالَ
وَلَوْ كَانَ هَذَا مَحْفُوظًا عِنْدَنَا كَانَ أَحَبَّ إِلَيْنَا مِنَ الْقِيَاسِ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مستحاضہ خون کے نشان کو دھو کر غسل کرے گی
اور کپڑے سے لنگوٹ باندھ کر نماز پڑھے گی اور ہر نماز
کے لیے وضو کرے گی

حدیث نمبر: 1634

ترجمہ:

(الف) (سیدنا جابر^{رض} سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے استحاضہ والی کو حکم دیا کہ ہر نماز کے لیے وضو کرے۔

(ب) (ابو یوسف عبداللہ بن علی ابو ایوب افریقی سینقل کرنے میں متفرد ہے۔

(ج) (ابو یوسف ثقہ ہے جب ثقہ سے نقل کرے۔

(د) (امام شافعی) رح (سے روایت ہے کہ کہا گیا: ہم نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے مستحاضہ کو ہر نماز کے لیے وضو کا حکم دیا۔ میں نے کہا: میں کہتا ہوں: ہاں یہ تم روایت کر سکتے ہو۔ اسی طرح ہم اس کو نبی کی سنت جو وضو کے متعلق ہے کہ دبر، ذکر یا فرج سے کوئی چیز خارج ہو تو وضو ہے، ہم اس کو اس پر قیاس کریں گے۔ امام صاحب فرماتی ہیں کہ اگر یہ روایت محفوظ ہو تو ہمیں قیاس سے زیادہ پسند ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A woman should wash off the blood that is due to istihadah and take a bath, tie a waist-wrapper with a cloth and pray, and she will perform ablution for each and every prayer.

Hadith number: 1634

Translation:

(1634) (a) It is narrated from Jabir that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) ordered the woman suffering from istihadah to perform ablution for every prayer.

(B) Abu Yusuf Abdullah bin Ali is unique in transmitting from Abu Ayub the African.

(C) It is narrated from Imam Shafi'i (may Allah have mercy on him) that it was said: We quote the narration of the Prophet

(peace and blessings of Allah be upon him) that he ordered the woman suffering from istihadah to perform ablution for every prayer. I said: I say: Yes, you can narrate this. In the same way, we call it the Sunnah of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) which is related to ablution, if something comes out of the buttocks, penis, or vagina then ablution is required, we draw an analogy from this. Imam says that if this tradition is safe then we prefer it over qiyas (analogical deduction).

[Daif (Weak). Narrated by Al-Tabarani in Mujam Awsat 1597]

Sunan Kubra Bayhaqi 1635

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ (١٦٣٦)
إِسْحَاقَ الْفَقِيهَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ
حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ
، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - مِنَ الْخَلَائِ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامٌ
فَعَرَضُوا عَلَيْهِ الْوُضُوءَ فَقَالَ: إِنَّمَا أَمَرْتُ بِالْوُضُوءِ إِذَا
قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ -
قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَخْبَرَ النَّبِيَّ ﷺ - أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَهُ بِالْوُضُوءِ
إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ لَا دُخُولَ وَقْتِ أَوْ خُرُوجَهُ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مستحاضہ خون کے نشان کو دھو کر غسل کرے گی اور کپڑے سے لنگوٹ باندھ کر نماز پڑھے گی اور ہر نماز کے لیے وضو کرے گی

حدیث نمبر: 1635

ترجمہ:

(۱۶۳۶) (سیدنا ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ بیت الخلاء سے نکلے، کھانا آپ ﷺ کے قریب لایا گیا، صحابہ نے آپ کو پانی پیش کیا، آپ نے فرمایا "مجھے وضو کا حکم تب دیا گیا ہے جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوں۔ ابوبکر کہتے ہیں کہ نبی ﷺ نے خبر دی کہ بیشک اللہ تعالیٰ نے انہیں وضو کا حکم دیا جب نماز کے لیے کھڑے ہوں نہ کہ (نماز کے) دخول کے وقت اور نہ خروج کے وقت۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: A woman should wash off the

blood that is due to istihadah and take a bath, tie a waist-wrapper with a cloth and pray, and she will perform ablution for each and every prayer.

Hadith number: 1635

Translation:

(1635) It is narrated on the authority of Ibn Abbas that the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) came out of the toilet, the food was brought to him, the companions offered him water, he said: I have been ordered to perform ablution when I get up for prayer. Abu Bakr (may Allah be pleased with him) says that the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) informed him that verily Allah had commanded him to perform ablution when he stood up for prayer, not at the starting time (of prayer) nor at the ending time (rather only when I get up for

prayer).

[Sahih. Narrated by Muslim 374 and Nasai 132 and Abu Dawud 3760 and Tirmidhi 1847 and Ahmad 1/282, 359]

Sunan Kubra Bayhaqi 1636

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ (١٦٣٧)
يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ
(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قَالَ وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ
أَحْمَدَ الْجُرْجَانِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا
حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنِ
ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ
عَائِشَةَ: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
-بْنِ عَوْفٍ، وَأَنَّهَا اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ -
(إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِالْحَيْضَةِ، وَلَكِنَّهَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي) (-):
لَفْظُ حَدِيثِ الرَّبِيعِ وَفِي حَدِيثِ حَرْمَلَةَ: أَنَّهَا اسْتَفْتَتْ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - فِي ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - ((: إِنَّ هَذِهِ
لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي) (-). قَالَتْ
عَائِشَةُ: وَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ فِي مِرْكَانٍ فِي حُجْرَةٍ
أُخْتِهَا زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ حَتَّى تَعْلُوَ حُمْرَةَ الدَّمِ الْمَائِ. قَالَ ابْنُ
شِهَابٍ: فَحَدَّثَنَا بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ بْنُ
بِشَامٍ فَقَالَ: يَرْحَمُ اللَّهُ بِنْدًا، لَوْ كَانَتْ سَمِعَتْ بِهَذِهِ الْفُتْيَا، وَاللَّهِ
إِنْ كَانَتْ لَتَبْكِي لِأَنَّهَا

كَانَتْ لَا تُصَلِّيَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ
عَنِ ابْنِ وَهْبٍ بِطُولِهِ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي ذُنُبٍ
عَنِ الزُّهْرِيِّ دُونَ قِصَّةِ بِنْدٍ.
وَكَذَلِكَ قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْهُمَا جَمِيعًا.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: مستحاضہ کے غسل کا بیان
حدیث نمبر: 1636

ترجمہ:

(۱۶۳۷) (سیدہ عائشہ ^{رض} سے روایت ہے کہ ام حبیبہ ^{رض} جو عبد
الرحمن بن عوف ^{رض} کی بیوی تھیں، وہ سات سال تک استحاضہ
والی رہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: یہ حیض نہیں ہے بلکہ
یہ ایک رگ ہے لہذا غسل کر۔

اور حرمہ کی حدیث میں ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ
سے اس کے متعلق پوچھا تو، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا " یہ
حیض نہیں ہے بلکہ یہ ایک رگ ہے لہذا غسل کر اور نماز
پڑھ سیدہ عائشہ ^{رض} فرماتی ہیں: وہ

اپنی بہن زینب بنت جحشؓ کے کمرے میں ٹپ میں ہر نماز کے لیے غسل کرتی تھیں یہاں تک کہ خون کی سرخی پانی کے اوپر آجاتی۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the ghusl (ritual bath) of a woman suffering from istihadah

Hadith number: 1636

Translation:

(1636) It is narrated from Ayesha that Umm Habibah, who was the wife of 'Abd al-Rahman ibn' Awf, suffered from istihadah for seven years. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: This is not menstruation, rather it is from a blood vessel, so take a bath.

According to the hadeeth of Harmala, she asked the Messenger of Allah (peace and

blessings of Allah be upon him) about it, he said: “This is not menstruation, rather it is a blood vessel, so take a bath and pray.”

Syeda Ayesha says: She used to bathe in the tub of her sister Zainab bint Jahsh for every prayer till the red blood floated above the water.

[Sahih. Narrated by Bukhari 228 and Muslim 333 and Nasai 218, 364 and Tirmidhi 125 and Ibn Majah 621]

Sunan Kubra Bayhaqi 1637

Arabic Text:

وَرَوَاهُ إِبرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عَمْرَةَ عَنْ (١٦٣٨)
عَائِشَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنِي أَبُو أَحْمَدَ بْنُ
أَبِي الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
بْنُ جَعْفَرِ الْوَرْكَانِيُّ حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ فَذَكَرَهُ
بِمَعْنَاهُ دُونَ قِصَّةِ بِنْدٍ.

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ الْوَرْكَانِيِّ -
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ مَعْمَرُ وَيُونُسُ وَابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ
عَمْرَةَ عَنِ عَائِشَةَ وَرُبَّمَا قَالَ مَعْمَرُ وَيُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ
عَنْ عَمْرَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ وَرَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ
عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ وَالْحَدِيثُ صَحِيحٌ عَنْهُمَا جَمِيعًا.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان
(باب: ۲۵) (باب غُسلِ الْمُسْتَحَاضَةِ)

حدیث نمبر: 1637

ترجمہ:

(۱۶۳۸) ابراہیم بن سعد نے اس کو اسی معنی میں نقل کیا ہے، لیکن ہند کا قصہ ذکر نہیں کیا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the ghusl (ritual bath) of a woman suffering from istihadah

Hadith number: 1637

Translation:

(1637) Ibrahim ibn Sa'd has narrated it in the same way, but did not mention the story of Hind.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1638

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا (١٦٣٩)
أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّفَّارِ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مِلْحَانَ حَدَّثَنَا يَحْيَى
يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ
عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ - أَنَّهَا قَالَتْ: اسْتَفْتَتْ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ
جَحْشٍ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - فَقَالَتْ: إِنِّي اسْتَحَاضُ - فَقَالَ ((إِنَّمَا
ذَلِكَ عِرْقٌ فَأَغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي - فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ
-صَلَاةٍ)) (.) قَالَ اللَّيْثُ: فَلَمْ يَذْكُرْ ابْنَ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ -
أَمَرَ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ أَنْ تَغْتَسِلَ يَعْنِي عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ
وَلَكِنَّهُ شَيْءٌ

فَعَلَّتْهُ-

رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ قُتَيْبَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ رُمَحٍ عَنِ اللَّيْثِ
وَذَكَرَ كَلَامَ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ- (ت) وَبِمَعْنَاهُ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ أَيْضًا-
وَفِيمَا أَجَازَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رِوَايَتُهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ عَنِ
الرَّبِيعِ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا أَمْرٌ بِرَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - أَنْ
تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ ، وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّ أَمْرًا أَنْ تَغْتَسِلَ لِكُلِّ
صَلَاةٍ ، وَلَا أَشْكُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ غُسَلَهَا كَانَ تَطَوُّعًا
غَيْرَ مَا أَمَرْتُ بِهِ وَذَلِكَ وَاسِعٌ لَهَا-
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ قِرَاءَةً عَلَيْهِ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ
أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَقَدْ رَوَى غَيْرُ الزُّهْرِيِّ بِذَا
الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - أَمْرًا أَنْ تَغْتَسِلَ لِكُلِّ صَلَاةٍ. وَلَكِنَّ
رَوَاهُ عَنْ عَمْرَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَالسِّيَاقِ وَالزُّهْرِيُّ أَحْفَظُ مِنْهُ
وَقَدْ رَوَى فِيهِ شَيْبًا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحَدِيثَ غَلَطُ قَالَ: تَتْرُكُ
الصَّلَاةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا. وَعَائِشَةُ تَقُولُ: الْأَقْرَأُ: الْأَطْهَارُ-
وَإِنَّمَا أَرَادَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان
(باب) ۲۵: (باب غُسلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
حدیث نمبر: 1638

:ترجمہ

(۱۶۳۹) (الف) (سیدہ عائشہ رض سے روایت ہے کہ ام حبیبہ بنت جحش رض نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں استحاضہ والی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا " یہ ایک رگ ہے پس غسل کر اور نماز پڑھ وہ ہر نماز کے لیے غسل کرتی تھی۔ لیٹ کہتے ہیں کہ ابن شہاب نے یہ ذکر نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ رض کو حکم دیا کہ ہر نماز کے لیے غسل کرے، لیکن وہ ایک کام مزید بھی کرے۔

(ب) (امام شافعی) رح (سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ غسل کرے اور نماز پڑھے۔ اس میں یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہر نماز کے لیے غسل کا حکم دیا۔ ان شاء اللہ مجھے شک نہیں ہے کہ انہیں غسل کا حکم استحبابی تھا، ان پر فرض نہیں کہا گیا تھا۔

(ج) (امام شافعی) رح (فرماتے ہیں کہ زہری کے علاوہ دوسرے ائمہ نے یہ حدیث بیان کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہر نماز کے لیے غسل کرنے کا حکم دیا۔ لیکن

،ائمہ نے عمرہ سے اسے سند اور سیاق سے روایت کیا ہے
امام زہری کی روایت اس سے زیادہ محفوظ ہے، اس میں
ایک ایسی چیز بیان ہوئی ہے جو حدیث کے غلط ہونے پر
دلالت ہے کہ وہ اپنے حیض کی مقدار نماز چھوڑے گی۔
سیدہ عائشہؓ فرماتی ہیں کہ اقرار سے مراد طہر ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the ghusl (ritual bath)
of a woman suffering from istihadah

Hadith number: 1638

Translation:

(1638) (a) It is narrated on the authority of
Ayesha (may Allah be pleased with her) that
Umm Habibah bint Jahsh asked the
Messenger of Allah (peace and blessings of
Allah be upon him) that I am suffering from
istihadah. The Prophet (peace and

blessings of Allah be upon him) said: This is (from) a blood vessel, so take a bath and pray. She used to take a bath for every prayer. Laith says that Ibn Shahab did not mention this. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) commanded Umm Habibah to take a bath for every prayer, but she should do one more thing.

(B) It is narrated on the authority of Imam Shafi'i (may Allah have mercy on him) that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) ordered her to take a bath and pray. This hadith does not mention that he ordered her to take a bath for every prayer. Inshallah, I have no doubt that the order of taking a bath was something (merely) recommended for her, it was not made obligatory (on her).

(C) Imam Shafi'i (may Allah have mercy on him) says that other Imams besides Zuhri have narrated this hadith. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) ordered her to take a bath for every prayer. But the Imams have narrated it from Amr with this chain of transmission and context, the narration of Imam Zuhri is more secure than this, There is something in this (hadith) which indicates that the hadeeth is wrong, (which is) that she will stop praying the same amount days of her menstrual period.

Ayesha says that iqrar means purity.

[Sahih. Narrated by Bukhari 327 and Muslim 334 and Nasai 203, 204, 205, 211, 357 and Abu Dawud 285, 288 and Ibn Majah 626 and Ahmad 6/83, 141, 187 and Darimi 795]

Sunan Kubra Bayhaqi 1639

Arabic Text:

مَا أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ : عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ (١٦٤٠)
بِشْرَانَ بَبْغَدَادَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ
مُضَرَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدٍ -
(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَاللَّفْظُ لَهُ أَخْبَرَنَا أَبُو
بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهَ أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا ابْنُ
كَاسِبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ
: عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ

: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتُحِيضَتْ فَذَكَرْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ - ذَلِكَ فَقَالَ
إِنَّهَا لَيْسَتْ بِحَيْضَةٍ ، وَلَكِنَّهَا رَكُضَةٌ مِنَ الرَّحِمِ ، فَلتَنْظُرِي ((
قَدَرَ أَقْرَابِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ فتنَزُّكِ الصَّلَاةِ ، ثُمَّ
(تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَتُصَلِّي

قَالَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ بَعْضُ مَشَايخِنَا خَبَرُ ابْنِ الْهَادِ غَيْرُ مَحْفُوظٍ
قَالَ الشَّيْخُ : وَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ عَنِ
الزُّبَيْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب : پاکی کا بیان
(باب : ۲۵) (باب غُسلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
حدیث نمبر : 1639

: ترجمہ

(۱۶۴۰) (سیدہ عائشہ رض سے روایت ہے کہ ام حبیبہ رض مستحاضہ
ہو گئیں، انہوں نے یہ بات نبی ﷺ سے ذکر کی تو آپ ﷺ نے
فرمایا " : یہ حیض نہیں ہے، لیکن رحم میں ایک چوکا ہے تو
اپنے حیض کی مقدار انتظار

کرے، جتنی مقدار تو حیض گزارتی تھی اور نماز کو چھوڑ دے، پھر ہر نماز کے لیے غسل کر اور نماز پڑھ (ابوبکر کہتے ہیں کہ ہمارے بعض مشائخ کا ابن ہاد کی حدیث محفوظ نہیں۔

(ج) (شیخ کہتے ہیں: اس حدیث کو محمد بن اسحاق بن یسار نے زہری سے وہ عروہ سے وہ سیدہ عائشہؓ سے نقل فرماتے ہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the ghusl (ritual bath) of a woman suffering from istihadah

Hadith number: 1639

Translation:

(1639) It is narrated on the authority of Ayesha that Umm Habibah suffered from istihadah. She mentioned this to the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) so he said: This is not

menstruation, rather it is a **kick in the womb**, so let her work out the length of the menses that she used to have, and stop praying (for that period of tie), then after that period of time), then after that let her take a bath for every prayer and pray.

(B) Abu Bakr says that the hadith of Ibn Had is not safe according to some of our shaykh.

(C) Shaykh says: This hadeeth is narrated by Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar from Zuhri from Urwah from Ayesha.

[Sahih. Narrated by Nasai 209, 356 and Ahmad 6/128, 129]

SHARH [EXPLANATION]: A kick in the womb: in other narrations means "A kick from Shaitan," meaning that the Shaitan

uses it to confuse her about her religious commitment.

Sunan Kubra Bayhaqi 1640

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذُبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ (١٦٤١)
دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ عَنْ عَبْدِ عَنِ ابْنِ

إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ
جَحْشٍ اسْتُحِيضَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - فَأَمَرَهَا بِالْغُسْلِ
لِكُلِّ صَلَاةٍ. قَالَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ
:عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ
اسْتُحِيضَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ - ﷺ - :اغْتَسِلِي
لِكُلِّ صَلَاةٍ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ عَبْدُ الصَّمَدِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْوَارِثِ
عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ . وَهَذَا وَهَمٌّ مِنْ
عَبْدِ الصَّمَدِ وَالْقَوْلُ قَوْلُ أَبِي الْوَلِيدِ.
قَالَ الشَّيْخُ: وَرَوَايَةُ أَبِي الْوَلِيدِ أَيْضًا غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ. فَقَدْ
رَوَاهُ مُسْلِمٌ بْنُ أَبِرَاهِيمَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ كَمَا رَوَاهُ سَائِرُ
النَّاسِ عَنِ الزُّهْرِيِّ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

كتاب: پاکی کا بیان

(باب) ۲۵: (باب غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ

حدیث نمبر: 1640

:ترجمہ

(۱۶۴۱) الف (سیدہ عائشہ^{رض} سے روایت ہے کہ ام حبیبہ بنت جحش^{رض} نبی^{صلی اللہ علیہ وسلم} کے زمانہ میں مستحاضہ ہو گئیں تو نبی^{صلی اللہ علیہ وسلم}

نے انہیں ہر نماز کے لیے غسل کرنے کا حکم دیا۔
ب (امام ابوداؤد فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ^{رض} سے روایت

ہے کہ زینب بنت جحش^{رض} مستحاضہ ہو گئیں تو انہیں نبی^{صلی اللہ علیہ وسلم} نے فرمایا ہر نماز کے لیے غسل کر۔

ج (امام ابوداؤد سے روایت ہے کہ سلیمان بن کثیر کہتے ہیں: وہ ہر نماز کے لیے غسل کرے۔ یہ عبدالصمد کا وہم

ہے۔
د (شیخ کہتے ہیں: ابو ولید کی روایت محفوظ نہیں۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the ghusl (ritual bath) of a woman suffering from istihadah

Hadith number: 1640

Translation:

(1640) (a) It is narrated from Ayesha that when Umm Habibah bint Jahsh suffered from istihadah during the time of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him), the Prophet ordered her to take bath for every prayer.

(B) Imam Abu Dawud says that it is narrated from Ayesha that Zainab bint Jahsh suffered from istihadah so the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) ordered her to take a bath for every prayer.

(C) It is narrated on the authority of Imam Abu Dawud that Sulayman ibn Katheer said: She should take a bath for every prayer. This is the delusion of Abdul Samad.

(D) Sheikh says: The narration of Abu

Waleed is not safe.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1641

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (١٦٤٢)
 مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي
 الْقَاضِي حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ عَنِ
 الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اسْتَحْيِضَتْ أُخْتُ زَيْنَبِ بِنْتِ
 جَحْشٍ سَبْعَ سِنِينَ فَكَانَتْ تَمَلُّ مِرْكَنَا لَهَا مَاءً ، ثُمَّ تَدْخُلُهُ حَتَّى
 تَعْلُوَ الْمَاءُ حُمْرَةَ الدَّمِ، فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- فَقَالَ لَهَا: ((إِنَّهُ
 لَيْسَ بِحَيْضَةٍ وَلَكِنَّهُ عِرْقٌ، فَاغْتَسِلِي وَصَلِّي)) (-)
 لَيْسَ فِيهِ الْأَمْرُ بِالْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَهَذَا أَوْلَى لِمُوَافَقَتِهِ
 سَائِرِ الرَّوَايَاتِ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَرَوَايَةُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ
 الزُّهْرِيِّ غَلَطٌ لِمُخَالَفَتِهَا سَائِرِ الرَّوَايَاتِ عَنِ الزُّهْرِيِّ
 وَمُخَالَفَتِهَا الرَّوَايَةَ الصَّحِيحَةَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرْوَةَ
 عَنْ عَائِشَةَ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
 كتاب: پاکی کا بیان
 باب: (٢٥) (باب غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
 حديث نمبر: 1641

:ترجمہ

(۱۶۴۲) (سیدہ عائشہ رض سے روایت ہے کہ سیدہ زینب بنت جحش رض کی بہن سات سال مستحاضہ رہیں، وہ اپنا ٹپ پانی سے بھر لیتی تھیں پھر) نہانے کے لیے (داخل ہوتیں تو خون کی سرخی پانی کے اوپر آجاتی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ حیض نہیں بلکہ یہ ایک رگ ہے، غسل کر اور نماز پڑھ (ب) (اس روایت میں ہر نماز کے لیے غسل کا حکم نہیں، یہ امام زہری کی تمام روایات کے موافق ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the ghusl (ritual bath) of a woman suffering from istihadah

Hadith number: 1641

Translation:

(1641) It is narrated on the authority of Ayesha that Zainab bint Jahsh's sister suffered from istihadah for seven years,

she used to fill her tub with water and then when she entered (for bathing) the redness of the blood would float above the water, she asked the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) so he said, "This is not menstruation, rather it is from a blood vessel so take a bath and pray."

(B) This narration does not order her to take a bath for every prayer, it is in accordance with all the traditions of Imam Zuhri.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1642

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بَشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا أَبُو (١٦٤٣)
الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ الْمِصْرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ
عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَإِسْحَاقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ
وَالنَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ قَالُوا حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ جَعْفَرِ
بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عِرَاقِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ : إِنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشِ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ شَكَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - الدَّمَّ فَقَالَ لَهَا
: ((اَمْكُتِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْسُكِي حَيْضَتُكَ ثُمَّ اغْتَسِلِي)) (- قَالَ
فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ مِنْ عِنْدِ نَفْسِهَا -
- فَفِي هَذِهِ الرَّوَايَتَيْنِ الصَّحِيحَتَيْنِ بَيَانٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ -

لَمْ يَأْمُرْ بِهَا بِالْغُسْلِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ، وَإِنَّهَا كَانَتْ تَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْ
عِنْدِ نَفْسِهَا ، فَكَيْفَ يَكُونُ الْأَمْرُ بِالْغُسْلِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ
ثَابِتًا مِنْ حَدِيثِ عُرْوَةَ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
باب: ۲۵ (باب غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
حدیث نمبر: 1642

ترجمہ:

(۱۶۴۳) (سیدہ عائشہ^{رض} سے روایت ہے کہ ام حبیبہ بنت
جحش^{رض} جو عبد الرحمن بن عوف^{رض} کی بیوی تھی، انہوں نے
رسول اللہ^{صلی اللہ علیہ وسلم} سے خون کی شکایت کی تو آپ^{صلی اللہ علیہ وسلم} نے فرمایا:
" اتنی دیر ٹھہری رہ جتنی دیر تجھ کو تیرا حیض روکے "
رکھے، پھر غسل کر۔ " راوی کہتا ہے: وہ اپنی طرف سے
ہر نماز کے وقت غسل کرتی تھی۔
(ب) ان دونوں صحیح روایات میں نبی^{صلی اللہ علیہ وسلم} نے ہر نماز کے
لیے غسل کا حکم نہیں دیا۔ وہ یہ کام اپنی جانب

سے کرتیں۔ تو غسل کا حکم عروہ کی حدیث سے کیسے ثابت ہوگا؟

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the ghusl (ritual bath) of a woman suffering from istihadah

Hadith number: 1642

Translation:

(1642) It is narrated on the authority of Ayesha (may Allah be pleased with her) that Umm Habibah bint Jahsh, the wife of Abdul Rahman bin Awf, complained about blood to the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) who said: "Keep away (from prayer) equal (to the length of time) that your menses prevent you, then take a bath." The narrator says: She used to take a bath on her behalf

for every prayer.

(B) In both of these authentic traditions, the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) did not command taking a bath for every prayer. They used to do it on their own (for their own benefit). So how can the ruling of taking a bath be proved by the hadeeth of Urwah?

[Sahih. Narrated by Bukhari 327 and Muslim 334 and Nasai 203, 204, 205, 211, 357 and Abu Dawud 285, 288 and Ibn Majah 626 and Ahmad 6/83, 141, 187 and Darimi 795]

Sunan Kubra Bayhaqi 1643

Arabic Text:

وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ (١٦٤٤)
جَعْفَرِ الْمُزَكِّي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ
حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ بِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ عَلَى
الْمُسْتَحَاضَةِ إِلَّا أَنْ تَغْتَسِلَ غُسْلًا وَاحِدًا، ثُمَّ تَوَضَّأَ بَعْدَ
ذَلِكَ لِلصَّلَاةِ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان
باب: ۲۵ (باب غُسلِ الْمُسْتَحَاضَةِ)
حدیث نمبر: 1643

:ترجمہ

(۱۶۴۳) (عروہ اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں کہ مستحاضہ پر صرف ایک ہی غسل ہے، پھر اس کے بعد ہر نماز کے لیے وضو کرے گی۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the ghusl (ritual bath) of a woman suffering from istihadah

Hadith number: 1643

Translation:

(1643) Urwah narrates from his father that only one ghusl is obligatory on a woman suffering from istihadah, then she will perform ablution for every prayer after that. [Sahih. Narrated by Malik 2/107]

Sunan Kubra Bayhaqi 1644

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ (١٦٤٥)
الْأَصَمُّ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ فَذَكَرَهُ
بِمِثْلِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: ثُمَّ تَوَضَّأَ بَعْدَ ذَلِكَ لِكُلِّ صَلَاةٍ.
وَرَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ إِسْحَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنِ أَبِيهِ بِمَعْنَاهُ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان
(باب: ۲۵) (باب غُسلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
حدیث نمبر: 1644

ترجمہ:

(۱۶۴۵) مالک نے اس کی مثل بیان کیا ہے مگر وہ کہتے
ہیں: پھر اس کے بعد ہر نماز کے لیے وضو کرے گی۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the ghusl (ritual bath)
of a woman suffering from istihadah

Hadith number: 1644

Translation:

(1644) Malik has given an example of this,
but he says: Then she will perform ablution
for every prayer after that.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1645

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ (١٦٤٦)
إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا عَمْرُو
:بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ لَهَيْعَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَرَى عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ إِلَّا غُسْلًا وَاحِدًا.
وَرَوَيْنَا فِيهَا تَقَدَّمَ عَنْ قَمِيرِ امْرَأَةٍ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ مَا يَدُلُّ
عَلَى بَذَا.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى
كتاب: پاكى كا بيان
باب: ۲۵ (باب غُسلِ المُسْتَحَاضَةِ
حدیث نمبر: 1645

ترجمہ:

(۱۶۴۶) سیدہ عائشہ^{رض} سے منقول ہے کہ وہ مستحاضہ پر
ایک ہی غسل خیال کرتی تھی۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the ghusl (ritual bath)
of a woman suffering from istihadah

Hadith number: 1645

Translation:

(1645) It is narrated from Syeda Ayesha

(may Allah be pleased with her) that she used to consider only one ghusl (to be obligatory) on a woman who suffers from istihadah.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence). Narrated by Darimi 814]

Sunan Kubra Bayhaqi 1646

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ: الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّوَدْبَارِيُّ (١٤٢٧)
:أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْحَجَّاجِ

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَهْلٍ: مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرَوَيْهِ الْمَرْوَزِيُّ أَخْبَرَنَا
ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ َّأَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ خَنْبِ حَد
مُحَمَّدِ بْنِ عَيْسَى حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا
حُسَيْنٌ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ أَخْبَرْتَنِي زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي
سَلَمَةَ: أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهْرَاقُ الدَّمَ وَكَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - أَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ
وَتُصَلِّيَ -

كَذَا رَوَاهُ حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ - وَخَالَفَهُ بِشَامِ الدَّسْتَوَائِي فَأَرْسَلَهُ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

(باب: ۲۵) (باب غُسلِ الْمُسْتَحَاضَةِ

حدیث نمبر: 1646

ترجمہ:

(۱۶۴۷) (سیدنا ابو سلمہ بن عبدالرحمنؓ فرماتے ہیں مجھ کو زینب بنت ابی سلمہ نے خبر دی کہ وہ ایسی عورت تھی جو مسلسل خون بہاتی تھی اور وہ عبد الرحمن بن عوفؓ کی بیوی تھی، رسول اللہ ﷺ نے اس کو حکم دیا کہ وہ ہر نماز کے لیے غسل کرے اور نماز پڑھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the ghusl (ritual bath) of a woman suffering from istihadah

Hadith number: 1646

Translation:

(1646) Abu Salamah ibn Abd al-Rahman says that I was informed by Zainab bint Abi Salamah that she was a woman who

used to bleed constantly and she was the wife of Abd al-Rahman ibn Awf (may Allah be pleased with him). The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) commanded her to take a bath for every prayer and (then) pray.

[Sahih. Narrated by Abu Dawud 275]

Sunan Kubra Bayhaqi 1647

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ أَنْ خَبَرَنَا (١٦٤٨)
أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّفَّارِ حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ : إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا بِشَّامٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْشٍ سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ - قَالَتْ : إِنِّي
أَبْرَأَقُ الدَّمَ فَأَمْرَبَا أَنْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَتُصَلِّيَ -
وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَى فَجَعَلَ الْمُسْتَحَاضَةَ زَيْنَبَ بِنْتَ
أُمِّ سَلَمَةَ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب : پاکی کا بیان
(باب : ۲۵) (باب غُسلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
حدیث نمبر : 1647

: ترجمہ

(۱۶۴۸) (سیدنا ابو سلمہ ^{رض} سے روایت ہے کہ ام حبیبہ بنت جحش ^{رض} نے نبی ^{صلی اللہ علیہ وسلم} سے پوچھا کہ میں مسلسل خون بہاتی ہوں، رسول اللہ ^{صلی اللہ علیہ وسلم} نے انہیں حکم دیا کہ وہ ہر نماز کے لیے غسل کرے اور نماز پڑھے۔
(ب) (اوزاعی نے یحییٰ سے جو روایت نقل کی ہے اس میں مستحاضہ زینب بنت ام سلمہ ^{رض} ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the ghusl (ritual bath) of a woman suffering from istihadah

Hadith number: 1647

Translation:

(1647) It is narrated on the authority of Abu Salamah that Umm Habiba bint Jahsh asked the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) that she was constantly bleeding, the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him)

commanded her to take a bath for every prayer and pray.

(B) In the narration narrated by Awzai from Yahya, it is Zainab bint Umm Salamah who suffered from istihadah.

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1648

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ السُّوسِيُّ قَالَا (١٦٤٩)
حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُثْمَانَ
حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرِ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي
كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ وَعِكرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ
- أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ كَانَتْ تَعْتَكِفُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -
وَبِي تَهْرِيقِ الدَّمِّ ، فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - أَنْ تَغْتَسِلَ لِكُلِّ
صَلَاةٍ -
وَرُوِيَ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ عِكرِمَةَ بِخِلَافِ هَذَا.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى
كتاب: پاکی کا بیان
باب: ۲۵ (باب غُسلِ الْمُسْتَحَاضَةِ)
حدیث نمبر: 1648

:ترجمہ

(۱۶۴۹) (سیدنا ابو سلمہ اور عکرمہ نقل فرماتے ہیں کہ سیدہ زینب بنت ام سلمہ رض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طغری کے ساتھ اعتکاف کرتی تھیں اور وہ مسلسل خون بہاتی تھیں، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ ہر نماز کے لیے غسل کرے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the ghusl (ritual bath) of a woman suffering from istihadah

Hadith number: 1648

Translation:

(1648) Abu Salamah and Ikrimah narrate that Zainab bint Umm Salamah used to observe itikaaf with the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) and she used to bleed constantly, the Prophet (peace and blessings of Allah be upon

him) ordered her to take a bath for every
prayer.
[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1649

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ (١٦٥٠)

بُنِ اسْحَاقَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى
 أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَشْرِ عَنْ عِكْرَمَةَ: أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ
 جَحْشٍ اسْتَحِيضَتْ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ - فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَظِرَ أَيَّامَ
 أَقْرَابِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّيَ ، فَإِذَا رَأَتْ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئًا تَوَضَّأَتْ
 وَاسْتَنْفَرَتْ ، وَاحْتَشَتْ وَصَلَّتْ .

وَبَدَا أَيْضًا مُنْقَطِعُ أَقْرَبُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي بَابِ الْغُسْلِ
 وَحَدِيثُ عَائِشَةَ مِنَ الْوَجْهِ الثَّابِتِ عَنْهَا أَوْلَى أَنْ يَكُونَ صَحِيحًا .
 وَقَدْ رُوِيَ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : أَنَّهَا تَغْتَسِلُ
 غُسْلًا وَاحِدًا ثُمَّ تَتَوَضَّأُ وَهُوَ لَا يُخَالِفُ النَّبِيَّ ﷺ - فِيمَا يَرَوِيهِ
 عَنْهُ .

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 (باب: ۲۵) (باب غُسلِ الْمُسْتَحَاضَةِ)
 حدیث نمبر: 1649

ترجمہ:

(۱۶۵۰) (سیدنا عکرمہ سے روایت ہے کہ سیدہ ام حبیبہ

بنت جحشؓ مستحاضہ ہوگئیں، انہوں نے نبی ﷺ سے سوال کیا تو آپ ﷺ نے انہیں حکم دیا کہ اپنے حیض کے دنوں میں انتظار کرے، پھر غسل کرے اور نماز پڑھے، اگر اس کے بعد کوئی چیز دیکھے تو وضو کرے اور لنگوٹ باندھے، تنہائی اختیار کرے اور نماز پڑھے۔ (یہ روایت منقطع ہے اور سیدہ عائشہؓ کی حدیث کے قریب ہے جو باب الغسل میں ہے اور سیدہ عائشہؓ کی حدیث سند سے ثابت ہے۔ اولیٰ ہے کہ وہ صحیح ہو۔ ابو سلمہ بن عبدالرحمن کی روایت میں ہے کہ وہ ایک غسل کرتی تھیں، پھر وضو کرتیں اور یہ نبی ﷺ کی روایت کے مخالف نہیں ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the ghusl (ritual bath) of a woman suffering from istihadah

Hadith number: 1649

Translation:

(1649) It is narrated on the authority of

Ikrimah that Umm Habibah bint Jahsh suffered from istihadah, she asked the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) and he commanded her to stop (praying) during the days of her menstruation, then take a bath and pray, if she sees something after that (e.g. discharge), she should perform ablution and tie a waist-wrapper, separate herself and pray.

(B) This narration is disconnected and is similar to the hadith of Ayesha which is (mentioned in) the chapter of ghusl and the hadith of Ayesha is proven by its chain of transmission. Firstly, the hadith should be saheeh. According to the narration of Abu Salma ibn Abdul Rahman, she used to take a bath once, then she would perform ablution and this does not go against the narration of the Prophet (peace and

blessings of Allah be upon him).

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1650

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ (١٦٥١)

إِسْحَاقُ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ
أَبِيهِ قَالَ: تَغْتَسِلُ غُسْلًا وَاحِدًا ثُمَّ تَتَوَضَّأُ.
وَرُوي فِي ذَلِكَ مِنْ وَجْهِ آخَرَ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان
(باب: ۲۵) (باب غُسلِ الْمُسْتَحَاضَةِ)
حدیث نمبر: 1650

:ترجمہ

(۱۶۵۱) (ابو سلمہ اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں کہ وہ ایک
ہی غسل کرے گی پھر وضو کرے گی۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the ghusl (ritual bath)
of a woman suffering from istihadah

Hadith number: 1650

Translation:

(1650) Abu Salamah narrates from his father that she will only take a bath once and then perform ablution.

[Hasan (Fair)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1651

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا (١٦٥٢)
أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّفَّارِ حَدَّثَنَا الْمُجَوِّزُ يَعْنِي الْحَسَنَ بْنَ سَهْلٍ
حَدَّثَنَا عَاصِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ
أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ امْرَأَةً اسْتُحِيضَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ
ﷺ - فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ ﷺ - أَنْ تُوَخَّرَ الظُّهْرَ وَتُعَجَّلَ العَصْرَ -
وَتَغْتَسِلَ لَهَا غُسْلًا ، وَالمَغْرِبَ وَالعِشَاءَ تُعَجَّلَ بِهِ
وَتُوَخَّرَ بِهِ وَتَغْتَسِلَ لَهَا غُسْلًا -
وَهَكَذَا رَوَاهُ أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ الفَقِيهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَهْلٍ بْنِ
عَبْدِ العَزِيزِ وَهُوَ غَلَطٌ مِنْ جِهَةِ الْحَسَنِ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب : پاکی کا بیان
باب (: ٢٥) (باب غُسْلِ المُسْتَحَاضَةِ
حديث نمبر : 1651

: ترجمہ

(۱۶۵۲) (سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی ﷺ کے زمانہ میں مستحاضہ ہوگئی، اسے نبی ﷺ نے حکم دیا کہ ظہر کو مؤخر کر دے اور عصر جلدی پڑھ اور ان دونوں کے لیے ایک غسل کر لے اور مغرب کو مؤخر کر اور عشاء کو جلدی پڑھ اور ان دونوں کے لیے ایک غسل کر لے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the ghusl (ritual bath) of a woman suffering from istihadah

Hadith number: 1651

Translation:

(1651) It is narrated on the authority of Ayesha that a woman suffered from istihadah during the time of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him), the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) commanded her to

postpone Zuhr and pray Asr early and take a bath once for both of them and postpone Maghrib and pray Isha early and take a bath once for both of them.

[Sahih. Narrated by Nasai 214, 360 and Abu Dawud 294 and Darimi 798]

Sunan Kubra Bayhaqi 1652

Arabic Text:

فَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ (١٦٥٣)
إِسْحَاقَ الْفَقِيهَ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ
حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
-عَائِشَةَ: أَنَّ امْرَأَةً اسْتُحِيضَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ -
فَأَمَرَتْ أَنْ تُؤَخَّرَ الظُّهْرَ ، وَتُعَجَّلَ العَصْرَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلًا
وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ تُؤَخَّرَ بِهِ وَتُعَجَّلَ بِهِ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا غُسْلًا ،
وَتَغْتَسِلَ لِلصُّبْحِ غُسْلًا -
وَبَكَذَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ شُعْبَةَ وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ امْتِنَاعَ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ مَنْ رَفَعَ الْحَدِيثَ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى
كتاب: پاکی کا بیان
باب: ۲۵ (باب غُسلِ المُسْتَحَاضَةِ)
حدیث نمبر: 1652

ترجمہ:

(۱۶۵۳) (سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی

ﷺ کے زمانہ میں مستحاضہ ہوگئی، اس کو حکم دیا گیا کہ ظہر کو مؤخر کر اور عصر کو جلدی کر اور ان دونوں کے لیے ایک غسل کرلے اور مغرب کو مؤخر کر اور عشاء جلدی پڑھ اور ان دونوں کے لیے ایک غسل کرلے اور صبح کے لیے ایک غسل کر۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the ghusl (ritual bath) of a woman suffering from istihadah

Hadith number: 1652

Translation:

(1652) It is narrated on the authority of Ayesha that a woman suffered from istihadah during the time of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him), the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) commanded her to postpone Zuhr and pray Asr early and take

a bath once for both of them and postpone Maghrib and pray Isha early and take a bath once for both of them and to take a bath (separately) for the dawn (prayer).

[Sahih. Narrated by Nasai 214, 360 and Abu Dawud 294 and Darimi 798]

Sunan Kubra Bayhaqi 1653

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورِكَ أَخْبَرَنَا (١٦٥٤)
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ
الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اسْتُحِيضَتْ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -
فَأَمَرْتُ. قُلْتُ: مَنْ أَمَرَهَا النَّبِيُّ - ﷺ؟ قَالَتْ: لَسْتُ أُحَدِّثُكَ
عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ. شَيْئًا. قَالَتْ: فَأَمَرْتُ أَنْ تُؤَخَّرَ الظُّهْرَ وَتُعَجَّلَ
العَصْرَ وَتُغْتَسَلَ لهُمَا غُسْلًا وَاحِدًا، وَتُؤَخَّرَ المَغْرِبَ وَتُعَجَّلَ
العِشَاءُ وَتُغْتَسَلَ لهُمَا غُسْلًا وَتُغْتَسَلَ لِلصُّبْحِ غُسْلًا.
وَرَوَاهُ مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ شُعْبَةَ وَفِيهِ قَالَ فَقُلْتُ لِعَبْدِ
-الرَّحْمَنِ: عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ؟ فَقَالَ: لَا أُحَدِّثُكَ عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ.

بِشَيْءٍ -

وَكَذَلِكَ قَالَ النُّضْرُ بْنُ شَمِيلٍ عَنْ شُعْبَةَ -
وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَخَالَفَ
شُعْبَةَ فِي رَفْعِهِ وَسَمَّى المُسْتَحَاضَةَ -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

کتاب: پاکی کا بیان

(باب: ۲۵) (باب غُسلِ الْمُسْتَحَاضَةِ

حدیث نمبر: 1653

:ترجمہ

(۱۶۵۴) (سیدہ عائشہ رض سے روایت ہے کہ نبی ﷺ کے زمانہ میں ایک عورت مستحاضہ ہوگئی، اس کو حکم دیا گیا۔ میں نے پوچھا: کیا اس کو نبی ﷺ نے حکم دیا؟ انہوں نے کہا: میں تجھ کو نبی ﷺ سے کچھ بھی بیان نہیں کروں گی۔ پھر فرمایا: اسے حکم دیا گیا کہ ظہر کو مؤخر کر دے اور عصر کو جلدی ادا کرے اور ان دونوں کے لیے ایک غسل کر لے اور مغرب کو مؤخر کر دے اور عشاء کو جلدی ادا کر لے اور ان دونوں کے لیے ایک غسل کر لے اور صبح کے لیے ایک غسل کرے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the ghusl (ritual bath) of a woman suffering from istihadah

Hadith number: 1653

Translation:

(1653) It is narrated from Ayesha that during the time of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) a woman suffered from istihadah, she was given an order. I asked: Did the Prophet order it? She said: I can not narrate to you anything from the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him). Then she said: She was ordered to postpone Zuhr and pray Asr early and take a bath once for both of them and postpone Maghrib and pray Isha early and take a bath once for both of them and to take a bath (separately) for the dawn (prayer).

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1654

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ (١٦٥٥)
إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا بَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا
عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوْذِبَارِيُّ أَخْبَرَنَا
أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى
حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ سَهْلَةَ بِنْتَ
سُهَيْلٍ اسْتُحْبِضَتْ فَأَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ - فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ
صَلَاةٍ ، فَلَمَّا جَهَدَهَا ذَلِكَ أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ
بِغُسْلٍ وَالْمَغْرَبِ

وَالْعِشَاءِ بِغُسْلٍ وَتَغْتَسِلُ لِلصُّبْحِ. لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي عَلِيٍّ -
وَفِي حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّمَا هِيَ سَهْلَةٌ
بِنْتُ سَهْلٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - كَانَ يَأْمُرُهَا بِالْغُسْلِ عِنْدَ كُلِّ
صَلَاةٍ ، فَلَمَّا شَقَّ عَلَيْهَا أَمْرُهَا الْحَدِيثَ -

قَالَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ بَعْضُ مَشَائِخِنَا: لَمْ يُسْنَدْ بِذَا
الْخَبَرِ غَيْرُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ وَشُعْبَةَ لَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ - ﷺ - وَأَنْكَرَ
أَنْ يَكُونَ الْخَبَرُ مَرْفُوعًا وَخَطَّأَهُ أَيْضًا فِي تَسْمِيَةِ
الْمُسْتَحَاضَةِ -

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدْ اختلفت الرواة في إسناد هذا الخبر -
قال الشيخ رحمه الله تعالى: فرواه شعبة ومحمد بن إسحاق
كما مضى -

ورواه ابن عيينة فأرسله إلا أنه وافق محمدًا في رفعه -

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

كتاب: پاکی کا بیان

باب: ۲۵ (باب غُسلِ الْمُسْتَحَاضَةِ)

حدیث نمبر: 1654

:ترجمہ

(۱۶۵۵) (الف) (سیدہ عائشہ رض سے روایت ہے کہ سہلہ بنت سہل مستحاضہ ہوگئیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ ہر نماز کے لیے غسل کرے، جب انہوں نے اس کی کوشش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ ایک غسل سے ظہر اور عصر ادا کر لے اور مغرب اور عشاء ایک غسل سے اور صبح کے لیے الگ غسل کرے۔

(ب) (سیدہ عائشہ رض سے روایت ہے کہ سہلہ بنت سہل رض کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے لیے غسل کا حکم دیا تھا جب ان پر یہ مشکل ہوگیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا۔۔۔

(ج) (ابوبکر بن اسحاق کہتے ہیں کہ ہمارے بعض مشائخ کا کہنا ہے: محمد بن اسحاق کے علاوہ اس حدیث کو کوئی نہیں نہیں بیان کرتا، امام شعبہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو نقل نہیں کیا اور اس کے مرفوع ہونے کا انکار کیا ہے اور مستحاضہ کے نام کو بھی غلط قرار دیا ہے۔

(د) (امام ابوبکر کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند کے راویوں میں اختلاف ہے۔

(ر) (شیخ) رح (فرماتی ہیں: اس کو شعبہ اور محمد

بن اسحاق نے نقل کیا ہے جیسے پیچھے گزر چکا ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the ghusl (ritual bath)
of a woman suffering from istihadah

Hadith number: 1654

Translation:

(1654) (a) It is narrated on the authority of Ayesha (may Allah be pleased with her) that Sahla bint Sahl suffered from istihadah, the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) commanded her to take a bath for every prayer. When she tried to do it, the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) commanded her to take one bath for Zuhr and Asr and one bath for Maghrib and Isha and to take a bath

(separately) for the dawn (prayer).

(B) It is narrated on the authority of Ayesha that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) ordered Sahla bint Sahl to take a bath for every prayer but when it became difficult for her, he ordered her to...

(C) Abu Bakr ibn Ishaq says that some of our shaykhs say: No one narrates this hadith except Muhammad ibn Ishaq. Imam al-Shubah did not narrate this hadith from the Prophet and denied that it was a marfu hadith and also declared the name of the woman suffering from istihadah to be wrong.

(D) Imam Abu Bakr says that there is a difference of opinion on the narrators of this hadith.

(E) Shaykh (may Allaah have mercy on him) says: It has been narrated by Shu'ba and Muhammad ibn Ishaq as it has been narrated before.

[Daif (Weak). Narrated by Abu Dawud 295 and Ahmad 6/119, 139]

Sunan Kubra Bayhaqi 1655

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ (١٦٥٦)
إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ امْرَأَةً
مِنَ الْمُسْلِمِينَ اسْتُحِيضَتْ فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - الْحَدِيثَ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان
(باب: ۲۵) (باب غُسلِ الْمُسْتَحَاضَةِ)
حدیث نمبر: 1655

:ترجمہ

(۱۶۵۶) (عبد الرحمن بن قاسم اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں
کہ ایک مسلمان عورت مستحاضہ ہو گئی، اس نے رسول اللہ
ﷺ سے سوال کیا۔۔۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the ghusl (ritual bath)
of a woman suffering from istihadah

Hadith number: 1655

Translation:

(1655) Abd al-Rahman ibn Qasim narrates from his father that a Muslim woman suffered from istihadah. She asked the Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him)...

[Daif (Weak)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1656

Arabic Text:

وَرُوِيَ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ (١٦٥٧)
أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ -
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ أَنْ خَبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ
أَحْمَدَ الطَّبْرَانِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ حَدَّثَنَا نُعَيْمُ
بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنِي سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ
قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - لِحَمْنَةَ فَقُلْتُ: إِنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ -
فَقَالَ لِيَتَجَلَّسْ أَيَّامَ أَفْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلْ ، وَتُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلُ
العَصْرَ فَتَغْتَسِلْ وَتُصَلِّيَ ، وَتُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلُ العِشَاءَ
وَتَغْتَسِلُ وَتُصَلِّيهِمَا وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ -
وَرُوِيَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ مِنْ وَجْهِ آخَرَ -

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

(باب: ۲۵) (باب غُسلِ الْمُسْتَحَاضَةِ

حدیث نمبر: 1656

:ترجمہ

(۱۶۵۷) (سیدہ زینب بنت جحش^{رض} سے روایت ہے کہ میں نے

رسول اللہ ﷺ سے حمنہ^{رض} کے متعلق سوال کیا کہ وہ

مستحاضہ ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ اپنے حیض کے دنوں

میں بیٹھی رہے، پھر غسل کرے اور ظہر کو مؤخر کر دے

اور عصر کو جلدی ادا کر لے اور مغرب کو مؤخر کر دے

اور عشاء کو جلدی ادا کر لے اور غسل کرے اور نماز

پڑھے اور فجر کے لیے ایک غسل کرے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the ghusl (ritual bath)
of a woman suffering from istihadah

Hadith number: 1656

Translation:

(1656) It is narrated on the authority of Zainab bint Jahsh that I asked the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) about Hamnah that she suffered from istihadah. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: She should refrain (praying) during her menstrual period, then take a bath and postpone Zuhr and perform Asr early and postpone Maghrib, and perform Isha early and take a bath and pray and take a bath once for Fajr.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence). Narrated by Al-Tabarani 145]

Sunan Kubra Bayhaqi 1657

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرَّوَدْبَارِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ (١٦٥٨)
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ

(ح) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ
إِسْحَاقَ الْفَقِيهَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ
بْنُ بِيَانٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ وَفِي
حَدِيثِ أَبِي عَلِيٍّ عَنْ أَسْمَاءِ بِنْتِ عُمَيْسٍ وَفِي حَدِيثِ أَبِي
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَسْمَاءِ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ -

وَرِوَايَةُ أَبِي عَلِيٍّ أَصَحُّ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ
فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ اسْتَحِيضَتْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ

تُصَلِّ- فَقَالَ)) :سُبْحَانَ اللَّهِ بِذَا مِنْ الشَّيْطَانِ ، لِتَجْلِسَ فِي
 مِرْكَنٍ ((.- فَجَلَسَتْ فِيهِ حَتَّى رَأَيْنَا الصَّفَارَةَ فَوْقَ الْمَائِ-
 فَقَالَ (:)) تَغْتَسِلُ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا وَاحِدًا ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ
 لِلْمَغْرَبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلًا وَاحِدًا ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ غُسْلًا وَاحِدًا
 ، ثُمَّ تَتَوَضَّأُ مَا بَيْنَ ذَلِكَ ((.- لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ،
 وَفِي حَدِيثِ أَبِي عَلِيٍّ)) :لِتَجْلِسَ فِي مِرْكَنٍ فَإِذَا رَأَتْ
 صَفَارَةَ فَوْقَ الْمَائِ فَلْتَغْتَسِلْ ((.- وَذَكَرَهُ.- بِكَذَا رَوَاهُ سَهِيلُ بْنُ
 أَبِي صَالِحٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ ، وَاخْتَلَفَ فِيهِ عَلَيْهِ
 وَالْمَشْهُورُ رَوَايَةُ الْجُمْهُورِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ
 عَائِشَةَ فِي شَأْنِ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ كَمَا مَضَى.- وَرَوَى فِي
 ذَلِكَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ.-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
 كتاب: پاکی کا بیان
 باب: ۲۵ (باب غُسلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
 حديث نمبر: 1657

:ترجمہ

(۱۶۵۸) میرے والد حضرت علیؓ کی روایت زیادہ صحیح ہے۔ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! فاطمہ بنت ابی حبیشؓ اتنے عرصے سے مستحاضہ ہے اور اس نے نماز نہیں پڑھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: "سبحان اللہ! یہ شیطان کی طرف سے ہے، اسے کہو ٹپ میں بیٹھے، وہ بیٹھی یہاں تک کہ ہم نے زردی پانی کے اوپر دیکھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ظہر اور عصر کے لیے ایک غسل کرے، پھر مغرب اور عشاء کے لیے ایک غسل کرے، پھر فجر کے لیے ایک غسل کرے اور اس کے درمیان وضو کرے۔" اور میرے والد علی کی حدیث میں ہے کہ ٹپ میں بیٹھے جب پانی کے اوپر زردی دیکھتو غسل کرے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the ghusl (ritual bath) of a woman suffering from istihadah

Hadith number: 1657

Translation:

(1657) She said: I said: O Messenger of Allah! Fatima bint Abi Habish has suffered from istihadah for so long and she has not prayed. He said: Glory be to Allah! This comes from the devil. She should sit in a tub. She sat until we saw the yellowness on top of the water. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: She should take a bath once for the Zuhr and Asr prayer, and take another bath for the Maghrib and Isha prayers, and take a bath once for the fajr prayer, and in between times she should perform ablution.

And it is in the hadith of my father Ali that she should sit in the tub and when she sees the yellowness on top of the water, she should take a bath.

[Sahih. Narrated by Abu Dawud 296]

Sunan Kubra Bayhaqi 1658

Arabic Text:

:أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ (١٦٥٩)
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ تَمِيمِ الْقَنْطَرِيِّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا أَبُو قِلَابَةَ
الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمِ النَّبِيلُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعْدِ
الْقُرَشِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: جَاءَتْ خَالَتِي فَاطِمَةُ
بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَقَعَ فِي النَّارِ
إِنِّي أَدْعُ الصَّلَاةَ السَّنَّةَ وَالسَّنَتَيْنِ لَا أَصَلِّي. فَقَالَتْ: انْتِظِرِي ،
حَتَّى يَجِيئَ النَّبِيُّ ﷺ - فَجَاءَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: بِهِ فَاطِمَةُ تَقُولُ
- كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ -

قُولِي لَهَا فَلْتَدَعِ الصَّلَاةَ فِي كُلِّ شَهْرٍ أَيَّامَ قُرْبَيْهَا ، ثُمَّ)) :
لِتَغْتَسِلَ فِي كُلِّ يَوْمٍ غُسْلًا وَاحِدًا ، ثُمَّ الطُّهُورُ عِنْدَ كُلِّ
صَلَاةٍ وَلِتُنَظِّفَ وَلِتَحْتَشِي فَإِنَّمَا هُوَ دَائِي عَرَضٌ أَوْ رَكْعَةٌ مِنَ
الشَّيْطَانِ أَوْ عِرْقٌ انْقَطَعَ))-

وَرَوَاهُ عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ عَنْ أَبِي عَاصِمٍ كَذَلِكَ وَقَالَ)) : ثُمَّ
الطُّهُورُ بَعْدَ لِكُلِّ صَلَاةٍ))- (وَخَالَفَهُ غَيْرُهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعْدٍ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب : پاکی کا بیان

(باب : ۲۵) (باب غُسْلِ الْمُسْتَحَاذَةِ

حدیث نمبر : 1658

:ترجمہ

(۱۶۵۹) (الف) ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں کہ میری خالہ
فاطمہ بنت ابی حبیب رضی اللہ عنہا کے پاس آئیں اور کہا :
میں ڈرتی ہوں کہ کہیں جہنم میں نہ چلی جاؤں۔ میں نے سال،
دو سال سے نماز چھوڑ رکھی ہے میں نہیں پڑھ سکی۔ انہوں
نے کہا : تو انتظار کر یہاں تک

کہ نبی ﷺ تشریف لائیں، آپ ﷺ تشریف لائے تو عائشہؓ نے کہا: یہ فاطمہ ہے، اس طرح کہہ رہی ہے، نبی ﷺ نے انہیں فرمایا: اسے کہہ دو کہ ہر مہینے اپنے حیض کے دنوں میں نماز چھوڑ دے، پھر ہر روز غسل کرے پھر وضو کرے، ہر نماز کے وقت صفائی کرے اور تنہائی اختیار کرے اسے وہ بیماری ہے جو شیطان کی طرف سے چوکا ہے یا رگ کٹ گئی ہے۔

(ابو عاصم سے اسی طرح منقول ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: پھر اس کے بعد ہر نماز کے لیے وضو کرے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the ghusl (ritual bath) of a woman suffering from istihadah

Hadith number: 1658

Translation:

(1658) (a) Ibn Abi Malika says that my aunt Fatima bint Abi Habish came to Ayesha and said: I am afraid that I may go

to hell. I haven't prayed for a year or two and I couldn't pray. She said: Wait till the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) comes. When he arrived, Ayesha said: This is Fatima. She is saying so and so, the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said to her: Tell her to stop praying on the days of her menstrual period every month, then take a bath every day, then perform ablution, clean herself for every prayer, and separate herself, she has the disease that is caused by the devil or the blood vessel is cut.

(B) It is narrated from Abu Asim that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: Then perform ablution for every prayer after that.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence). Narrated by Hakim

Sunan Kubra Bayhaqi 1659

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ (١٦٦٠)
أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَّارَةَ أَخْبَرَنَا أَبُو
عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ
خَالَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ أَبِي حُبَيْشٍ: أَنَّهَا

اسْتَحَاضَتْ فَأَتَتْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهَا ، فَدَخَلَ
 النَّبِيُّ ﷺ - فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ فَاطِمَةُ ذَكَرَتْ أَنَّهَا تُسْتَحَاضُ -
 فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ - (: قُولِي لِفَاطِمَةَ تُمْسِكُ عَنِ الصَّلَاةِ فِي كُلِّ
 شَهْرٍ عَدَدَ أَقْرَائِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْرِضَ لَهَا بَدَأُ ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ غَسْلَةً وَاحِدَةً
 ثُمَّ الطُّهْرُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ) (.) ،

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب : پاکی کا بیان
 باب : ۲۵ (باب غُسلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
 حدیث نمبر : 1659

:ترجمہ

(۱۶۶۰) (ابن ابی ملیکہ اپنی خالہ فاطمہ بنت ابی حبیش^{رض} سے
 روایت کرتے ہیں کہ وہ مستحاضہ ہوئی اور ام المؤمنین سیدہ
 عائشہ^{رض} کے پاس آئیں اور اپنی بیماری کا تذکرہ کیا نبی ﷺ
 !تشریف لائے تو آپ^{رض} نے عرض کیا : اے اللہ کے رسول
 فاطمہ نے (اس اس طرح (ذکر کیا ہے وہ استحاضہ والی
 ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا : فاطمہ

سے کہو: اور اپنی حیض کی گزشتہ عادت کے مطابق نماز پڑھے، پھر ایک دفعہ غسل کرے، پھر ہر نماز کے لیے وضو۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the ghusl (ritual bath) of a woman suffering from istihadah

Hadith number: 1659

Translation:

(1659) Ibn Abi Malika narrates from his aunt Fatimah bint Abi Habish that she suffered from istihadah and came to Umm Al-Mu'minin Ayesha (may Allah be pleased with her) and mentioned her illness. When the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) came, she said: O Messenger of Allah! Fatima has mentioned that she suffers from istihadah. The

Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: Tell Fatima to pray according to her previous habit of when she menstruated, then take a bath once, then perform ablution for every prayer.
[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1660

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ أَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ (١٦٦١)
حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ: أَحْمَدُ بْنُ
الْمِقْدَامِ. قَالَ عَلِيُّ وَحَدَّثَنَا أَبُو ذَرٍّ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي
بَكْرٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَنبَسَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
بْنُ بَكْرِ الْبُرْسَانِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعْدِ الْكَاتِبِ أَخْبَرَنِي
ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ -
وَفِي حَدِيثِ أَبِي الْأَشْعَثِ أَنَّ خَالَتَهُ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ
اسْتُحِيضَتْ فَلَبِثَتْ زَمَانًا لَا تُصَلِّي ، فَأَتَتْ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ
عَائِشَةَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهَا فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ - ، فَقَالَتْ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ، فَاطِمَةُ ذَكَرَتْ أَنَّهَا تُسْتَحَاضُ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ -
قُولِي لِفَاطِمَةَ تُمْسِكُ فِي كُلِّ شَهْرٍ عَدَدَ فَرْسَخٍ قَبْلَ أَنْ يَعْرِضَ)) :
لَهَا هَذَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ غَسْلَةً وَاحِدَةً ، ثُمَّ الطَّهْرُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ ((-).

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب: پاکی کا بیان

باب (۲۵) (باب غُسلِ الْمُسْتَحَاضَةِ

حدیث نمبر : 1660

ترجمہ:

(۱۶۶۱) (أبی الاشعث کی حدیث میں ہے کہ ان کی خالہ فاطمہ بنت اُبی حبیشؓ مستحاضہ ہوگئیں اور ایک عرصہ ٹھہری رہیں، وہ نماز نہیں پڑھتی تھیں، وہ ام المؤمنین عائشہؓ کے پاس آئیں اور ان سے ذکر کیا۔ نبی ﷺ تشریف لائے تو سیدہ عائشہؓ نے کہا : اے اللہ کے رسول ! فاطمہ نے ذکر کیا ہے کہ وہ مستحاضہ ہوگئی۔ نبی ﷺ نے فرمایا : فاطمہ کو کہو : ہر ماہ میں اپنے حیض کی گنتی میں نماز سے رکی رہے استحانہ آنے پر ایک دفعہ غسل کرے پھر ہر نماز کے لیے وضو کرے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the ghusl (ritual bath) of a woman suffering from istihadah

Hadith number: 1660

Translation:

(1660) It says in the hadith of Abi Al-Ash'ath, his aunt Fatimah bint Abi Habish suffered from istihadah and waited for a while for a while and she didn't pray. She went to Umm Al-Mu'minin Ayesha (may Allah be pleased with her) and mentioned it to her. When the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) came, Ayesha said: O Messenger of Allah! Fatima mentioned that she suffers from istihadah. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: Tell Fatima: Stop praying every month during the days of your menstruation, then when you suffer from istihadah (after this), take a bath once and perform ablution for every prayer. [Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1661

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ الْحَارِثِ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ (١٦٦٢)
الْحَافِظُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ : أَحْمَدُ
بْنُ الْمُقْدَامِ. قَالَ عَلِيُّ وَحَدَّثَنَا أَبُو ذَرٍّ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي
بَكْرٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَنبَسَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعْدِ الْكَاتِبِ أَخْبَرَنِي ابْنُ
أَبِي مُلَيْكَةَ : أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ وَفِي حَدِيثِ أَبِي
الْأَشْعَثِ أَنَّ خَالَتَهُ فَاطِمَةَ بِنْتَ

أَبِي حُبَيْشٍ اسْتَحِيضَتْ فَلَبِثَتْ زَمَانًا لَا تُصَلِّي ، فَأَتَتْ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ
عَائِشَةَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهَا وَذَكَرَتْ قِصَّةً قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
ﷺ ((:قَوْلِي لِفَاطِمَةَ تُمْسِكُ فِي كُلِّ شَهْرٍ عَنِ الصَّلَاةِ عَدَدَ-
، قُرْبِهَا فَإِذَا مَضَتْ تِلْكَ الْأَيَّامُ فَلْتَغْتَسِلْ غَسْلَةً وَاحِدَةً
، تَسْتَدْخِلُ وَتُنْظِفُ وَتَسْتَنْفِرُ ثُمَّ الطُّهُورُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ وَتُصَلِّي
فَإِنَّ الَّذِي أَصَابَهَا رَكُضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ أَوْ عِرْقٌ انْقَطَعَ أَوْ
دَائِيٌّ عَرَضَ لَهَا))-

قَالَ عُمَانُ بْنُ سَعْدٍ فَسَأَلْتُ بِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ فَأَخْبَرَنِي بِنَحْوِهِ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ-

قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَرَوَى عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ
عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ مَعْنَى الرَّوَايَةِ الثَّانِيَةِ عَنْ
، عُمَانِ بْنِ سَعْدٍ (ج (وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ غَيْرُ مُحْتَجِّ بِهِ
وَ عُمَانُ بْنُ سَعْدٍ الْكَاتِبُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ، كَانَ يَحْيَى بْنُ
سَعِيدٍ وَيَحْيَى بْنُ مَعِينٍ يُضَعِّفَانِ أَمْرَهُ. وَرَوَى فِي ذَلِكَ عَنْ
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکى کا بیان

باب (: ۲۵) (باب غُسلِ الْمُسْتَحَاضَةِ

ترجمہ:

(۱۶۶۲) ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حبیش اور ابی الاشعث کی حدیث میں ہے کہ ان کی خالہ فاطمہ بنت ابی حبیشؓ مستحاضہ ہو گئیں، وہ ایک لمبا عرصہ ٹھہری رہیں اور نماز نہیں پڑھتی تھیں، وہ ام المومنین عائشہؓ کے پاس آئیں اور ان سے سارا قصہ بیان کیا، سیدہ عائشہؓ فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: فاطمہ سے کہو: اپنے حیض کی گنتی میں ہر ماہ نماز پڑھنے سے رکی رہے، جب یہ دن گذر جائیں تو وہ ایک دفعہ غسل کرے اور صفائی کرے اور لنگوٹ باندھے، پھر ہر نماز کے لیے وضو کرے اور نماز پڑھے۔ اس کو شیطان کی طرف سے چوکا پہنچا ہے یا رگ کٹ گئی ہے یا بیماری پیش آگئی ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the ghusl (ritual bath) of a woman suffering from istihadah

Hadith number: 1661

Translation:

(1661) Ibn Abi Malika says that it is narrated in the hadith of Fatima bint Abi Habish and Abi Al-Ash'ath that her aunt Fatimah bint Abi Habish suffered from istihadah. She stayed for a long time and did not offer prayers. She went to Umm Al-Mumineen Ayesha (may Allah be pleased with her) and told her the whole story. Ayesha said: The Messenger of Allah (peace and blessings of Allah be upon him) said: Tell Fatima: Refrain from praying every month during the days of her menstruation. When these days have passed, she should take a bath and clean (herself) once and tie a waist-wrapper, then perform ablution for every prayer and pray. She has been kicked by the devil or her blood vessel has been cut or she has

contracted a disease.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1662

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ (١٦٦٣)
عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا قَطْنُ

بْنُ نُسَيْرِ الْغُبَرِيِّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ
 عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ: أَنَّ فَاطِمَةَ
 بِنْتَ قَيْسٍ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ
 كَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ ((تَقْعُدُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ فِي كُلِّ يَوْمٍ
 عِنْدَ كُلِّ طُهُورٍ وَتُصَلِّي)) (-)
 وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهَّرٍ عَنْ جَعْفَرٍ - وَقَالَ
 وَبَيَّانُ بْنُ بَقِيَّةٍ: تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
 کتاب: پاکی کا بیان
 (باب: ۲۵) (باب غُسلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
 حدیث نمبر: 1662)

:ترجمہ

(۱۶۶۳) (سیدنا جابر بن عبد اللہ انصاری^{رض} سے روایت ہے کہ
 فاطمہ بنت قیس^{رض} نے رسول اللہ ﷺ سے مستحاضہ عورت کے
 متعلق سوال کیا کہ وہ کیسے کرے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اپنے
 حیض کے دنوں میں بیٹھی رہے، پھر ہر دن ہر وضو کے
 وقت غسل کرے اور نماز پڑھے۔)

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the ghusl (ritual bath) of a woman suffering from istihadah

Hadith number: 1662

Translation:

(1662) It is narrated on the authority of Jabir bin Abdullah Ansari that Fatima bint Qais asked the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) about a woman who suffers from istihadah and how to do it? The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: Refrain (praying) during your menstrual period, then she should take a bath at the time of every ablution every day and pray.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence). Narrated by Al-

Sunan Kubra Bayhaqi 1663

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ (١٦٦٤)
إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا وَهْبَانُ بْنُ بَقِيَّةَ حَدَّثَنَا
جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ
سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ

فَقَالَ ((:تَقْعُدُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ طَهْرٍ ثُمَّ
تَحْتَسِي ثُمَّ تُصَلِّي))-

قَالَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ :جَعَفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ فِيهِ نَظْرٌ ، وَلَا
يُعْرَفُ بِذَا الْحَدِيثِ لِابْنِ جُرَيْجٍ وَلَا لِأَبِي الزُّبَيْرِ مِنْ وَجْهِ
غَيْرِ بِذَا وَبِمِثْلِهِ لَا تَقُومُ حُجَّةٌ وَاخْتَلَفَ عَلَيْهِ فِيهِ-
قَالَ الشَّيْخُ وَرُوِينَا عَنْ عَلِيٍّ :أَنَّهَا تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ وَفِي

رِوَايَةٍ :لِكُلِّ صَلَاةٍ-

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ-

وَفِي رِوَايَةٍ :لَمَّا اشْتَدَّ عَلَيْهَا الْغُسْلُ أَمْرًا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ

، الصَّلَاتَيْنِ ،

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَنْسِ بْنِ مَالِكٍ :تَغْتَسِلُ مِنْ طَهْرٍ إِلَى طَهْرٍ-

وَفِي إِحْدَى الرِّوَايَاتِ عَنْ عَائِشَةَ كَذَلِكَ ، وَفِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ

كُلَّ يَوْمٍ غُسْلًا-

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ :الْوَضُوءُ

لِكُلِّ صَلَاةٍ-

وَفِيمَا أَجَازَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ رِوَايَتَهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي

الْعَبَّاسِ عَنِ الرَّبِيعِ عَنِ الشَّافِعِيِّ قَالَ :وَفِي حَدِيثِ حَمْنَةَ أَنَّ

النَّبِيَّ ﷺ - قَالَ لَهَا ((:إِنْ قَوَيْتِ فَاجْمَعِي بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ

بِغُسْلٍ ، وَبَيْنَ الْمَغْرَبِ وَالْعِشَاءِ بِغُسْلٍ وَصَلَّى الصُّبْحَ

بِغُسْلٍ))- وَأَعْلَمَهَا أَنَّ أَحَبَّ الْأَمْرَيْنِ إِلَيْهَا وَأَنَّ يُجْزئَهَا

الْأَمْرُ الْأَوَّلُ أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ الطَّهْرِ مِنْ

الْحَيْضِ ، ثُمَّ لَمْ يَأْمُرْ بِهَا بِغُسْلِ بَعْدَهُ. قَالَ : وَإِنْ رُويَ فِي
الْمُسْتَحَاضَةِ حَدِيثٌ (مُطْلَقٌ) (فَحَدِيثُ حَمْنَةَ بَيْنَ أَنَّهُ
اخْتِيَارٌ وَأَنَّ غَيْرَهُ يُجْزَى مِنْهُ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی
کتاب : پاکی کا بیان
باب : ۲۵ (باب غُسْلِ الْمُسْتَحَاضَةِ
حدیث نمبر : 1663

:ترجمہ

(۱۶۶۴) (الف) (سیدہ فاطمہ بنت قیسؓ سے روایت ہے کہ
انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے مستحاضہ کے متعلق سوال کیا :
آپ ﷺ نے فرمایا : اپنے حیض کے دنوں میں بیٹھی رہے گی،
گی، پھر ہر طہر کے لیے غسل کر، تنہائی اختیار کرے اور
نماز پڑھے۔

(ب) (ابوبکر بن اسحاق کہتے ہیں کہ جعفر بن سلیمان
محل نظر ہے۔ ابن جریج اور ابو زبیر کی اس سند کے علاوہ
علاوہ کوئی دوسری حدیث نہیں اور اس جیسی روایات قابل
حجت نہیں۔ اس میں اختلاف ہے۔

(ج) شیخ کہتے ہیں کہ سیدنا علیؓ سے روایت ہے کہ وہ ہر دن غسل کرے گی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ہر نماز کے لیے غسل کرے۔ ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ہر نماز کے وقت (غسل کرے گی)

(ر) ایک روایت میں ہے کہ جب ان پر غسل کرنا مشکل ہو گیا تو آپ ﷺ نے انہیں دو نمازیں جمع کرنے کا حکم دیا۔ (س) سیدنا ابن عمر اور انس بن مالکؓ سے روایت ہے ایک ظہر سے دوسرے ظہر تک غسل کرے گی۔ سیدہ عائشہؓ کی بھی ایک روایت اسی طرح ہے، دوسری روایت میں ہے کہ ہر روز غسل کرے گی۔

(ش) ایک دوسری روایت میں ہے جو سیدنا علیؓ، ابن عباسؓ اور سیدہ عائشہؓ سے ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو کرے گی۔

(ص) (امام شافعی) رح (سے سیدہ حمنہؓ کی حدیث میں منقول ہے کہ نبی ﷺ نے ان سے فرمایا: اگر تو طاقت رکھے تو ایک غسل کے ساتھ ظہر اور عصر کو جمع کرے، پھر ایک غسل کے ساتھ مغرب اور عشاء کو جمع کر لے اور صبح کی نماز ایک غسل کے ساتھ پڑھے۔ انہوں نے بتلایا کہ انہیں دونوں کاموں میں یہ زیادہ پسندیدہ تھا، اگرچہ انہیں پہلا حکم بھی کافی

تھا کہ وہ حیض سے طہر کے لیے غسل کرے۔ پھر اس کے بعد غسل کا حکم نہیں تھا۔ مستحاضہ والی روایت مطلق ہے۔ حدیث حمنہ میں اختیار ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Statement on the ghusl (ritual bath) of a woman suffering from istihadah

Hadith number: 1663

Translation:

(1663) (a) It is narrated on the authority of Fatimah bint Qais that she asked the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) about a woman who suffers from istihadah: The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: She will refrain during her menstrual period, then take a bath at every purification, separate herself and offer prayers.

(B) Abu Bakr ibn Ishaq says that there is a difference of opinion on Jafar ibn Sulayman. There is no other hadith of Ibn Jurayj and Abu Zubayr besides this chain of transmission and such narrations are not reliable. There is a difference of opinion on this.

(C) Sheikh says that it is narrated from Syeduna Ali (may Allah be pleased with him) that she will take a bath every day. According to another tradition, she should take a bath for every prayer. It is narrated on the authority of Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) that she will (take a bath) at the time of every prayer.

(D) It is narrated that when it became difficult for them to take a bath, the Prophet (peace and blessings of Allah be

upon him) ordered them to combine two prayers.

(E) It is narrated on the authority of Ibn Umar and Anas ibn Malik (may Allah be pleased with them): She will take a bath from one purification till the other. There is a similar narration from Ayesha, in another narration it says that she will take a bath every day.

(F) There is another narration from Syedna Ali, Ibn Abbas and Ayesha (may Allah be pleased with them) that she will perform ablution for every prayer.

(G) It is narrated from Imam Shafi'i (may Allah be pleased with him) in the hadith of Syedna Hamnah that the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said to her: If you have the strength to do so,

then combine Zuhr and Asr with one bath, then combine Maghrib and Isha with one bath and perform the morning prayer with one bath. He said that he liked this option more from the options, although the first command was enough for her to take a bath to purify herself from menstruation. Then there is no bath (mandatory on her) after that. The tradition about the woman suffering from istihadah is Mutlaq (absolute). There are options in the hadith of Hamnah.

[Sahih Li Ghayrihi (Authentic due to external evidence)]

Sunan Kubra Bayhaqi 1664

Arabic Text:

:أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ (١٦٦٥)
أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَيُّوبَ الْفَقِيهَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ
الْأَسْفَاطِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا زَائِدَةٌ عَنْ أَبِي حَصِينِ
عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا
، مَدَائِيٍّ وَكَانَ عِنْدِي ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ - فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ
فَأَمَرْتُ رَجُلًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ ((إِذَا وَجَدْتَ ذَلِكَ فَاغْسِلْ
ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ))-
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان

باب: مذی یا پیشاب میں مبتلا شخص کے احکام
حدیث نمبر: 1664

ترجمہ:

(۱۶۶۵) (سیدنا علی^{رض} سے روایت ہے کہ میں بہت زیادہ مذی والا تھا اور میری زوجہ نبی ﷺ کی بیٹی تھی،) اس لیے (میں نے آپ ﷺ سے) اس کے متعلق (پوچھنے سے شرم محسوس کی، میں نے ایک شخص کو حکم دیا تو اس نے آپ سے) (مذی کے متعلق) سوال کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جب تو یہ پائے تو اپنی شرم گاہ کو دھو اور وضو کر۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on a person suffering from madhi or urinary incontinence

Hadith number: 1664

Translation:

(1664) It is narrated on the authority of Ali

(may Allah be pleased with him) that I would emit a lot of madhi and my wife was the daughter of the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him), (therefore) I felt ashamed to ask him (about it). I ordered a man and he asked him (about madhi). The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: When you see it, wash your private parts and perform ablution.

[Sahih. Narrated by Bukhari 132, 178 and Muslim 303 and Nasai 152, 157 and 438 and Abu Dawud 207, 208, 209 and Ahmad 1/80, 82, 103, 124, 140]

Sunan Kubra Bayhaqi 1665

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ (١٦٦٦)
يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا ابْنُ
، جُرَيْجٍ عَنْ عَطَائٍ قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَجُلًا مَذَائٍ
فَكَانَ يَأْخُذُ الْفَتِيلَةَ فَيُدْخِلُهَا فِي إِحْلِيلِهِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مذی یا پیشاب میں مبتلا شخص کے احکام

حدیث نمبر: 1665

:ترجمہ

(۱۶۶۶) عطاء سے روایت ہے کہ سیدنا علیؑ بن ابی طالب بہت زیادہ مذی والے آدمی تھے، وہ اپنی پیشاب والی جگہ میں بٹی ہوئی بتی رکھ لیتے تھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on a person suffering from madhi or urinary incontinence

Hadith number: 1665

Translation:

(1665) It is narrated from Ata that Ali ibn Abi Talib (may Allah be pleased with him) was a man of who emitted a great deal of madhi, he would place a small lamp at the place he urinated from.

[Sahih]

Sunan Kubra Bayhaqi 1666

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَدْلُ (١٦٦٧)
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرِ الْمُزَكِّي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : إِنِّي لِأَجِدُهُ يَنْحَدِرُ مِنِّي مِثْلَ
الْخُرَيْزَةِ ، فَإِذَا وَجَدَ أَحَدَكُمْ ذَلِكَ فَلْيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَلْيَتَوَضَّأْ وَضُوئَهُ
لِلصَّلَاةِ يَعْغِي الْمَدَى-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقى

كتاب: پاكى كا بيان

باب: مذى يا پيشاب ميں مبتلا شخص كے احكام

حديث نمبر: 1666

:ترجمہ

(۱۶۶۷) سيدنا عمر بن خطاب رض سے روايت ہے كه مجھے محسوس ہوتا ہے كه مجھ سے گھونگے كى طرح كوئى چیز ن (مذى) (نيچے اترتى ہے، جب تم ميں سے كوئى يہ پائے تو وہ اپنى شرمگاہ كو دھوئے اور نماز جيسا وضو كرے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on a person suffering from madhi or urinary incontinence

Hadith number: 1666

Translation:

(1666) It is narrated on the authority of Umar ibn al-Khattab (may Allah be pleased with him) that I find it dropping from me like small beads. When you find that, wash your private parts and perform ablution as for prayer.

[Sahih. Narrated by Malik 2/54]

Sunan Kubra Bayhaqi 1667

Arabic Text:

وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ جُنْدُبِ (١٦٦٨)
:مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيِّ أَنَّهُ قَالَ
سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنِ الْمَذْيِ فَقَالَ: إِذَا وَجَدْتَهُ فَاغْسِلْ
ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ وَضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مذی یا پیشاب میں مبتلا شخص کے احکام

حدیث نمبر: 1667

:ترجمہ

(١٦٦٨) (جندب جو عبدالله بن عیاش بن ابی ربیعہ مخزومی
کے غلام تھے، فرماتی ہیں کہ میں نے سیدنا عبدالله بن عمر
سے مذی کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا: جب تو یہ
پائے تو اپنی شرم گاہ کو دھو اور نماز جیسا وضو کر۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on a person suffering from madhi or urinary incontinence

Hadith number: 1667

Translation:

(1667) Jundab, who was the slave of Abdullah ibn Ayyash ibn Abi Rabia

Makhzumi, says that when I asked Abdullah ibn Umar (may Allah be pleased with him)

about madhi, he said: When you find it, wash your private parts and perform ablution as for prayer.

[Daif (Weak). Narrated by Malik 2/55]

Sunan Kubra Bayhaqi 1668

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ عَلِيٍّ الْمُؤَدِّبُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ (١٦٦٩)
بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ
سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ حَدَّثَنِي
سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ
، خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ قَدْ سَلِسَ مِنْهُ الْبَوْلُ
فَكَانَ يُدَاوِي مِنْهُ مَا غُلِبَ ، فَلَمَّا غَلَبَهُ أَرْسَلَهُ قَالَ وَكَانَ يُصَلِّي
وَبُؤُ يَخْرُجُ مِنْهُ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مذی یا پیشاب میں مبتلا شخص کے احکام

حدیث نمبر: 1668

:ترجمہ

(1668) (خارجہ بن زید سے روایت ہے کہ زید بن ثابت کو لگاتار پیشاب آتا رہتا تھا وہ اس کا علاج کرتے رہے، لیکن افاقہ نہ ہوا جب وہ غالب آگیا تو) علاج (چھوڑ دیا۔ راوی کہتا ہے کہ وہ نماز پڑھتے تھے تو) بعض دفعہ (پیشاب) نکل رہا ہوتا تھا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on a person suffering from madhi or urinary incontinence

Hadith number: 1668

Translation:

(1668) It is narrated from Kharja bin Zayd

that Zayd bin Thabit used to urinate constantly and he was the one who used to treat it, but he did not recover from it and when it got worse such that it overtook him, he gave up (treatment). The narrator says that (sometimes) when he was praying, (urine) was coming out.

[Sahih. Narrated by AbdulRazzaq 582]

Sunan Kubra Bayhaqi 1669

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ (١٦٧٠)
إِسْحَاقَ الْفَقِيهَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ يَعْنِي
الْحَنْظَلِيَّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ
خَارِجَةَ بِنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: كَبِرَ زَيْدٌ حَتَّى سَلَسَ مِنْهُ
الْبَوْلُ فَكَانَ يُدَارِيهِ مَا اسْتَطَاعَ ، فَإِذَا غَلَبَهُ تَوَضَّأَ وَصَلَّى. وَقَدْ
رُويَ فِي مَعْنَاهُ حَدِيثٌ بِإِسْنَادٍ فِيهِ ضَعْفٌ.

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي
كتاب: پاکی کا بیان
باب: مذی یا پیشاب میں مبتلا شخص کے احکام
حدیث نمبر: 1669

ترجمہ:

(١٦٧٠) (خارجة بن زيد بن ثابت سے روایت ہے کہ سیدنا

زیدؓ کی عمر زیادہ ہوگئی تو ان کو لگاتار پیشاب آتا تھا، وہ اس کی دوا کرتے تھے جتنی طاقت رکھتے تھے، جب ان پر غالب آگیا تو انہوں نے وضو کیا اور نماز پڑھی۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on a person suffering from madhi or urinary incontinence

Hadith number: 1669

Translation:

(1669) It is narrated from Kharja bin Zayd bin Thabit that when Zayd was older, he used to urinate constantly. He used to take medicine for it as much as he could, when (the sickness) overtook him, he performed ablution and prayed.

[Sahih. Narrated by AbdulRazzaq 582]

Sunan Kubra Bayhaqi 1670

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ (١٦٧١)
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيِّ بِبَغْدَادَ
حَدَّثَنَا بِشَامٍ يَعْنِي ابْنَ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْمَلِكِ بْنُ مِهْرَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بِي بَأْسُورًا
وَكَأَنَّ تَوَضَّأْتُ سَأَلَ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ ((إِذَا تَوَضَّأْتَ فَسَأَلَ
مِنْ قَرْنِكَ إِلَى قَدَمِكَ فَلَا وُضُوءَ عَلَيْكَ)).

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مذی یا پیشاب میں مبتلا شخص کے احکام

حدیث نمبر: 1670

ترجمہ:

(۱۶۷۱) (سیدنا عبداللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے بواسیر ہے جب میں وضو کرتا ہوں وہ بہہ پڑتی ہے۔ نبی ﷺ نے فرمایا: " جب تو وضو کر لے تو وہ تیری شرمگاہ سے بہ کر تیرے پاؤں تک چلی جائے تب بھی تجھ پر وضو نہیں ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on a person suffering from madhi or urinary incontinence

Hadith number: 1670

Translation:

(1670) It is narrated on the authority of Abdullah bin Abbas (may Allah be pleased with him) that a man said: O Messenger of Allah! I have hemorrhoids that flow when I perform ablution. The Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) said: “When you perform ablution and (after performing ablution) it flows from your private parts to your feet, you do not have to perform (another) ablution.

[Daif, Munkar (Weak, Odd). Narrated by Al-Tabarani in Mujam Kabeer 582]

Sunan Kubra Bayhaqi 1671

Arabic Text:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصُّوفِيُّ أَخْبَرَنَا (١٦٧٢)
أَبُو أَحْمَدَ بْنِ عَدِيٍّ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا سُؤَيْدٌ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ
- عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ -
فَقَالَ)) : إِنَّ بِي النَّاصُورَ وَإِنِّي أَتَوَضَّأُ فَيَسِيلُ ((- ثُمَّ ذَكَرَ الْبَاقِيَ
بِنَحْوِهِ-

قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: بَدَأَ مُنْكَرٌ لَا أَعْلَمُ رَوَاهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ
غَيْرُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مِهْرَانَ-
قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: وَهُوَ مَجْهُولٌ لَيْسَ بِالْمَعْرُوفِ-

Urdu Translation:

سنن كبرى للبيهقي

کتاب: پاکی کا بیان

باب: مذی یا پیشاب میں مبتلا شخص کے احکام

حدیث نمبر: 1671

ترجمہ:

(۱۶۷۲) (الف) عبد الملک نے اسی سند سے بیان کیا ہے کہ

ایک شخص نبی ﷺ کے پاس آیا اور عرض کیا: مجھے

بو اسیر ہے اور جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو (خون) بہہ

پڑتا ہے۔ باقی حدیث اسی طرح ہے۔

(ب) ابو احمد کہتے ہیں: یہ روایت منکر ہے، مجھے معلوم

نہیں کہ عبد الملک بن مہران کے علاوہ کسی اور نے عمرو

بن دینار سے یہ روایت نقل کی ہو۔

(ج) ابو احمد کہتے ہیں: یہ مجہول راوی ہے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: Ruling on a person suffering from
madhi or urinary incontinence

Hadith number: 1671

Translation:

(1671) (a) Abdul Malik narrated from the same chain of transmission that a man came to the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) and said: I have hemorrhoids and whenever I perform ablution, (blood) starts to flow. The rest of the hadith is the same.

(B) Abu Ahmad says: This narration is munkar. I do not know of anyone other than Abdul Malik ibn Mehran has narrated this narration from Amr ibn Dinar.

(C) Abu Ahmad says: He is an unknown narrator.

[Daif, Munkar (Weak, Odd). Narrated by Ibn Adiy in Kamil 5/307]

Sunan Kubra Bayhaqi 1672

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَدْلُ (١٦٧٣)
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الْمُزَكِّي أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ بِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ
عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُمَرَ
بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعْدَ أَنْ صَلَّى الصُّبْحَ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي
طُعِنَ فِيهَا عُمَرُ فَأَوْقِظَ عُمَرُ فَقِيلَ لَهُ الصَّلَاةُ الصَّلَاةُ الصُّبْحُ.
فَقَالَ عُمَرُ : نَعَمْ وَلَا حَظٌّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ. فَصَلَّى
عُمَرُ وَجُرْحُهُ يَتَعَبُ دَمًا.

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: جس شخص کے خون میں سے نکسیر اور زخم غالب

آجائے تو وہ کیا کرے

حدیث نمبر: 1672

:ترجمہ

(۱۶۷۳) مسور بن مخرمہ سیدنا عمر بن خطابؓ کے پاس

اس واقعہ کے بعد تشریف لائیںجب رات میں عمرؓ کو

خنجر مارا گیا تھا، انہوں نے صبح کی نماز پڑھائی، عمرؓ کو

کو بیدار کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ صبح کی نماز! سیدنا

عمرؓ نے فرمایا: ہاں جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس کا اسلام

میں کوئی حصہ نہیں، سیدنا عمرؓ کے نماز پڑھی اور ان

کے زخم سے خون بہہ رہا تھا۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: What should a person do if

hemorrhage and wounds prevail in his blood
Hadith number: 1672

Translation:

(1672) Masur ibn Mukhramah visited Umar ibn al-Khattab after Umar was stabbed during the night, he led the people in the morning prayer. Umar was awakened and told to offer the morning prayer. Syeduna Umar (may Allah be pleased with him) said: Yes, he who skips the prayers has no part in Islam. Umar then prayed and his wound was bleeding.

[Sahih. Narrated by Malik 2/51]

Sunan Kubra Bayhaqi 1673

Arabic Text:

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ (١٦٧٤)
بْنِ حَيَّانَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ
عَامِرٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَخْبَرَنِي شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي
كَثِيرٍ عَنْ عِكْرَمَةَ فِي الرَّاعِفِ لَا يَرْقَأُ: يَسُدُّ أَنْفَهُ وَيَتَوَضَّأُ
وَيُصَلِّيَ-

قَالَ الْوَلِيدُ وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ نَمِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ
شِهَابِ الزُّهْرِيِّ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ. آخِرُ كِتَابِ الطَّهَّارَةِ وَالْحَيْضِ-

Urdu Translation:

سنن کبریٰ للبیہقی

کتاب: پاکی کا بیان

باب: جس شخص کے خون میں سے نکسیر اور زخم غالب آجائے تو وہ کیا کرے

حدیث نمبر: 1673

:ترجمہ

(۱۶۷۴) (سیدنا عکرمہ ^{رض} اس نکسیر کے متعلق بیان فرماتے ہیں جو رکتی نہیں کہ وہ اپنی ناک کو بند کر لے، پھر وضو کرے اور نماز پڑھے۔

English Translation:

Sunan Kubra of Bayhaqi

Book: Statement of Purity

Chapter: What should a person do if hemorrhage and wounds prevail in his blood

Hadith number: 1673

Translation:

(1673) Ikrimah says about the type of

hemorrhage which does not stop (oozing out), he should close his nose, then perform ablution and pray.

[Hasan (Fair)]

THIS IS THE END OF THE BOOK OF
PURITY.

THE NEXT BOOK IS THE BOOK OF
PRAYER INSHALLAH
MAY ALLAH ACCEPT IT FROM US